

اسالیب. الاسلوب: ناک کی بلندی اور اسی سے ہے "انفہ فی اسلوب" اس کی ناک دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ متکبر و مغرور کے لئے کہا جاتا ہے۔

سَلَّتْ (ض ن) سَلَّتْنَا المعنی: آنتوں کو ہاتھ سے نکالنا۔۔۔۔۔ الشَّعْرُ او الراس: بال یا سر موٹنا۔۔۔۔۔ المرأة الخضاب عن يدها:۔۔۔۔۔ چھڑا دینا۔ آتار دینا۔۔۔۔۔ الشئ: کاشنا۔

..... ہ: کوڑے مارنا جیسے "سلته مائة سوط" اس نے اس کو سو کوڑے مارے۔۔۔۔۔ بسلحه: بیٹ کرنا۔ (..... واستلت) الفضة: پیالہ کو انگلی سے چاٹنا۔ استلت: چپکے سے بے خبری میں نکل جانا۔ السلت: جو یا بغیر حچکے کا جو۔

شيلم: یورپی نگد م جس کی رونوی زرد پکتی ہے۔ السلانة: وہ چیز جو دور کی جائے یا نکالی جائے۔ پیالہ کو صاف کرنے کے لئے انگلی سے جو چاٹنا جائے۔ کہا جاتا ہے "ذهب مني فلانة و (سلتة) وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔

الاستت وہ شخص جس کی پوری ناک کٹ گئی ہو۔ مؤنث سلانة ج سلنت. امرأة سلانة: مہندی نہ لگانے والی عورت۔

المسلون: مفع۔ سر موٹا ہوا۔ جس سے گوشت علیحدہ کر دیا گیا ہو۔

السلم: بلا۔ تختی۔ بھوت۔ سخت قضا سالی۔ بہت بوڑھا اونٹ۔ تھوڑی اور حقیر چیز۔ کہا جاتا ہے "ما اصاب منه سلتما" اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔

سَلَج (س) سَلَجًا و سَلَجَانًا اللقمة: لقمہ ٹکنا (..... و سَلَحَتْ (ن) سَلُوخًا) الابل: سگ گھاس کے چرنے سے پیٹ چلنا۔ سَلَج الفصيل الناقة: دودھ پینا۔

تَسَلَج: الطعام: آسانی سے ٹکنا۔ (..... و استسج) الشراب: ڈگ ڈگ کے پینا۔

السلاج: عطيہ۔

واستلبه ثوبه: کپڑے کو چھین لینا۔

سَلِب (س) سَلَبًا: ماتم کے کپڑے پہننا۔

اسَلِبَت: الشجرة: پتے یا پھل گر جانا۔

(..... و سَلَّت) الناقة او المرأة: مرے ہوئے بچے والی ہونا یا ناقم بچے کرنا۔

صفت (سَلِب و سَلُوب) ج سَلْب و سَلَاب و (سَالِب و مُسَلِب و مُسَلَب و مُسَلَب) بہت تیز چلنا (اس کو عموماً ناقہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے)۔

السلب: س۔ ہلکی تیز چال۔ فرس سَلْب القوائم: تکیں ٹانگوں والا گھوڑا۔

السلب: چھینی ہوئی چیز۔ تم کہتے ہو "أخذت سلب القتيل" اس نے مقتول کے سامان کو لیا۔ ج اسلاب۔ لبا درخت۔۔۔۔۔

الذبيحة:۔۔۔۔۔ ذبح شدہ جانور کا چروا یا پانچہ اور پیٹ۔

..... من القصبة: زکھل کا چھلکا۔ لسلب: درخت کا ریشہ یا چھلکا جس سے رسیاں بنائی جاتی ہیں۔ السلسية: ہیروٹ میں پیدا ہونے والا پودا جس کے پتے ذرہ جیسے اور پھول خود جیسے ان کو بطور سلا دکھاتے ہیں۔

السلب: لبا۔ ہلکا۔ السلية: برہنگی۔

السلاب: بہت چھیننے والا۔ رسیوں کے لئے درخت سے ریشہ نکالنے والا۔

السلاية و السلتون: بہت چھیننے کا عادی (یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے ہے)۔

السلاب: ماچی سیاہ لباس۔ کہتے ہو "ليست النكحلي السلاب" تم کردہ فرزند عورت نے ماچی لباس پہنا۔ ج سَلْب۔

السلب: بل کا ہتھا۔ السلب: عقل یا مال کھوینا ہوا۔ شجرة سلب: درخت جس کی شاخیں اور پتے دور کر دیئے گئے ہوں۔ ج سَلْبِي۔

الاسلوب: طریقہ۔ راستہ۔ روش۔ ج

بجھیرا۔ ج سَلَان۔

السليلة: بیٹی۔ پیٹھ کے گوشت کا لبا نکلا۔ ایک قسم کی لمبی پھلی۔

السلالة: کسی چیز سے نکالا ہوا۔ خلاصہ نسل و ولد۔ کہا جاتا ہے "هو سلاله طيبة و من سلاله طيبة"۔

السال: فا۔ چور۔ وادی میں پانی پینے کی تنگ جگہ۔ ج سَلَان و سوال۔

السال: نوکری بنانے والا۔ چور۔ الاسل: چور۔

المسلة: سوجا۔ ج۔ مسلات و مسال مسلة فرعون: لبا مربع ستون جو فرعون مصر کی یادگار ہیں۔

المستسلة: علم حساب مقرر قاعدہ مسلسل اعداد کا مجموعہ جب کہ بعد والا عدد گنا کیا جائے تو پہلے کے برابر ہو گا ایک زائد ہو گا۔ جیسے ۳۱۵'۳۱۔

السلسلة المستسلة: وہ جس کے حدود کے عدد اتہانہ ہو اور اس حدود کے مجموعہ پر غور کیا جائے گا جب مجموعہ ختم والا ہو گا تو اس کا نام سلسلہ متقاربہ بولا جائے گا۔ وگرنہ سلسلہ دور والا ہو گا۔

سَلَا (ف) سَلًا و اسْتَلًا: السمن: مٹی صاف کرنا۔ سَلًا السمن: تل سے تیل نکالنا۔ کہا جاتا ہے "سلاه مائة سوط" اس نے اس کو سو کوڑے مارے۔ سَلًا الجذع: تنہ سے کانٹے دور کرنا۔

السلاء: سلاء کا اسم۔ صاف کیا ہو گی۔ ج اسلنة۔

السلاء: کھجور کے درخت کا کاٹنا۔

واحد (سلاءة) درخت خرما کے کانٹے کی مانند تیر کا پھل۔ ایک قسم کا پرندہ۔

سَلت (ن) سَلَبًا و سَلَبًا: الشئ: زرد پختی چھیننا۔۔۔۔۔ الفضة او الشجرة: چھیننا۔۔۔۔۔ السيف: تلوار تنگی کرنا۔ صفت

(سَالِب) ج سَلَاب و سَالِيُون مؤنث سَالِيَةٌ ج سَالِيَات و سَوَالِب (.....)

(اسودہ) کہتے ہیں اس کی صفت سالخہ نہیں آتی اور صفت کے موقع پر سالخ کا تشبیہ بھی نہیں آتا۔ بلکہ کہا جاتا ہے اسودہ سالخ و اسودان سالخ اور جمع کے لئے اسودہ سالخہ و سوالخ و سالخ و سلخہ۔

الاسلخ پیشانی پر گنجا۔ مہر اسرخ۔
السالخ بہت کھال اتارنے والا۔
المسلخ کھال اتارنے کی جگہ۔
النخل جس سے کچی بھجوریں گر جائیں۔
السلور سمندر کی ایک بھجلی۔

سلسلس (سلسا) سلسا۔ النخلۃ و رخت
خرما کی شاخ کی جڑوں کا گر جانا۔
صفت (سلس) اور آگریہ بار بار ہوتا ہوا تو ایسے
درخت کو (سلسا) کہتے ہیں۔
الخشبۃ لکڑی کا بوسیدہ ہونا۔

سلس (س) سلسا و سلاسة و
سلسوسا آسانی سے تابع ہونا۔ صفت
(سلس) و سالس) کہا جاتا ہے
"سلس بحقیقی" اس نے آسانی سے میرے
حق کو دے دیا۔

سلس سلاسا و سلسا و سلسا کی
عقل کا زائل ہونا۔ صفت (سلسوس)
سلس الخلی بزیر کو جو ہر سے مزین و
آراستہ کرتا۔

اسلست النخلۃ و رخت خرما کی شاخ کی
جڑوں کا گر جانا۔ اسلس قیادہ: نرم اور
آسان بنانا۔

تسلس الشئ ٹٹکانا۔
السلس بن۔ خرمرہ وغیرہ پر رونے کا دھاگا۔
کان کی بالی۔ ج سلسوس السلسوس :
اوڑھنیاں۔

السلس بن۔ نرمی۔ تابعداری۔ پیشاب کا نہ
رکتا۔

السلس آسان۔ نرم۔ تابعدار۔ مسماز
سلس: بٹنے والی میخ۔ شراب سلس :

مسالخ ہتھیار بند لوگ۔

سلح۔ سلح الطریق راستہ کا
سیدھا واضح دراز ہونا۔ صفت (مسلح)
السلحوت بیباک عورت۔

السلحفاة و السلحفاة و السلحفاة
و السلحفي و السلحفية۔ کچھو۔ ج
سلاحف (زکو غلیم کہا جاتا ہے)

سلخ (ض) سلخا الخروف بکری
کے بچے کی کھال اتارنا۔۔۔۔۔ المرأة
ذرعها عورت کا قمیص اتارنا۔۔۔۔۔ الحية
سانپ کا کینچل سے ٹکنا۔۔۔۔۔ اللہ النهار من
اللیل دن کو رات سے علیحدہ کرنا۔ جدا
کرتا۔۔۔۔۔ الشهر: مہینہ ختم ہونا۔۔۔۔۔

الرجل الشهر آخر تک گزارنا۔
سلخ الحر جلدہ گرمی کا کھال کو □ □
آتار دینا۔

انسلیخ من ثیابہ نکا ہونا۔۔۔۔۔ الشهر
من سنۃ کزرتا۔۔۔۔۔ النهار من اللیل
علیحدہ ہونا۔۔۔۔۔ الحية من قشرها سانپ
کا کینچل سے نکل جانا۔

تسلخ جلدہ کھال کا اتر جانا۔
انسلیخ اسلخا۔ الرجل پہلو پر لیٹنا۔
سلخ الشهر و (مسنلخه) مینے کا
آخری دن (سلخ الحية) و سلخها و
سلختها سانپ کی کینچل۔ السلیخ جانور
کی آڑی ہوئی کھال۔

السلخ دھاگا جو ٹٹکے کے اوپر ہو۔
السلیخ جس کی کھال اتاری گئی ہو۔ کہا جاتا
ہے "شی سلخ ملیخ" بے مزہ چیز۔

السلاخۃ فی الشئ بے مزہ ہونا۔
السلیخۃ فرزند۔ بان کے پھل کا تیل۔
گاڑھا ہونے سے پہلے۔۔۔۔۔ من شجر
الرمث و نخوة خشک لکڑی جس پر پتے
وغیرہ کچھ نہ ہوں۔

السلیخ فا اونٹوں کی کھلی۔ سالخ
کالے سانپ کے لئے صفت ہے اس کے لئے کہ وہ
ہر سال کینچلی چھوڑ دیتا ہے۔ مادہ سانپ کو

السلیخۃ سمندر کی کینچلی۔ ج سلخ۔
السلیخ ایک قسم کی گھاس جس کو اونٹ چرتا
ہے۔ ج سلالیخ۔
السلیخان جلق۔

السلیخ من الاکل لذیذ کھانا جو آسانی
سے نگلا جائے۔

السلیخ و السلیخ من الطعام۔
خوش مزہ خوراک۔

السلیخ شلغم۔ کھئی داڑھی لیے جڑوں
والا سر۔ بہت پالی والا پرانا کنواں (.....)
السلاجہ لمبا ٹھوڑا یا تیر کا لمبا پھل یا لمبا
آدی۔ پوزھا اونٹ۔ ج سلاجہ۔

سلخ (ف) سلخایت کرنا۔ پاختہ کرنا
(یہ پرندہ اور چوپائے کے لئے خاص ہے۔
انسان کے لئے اس کا استعمال مجاز ہے۔)

سلخۃ ہتھیار پہنانا۔۔۔۔۔: السیف و
بالسیف کسی کو تلوار باندھنا.....
و اسلخہ ہتھیار بند بنانا۔
تسلخ ہتھیار بند ہونا۔

السلیخ س۔ پتلا پاختہ۔ ج سوح و
سلیخان۔

السلیخ ایک قسم کا شیرہ ہے جس کو گھی کی
مٹک پر ملتے ہیں۔

السلیخ تالابوں میں بارش کا پانی۔
السلیخ ج سلخان و (السلیخ) چکورا
بچہ۔

السلیخ و السلیخان ہتھیار۔
السلیخ فا۔ ہتھیار بند (فاعل ذیکذا ہے۔
مثل نامیر و لابن کے۔)

السلاجہ ہتھیار (نذرو مؤنث) ج اسلیخۃ
و سلخ و سلخان۔
السلاحذار۔ ہتھیار بند۔ ج سلاحذارۃ
(کہ فارسی ہے سلاح اور دار سے مرکب
ہے۔)

السلاح پاختہ۔ اسپال۔
السلیخ قاصد۔ پیغمبر (سریانیہ)
المسلخۃ میگزین۔ (دید بانی کی جگہ) ج

بھیڑنے کی کنیت ہے۔
 سَلْعَنُ فِی عَذْوِهِ تَبَزُّوْثًا۔
 سَلْعُ (ف) سَلْعًا رَاسُهُ: کسی کے سر کو چکل دینا۔
 سَلَعَتْ (ف) سُلُوْعًا الْبَقْرَةَ او الشَّاةُ: گائے یا بکری کے چکل کے دانت لگانا۔
 صَفَتْ (سَالَعٌ) الْاَسْلَعُ: گہرا سرخ۔ مرض برص والا۔ لَبِئِمٌ مِّنَ اللَّحْمِ: کچا گوشت۔
 سَلَعْفَةٌ: لگانا۔
 سَلَفٌ (ن) سَلْفًا الْاَرْضُ: زمین کو زراعت کے لیے ہنگے سے ہموار کرنا۔
 الْمَرْادَةُ: توشہ دان پر تیل ملانا۔
 سَلَفٌ (ن) سَلْفًا و سُلُوْفًا: گزرا۔ آگے ہونا۔ تم کہتے ہو "سَلَفٌ لَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ" اس سے عمل صالح کا صدر پہلے ہوا۔
 و "سَلَفُ الْقَوْمِ": وہ قوم سے آگے ہو گیا۔
 سَلَفَةٌ: مَالًا: فرض دینا الشَّيْءُ: پیٹنگی دینا الصَّيْفُ: مہمان کے سامنے ناشتہ پیش کرنا الرَّجُلُ: سلفہ کھانا۔ (دیکھئے سلفہ)
 اَسْلَفُ الْاَرْضُ: زمین کو زراعت کیلئے ہنگے سے ہموار کرنا مَالًا: قرض دینا۔
 فِي الشَّيْءِ: قبضہ کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی کو کوئی چیز سپرد کرنا۔ اَسْلَفْتُ الْمَرْأَةَ: پینتالیس سال کی ہونا۔ صَفَتْ (مُسْلَفٌ) یہ عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہے۔
 سَالَفَةٌ فِي الْأَمْرِ: برابری کرنا و فِی الْأَرْضِ: ساتھ ساتھ چلنا الْجَمَلُ: آگے بڑھنا۔
 تَسَلَّفُ و اسْتَلَفُ الْمَالَ: قرض لینا۔
 تَسَلَّفُ الرَّجُلُ: سلفہ کھانا (دیکھئے سلفہ)
 تَسَالَفُ الرَّجُلَانِ: ہم زلف ہونا۔ یہ دونوں مرد (سلفان) کہے جاتے ہیں۔
 اسْتَلَفُ الْمَالَ: قرض لینا۔
 السَّلْفُ: سر۔ توشہ دان۔ ن سُلُوْفُ و اَسْلَفُ: چھڑا۔ سَلْفُ الرَّجُلِ: ہم زلف

نِ اَسْلَافٍ۔
 السَّلْفُ: قرض۔ ہر عمل صالح پیش کردہ۔ السَّلْفُ: گزشتہ آباء و اجداد۔ و مَذَاهِبُ السَّلْفِ: متقدمین کے مذاہب۔
 نِ اَسْلَافٍ۔
 السَّلْفُ: چھڑا۔ ہم زلف۔ رَجُلٌ سَلَفٌ: گزرا ہوا سر۔ نِ اَسْلَافٍ: اَرْضٌ سَلَفَةٌ: زمین و رختوں والی زمین۔
 السَّلْفُ: چھڑا کا چوزہ۔ نِ سَلْفَانِ و سُلْفَانِ۔
 السَّلْفَةُ: ہر وہ چیز جس کو غذا سے پہلے وقت گزارنے کے لئے کھایا جائے۔ کھانا جس کو آنے والے کے لیے محفوظ رکھیں۔ جماعت متقدمین۔ چری موزے کا ستر جو باریک چڑے کا ہو۔ نِ سَلْفٌ: ہنگے سے ہموار کی ہوئی زمین۔
 کہا جاتا ہے "جَاوَزُوا سَلْفَةَ سَلْفَةٍ" وہ کیے بعد دیگرے آئے۔
 السَّلَافُ و السَّلَافَةُ: نچوڑنے سے پہلے جو خود بخود ہے (یہ بہترین شراب ہے) سَلَفُ الْعَسْكَرِ: مقدمہ لشکر۔ سَلَافَةٌ كَلْبٌ شَيْءٌ عَصْرَتُهُ: ہر نچوڑی ہوئی چیز کا ابتدائی حصہ۔
 نِ سَلَفَاتٍ۔
 الْاَسْلُوْفَةُ: دامادی۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ اَسْلُوْفَةٌ" ان کے درمیان رشتہ داری ہے۔
 السَّالِفُ: فا۔ گزرا ہوا۔ پیش رفتہ۔ تم کہتے ہو "كَانَ ذَلِكَ فِي سَالِفِ الْاَيَّامِ" یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ نِ سَلْفٌ و سَلَفٌ: السَّالِفَةُ: گزری ہوئی۔ گردن کا وہ حصہ جو بال لٹکنے کی جگہ ہے۔ سَالِفَةُ الْفَرَسِ: گردن کا اگلا حصہ۔ نِ سَوَالِفٍ۔
 السَّلُوْفُ: مِزِجُ الْاَبِلِ: گھاٹ پر جاتے ہوئے آگے آگے رہنے والا اونٹ۔ مِزِجُ الْخَيْلِ: تیز رفتار گھوڑا۔ سَنَهُمْ سَلُوْفٌ: لبا تیز۔ نِ سَلْفٌ۔
 السَّلِيفُ: پیش رو۔ جماعت متقدمین۔ نِ سُلُوْفٌ۔
 السَّلِيفُ: پینتالیس سالہ عورت۔

المُسْلَفَةُ: وہ اوزار جس کو زمین ہموار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس کا نام بیگا۔ پٹیا۔ سرواں ہے۔
 الْمُسْلُوْفَةُ: ہموار کی ہوئی زمین۔
 سَلَقٌ (ن) سَلَقًا الْبَيْضُ او الْبَقْلُ: انڈے یا سبزی اُبالنا۔ جو س دینا۔ سَلَقَهُ بِالْكَلَامِ: بدزبانی سے تکلیف پہنچانا۔ قرآن مجید میں ہے "سَلَقُواكُمْ بِالْحَسَنَةِ حَدَادًا" تم کو وہ لوگ تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا بِالسُّوْفِ: مار کر کھال اُدھیر دینا۔ سَلَقَ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ: گوشت ہڈی سے جدا کرنا۔ طَلَحَهُ كَرْنَا الشَّيْءُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: گرم پانی سے بال اوان وغیرہ دور کرنا الدَّابَّةُ الرَّامِكُ: باطن ران کو چھیل دینا الْمَرْادَةُ: توشہ دان پر تیل ملانا الْبِرْوُ الْبَيَاتِ: جلادینا الرَّجُلُ: چت پچھڑانا۔ تم کہتے ہو "اَخَذْتُهُ فَسَلَقْتُهُ لِقَفَاهُ" میں نے اس کو پکڑا اور چت پچھڑا لِقَفَاهُ فِي الْعُرْوَةِ: کسی چیز کے دستے میں لکڑی لگانا الْقَدَمُ فِي الطَّرِيقِ: قدم کاراستے میں نشان ڈالنا۔
 الرَّجُلُ: دیوار چڑھنا۔
 سَلَقَ السَّلِيفَةَ و عَلَيْهَا: سلیقہ پر پیدا کیا جانا۔
 اَسْلَقَ الْغَوْدُ فِي الْعُرْوَةِ: کسی چیز کے دستے میں لکڑی داخل کرنا۔ لگانا الرَّجُلُ: مادہ بھیڑنے کا شکر کرنا۔
 تَسَلَّقَ: چت سونا الْجِدَارُ: دیوار پر چڑھنا۔
 دِيْوَارٌ يَحْمَدُنَا عَلَيَّ فَرَّاشُهُ: دریا غم سے ترپنا۔ بے قرار ہونا۔
 اَسْلَقَ اللِّسَانَ: زبان کا چھل جانا۔
 سَلَقِيْتُهُ سَلَقَاءً: چت لگانا۔ سَلَقِيْتُهُ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔
 اسْتَلَقِي اسْتَلَقَاءً و اسْتَلَقِي اسْتَلَقًا: چت لگانا۔ فَعْلِي و افْعَلْنِي و افْعَلْنِي اوزان ملکہات ربانی سے ہیں۔
 السَّلَقُ: سر۔ (و السَّلَقُ) زخم کا داغ۔

الدلو ڈول بنانے سے فارغ ہونا اور مضبوط عمدہ بنانا۔

سَلِمَ عَلَيَّ: السلام عليك کہا د
من الآفة: محفوظ رکھنا، والی فلان: سپرد
کر دینا۔ سَلِمَ بِالْأَمْرِ: راضی ہونا الیہ
فرمانبردار ہونا الشئ: خالص کرنا۔ سَلِمَ
الشئ فسلمته: کسی کو کوئی چیز سپرد کرنا اور
اس کا قبول کر لینا۔

سَالَمَهُ: مصالحت کرنا۔

اسَلِمَ: فرمانبردار ہونا۔ دین اسلام اختیار
کرنا۔ سَلِمَ كَرْنَا الْعَدُوَّ: دشمن کو چھوڑ دینا۔
أَمْرُ الْهِيَ اللَّهُ: سپرد کر دینا اور تم کہتے ہو
"اسلمت و سلمتہ" جبکہ تم کسی کو چھوڑ دو
اس وقت سَلِمَ كَرْنَا كَوْنِي شَخْصًا تَكْلِيفًا بِمَنْجَانًا جَابِتًا
ہو۔

أَسْلِمَ: سانپ سے ڈسا جانا۔

تَسَلَّمَ: مسلمان بننا الشئ: قبضہ کرنا مند:
بیزار ہونا۔

تَسَالَمَ الْقَوْمُ: باہم مصالحت و موافقت
کرنا۔ تَسَالَمَتِ الْخَيْلُ: بغیر لڑے بھڑے
ساتھ ساتھ چلنا۔

اسْتَلِمَ الْحَجْرُ: چھونا (سلمتہ بمعنی پتھر
سے ماخوذ ہے) بوسہ دینا اور بسا اوقات پتھر کے
علاوہ دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا
ہے۔ جیسا کہ تم کہتے ہو "استسلمت يدہ"
میں نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا بوسہ دیا۔

الزُّرْخُ: خوشہ لگانا۔

اسْتَسْلِمَ: فرماں بردار ہونا۔

تَسَلَّمَ: مسلمان کہلانا (یہ مسلم سے ماخوذ
ہے جیسے مکین سے تَسَلَّمَنَ)

السَّلْمُ: ایک گوشہ والا ڈول۔ سَلِمَ
وَسَلِمَ: سلم میں ایک لغت۔

السَّلْمُ: صلح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "انا

سَلِمَ لِمَنْ سَالَمَنِي وَحَرْبٌ لِمَنْ
حَارَبَنِي" میں صلح کرنے والوں کے لیے صلح
جو اور لڑنے والوں کیلئے لڑا کا ہوں۔ قَوْمٌ سَلِمٌ
و سَلِمٌ: صلح کرنے والی قوم۔ سلامتی۔

سَلَكَ (ن) سَلَكًا و سَلَوًا: المکان
داخل ہونا الطَّرِيقُ: راستہ کی اتباع کرتے
ہوئے چلنا (وَأَسْلَكَ) الشئ فی الشئ:
کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا۔

سَلَكَةُ الْمَكَانِ وَأَسْلَكَةُ الْمَكَانِ وَفِيهِ
وَعَلَيْهِ: کسی جگہ میں داخل کرنا۔ وَمِنْ
كَلَامِ الْمُؤَلِّدِينَ: سَكَلَ الْعَزَلُ: سوت
کو چرخہ پر چڑھانا۔

إِنْسَلَكَ: فی الشئ: کسی چیز میں داخل
ہونا۔

السَّلَكُ لَزِي: سَلَكٌ و سَلَوٌ: اسلاك
السَّلَكُ: سبگ خوار یا چکور کا چوزہ۔ مَوْنَتُ
سَلَكَةٍ: سَلَكَانُ

السَّلَكَةُ: سَلَاكٌ كَادِحَاكٌ: سَلَكٌ و سَلَجٌ
أَسْلَاكٌ و سَلَوُكٌ

السَّلَكِيُّ: نیزہ کی سیدھی ضرب۔ اور کہا جاتا
ہے "أَمْرُهُمْ سَلَكِي" یعنی ان کا معاملہ ایک
طریقہ پر ہے۔

المَسْلَكُ: راستہ۔ سَلَكٌ مَسَالِكُ
المَسْلَكَةُ: دھجی جو پیڑے کے کنارے سے
پھاڑی جائے۔

المَسْلَكَةُ: چرخہ۔ (مولد)

المَسْلَكُ: نحیف و لاغر۔

سَلِمَ (س) سَلَامَةً و سَلَامًا: مِنْ عَيْبٍ
أَوْ آفَةٍ: نجات پانا۔ بری ہونا لَهْ الْمَالِ:
مخصوص ہونا اور کہتے ہیں "لَا بَدَى تَسَلَّمَ مَا
سَمَانٌ كَذَا" یعنی نہیں۔ تم ہے اس ذات کی
جو تمہیں محفوظ رکھتی ہے ایسا نہیں تھا اور
مخاطب کے تشبیہ و جمع آنے کو تائید کے لحاظ

سے "بَدَى تَسَلَّمَانَ و تَسَلَّمُونَ و
تَسَلَّمِينَ" استعمال کرتے ہیں اور علیٰ ہذا
القياس "أَذْهَبَ بَدَى تَسَلَّمَ" یعنی
سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

سَلِمَتُهُ (ن) سَلَمًا: الحية: سانپ کا
ڈنسا۔

سَلَمَ (ض) سَلَمًا: الجلد: کھال کو سلم
درخت کے پتوں سے دباغت دینا۔

و السلق بھوار و عمدہ زمین۔ کشادہ راستہ۔ سَلَقٌ
و سَلَقٌ و سَلَقَانٌ و سَلَقَانٌ

السَّلَقُ: چتدر۔ پانی پینے کی جگہ۔ بھیریا۔ سَلَجٌ
سَلَقَانٌ و سَلَقَانٌ

السَّلَقَةُ: مادہ بھیریا۔ سَلَجٌ سَلَقٌ و سَلَقٌ
السَّلَقَةُ: زبان دراز عورت۔ نڈی جو کہ
انڈے دے پھلی ہو۔

السَّلَاقَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: دو ہنر مارنے والی۔
دو ایلا کرنے والی عورت۔ سَلَجٌ سَوَالِقٌ

السَّلَاقُ: زبان کی جڑ کی پھسیاں یادانت کی
جڑوں کی خراش۔ پھولوں کی موٹائی آسرخی و
زخم کے ساتھ۔

السَّلَاقَةُ: بدزبانی۔

السَّلَاقَةُ: دواؤں کا جوشاندہ۔

السَّلَاقِي: راستہ پر قدم وغیرہ کے نشانات۔

السَّلَوِيُّ و السَّلَاقِيُّ: مِنَ الْكِلَابِ:
ایک خاص قسم کا شکاری کتا۔

السَّلَوِيَّةُ: السَّلَوِيُّ: السَّلَوِيُّ: السَّلَوِيُّ: السَّلَوِيُّ:
کپتان کے بیٹھے کی جگہ۔ السَّلَوِيَّةُ: مِنَ
الذُّرُوعِ: وہ زرہیں جو یمن کے ایک علاقہ
سَلَوِقُ کی جانب منسوب ہیں۔

السَّلَاقُ: اسم مبالغہ۔ حَطِيبٌ (سَلَاقٌ و
مَسَلِقٌ و مَسَلَقٌ) بلیغ بکچرار۔

السَّلَاقُ: نصرائیوں کی ایک عید۔ (کلمہ
سریانیہ ہے۔)

السَّلِيقُ: چھوٹے درختوں کے گے ہوئے
پتے۔ چھتے کی لمبائی میں شہد کی ایک مقدار۔

سَلِيقُ الطَّرِيقِ: راستہ کا پہلو۔ سَلِيقٌ
السَّلِيقَةُ: طبیعت۔ سَلِيقٌ: آباہی ہوئی
بزری۔

السَّلِيقِيَّةُ: سَلِيقُ كِي جَانِبِ مَسْبُوبٍ: کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلِيقِيَّةِ" وہ بغیر کیے
ہوئے بالطبع گفتگو کرتا ہے۔ و "أَضْطَرَبَ
كَلَامَ الْعَرَبِ وَ غَلَبَتِ السَّلِيقِيَّةُ" یعنی وہ
لوگ سلیقہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بغیر اس کے
کہ اعراب کا قصد کریں اور غلطی سے چہنچے کا
ارادہ کریں۔

اسلت الشاة: کبریٰ سے جلی نکالنا۔
السلی: جلی (وہ جلی جس میں سچے پلٹا ہوا
ہوتا ہے اور اگر وہ پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہے تو سچے
اور ماں دونوں مر جاتے ہیں) ج اسلاء۔
"انقطع السلی فی البطن" اس وقت
بولتے ہیں جبکہ سارے خیلے ختم ہو جائیں اور
مصیبت بڑھ جائے۔ "ہو اکمل السلاء"
وہ خیس وکینہ ہے۔

السلیلوید: وہ مادہ جو کہ کافور اور روئی کے
ملائے سے سخت صاف ہر قسم کی صورت بنانے
کے قابل ہو جاتا ہے اس سے سختی وغیرہ بنائی
جاتی ہے۔

سَمَة (ن) سَمًا: زہر دینا الطعام: کھانے
میں زہر ڈالنا القارورف: بند کرنا الشی:
درست کرنا بیہما: صلح کرنا۔

الامر: آزمانا اور تک پہنچنا۔ سمہ
الغممۃ الیہ: مخصوص کرنا۔ سم الشی:
سب کو عام ہونا۔

سَمْت (ن) سَمُوَمَا: الريح: جھلنا۔
سمہ الیوم: دن کا سخت گرم ہونا یا گرم ہوا
والا ہونا البات: باسوم سے جھلنا۔ صفت
(مستوم)

سمہ الطعام: کھانے میں زہر ڈالنا۔
اسمہ اسمامہ الیوم: باسوم چلنا۔

السمہ والسمہ والسمہ: سوئی کا ناکہ۔ زہر۔ ج
سمامہ وسموم۔ سمہ الحمار: کتیر۔ سمہ
الفار: کھلیا۔ سمہ السمک: مائی زہرہ۔

(ایک دو کا نام) سمہ ساعة: فوراً ہلاک
کرنے والا زہر۔ کہا جاتا ہے "اصاب سمہ
حاجتہ" اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔
السمہ: ہر وہ چیز جو سمندر سے نکلے مثل سنگھ
گھونگا وغیرہ کے۔

السمتہ: قرابت۔ سمجھور کی چٹائی جس کو
درخت خرما کے نیچے بچھادیں تاکہ سمجھوریں اسی
پر گریں۔

زینت کے لیے پروئی ہوئی کوڑیاں۔ سمسمہ
و سممامہ

سَلْمِی
الاسلم: چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی
انگلی کے درمیان کی ایک رگ۔

الاسلام: س۔ بغیر کسی پس و پیش کے امر و
نہی کی فرمانبرداری کر لینا۔ مذاہب اسلام اور
کبھی مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

المسلم: دین اسلام کا پیرو۔ ج مسلمانوں
مؤث مسلمة: ج مسلمات۔
ارض (مسلمانوں) بہت درخت سلم والی
زمین۔

السلب: الفرس گھوڑے کا لمبا ہونا۔
السلب: لمبا۔ ج سلاہب و سلاہبہ
سلا سلوا سلوا و سلوا و سلوانا و
سلی سلی سلیا الشی و عند: بھول
جانا۔ تسلی پانا۔ بے غم ہونا۔

اسلی اسلاء: القوم: درندوں سے مامون
ہونا۔ اسلاء عن ہمہ: بے غم کر دینا۔
سلی تسلیا: شکست تسلی ظاہر کرنا۔ تسلی
پانا۔ کہا جاتا ہے "سلاء و اسلاء فسلوی"

اس نے اسے تسلی دی اور اسے تسلی حاصل
ہو گئی و اسلی) الیم: غم زائل ہونا۔
اسلت استلاء الشاة: موٹی ہونا۔
السلوۃ و السلوۃ تسلی۔ کہا جاتا ہے "ہو
فی سلوۃ من العیش" وہ فراخی و فارغ
البالی کی زندگی میں ہے۔ "اسقینی سلوۃ
من نفسک" یعنی میں نے تجھ سے وہ چیز
دی جیسی جس سے مجھے تسلی ہوگی۔

السوان: س۔ (و السلوۃ و السلوۃ)
ایک قسم کا مہرہ جس کو تعویذ کے طور پر یا نظریہ
سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
السلی: شہد۔ باعث تسلی۔ لوا۔ واحد
(سلوۃ)

المسلۃ: ہر وہ مقام جہاں پر تسلی زیادہ ہو۔
ہر وہ چیز جو باعث تسلی ہو۔
المسلی: فا۔ گھڑ دوڑ کا تیرا گھوڑا۔
سلیت تسلی سلی الشاة: ٹوٹی ہوئی
جیل والی ہونا۔ صفت (سلیا)

اسلام۔
السلم: سلامتی۔ تابعداری۔ قید۔ قیدی۔
ایک قسم کا کانٹا دار درخت جس کے پتوں سے
دباغت دی جاتی ہے اور اسی سے ذو سلم نام
رکھا گیا ہے۔ واحد (سلمۃ)

السلم: سیرھی (مذکر و مؤنث) ج سلم و
سلاہم و سلہ۔ سب۔ کہا جاتا ہے "انخذہ
سلمانا الی حاجتہ" اس نے اس کو اپنی
حاجت کے لیے وسیلہ بنایا۔

السلمۃ: پتھر۔ ج سلام۔ نازک ہاتھ پیروں
والی عورت۔

السلام: س۔ تسلیم کا اسم جیسے تکلم سے
کلام۔ طاعت و فرمانبرداری کے لیے جھلنا۔
السلام: اللہ تعالیٰ کے اسمے جسی میں سے
ہے اس لیے کہ باری تعالیٰ تقاض و عیوب
وغیرہ سے پاک ہیں۔ دار السلام: جنت۔
مدینۃ السلام: بغداد۔ نہر السلام:
دریائے دجلہ (و السلام) ایک قسم کا کڑوا
درخت۔ واحد (سلامۃ و سلامۃ)

السلامۃ: س۔ عیوب و آفات سے پاکی۔
السلمی: چھوٹی ہڈیوں میں سے ہر جوڑدار
ہڈی جیسے انگلیوں کی ہڈیاں۔ پھر تو سفاہر ہڈی اور
ہڈی کے جوڑوں پر اطلاق ہونے لگا۔ ج

سلامیات
السلامی: دکھی ہوا۔
السلمانی: ایک قسم کا زہر جس کا جزو اعظم
پارہ ہے۔

السلم واحد السلمۃ: بول کا درخت
السلمون: ایک بڑی جھلی کا نام۔
السلیوس: پھولوں کی جنس کا ایک نام
السالم: فا۔ آنکھ اور ناک کے درمیان کی
کھال۔

السلم: ج۔ سلمی: ڈسا ہوا۔ سخت زخمی
جو قریب بھلاکت ہو (ان دونوں کو تفاؤلا
سلم کہتے ہیں)۔ ج سلماء: آفات سے
محموظ۔
الاسلم: آفات سے بہت محفوظ۔ مؤث

و سُمْحَاءُ و مَسَامِيحٌ تَمْ كِتَبَةٌ هُوَ رَجُلَانِ
و نِسَاءٌ سَمَاحٌ و سُمْحَاءُ و مَسَامِيحٌ
سَمَخٌ (ف) سَمَاحَةٌ و سَمَاحٌ بِكَذَا
بِحَشْحٍ كَرْنَا لَهُ بِالشَّيْءِ دَيْتًا الْعَوْدُ كَلْوِي كَا
نَزَمَ هَوَانَا الذَّقَةَ أَوْ نَحْنِي كَامُطْبَعٍ وَ تَبِيزَرُ قَرَارَ هَوَانَا
سَمَخٌ نَزَمَ هَوَانَا نَزَمَ بَرْتَاؤُ نَزَمَ الرُّمُحُ
نِيزَهُ كَوَ نَزَمَ كَرْنَا الرُّجُلُ آهَسْتَهُ جَلَانَا دَوْرَانَا
بِهَاجَانَا

أَسْمَخَ الرُّجُلُ: فَيَاضَ وَ نَحَى هَوَانَا
أَسْمَخَتِ الدَّيَابَةُ: سَرَكُنِي كَيْ بَعْدَ نَزَمَ هَوَانَا
أُورُ كَبَاجَاتَانَا هُوَ "أَسْمَخَتْ قُرُونُنَا" يَعْنِي أَس
كَافَسَ تَابِعَ وَ فَرَمَانِيرَ دَارَ هُوَ كَبَا

سَامَخَهُ فِي الْأَمْرِ وَ بِالْأَمْرِ: نَزَمَ بَرْتَاؤُ
كَرْنَا: نَزَمِي كَرْنَا: مَقْدَمٌ فِي مَوَاقِفَتِ كَرْنَا ه
بِذَنْبِهِ: دَرُ كَرَّرَ كَرْنَا

تَسْمَخُ وَ تَسْمَاحٌ فِي كَذَا: نَزَمِي بَرْتَانَا
السَّمَاخُ: سَمَخٌ بِيَعُ السَّمَاخُ: وَ بِيَعُ جَس
مِثْلَ قِيمَتِ كَهَانِي فِي مِثْلِ نَزَمِي هُوَ: كَيْتَبِي فِي
"السَّمَاخُ رِيَاخٌ" يَعْنِي مَعَامَلَاتِ فِي مِثْلِ نَزَمِي
نَفْعُ بَحْشٍ هُوَتِي هُوَ

السَّمَاخُ: نَزَمِي كَافِيمَا
السَّمَخَةُ: أَسْمَخَتْ كَامُونُوتُ سَمَاخُ
السَّمَخُ: وَسَعَتْ وَ فَرَانِي
السَّمَخُ: دَرِازِيَتِ كَهُوَتَا كَبَا كَدَمِي: تَبَلِي كَر
أُورُ نَحْتِ كُوشَتِ وَ الْأَكْهُوزَا

السَّمَخَاقُ: سَرَكِي هَبْدِي بِرَبَارِي كَبَجَلِي
سَمَاقِي: السَّمَاخُ: بَادَلِ كَيْ پَتَلِي
كَلُورُ: أُورُ كَبَا جَاتَانَا هُوَ عَلِي قُرْبِ الشَّاةِ
سَمَاقِي مِثْلِ الشَّخْمِ: كَبَرِي كَيْ أَوْ جِهِي كَيْ
جَادِرِ بِرَبْرَبِي كَيْ كَبَجَلِي هُوَ

سَمَخُ (ن) سَمَخَا: الزَّرْعُ: كَبِيَتِي كَا كَبَانَا
سَمَخَةُ (ف) سَمَخَا: كَانَا كَيْ سَمَاخُ پَر
چُوتِ كَا كَرُخِي كَرْنَا: كَبَا جَاتَانَا هُوَ "سَمَخِنِي
بِحَدَّةِ صَوْتِهِ وَ كَثْرَةِ كَلَامِهِ" أَسْنِي
أَوَاكِي تَبِيزَرِي أُوْرُ كَثْرَتِ كَفَلُوكَا سَمَرِي كَانَا
كُوزُخِي كَرُودِي

زَرْخٌ حَسَنٌ (السَّمَخَةُ) أَجْمَلِي كَانِي دَالِي

الْبَشَلُ هُوَ

السَّمْسَمِيلُ: فَا بِرَانَا كَبُرَا
سَمَتٌ (ن ض) سَمَتَانَا: سَمَتِ الشَّيْءِ وَ
سَمَتٌ نَحْوُهُ: قَصَدَ كَرْنَا أُوْرُ أَسِي سِي هُوَ
"وَهُنَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَمَامَتْ" وَ هُوَ
سَبْ خَانَدِ كَبِي كَيْ جَانِبِ قَصَدَ كَرْنَا وَ أَلِي هُوَ
سَمَتٌ لَهُمْ: رَأَيْتِي وَ تَبِيزَرِي وَ طَرِيقَتِي كَفَلُوكَا
رَهَبَانِي كَرْنَا

سَمَتٌ: رَأَيْتِي كَبَا كَرْنَا لِلْعَاظِسِ: بِرَبْرَبِكِ
أَنْدَكَمَا كَيْ دَعَا كَرْنَا عَلِي الشَّيْءِ: كَيْ كَبِي پَر
أَنْدَكَا تَابِيَانَا

سَمَاتَهُ: مَقَابِلِ هُوَانَا
تَسَمَتَهُ: قَصَدَ كَرْنَا

السَّمَتُ: سَمَتَانَا: كَبَا جَاتَانَا هُوَ "أَخَذَ فِي
هَذَا السَّمَتِ" أَسْمَتَانَا كَوَ كَبَا كَرْنَا كَرُورُ ج
سَمُوتٌ سَمَتٌ الرُّؤَسِ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ:
عِلْمُ بَيْتِ كَيْ اَصْطَلَحَ فِي كَيْ كَبُرِي هُوَ
فَخْصُ كَيْ سَرَكِي سِيدِهِ فِي آسْمَانَا كَا وَ هُوَ لَفْظُ جَس
پَر كَرَا اَرْضِ كَيْ مَرَكَزِي لَفْظُ هُوَ اَصْطَلَحَ بِحَشْحِ

سَمَتِ الرُّؤَسِ كَبَلَاتَانَا هُوَ أُوْرُ اَرْضِ كَيْ مَقَابِلِ
كُو سَمَتِ الْقَدَمِ يَا سَمَتِ الرُّجُلِ كَيْتَبِي
هُوَ: أُوْرُ سَمَتِ كَالْفِظِ اَهْلِ خَيْرِ وَ صِلَاحِ كَيْ بَيْتِ
كَيْلِي كَبِي بَعِي اِسْتَعَالِ كَبَا جَاتَانَا هُوَ "مَا
أَحْسَنَ سَمَتِ فَلَانِ" أَسْمَتِ كَيْ بَيْتِ دَحَالَتِ
كَيْ قَدَرِ اَهْمِي هُوَ

سَمَخُ (ك) سَمَاجَةٌ وَ سَمُوجَةٌ: قَبِيحٌ
هُوَ: صَفَتِ (سَمَخٌ وَ سَمِيحٌ وَ سَمِيحٌ)
جَسَمَاجٌ وَ سَمِيحُونَ وَ سَمَجَاءُ وَ
سَمَاجِي
سَمَخَةٌ: قَبِيحٌ بَانَانَا
اِسْتَسْمَخَهُ: قَبِيحٌ كَبَحْنَا

سَمَجَرٌ سَمَجَرَةٌ: اللَّبْنُ: دُودُهُ فِي مِثْلِ پَانِي
زِيَادَةً طَانَا

سَمَخُ (ك) سَمَاحَا وَ سَمُوحَا وَ
سَمَاحَةٌ وَ سَمُوحَةٌ وَ سَمْحَا وَ
سَمَاحَا: فَيَاضَ وَ نَحَى هُوَانَا: صَفَتِ (سَمَخٌ وَ
سَمِيحٌ وَ مِسْمَخٌ وَ مِسْمَاحٌ) جَسَمَاجُ

سَمِيَّةٌ: الشَّيْءُ كَيْ كَبِي كَا زَهْرِي اَبْرَاثِرُ
السَّمَامُ: كَالْبِجَلِ كَبَا كَبِي: اَبِي كَبِي هُوَانَا سَا پَر نَدَا
وَاحِدٌ (سَمَامَةٌ)

السَّمَامُ وَ السَّمُومُ: مِثْلُ الْإِنْسَانِ بِنَدَا
نَحْتِي: كَانَا: السَّمَامُ: بِحَشْحِي

السَّمُومُ: كَرْمٌ هُوَانَا: مَوْنُوتُ جَسَمَانِي
السَّمَامَةُ: كَالْبَدَنِ اِنْسَانِي تَمْ كَيْتَبِي هُوَ "فَلَانِ
بَهِي السَّمَامَةُ" فَلَانَا خُوِي صُورَتِ بَدَنِ اِلَا
هُوَ: كَبَدَنَاتِ: جَمْدَانَا كَهُوَرِي كَيْ كَرُونَا كَا
خُوِي صُورَتِ دَارِهِ: اَبَاتِيَلِ كَيْ مَانَدَا اَبِي پَر نَدَا
جَسَمِ كَيْ اَنْدُونَا كَا حَاصِلِ هُوَانَا غَيْرِ مُمْكِنِ هُوَ

اِسِي دَجَرِي عَرَبِ كَا قَوْلِ هُوَ "كَلَفْتِنِي بَيْضُ
السَّمَانِي" تَمْ نِي كَبِي كَوَ كَلِيفِ اِلَا يَطَاقُ دِي
أُوْرُ اَبِي قَوْلِ بَيْضِ السَّمَانِي كَا هُوَ
سَمَانِي بِسَمِيْمَةٍ كَيْ جَمْعِ هُوَ جَسَمِ
سَرُخِ جُوِي كَيْ هُوَ

السَّمَامُ: زَهْرِي اَبْرَاثِرُ
السَّمَامَةُ: سَامُ كَامُونُوتُ: خَاصٌ: كَبَا جَاتَانَا هُوَ
"عَرَفَ ذَلِكَ السَّمَامَةُ وَ الْعَامَةُ" اِسْمُ كُو
خَاصٌ أُوْرُ عَامٌ سَبْ جَانَتَانَا هُوَ

سَامٌ اَبْرَصٌ وَ سَمٌ اَبْرَصٌ: جَمِيَلٌ: شَيْءٌ
سَامًا اَبْرَصٌ: جَسَمَانِي اَبْرَصٌ وَ سَمَامٌ
اَبْرَصٌ
يَوْمٌ سَامٌ وَ مِسْمٌ وَ مِسْمُومٌ: كَرْمٌ هُوَانَا اِلَا
دِنَا

الاسْمُ: الْاَلْفُ: نَحْتِي وَ اِلَا
السَّمَامُ: مِثْلُ الْجِلْدِ: جَسَمِ كَيْ بَارِي كَيْ
سُورَانَا اُوْرُ بَعْضِ لُوكَا: اِسْمُ كُو سَمٌ يَعْنِي سُورَانَا
كَيْ جَمْعِ قَرَارِ دِي هُوَ جَمِيَعِي مَحَابِسِ حَسَنِي كَيْ
جَمْعِ: اَهْلُ (السَّمَامَةُ) خَاصٌ لُوكَا: رَشْتِي
دَارَا

سَمَالٌ: النَخْلُ: كَبِي اِلَا هُوَانَا
اِسْمَالٌ: اِسْمَالَانَا: دَبَلَا هُوَانَا
الظَلُّ: كُوتَاهُ هُوَانَا

السَّمَالُ: سَايِي
السَّمُوَالُ: سَايِي: مَرَكَبِي كَيْ اُوْرُ كَيْ كَبِي
اَبِي فَخْصُ كَا تَابِ جُودَا وَ عَهْدِ كَيْ لِي ضَرْبِ

کھتی۔

السماخ کان کاسورخ۔

سملان) سَمُوذًا حیران کھڑا ہونا۔ متیر ہونا۔ گانا۔ کبیر سے سر اٹھانا اور سینہ تاننا فی العمل کوشش کرنا اور تکلیف اٹھانا ایابل: اونٹ کا تیز چلنا (سَمْدًا) الرَّجُلُ قَصِدَ کرنا۔ سَمْدُ الْأَرْضِ بکھاؤ والا الشَّعْرُ بَالُ کو جز سے مونڈنا الرَّجُلُ بھیل کود میں ڈالنا۔ غافل کر دینا۔

إِسْمِدًا إِسْمِدًا وَإِسْمَادًا إِسْمِدًا الرَّجُلُ بَحْصَةً سے پھولنا يَدُهُ ہاتھ کا سوجنا الشَّيْءُ ضَائِعٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَكَ (سَمْدًا)" وہ فتمہارے واسطے ہمیشہ کے لیے ہے۔

السَّمَادُ کھاد۔

السَّامِدُ فَا. وَطَبَّ سَامِدٌ بھری ہونے سے کھڑی مٹک۔

إِسْمِدٌ إِسْمِدٌ أَرَا ننگہ کمزور ہونا۔

السَّمْدُورُ آنکھ کا پردہ۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں)۔

السَّمَادِيْبُ نشہ یا بھوشی یا دوران سر کی وجہ سے نگاہ کی کمزوری۔

السَّمْنَدُ وَالسَّمْنِدُورُ ایک جانور جو پانی اور خشکی میں رہتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے جسم پر کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے اور اسی بنا پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جلتا نہیں۔

السَّمِيْدَعُ فَيَاضُ سَرْدَارُ شَرِيْفُ بَهَادُ بَهِيْرِيَا۔ تَوَارِحُ سَمَادَعُ.

السَّمِيْدُ وَالسَّمِيْدُ سَفِيْدَانَا۔

سَمْرَانُ) سَمْرًا الْعَيْنُ گرم سلائی سے آنکھ پھوڑنا (سَمْرًا وَسَمْرًا) رات میں قِصَّةً گوئی کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا أَفْعَلُهُ مَا سَمْرُ السَّمِيْرِ أَوْ ابْنُ سَمِيْرِ وَابْنَا سَمِيْرِ" میں اس کو جب تک لوگ قِصَّةً بیان کرتے رہیں گے نہیں کروں گا یعنی کبھی نہیں کروں گا۔

سَمْرَانُ) ض) سَمْرًا وَسَمْرًا اللَّيْنُ دودھ کو پانی ملا کر پتلا کرنا الخمر شراب پینا النَّبَاتُ كَهَالٍ چرنا الباب وغيره: دروازے کو میخ سے مضبوط کرنا السَّمْمُ تَبِيْرٌ چلانا۔

سَمْرُ) (سَمْرُ) وَسَمْرُ) (سَمْرُ) إِسْمِرًا وَإِسْمَارًا إِسْمِيْرًا إِسْمِيْرًا سَفِيْدِي۔ سیاہی کے درمیان رنگ والا ہونا۔ گندم گوں ہونا: مَعْت (أَسْمُرٌ) نُوْنُثُ سَمْرَاءُ ج۔

سَمْرُ سَمْرَةٌ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ كَرْنَا۔ رَاتٌ كُو قِصَّةً كُوئی کرنا۔ تَسْمَرُ مِيْخُ كُنْنُ سے مضبوط ہونا۔

تَسَامَرُ الْقَوْدُ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ كَرْنَا۔ السَّمْرُ مِمَّ قَوْدُ سَمْرٍ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ كَرْنَا۔ دالے لوگ۔

السَّمْرُ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ شَانُ وَاللَّ ج أَنَسْمَارُ رَاتٌ خَرَاتٌ كِي تَارِكِي۔ كِهَا جَاتَا بِه "لَا آتِيْهَ سَمْرًا" میں اس کے پاس رات کو نہ کبھی آئیں گے۔ رَاتٌ كِي كُنْتَلُو۔ چاند کا سایہ اور بھی سحر قمر کے مقابلے میں بولتے ہیں جہاں سایہ ہو اس کو سحر اور جہاں چاندنی ہو اس کو قمر کہتے ہیں۔ زمانہ۔ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ كَرْنَا وَالْوَالِ كِي مَجْلَسُ۔ اور "حَلَفْتُ بِالسَّمْرِ وَالْقَمَرِ" و "لَا آتِيْكَ السَّمْرُ وَالْقَمَرُ" و "لَا أَكْمَلُهُ السَّمْرُ وَالْقَمَرُ" ان سب ترکیبوں میں "مَدَّةٌ وَجُودُ السَّمْرِ وَالْقَمَرِ" محذوف ہے۔ مراد بیکٹی ہے۔

السَّمْرَةُ رَاتٌ كِي كُنْتَلُو۔ السَّمْرُ بَجَوْلٌ كَادِرْخَتُ ج أَنَسْمُرُ وَاحِدٌ (سَمْرَةٌ)

السَّمِيرُ فَاجُ سَمْرٌ وَسَمَارٌ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ كَرْنَا وَالْوَالِ كِي مَجْلَسُ۔ تَمَّ كَيْتِيْهُ هُو "أَمْسَيْتُ الْبَارِحَةَ فِي سَامِرِ الْحَيِّ" میں گزشتہ رات قبیلہ کی مجلس گفتگو میں تھا (وَالسَّمِيرَةُ) اسم جمع بمعنی رات کو بَاتِيْشُ كَرْنَا۔ دالے۔

السَّمَاوِرُ ہیرا۔

السَّمَارُ بہت پانی ملا ہو اودھ۔

الْأَسْمُرُ تَبِيْرَةٌ۔ ہرن کا دودھ۔ کہا جاتا ہے "نَعَامُ أَسْمُرٌ بِالْبَغِيْرِ بَارِشُ كَا خَشْكُ سَالُ۔"

الْأَسْمُرَانُ پانی اور گیتھوں پانی اور تیزہ۔

السَّمُوْرُ تَبِيْرٌ رَقَارُ۔ اَصِيْلٌ أَوْ نَحِي۔

السَّمُوْرُ ایک جانور جو بونے کے مشابہ اور اس سے کچھ بڑھا ہوتا ہے اور رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس کی کھال سے بہت بیش قیمت پوتھیں تیار ہوتی ہے اور بسا اوقات اس جانور کی کھال کو بھی سَمُوْرُ کہتے ہیں۔ ج سَمَامِيْرُ۔

السَّمِيْرُ رَاتٌ كُو بَاتِيْشُ شَانُ وَاللَّ۔ رَاتٌ كَا قِصَّةً گو۔ زمانہ۔ ابْنَا سَمِيْرِ: دن اور رات۔

كِهَا جَاتَا بِه "لَا أَفْعَلُهُ سَمِيْرُ اللَّيَالِي" میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔ اور کہا جاتا ہے "ابْنُ سَمِيْرِ" بے چاند کی رات۔

السَّمِيْرُ رَاتٌ مِيْشُ بَاتِيْشُ شَانُ وَاللَّ۔

الْمِسْمَارُ كِيلُ۔ مِيْخُ۔ اَوْنُوْلُ كَا بَهْتِرُ رَكْهَوَالَلَّ ج مَسَامِيْرُ۔

الْمَسْمُوْرُ كَمَّ گوشت ز مضبوط پتھوں والا۔

مَكْدَرُ زَنْدَكَا نِي۔

السَّمْرَاءُ أَسْمُرٌ كَا مَوْنُثُ۔ گیتھوں۔ گیتھوں کا آنا جس سے بھوسا چھانکے گی ہو۔

السَّمِيْرِيَّةُ ایک قسم کی کشتی۔

سَمْرَتُ السَّمْرُوتُ: لِبَا (السَّمْرُوْدُ) لِبَا۔

السَّمْرُومُ ایک قسم کا پرندہ جو نڈیوں کا بہت شکار کرتا ہے اور نڈیاں اس کی آواز سے بھاگتی ہیں۔ السَّمْرُمَةُ: بھوت۔

سَمْسَرُ سَمْسَرَةٌ دِلَالُ ہونا۔

السَّمْسَارُ دِلَالُ۔ بِيْرُ كَا مَالِكُ وَنَقْتَمُ۔

سَمْسَارُ الْأَرْضِ: زَمِيْنُ كَا مَابِرُ۔ ج سَمَا سِرَةٌ وَ سَمَامِيْرُ وَ سَمَامِيْرُ۔

السَّمْسَرَةُ مَعْصُ۔ دِلَالِي كَا پِيْشُ۔ دِلَالِي كِي أُجْرَتُ۔

السَّمِيْقُ وَالسَّمِيْقُ وَالسَّمِيْقُ

يُفْلَانُ فِي النَّاسِ شَهْرَتًا دِيْنَا۔
 اَسْمَعُهُ شَانَا۔ گالی دینا۔ ڈول میں دستر لگانا۔
 تَسْمَعُ رَاسْمَعُ الرَّجُلِ وَالْيَه: کان لگانا۔
 تَسْمَعُ بِه النَّاسُ: کسی کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سنا۔
 اَسْمَعُ لَهُ وَالْيَه: کان لگانا۔
 اِسْتَسْمَعُهُ سَنَا۔
 السَّمْعُ: سننے کا حارسہ۔ کان۔ سنی ہوئی بات۔ سنا ہوا ذکر۔ تَسْمَاعُ وَاسْمَعُ وَنَجَّاسَامِعُ وَاسْمَاعِیْعُ: کہا جاتا ہے ہو مابین سَمِعَ الْأَرْضُ وَبَصَرَهَا: جبکہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کہاں گیا یا ایسی زمین میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ سَمْعِ الْأَرْضِ وَبَصَرَهَا: اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اَللَّيْلُ وَالسَّمْعُ الْيَمِينُ: میری بات سنی۔ میری طرف توجہ کرو۔ وہ "سَمِعَ أذُنِي فَلَانَا يَقُولُ ذَلِكَ" فلاں کو یہ کہتے ہوئے میرے کانوں نے سنا اور کہتے ہیں "سَمِعَ أذُنِي وَ سَمِعَةَ أذُنِي وَ سَمِعَةَ أذُنِي"۔
 أَمَّ السَّمْعِ: داغ۔
 السَّمْعُ: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ سَمِعٌ: اچھی شہرت کا مرد۔ وہ اِذَا أَمْرٌ ذُو سَمْعٍ: یہ سننے کے لائق ہے اور جب کوئی آدمی کسی غیر پسندیدہ خبر کو سنا ہے تو کہتا ہے "سَمِعَا لَا يَلِغَا أَوْ سَمِعَا لَا يَلِغَا" یعنی خدا کرے کہ سنی جائے اور پہنچے نہیں۔ السَّمْعُ: بھڑیے کا پتھر جو سے۔ مَوْثِقٌ (سَمِعَةٌ) اس کی قوت سامعہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مثال ہے: هُوَ أَسْمَعُ مِنْ سَمْعٍ "السَّمْعَةُ سَمْعٌ كَمَا مَرَّةٌ أَذُنٌ سَمْعَةٌ" سننے والا کان۔ کہا جاتا ہے: فَعَلَهُ رِيَاءٌ وَ سَمِعَةٌ: اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لیے کیا۔
 السَّمْعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا

نَعْلٌ (سَمَطٌ وَ اسْمَاطُ) اکہرے چڑے کا جوتا۔ نَاقَةُ سَمَطٍ وَ اسْمَاطُ: بے داغ کی اونٹنی۔ سَرَاوِيلُ اسْمَاطُ: اکہر پاجامہ۔
 السَّمِطُ: فا۔ ماءٌ سَمِطٌ: جوش دیا ہوا پانی جو کسی چیز سے بال وغیرہ صاف کر دے۔
 السَّمِطُ: صف بستہ چیز۔ دستر خوان۔
 سَمِطُ الطَّرِيقِ: راستہ کے دونوں جانب۔
 سَمِطُ القَوْمِ: قوم کی قطار۔ تَسْمِطُ: اور کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلَيَّ سَمِطٌ وَاجِدٌ" وہ ایک نظام میں ہیں۔
 السَّمِيطُ: بال صاف کر کے بھونا ہوا بکری کا بچہ۔ مرد سبک حال۔ فقیر۔ پختہ اینٹوں کا روہ۔
 نَعْلٌ سَمِيطٌ: ایک چیز کے اجوتے۔
 السَّمِيطُ: پختہ اینٹوں کا روہ۔
 المُسَمِّطُ: مِنَ الشَّعْرِ: وہ شعر جو اجزاء عروض پر ہو اور قافیہ کے حروف رومی کے علاوہ دوسرے قافیہ پر ہو اور کہا جاتا ہے "حُكْمُكَ مُسَمِّطٌ" تمہارا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی تقدیر یہ ہے "لَكَ حُكْمُكَ مُسَمِّطًا أَوْ مُسَمِّطًا" حالت کی وجہ سے منصوب ہے۔ "هُوَ لَكَ مُسَمِّطٌ" وہ تمہاری لیے خوشگوار ہے۔ وہ "حُذِّ حُكْمُكَ مُسَمِّطًا" تم اپنے حکم کو جاری کرو جو رد نہیں ہوگا۔
 السَّمِيطُ: ایک قسم کا پرندہ جس کی گردن لمبی ہوتی ہے اور ہمیشہ اٹھلے پانی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔
 سَمِعَ (سَمِعَا وَ سَمِعَا وَ سَمَاعَا وَ سَمَاعَةً وَ سَمَاعِيَةً وَ سَمِعَا) السَّمْعُ: سَمِعَ وَ سَمِعَةَ وَ سَمِعُونَ لَهُ اللّٰهُ: قبول کرنا منہ ولہ دینا۔
 الْيَه: کان لگانا۔ متوجہ ہونا۔
 سَمِعَةَ الصَّوْتِ: سنانا۔ سَمِعَ بِه: عیوب کو پھیلانا۔ رسوا کرنا۔ بری باتیں سنانا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بَكْدًا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔

السَّمْسِقُ: جھیلی۔ مرزنجوش۔
 سَمَسَمُ: التَّغْلِبُ: لومڑی کا دوڑنا
 الرَّجُلُ: نرم چال چلنا۔
 السَّمْسَمُ: لومڑی۔ بھیرا زہر۔
 السَّمْسَمُ: سرخ چوٹی۔ چھوٹی چوٹی۔
 وَاحِدٌ سَمْسَمَةٌ: ہلکا ہلکا مرد۔ سَمَسِمٌ: السَّمْسَمُ: تل دھیا۔ سانپ کی ایک قسم
 رَجُلٌ مُسَمِّمٌ (مُسَمِّمٌ) الْوَجْهَ: خالدار چہرے والا مرد۔
 سَمَطٌ (ن) سَمُوطًا: الرَّجُلُ: چپ رہنا۔
 عَلِيُّ الْيَمِينِ: قسم کھانا اللہ! مٹھاس میں تعمیر ہونا۔ صفت (سَمِطٌ)
 سَمَطٌ (ن) سَمَطًا: الْجَدُّ مِنْ بَكْرِيٍّ كَيْ يَبْحَثَ كَوَابِلَ مِنْ صَافٍ كَرَكَةٍ يَمُونًا۔
 الشَّيْءُ لِكَاثَا السَّكِينِ: چھری تیز کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَطْتُ الرَّجُلَ يَمِينًا عَلَيَّ حَقِي" میں نے مرد کو اپنے حق پر قسم کھلائی۔
 سَمِطٌ: چپ رہنا الشَّيْءُ: لازم ہونا۔ زین کے تسم سے لِكَاثَا الشَّاعِرِ: سَمَطٌ اشعار لطم کرنا (دیکھو سَمِطٌ) سَمَطٌ قَصِيذَةٌ: کسی کے قصیدہ کے اشعار کے ہر ہر شعر کے مصرعوں میں اپنی جانب سے ایک مصرعہ بڑھانا۔
 اسْمَطُ: چپ ہونا۔
 تَسَمَطُ الشَّيْءُ بِه: لگتا۔
 السَّمِطُ: لڑکی جس میں مہرہ یا موتی پروئے ہوئے ہوں۔ زین کا تسم جس سے کوئی چیز لگائی جائے۔ کہا جاتا ہے "عَلَّقَهُ بِسَمُوطِ سَرَجِهِ" اس نے اس چیز کو زین کے تسموں سے لِكَاثَا الْعِمَامَةِ: بگڑی کا شملہ۔ گلوبند (زیور) سے لبا ہار۔ السَّمِطُ مِنَ الثِّيَابِ: چادر کے نیچے نمایاں ہونے والا کپڑا من الرَّمْلِ: ریت کی لکیر۔ رَجُلٌ سَمَطٌ: ہلکا ہلکا چالاک مرد۔ تَسْمُوطُ: السَّمِطُ: فقیر۔
 السَّمِطُ: اولی کپڑا۔

سمک	سمع
اسمعة اسمعادات الجرح: زخم کا سوجنا۔	سَمِعْتَهُ رِيَاءً وَ سَمْعَةً: اس نے یہ کام دکھانے اور سننے کے لیے کیا۔
سَمِقٌ (نَكْمَقًا وَ سَمُوقًا): النبات: بلند ہونا۔ صفتہ مق و سَمِقٌ	السَّمَاعُ: سر۔ شہرت۔ گیت اور اصطلاح میں سماع خلاف قیاس کو کہتے ہیں یعنی جس کو عرب سے سن کر استعمال کیا جائے اور اس پر قیاس نہ کیا جاسکے اور کہا جاتا ہے هذا امر ذُو سَمَاعٍ: یہ امر سننے کے قابل ہے۔ تَقَالُوا ذَالِكَ سَمَاعِ أذُنِي: لوگوں نے اس کو میرے سامنے کیا۔
السَّمَقُ خالص۔ کہا جاتا ہے أَحَبُّ لِحَا سَمَقًا: میں تم سے خالص محبت کرتا ہوں۔	سَمَاعٌ: بروزن نظام اسم فعل بمعرف مع السَّمَاعُ: بہت سننے والا۔ فرما تہرادر۔ جاسوس۔
السَّمَقُ وَالسَّمُوقُ: ایک درخت جس کا پھل بہت کھٹا ہوتا ہے۔ پھل کو بھی کہتے ہیں۔	السَّمِيعُ: سننے والا۔ سنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ سنی ہوئی بات۔ سَمِعَا، أُمُّ السَّمِيعِ: دماغ۔
السَّمِيقُ: تل کا جوا۔	أَذُنٌ سَمِيعٌ وَ سَمِيعَةٌ: سننے والا کان۔ السَّمَاعَةُ: کان۔
السَّمِيقُ مِنَ الرَّجَالِ: لہارود۔	السَّمَاعَاتُ: دونوں کان۔
السَّمِقَرُ السَّمْتَرَارَا: اليوم: بہت گرم ہونا۔	أَذُنٌ (سَمْعَةٌ وَ سَمِيعَةٌ وَ سَمُوقٌ وَ سَمِيعٌ وَ سَمَاعَةٌ) سننے والا کان۔ السَّمَاعَةُ: ایک آلہ کا نام جو سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔
السَّمِقُ (نَكْمَاكَ الشَّيْءُ): بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے سَمَكَ اللَّهُ السَّمَاءَ: اللہ نے آسمان کو بلند کیا۔	التَّسْمِيعَةُ: کہا جاتا ہے فَعَلْتَهُ تَسْمِيعًا او تَسْمِيعَةً لَكَ: میں نے اس کو کیا ہے تاکہ تم سن سکو۔
السَّمَكُ (نَكْمَاكَ): بلند ہونا۔	السَّمِيعُ: سننے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے هُوَ مَنِي بَمَرَأَى وَ مَسْمَعٌ: یا هُوَ سَنَى مَرَأَى وَ مَسْمَعٌ: وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کی باتوں کو سن سکتا ہوں۔
السَّمَكُ الشَّيْءُ: کسی چیز کو دبیر بنانا۔	المُسْمَعُ وَ المَسْمَعَةُ: کان۔ سَمَاعٌ: ڈول کا دستہ جس میں رسی باندھی جاتی ہے۔
تَسْمَكٌ: بلند ہونا۔	المُسْمَعُ: فا۔ قید۔
السَّمَكُ الثَّيَابُ: کپڑوں میں سے لمبا اختیار کرنا۔ مچھلی کھانا۔	المُسْمَعَةُ: گانے والی۔ کہا جاتا ہے غَنَيْنَهُمْ مُسْمَعَةً:
السَّمَكُ: سر۔ چھت یا چھت کی دہانت۔ ہر اونچی اور موٹی چیز کا قند۔	المُسْمَعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا السَّمْعُ: شیطان خبیث۔
السَّمَكُ: مچھلی۔ سَمَاكَ وَ سَمُوكُ وَ سَمَاكَ وَاحِدٌ (سَمَكَةٌ)	
السَّمَاكَ: چیز کے اٹھانے کا اوزار۔ ج سَمَكٌ مِنَ الزُّورِ: ہنسی سے ٹٹی ہوئی پہلی۔	
السَّمَاكَانُ: دو روشن ستارے ایک کو السَّمَاكَ الرَّامِحُ: اور دوسرے کَلَسَمَاكَ الْأَغْوَلُ کہتے ہیں۔	
السَّمِيكَاءُ: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو خشک کی جاتی ہے۔	
السَّمَاكَ: مچھلی بیچنے والا۔	
السَّمِيكُ وَ السَّمُوكُ: السَّمِيسْمُوكُ مِنَ الْخَيْلِ: مضبوط گھوڑا۔	
السَّمَاكَ: خیمہ وغیرہ اٹھانے کی لکڑی۔ السَّمَاكَاتُ وَ السَّمُوكَاتُ السَّمِيعُ: ساقوں آسمان۔	
السَّمَلُ (نَكْمَلًا عَيْنُهُ): آنکھ پھوڑنا۔	
السَّمَلُ: کچھرو وغیرہ سے صاف کر لینا۔ صَاحِبُ كَرَامَلَدَلُو: ڈول کا تھوڑا پانی نکالنا۔	
السَّمَلُ (نَكْمُولًا وَ سَمُولَةً وَ سَمَلًا): (نَكْمَالَةُ الثَّوْبِ): کپڑے کا پرانا بوسیدہ ہونا۔ صَفْعَسَمَلٌ	
السَّمَلُ الحَوْضُ: کچھرو وغیرہ سے صاف کرنا۔ صَاحِبُ كَرَامَلَدَلُو: ڈول کا تھوڑا پانی دینا۔	
السَّمَلُ الحَوْضُ: کچھرو وغیرہ سے صاف کرنا۔ صَاحِبُ كَرَامَلَدَلُو: ڈول کا تھوڑا پانی دینا۔	
السَّمَلُ الثَّوْبِ: کپڑے کا پرانا بوسیدہ ہونا۔ صَاحِبُ كَرَامَلَدَلُو: ڈول کا تھوڑا پانی دینا۔	
السَّمَلُ: آنکھوں کو پھوڑنے والا۔	
السَّمَلُ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔ نَسَمَلُ حَوْضٌ كَالْقِيَابَانِي:	
الثَّوْبُ (سَمَلَةٌ وَ سَمُولٌ وَ سَمِيلٌ): پانا بوسیدہ کپڑا۔	
السَّمَالُ: پانی کے حوض کا کپڑا۔	
السَّمَلَةُ وَ السَمَلَةُ: تھوڑا پانی۔ سَمَلٌ وَ السَمَالُ وَ سَمَالٌ وَ سَمُولٌ	
السَّمَلَانُ مِنَ الْمَاءِ وَ النِّبْدِ: پانی یا شراب کا بقیہ۔	
السَّمُولُ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔	
السَّمُولَةُ: چھوٹی پیالی۔	
السَّمُولُ: وسیع زمین۔ نرم مٹی والی زمین۔	
السَّمَلُجُ: اللبن فی حلقہ: آسانی سے نکلنا۔	
السَّمَلُجُ وَ السَّمَالُجُ: مٹھا دودھ۔	
السَّمَلُجُ: بھیڑا۔ بدادر خبیث کے لیے بھی بولتے ہیں۔	
السَّمَلُجُ: ہموار و بجز زمین۔	
السَّمَلُجُ (نَكْمَلًا وَ سَمَانَةً): موٹا ہونا۔	

الشارع في العمل: کام شروع کرنے والے کا اللہ کا نام لینا۔

أَسْمَى: اُسْمَى: بلند کرنا الرَّجُلُ زَيْدًا و بَزِيدًا نام رکھنا هُ مِنْ بَلَدِ الْبَلَدِ رَوَانَةَ کرنا۔

سامی سَمَامَةٌ الرَّجُلُ فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَسَامِي" فلاں سے فخر میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

تَسَامَى تَسَامِيًا: الْقَوْمُ: باہم فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارنا عَلَى الْخَيْلِ گھوڑے پر سوار ہونا۔

تَسَمَّى: نام پانا إِلَى و بِالْقَوْمِ: منسوب ہونا۔

اِسْتَمَى: اِسْتَمَاءً: الصَّائِدُ شَكَرَ كِي جَرَائِيں پہننا۔ شُكْرًا کرنا: ہبسی کی زیارت کو جانا۔ کسی کے اندر خیر و صلاح معلوم کرنا۔

اِسْتَسَمَى: اِسْتِسْمَاءً: نام پوچھنا۔

السَّامِي فَاحِ سَامُونٌ و سَمَاءٌ مَوْثُ سَامِيَةٌ: سَامِيَاتٌ و سَوَامٍ: کہا جاتا ہے "رَدَّدْتُ مِنْ سَامِيٍّ طَرَفَهُ" یعنی میں نے اس کے نخوت و غرور کو توڑ دیا۔ السَّامِي: شُكْرًا کی اولیٰ جراب پہنے ہوئے شُكْرًا: سَمَاءٌ۔

السَّمَاءُ: آسماں۔ فضاء واسع جوزمین کو احاطہ کئے ہوئے ہو۔ ہر وہ چیز جو تم سے اوپر ہو۔

گھوڑے کی پیٹھ۔ ہر چیز کی چھت۔ بارش اِبادِلِ گھاس۔ نیوں کی روحوں کے رہنے کی جگہ۔ سَمَاءٌ: سَمَاوَاتٌ و سَمَوَاتٌ (الف کو صرف کتابت میں حذف کر کے) و سَمِيٌّ و اَسْمِيَّةٌ (والسَّمَارَةُ) گھر کا بچھ۔ و سَمَاوَةٌ كُلُّ شَيْءٍ يَرْتَفِعُ كَالْحَاخِجَةِ۔

السَّمَاءُ: اِجْمَعِي شَهْرَتٌ۔ کہا جاتا ہے "شَاعَ سَمَاءُ" اس کی شہرت و نیک نامی پھیل گئی۔

الاسْمُ و الِاسْمُ: نام۔ وہ لفظ جو کسی کو جوبریا عرض کی تعیین و تمیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔

اس کا تہزہ ہمزہ وصل ہے۔ سَمَاءٌ: سَمَاءٌ و اَسْمَاءٌ و اَسْمِيٌّ و اَسْمِيَّةٌ۔

السَّمْدُ و السَّمْنَدُ و السَّمْدَلُ: ایک قسم کا پرندہ۔

سَمَمَةٌ (ف) سَمُوْهَا: مدہوش ہونا الفَرَسُ: گھوڑے کا بغیر تھکن کے بہت تیز دوڑنا۔

سَمَمَةٌ: الابلَ: بیکار چھوڑ دینا۔ صفت مفعولی (سَمَمَةٌ)۔

السَّمَامَةُ: جِرَانُ: سَمَمَةٌ: السَّمْهِيُّ: فضاء آسانی۔ ترعرے (یعنی وہ چیز جو گرمی کے زمانہ میں فضاء آسانی سے مڑی کے جا لے کی مانند اُترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے)۔

(وَالسَّمَمَةُ و السَّمِيْهِ و السَّمِيْهِ و السَّمِيْهِ و السَّمِيْهِ و السَّمِيْهِ) جمہولی اور باطل چیزیں۔

السَّمْحُ: سَمَحَةٌ: جَمُوْتُ: بولنا۔ الخَبْلُ: رسی مضبوط بنا الشَّيْءُ: چھوڑنا۔

الذَّرَاهِمُ: رَوَاجٌ دِيْنَا: اليَمِيْنُ: قسم میں ختی کرنا۔

السَّمْحَاجُ: جَمُوْتُ۔

السَّمْحَدُ: السَّمَامُ: کوبان کا بڑا ہونا۔

السَّمْحَدُ: شُكْرٌ و سَمْحٌ: چیز۔

السَّمْحَدُ و السَّمْحَدُ: بڑے ڈیل ڈول کا اونٹ۔

السَّمْحَرُ: مضبوط و سخت ہونا۔ نیزہ کی طرح سیدھا ہونا الظَّلَامُ: بہت اندھیرا ہونا۔

السَّمْحَرِيُّ: مضبوط نیزہ۔ کہا جاتا ہے "رُفِعَ سَمْحَرِيٌّ و رَمَاحٌ سَمْحَرِيَّةٌ" قَدْ سَمْحَرِيٌّ: معتدل قدم۔

سَمَا يَسْمُو سَمُوًّا: بلند ہونا البَصْرُ:

اَعْمَاءُ: کہا جاتا ہے "سَمُوْتُ اِلَيْهِ بَصْرِيٌّ" اس کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی و "سَمَا اِلَيْهِ بَصْرِيٌّ" اس کی طرف میری نگاہ اٹھی۔ و

"نَفْسُهُ تَسْمُو اِلَى مَعَالِي الْاُمُوْر" اس کا نفس بڑے بڑے امور کی طرف مائل ہے بہ بلند کرنا الْقَوْمُ: شُكْرًا کیلئے جانا (سَمَا يَسْمُو سَمُوًّا) الرَّجُلُ زَيْدًا و بَزِيدًا نام رکھنا۔

سَمَى الرَّجُلُ زَيْدًا: او بَزِيدًا نام رکھنا۔

صفت (سَمَانٌ سَمِيْنٌ) سَمَانٌ: سَمِنٌ (ن) سَمِنًا و سَمِنًا: الطَّعَامُ: کچی ڈالنا۔ و سَمِنَهُ: موٹا کرنا۔ سَمِنَ الْقَوْمُ: کچی کا توشہ دینا۔ سَمِنَ لَهُ: بہت دینا۔

اَسْمِنَ: موٹا ہونا۔ بہت کچی والا ہونا۔ موٹے جانوروں والا ہونا۔ موٹا جانور خریدنا یا اس کا مالک ہونا یا اسے بہر کرنا۔

الفَرَسُ: گھوڑے کو موٹا کرنا الخَبْزُ: روٹی کچی میں تر کرنا الرَّجُلُ: کچی کھلانا۔

تَسَمَّنَ: موٹا ہونا۔ بغیر شرافت کے مدعی شرافت ہونا۔ اِسْتَسَمَّنَ: اپنے لیے کچی طلب کرنا ہونا پانا یا سمجھنا اور اسی سے مثال ہے "اِسْتَسَمَّنَتْ ذَاوَرَمٌ" تم نے سو بے ہوئے کو موٹا سمجھ لیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ کوئی شخص حقیقت واقعہ کے خلاف شخص ظاہر سے دھوکا کھا جائے۔

السَّامِنُ: فَا بَہت کچی والا (فاعل و فاعل) ذیکدا ہے باب تَامِرٌ و لَآئِنُ۔

السَّمْنُ: سَمِنٌ: کچی۔ سَمِنٌ و سَمُونٌ و سَمْنَانٌ۔

السَّمْنَانُ: کچی بیچنے والا۔ السَّمْنَةُ: کچی۔ یہ الحسن سے خاص ہے۔

السَّمْنَةُ: موٹا کرنے والی ایک دول۔

ایک قسم کی گھاس جس کے دانے قفل کی طرح ہوتے ہیں اور اس کو عورتیں فرہی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔

السَّمِيْنُ: موٹا مِنَ الْكَلَامِ: باموقع گفتگو۔

السَّمِيْنَةُ: السَّمِيْنُ کا مؤنث۔ سَمَانٌ: اَرْضٌ سَمِيْنَةٌ: بغیر پتھر والی زمین۔

السَّمِيْنُ: پیدا کئی ہونا۔ طَعَامٌ (مُسَمَّنَةٌ) موٹا کرنے والی خوراک۔ السَّمَانِيُّ: بئیر کی قسم کا ایک پرندہ۔ واحد و جمع دونوں کے لیے اور کہا گیا ہے کہ واحد (سَمَانَاةٌ) ہے۔ سَمَانِيَّاتٌ۔

السَّمْنَحُوْنِيُّ: آسانی رنگ والا۔ (جدید)

”هُوَ كَبِيرُ السِّنِّ وَكَبِيرُ سَنَةٍ“ وہ بوڑھا ہے و ”هُوَ سِنُّ فُلَانٍ“ وہ فلاں کا ہم عمر ہے۔ و ”لَهُ ابْنٌ سِنٌّ ابْنِكَ وَأَوْلَادٌ أَسْنَانٌ بِنِيكَ“ اس کے لڑکے تمہارے لڑکوں کے ہم عمر ہیں۔

السِّنُّ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے ”استقام فُلَانٌ عَلَى سِنِّ وَاحِدٍ“ فلاں ایک ہی طریقہ پر قائم رہا ”انض علی سنک“ تم اپنے طریقہ پر چلے چلو ”مرو السنه فی سنه“ تیر سیدھا نکل گیا ادھر ادھر نہیں ہوا (والسین والسن والسنن) من الطريق: کشادہ راستہ۔ بزار راستہ۔

السِّنَّةُ: سن کا اسم مرۃ۔ مادہ ریچھ۔ مادہ چیتا۔

السِّنَّةُ: خصلت۔ طریقہ۔ طبیعت۔ شریعت۔ چہرہ یا اس کا دائرہ۔ سنن۔ اهل السنۃ: وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ کی خلافت کے قائل ہیں۔

السِّنِّيَّةُ: اسلام کا ایک بڑا فرقہ جو سنت کی جانب منسوب ہے۔ (واحد سنئی) السنۃ: دو سروں والا کھلاڑا۔ سنۃ من النجوم: بسن کا ایک جوا۔

السنان: نیزے کا پھل۔ ح السنۃ: السنان: سان۔ کہا جاتا ہے ”سن سگینۃ بالسنان“ اس نے اپنی چھری کو سان سے تیز کیا۔ السنون: مچھن۔

السنين: سان پر تیز کیا ہوا۔ پتھر کے بگڑنے سے جو گرتے وہ زمین جس کی گھاس کو چر لیا گیا ہو۔ سنین المراء: ہم عمر مؤنث سنینۃ السنینۃ ایک طرز پر چلنے والی ہوا۔ ریت کا بلند ٹیلہ۔ سنسان: السنن: سان جس پر چھری وغیرہ کو تیز کیا جائے۔

المسنن: من الدواب: بڑی عمر والا جانور۔ سنسان:

سے نہیں جاتی تھی۔ سُنَّتِ: الأرض: زمین کا چرنے کے صاف ہونا۔

سُنَّ: السکین: پھری تیز کرنا۔ صیقل کرنا۔

الرُمُحُ: نیزے پر پھل لگانا الرُمُحُ اليه: کسی کے سامنے نیزہ کرنا القول: الجحی گفتگو کرنا الاسنان: سواک کرنا۔

اسن: الرُجُلُ: بوڑھا ہونا الصبی: بچے کا دانت لگانا۔ اسن الله سنۃ: دانت اگانا الماء: پانی گرانا الرُمُحُ: نیزے پر پھل لگانا۔

اسنن: الماء: پانی گرنا الطريق: راستہ واضح ہونا الفرس: گھوڑوں کا آگے پیچھے دوڑنا السراب: سراب کا چمکانا۔ کہا جاتا ہے ”اسنن لبه الهوی حیث آزاد“ یعنی اس کو خواہش نفس ہر طرف لے گئی

الرُجُلُ: دانتوں کو خلال کر کے صاف کرنا۔ (و تسنن بسننہ: عمل کرنا۔ بیروی کرنا اور اسی سے ہے ”اسنن بسیرۃ فُلَانٍ“ اس نے فلاں کی سیرت کی بیروی کی۔ و تسنن فی عذرہ: اپنے رخ پر دوڑنا۔

اسنسن: زیادہ عمر والا ہونا الطريقۃ: طریقہ اختیار کرنا الطريق: آمدورفت والا ہونا الغین: بچتے ہوئے آنسو والی ہونا بسیفہ: تلوار کو حرکت دینا بالشئی: تابعداری کرنا۔

السنن: ح اسنان و اسنۃ و اسن: دانت (مؤنث) دارنقی یا کھمبی وغیرہ کا دندانہ۔ بسن کا جوا۔ قلم میں تراشنے کی جگہ۔ ریڑھ کی ہڈیوں کا کنارہ۔ چریدگی۔ اور اسی سے ہے ”اغظوا السن حظها من السن“ یعنی جانوروں کو ان کے چرنے کا حق دو۔ ح اسنان: عمر (مؤنث) کہا جاتا ہے ”طعن و طعن فی سنۃ“ یعنی وہ بوڑھا ہو گیا۔ و ”هو حدیث السن“ وہ نئی عمر کا ہے

بسنملہ میں صمروہ کو حذف کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ باقی رکھتے ہیں۔ بسنملہ کے معنی بسم الله الرحمن الرحيم۔

اسم الجلالۃ: باری تعالیٰ کا نام۔

السَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ: اسم کے لغات۔ کہا جاتا ہے ”هذا سمہ“ یعنی یہ اس کا نام ہے۔

السمی: بلند ہونے والا۔ سمیک: ہنمام نظیر۔

بسنملۃ: عیسائیوں کے نزدیک باپ بیٹے اور روح م دس کے نام پڑھنا۔ مسلمانوں کے نزدیک: بسم الله الرحمن الرحيم۔ الاسمیۃ: ان فلاسفہ کا مذہب جو کہ اجناس اور انواع کے بذات خود وجود یا حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔

السموی: اسم کی جانب منسوب۔

المسماۃ: شکاری کی ادنی جراب۔

المسمی: ح معین۔ کہا جاتا ہے ”هو من مسمی قومه و من مسماتہم“ وہ قوم کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔

سن (ن) سنن: السکین: چھری تیز کرنا۔ ”هذا مما سنک علی طعام“ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو تمہیں کھانے کی رغبت دلاتی ہے الرُمُحُ: تیز پر پھل لگانا الاسنان: سواک کرنا العقده: گرہ کھولنا الابل: اونٹ کو تیز پانکنا الرُجُلُ: کسی کو بھالا مارنا۔ دانت سے کاٹنا۔ دانت توڑنا۔ حد سے زیادہ تعریف کرنا الامر: ظاہر کرنا۔

آسان کرنا۔ جاری کرنا۔ الطريقۃ: طریقہ اختیار کرنا علیہم السنۃ: طریقہ مقرر کرنا الطین: مٹی کا برتن وغیرہ بنانا الشئی: تصویر بنانا الماء او التراب: پانی یا مٹی آہستہ آہستہ گرانا۔ العین الذمغ: آنکھ کا آنسو بہانا الامیر رعیتہ: بہتر انتظام کرنا۔ کہا جاتا ہے ”سن فُلَانٌ طریفًا من الخیر“ فلاں نے خیر کا طریقہ جاری کیا جس کو اس کی قوم پہلے

اور اس کے مقابلہ میں بارح ہے۔ جس کے معنی ہیں دائیں جانب سے آنے والا۔ عرب "سانح" سے نیک شگون اور "بارح" سے بد شگون لیا کرتے تھے۔ اور اسی سے مثال ہے "من لی بالسانح بعد البارح" یعنی میرے لیے منحوس کے بعد مبارک کا ضامن کون ہوگا۔ اس کو مردہ کے بعد محبوب کی توقع کے موقع پر بولتے ہیں۔

السیح بائیں جانب سے آنے والا۔ موتی زیور۔ سنح

السنحج رات کو نہ سونے والا۔

سنح (ف) سنوحا فی العلم راح ہونا۔

سنح (ف) سنحاً بگڑنا۔ متغیر ہونا۔ صفت (سنح) مؤنث سنحاً من الطعام بہت کھانا الفم۔ دانتوں سے خالی ہونا۔ اسناد۔ دانتوں کی جڑوں کا تہ ہونا۔

السنح اصل من السن دانت اگنے کی جگہ۔ سنح و سنوح و سنح النص پھل کا اتنا حصہ جو تیر کے اندر داخل ہو۔ سنح الکلمۃ کلمہ کا اصل ماخذ سنح الحنی بخار کی تیزی۔

السنح اونٹ۔

السنحۃ والسناحۃ بدواری ہوا۔

سند (ن) سنودا و اسند و تسناد الیہ اعتماد کرنا۔ مجروسہ کرنا۔ سند

الجبی پہاڑ پر چڑھنا۔ سند لاریہ چالیں کے قریب ہونا۔ سند ذنب الناقہ اونٹنی کے دم کا دائیں بائیں سرین پر لگانا۔

سند سند (ایک قسم کی چادر) اوڑھنا۔ الشی ٹیک لگا کر مضبوط کرنا۔

ساد۔ مساندہ و سنادا شعورہ و فی شعورہ شعر میں مختلف روئی لانا۔ الرجل مدد کرنا۔ علی العسل کفایت کرنا۔ الی الشی ٹیک لگانا۔

سانحوا الأرض نباتات تلاش کرنا۔ عام (سنت و سنت و سنت) قحط سالی۔ رجل سنت بے نفع مرد۔ السنوت والسنوت زیرہ اور بقول بعض شہد یا پیڑ۔ السننت مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

السنتب بدخلق۔

سنج (ن) سنحاً الثوب کپڑے کے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ میں رنگنا۔

السنج دیوار وغیرہ پر دھوئیں کا اثر (والسنج) چراغ۔

سنحۃ المیزان باٹ۔ سنحجات (دخیل) السنحۃ سیاہ سفید رنگ (ثوب) سنح سیاہ سفید دھاری دار کپڑا۔

السنحاب والسنحاب چوہے سے بڑا ایک جانور جس کی دم بہت کھمے دار بالوں سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی کھالوں سے پوستیں بناتے ہیں۔

السنحج جھنڈا۔ سنحاج جدید۔

سنح (ف) سنحاً و سنحاً و سنوحا الامر او الرای پیش آنا۔ ظاہر ہونا۔ سوچنا۔

لی الشعوہ آسان ہونا۔ ک۔ اشارہ سے سمجھانا۔ الرجل عن رایہ رائے سے بھیر دینا۔

بہ و علیہ تنگی ڈالنا۔ تکلیف پہنچانا۔

(سنوحا و سناح و سنحاح) الطیر او الظبی پرندہ یا ہرن کا بائیں سے دائیں طرف گزرتا۔

تسنح من الریح ہوا کی طرف پشت پھیرنا۔

تسنحہ واستنحہ عن کذا کھود کرید کرنا۔

السنح من برکت من الطريق درمیانی راہ۔

السانح فا بائیں جانب سے آنے والا۔

المسنون معجماً مسنون بدواری کچھ لڑکھل مسنون الوجہ چمکدار کتابی چہرے والا۔ مرمز مسنون نرم پکانا کیا ہوا۔ سنگ مرمر۔

طریق (مستن و مستن) آمدورفت والا راستہ۔

مستن الطريق راستہ کا نمایاں حصہ۔ المستن شیر۔

السناب سخت برائی۔

السناب والسنابہ لمی پیٹھ اور پیٹ والا۔

السنب بہت دوڑنے والا۔

السنب والسنبۃ والسنبتۃ زمانہ کا ایک حصہ۔

السنوب والسناب والسناب و السنوت غضبناک۔ بہت شر والا۔ غیبت کرنے والا۔ جھوٹا۔

السنباء ڈنر۔

السنبادج سان کا پتھر۔ (جدید)

السنبوسق والسنبوسق موسم)

السنبوق ڈونگی۔ چھوٹی کشتی۔

السنبک کھر کا کنارہ والسنبک من السیف آرائش تلوار کا کنارہ من بیضۃ

الحدید خود کا بالائی حصہ من المطر ابتداء بارش۔ ہر چیز کا اول۔ کم نفع والی

سخت زمین۔ سنسناک کہا جاتا ہے "طلب الرزق فی سنسناک الأرض" اس

جہنے اطراف زمین میں روزی تلاش کی۔ سنبل الزرع خوشوں والی ہونا۔

الرجل ثوبہ کپڑے کو لٹکا کر کھینچنا۔ السنبل من الزرع کالبز والشعیر

خوشہ بالی۔ واحد سنبلۃ سنسناک و سنبلات ایک خوشبو دار گھاس۔

السنبل الرومی ایک خوشبو دار بوٹی والسنبلۃ آسان کے ایک برج کا نام۔

اسنت القوم قحط زدہ ہونا۔ سنت القدر ہاشمی میں زیرہ ڈالنا۔

سنط (ک) سناطۃ و سنط (س)
سنطاً کوج یا کچی دلاھی والا ہونا۔ صفت
(سنط و سناط و سنوط) ج سنط
و اسناط۔
السنط۔ گٹا۔ پہنچا۔
السنطیۃ۔ بے ڈول لمبائی۔
السنطاب۔ لوہار کا تھوڑا۔
السنطیر و السنطور۔ ایک قسم کا ستار
جس کے تار تانے کے ہوتے ہیں۔
سنطل۔ الرجل سر جھکا کر چلنا۔
السنطلۃ۔ سر لمبائی۔
السنطالۃ۔ سر جھکا کر سکون کی چال۔
السنطیل۔ لمبا۔
المسنطل۔ سن۔ ست چال چلنے والا۔ جو
قریب گرنے کے ہو۔ بے ڈول جسم کا
بڑے پیٹ والا۔
اسنطیوں۔ ایک پودے کا نام جس کا تار
مٹام پھول گلابی ہوتے ہیں۔
السنطیل۔ لمبے قد والا۔
سنع (ف ن) و سنع (ک) سناعة و
سنوعاً۔ حسین و خوبصورت ہونا۔ صفت
مذکر (سنیع) مؤنث سنیعۃ۔
اسنع۔ الغلام۔ لڑکے کا طویل و
خوبصورت ہونا الرجل۔ خوبصورت بچوں
والا ہونا۔ گئے کا درو والا ہونا الشی زیادہ
کرتا۔
السنع۔ گئے کے مقام کی بریدگی۔ گئے کا
جوڑ ج سناعة و اسناع۔
السنع۔ خوبصورتی۔
الاسنع۔ لمبا۔ بلند۔ کہا جاتا ہے "هذا
اسنع من ذاك" یہ اس سے افضل ہے۔
مؤنث سنعاء۔
السنیعۃ۔ پہاڑی راستہ۔ ج سناع۔
السنعیۃ۔ نیولا۔ اوپر والے ہونے کے
اندرونی حصہ میں ابھرا ہوا گوشت۔
سنف (ن ض) سنفا۔ البعیر۔ اونٹ پر
تک باندھنا الناقۃ۔ اونٹنی کا اونٹنی سے

جانے۔
السندأ و السنداوة۔ ہلکا۔ دلیر۔ پیش
قدمی کرنے والا۔ پست قدمی سر اور
پستے جسم والا۔ السنداوة۔ کپڑے کا ٹکڑا
جس کو عمامہ کے نیچے تیل سے بجانے کے
لیے باندھا جاتا ہے۔
جمل (سندأ) قوی اور سخت اونٹ۔
سندر۔ جلدی کرتا۔
السندرة۔ سر۔ جلدی۔ ایک درخت جس
سے تیر و کمان بناتے ہیں۔ ایک قسم کا بڑا
پیانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول
"أَكْبَلِكُمْ بِالسِّيفِ كَيْلِ السَّنْدَرَةِ" کا
مطلب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بہت
زیادہ قتل کروں گا۔
السندری۔ دلیر۔ لمبے قد والا۔ مضبوط۔
کمان۔ نیلگوں۔ نیزہ۔ شیر۔ تلوار وغیرہ کا
سفید پھل۔ بڑی آنکھوں والا۔ عمدہ۔
ردی۔ ایک بڑا پیانہ (والسندر و السندر)
دلیر۔
السندروس۔ ایک قسم کا گوند یا کھرباہ کی
مانند ایک معدنی چیز۔
السندس۔ ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
السندل۔ ایک قسم کا پرندہ۔ چرمی موزہ کا
پانچا۔
سنیر (س) سیرا۔ بدخلق ہونا۔
السنور۔ (س) سنرا۔ بدخلق ہونا۔
السنور۔ ایک ہتھیار زرہ کی مانند چمڑے
کا بنا ہوا لباس۔ لوہے کا ہر ایک ہتھیار۔
السنور۔ لمبی۔ سردار ازم کی جڑ۔ گردن
کی بڑی کے مہرے۔ ج سنایر۔
السنار۔ لمبی۔
سنسنت۔ الریح۔ ٹھنڈی ہوا چلانا۔
السنسین۔ پیاس۔ پہلی کی ہڈیوں کے
سرے۔ ج سناسن (والسنسنة) ریزہ
کی ہڈیوں کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "جاءت
الریح سناسین" ہوا ایک ہی طریقہ پر
آئی۔

اسند۔ فی الجبل۔ پہاڑ پر چڑھنا ہ فی
الجبل۔ پہاڑ پر چڑھانا فی العذو۔ دوڑنے
میں کوشش کرنا اسندۃ الی الشی۔ نیک
لگنا۔
السند۔ ایک قسم کی چادر۔ سہارا اور
مولدین کے نزدیک بمعنی دستاویز مستعمل
ہے۔ ج سندت پہاڑ کا وہ حصہ جو
تہارے مقابل ہو۔ ج اسناد۔
السندۃ۔ ایک قسم کی نباتات۔
السناد۔ قافیہ کا ہر عیب جو حرف روی
سے پہلے ہو۔ ناقۃ سنناد۔ لمبی ٹانگوں والی
اونٹنی۔ دلی قوی۔
الاسناد۔ سر عند اهل المناظرۃ۔ حوالہ
دینا۔ ج اسناد و الاسناد فی علم
العربیۃ۔ دو دھلوں کے درمیان نسبت نامہ
واقع کرتا جیسے مبتدا و خبر یا فعل و فاعل کے
درمیان نسبت۔ جیسے زیند قانم و قام
زیند۔
السندان۔ انہانی۔ اہرن۔ ج سندین
(دخیل)
السندان۔ بڑا اور مضبوط مرد۔ قوی
بھیڑیا۔
السندانۃ۔ گدھی۔
السندیان۔ شاہ بلوط کا درخت۔ واحد
(سندیانۃ) فارسی کلمہ ہے۔
السندی۔ لمبے پالک۔ منہ بولا بیٹا۔
المسند۔ من الحدیث۔ جس کی سند
قابل تک پہنچائی جائے۔ ج مساند و
مسانید۔ المسند۔ ایک قسم کا طرز تحریر
جس کو بنو حمیر استعمال کرتے تھے۔ منہ
بولا بیٹا۔ زمانہ۔
المسند و المسند۔ جس پر ٹیک لگائی
جائے۔ ج مساند۔ کہا جاتا ہے "خرج
القوم (مسنانیدین)" لوگ مختلف جھنڈوں
کے نیچے ہو کر نکلے۔ کسی ایک امیر کے
تحت میں نہیں تھے۔
المسند۔ جس پر اعتماد و بھروسہ کیا

سورج کے اردگرد گردش کرنے کا وقت جب کہ اس کو سورج کے مرکز سے کسی سیارے کے ساتھ جمع ہوتے ہوئے دو دفعہ دیکھا جاتا ہے۔

المُسْتَاة بند جو سیلاب کو روکے۔ ج مُسْتَوَات و مُسْتَيَات کہا جاتا ہے "عَقْدُو مُسْتَيَاتٍ لِحَسْبِ الْمِيَاهِ" انہوں نے پانی روکنے کے لیے بند باندھا۔ سنی (س) كَسَاءٌ بلند مرتبہ ہونا۔

سَانِي مُسَانَاةٌ و سِنَاءُ الرَّجُلُ: خوشنود کرنا۔ مدارات کرنا۔ مطالبہ میں نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَانِيَتُهُ حَتَّى اسْتَجْرَجْتُ مَا عِنْدَهُ" میں نے اس کے ساتھ نرمی کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا سب لکوا لیا۔ اَسْنَى اسْتَاءَ الرَّبِيقُ: بجلی کا چمکانا۔

النَّارُ: آگ روشن کرنا لُجَائِزَةٌ: پیش قیمت انعام دینا "جَاوَزْتُهُ فَاَسْنَى جَوَارِي" میں اس کا پردوسی تھا۔ اس نے پردوس کا حق ادا کر دیا القَوْمُ: ایک سال کسی جگہ مقیم رہنا۔

تَسْنَى الْأَمْرُ: تیار ہونا الرَّجُلُ: آسانی و نرمی کرنا الشَّيْءُ: متغیر ہونا القَفْلُ: تالا کھلانا الرَّجُلُ: راضی کرنا۔

السَّيْءُ: بجلی۔ ریشم۔ ایک دست آور دوا کا نام۔

السَّنَاءُ: س۔ بمعنی سنی۔ بلندی۔ روشنی۔ السَّنَابِيَا شریف و عالی مرتبہ مرد۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَنَابِيَا" (جمع کے وزن پر مفرد ہے)

السَّنِيَّةُ: عالی مرتبہ۔ مَوْشِمِيَّةٌ السَّنَابِيَا: تمام چیز۔ پوری کی پوری۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُهُ بِسَنَابِيَتِهِ" میں نے اس کو سارا کا سارا لے لیا۔

سَهَبٌ (ف) كَسَهَبَا الشَّيْءُ: لپٹا۔ اَسَهَبَ الْكَلَامَ و فِي الْكَلَامِ: لہجی گفتگو کرنا۔ صفت (مُسَهَبٌ و مُسَهَبٌ) ثانی نادر ہے۔

الرَّجُلُ: بہت دینا۔ حریص و لاپہی ہونا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کا کشادہ قدم رکھنا۔ اَسَهَبُوا الذَّمَّ: جانور کو چرنے کیلئے چھوڑ دینا۔

اَسَهَبَ: مدہوش ہونا۔ عقل کھو دینا یا زیادتی محبت یا مرض یا خوف کی وجہ سے رنگ بدل جانا اَسَهَبَتِ الْبُيُوتُ: زیادہ گہرائی کی وجہ سے پانی نہ ملنا۔ صفت (سَهْبَةٌ و مُسَهَبَةٌ)۔

اَسَهَبَ: بہت دینا۔ السَّهْبُ: س۔ بیابان مِنَ الْخَيْلِ: کشادہ قدم سے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "مَضَى سَهْبٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

السَّهْبُ وَالسَّهْبُ: مِنَ الْأَرْضِ: وسیع و ہموار میدان۔ کہا جاتا ہے "قَطَعُوا سَهْبًا أَوْ سَهْبًا مِنَ الْأَرْضِ" انہوں نے زمین کے ہموار میدان کو طے کیا۔

سَهَبَتْ (ف) كَسَهَبَا الرِّيحُ: ہوا کا لگاتار تیز چلنا الرِّيحُ الْأَرْضُ: ہوا کا زمین کو صاف کر دینا الطَّبِيبُ: خوشبو گھسنا القَوْمُ لِيَلْتَهُمْ: تمام رات چلانا۔

السَّاهِجُ: ج سَهَجٌ (و السَّيْهَجُ وَالسَّهْوُجُ وَالسَّيْهْوُجُ) مِنَ الْأَرْيَاحِ: تیز ہوا میں۔

المَسْهَجُ: تیز ہوا کی گزرگاہ۔ جہاں تیز ہوا چلے۔

المَسْهَجُ: ہر حق و باطل میں بولنے والا۔ فَضْحٌ وَبَيْحٌ۔

سَهْدٌ (س) كَسَهَدَا و تَسَهَّدَا: بیدار رہنا۔ کم نیند والا ہونا۔ سَهْدَةٌ: بیدار رکھنا۔ کہا جاتا ہے "سَهْدَةُ الْهَيْمِ" اس کو غم نے بیدار رکھا۔

السَّهْدُ وَالسَّهَادُ: بے خوابی۔ السَّهْدُ: کم نیند والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَهْدٌ" کم سونے والا مرد "عَيْنٌ سَهْدٌ" کم سونے والی آنکھ۔

السَّهْدَةُ: بیداری اور کہا جاتا ہے "مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سَهْدَةً" میں نے اس کے اندر خیر کی طرف رغبت نہیں دیکھی۔

السَّهْوُدُ: بہت لپٹا۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ سَهْوُدٌ" نازک اندام جوان لڑکا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ (أَسَهْدَمَنْكَ رَايَا)" وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے۔

المُسَهَّدُ: س۔ کم نیند والا۔ السَّهْدَرُ: بچید۔

سَهْرٌ (س) سَهَرًا: ساری رات بیدار رہنا۔ صفت (سَاهِرٌ و سَهْرَانٌ) اور کہا جاتا ہے "لَيْلَةٌ سَاهِرَةٌ" رات جگے والی رات سَهْرُ الرَّبِيقِ: بجلی کا رات کو چمکانا۔ اَسَهَرَ: جاتے رکھنا۔

سَاهِرَةٌ: آنکھ جگانا۔ السَّهَارُ: بیداری۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَهَارُ الْعَيْنِ" کم سونے والا مرد۔

السَّاهُورُ: بیداری۔ زیادتی۔ چاند کا ہالہ۔ چاند۔ کہا جاتا ہے "دَخَلَ الْقَمَرَ فِي السَّاهُورِ" یعنی چاند کہن میں آگیا۔ سَاهُورٌ عَيْنِ الْمَاءِ: چشمہ کا منبع۔

السَّاهُورُ: مینے کے باقی نو دن۔

السَّهَارُ وَالسَّهْرَةُ: بہت بیدار رہنے والا۔

السَّاهِرَةُ: السَّاهِرُ کا مؤنث۔ زمین اور بقول بعض سَحٌّ زمین۔ ہمیشہ جاری رہنے والا چشمہ۔ چاند۔ خوفناک جنگل۔

الاسْهَرَانُ: آنکھ کی دو رگیں ناک کی دو رگیں۔

المَسْهَارُ: بیداری پر قادر۔ سَهْفٌ (س) كَسَهَفَا القَتِيلُ: مقتول کا نزع کی حالت میں تڑپنا۔

سَهْفٌ (س) كَسَهَفَا: بہت پیاسا ہونا۔ ہلاک ہونا۔

اِسْتَهْفَا: خفیف سمجھنا۔ السَّاهِفُ: ہلاک ہونے والا۔ جس پر جان کنی کے وقت پیاس کا غلبہ ہو۔

سہاف الوحید متغیر چہرے والا۔

السہفہ۔ مچھلی کے سنے۔

السہاف پیاس کی بیماری جس میں

سیرابی نہیں ہوتی۔ طعام (مستہفہ بہت

پانی پلانے والا کھانا۔ رجل مسہوف

بہت پانی پینے والا جو سیراب نہ ہوتا ہو۔

السہوف بڑا جھوٹا۔ لمبی پنڈلیوں والا۔

درختوں کا شاڈاب تپا۔

السہوق کثاہہ قدم والا۔

سہکلاف (سہکا۔ الریح ہوا کا تیز

چلنا الریح التراب عن وجہ الأرض

غبار اڑانا الشیء کسی چیز کو گھسا۔

سہکت سہوکا۔ الدابة جانور کا آہستہ

چال چلنا۔

سہلاس (سہکا بدبودار ہونا۔ صفت

سہک کہا جاتا ہے "بدی سہکۃ من

السہک" میرا ہاتھ مچھلی کی وجہ سے

بدبودار ہے۔

السہک والسہکۃ والسہوکۃ پینہ یا

سڑے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔

السہک لوہے کا رنگ۔

ریح (ساہکۃ) بہت تیز ہوا۔ ج

سواہک و ساہکات۔ (ریح سہوک و

سہک و سہوک و مسہکۃ بہت تیز

ہوا۔

السہک غبار جس کو ہوا اڑا دے۔

السہاک و المسہک ہوا کی تیزی کی

طرح بلاغت سے گفتگو کرنے والا۔

المسہک من الخیل تیز رفتار گھوڑا۔

المسہک و المسہکۃ تیز ہوا کی

گزرگاہ۔

سہل (ک) سہولۃ۔ المکان نرم

ہونا۔

سہل (ک) سہولۃ و سہالۃ۔ الأمر

آسان ہونا۔ صفت (سہل و سہل)

سہل الأمر لہ و علیہ آسان کر دینا۔

الموضع نرم کر دینا۔

ساہلہ مساہلہ نرم برتاؤ کرنا۔

اسہل پہلا سے میدانی زمین کی طرف

آرتنا ہ الذواغ پیٹ کو نرم کرنا۔ دست

لانا۔

الرجل لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا۔

الامر نرم پانا۔

اسہل۔ الرجل اسہال والا ہونا۔

تسہل۔ الأمر آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے

"ما تسہل لی ان افعلہ میرے لیے اس

کا کرنا آسان نہیں ہوا۔

تساہل ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ

کرنا۔ تساہل الأمر علیہ آسان ہونا۔

استہل۔ المکان نرم سمجھ کر اقامت

کرنا۔

استہلہ آسان سمجھنا۔

السہل نرم زمین۔ ہموار زمین۔ ج

سہول و سہولۃ اور نسبت کے لیے

(سہلی) جیسے "بعیر سہلی" نرم زمین

میں چرنے والا اونٹ اور تم کہتے ہو: "أرض

سہل" سہل الوجہ کم گوشت والا چہرہ۔

سہل الخلق نرم اخلاق والا اور کسی کو

خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا کرتے

ہیں "اهلا وسہلا" یعنی تم اپنے ہی

لوگوں میں آئے۔ اجنبیوں میں نہیں اور تم

نے نرم زمین پر قدم رکھا۔ سخت زمین پر

نہیں۔

السہلۃ و السہل ریت جیسی مٹی جس

کو پانی بہا لاتا ہے۔ السہلۃ اسہال۔

الاسہال۔ عند الاطباء دست آنا۔

السہول دست آورد۔

سہل ایک روشن ستارہ جو بلاد عرب

میں گرمی کے آخر زمانہ میں طلوع ہوتا

ہے۔ مشہور ہے کہ اس کے طلوع ہونے

پر کھریے مر جاتے ہیں۔ متنبی کہتا ہے۔

وتنکر موتہم وانا سہیل

طلعت بموت اولاد الزناء

سہم (ف) و سہم (ک) سہومۃ و

سہو سلا غری کی وجہ سے رنگ متغیر ہونا

و جہت۔ تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ سہمۃ

قرعہ اندازی میں غالب ہونا۔

سہو لو کی لپٹ لگانا۔

ساہمۃ قرعہ اندازی کرنا۔

اسہم لہ فی کذا حصۃ مقرر کرنا بین

القرود قرعہ ڈالنا فی الکلام لمی گفتگو

کرنا۔ صفت (سہم سہم)

تسہم و اسہم۔ القوم باہم قرعہ

اندازی کرنا۔ تساہموا الشیء باہم تقسیم

کرنا۔

السہم ج سہام قرعہ اندازی کا تیر۔

تیر۔ سہم الزامی ایک ستارہ۔ ج اسہم

و سہمۃ و سہمان حصہ۔ کہا جاتا ہے

"اصابہ فی القسمۃ سہمان" تقسیم میں

اُس کو ذرا حصہ ملا۔

السہمۃ قرابت۔ تقسیم۔ حصہ۔

السہم۔ آفتاب کی کرنیں۔ حرارت

غالبہ۔ بیاس۔ عقلاء۔ حکماء۔

الساہمۃ۔ من النوق دہلی پتی اونٹنی۔

السہام بو کی گرمی۔ گرمی کی تیزی۔

ترمرے یعنی مکڑی کے جالے کی طرح

ایک چیز جو سخت گرمی کے زمانہ میں فضا

میں معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کی ایک

بیماری۔

السہام دبلے پن کے ساتھ رنگ متغیر

ہونا۔ اونٹوں کی ایک بیماری۔

السہم شریک۔ حصہ دار۔

المسہم لا غری کی وجہ سے رنگ بدلا

ہوا دونلا گھوڑا۔

السہمۃ۔ من الثیاب دھاری دار

کپڑا۔

المسہم و المسہوم۔ من الابل سہام

بیماری والا اونٹ۔

السہوم عقاب۔

سہا یسہو سہوا و سہوا۔ فی الأمر

وعن الأمر بغافل ہونا۔ بھولنا۔ دل کا

دوسری طرف متوجہ ہونا۔ صفت (ساہ و سہوان)

الْيَه: بے نگاہ سے دیکھنا۔
سَهُو يَسْهُو سَهْوًا: الفرس گھوڑے کا آسانی سے تابع ہونا۔ صفت (سہو)
أَسْهَى الرَّجُلُ: سہوہ بنانا (دیکھنے نیچے لفظ سَهْوَة)

سَاهَى الرَّجُلُ فِي الْمَعَاشِرَةِ: نرمی کرنا۔ خوش خلقی کا برتاؤ کرنا ۵: غافل کرنا۔ استہزاء کرنا۔

سَهَاءٌ: فریپان میں گرم کر کے خشک کرنا۔

السَّهْوُ: سکون۔ نرمی۔ کہا جاتا ہے "أَفْعَلَهُ سَهْوًا رَهْوًا" یعنی اس کام کو بغیر کسی تقاضے کے آسانی و نرمی سے کرو۔ "مَاءٌ سَهُوٌ" تھرا ہوا صاف پانی "جَمَلٌ سَهُوٌ" نرم تا بعداد اونت "أَمْرٌ سَهُوٌ" نرم کام۔ "رِيحٌ سَهُوٌ" نرم ہوا۔ ج سَهَاءٌ

السَّهْيُ وَالسَّهْيَا: بنات لغش مغزی میں بہت ہی چھوٹا سا ستارہ۔ اور اسی سے مثل ہے "أَرِيهَا السَّهْيُ وَتَرِيْنِي الْقَمَرُ" جو سوال از آسمان و جواب از ری آسمان کے موقع پر بولتے ہیں۔

السَّهْوُ وَالسَّهْوَاءُ: رات کا ایک حصہ۔ السَّهْوَةُ: السَّهْوُ کا مؤنث۔ صمبا کا اسم مرۃ ج۔ سہا: کانس۔ مہتابی۔ طاچہ روشدان۔ صحن کے سامنے کا پردہ۔ پالی کے سامنے کا خیمہ جو اعراب قائم کیا کرتے تھے۔ پتھر کی چٹان۔ پاگلی۔ نرم کمان۔

السَّاهِي: فا۔ کہا جاتا ہے "بِعَيْرٍ سَاهٍ رَاهٍ" یعنی نرم رفتار اونت۔ ج جَمَالٌ سَوَاهٍ وَوَاهٍ
الاساهی: الوان۔ رنگ (اس کے لیے مفرد نہیں۔)

سَهْوَكَةٌ: پچھاڑنا۔ ہلاک کرنا۔
تَسَهْوَكٌ: پچھاڑا جانا۔ ہلاک ہونا۔ پست پھیرنا۔ نرم چلنا۔

سَاءٌ يَسُوُّ سَوَاءً: الشئ: قبیح ہونا۔ بُرَا ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَاءَتْ سَيْرَتُهُ" اس کی عادت بُری ہے۔

سَاءٌ يَسُوُّ سَوَاءً وَسَوَاءٌ وَسَوَاءٌ وَسَوَاءٌ وَسَوَاءٌ وَمَسَاءٌ وَمَسَاءٌ وَمَسَاءٌ وَمَسَاءٌ: امْرُؤٌ فَلَانًا: نمگین کرنا۔ مکروہ سلوک کرنا۔ بہ ظنًا: بُرَا گمان کرنا۔

سَوَاءٌ تَسْوَةٌ وَتَسْوِينًا: خراب کرنا۔ بگاڑنا۔ سَوًا عَلَيْهِ عَمَلُهُ: عیب لگانا۔ سرزنش کرنا۔

أَسَاءَ إِسَاءَةً: الشئ: خراب کرنا۔ بگاڑنا۔ الْيَه: بُرَا سلوک کرنا۔

إِسْتَاءَ: نمگین ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَاءَهُ فَاسْتَاءَ" اس نے اسے نمگین بنایا اور وہ نمگین ہوا۔

السُّوءُ: سَاءَةُ کا اسم۔ آفت۔ شر و فساد۔ ج أسوأ۔

السُّوءُ: س۔ رَجُلٌ سَوٌّ: س۔ رَجُلٌ السُّوءُ: بدکار مرد۔ والسُّوءُ: فساد۔ آگ۔ آنکھ کی کمزوری۔

السَّيِّئُ: قبیح۔ برا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَيِّئُ الظن" وہ لوگوں سے بدگمان ہے۔

السَّيِّئَةُ: السَّيِّئِ کا مؤنث۔ بُرَا۔ گناہ۔ ج سَيِّئَاتُ

السُّوءَةُ: فاحشہ۔ بُری عادت۔ شرمگاہ۔ ج سُوَّاتُ

الاسوأ: اسم تفضیل مؤنث سُوَاى بُرَا: السُّوَاى: جہنم کی آگ۔

السُّوَاءُ: بُری عادت۔ بد شکل عورت۔ الْمَسَاءَةُ: بُرَا قول یا فعل۔ ج مَسَاوَى الْمَسَاوَى: بُرَا یاں۔ عیوب۔ نقائص۔

السُّوْبَةُ: دور کا سفر۔ السُّوْبِيَّةُ: گیہوں کی شراب۔

سَاحٌ يَسُوْجٌ سَوْجًا وَسَوْجًا وَسَوْجَانًا: آہستہ آہستہ آنا جانا۔ سَوَّجٌ وَسَيِّجٌ: الْكُرْمُ وَنَحْوُهُ أَوْ عَلَى

الْكُرْمِ: انگور وغیرہ میں باڑ لگانا۔

السِّيَاحُ: دیوار۔ انگور وغیرہ کی باڑ۔ ج سِيَاحَاتُ وَأَسْوِجَةٌ وَسُوْجٌ

السَّاحُ: ساکھو کا درخت۔ ج سَيِّجَانُ

واحد (سَاحَةٌ) کشادہ گول چادر۔

كِسَاءٌ (مُسُوْجٌ) گول کیا ہوا کپل۔

السَّاحَةُ: گوشہ۔ کنارہ۔ مکانوں کے درمیان کا چوک۔ ج سَاحٌ وَ سُوْجٌ وَ سَاحَاتُ

سَاحٌ يَسُوْخُ سُوْخًا وَتَسُوْخٌ: فِي الطَّيْنِ: گارے میں دھنس جانا۔ سَاحُ الشَّيْءِ فِي الْمَاءِ: تہ نشین ہونا (سَاحَتْ) بِهِمُ الْأَرْضُ

سُوْخًا وَ سُوْخًا وَ سُوْخَانًا: نکل لینا۔ السُّوَاخُ وَالسُّوَاخُ وَالسُّوَاخِي

وَالسُّوَاخِيَّةُ: بہت کچھ۔ کہا جاتا ہے "مُطِرْنَا حَتَّى صَارَتْ الْأَرْضُ سُوَاخِي" ہمارے اوپر بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ زمین کچھ ہو گئی۔ و "بَطْحَاءُ سُوَاخِي" سنگریزہ والی زمین جس میں پیر دھنس جائے۔

سَادِيْسُوْدٌ سَيَادَةٌ وَسُوْدَاٌ وَسُوْدَاٌ وَسَيْدُوْدَةٌ وَسُوْدَاٌ: شریف ہونا۔ بزرگ ہونا قَوْمَهُ: سردار ہونا۔ ۵: بزرگی و شرافت کے فخر کرنے پر غالب ہونا۔ صفت (سَائِدٌ) ج سَادَةٌ: ج سَادَاتُ الرَّجُلِ: کسی سے راز کی بات کہنا۔ (سُوَادًا) الرَّجُلُ: زرد کالی جے ہوئے پالی کو پینا۔ سَوْدٌ يَسُوْدُ سَوْدًا وَاسْوَدُ اسْوَدَاً

وَاسْوَادٌ اسْوِيْدَاً: کالا ہونا۔ سَوْدٌ: دلیر ہونا۔ ۵: سردار بنانا۔ الشئ: کالا کرنا الرَّجُلُ: سرداروں کو قتل کرنا۔

سَاوِدَةٌ: مکر و فریب کرنا۔ رات کے اندھیرے میں ملنا۔ سرداری یا سیاہی میں مقابلہ کرنا۔ راز کی بات کہنا۔ سَاوِدُ

الاسد: شیر کو ہٹانا۔ ہانکنا۔

أسودت أسواذاً وأسادت أسادة
المرواة: كالا بيضا جنبا- سردار جنبا-
تسودة: نكاح كرتنا سردار ہونا۔ کالا ہونا۔
استاد القوم: سردار قوم کو قتل کرنا یا
قید کرنا فی بنی فلان: سردار قوم کی لڑکی
سے منگنی کرنا۔

السود: سیاہ پتھروں والا ہموار میدان۔ ج
أسواد: ایک قطعہ کو (سودہ) کہتے ہیں۔
السودة: مجبور کے درختوں والی زمین۔
السود: سرداری۔ ایک قسم کی
نباتات۔

السواد: سیاہی۔ وجود۔ تم کہتے ہو: زانیت
سواداً" میں نے وجود کو دیکھا۔ ج
أسودة: سج اسواد: بہت مال۔ بہت
تعداد۔ سواد البلدة: شہر کے اردگرد کی
آبادیاں۔ سواد الليل: پوری رات۔

سواد الناس: عام لوگ سواد العسکر:
اسلحہ و سامان فوج۔ سواد العين: آنکھ کا
سیاہ حصہ۔ سواد القلب: دل کا سیاہ
نقطہ۔

السواج: رازدارانہ گفتگو۔ دانٹوں کی ایک
پٹاری۔ رنگ کی زردی۔
السواد: آواز۔

السوادية والسودانية: بھنگا۔
السودان: سوڈان کا باشندہ۔ واحد
(سودانی) سیاہ رنگ کے لوگ۔

السيد: بھیریا۔ شیر۔ ج سیدان.
السيدة: ماہ بھیریا۔
السيدانة: بھیریا۔

السيد: سردار۔ تحفہ (سید) بھی ایک
لغت ہے۔ ج اسباد وسادة وسيلاند.
عند المسلمين: حضرت فاطمہ رضی اللہ
عہا علیہا اولادہا و آلہا عنہا کی نسل سے جو لوگ
ہوں۔

السيدان: حضرت حسین
السائد: سادہ۔ ج سادات مؤث
أسود: سؤد و سؤدان۔

سوداء: کالا من العين: آنکھ کی پٹی۔
من القوم: بزرگ تر کہا جاتا ہے "هو
أسود من فلان" وہ فلاں سے بزرگ تر
ہے۔ تصحیر أسود و أسيد: الأسودان:
مجبور اور پانی یا سانپ اور بچھو۔ والأسود:
مؤث أسودة ج اسودة بڑا کالا سانپ
جس کو وحش بھی کہتے ہیں۔ السهم
الأسود: مبارک تیر جس سے برکت
حاصل کی جائے۔ گویا بہت ہاتھوں کے
پرنے کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ کہا جاتا
ہے "فلان أسود الكبد" فلاں دشمن
ہے۔ و علی هذا القياس "هم سؤد
الاشقياء"

السوداء والسويداء: عند الأطباء:
ایک خط کا نام۔ مانجھلیا کی بیماری۔ الحجة
السوداء: کلونجی۔ سوداء القلب و
سويداءه: دل کا سیاہ نقطہ۔
السؤد و السؤدود: مرتبہ بلند۔
سرداری۔ ماء (مسودة)
المسؤود: مرض مانجھلیا کا بیمار۔

المسؤودة والسواد: عند الكتاب:
پہلی تحریر جس کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ اس
کے مقابلہ میں صاف شدہ کو مبيضة کہتے
ہیں۔

عند الطباعين: پروف
والمسؤودة من الأيام:
مضامین کے دن۔

السؤدق و السؤدوق و السؤذائق
و السؤذيق: شکر یا عجاہین۔

ساريسو سؤرا: الحانط: دیوار پر
چڑھنا۔ پھانڈنا (سؤرا و سؤوراء السؤ:
کودنا الشراب فی راسہ: شراب کا سر کو
چکراتا۔

سؤور المدينة: شہر پناہ پانا المرآة:
سؤور پھانڈنا دیوار پر چڑھنا۔
الحانط: سؤور و سؤوراء السؤ:
دوسرے پر حملہ کرنا۔ حملہ کرنا۔ تم کہتے ہو

"ساورت الحية الراكب" سانپ نے
سوار پر حملہ کیا ہ الشراب: سر کو چکراتا۔
تسؤور: کنگن پینٹا الحانط و علیہ دیوار
پر چڑھنا۔ پھانڈنا۔

السؤور: شہر پناہ۔ ج اسوار و سیران.
السؤور: عمدہ اونٹ۔ کہا جاتا ہے "عندہ
سؤور من الابل" اس کے پاس عمدہ اونٹ
ہیں۔

سؤورية و سؤورية: ملک شام۔

السؤورة: سار کا اسم مرہ۔

سؤرة الخمر و (سؤارها) شراب کی
تیزی سؤرة السلطان: بادشاہ کا دیدہ۔
سؤرة المجد: بزرگی کا اثر۔ سؤرة
البرد: سردی کی تیزی۔

السؤورة: مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "لہ عندک
سؤورة" تیرے نزدیک اس کا مرتبہ ہے "و
لہ سؤورة فی المجد" اس کے لیے بزرگی
کا مرتبہ ہے۔ فضیلت۔ کہا جاتا ہے "لہ
علیک سؤورة" اسے تمہارے اوپر فضیلت
ہے۔ شرف۔ علامت۔ لمبی و خوبصورت

عمارت من الكتاب: قرآن پاک کی
سورت اور اس کو السؤورة بھی کہا جاتا
ہے۔ ج سؤور و سؤوز و سؤورات و
سؤورات۔

السؤار و السؤوار و الأسوار: کنگن۔ ج
سؤور و أسوره و أسورة و أساور و
أساور و أسؤور۔ الأساور و سؤور
ایک پہلی قوم جو بصرہ میں آکر رہ پڑی
تھی۔

وہ شخص جس کے سر کو شراب
جلد چکراتا ہے۔ شراب پینے کے بعد اپنے
ہم نشین پر حملہ کرنے والا۔ کلیت
سؤار: لوگوں پر حملہ کرنے والا کتاب۔

السؤار: شیر۔

السؤار و الأسوار و الأسوار:
جم کر بیٹھے والا۔ سیر انداز عند الفرس:
فوجی اسیر۔ ج اساور و اسؤورة۔

السُّورَى بِنْدَى۔
المُسُوْر والمُسُوْرَة۔ چڑے کا تکیہ۔ ج
مَسَاوِر۔
المُسُوْر۔ کلائی میں کنگن پہننے کی جگہ۔
مِلْکُ مُسُوْرٌ۔ طاقتور بادشاہ۔
السُّوْرَنْجَانُ والسُّوْرَنْجَانُ۔ ایک دوا کا
نام۔ جنگلی گھمٹاڑا۔

ساسِ یَسُوْسٌ سِیَاسَتَهُ۔ الذُّوَابُ دیکھ
بِہَالِ رَکْہَانِ۔ سِدْحَانُ القَوْمِ۔ اُمُوْر کی تَدْبِیْر و
اِتْقَانُ کرنا۔ اَلْاَمْرُ۔ اِتْقَانُ کرنا۔ صَفَتْ
(سائیس) ج سَاسَةٌ وَسُوْاسٌ اور کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ مُّجَرَّبٌ قَدَّسَاسٌ وَ سِیَسِ
عَلِیْہِ، فَلَانٌ مُّجَرَّبٌ بِہِ کَارِہِ جُوْدِ اَبِ اَمُوْر
ہے یا مَوْدُبٌ ہے۔

ساسِ یَسَاسٌ وَسُوْسٌ یَسُوْسٌ وَ سِیَسِ
یَسَاسٌ سُوْسَاً وَ تَسُوْسٌ۔ الطَّعَامُ: کھن
پڑنا الشَّافَةُ: بکری کا بہت جوں والی ہونا۔

سُوْسٌ۔ الطَّعَامُ: کھن پڑنا لَهْ اَمْرًا: مَزِیْن
کرنا۔ کہا جاتا ہے "سُوْسٌ فَلَانٌ اَمْرُ
القَوْمِ"، فلاں قوم کے اُمُوْر کا مالک بنایا گیا۔

اَسَاسٌ۔ الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ اَسَاسَةُ
النَّاسِ: رِئِیْسٌ وَ سِرْدَارٌ بِنَا لَیْنَا۔ اَسَاسِیَّتِ
الشَّافَةُ: بہت جوں والی ہونا۔ صَفَتْ

(مُیَسِیَسٌ) نَتَطْمٌ۔ دانت کی جڑ جس کو
السَّاسِ نے کھایا ہو (اس کی اصل سائیس
ہے مثل ہَارِ وَ هَائِرٌ وَ صَافٍ صَائِفٍ
کے)

السُّوْسُ۔ اِدْنٌ یَا لَکْزٰی کَا کِیْرٌ۔ کھن۔ وَاَحَدُ
(سُوْسَتَہ) کَسی چِیز کا کھانے والا۔
السُّوْسُ۔ اَصْلٌ طَبِیْعَتِہ۔ تَمَّ کَہتے ہو
"الفَصَاحَةُ مِیْلَةُ یَسُوْسَہ"، فَصَاحَتِ اِسْ کِ
طَبِیْعِی چِیز ہے۔ کَہن کی دَرْبَخَتِ۔

السُّوْسُ۔ اَیْکِ بَیَارِی جُو جَانُوْرُوْں کِ
سَرِیْنِ پَر ہوتی ہے۔

السُّوَاْسُ۔ کھوڑوں کے گردن کی ایک
بیماری جو گردن کو خشک کر دیتی ہے۔

السِّیَاسَةُ۔ س۔ پالیٹکس۔ کُلِّی تَدْبِیْر و
اِتْقَانُ۔ السِّیَاسَتَہ الْمَدِیْنِیَۃُ۔ شہری
اِتْقَانُ۔ عَدْلٌ وَ اِسْتِقَامَتُ کَہ سَاحَہِ اِس
طَرَحِ پَر اِتْقَانُ کرنا کہ سب کی معاشی
حَالَت اچھی ہو۔

السُّوْسُنُ وَ السُّوْسِیْنُ وَ السُّوْسَانُ۔ اَیْکِ
خُوْشَبُو دَار ہولی۔ جَنْجَلِی وَ بَیْتَانِی دَوَقْمِ کِ
ہوتی ہے۔ وَاَحَدُ (سُوْسُنَةُ) ج سُوَاْسِنُ۔
السُّوْسِیُو لُوْجِیَا۔ بَیْتِ اِتْجَاعِیہ کَہ
حَالَت کَا عِلْمُ۔

سَاطَہُ یَسُوْطَہُ سُوْطًا۔ کُوْرُے مَارِنَا
الشَّیْءُ مَحْلُوْطٌ کَرِنَا الحَرْبُ۔ لڑائی برپا کرنا
اَلْاَمْرُ: تہ وَاِلَّا کَرِیْنَا (سُوْطَانًا) نَفْسَہُ:
جِی کَا مَثَلَانَا۔

سُوْطٌ۔ الکَرَاثُ۔ گَدَنَا کِ شَاصِیْثِ لَکْثَا
اَلْاَمْرُ: مَحْلُوْطٌ کَرِنَا۔ گَدَنُہ کَرِنَا الحَرْبُ:
لڑائی برپا کرنا۔
اِسْتُوْطُ۔ اَلْاَمْرُ: مَحْلُوْطٌ ہونا۔ گَدَنُہ ہونا۔

السُّوْطُ۔ کُوْرُکُ چَآبِک۔ ج۔ اَسْوَاْطُ وَ
سِیَاطُ السُّوْطُ: حَصَہ۔ تَخَنُّی۔ پَانِی جَمِیْعِ
ہونے کی جگہ۔ اور کہا جاتا ہے "ہُمَا
یَتَعَاطَبَانِ سُوْطًا وَ اِحْدَاہُ" وہ دونوں ایک
طَرَزِ پَر کَام کَرْتے ہیں۔ السِّیَاطُ۔ گَدَنَا کِ
شَاصِیْثِ۔

السُّوَاْطُ۔ سِیَاسِی جَس کَہ پاس کُوْرَا ہو۔
السُّوِیْطُ۔ گَدَنُہ مَلا ہو۔

المَسْوَاْطُ۔ بَغِیْرِ چَآبِک کَہ نَہ چَلنے والا
کھوڑا۔ (وَالْمَسْوُوْطُ) نَلْزِی وَ بَغِیْرَہ کِ کُوْنِی
چِیز جَس سے کِ چِیز کُو کِسی چِیزِ مِیْلِ مَحْلُوْط
کیا جائے۔

المَسِیَاطُ۔ پَانِی جُو حَوْضِ کَہ تہ مِیْلِ باقِی
رہ جائے۔

سُوْطَرٌ۔ دِیکھتے سِیْطَرُ۔
سَاعٌ یَسُوْعُ سُوْعًا۔ صَاحُ ہونا۔
سَاعَتِ اِلَّا بِلَ: بَغِیْرِ چَرَاہِے کَہ اَزَادِی
سے چرنا۔

سَاعَةٌ مُّسَاوَعَةٌ وَ سُوَاْعًا۔ گھٹھہ بھر کے

لیے معاملہ کرنا الرَّجُلُ: اَیْکِ وَ قَت سے
دوسرے وَ قَت کِ طَرَفِ مَقْتَلٌ ہونا۔
اَسَاعٌ اِسَاعَةٌ۔ الشَّیْءُ: بِیَارِ چھوڑنا۔ ضَالَعٌ
کرنا۔

اَسُوْعٌ اِسُوَاعًا۔ اَیْکِ گھٹھہ مَنُوْخَرٌ ہونا۔
اَیْکِ وَ قَت سے دوسرے وَ قَت کِ طَرَفِ
مَقْتَلٌ ہونا۔

السُّوْعُ وَ السُّوَاْعُ۔ رَاَتِ کَا اَیْکِ حَصَہ۔
السَّاعِیُّ۔ ہَلَاکِ ہونے والا۔ ج سَاعَةٌ۔
السَّاعَةُ۔ گھٹھہ۔ وَ قَت مَوْجُوْدُ۔ اچھی۔ کہا

جاتا ہے "اَقْضِیْ حَقِّی السَّاعَةَ" میرے
حَق کُو اچھی ادا کرو۔ گھڑی (مولدہ) ج
سَاعَاتِ وَ سَاعِ السَّاعَةُ الرَّمَلِیَّةُ۔ رِیْتِ
گھڑی۔ السَّاعَةُ الشَّمْسِیَّةُ۔ دھوپ

گھڑی۔
سَاعَةٌ سُوْعَاءٌ۔ سَخْتِ وَ قَت۔
السُّوِیْعَةُ۔ سَاعَتِ کِ تَصْغِیْرِ یعنی تھوڑا
وَ قَت۔

رَجُلٌ (مَسِیَاعٌ وَ مَسِیْعٌ) لِلْمَالِ مَالٌ کَا
بہت ضَالَعٌ کَرْنِے والا۔ تَابِعٌ کَہ طُوْر پَر کہا
جاتا ہے "هُوَ مُضِیَاعٌ مَسِیَاعٌ وَ مُضِیْعٌ
مَسِیْعٌ"۔

السُّوَاْعُ وَ السُّوَعَاءُ۔ نَدِی یا دُوْی۔
حَدِیْثِ مِیْلِ ہے فِی السُّوَعَاءِ الوُضُوْءُ۔
السُّوِیْعُ: اَیْکِ مِت کَا نَامُ جَس کِ
پَر سِتِش لَوْحِ عَلِیہِ السَّلَامِ کَہ زَمَانِ مِیْلِ ہوتی
تھی اور بعد مِیْلِ قَبِیْلَہِ بَدِیْلِ اِس کِ پَر سِتِش
کرتا تھا۔

المُسُوْعُ۔ جَائِز۔
سَاعُ (ن) سُوْعًا وَ سُوَاْعًا وَ سُوَعَانَا۔
اَلْاَمْرُ: جَائِز ہونا۔ صَفَتْ (سَاعِی)۔
الشَّرَابُ: خُوْشِگُوْر ہونا۔ صَفَتْ (سَاعِی) وَ
سَمِیْعٌ (سَاعِی) کہا جاتا ہے "سَاعٌ لِی
الشَّرَابُ سَاعَتُہ بِہِ الْاَرْضِ" دھسا
دینا۔

سَاعٌ یَسُوْعُ سُوْعًا وَ سُوَاْعًا۔ سَاعٌ یَسِیْعُ
سِیْعًا۔ الشَّرَابُ: خُوْشِگُوْر کَرِنَا۔ حَبِیْرٌ لَعْتَ

سَاعٌ یَسُوْعُ سُوْعًا وَ سُوَاْعًا۔ سَاعٌ یَسِیْعُ
سِیْعًا۔ الشَّرَابُ: خُوْشِگُوْر کَرِنَا۔ حَبِیْرٌ لَعْتَ

(أَسَاغَهُ) ہے۔

سَوَّغَ الْأَمْرَ: جائز کرنا لہ کڈنا: دینا۔ کسی کے لئے خاص کر دینا۔

أَسَاغَ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ: خوشگوار بنانا اور کہا جاتا ہے ”أَسَغَ لِي غَضَبِي“ یعنی مجھے مہلت دے۔

أَسَوَّغَ إِسْوَاغًا: الصَّبِيُّ أَخَاهُ: ساتھ پیدا ہونا یا ایک کے بعد دوسرا پیدا ہونا۔ صفت مذکر و مؤنث (سَوَّغَ وَ سَوَّغَةٌ وَ سَوَّغٌ) کہا جاتا ہے ”هَذَا سَوَّغٌ هَذَا وَهُوَ أَخُوهُ سَوَّغٌ وَهِيَ أُخْتُهُ سَوَّغَةٌ وَهُوَ أَخُوهُ سَبَّغَةٌ وَهِيَ أُخْتُهُ وَ سَبَّغَةٌ“ یہ سب ان موقعوں پر بولتے ہیں جبکہ دونوں بچے ساتھ پیدا ہوئے ہوں یا یکے بعد دیگرے اور ان کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔

أَسْتَسَاغَ الشَّرَابَ: خوشگوار پانا۔

السَّبَّغُ مِنَ الشَّرَابِ: خوشگوار شراب۔ السبواغ: حلق کے پھندے کو دور کرنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے ”الماء سبواغ الغصص“ پانی پھندے کو دور کرنے والا ہے۔

سَافَ يَسُوفُ وَيَسَافُ سَوْفًا: المال: ہلاک ہونا۔ جانوروں میں بیماری واقع ہونا۔

سَافَ يَسُوفُ مَوْفًا: عَلَيْهِ: صبر کرنا (وَأَسْتَأَفَ اسْتِيفًا) الشَّيْءُ: سوگھنا۔

سَوْفَهُ: ٹالنا۔ بار بار کہنا کہ عنقریب کروں گا۔

سَاوَفَهُ مَسَاوَفَةً: سوگھنا۔ راز کی بات کہنا۔ ٹالنا۔

أَسَافَ إِسَافَةً: مال ہلاک ہونا۔ اولاد کا مرنا۔ صفت (مُسِيفٌ) اور اولاد کو

(مُسَافٌ) کہتے ہیں۔ أَسَافَهُ اللَّهُ: ہلاک کرنا۔

سَوَّفَ: جہنی بر فتنہ: حرف استقبال ہے ”س“ نے اس کا زمانہ طویل ہوتا ہے اور یہ فعل سے جدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَفْتَأُ السَّوْفَ“ فلاں آرزوؤں

میں زندگی بسر کرتا ہے۔

السَّافِقَةُ: باریک ریت اور ریتلی اور سخت زمین کے درمیان والی زمین۔

السَّوَّافُ وَالسَّوَّافُ: جانوروں کی بیماری و ہلاکت۔ کہا جاتا ہے ”وَقِعَ فِي الْمَالِ سَوَّافٌ“ مال میں ہلاکت واقع ہوئی اور اسی سے مثل ہے، ”أَسَافَ حَتَّى مَا يَسْتَكْفِي“ اس شخص کے حق میں بولا کرتے ہیں جو سختیوں کے برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔

السَّافُ وَالسَّافَةُ: مٹی یا چکی اینٹوں کا رود۔ سَجَّ السَّافُ وَالسَّافَاتُ: کہا جاتا ہے ”بَنِي سَافِينَ أَوْ ثَلَاثَ سَافَاتٍ“ اس نے دو یا تین رودے رکھے۔ السَّافُ: ایک شکاری پرندہ۔

السَّافَةُ وَالسَّوْفَةُ: ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ سَجَّ السَّوْفُ وَالسَّوْفُ: حلق کے پھندے کو دور کرنے والی چیز۔

السَّافَةُ وَالْمَسَافُ: سَجَّ السَّوْفُ وَالْمَسَافَةُ: دوری۔ فاصلہ۔ تم کہتے ہو ”سَجَّ السَّافُ“ اس زمین کا کتنا فاصلہ ہے۔ ”بَيْنَهُمْ مَسَافٌ مَسَافٌ“ ان کے درمیان بہت بعد ہے۔ السَّافُ: ٹاک۔ المَسَافُ: وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔

السَّافُ: قطع مسافت کرنے والا۔ السَّوْفِيَّاتُ: روسی قائدین نے انقلاب روس کے بعد اس لفظ کو کارکوں

زمینداروں اور فوجی قائدین کی جماعت پر بولا ہے۔ بعد میں مملکت روس پر اس کا استعمال ہونے لگا۔

السَّوْفُ: فاصلہ۔ صابر۔ خود مختار۔

السَّوْفُ: عطر دان۔

سَاقٌ يَسُوقُ سَوْفًا وَ سِيفًا وَ سِيفًا وَ مَسَاقًا وَ اسْتِيفًا: الماشية۔

جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔ صفت (سَاقٌ) سَاقَةٌ وَ سَوْاقٌ وَ سَائِقُونَ: صفت مفعول (مَسُوقَةٌ) اور کہا جاتا ہے ”سَاقَهُ مَسَاقٌ غَيْرُهُ“ اس نے اس کے ساتھ غیر کا سا معاملہ کیا۔ سَاقُ الْحَدِيثِ: بیان کرنا۔

سَاقَهُ يَسُوقُهُ سَوْفًا وَ سِيفًا: پٹنڈی پر مارنا۔ سَاقَ إِلَيْهِ الْمَالُ: بھیجنا۔ پیش کرنا مِنْ أَمْرَاتِهِ: مہربانیاں مریضِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ سِيقَ عَلَى الْمَجْهُولِ: جانک ہونا۔

سَوَّقَ يَسُوقُ سَوْفًا: اچھی اور پر گوشت پٹنڈی والا ہونا۔

سَوَّقَ النَّبْتُ: تنہ دار ہونا۔ الأَمْرُ: مالک بنانا۔ المَاشِيَةُ: جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔

سَاوَفَهُ: ہانکنے میں نحر کرنا۔

أَسَافَهُ إِسَافَةً وَ اسْتَسَافَهُ اسْتَسَافَةً: المَاشِيَةَ: ہانکنے کے لئے دینا۔

تَسَوَّقَ: خرید و فروخت کرنا۔

تَسَاوَفَتِ المَاشِيَةُ: قطار میں چلنا۔ چلنے میں بھیڑ کرنا۔

أَسَاقَ: ہانکا جانا۔ الأَبْلُ: قطار میں چلنا۔

السَّاقُ: پٹنڈی (مؤنث) سَجَّ السَّوْقُ وَ سِيفَانٌ وَ اسُوقَ: سَاقُ الشَّجَرَةِ: درخت کا تنہ۔

سَاقُ الحَمَامِ وَ سَاقُ الغُرَابِ: دو نباتات کے نام۔ سَاقُ حُرِّ: زخمی۔ کہا جاتا ہے ”كَشَفَ الأَمْرَ عَن سَاقِهِ“ یعنی

معاملہ سخت ہو گیا۔ ”قَامَتِ الحُجْرُ عَلَى سَاقٍ“ یعنی جنگ سخت ہوئی۔ وَ

”وَلَدَتِ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ عَلَى سَاقٍ وَاحِدَةٍ“ عورت کے تین بیٹے لگاتار پیدا ہوئے ان کے درمیان میں کوئی لڑکی نہیں۔

السَّاقَةُ: جلو۔ لشکر کا پچھا دستہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ فِي سَاقَةِ الحَيْشِ“ فلاں لشکر کے پچھے دستہ میں ہے۔

السُّوقِ. بازار۔ (مؤنث اور کبھی مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے) جِ اسْوَاقٍ. سوق الحزب: میدان جنگ۔
السُّوقِ. پندلی کی لمبائی۔
السُّوقَةُ. رعیت۔ عوام۔ معمولی لوگ (واحد جمع | مذکر مؤنث)
السِّيْقُ. مِنَ السَّحَابِ: بادل جس کو ہوا اُڑا دے۔
السِّيْقَةُ. جانور جن کو دشمن ہانک کر لے جائے۔ کہا جاتا ہے "الْمَرْءُ سِيْقَةُ الْقَدْرِ" مرد تابع قضاء و قدر ہے۔ السِّيْقَةُ: شکاری کی اونٹ۔ جِ سِيَانِقٍ. و سِيَقَاتٍ.
السُّوَيْقِ. سَوَّجَ اسْوَاقَهُ. شراب۔
السِّيَاقِ. عورت کا مہر۔ سِيَاقِ كَلَامٍ: اسلوب کلام۔ کہا جاتا ہے وَقَعَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي سِيَاقِ كَلَامٍ: یعنی یہ عبارت وسط کلام میں داخل ہے۔
السُّوَاقِ. ہانکنے والا۔ سَوَّيَجُهُ وَالَا يَابَانَةَ وَالَا۔
الْاَسْوَاقِ. لمبی پنڈلیوں والا۔ مؤنث سَوَّاقَةٌ جِ سُوُقٍ.
السُّوَاقِ. لمبی پنڈلیوں والا۔ تنے پر کھڑا ہونے والا پودا۔
الْمِسْوَاقِ. لکڑی جس سے جانوروں کو ہانکیں۔ اونٹ جس کی اونٹ میں چھپ کر شکار کو دھوکا دیں۔
الْمُنْسَاقِ. تابع۔ قریب۔ لمبی ڈھولان والا پہاڑ۔
سَاكٌ يَسُوْكُ سَوَّكًا و سَوَّكٌ الشَّيْءُ: رگڑنا۔ منا۔ اور اسی سے ہے "سَاكٌ الْاِنْسَانُ بِالْمَعْوَدِ" اس نے دانتوں کو لکڑی سے رگڑا۔
سَاكٌ سِوَاكًا و تَسَاوَكٌ. آہستہ چلنا۔ کزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر چلنا۔
تَسَوَّكٌ تَسَوَّكًا و اِسْتَاكٌ اِسْتِیَاكًا. مسواک کرنا۔

السُّوَاكِ. سِجِ سُوْكٍ و (الْمِسْوَاكِ) جِ مَسَاوِيكٍ. دانت صاف کرنے کی لکڑی۔ مِسْوَاكٍ.
سَالٌ يَسَالُ سَوَالًا و سَوَالًا. سَالٌ كَا اِيكٍ لِقْتٍ۔
سَوَّلَ يَسُوِّلُ سَوَّلًا. ناف کے نیچے ڈھیلے پیٹ والا ہونا۔ صفت اَسُوِّلٌ. مؤنث سَوَّلَاءٌ. جِ سَوَّلٌ.
سَوَّلٌ لَهُ الشَّيْطَانُ: گمراہ کرنا۔ کسی کام کے کرنے کے لئے روغن قازمنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مِنْ تَسْوِيْلَاتِ الشَّيْطَانِ" یہ شیطان کی گمراہیوں میں سے ہے۔ و "سَوَّلْتُ لَهُ نَفْسَهُ كَذًّا" اس کے نفس نے اس کو مزین کر دیا۔
تَسَوَّلَ الْبَطْنُ: ڈھیلا پڑنا۔
السُّوْلُ. السُّوْلُ كَا مَخْفٍ۔
السُّوْلَةُ. بہت پوچھنے والا۔
السُّوَلَاءُ. اَسُوِّلٌ كَا مَوْنِثٍ۔ بڑا ڈول۔
السُّوَيْلِ. برابر۔ کہا جاتا ہے "اَنَا سُوَيْلِكُ فِي هَذَا الْاَمْرِ" میں اس کام میں تمہارے برابر ہوں۔
سَامٌ يَسُوْمُ سَوْمًا و سَوَامًا. السِّلْعَةُ فروخت کے لئے پیش کرنا اور قیمت بتلانا۔
الْمُسْتَرَى السِّلْعَةَ: بھانڈا کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَامٌ يَسْلَعُهُ كَذًّا و كَذًّا" اس نے اپنے سامان کا اتنے اور اتنے کا بھانڈا کیا۔
سَامَتِ الْمَاشِيَةَ: جانور کا چراگاہ میں جانا۔
سَامَهُ الْاَمْرَ تَكْلِيْفٌ دِيْنَا۔ سَامَهُ حَسْفًا: ذلیل کرنا الطَيْرُ عَلٰی الشَّيْءِ: پرندہ کا منڈلانا۔
الرَوِيْحُ: ہوا کا چلنا اور جلدی سے گزرنانا۔
سَامَ النَّاقَةَ عَلٰی الْحَوْضِ: اونٹنی کو حوض پر لے جانا۔
سَوْمَةٌ الْاَمْرُ: کرنے کی تکلیف دینا۔
ه فِي مَا يَمْلِكُهُ: حاکم بنانا۔ پوری قدرت دینا فَلَانًا: کسی کو اس کے منشاء پر چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرے۔ امثال عرب میں

سے ہے "عَبْدٌ و سَوْمٌ" اس کمینے کے متعلق بولتے ہیں جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو الخَيْلُ: گھوڑوں کو چرنے کے لئے چھوڑنا عَلَيْهِمْ: لوٹ ڈال کر فساد پھیلانا الفَرَسُ: گھوڑے پر داغ لگانا۔
سَاوَمٌ سِوَامًا و مُسَاوَمَةٌ. بالسِّلْعَةِ: سامان کا بھانڈا کرنا۔
تَسَاوَمٌ. السِّلْعَةَ: فروخت کرنے میں جھگڑنا۔
فِي السِّلْعَةِ: سامان کا بھانڈا کرنا۔
اَسَامَ اِسَامَةً الْمَاشِيَةَ: جانور کو چراگاہ کی طرف روانہ کرنا اِلَيْهِ بِيَصْرِهِ: نظر ڈالنا۔
اِسْتَامَ. فَلَانًا السِّلْعَةَ: قیمت دریافت کرنا بھانڈا: زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔
تَسَوَّمَ. علامت لگانا۔
السَّامُ. موت۔ نرکل۔ واحد (سَامَةٌ) السَّامَةُ: موت۔ چاندی یا سونے کا ٹکڑا۔
کنوئیں کے اوپر کا گڑھا۔ جِ سِيمٍ۔
السِّيْمَةُ وَالسُّوْمَةُ وَالسِّيْمَا وَالسِّيْمِي. علامت دینا۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ سُوْمَةٌ الصَّلَاحِ و سِيْمَةٌ" اس کے اندر بھلائی کی علامت ہے۔
السِّيْمِيَا وَالسِّيْمِيَاءُ. علامت۔ خوبصورتی۔
السَّيْمِ. فا. خود سری سے چلنے والا۔ چرواہا۔
السَّائِمَةُ وَالسَّوَامُ. چرنے والا اونٹ۔ جانور۔ جِ سَوَائِمٍ۔
السُّوَامُ. س۔ ایک پرندہ۔
المَسَامُ. جلدی گزرتا۔
المَسَامَةُ. چوکھٹ کے نیچے والی لکڑی۔
المُسَوَّمُ. خوبصورت بناوٹ والا۔ علامت لگایا ہوا الخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ. چرائے ہوئے یا چھوڑے ہوئے گھوڑے۔
سَوِيٌّ يَسُوِي سِوِيٌّ. الرُّجُلُ: درست کام والا ہونا۔
سَوِيٌّ الشَّيْءُ: درست کرنا۔ سیدھا کرنا۔

شخص پر ہوا جس کا وجود و عدم برابر ہے اور کہا جاتا ہے ”ہما علی حد سوی“ یعنی ان کے درمیان تفاوت نہیں۔

السوی ہموار۔ درست۔ برابر۔ انصاف۔ مکان سوی: سچ کی جگہ۔ غلام سوی: بے عیب لڑکا۔ ج اسویا۔

السویۃ السوی کا مؤنث۔ برابر۔ کہا جاتا ہے ”ہم علی سویۃ فی هذا الامر“ جو سب اس معاملہ میں برابر ہیں۔ و ”قسمت بینہما بالسویۃ“ میں نے ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ لونڈیوں اور محتاجوں کی سواری۔ ج سویا۔

السی بیابان۔ برابر۔ مثل۔ کہا جاتا ہے ”ہماسیان“ وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مکان سی: ہموار جگہ۔ اور مؤنث کے لئے کہا جاتا ہے ”ماہی بسی لک ولیست المزاۃ لک بسی و مالک بأسوا“ یہ عورت یا یہ عورتیں تمہاری مثل نہیں۔ اور ”لاسمنا“ سی اور ماسے مرکب ہے اور کلمہ استشاء ہے اور مشہور یہ ہے کہ اس کا استعمال واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور لاسیما تخفف کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سبھی لامحدوف ہوتا ہے اور یہ ضعیف لغت ہے۔

لاسیما اس لفظ کے ذریعے اس کے بعد والے لفظ کو معنی میں ترجیح ہوتی ہے اس کے مقابل پر اس کلمہ (لاسیما) کے بعد والے لفظ کے اعراب میں دو توجیہ ہیں۔

(۱) مرفوع اس بنیاد پر کہ وہ مبتدا محذوف اذہارہ۔

لانفی جنس سی اسم موصولہ محلا مجرد مضاف الیہ ہی مبتدا محذوف اذہارہ اس کی خبر۔

مبتدا خبر ل کر صلہ موصولہ کا۔

لانفی جنس کی خبر محذوف موجودہ (۲) مجرور اس بنیاد پر کہ ما زائدہ سی

غیر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ”جاءوا سواء زید“ زید کے ملاوہ سب آئے اور مستوی کے معنی میں بھی جیسے ”مکان سواء و ثوب سواء“ یعنی لباسی چوڑائی برابر والی جگہ یا کپڑا۔ و ”سواء السبیل“ سیدھا راستہ۔ و هذا درہم سواء یہ پورا درہم ہے۔ سواء العجل: پہاڑ کی چوٹی۔ السواء: مثل مانند ”ہما فی هذا الامر سواء“ وہ دونوں اس معاملہ میں ایک جیسے ہیں اور اگر تم چاہو تو بجائے سواء کے سواءان بھی کہہ سکتے ہیں اور جمع کی صورت میں ہم سواء یا ہم اسواء اور خلاف قیاس ”ہم سواس و سواسیۃ و سواسیۃ“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولیلۃ السواء: تیرھویں یا چودھویں کی رات۔ اور کہا جاتا ہے ”موزت برجل سواء والعدم“ میرا گزر ایسے شخص پر ہوا جس کا وجود و عدم برابر ہے۔ اور جب سواء کے بعد ہمزہ تسویہ ہو تو ام کا ہونا ضروری ہے چاہے دو اسم واقع ہوں یا فعل۔ جیسے ”سواء علی ازید جاء ام عمرو“ میرے لئے برابر ہے چاہے زید آئے یا عمرو۔ و ”سواء علی اقمت ام قعدت“ میرے لئے برابر ہے چاہے تم کڑے رہو یا بیٹھو اور سواء کے بعد دو فعل بغیر ہمزہ تسویہ کے واقع ہوں تو ثانی کا عطف او کے ذریعہ ہوگا جیسے ”سواء علی قمت او قعدت اور اگر دو مصدر واقع ہوں تو ثانی کا عطف او اور او دونوں سے جائز ہے جیسے ”سواء علی قیامک او قعودک و قیامک و قعودک“ السوی والسوی۔ برابر۔ و۔ غیر مانند سواء کے اور یہ حرف استشاء میں سے ہیں جیسے ”جاءوا سوی زید“ اور تم کہتے ہو ”عندی رجل سواک“ تمہاری جگہ میرے پاس دوسرا شخص ہے۔ و ”موزت برجل سوی والعدم“ میرا گزر ایسے

کہا جاتا ہے ”سویۃ الموعج فلما استوی“ میں نے نیزھے کو درست کیا وہ درست نہیں ہوا۔ ہموار کرنا اور مطلقا بنانے اور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے الابار سوی الابو۔ (وساوی) بینہما وسواہ و ساواہ بہ: برابر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”سویۃ علیہ الأرض“ یعنی وہ ہلاک ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔ وساوی الشی: برابر کرنا۔ ساوی الرجل قرنہ: ہم مثل ہونا۔ قدر و قیمت میں برابر ہونا۔ علم و شجاعت میں ایک جیسا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هذا لایساوی دزہما“ یہ ایک درہم کے برابر نہیں۔

اسوی اسواء۔ رسوا ہونا۔ ذلیل ہونا۔ درست امور والا ہونا الشی: ہموار کرنا۔ اسواہ: برابر کرنا۔

تسوی: ہموار ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تسوت بہ الأرض“ یعنی وہ ہلاک ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔ تساویا۔ فی کذا: ہم مثل ہونا۔ برابر ہونا۔ ایک جیسا ہونا۔

استوی۔ الشی: معتدل و برابر ہونا۔ سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”سویۃ الشی فلما استوی“ میں نے چیز کو سیدھا کیا وہ سیدھی نہیں ہوئی الرجل۔ درست امور والا ہونا۔ پوری جوانی کو پہنچنا علیہ: غالب ہونا علی ظہر الذابۃ: جم کے بیٹھنا۔ ”استوی علی سریر المملک“ کنایہ ہے کابل قبضہ و تصرف سے الی الشی: قصد و ارادہ کرنا۔ استوت بہ الأرض: ہلاک و مدخون ہونا۔ استوی الطعام: پک کر تیار ہونا۔ السوی: ارادہ۔

السواء برابر۔ درمیان۔ سچ۔ کہا جاتا ہے ”ضرب سواءہ“ اس نے اس کے وسط میں مارا۔ و ”لقینہ فی سواء النهار“ میں نے اس سے دوپہر میں ملاقات کی اور سواء

مضاف اور ازہارہ مضاف الیہ۔

اس صورت میں لا کا اسم : سی اور خبر موجودہ۔

الاسوی اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ”هذا المکان اسوی هذه الامکنة“

الاستواء۔ س۔ درستی۔ اعتدال و (خط الاستواء) عند الجغرافیین : وہ دائرہ جو کرۂ زمین کے گرد قطبین سے برابر فاصلہ پر کھینچا ہوا فرض کیا گیا ہے اور جو زمین کو دو نصف حصوں شمالی و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خط پر سال بھر دن رات برابر رہتے ہیں۔

سبب و تسببات۔ الناقۃ ہونٹنی کا بغیر دوہنے کے دودھ بہانا۔ کہا جاتا ہے ”تسببات علی الامور“ میرے اوپر امور مختلف ہو گئے۔ و ”تسببا فلان بحقی“ فلان نے میرے حق کا انکار کے بعد اقرار کر لیا۔

انسبأ۔ اللبن دودھ کا بغیر دوہنے کے بہنا۔

السبی و السبی۔ دودھ جو تھن کے اطراف میں ہو اور بغیر دوہے ہوئے نکلے۔ ج سبوء۔

سبب سبب سبباً۔ الماء پانی کا ہر طرف کو بہنا الرجل تیز چلنا فی کلامہ بغیر غور و فکر کے بولنا الدابة جانور کا آزادانہ چلنا۔ سببہ چھوڑ دینا العید غلام کو آزاد کر دینا۔

انسب انسباً۔ تیز چلنا۔ انسابت الحیۃ سانپ کا تیزی کے ساتھ رینگنا۔ فلان نخونا بولنا۔

السبب۔ س۔ بارش۔ دلو و دہش۔ مال زیادتی۔ گھوڑے کے دم کے بال۔ کشی کا چھو۔ ج سبوء۔

السبب پانی بہنے کی جگہ۔ ج سبوء سبب (فارسی)

السیاب والسیاب والسیاب۔ کچی کھجور (بعضوں کے نزدیک بمعنی نخ۔ اور بعضوں کے نزدیک بمعنی بُر ہیں) واحد سیابۃ و سیابۃ۔ السیابۃ شراب۔ السیبان۔ صنادع محرف کلمہ ہے۔ بمعنی جوں کے اٹھے۔

السببۃ۔ چھوڑی ہوئی۔ آزاد کیا ہوا۔ غلام۔ وہ اونٹنی جو زمانہ جاہلیت میں نذر وغیرہ کیلئے چھوڑ دی جاتی تھی یا وہ اونٹنی جس کے دس ماہ بچے ہوں تو اس پر نہ تو سوار ہوتے تھے اور نہ اس کے دودھ کو سوائے (اس کے بچے کے اور مہمان کے کوئی پیتا تھا اور گھاس پانی وغیرہ سے بھی اس کو نہیں روکا جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مر جاتی تھی۔) ج سبب و سواب۔

سبج۔ الکرم انگور میں باز لگانا۔ السباج۔ دیوار۔ باز۔ ج سیاجات و السوجۃ و سوج۔ السبجان ایک قسم کی مچھلی۔

ساح یسیح سیحا و سیحانا۔ الماء پانی کا سطح زمین پر بہنا۔ صفت ماء سابع و سیح کہا جاتا ہے ”هذه الارض تسفی بالماء سیحاً“ اس زمین کی سیرابی بہتے ہوئے پانی سے ہے الظل پھرنا۔ ہٹ جانا (سیحاً و سیحانا و سیاحۃ و سیوحا) زمین میں عبادت کے لئے پھرنا۔ شہروں میں پھرنا۔ صفت (سابع) ج سیحاً و سابعون۔

سبجہ و اساحہ۔ بہانا۔ کہا جاتا ہے ”یسح تسیحاً کثیراً“ اس نے خوش بیانی سے گفتگو کی۔ اساح الفرس بذنبہ گھوڑے کا دم کو لگانا۔

انساح۔ بطنہ پیت کا بڑا ہونا۔ موٹا ہونا الثوب بکڑے کا پھٹنا۔ بانہ بکشاہ دل ہونا۔ انساحت الصخرۃ چٹان کا پھٹ جانا۔

السبج۔ سبجے والا پانی۔ دھاری دار کبل۔ ج سبوح و اسباح۔

السباح۔ مسجد میں رہنے والا روزہ دار۔ السباح بلکوں میں بہت پھرنے والا۔ المسباح۔ بُرائی اور چغلی کو پھیلانے والا۔ ج مسباح۔

المسیح۔ من الثیاب دھاری دار کپڑا۔ ساح یسیح سیحا و سیحانا مضبوط ہونا۔ ساحۃ قدمۃ فی الطین۔ گارے میں پاؤں کا دھس جانا۔

السبج بڑی چھری۔ (فارسی) السباح مٹی کی عمارت۔ ج سبوح۔ سار(ض) سیرا و تسیرا و مسیرا و مسیرۃ و سیرورۃ۔ چلنا۔ ستر کرنا ہونا و بہ چلانا الدابة جانور پر سوار ہونا السنۃ۔ عمل کرنا۔ جیسے ”و اول راضی سنۃ من یسیرھا کسی سنت پر پہلا راضی ہونے والا وہ شخص ہے جو اس کے مطابق عمل کرے۔“ کہا جاتا ہے ”سرعنک یعنی غافل ہو جاؤ اور برداشت کرو۔ اس کی تقدیر یہ ہے ”سرو دغ عنک الشک و المرأء“ سار الکلام او المثل فی الناس مشہور ہونا۔

سیر و اسار۔ الرجل چلانا الجبل عن ظهر الدابة اتار دینا۔ سیر الثوب او السبج۔ دھاری ڈالنا۔ سیر المثل۔ لوگوں میں مشہور کرنا۔ سیر سیرۃ۔ پہلے لوگوں کی باتیں بیان کرنا۔ سیرۃ من بلدہ جلا وطن کرنا۔ نکال دینا۔

سایرہ۔ ساتھ چلنا۔ تسیر۔ الجلد پھل جانا۔ تسایر۔ باہم مل کر چلنا۔ تسایر عن وجہہ الغضب زائل ہونا۔ استار استیاریا۔ زاد راہ خریدنا۔ سیرۃ۔ فلان کسی کی سیرت و عادت پر چلنا۔ سار۔ الشی تمام چیز۔ سار میں ایک لغت ہے۔

السِّيفُ: سمندرہ کا کنارہ یا ہر چیز کا کنارہ۔
جاء السِّيفِ وہ چیز جو کھجور کے ڈھنسل کی جڑ
میں چبکی ہوئی ہوتی ہے۔

السِّيفَانُ مِنَ الرِّجَالِ: لہا و پتلا مرد۔
مَوْتٌ سِيفَانَةٌ: اور بقول بعض عورتوں ہی
کے لئے مخصوص ہے۔

السِّيفُ: شمشیر زن۔ ج سِيفًا: رَجُلٌ
سِيفٌ: خون گرانے والا مرد۔ سِيفٌ
الاصْبِر: جلا۔

السِّيفُ: پارٹیاں۔
المسایف: خشک سالی۔ قحط۔ کہا جاتا ہے
”أَصَابَتْهُمْ الْمَسَايِفُ“ ان کو قحط سالی
لاحق ہوئی۔

المسيف: تلوار سے مسل۔ دلیر۔ فقیر۔
المسيف: مِنَ الذَّرَاهِمِ: درہم جس کے
کنارے نقش سے خالی ہوں مِنَ الْبُرُودِ:
چادریں جن پر تلوار کا نقش ہو یا تلوار کی
مانند چوڑی دھاریاں ہوں۔

السِّكَاكُ: کھجور کی مانند پتوں اور تنے کے
لحاظ سے لیکن صنوبر کے زیادہ قریب
درخت ہے۔ اکثر زیب و زینت کے لئے
بویا جاتا ہے۔

السِّكَاةُ: فن موسیقی کا ایک راگ
(جدید)

سَالٌ (ض) سَيْلًا و سَيْلَانًا و مَسِيلًا و
مَسَالًا: المَاءُ: بہنا۔ سَالَتْ غُرَّةٌ
الْفَرَسِ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا
لہا چوڑا ہونا۔

أَسَالُ إِسَالَةً و سَيْلٌ تَسِيلًا: المَاءُ:
جاری کرنا۔ بہانا۔ سَالُ الْجَامِدِ: گچھلانا۔
أَسَالُ غَرَارَ النَّضْلِ: لہا کرنا۔

تَسَائِلُ الْقَوْمِ: ہر طرف سے آنا۔
السَّائِلَةُ: مِنَ غَرَرِ الْخَيْلِ: گھوڑے کی
ناک تک پیشانی کی سفیدی۔ تَسَوَّأْتُ
السَّيْلَ: من۔ بہنے والا۔ کہا جاتا ہے ”مَاءٌ
سَيْلٌ“ بہنے والا پانی السَّيْلُ: سیلاب۔ ج
السَّيْلُ: سبیل۔

السِّيسَاءُ الظَّهْرُ مِنَ الذُّوَابِ: چانوروں کی
پیشہ پر سوار ہونے کی جگہ۔

السِّيطْرَةُ سَيْطْرَةٌ و تَسَيْطُرُ: نگہبان ہونا۔
داروغہ ہونا۔
سَاعٌ يَسْبِغُ سَبْعًا و سُبُوعًا: الشَّيْ:
ضائع ہونا و انساع و تَسْبِغُ: المَاءُ: پانی
کا ادھر ادھر بہنا۔ انساع الجامد: جمی
ہوئی چیز کا پھلنا۔

السِّيعُ: الحَائِطُ بِالطِّينِ: دیوار کا مٹی سے
لیپا الشَّيْ: تیل وغیرہ ملنا۔
أَسَاعُ: الشَّيْ: ضائع کرنا۔
السِّيعُ: من۔ سطح زمین پر بہنے والا پانی۔
السِّيعُ: گارا۔ کھگل۔

السِّيعَاءُ و السِّيعَاءُ: رات کا حصہ۔ کہا
جاتا ہے ”خَرَجْتُ بَعْدَ سِيعَاءِ مِنَ اللَّيْلِ“
رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد میں
نکلا۔

المسيععة: کرنی۔ کھگل کرنے کا اوزار۔
نَاقَةٌ (مَسِيْعٌ) بچہ کو چھوڑ کر چرنے کے
لئے جانے والی اونٹنی۔
سَاعٌ يَسْبِغُ سَبْعًا: الشَّرَابُ: خوشگوار
بھانا۔

السِّيعُ مِنَ الشَّرَابِ: خوشگوار شراب۔
سَافَتْ تَسِيفُ سَيْفًا: أَلِيدُ: ناخن کے
ارد گرد پھٹنا۔

سَافَهُ يَسِيفُهُ سَيْفًا: تلوار سے مارنا۔
تَسِيفُهُ: تلوار سے مارنا۔

سَائِقُوا و تَسَائِقُوا و اسْتَأْفُوا اسْتِيفًا:
ہاہم تلوار بازی کرنا۔ و اسْتِيفَ الْقَوْمُ:
تلوار سے مارا جانا۔

السِّيفُ: تلوار۔ ج السِّيفِ و سَيْوْفُ
وَأَسِيفٌ و مَسِيفَةٌ: (السَّائِفُ) تلوار
سے مسل۔ سَيْفُ الْجَبَّارِ: تین ستاروں
کے نام۔ سَيْفُ الرِّيحِ: ایک قسم کی
نباتاں۔

السِّيفُ و السِّيفُ: ایک قسم کی مچھلی جس
کی لمبی سی چونچ نیزہ کی مانند ہوتی ہے۔

السِّيرُ: تسمہ۔ ج سَيُورٌ و سَيُورَةٌ
وَأَسْيَارٌ.

السِّيرَةُ: سار کا اسم۔ عادت۔ طریقہ۔
طرز زندگی۔ بَيْتٌ سِيرَةُ الرَّجُلِ: سوانح
عمری۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کی
کیفیت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ حَسَنُ السِّيرَةِ“
وہ اچھی عادت والا ہے۔ اور اسی سے عرب
کا قول ہے ”مَنْ طَابَتْ سِرِّيَّتُهُ حُمِدَتْ
سَيْرَتُهُ“ جس کا باطن اچھا ہوتا ہے اس کی
عادت اچھی ہوتی ہے۔ ج سِيرٌ

السِّيَرَاءُ: دھاری دار چادریں یا ایسی
چادریں جن میں ریشم ملا ہوا ہو۔ خالص
سونا۔ ایک قسم کی نباتات۔ گھٹلی سے چمٹا
ہوا چھلکا۔ دل کا پردہ۔ کھجور کی ٹہنی۔
السَّائِرُ: فَا. سَائِرُ الشَّيْ: چیز کا بقید۔
المَثَلُ السَّائِرُ:

السَّبَّارُ و السِّيرَةُ و السَّيُورُ: بہت چلنے
والا۔

السِّيَارَةُ: السَّبَّارُ کا مؤنث۔ قافلہ۔
آفتاب کے گرد گھومنے والا ستارہ۔ جیسے
زحل | مشتری | مریخ | زمین | زہرہ | عطارد
وغیرہ۔ ج سَيَارَاتُ: السِّيَارَةُ: موٹر کار۔
التَّسْيَارُ: من۔ سیر کا مبالغہ۔

المَسُورُ: من۔ قیاس کے لحاظ سے مسیر
ہے۔ مگر مصدر سے التَّسْيَارُ کی وجہ سے
بدل دیا گیا طَرِيقٌ مَسُورٌ: آمدورفت والا
راستہ۔

المسيرة: من۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے
”بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ يَوْمٌ“ ان دونوں کے
درمیان ایک دن کی مسافت ہے۔

المُسَيْرُ مِنَ الْغِيَابِ: دھاری دار کپڑا۔
السِّيرُجُ: تل کا تیل۔
سَيْسٌ يَنْسِيَسُ نَسِيَسًا: الطَّعَامُ: گھن
پڑنا۔

سَسَاةٌ: محرم دلاک عار دلاک
السِّيسُ: چنبیلی کا پودہ۔
السِّيسَاءُ: ریڑھ کی ہڈی کے جوڑی کی جگہ۔

السَّيْلَةُ. پانی بننے کی جگہ۔ سال کا اسم

مرۃ۔

السَّيْلَةُ. پانی کا بہاؤ۔

السَّيْلَانِ. ایک قیمتی پتھر۔ تلوار کا وہ حصہ

جو میان میں داخل ہو۔ صیالین۔

السَّوَانِلُ. مِنَ الْمَعَادِنِ وَغَيْرِهَا: بننے

والی چیزیں۔

السَّيَالُ. سفید لہے کا تھوں والا ایک پودہ

کہ جب کانٹے کو توڑتے ہیں تو دودھ کی

ماندر نکلتا ہے۔ واحد سَيَالَةٌ.

السَّيَالُ. زور سے بننے والا۔ مؤنث سَيَالَةٌ

السَّيَالُ: ایک قسم کی مچھلی۔

مَسِيْلُ الْمَاءِ: پانی بننے کی جگہ۔ ج

مَسَائِلُ وَمُسَلُّ وَأَمْسَلَةٌ وَمُسْلَانُ.

المُسَالُ. مِنَ الْوُجْهِ: ڈاڑھی نکلنے کی

ایک جانب۔

سَيِّمًا قَوْعَرًا: وہ آلہ جو کہ بنائی گئی

تصاویر کو سکرین پر پیش کرنے کے لئے تیار

کیا گیا ہو۔ وہ گھر جس میں مناظر سینمائی

دکھائے جائیں۔

أَسِيْرًا: سینما کا جدید آلہ جو کہ اشخاص کی

تصاویر وغیرہ ایسی عمدہ پیش کرتا ہے گویا کہ


وہ اصلی اور حقیقی ہیں۔

السَّيْمُونِيَّةُ. سیمون جادوگر کی طرف

منسوب۔ ہال کے ذریعہ روحانی مراتب کے

درجہ پر پہنچنے کی کوشش۔

سَيَّةُ الْقَوْسِ: کمان کا سرا۔ ج سیات۔



اشام۔ ملک شام کا ارادہ کرنا۔ ملک شام میں آنا۔ سر اٹھائے ہوئے گزرتا۔
تشام و تشام۔ ملک شام کی جانب منسوب ہونا۔ بائیں طرف ہونا۔
تشام و استشام۔ بہ بدقالی کرنا۔ بد شگون لینا۔
الشوم۔ نحوست۔ کالے اونٹ۔
الشام و الشام۔ ملک شام کی جانب منسوب۔
الشام۔ فاحشو۔ لانے والا۔
الشامة و المشامة۔ نحوست۔
الشيمة و الشيمة۔ خلق۔ ضیبت۔
عادت۔ ج شیمہ۔
الاشام۔ اسم تفضیل اور اسی سے ہے "اشام کل امری بین لحيه" ہر آدمی کو بد بختی لانے والی چیز اس کے دونوں جیزوں کے درمیان ہے۔ یعنی زبان۔ بد بختی لانے والا۔
مؤنت شومی۔
واليد الشومي۔ بلیاں ہاتھ۔
الاشام۔ اشام کی جمع۔
المشوم و المشوم۔ نحوست۔ بد بخت۔
ج مشائم۔
شان (ف) شاناً صاحب عزت و مرتبہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شان شانك" اس نے تمہارے ارادے جیسا ارادہ کیا۔ "ما شان شانك" اس نے تمہارے کام کی پرواہ

گنا۔
تشاشاً۔ القوم: متفرق ہونا۔ بکھرتا۔
الشاشاء۔ س۔ ایک قسم کی ردی کھجور۔ کھجور کے لمبے درخت۔
شيفت (س) شافاً۔ الرجل: آبلہ پڑنا۔ صفت (مشوفة) شيفت اصابعه: تاخنوں کے ارد گرد پھٹنا۔ (شافاً و شافة) فلانا و لفلان: بغض رکھنا۔
شيفت: خوفزدہ ہونا۔ ڈر لیا جانا۔ صفت (مشوف) شيفت الرجل: آبلہ پڑنا۔
استشافت: القرحاة: خراب ہو کر جڑ پکڑ لینا۔
شاف الخبز: زخم کی خرابی۔
الشافة: جڑ لوے کا زخم۔ کہا جاتا ہے "استاصل شافة" اس نے اسے جڑ سے کھو دیا۔ و "بينهم شافة" ان کے درمیان عداوت ہے۔ و استاصل الله شافتهم" اللہ تعالیٰ ان کی عداوت کو دور کرے۔
شافة الرجل ابل و مال۔
رجل شافة: معزز و بلند مرتبہ مرد۔
شام (ف) شاماً القوم و عليهم: بد بختی ڈالنا۔ صفت (شانم)۔
شوم (ک) شامة و شتم عليهم: نحوست و نامبارک ہونا۔
شامهم: ملک شام کی طرف روانہ کرنا۔
شام مشامة: بہ بائیں طرف لینا۔
الرجل ملك شام میں آنا۔

ش: الشين: بنیادی حروف میں سے تیر ہوا ہے۔ یہ حروف شجر یہ سے ہے۔
حساب جمل میں اس کے نمبر (۳۰۰) ہے۔
الشؤبوب: بادش کی پوجھا۔ دھوپ کی تیزی۔ ہر چیز کی حد۔ ہر چیز کی شدت و دفع۔ آغاز حسن۔ ج شایب کہا جاتا ہے "هو حسن شایب الوجه" اس کے چہرے کا آغاز حسن لیتھا ہے۔
شيز (س) شازا و شوزة و شوزا۔ المكان: سخت اور بلند ہونا۔ ناموار ہونا۔ صفت (شاز و شيزة) (و شيز) بے آرام ہونا۔ ڈرنا۔
اشازة: رنجیدہ کرنا۔ بے آرام کرنا۔
ڈرانا۔ اشاز الرجل: عن سخدا بلند ہونا۔
اشتاز: بد کرنا۔
الشازة: اسم مرة خيل شازة: موٹا گھوڑا۔
المشيز و المشوز: بے آرام۔ بے قرار۔ خوفزدہ۔
شيس (س) شاساً: الشئ: سخت ہونا۔
الرجل: مرض یا عم سے بے قرار ہونا۔
المكان: سخت و ٹھیکڑ دار ہونا۔ مکان (شيس و شاس) سخت و ٹھیکڑ والی جگہ۔
ج شيس و شوس۔
شاشاً شاشاة و شاشاء: الراعي الغنم أو الحمير و بها: شاشاً یا شوشاً شوشاً کہہ کر ہانکنا۔ درخت خرمائیں کا پھل

نہیں کی۔ "اشان شانک" اپنی حالت پر رہو۔
 اشتان شانک: کسی کے ارادے جیسا ارادہ کرنا۔
 الشان: شوون و شان و شین۔
 بڑے بڑے امور و احوال۔ معاملہ۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "من شانہ کذا وان يفعل کذا" اس کی طبیعت سے ہے کہ ایسا کرے۔ "ماشانک" تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ شوون و شوون سر کی پڑیوں کے ملنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ "بلغت الرائحة الى شوون رأسيه" خوشبو اس کے سر کی پڑیوں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ گئی۔ پہاڑ کی مٹی کہ جس میں درخت آگے شوون و اشون رگ کہ جس سے آبی جاری ہوں۔ کہا جاتا ہے "فاضت شوونہ" اس کی آنکھ کی رگیں جاری ہو گئیں شوون: حاجتیں۔ کہا جاتا ہے "کلفتی شوونک" اپنی حاجتوں کی خدمت میرے سپرد کر دو شوون الحمر: شراب کا اثر جو جسم کی رگوں میں برایت کرے۔ شای یشو و شاو و اشائ اشتاء۔ القوم: آگے بڑھ جانا۔ شای التراب من البئر: کنوئیں سے مٹی نکالنا۔ شانی مشاءة۔ القوم: آگے بڑھنا۔ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تشانی تشانیا۔ القوم: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ متفرق ہونا۔ تشاءى ما بينهما فاصلا پر ہونا۔ الشاو: سر۔ مدت۔ غایت۔ کہا جاتا ہے "فلان بعيد الشاو" یعنی فلاں عالی بہت ہے و "عداشاو" وہ ایک چکر دوڑا۔ الشاو: اونٹنی کی مہار۔ اونٹنی کی میٹلیاں۔ زنبیل۔ کنوئیں کی نگلی ہوئی مٹی۔ المشاة۔ کنوئیں کی نگلی ہوئی مٹی۔ نوکری جس سے کنوئیں سے مٹی نکالی جائے۔ ج

المشانی
 شب (ض) شبانا و شبیة الغلام:
 جوان ہونا۔ کہتے ہیں "من شب الى ذب" جوانی سے بڑھائے تک۔
 شب (ن) شبیا و شبابا و شبونا۔
 الفرس: آگے اگلی ناگوں کو اچھانہ نشاط میں ہونا۔ عرب کا مقولہ ہے "الجوهر شب بعضه بعضا" جوہر میں سے بعض بعض کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔
 شب (ن) شبا و شبوبا۔ النار: آگ روشن کرنا۔ شبت النار: آگ روشن ہونا الشی: بلند ہونا۔ بڑھنا۔ شب الشی: زیادہ کیا جانا۔ بلند کیا جانا۔ شبت النار: روشن ہونا۔ شبت له الشی: اللہ کی طرف سے مقدر کیا جانا۔ شب و شبیب: جوانی اور کھیل کود کے زمانہ کا ذکر کرنا الشاعرو بالفتاة: عورتوں کے حجاز و اوصاف کو بیان کرنا۔ شب قصيدة: عورتوں کے ذکر سے آراستہ و بزمین کرنا۔ کہا جاتا ہے "شب قصيدته بفلائة" شعراء کی عادت تھی کہ قصائد مدیہ کی ابتداء میں تشبیب کیا کرتے تھے۔ پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے اگرچہ ایام شباب کا ذکر نہ ہو۔ شب الكتاب: کتاب شروع کرنا۔ شبت النار: آگ روشن ہونا۔ بھڑکانا۔ شب الغلام: لڑکے کا جوان ہونا۔ الرجل: جوان اولاد والا ہونا اللہ الغلام: لڑکے کو جوان کرنا الفرس: گھوڑے کو آسانا الثور: بیل کا پوڑھا ہونا۔ حفت (مشب و مشب و مشب و مشب) مشب له کذا: مقدر کیا جانا۔ المشب: پھکری کے مشابہ ایک معدنی نمک جس کا رنگ سفید اور بعض کا نیلگوں ہوتا ہے۔ جوان۔ شب الليل: ایک قسم کی نباتات۔ الشباب و الشبیة: جوانی بلوغ سے

تیں برس تک کا زمانہ۔ ابتداء سے شباب النهار: دن کی ابتداء۔ الشباب بمعنى تشبیب کہا جاتا ہے۔ اچھی تشبیب والا قصیدہ اور شبیہ کی جمع شبائب۔ الشوب: عمدہ بنانے والا۔ آہستہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هذا شوب لکذا" یہ اس کے حسن و قوت کو بڑھانے والا ہے۔ مثل الحمار شوب لوجهها" اور معنی اس کے چرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے (و الشیاب) جس سے آگ جلائی جائے۔ الشبابة: ایک قسم کی بانسری (مولدہ) عوام اس کو مستحیرہ کہتے ہیں۔ الشاب والشب: جوان و شباب و شبان و شبیة۔ مؤنث شابة و شبیة۔ ج شبابت و شبیات و شوات و شباب۔ المشب شرب۔ المشوب من الرجال: تیز خاطر مرد۔ المشوبتان: زہرہ۔ مشتری۔ نار مشبوبة: بھڑکانی ہوئی آگ (نار شانیہ نہیں بولتے)۔ الشبب: سونے کا ساگ۔ شبب (س) شبنا و شبت. بکذا: چٹنا۔ معلق ہونا۔ رجل (شبتة) اپنے مقابل کو چٹنے والا۔ الشبب: کڑی۔ ایک قسم کا کیرا جس کی ٹانگیں بہت ہوتی ہیں۔ ج اشبات و شبان. رجل (شبت) چٹنے والی طبیعت والا مرد۔ الشبات و الشبوت. شبر سے والی۔ شبح شبابت۔ الشبح. الباب: دروازہ بھیرنا۔ الشبح: بلند دروازہ یا دروازہ۔ واحد (شبحہ) شبح (ف) شبحا۔ الشی: چھاننا۔ چرنا الجلد: کھونٹیوں سے کس کر پھیلاتا الرجل: گھینا الداعی: دعا کے لئے ہاتھ

پھیلا نا
فلانا له کسی کے سامنے سیدھا
کھڑا ہونا۔
شبیح (س) شباحۃ۔ لمے چوڑے بازوؤں
والا ہونا۔
شبیح بوزھے ہونے کی وجہ سے ایک چیز
کو دور رکھنا الشی: پھیلا نا جوڑا کرنا۔
تشیح الخرباء علی العود بحرمات کا
کڑی پر دراز ہونا۔
الشیح والشیح فضیلت نامہ عمدت کا
دروازہ۔ ج شبوح واشباح اشباح
المال: نظر آنے والا مال جیسے اونٹ
گائے بکری وغیرہ۔
الشیحۃ اسم برقعہ کہا جاتا ہے "نزع
سقف بینی شبیحۃ شبیحۃ" اس نے
میرے گھر کی چھت سے ایک ایک کڑی
نکال لی۔
عند المولدين: گھوڑے کی ٹانگیں
پانہ صخر کی رسی۔
المشجۃ: وہ تصاویر جو سکرین پر سینما گھر
میں دکھائی جاتی ہیں۔
الشیحان: منقلہ کھیل کود کی دو کڑیاں۔
(دیکھئے منقلہ)
الشیدع والشیدع والشیدعۃ: بچھو۔
مصیبت۔ زبان۔ ج شبیدع
شیر (ن ض) شیرا۔ الثوب و نحوه:
باشت سے تاپنا۔ شبرۃ مالا: کسی کو مال
دینا۔
شبر (س) شبرا۔ الرجل: اڑنا۔ اترنا۔
شبر الشی: اندازہ کرنا فلانا: تعظیم
کرنا۔
الشبر: فلانا: فضیلت دینا ہ مالا: دینا
الرجل: لمے قد کے بیٹوں والا ہونا۔ پتہ
قد بیٹوں والا ہونا۔
تشابیر الفریقان فی الحرب: ایک
دوسرے کے قریب ہونا۔ یہاں تک کہ
ایک باشت کا فاصلہ رہ جائے۔

تشیح: بڑا ہونا۔
الشبر: س۔ مہر۔ کہا جاتا ہے "نزع جہا
ولم یعطها شیرھا" اس نے اس عورت
سے نکاح کیا اور اس کو مہر نہیں دیا۔ نکاح۔
عمر۔ قد و قامت۔
الشبر: عرب۔ باشت۔ ج اشبار۔ کہا جاتا
ہے "هو قصیر الشبر" وہ قریب قریب
قدم رکھنے والا ہے۔
الشبر: عطیہ۔ خیر۔
الشبرۃ: قد و قامت (طویل ہوا قصیر)
الشبرۃ: عطیہ۔
الشبور: بگل۔ ج شبایبر و شبورات
(کلمہ عبرانی سے)
شابر: المیزان۔ چور۔
فلائ (اشبر) منک: فلاں تم سے وسیع
باشت والا ہے۔
الاشبور: ایک قسم کی مچھلی۔
المشایر: نقی زمین سے گزرنے والے
دریا جن میں ہر دو جانب کا پانی آتا ہے۔
واحد (مشیر و مشیرۃ)
شبرقۃ: کلوے کلوے کرنا۔ شبرق
اللحم: پارچہ پارچہ کرنا۔ شبرقت الدابة
فی مشیھا جانور کا دور دور قدم رکھنا
الباری الصید: نوچنا اور پھیلانا الثوب:
بڑا ہونا۔
الشیبارق والشیبارق: کلوے۔ کہا جاتا
ہے "ثوب شیبارق و شیبارق و شیباریق
و شبرق و شبراق" کلوے کلوے کیا ہوا
کڑا۔
الشبرق: بلی کا بچہ۔ ج شبارق۔
الشبرقۃ: کپڑے کا کٹورا۔
الشیبارق: من کیل شی۔ تختی۔
ثوب (مشبرق) بڑا ہوا کپڑا۔
تشبص: الشجر: آپس میں گتھا ہوا
ہونا۔
الشبص: درخت کے کانٹوں کا آپس میں
گتھا ہوا ہونا۔ تختی۔

شباط: بڑی مہینہ مطابق فروری۔
الشبوط والشیبوط والشیبوط: ایک
قسم کی مچھلی جس کا سر چھوٹا اور درمیان
حصہ چڑا ہوتا ہے۔ ج شبایط۔
شعب (س) شیعۃ و شیعۃ: ومن الطعام:
شکم سیر ہونا۔ تم کہتے ہو "شعبت من هذا
الامر و رویت" جبکہ تم کسی معاملہ سے
مول ہو جاؤ۔
شعب (س) شیعۃ: عقلۃ: بہت عقل
والا ہونا۔
شعبت: غنمہ: آسودگی کے قریب ہونا۔
اشبعۃ: کھلا کر شکم سیر کرنا الشی: زیادہ
کرنا الثوب من الصبیغ: خوب گہرا رنگنا
الکلام: کلمہ کہنا۔
تشیع: جگت شکم سیر ہونا۔ ظاہر کرنا۔
بہت کھانا۔
الشعب والشعب: کھانے کی وہ مقدار جو
سیر کر دے۔
الشعبۃ: آسودگی کے بعد بچا ہوا کھانا۔
الشعبۃ: ایک مرتبہ پیٹ بھرنے کی
مقدار۔
الشعبان: شکم سیر۔ مؤنث شبعی و
شعبۃ: ج شباع و شباعی: کہا جاتا ہے
"ھی شبعی الذراع" وہ برگوشت پارہ
والی ہے۔ و "شبعی الخلیخال أو السوار
والذراع" یعنی موٹی۔
الشعبۃ: شکم سیر عورت۔
الشعب: بہت۔ کہا جاتا ہے "ثوب شبع
الغزل" بہت سوت والا کپڑا۔ و "رجل
شبعی العقل" بہت عقل والا مرد۔ و
"حبل شبع" بہت ٹوں والی رسی۔ ج
شعب۔
شبق (س) شبقا: بہت شہوت والا ہونا۔
صفت (شبق) مؤنث شبقۃ۔
من اللحم: گوشت کھانے سے بدبھنی
ہونا۔
الشوبق: بیلن۔ ج شوابق (کلمہ فارسی

مشابہ ہونا۔

الشَّابَّةُ بُوزَانِدَةٌ بِجُودٍ يَارِدٌ بِجُودٍ - دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا **مِنَ السَّيْفِ** - دھار۔ بچھو کا ڈک۔ ہر چیز کی حد۔ **جَ شَبَا** و شَبَوَاتٍ بِوَقُوفٍ مُرَدٍّ - کہا جاتا ہے "هَذَا رَجُلٌ شَبَاةٌ بِمِثْلِ بِيَدِهِ يَوْفٍ مُرَدٍّ" - شَبَاةٌ بِجُودٍ کے لئے علم ہے اور علمیت تائید کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور کبھی اس پر الف اہم بھی آتا ہے۔

الشُّبُوكُ - دکھ۔ تکلیف۔

شَتَّ (ض) شَتَا وَشَتَاتًا وَشَتَيْتًا مَتَرَقٌ ہونا (وَشَتَّ وَاشْتَّ) الْأَشْيَاءُ مَتَرَقٌ کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشْتَّ بِنِي قَوْمِي" ہمیری قوم نے میرے کاموں کو پراندرہ کر دیا۔

تَشَّتْ وَانْشَتَّ وَانْشَتَّتْ. الشَّمْلُ مَتَرَقٌ ہونا۔

الشَّتُّ - پراگندگی۔

أَمَرَ (شَتَّ وَشَتَاتًا) بِرَأْدِهِ وَ مَتَرَقٌ - کام (مصدر سے وصف لایا گیا ہے) جَ اشْتَاتَ کہا جاتا ہے "جَاءُوا شَتَاتًا وَ جَاءُوا اشْتَاتَاتٍ شَتَاتٍ" وہ لوگ متفرق سے ہے۔

شَتَانٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ اور کبھی نون کسور ہوتا ہے۔ اسم فعل ہے بَعْدَ کے معنی میں۔ کہا جاتا ہے "شَتَانٌ بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا زَيْدٌ وَأَخُوهُ" یعنی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔

الشَّيْتُ - پراگندہ۔ متفرق۔ ح شَشْتِي (جیسے مریض و مرضی) نَفَرٌ شَشِيْتٌ - چھدرے دانٹ۔

أَنَاسٌ (شَشْتِي وَشَشَوَاتٍ) مُخْتَلَفٌ قَبَائِلَ کے لوگ۔ اَشْيَاءٌ شَشِيَةٌ بِخِلْفٍ چیریں۔ اور کہا جاتا ہے "وَفَعُوا فِي أَمْرِ شَشِيٍّ" وہ لوگ متفرق امور میں پڑے۔

(ن ض) شَتْرًا. الشَّيْءُ كَانَا - شَتْرًا لِرَجُلٍ كَرْنَا الرَّجُلَ

العَيْنَ يَلِكُ الْكِنَا۔

شَتْرٌ (س) شَتْرًا كِنَا۔ نیچے کے پھنے ہوئے ہونٹ والا ہونا یہ گالی دینا۔ (وَشَتْرٌ لَيْتِي هُوَ يَلِكُ الْكِنَا) نیچے کے ڈھیلے پلک والا ہونا۔

شَتْرٌ عَيْنَهُ يَلِكُ الْكِنَا۔ گالی دینا۔ عیب لگانا۔ مَنَحَ بَاتِمِ سَنَا۔

انْشَتْرَتْ. عَيْنُهُ لَيْتِي هُوَ يَلِكُ الْكِنَا۔ ہونا۔

الشَّتْرُ - عیب۔ کِنَا۔ پلک لٹنا۔ عیب و نقص۔ الشُّتْرَةُ - دُؤَالِغِيوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الشُّتْرُ بہت عیب و برائی والا۔ بدخلق۔ الاَشْتْرُ لَيْتِي هُوَ يَلِكُ الْكِنَا۔ پھٹی ہوئی پلک والا۔ نیچے کی ڈھیلے پلک والا۔ نیچے کے پھنے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنَتْ شَتْرًا رَجَ شَتْرًا۔

الشُّوْقَرَةُ - بڑے سرین کی عورت۔ شَتَّعَ (س) شَتَّعًا بِيَارِيًّا يَجُوهُوكُ كِي وَجِہ سے گھبراہٹا۔

شَتَّعَ (ض) شَتَّعًا وَوَدْنًا ذَلِيلٌ كَرْنَا۔ اَشْتَّعَ تَلَفٌ كَرْنَا۔ بِلَاكٌ كَرْنَا۔

المَشَاتِغُ بِلَاكِيْنٌ - شَتَّلٌ يَشْتَلُّ شَتْلًا وَشَتَّلَ اشْتَلَّ (سریانی لفظ) پودے کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانا۔ الشَّتْلَةُ "اشْتَلَّ" کا واحد: وہ پودا جس کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ اس کو ہماری زبان میں "ہجیری" بولتے ہیں۔

الْمَشْتَلُّ - لگانے کی جگہ تاکہ اگنے کے بعد اس کو دوسری جگہ لگایا جا سکے۔ الْمَشْتُولُ - وہ شخص جس کا لباس غیر منظم ہو۔

شَتْمَةٌ (ن ض) شَتْمًا وَمَشْتَمَةٌ وَمَشْتَمَةٌ وَمَشْتَمَةٌ وَتَشَامًا گالی دینا (شَتْمًا) گالی دینے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَاتَمَهُ فَشَتَمَهُ" اس نے اس سے

گالی دینے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔ شَتْمٌ (ک) شَتْمًا۔ بد صورت و کریہ المنظر ہونا۔ صفت (شَتِيمٌ) الشَّتِيمُ غَضْبَانٌ شَرٌّ۔

شَتْمَةٌ بہت گالی دینا۔ شَاتَمَهُ بِأَمِّهِ گالی گلوچ کرنا۔

تَشَاتَمَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

تَشْتَمُ گالی سننے کے درپے ہونا۔ الشَّتَامَةُ - بد صورتی کے ساتھ بدن کی درشتی۔

الشَّتِيمَةُ گالی۔ جَ شَتَانِمٌ. الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ - بڑے چہرہ والا۔ بدخلق۔

الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ بہت گالی دینے والا۔ الشَّتَامَةُ شَرٌّ غَضْبَانٌ۔

شَتْنٌ (ن) شَتْنًا. الثَّوْبُ كَبْرَةٌ كُوْنَتَا - صفت (شَاتِنٌ)

الشَّتْنُ - کہا جاتا ہے "رَجُلٌ شَتْنٌ الكَفِّ" سخت ہتھیلی والا مرد۔ الشَّتُونُ بننے والا۔

شَتَا يَشْتُو شَتْوًا وَشَتِي تَشِيَةً وَتَشْتِي تَشِيًا. بِالْبَلَدِ كِي شَمِيرٌ مِيں جَارَةٌ مِيں قِيَامٌ كَرْنَا۔ شَتَا وَتَشْتِي الْمَكَانَ بِزَمَانٍ سَرْمَا قِيَامٌ كَرْنَا۔ شَتَاةً بِزَمَانٍ سَرْمَا كَرْنَا۔

شَتَا يَشْتُو شَتْوًا وَشَتِي وَشَتِي وَالشَّتِي الْقَوْمُ: موسم سرما میں داخل ہونا۔ موسم سرما میں تھو ساری کی تکلیف اٹھانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْءٌ يَشْتِي" یہ زمانہ سرما میں میرے لئے کافی ہوں۔ شَتَا الشَّتَاءُ: سردی پڑنا۔

شَاتِي مُشَاتَاةً وَشَتَاءً. الرَّجُلُ جَارَةٌ بَمَرِّهِ كَرْنَا لِمَعَامَلَةٍ كَرْنَا۔

الشَّتَاءُ - موسم سرما۔ جَ اشْتِيَةٌ وَشَتِيٌّ اور نسبت کے لئے (شَتْوِيٌّ وَشَتْوِيٌّ) الشَّتْوِيٌّ: جارجے کی بارش فاکھنہ

الشجاء: آگ۔
الشتاء والشتاء: قحط۔
الشتاء والشتوة: جازا۔ صاحب
الشتوة: وہ شخص جس کے پاس جائے
میں پناہ لیں۔
الشتی جائے کی بارش۔
المشتی والمشتاة: جائے کا زمانہ یا
جائے کی جگہ۔ موسم سرما گزارنے کی
جگہ۔ ج المشاتی۔

کھا جاتا ہے هذه مہشاتینا ومصایفنا
ومرایعنا۔ یہ ہمارے سرمائی و گرمائی و
ربیعی منازل ہیں۔
الشت: چھوٹے سیب کی طرح خوشبودار
کڑوے مزے کے پھل کا ایک درخت۔
جس میں کانٹے نہیں ہوتے اور اس کے
پتوں کو چڑے کی دباغت میں استعمال
کرتے ہیں۔ جنگلی اخروٹ۔ شہد کی مکھیاں۔
پہاڑ کی چوٹی جو ٹوٹنے کے بعد سنگرہ کی مانند
رہ جائے۔ ج شفاث: واحد (الشتة)
الشت: ہر چیز کی بہت تعداد۔
شثوت (س) شثوا۔ عینہ: آنکھ موٹی
ہونا۔

شجر (ن) شجرا۔ الشئی: باندھنا۔
فلانا: علیحدہ کرنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے
"ما شجرك عن كذا" تم کو فلاں سے
کس چیز نے روکا الرجل بالمرح: نیزہ
نارنا فینہ: لکڑی سے کھولنا الداباة: جانور
کو ٹھہرا لینے کے لئے لگام سے لادنا یہاں
تک کہ وہ منہ کھول دے الشجرة: درخت
کے بعض حصے کو پکڑنا الیبت: ستون لگانا۔
النبات: جھکی ہوئی ٹہنیوں کو اٹھانا۔

شجر (ن) شجرا و شجورا: بینہم
امر: مختلف فیہ ہونا اور کہا جاتا ہے
"شجر ما بینہم" باہم جھگڑنا۔
شجر (س) شجرا الرجل: بہت
جمعیت والا ہونا۔

شجر النبات: درخت ہو جانا النخل:
ٹوٹنے کے خوف سے خوشہ کو ٹہنی پر
رکھنا۔
شاحرہ مشاحرة: جھگڑا کرنا الماشیة:
گھاس وغیرہ ختم ہو جانے سے درخت کے
پتوں پر گزارہ کرنا الماشیة: جانوروں کو
درخت چرانا۔

شجر (ن) شجرا و شجوبا و شجوب
(س) شجبا ہلاک ہونا۔ مرنا۔ غمگین
ہونا۔ صفت (شجب و شجابت) الشئی:
جانا۔

شجبت (ن) شجبتا: الغراب: کوکے کا
جدائی کے لئے آواز کرنا۔
اشجبة: غمگین کرنا۔
تشاجب الشئی: خلط ملط ہونا۔ بعض کا
بعض میں داخل ہونا۔
تشجبت غمگین ہونا۔
الشجبت: حرجت۔ غم۔ ستون خانہ۔
مشک کہ جس کا نصف کاٹ کر ڈول بنا
لیں۔ ج شجوب و اشجاب:
الشجبت: حرج و تکلیف جو م نہی یا
قہر کی وجہ سے لاحق ہو۔ ج شجوب

شجرت (س) شجرتا و شجرت (ک)
شجولة: اصابعہ: موٹی ہونا۔
شجول الاصابع: سخت اور موٹی انگلیوں
والا۔
قدم (شجولة) مونا اور سخت قدم۔
شش: بمعنی ششل۔
شج (ن) شج: الراس: زخمی کرنا۔
توزنا: کہا جاتا ہے "فلان یسج مروة"
ویاسومروة: فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی
درست کرتا ہے۔ شج المفارة: بیابان
طے کرنا۔
المركب البحر: جہاز کا سمندر کو

شجبت (ن) شجبتا: الغراب: کوکے کا
جدائی کے لئے آواز کرنا۔
اشجبة: غمگین کرنا۔
تشاجب الشئی: خلط ملط ہونا۔ بعض کا
بعض میں داخل ہونا۔
تشجبت غمگین ہونا۔
الشجبت: حرجت۔ غم۔ ستون خانہ۔
مشک کہ جس کا نصف کاٹ کر ڈول بنا
لیں۔ ج شجوب و اشجاب:
الشجبت: حرج و تکلیف جو م نہی یا
قہر کی وجہ سے لاحق ہو۔ ج شجوب

شجرت (س) شجرتا و شجرت (ک)
شجولة: اصابعہ: موٹی ہونا۔
شجول الاصابع: سخت اور موٹی انگلیوں
والا۔
قدم (شجولة) مونا اور سخت قدم۔
شش: بمعنی ششل۔
شج (ن) شج: الراس: زخمی کرنا۔
توزنا: کہا جاتا ہے "فلان یسج مروة"
ویاسومروة: فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی
درست کرتا ہے۔ شج المفارة: بیابان
طے کرنا۔
المركب البحر: جہاز کا سمندر کو

شجرت (س) شجرتا و شجرت (ک)
شجولة: اصابعہ: موٹی ہونا۔
شجول الاصابع: سخت اور موٹی انگلیوں
والا۔
قدم (شجولة) مونا اور سخت قدم۔
شش: بمعنی ششل۔
شج (ن) شج: الراس: زخمی کرنا۔
توزنا: کہا جاتا ہے "فلان یسج مروة"
ویاسومروة: فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی
درست کرتا ہے۔ شج المفارة: بیابان
طے کرنا۔
المركب البحر: جہاز کا سمندر کو

شجرت (س) شجرتا و شجرت (ک)
شجولة: اصابعہ: موٹی ہونا۔
شجول الاصابع: سخت اور موٹی انگلیوں
والا۔
قدم (شجولة) مونا اور سخت قدم۔
شش: بمعنی ششل۔
شج (ن) شج: الراس: زخمی کرنا۔
توزنا: کہا جاتا ہے "فلان یسج مروة"
ویاسومروة: فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی
درست کرتا ہے۔ شج المفارة: بیابان
طے کرنا۔
المركب البحر: جہاز کا سمندر کو

شجرت (س) شجرتا و شجرت (ک)
شجولة: اصابعہ: موٹی ہونا۔
شجول الاصابع: سخت اور موٹی انگلیوں
والا۔
قدم (شجولة) مونا اور سخت قدم۔
شش: بمعنی ششل۔
شج (ن) شج: الراس: زخمی کرنا۔
توزنا: کہا جاتا ہے "فلان یسج مروة"
ویاسومروة: فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی
درست کرتا ہے۔ شج المفارة: بیابان
طے کرنا۔
المركب البحر: جہاز کا سمندر کو

شَجَعَانُ (شَجَعَانُ) شَجَعًا دَلِيرِي وَبِهَادِرِي مِیں
غالب ہونا۔
شَجَعُ (س) شَجَعًا لَمَّا ہونا۔ صفت
(أَشْجَعُ) مَوْتُ شَجَعَاءِ۔
شَجَعَةٌ قَوِي دَل بَانَا عَلٰی الْأَمْرِ بِحَقِّقَاتِ
دَلَانَا۔
شَجَاعَةٌ دَلِيرِي مِیں مَقَابِلہ کرنا۔
تَشَجُّعُ بِهَادِرِ بِنَا۔ حِکْمَتِ دَلِيرِي ظَاهِر
کرنا۔
الشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ دَلِيرِ۔
بِهَادِرِ جَرِي۔ جِ شَجَعَانُ وَشَجَعَانُ
وَشَجَاعُ وَشَجَعًا وَشَجَعَةٌ وَشَجَعَةٌ
وَشَجَعَةٌ وَشَجَعَةٌ۔
الشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ اِیْکِ قِسْمِ کَا سَانِپ۔
جِ شَجَعَانُ وَشَجَعَانُ وَأَشْجَعَةٌ۔
رَجُلٌ (شَجَعَةٌ وَشَجَعَةٌ) عَاجِزٌ بَدَلِ
مرد بے ذول لہا۔
الْأَشْجَعُ۔ اِسْمُ تَفْضِيلِ۔ بِهَادِرِ مَوْتِ
شَجَعَاءِ جِ شَجَعُ شَجَعًا شَجَعًا لَمَّا
وَالْاَوْتِ۔ اِیْکِ قِسْمِ کَا سَانِپ۔ زَانہ۔
الْأَشْجَعُ وَالْأَشْجَعُ الْاَنْطَلِیُّ کِی جِزِ جُو ظَاهِرِ
کَفِ کِی ٹھٹھے سے ملی ہوتی ہے یا پھٹیلی کی
پشت کی رگ۔ جِ اَشْجَاعِ۔
الشَّجَعُ۔ بِهَادِرِ دِلْوَانہ اَوْتِ۔ جَمَلِ
شَجَعِ الْقَوَائِمِ: جلدی قدم اٹھانے والا
اَوْتِ۔
الشَّجَعُ دَلِيرِ۔ بِهَادِرِ جِ شَجَعَانُ
شَجَاعُ وَشَجَعَاءُ وَأَشْجَعَةٌ مَوْتِ
شَجَعَةٌ جِ شَجَاعِ وَشَجَاعُ وَشَجَعُ۔
الشَّجَعُ دَرِخْتِ کِی جِزِی۔
الشَّجَاعَةُ دَلِيرِي۔ بِهَادِرِ خُوفِ کِی
وَقْتِ دَلِ کِی مَضْبُوطِی۔
الشَّجَعُ اِنْتِهَائِیُّ پَآگِل۔
الشَّجَعُ بِلَاکَتِ۔
الشَّجَعُ لَبِی اور بڑی مِصِیبتِیں۔
شَجْنُ (س) وَشَجْنُ (ک) شَجْنًا
وَشَجْنُونًا۔ عَمَلِکِن ہونا۔ صفت (شَجْنُ)

الشَّجْرُ نَبْتٌ کھلنے کی جگہ
الْحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ نَبُو کَر مَنہ کھلنے کی
جگہ سے ادا ہوں وہ شین۔ ضاد اور جیم ہیں۔
الشَّجْرَةُ اِسْمُ مَرَّةٍ چاہ زرخیزاں۔
مَكَانٌ (شَجْرٌ وَشَجِيرٌ وَاشْجَرٌ
وَمَشْجِرٌ) دَرِخْتوں والی یا بہت دَرِخْتوں
والی جگہ۔ مَوْتِ شَجْرَةٍ وَشَجِيرَةٍ
وَاشْجَرَةٍ وَمَشْجِرَةٍ۔
الشَّجْرَاءُ اِنْتِهَائِیُّ دَرِخْتِ۔ اِنْتِهَائِیُّ دَرِخْتوں
والی زمین اور اس کے مقابلہ میں مردار
ہے۔ یعنی وہ زمین جس میں دَرِخْتِ نہ
ہوں۔ اور اس سے ہے "قَطَعْتُ كَلْبًا
شَجْرَاءً وَمَرْدًا" میں نے ہر قسم کی
انجان دَرِخْتوں والی اور چھیل زمین طے کی۔
الشَّجَارُ وَالشَّجَارُ بُوَدہ کی کڑی۔ کھلے
ہوئے سر کی چھوٹی پانگی۔ الشَّجَارُ: دَرِوَانِے
کے پیچھے لگانے کی کڑی۔ تھوٹھی یعنی
کڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگائی
جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ کونوں پر کی
کڑی۔ اَوْتِ کَا دَاغِ۔ جِ شَجْرُ۔
الشَّجِيرُ۔ تَلْوَارِ۔ اِنْتِهَائِیُّ اَوْتِ یا اَدَمِ۔ بَرَا
ساتھی۔
الشَّجَارُ دَرِخْتوں کَا مَآبِرِ۔ جِ شَجَارُونِ۔
الشَّوَابِرُ۔ مَشْغُولِ رِکھنے والی چیزیں۔
مَوَانِعُ رِمَاحِ شَوَاحِرِ: ایسے نیزے جن
کے گھاؤ مختلف جگہ ہوں۔
الْمَشْجَرُ وَالْمَشْجَرُ بُوَدہ کی کڑی
کھلے ہوئے سر کی چھوٹی پانگی۔ الْمَشْجَرُ:
دَرِخْتِ کِی جگہ۔ الْمَشْجَرُ: کڑی کَا اِشْتِیْزُ
جِسِ پَرِ کِپڑے رِکھے یا پھیلائے جاتے ہیں۔
جِ مَشْجَرِ۔
مَكَانٌ (مَشْجَرٌ) بَہت دَرِخْتوں والی جگہ۔
قَوْتِ (مَشْجَرٌ) دَرِخْتِ کِی طَرَحِ نَقْشِ وَ
نِگار سے مزین کپڑا۔ اہل چین کی تحریر کو
بھی مَشْجَرٌ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ بھی
دَرِخْتِ کِی طَرَحِ ہوتی ہے۔
شَجَعُ (ک) اَشْجَاعَةٌ دَلِيرِ وَبِهَادِرِ ہونا۔

کَا دُور ہونا۔
اِسْتَشْجَرُ الْقَوْمُ: ہَاہِمِ جِھگڑنا الرَّجُلُ:
آگے بڑھنا۔ جلدی سے چھٹکارا پانا۔ ٹھوڑی
کے نیچے ہاتھ کا سہارا دینا اور اسی سے ہے
"بَاتٌ مَرْتَفِقًا مَشْجَرًا"
قَوْمُهُ نَبِذَ کَا دُور ہونا۔
الشَّجْرُ دَرِخْتِ۔ جِ اَشْجَارٌ وَشَجَرَاءُ۔
وَاحِدٌ (شَجْرَةٌ) شَجَرَاتٌ۔ شَجْرَةٌ
النَّسَبُ: جِسِ مِیں مَوْرَثِ اَعْلٰی سے لے
کر اولاد دَرِوَالِدِ تِکِ کَا بِيَانِ ہونا۔ الشَّجْرَةُ
الْمَلْعُونَةُ: تھوہر کَا دَرِخْتِ۔ شَجْرَةٌ
الْحَيَاتِ اَوْ شَجْرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ مِیں
الشَّرُّ: وہ دَرِخْتِ جِسِ کَا پھل کھانے سے
حضرت آدم کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے منع
کیا تھا۔
نَبَاتٌ خَشْبِيٌّ دَرِوَالِدِ قَدِ پُوَدے (دَرِخْتِ)
قَدَرْتِ جِھگڑتِ مِیں یا خود پُوَدے گئے ان مِیں
سے اِیْکِ قِسْمِ بَیْشِ سَرِ بَزِ یا مَوْسَمِ کِی وَجِہِ
سے ان کے پتے گر جاتے ہیں۔ زیادہ تر
کڑی کے لئے لگائے جاتے ہیں۔ اور کچھ
خوبصورتی کے لئے لگائے جاتے ہیں۔
شَجَرُ الْمَطَاظِ: بَرِکِ دَرِخْتِ جُو کَر لَمَّا
ہوتا ہے خاص کر جنوب مشرق ایشیاء مِیں۔
شَجْرَةُ الْخَبِزِ: وہ دَرِخْتِ جِسِ کے بڑے
بڑے پھل ہوتے ہیں ان کو کوٹ کر پیس
کر روٹی پکائی جاتی ہے۔
شَجَرُ الزُّبُقِ: وہ دَرِخْتِ جِسِ کے پھول
خِزَامِ پُوَدے کی طَرَحِ خُوبِصُورَتِ اور خُوشِبو
دَارِ ہوتے ہیں۔ اس کے چھلکے صحت افزاء
ہوتے ہیں۔
الشَّجَرُ دَرِخْتِ۔ شَجْرِ مِیں اِیْکِ لَفْتِ ہے۔
الشَّجْرُ۔ س۔ مَخْتَلِفِ فِیہ اِمْرِ۔ ٹھوڑی یا
دُونوں جِزوں کے درمیان کا حصہ۔ منہ کا
وہ حصہ جو بند کرتے وقت ظاہر ہو۔ جِ
اَشْجَارٌ وَشَجُورٌ وَشَجَارٌ۔ الْحُرُوفُ
الشَّجَرِيَّةُ: شِضْ جِ۔ اور بَقُولِ بَعْضِ۔
شِجْ قِ کِی۔

تیز کرنا۔
 شَجَح (ف ض) شَجِيحًا و شَحَاجًا
 وَتَشَحَّجًا وَتَشَحَّجَ الْبَعْلُ او
 الْغُرَابُ: غجر کا جہننا۔ کوے کا کائیں
 کائیں کرنا۔
 الشَّحَّاجُ وَالْمِشْحَجُ وَالشَّاحِجُ
 كورخر۔ بَنَاتُ شَحَّاجٍ وَبَنَاتُ شَاحِجٍ:
 غجریں۔
 شَحَّاجٌ الْبَعْلُ أَوِ الْغُرَابُ وَ
 (شَجِيحُهُمَا) غجر یا کوئوں کی آواز۔
 الشَّوَّاجِحُ كوتے۔
 شَحَذَ (ف) شَحَذًا السَّيِّئِينَ وَنَحَوَهُ:
 چھری تیز کرنا۔ صفت مفعولی (شَحُو
 ذُو شَحِيذٍ)
 ه بَصْرَهُ: گھورنا ہ بعینہ: نظر بد لگانا۔
 الْجُوعُ مَعْدَتَهُ تَحْتِ بَهِوْكَ لَنَاذِ فِي
 التَّسْوُلِ: مانگنے میں بہت اصرار کرنا۔ کہا
 جاتا ہے ”هُوَ يَشْحَذُ النَّاسَ“ وہ لوگوں
 سے اصرار سے مانگتا ہے عَلَيَّهِ: غمناک
 ہونا۔ الذَّابَّةُ: جانور کو تیز ہانکنا
 (وَتَشْحَذُهُ) ہٹانا۔ دھکارنا وَتَشْحَذُ
 الرَّجُلُ: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
 أَشْحَذُ السَّيِّئِينَ: چھری تیز کرنا۔
 شَاحِذَهُ: تلوار وغیرہ تیز کرنے میں
 مشابہت کرنا۔
 الشَّحَادُ: گداگر۔ سائل۔ ج شَحَاذَةٌ
 (الشَّحَاذَةُ) گداگری کا پیشہ۔
 الشَّحْدَانُ وَالشَّحْدَانُ: بھوکا۔ ہانکنے
 والا۔ پکا چلنے والا۔
 رَجُلٌ (شَحْدُوذٌ) تیز اور غصہ کے وقت
 تیش میں آنے والا۔
 الْمِشْحَذُ: چھری وغیرہ تیز کرنے کا
 سامان تیز ہانکنے والا۔
 الْمِشْحَادُ: ٹیلہ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ج
 مَشَاحِيذُ.
 الْمَشْحَذَةُ: وہ چیز جو باعث تیزی ہو۔ کہا
 جاتا ہے ”هَذَا الْكَلَامُ مَشْحَذَةٌ لِفَهْمٍ“

دور۔ کہا جاتا ہے ”بِكَيْ فَلَانٌ شَحْوَةٌ“ و
 ”بِكَيْتِ الْحَمَامَةِ شَحْوَهَا“
 الشَّحِي الشَّحِي: غمگین۔ فکر مند۔
 مَوْتٌ شَحِيَةٌ وَشَحِيَةٌ اور نسبت کے لئے
 (الشَّحْوِيُّ) مَفْرَدًا (شَحْوَاءُ) دشوار
 گزار بیاباں۔
 شَحَّ (ن ض س) شَحًا وَشَحًا وَشَحًا.
 بِالشَّئِ وَعَلَى الشَّئِ: بخل کرنا۔ حرص
 کرنا۔
 شَاحٌ بِالشَّئِ عَلَى فَلَانٍ: کسی سے کسی
 چیز کا بخل کرنا ہ: کسی سے بھگڑا کرنا۔ اسی
 سے ہے ”لَا مُنْشَاخَةَ فِي الْأَمْرِ“ یعنی
 معاملہ بالکل صاف ہے اس میں کوئی مباحثہ
 اور بھگڑا نہیں۔
 شَاحٌ الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْرِ وَفِيهِ: کسی چیز
 میں باہم بخل کرنا۔ تَشَاخَوْا عَلَى الشَّئِ:
 اپنے لئے اختیار کرنے کا ارادہ کرنا۔ تَشَاخَ
 الْخِضْمَانُ فِي الْجَدَلِ: ہر ایک کا غالب
 ہونے کا ارادہ کرنا۔
 الشَّحُّ: سر۔
 الشَّحِيحُ: بخیل۔ حریص۔ ج شَحَّاحٌ وَ
 أَشْحَةٌ وَأَشْحَاءُ: مؤنث شَحِيحَةٌ. ج
 شَحَائِحُ. اِبِلٌ شَحَائِحُ. کم دودھ والی
 اونٹنیاں۔
 الشَّحَّاحُ: بخیل۔ حریص۔ الشَّحَّاحُ مِنَ
 الْأَرْضِ: وہ زمین جو بغیر زیادہ بارش کے
 پانی نہ بہائے۔ زَنْدٌ شَحَّاحٌ: چھماق جو
 آگ نہ دے ”مَاءٌ شَحَّاحٌ“: تھوڑا پانی جو
 زمین کو نہ ڈھکے۔
 شَحَبَ (ف ن) وَ شَحَبَ (ك)
 وَشَحَبَ شَحْوِيَّةً وَشَحْوَبًا. لَوْثُهُ:
 بھوک یا مرض وغیرہ کی وجہ سے چہرے کا
 رنگ بدلنا۔
 الشَّاحِبُ: فا۔ لاغریارنگ بدلا ہوا اور کہا
 جاتا ہے ”شَاحِبُ اللَّوْنِ“ جیسے کہا جاتا
 ہے ”شَاحِبُ الْجَنِيمِ“
 شَحَّتَ (ف) شَحْفًا: المُدْيَةُ: چھری

شَحْنَهُ (ن) شَحْنَا وَشَحُونًا وَشَحْنَةً.
 غمگین کرنا۔
 شَحْنَتْ (ن) شَحُونًا. الْحَمَامَةُ: کبوتر
 کا غم کے ساتھ لوحہ کرنا۔
 أَشْحَنَهُ: غمگین کرنا۔ أَشْحَنَ الْكُرْمُ:
 انگور کے درخت کا پیچیدہ اور اُجھی ہوئی
 شاخوں والا ہونا۔
 تَشَحَّنَ: حرکت کرنا۔ غمگین ہونا الْأَمْرُ:
 یاد کرنا الشَّحْوُ: درخت کا گنجان ہونا۔
 الشَّحْنُ. س. الشَّحْنُ. ج شَحُونٌ وَ
 (الشَّاحِنَةُ) ج شَوَّاجِحٌ وادی کا راستہ یا
 وادی کے بالائی حصہ کا راستہ۔
 الشَّحْنُ. س. غم۔ اندوہ۔ خواہش نفس۔
 ج شَحُونٌ وَأَشْحَانٌ. (الشَّحْنُ
 وَالشَّحْنَةُ وَالشَّحْنَةُ. وَالشَّحْنَةُ) اُجھی
 ہوئی پیچیدہ نہیں۔ ہر چیز کی شان۔ کہتے ہیں
 ”الْحَدِيثُ ذُو شَحْنُونَ“ یعنی بات میں
 بات نکلتی ہے۔ الشَّحْنَةُ: پہاڑ کا شکاف۔
 شَحْنَةٌ وَشَحْنَةٌ کی جمع شَحْنٌ وَشَحْنٌ
 وَشَحْنَاتٌ وَشَحْنَاتٌ وَشَحْنَاتٌ.
 شَحَا (ن) شَحْوًا وَأَشْحِي إِشْحَاءً.
 الرَّجُلُ: غمگین کرنا۔ خوش کرنا (مُند)
 براہینت کرنا۔ أَشْحِي الْغَرِيمَ أَوِ السَّائِلَ:
 قرض خواہ یا سائل کو اس کی خواہش کے
 مطابق دینا۔
 شَحِي (س) شَحَا. غمگین ہونا بِالشَّحَا:
 حلق میں بڑی پھنس جانے سے گھٹنا اور اسی
 سے ہے ”عَلَيْكَ بِالْعَظْمِ وَإِنْ شَحِنْتَ
 بِالْعَظْمِ“ اگر تمہارے حلق میں بڑی پھنس
 جائے تو اپنے اوپر بردباری کو لازم جانو۔
 شَحِي الْغَرِيمَ عَنْهُ: جانا۔
 تَشَاحِي. حزن و ملال ظاہر کرنا۔
 الشَّحَا. س. بڑی وغیرہ جو حلق میں پھنس
 جائے۔ غم واندوہ۔
 الشَّحْوُ. س. غم۔ اندوہ۔ حاجت۔ کہا جاتا
 ہے ”لَهُ عِنْدِي شَحْوٌ“ اس کی مجھ سے
 ایک حاجت ہے۔ گریہ و زاری کا ایک

یہ کلام سمجھ کے لئے باعث تیزی ہے۔
 شجر (ف) شجرًا منہ کھولنا۔
 الشجر۔ بانی بننے کی جگہ۔ بطن وادی
 (والشجر) کنارہ۔ ساحل۔
 شجر عَمَّانَ وشجر عَمَّانَ : عمان اور
 عدن کے درمیان کا ساحل۔
 الشجرَةُ تنگ ساحل۔
 الشجرُوزُ : کالے رنگ کا چڑیا سے بڑا
 ایک خوش آواز پرندہ۔ ج شحاریر اور
 اس کو (شخور) بھی کہا جاتا ہے۔
 شجر (س) شجرًا جبرائلا۔ ڈرنا۔
 شجر (ف) شجرًا جماع کرنا۔
 شَحَشَحَ البعيرُ اونٹ کا آواز کو پھرانا
 الطائرُ پرندہ کا جلدی سے اڑنا چونکارنا
 الصرُدُ آواز کرنا۔

الشَحَشِحُ والشَجَشِخُ بے برکت۔
 بخیل۔ بدخلق۔ بظلمی کرنے والا۔
 الشَحَشِخُ : وسیع بیابان۔ بہادر مرد۔
 غیرت دار۔ خوش بیان میچرار۔
 الشَحَشِحَانُ بخیل۔ غیرت دار۔ لبا۔
 المَشْحِشِخُ والمَشْحَشِخُ بے
 برکت۔

اشْحَصَهُ تھکانا مِنَ الْمَكَانِ و
 (شَحَصَهُ) عَنهُ دور کرنا۔ ہٹانا۔ جلا وطن
 کرنا۔

شَحَطَ (ف) شَحَطًا وشَحَطًا
 وشَحُوطًا ومَشْحَطًا : الانءاء۔ برتن بھرنا
 اللبْنُ دودھ میں زیادہ پانی ملانا العَقْرَبُ
 الرَّجُلُ چھو کا ڈسٹا الطائرُ پرندہ کا بیت
 کرنا فَلَانًا : سبقت لے جانا (وشحط
 (س) شَحَطًا) الْمَكَانُ دور ہونا۔
 شَحَطَ وشَحَطَ الْجَمَلَ : اونٹ کو ذبح
 کرنا۔

شَحَطَ بِالْدَمِ : خون سے تھرنے۔
 شَحَطَهُ : خون میں تھیننا۔
 اشْحَطَهُ دور کرنا۔
 تَشَحَطَ بِالِدَمِ : خون سے تھرنے۔

الشحط۔ خون میں لت پت ہونا۔
 پرندہ کی بیت (والشحط) انور کی
 نہیںوں کو اٹھانے کا شحم۔ عوام اس کو
 (منسوك) کہتے ہیں۔
 الشحاطة : بونی کی ایک خاص قسم جس کو
 گھروں میں پہنا جاتا ہے۔
 الشاحوطَة : وہ آلہ جس کے ساتھ
 پتھروں میں سوراخ کئے جاتے ہیں۔

شَحَطَ يشحط على الارض : کھینچنا۔
 (سریانی)
 شَحَطَ عُوْدَ الثَّقَابِ باریک لکڑی جلاتا۔
 مَنْزِلٌ (شاحط) دور کی منزل۔
 الشحاط دور۔
 شَوَاحِطُ الْإِدْوِيَةِ دور کی وادیاں۔
 الشَوْحِطَةُ بی ٹھوڑی۔

شَحَكَ (ف) شَحَكًا الخديجُ : بکری
 کے بچے کے منہ میں تھو تھنی لگانا۔
 الشحاك : تھو تھنی جو بکری کے بچے کے
 منہ میں لگائی جائے تاکہ دودھ نہ پے۔

شَحَلَ الْكِرْمُ : انور کی بیل تراشنا۔ کلمہ
 عامیہ ہے۔ شَحْ قصب ہے۔
 شَحَمَةٌ (ف) شَحْمًا چربی کھلانا۔
 شَحْمٌ (ك) شَحَامَةٌ بہت چربی دار
 ہونا۔ صفت (شحم)
 شَحْمٌ (س) شَحْمًا چربی کی خواہش
 کرنا۔ صفت (شحم)

شَحَمْتُ (س ن) شَحُومًا : الناقَةَ :
 لاغرئی کے بعد موٹی ہونا۔
 اشْحَمُ بہت چربی والا ہونا (وشحم)
 الْقَوْمُ چربی کھلانا۔
 الشحْمُ چربی۔ ایک کٹڑے کو (شحمة)
 کہتے ہیں۔ ج شحوم۔

الشاحمُ والشحامُ : چربی بیچنے والا۔
 الشحامُ : بہت چربی کھلانے والا۔ کہا جاتا
 ہے "رَجُلٌ شاحِمٌ لاحم" چربی دار بڑے
 گوشت مرد یا لوگوں کو بہت چربی کا گوشت
 کھلانے والا۔

الشحمة : چربی کا کٹڑا۔ شحمة
 الارض : بھجوا۔ ساپ کی پھتری۔ شحمة
 الارض وشحمة الرمل : گرگٹ کی قسم
 کا ایک جانور جو زمین یاریت میں گھس کر
 رہتا ہے العين : آکھ کا نگلہ۔ شحمة
 الاذن : کان کی لو شحمة الرجلان : اتار
 کے اندر کا باریک چھلکا المرحج : مٹی اور
 امثال میں سے ہے "ما كَلَّ بِيضَاءِ
 شحمة ولا كَلَّ سَوْدَاءِ تَمْرَةٍ" ہر سفید
 چیز چربی اور ہر سیاہ چیز بھجور نہیں ہوتی۔
 اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی ایک
 صفت میں مشابہت اور بقیہ صفات میں
 مغاارت ہو۔

الشحم : تھوڑے رس کا انور۔ چربی کا
 حریص۔

الشحم الكثر۔
 الشحم مونا۔
 الشحم والشحمة : سرینائیوں کے
 فرائض نماز کی کتاب (کلمہ سرینیانہ ہے)
 المشحمُ والمشحمُ : گھر میں بہت چربی
 رکھنے والا۔

المشحمُ والمشحومُ : چربی کی بنی ہوئی
 چیز۔

شحن (ف) شَحْنًا السفينة : کشتی پر
 لاڈنا المدينة بالخيل : بھرنا الرجل
 دھکانا۔ دور کرنا۔

شَحْنٌ (ف ن) وشحن (س) شَحْنًا
 الْكِلَابُ کتوں کا دُور تک جانا اور شکار نہ
 کرنا۔

شحن (س) شَحْنًا عَلَيْهِ كَيْفًا رَكْنًا۔
 اشحن الْمَكَانَ : بھرنا السيف : میان
 میں کرنا۔ سوختا (ضد) لَهُ بِسَهْمٍ تیر
 مارنے کے لئے تیار کرنا الصبي : رونے
 کے لئے آمادہ ہونا۔

شاحنة : بغض و عداوت رکھنا۔ دشمنی
 کرنا۔

الشحنُ : جہاز پر یا ریل گاڑی یا ٹرک پر مال

ذالنا- السَّيَّارَةُ الشَّاحِنَةُ بُرْك
الشَّاحِنَةُ ج شاحنات: ریل مال گاڑی
کے لوڈ والے ڈبے۔ ریل گاڑی کے سواری
والے ڈبے۔ اس کو حافلہ بھی بولتے ہیں۔
تشانحووا: بغض۔ کینہ۔ دشمنی۔ عداوت۔
الشحناء: بغض۔ کینہ۔ دشمنی۔ عداوت۔
الشحنه: عداوت۔ دشمنی۔ کشتی بھرنے
کی چیز۔ شحنَةُ البلد: پولیس۔ کوٹوال۔
سواروں کی جماعت کا ایک دستہ۔ کہا جاتا
ہے "بالبلد شحنَةُ من الخيل" شہر میں
سواروں کی جماعت کا ایک دستہ ہے۔
الشحنة: چارپايوں کے لئے ایک دن
رات کا چارہ۔ ج شحن. مرکب
(شاحن) بھری ہوئی سواری۔
المشاحن. فا. عِدُوٌّ مَشَّاحِنْ: بہت
سخت دشمنی کرنے والا دشمن۔

شحن يشحون ويشحوا شحوا الرجل
منه كحولنا اللحام فم القوس كحولنا۔

شحا الرجل: قدم کو دور دور رکھنا
القم كحلنا۔

اشحى: فاه كحولنا۔

شحي تشحيه. فوه منه كحلنا۔

تشحى: عليه زباں درازی کرنا۔

الشحاه: وسیع۔ کشادہ۔ چوڑا۔

الشحوى: جوف۔

الشحوة: اسم مره۔ قدم۔ کہا جاتا ہے

"فرس يعيد الشحوة" دور دور قدم

رکھنے والا گھوڑا "رجل يعيد للشحوة"

في مقاصده" اپنے مقاصد میں عالی ہمت

مرد۔

الشحوا: چوڑا کتواں۔

شحي يشحى شحيا. ایک لغت ہے۔

شحا وادی میں۔

شح (ن) شحاً پیشاب کرنا في النوم:

خراٹے لینا اللبن: دوہنے کے وقت آواز

نکلنا۔

شحب (ف ن) شحباً ومشحباً۔

اللبن: دوہنا اللبن: بہنا أوداج القبيل
دما: مقتول کی رگوں سے خون جاری
ہوتا۔

انشحَب: دوہا جانا۔

الشحَاب: تازہ دودھ۔

الشحْبُ: سر۔ خون (الشحْبُ) دودھ

کی دھار۔ واحد (الشحْبَة) ج شحَاب.

الأشْحُوب: حصن سے دودھ نکلنے کی

آواز۔ ج اشاحيب.

ذوخ (شحب) خون پھینکنے والی رگ۔

الشحَاب والشحُوب والشحُونَة.

پہاڑ کی چوٹی۔ ج شحَابِيَّة.

شَحْت (ك) شحُونَة. ڈیلے جسم والا

ہوتا۔ صفت (شَحْت و شَحْت) ج

شَحَات کہا جاتا ہے "هُوَ شَحْتُ

الخلق" وہ اسی اخلاق والا ہے۔ و "هُوَ

شَحْتُ العطاء" وہ کم دلوادہش والا ہے۔

"هُوَ شَحْتُ الجزارة" وہ باریک ٹانگوں

والا ہے۔

شَحْنَة. اليه. ييجانا۔

الشْحْت والشْحَيْت والشْحَيْتُ

والشْحَيْتُ. بلند غبار۔

الشْحُونَة والشْحُونَة. ڈوگلی۔ جس

میں ایک ہی آدمی سوار ہو۔

شْحَر (ض) شْحِيْرًا. طلق یا ناک سے

آواز نکالنا۔

شْحَر (ض) شْحِيْرًا وشْحَرًا. الفرس

او الحمار گھوڑے کا نہننانا۔ یا گدھے کا

ریکنا۔

شْحَر. المجلس: کچادہ باندھنے کیلئے جانور

کی پیٹھ سے ٹاٹ یا گیل اٹھانا النحْلة:

ٹوٹنے کے خوف سے گھوڑے کے پنجوں کو

ٹہنی پر رکھنا۔

الشْحَر: من الشَّباب: ابتداء جوانی

من الرجل: کچادہ کے اگلے اور پچھلے حصہ

کی درمیانی جگہ۔

الشْحِيْر: سر۔ پہاڑ کا وہ حصہ جو قدموں

سے لگ کر گرے۔

الشْحِيْر: بہت خراٹے لینے والا۔

شْحَز (ف) شْحَزًا. مضطرب ہونا۔

عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا ہ بالرمح: نیزہ

مارنا يَنْهَمُ: آکسانا اور فساد ڈالنا۔

تَشَحَّرَ الْقَوْمُ: باہم بغض رکھنا۔

الشْحَزُ: سر۔ رنج و مشقت کی شدت۔

شَحْس (ف) شْحَسًا. الرجل:

مضطرب ہونا الحمار: گدھے کا جمائی کے

وقت منہ کھولنا۔

أشْحَس له في المنطق: گفتگو میں ترش

روئی کرنا۔

شْحَس: أمر القوم: مختلف ہونا۔

الحمار: لید سوگھنے کے بعد سر اٹھا کر

منہ کھولنا۔

تَشَاحَس: الحمار: بمعنی شْحَس او

شْحَس أسنانه: بڑھاپے کی وجہ سے گر

کر یا جھک کر بے ترتیب ہونا أمرهم: تباہ و

پریشان ہونا۔

الشْحِيْس: حکم کے خلاف کرنے والا۔

امر متفرق۔

شْحَشَخ: بيؤله: دور تک پیشاب کی

دھار گرائنا۔ صفت (شْحَشَاخ)

شْحَشْحَت الناقة: بیٹھے ہوئے سینہ

اٹھانا۔

الشْحَشْحَة: سر۔ ہتھیار کی جھنکار۔ کاغذ یا

نئے کپڑے یا خشک چیز کی آواز۔

شْحَص (ف) شْحَوْصًا. الشئ: بلند

ہونا عن قومہ او من بلد الى بلد: جانا۔

کوچ کرنا اليهم: واپس آنا۔ لوثنا النجم:

ستارہ کا طلوع ہونا السهم: تیر کا نشانہ

سے اوپر اوپر نکل جانا الحجر: سوجنا ورم

کرنا بصرة: منکلی نگاہ۔

الميت بصرة وبصره: ميت کی نگاہ کا

کھلا رہ جانا۔

شْحَص: به: کسی امر کے لائق ہونے

سے بے قرار ہونا۔

شَخْص (ک) شَخِصَةٌ: مونا ہونا۔
شَخْصٌ: الشَّيْءُ: تعین کرنا۔ تمیز کرنا اور
اسی سے اطباء کے نزدیک تشخيص امراض
ہے۔

أَشْخَصَهُ: بے آرام کرنا۔ بے قرار بنانا۔
أَشْخَصَ الرَّجُلُ: جانے کا وقت قریب
قریب ہونا یہ: غمیت کرنا لہٰذا فِي الْمَنْطِقِ
وَأَشْخَصَ إِلَيْهِ: گفتگو میں ترش روی کرنا
ه: إِلَى قَوْمِهِ: واپس کرنا۔ لوٹانا الرامی:
نشانی سے ہٹ کر بلند پڑنا یا ڈالنا۔ (لازم و
شعری)

تَشَخَّصٌ: معین ہونا۔ تمیز ہونا لہٰذا: کسی
فحص کی صورت دکھائی دینا۔

تَشَاخَصُوا: باہم اختلاف کرنا۔
الشَّخْصُ: جسم انسانی وغیرہ جو دور سے
دکھائی دے۔ جِ أَشْخَصٌ وَأَشْخَاضٌ
وَشُخُوضٌ.
الشَّخِصِيُّ: جسیم۔ مؤنث شَخِصَةٌ.
سردار مِنَ الْمَنْطِقِ: ترش روی سے گفتگو
کرنے والا۔

شَخَلَ (ف) شَخَلًا: الشَّرَابُ: صاف
کرنا الناقَةَ: دوہنا۔

شَاخَلَهُ: خالص دوستی کرنا۔
الشَّخْلُ وَالشَّخِيلُ: خالص دوست۔

المِشْخَلُ والمِشْخَلَةُ: چھننا۔
المِشْخَلَةُ: موٹی کے مشابہ سفید مہرہ۔
ایک زیور کا نام جو درخت خرما کی چھال اور
مہرہ سے بناتے ہیں اور کبھی اس لڑکی کو
بھی مِشْخَلَةُ کہتے ہیں جو اس زیور کو
استعمال کرے۔

شَخِمَ (ن) وَشَخِمَ (س) وَشَخَمَ
(ک) شَخُمًا وَشَخَمًا وَأَشْخَمَ.
الطَّعَامُ أَوْ اللَّحْمُ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔
قاسد ہونا۔ صفت (شَخِمَ) الفمُ: مٹھ کا
بدووار ہونا۔ أَشْخَمَ الرَّجُلُ: رونے کے
لئے تیار ہونا۔

شَخِمَ الطَّعَامُ: خراب کرنا۔

الطَّعَامُ: خراب ہونا الفمُ: منہ کا بد بولنا
ہونا۔

إِشْخَامَ النَّبْتِ: خشک و ترگھاس کا آپس
میں مل جانا۔

شَقَرُ (أَشْخَمَ) سفید بال۔ رَوْضٌ
أَشْخَمٌ: بے نباتات کے باغ۔ عَامٌ
أَشْخَمٌ: خشک سال جس میں نہ پانی ہو نہ
چراگاہ۔

الشُّخْمُ: وہ لوگ جن کی ناک خوشبو یا
بدو سے بند ہو گئی ہو۔

الشُّخَا: شورہ زار۔

شَدَّ (ض ن) شَدًّا: الرَّجُلُ: دوڑنا۔

النَّهَارُ: بلند ہونا عَضُدُهُ: قوی کرنا۔

الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔ باندھنا۔ کسنا اور اسی

سے ہے ”شَدُّ الرَّحَالِ“ اور یہ کنایہ ہے
سفر سے علیٰ یدہ: اعانت کرنا۔ تقویت
پہنچانا۔ اور کہا جاتا ہے ”لَا أَمْلِكُ شَدًّا وَلَا
إِرْخَاءً“ یعنی میں کسی چیز پر قادر نہیں۔

شَدَّ (ض ن) شَدًّا وَشَدَّةً وَشَدْدًا عَلَيَّ
العَدُوَّ: دشمن پر حملہ کرنا۔

شَدَّ (ض) شَدَّةً: قوی ہونا۔

شَدَّدَهُ: قوی کرنا۔ شَدَّدَ الضَّرْبُ: بہت
مارنا عَلَيَّ: سختی کرنا الحَرْفُ: تشدید لگانا

الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

شَادَهُ: فِي الْأَمْرِ: غالب ہونے کی
کوشش کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ جھگڑنا۔ سختی
کرنا۔ أَشَدَّ: عقل یا عمر کی پختگی کو پہنچانا۔
مضبوط چھپایہ والا ہونا۔

تَشَدَّدَ: قوی ہونا۔ کسی کام میں سختی کرنا۔
إِشْتَدَّ: قوی ہونا فِي السَّبْرِ: تیز دوڑنا۔

عَلَيَّ قَرْيَهُ فِي الْحَرْبِ شَدَّةً: حملہ کرنا۔
عَلَيْهِ المَرَضُ: تیز ہونا۔ بڑھنا۔

تَشَادَ: الشَّيْءُ: مضبوط ہونا۔

الشَّدَّ: س۔ شَدُّ النَّهَارِ: دن چڑھنے کا
وقت۔ کہا جاتا ہے ”أَنَا شَدُّ النَّهَارِ وَفِي
شَدِّ النَّهَارِ“ وہ دن چڑھنے کے وقت

ہمارے پاس آیا۔ اور ”شَدُّ الرَّحَالِ“ کنایہ
ہے سفر سے۔

الشَّدَّةُ: شَدُّ كاسم مرة۔ لڑائی کا حملہ۔

الشَّدَّةُ: اھمداد کا اسم ہے۔ سختی۔ سختی۔ ج

شَدَّدَ. وَالشَّدَّةُ: مصیبت۔ ج شَدَائِدُ

شَدَّةُ الْأَرْضِ: زمین کی سختی۔

الشَّدِيُّ: سختی۔

الشَّدِيدُ: بہادر۔ قوی۔ بلند۔ مضبوط۔

بجیل۔ شیر۔ ج أَشْدَاءُ وَشَدَادٌ وَشُدُودٌ

کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ شَدِيدُ الْعَيْنِ“ ایسا
شخص جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو مَسْكٌ

شَدِيدُ الرَّاحَةِ“ تیز خوشبو والا مَسْكٌ۔

الشَّدِيدَةُ: اھدیہ کا مؤنث۔ ج شدائد۔ و

”الحُرُوفُ الشَّدِيدَةُ“ اٹھ ہیں جن کا

مجموعہ ”اجدث ططق“ ہے۔

الْأَشْدُّ وَالْأَشَدُّ: کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ بَلَغَ
أَشَدَّهُ“ یعنی فلاں طاقت و قوت کے زائد

کو پہنچ گیا اور یہ جمع ہے جس کا واحد نہیں یا
واحد ہے جو جمع کے وزن پر ہے۔

المِشْدُ: ایک قسم کا کپڑا جس کو عورت

اپنی کمر پر باندھتی ہے۔

المِشْدُ: مضبوط چھپاؤں والا۔

المِشْدُذُ: فا۔ بجیل۔ امور میں سختی

کرنے والا۔

شَدَحَ (ف) شَدْحًا: مونا ہونا۔ صفت

(شَادِحٌ)

إِنْشَدَحَ: ناگوں کو پھیلا کر چٹ لیٹانا۔

الشَّادِحُ: فا مِنَ الْكَلَامِ: وسیع بزرہ۔

الْأَشْدَحُ: چوڑا۔

الشَّدْحَةُ وَالْمِشْتَدَحُ: فراخی۔ کشادگی۔

کہا جاتا ہے ”لَكَ عَنْهُ شُدْحَةٌ

أَوْ مُشْتَدَحٌ“ تمہارے لئے اس میں گنجائش

ہے۔

شَدَحَ (ف) شَدْحًا: اعتدال ہے ہٹ

جانا الراسُ: سر توڑنا۔ پکنا الرَّجُلُ:

گردن گھٹنے کی جگہ پر مارنا۔ (شَدَحَتْ غُرَّةُ

الْفَرَسِ شَدْحًا وَشَدُوحًا) ماتھے کی

سفیدی کا ناک تک پھیلا۔ گھوڑے کو (اَشْدَخ) کہتے ہیں۔

شَدَخ: الرَّاسُ: سر توڑنا۔ (تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔)

تَشَدَّخَ وَإِنْشَدَخَ: الرَّاسُ: سر توڑنا۔ چلا جانا۔

الشَّدَخُ: ناتمام بچے جو آسانی سے گر جائے۔

الشَّدَخَةُ: مِنَ النَّبَاتِ: نرم و نازک۔ تازہ نباتات۔

الشَّدَاخُ: فَا جھوٹا جبکہ نرم و نازک ہو۔ غَلَامٌ شَادَخٌ: جوان لڑکا۔ اَمْرٌ شَادَخٌ: اعتدال سے ہٹا ہوا معاملہ۔

الشَّدَاخَةُ: الشَّدَاخُ کا مؤنث۔ گھوڑے کے ماتھے کی سفیدی جو ناک تک پھیلی ہوئی ہو۔

الْأَشْدَخُ: شِيرٌ مِنَ الْخَيْلِ: ناک تک پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ مَوْنُثٌ شَدَخَاءُ: شَدَخَاءُ ج شَدَخٌ۔

المُشَدَّخُ: بے گردن کٹنے کی جگہ۔ الشَّادِرُ: تَحْتَ رِوَالٍ: خمیہ۔ چھوٹا مکان۔

شَدَفَةٌ (ض) شَدَفًا: کلڑے کلڑے کا ٹائٹا۔ شَدَفٌ (ف س) شَدَفًا: الفَرَسُ: گھوڑے کا کلیں کرنا۔

أَشْدَفَ: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ تَشَادَفَ: جھلکانا۔

الشَّدَفُ: سر رخسارے کا جھکاؤ۔ اونٹ کے سر کی پیچیدگی۔ تاریکی۔ کالبند۔ ج شَدُوفٌ۔

الشَّدَفُ: لِبَا جلدی کودنے والا۔ الشَّدَفَةُ: نَكَارًا (الشَّادُوفُ) ڈوپٹی۔

چھاگل (جدید) الْأَشْدَفُ: رِخْسَارِهِ کے جھکاؤ والا۔ نشاط کے ساتھ چلنے والا اونٹ۔ بڑے ڈیل ڈول کا گھوڑا۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ مؤنث شَدَفَاءُ ج شَدَفٌ۔

شَدِيقٌ (س) شَدَفًا: چوڑے جڑے والا

ہونا۔ مَفْتٌ (أَشْدَقُ) مؤنث (شَدَفَاءُ) ج شَدِيقٌ۔

تَشَدَّقٌ: جَلَفٌ نَصِيحَةٍ ظَاهِرٍ كَرَمًا لِّعَلَى بَاطِنِهِمْ كَوْنًا بِالْكَلَامِ وَفِيهِ: بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا۔

الشَّدِيقُ وَالشَّدَقُ: جِزَاءٌ شَدِيقٍ الْوَادِي: وادی کا کنارہ۔ جَ أَشْدَقٌ وَشُدُوقٌ: الْإِلَاشْدِقُ: زَبَانٌ آوَرٌ۔ بِلُحْ۔

الشَّدِيقُ: مِنَ الْوَادِي: کنارہ۔ ج شَدِيقٌ۔

الشَّدَقَمُ وَالشَّدَائِقِمُ: چوڑے جڑے والا۔ شِيرَةٌ۔

الشَّدِيَاقُ: عِنْدَ النَّصَارَى: کابن سے ایک درجہ کم والا پادری۔ ج شَدَائِقُهُ (دخیل)۔

الشَّدَا كُؤْنَةٌ: بَسْرَةٌ مَغْنِيَةٌ (جدید) الشَّدَا كُنَانٌ: تَهْمِيَارٌ، تَهْمِيَارٌ كَا سَامَانٌ۔

شَدَنَ (ن) شَدُونًا: الظَّنْبِيُّ: قوی ہونا اور ماں سے بے نیاز ہونا (تمام گھردار اور سم والوں کے بچوں کے لئے مستعمل ہے)۔

أَشْدَنْتِ: الظَّنْبِيُّ: قوی بننے والی ہونا۔ مَعْتٌ (مُشَدَّنٌ) ج مَشَادَنٌ وَمَشَادِينٌ۔

الشَّدَنُ: ایک پودہ ہے جس کا پھول چھیلی کے مانند ہوتا ہے۔

الشَّادِنُ: فَاءٌ جَبْ مَطْلُقٌ بَوْلًا جَائِعٌ تَوَّ بَرَنٌ كَا بَچَ مَرَادٌ هُوَ تَوَّاءٌ۔

شَدَهَ (ف) شَدَهًا: الرَّاسُ: سر کھیلنا۔ (شَدَهٌ وَأَشْدَهٌ) الرَّجُلُ: دہشت میں ڈالنا۔

شَدَهٌ: مَدْبُوشٌ ہونا۔ اِنْشَدَهَ وَأَشْدَهَ: تَحْمِيرٌ ہونا۔

الشَّدَاهُ وَالشَّدَهُ وَالشَّدَهُ وَالشَّدَهُ: حِمْرَتٌ۔ دہشت۔

المَشَادَهُ: مِثْلُ غُلٍّ جِرَانٍ وَبَعِ خُودِ كَرِ دِينَے والے معاملات۔

شَدَّ أَيَشَدُّ وَشَدَّوًا: الرَّجُلُ: گا کر شعر پڑھنا ایبل: حدی گا کر ہانگنا الشعر: گانا اور سر نکالنا مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا: کچھ حاصل کرنا۔ مَفْتٌ (شَادٌ) جَ شَدَّاءُ وَشَادُونَ: شَدَاهُ فَلَانًا أَوْ بِلَانًا: تشبیہ دینا۔ شَدَا شَدَوَةٌ: وہ اس کی چال چلا۔

أَشْدَى اِشْدَاءً: گانے میں ماہر ہونا۔ الشَّدَا: بَقِيَّةُ قُوْتٍ۔ گری۔ کھجلی۔ مِنَ الشَّيْءِ: کسی چیز کی حد۔ کنارہ۔ کہا جاتا ہے ”أَخَذَ مِنْهُ شَدًا“ اس نے اس میں سے تھوڑا سا لیا۔ و ”لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمَرِيضِ إِلَّا الشَّدَا“ جبکہ قریب الموت ہو جائے۔

الشَّدُو: سر بہت میں سے تھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے ”أَخَذُوا شَدَّوًا مِنْ مَالِهِ“ انہوں نے اس کے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا لیا۔

الشَّدَا: جِزَاءٌ۔ (جدید)

شَدَّ (ن ض) شَدَّ أَوْ شَدَّوًا عَنِ الْجَمْهُورِ أَوْ الْجَمَاعَةِ: علیحدہ ہونا۔ اکیلا ہونا۔ الْقَوْلُ: مَخَالَفٌ قِيَّاسٌ ہونا۔ عَنِ الْأَصُولِ مَخَالَفٌ قَاعِدَةٌ ہونا۔ صَفْتُ (شَادًا) جَ شَدَّادٌ وَشَوَادٌ: مؤنث شَادَةٌ جَ شَوَادٌ وَالشَّدَادُ مِنَ النَّاسِ: تھوڑے لوگ اور اسی سے ہے ”جَاءُوا شَدَّادًا“ یعنی تھوڑے لوگ آئے۔ وہ لوگ جو کسی قوم میں ہوں اور ان کے قبیلہ سے نہ ہوں۔ شَدَّادُ الْآفَاقِ: مسافر لوگ۔

شَدَّهَ (ن) شَدَّادًا وَشَدَّهَ: شَادًا كَرْنَا۔

أَشَدَّ: نَادِرٌ بَاتٌ كَبَرْنَا الشَّيْءُ: جدا کرنا۔ شَادَا كَرْنَا۔

الشَّدَانُ وَالشَّدَانُ: مَتَفَرِّقٌ كَتَكْرِيَاثٍ وَغَيْرُهُ شَدَّانُ النَّاسِ: متفرق لوگ۔

شَدَّبَ (ن ض) شَدَّبًا وَشَدَّبَ: اللِّهَاءُ: چھال چھیلنا الشَّيْءُ: کاٹنا۔

شَدَّبَ: وَشَدَّبَ الشَّجَرَ: درخت کو چھانٹنا اَلْمَالَ: بکھیرنا شَدَّبَ عَنْهُ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔ شَدَّبَهُ: دھتکارنا۔

تَشَدَّبَ بُنَا. دور ہونا القوم: متفرق ہونا۔

الشَّدْبُ. درخت کے ٹکڑے۔ متفرق لکڑیاں۔ چھلکے۔ سلمان خانہ۔ کھائی ہوئی گھاس کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے "فِي الْأَرْضِ شَدْبٌ مِنَ الْكَلَاءِ" و"مَالَهُ الْأَشْدَبُ مِنَ الْعَسْكَرِ" ہر ایک بقیہ کے معنی میں ہے۔

الشَّدْبَةُ. درخت کی کاٹی ہوئی ٹہنی۔ الشَّدْبُ. فَا. وطن سے دور۔ الشَّدْبُ. مِنَ الرِّجَالِ: لبا خوبصورت قد والا۔ ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ المَشْدَبُ. شاخ تراشی کا آلہ۔

المَشْدَبُ. منہ کانٹوں سے صاف کیا ہوا تیز۔ فَرَسٌ مُشْدَبٌ. لبا گھوڑا جس میں گوشت زیادہ نہ ہو۔

شَدَّرَ. النِّظْمَ: مہر لگا کر جدا کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَدَّرَ كَلَامَهُ بِشِعْرٍ" کلام میں شعر داخل کرنا بفلان: بنام کرنا۔

تَشَدَّرَ. بُرَأَى يَأْتِيهِ. مقابله کے لئے تیار ہونا۔ غضبناک ہونا۔ سب ہونا اور کام کے لئے چست ہونا: دھمکانا القوم: متفرق ہونا اور اپنی اپنی راہ لیتا القوم فِي الْحَرْبِ: حد سے گزرنا۔

الشَّدْرُ. سونے کا ٹکڑا جو کان سے نکالا جائے۔ مہرہ جس سے لڑی میں موتیوں کو جدا کیا جائے۔ چھوٹے موتی۔ واحد

(الشَّدْرَةُ) شَدَّرَاتٌ وَشُدُورٌ. کہا جاتا ہے "تَفَرَّقُوا شَدَّرَ مَذْرُ وَشَدَّرَ مَذْرُ" وہ سب بکھر گئے اور ہر ایک نے اپنی راہ لی۔ الشُّوْدُرُ. چادر۔ بے آستین کی قمیص۔ رَجُلٌ (شَيْدَارَةٌ) صَاحِبٌ غَيْرَتٍ مُرَدٍ۔

شَذَفَ (ن) شَذْفًا. کہا جاتا ہے "مَا شَذَفْتُ مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا (اس کا استعمال صرف نفی کے ساتھ ہی ہوتا ہے)۔ الشُّوْدُقُ. کنگن۔

الشَّدَامُ. بچھو اور بھڑکا ڈنک۔ ٹنک۔ الشَّيْذَمَانُ. بھیریا۔

الشَّيْذَمَانَةُ. تیز رفتار جوان اونٹنی۔ شَذَا يَشْدُو شَذْوًا. ٹنک لگانا الخیر: معلوم کر کے سمجھانا (وَأَشْدَى) فَلَانًا: تکلیف دینا وَاَشْدَاهُ عَنْهُ: دور کرنا؛ ہٹانا۔ شَدَى تَشْدِيَةً بِالْخَيْرِ: معلوم کر کے سمجھانا۔

الشَّدُو. منہ۔ ٹنک۔ ٹنک کی خوشبو۔ الشَّدَا. بو کی تیزی۔ تکلیف۔ بُرَأَى. ٹنک۔ سبھی۔ سواکوں کے درخت کا نام۔ لکڑی کے ٹکڑے۔ کھسی۔ ایک قسم کی کشتی۔ بھوک کی تیزی۔

الشَّدَاةُ. شَذَا کا واحد۔ شَدَوَاتٌ. قوت کا بقیہ۔ پرانی چیز۔

شَرٌّ (ض ن س) كَثْرًا وَشِرَارَةٌ وَشِرَارٌ. شریر ہونا۔ شرارت کرنا۔ صفت مذکر (شَرٌّ) وَصَفْتُ مَوْثَ (شَرَّةً) شَاخِرًا وَشِرَارًا وَأَشْرَاءَ.

شَرٌّ (ن) شَرًّا: اللِّحْمُ أَوْ الثُّوبُ: گوشت یا کپڑے کو خشک ہونے کے لیے دھوپ میں ڈالنا؛ فُلَانًا: بُرَأَى كِي طَرَفٍ نَسَبٌ كَرْنَا. لوگوں میں مشہور کرنا۔ وَهَكَرْنَا أَشْرَ الشَّيْءِ: ظاہر کرنا۔ شَارَّةٌ. جھگڑا کرنا۔

تَشَارًا تَشَارًا. باہم جھگڑنا۔ الشَّرُّ. منہ۔ بُرَأَى. تَشَرُّورٌ. یہ ہر قسم کی بُرائی اور خطا کے لیے اسم جامع ہے۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ شَرُّ النَّاسِ وَهُمْ شِرَارٌ وَأَشْرَارٌ وَأَشْرَاءُ وَهِيَ شَرَّةٌ أَوْ شَرِيَّةٌ النَّسَاءُ" وہ لوگوں میں بہت بڑا ہے اور اصل اس کی (شَرٌّ) ہے۔ ام تفضیل کا صیغہ ہے۔ ہمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جیسے خیر میں۔

الشَّرَّةُ. بُرَأَى. تیزی۔ چستی۔ غضب۔ سکل۔ لَاحٌ. شِرَّةُ الشَّبَابِ: جوانی کی چستی۔

الشَّرَّةُ. مکروہ۔ کہا جاتا ہے "مَا قُلْتُ ذَلِكَ لِشَرِّكَ" میں نے تیرے مکروہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو نہیں کیا۔

الشَّرُّ وَالشَّرَارُ. آگ کی چنگاری جو اڑے۔ وَاحِدُ شَرَّةٍ وَشِرَارَةٌ) الشَّرِيرُ. شرارت کرنے والا۔ شَارِرٌ وَأَشْرَاءُ. مَوْثٌ شَرِيرَةٌ. الشَّرِيرُ: سمندر کا کنارہ۔ شَارَّةٌ.

الشَّرِيرُ. بہت شرارت کرنے والا۔ شَيْطَانٌ كَالْقَبِّ. شَرِيرٌ يُرَائِي. الإِشْرَارَةُ. نیچو وغیرہ خشک کرنے کے لیے چٹائی۔ اونٹوں کا بڑا ریوڑ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔ شَارِيرٌ.

الشَّرِيرَةُ. بڑی سوئی۔ الشَّرَانُ. بھنگا۔ چھہر کی مانند ایک کپڑا جو انسان کے منہ کے سامنے اڑتا ہے اور کانٹا نہیں۔ وَاحِدُ شَرَانَةٍ) شَرِبَ (س) شَرِبًا وَشَرَبًا وَشَرَبًا وَمَشَرَبًا وَتَشْرَابًا. المَاءَ: پینا۔ گھونٹ لینا۔ سیراب ہونا۔ شَرِبَ السَّنْبُلُ الدَّقِيقُ: کنایہ ہے غلہ کی تیاری سے اور کہا جاتا ہے "أَكَلَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَشَرِبَ" یعنی ہلاک ہو گیا و"أَكَلَ فَلَانٌ مَالِي وَشَرَبَهُ" یعنی ختم کر دیا۔

شَرِبَ (س) كَثْرًا. پیسا ہونا۔ پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ض ك م ب) بہ: کسی پر جھوٹ بولنا۔ شَرِبَ (ن) كَثْرًا. الكَلَامَ: سمجھنا۔ شَرَبُهُ. پانی پلانا؛ شَرِبَ الْقَرْيَةَ: نئی ٹنک میں مٹی اور پانی ملنا تاکہ پانی خوشگوار رہے فَضَّبَ الرِّزْعُ: کھیتی کے ڈھل کا سیراب ہونا السَّنْبُلُ الدَّقِيقُ: خوشہ کے دانوں میں گودا بیٹھنا۔

أَشْرَبُهُ. پلانا؛ شَرِبَ الرَّجُلُ: پیسا ہونا۔ پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ض د) اللُّونُ: گہرا رنگ؛ الثُّوبُ حُمْرَةٌ: کپڑے کے رنگ میں سرخی کو ملانا؛ کسی پر

شَرِبَ (ن) كَثْرًا. الكَلَامَ: سمجھنا۔ شَرَبُهُ. پانی پلانا؛ شَرِبَ الْقَرْيَةَ: نئی ٹنک میں مٹی اور پانی ملنا تاکہ پانی خوشگوار رہے فَضَّبَ الرِّزْعُ: کھیتی کے ڈھل کا سیراب ہونا السَّنْبُلُ الدَّقِيقُ: خوشہ کے دانوں میں گودا بیٹھنا۔

أَشْرَبُهُ. پلانا؛ شَرِبَ الرَّجُلُ: پیسا ہونا۔ پیاسے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ض د) اللُّونُ: گہرا رنگ؛ الثُّوبُ حُمْرَةٌ: کپڑے کے رنگ میں سرخی کو ملانا؛ کسی پر

پھنسا۔ شرت الرجل: سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھنسنے ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ صفت (شرت) النعل: جوتے کا پھنسا۔ الشرت: ہر پڑائی بوسیدہ چیز۔ الشرت: من السیوف والامسة: تیز تلوار و بھالا۔

الشرتة: پڑانا جوتا۔ شرح (ن) شرجا: جموت بولنا الشی: جمع کرنا الشراب بالماء: ملونی کرنا (و شرح) الشرج الحجارة: پتھروں کو تہ بہ تہ لگا کر بنانا الخریطة: کناروں کو ملا کر بانڈھنا۔ و شرح الثوب: کپڑے میں لنگر ڈالنا۔ دور دور بیٹا۔ عوام سراج کہتے ہیں۔ اشرح صدره علی کذا: کسی بات کو چھپانا۔

شرح اللحم: چربی سے مخلوط ہونا۔ شارجہ: مشابہ ہونا۔ تشرح الشی فی الشی: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔

اشرح الشی: دو ٹکڑوں میں پھنسا۔ الشرج: سر۔ نوع: کہا جاتا ہے "ہذا شرج ذاک" یہ اس کے مثل ہے "ہما شرج واحد" وہ دونوں ایک نوع کے ہیں۔ فرقہ: کہا جاتا ہے "اصبحوا فی الامر شرجین" وہ کام میں دو فرقے ہو گئے۔ سکستان سے نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی جگہ۔ شرج و شرج: شرجیہ الشرجة: سکستان سے نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی جگہ۔ گڑھا جس میں کھال بچھا دی جائے اور پانی ڈالا جائے اور اس میں سے اونٹ پانی پئیں۔

الشرح: وادی کی کشادہ جگہ۔ کاج (اس معنی کے لحاظ سے اسم جس ہے) کمان کی پھنسن۔ شرح: مثیل۔ مانند۔ لکڑی کے دو برابر برابر کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ لکڑی جس سے دو کمانیں بنائی جائیں۔ قومس

والشرب: بہت پینے والا۔ الشربة: شراب کا موٹ۔ عند المولدين ترکی ٹوپی وغیرہ کا پھندا۔ ج شوارب: شربة الراعی: ایک پودہ کا نام۔

الشارب (فا) ج شرب (جیسے راکب جمع رکب) جانوروں کی کمزوری۔ شارب الرجل: مونچھ دونوں جانب کے اعتبار سے مشابہ لاتے ہیں اور "شاربا الرجل" کہتے ہیں اور اطراف و اجزاء کے اعتبار سے جمع "شوارب الرجل" بولتے ہیں۔ الشوارب: گردن کی رگیں۔ گردن میں پانی گزرنے کی جگہیں۔

الشربة: الشارب کا موٹ۔ ج شاربات و شوارب: دریا کے کنارے رہنے والی قوم۔

الشروب: پانی پینے والے۔ الشرابی: عقہ۔ بھشتی۔

المشرب: پانی۔ پانی پینے کی جگہ۔ اور اب خواہش نفس اور میلان کے معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے "وافق الامر مشربہ" معاملہ اس کی خواہش کے مطابق ہو گیا۔ ج مشارب:

المشربة والمشربة: نرم زمین جو ہمیشہ سرسبز رہے پینے پلانے کا کمرہ پینے کی جگہ۔ ج مشارب: کہا جاتا ہے "طعام ذو مشربة" پانی پلانے والا کھانا یعنی جو شخص اسے کھائے پانی زیادہ ہے۔

المشربة: پانی پینے کا برتن۔ ج مشارب:

المشروب: سر۔ ہر وہ چیز جو پی جائے۔ الشرايب: سخت پھیلی والا۔ شیر۔ شربق: الثوب: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الشربین: سرو کی مانند ایک درخت کا نام جس سے عمدہ قطران نکلتا ہے۔

شربت (س) مشرنا و انشربت: یدہ: ہاتھ کا سردی کی وجہ سے سخت ہو کر

جموت بولنا۔ کہا جاتا ہے "اشربنی مالہ اشرب" اس نے میرے متعلق ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کو میں نے نہیں کیا الاہل: ہاتھ ہا و اشرب حب فلان اس کے دل میں فلاں کی محبت جاگزیں ہو گئی۔

شاربة مشاربة و شرابا: ساتھ پینا۔ تشاربا: ایک دوسرے کے ساتھ پینا۔ تشرب: الثوب العزق: جذب کرنا۔ چونا۔

استشرب: ٹونہ: تیز اور گہرا ہونا۔ اشراب: اللشی والیہ: گردن اٹھا کر دیکھنا۔ اسم (الشرايبیة) جیسے اطمآن سے طمآنینہ۔

الشرب: سر شارب: اسم فاعل کی جمع ہے۔

الشرب: سر۔ پینے کا پانی۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔ پینے کا وقت۔ ج شراب:

الشربة: شرب کا اسم مرہ۔ جو ایک مرتبہ پیا جاسکے۔

الشربة: چہرے کی سرخی۔ کہا جاتا ہے "فی وجہه شربة من حمره" اس کے چہرہ میں سرخی ہے۔ سیراب ہونے کی مقدار پانی۔

الشربة: بہت پینا۔ پیاس۔ گرمی کی شدت۔ ج شرب و شربات:

ماء (شروب و شربت) پینے کے لائق پانی۔ الشرب: بہت پینے والا۔ پینے کا ساتھی جو شخص تمہارے ساتھ مل کر پانی لائے یا تمہارے ساتھ بلایا جائے۔ اونٹوں کو گھاٹ پر لانے میں ساتھی۔

الشربة: بے درخت کے گھاس والی زمین۔ وادی کا کنارہ۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "ما زال فلان علی شربة واحدة" فلاں ہمیشہ ایک طریقہ پر رہا۔

الشراب: ہر ایک پینے کی چیز۔ ج اشربة:

الشربة والشروب والشراب

شَرِيحٌ پھی ہوئی کمان۔ ج شَرَانِجٌ .
الشَّرِيحَةُ درخت خرما کی پتیوں سے بنی
ہوئی ٹوکری۔ بانس کا شاخڑ جو دکان کے
دروازہ پر لگایا جائے۔ پٹا جس سے تیر کے
پہ کو جوڑیں۔ ج شَرَانِجٌ .
سَهْمٌ مُشَرَّجٌ تیر جس میں پر کو جوڑنے
والا پٹھا لگا ہو۔

الشَّرِيحُ تل کا تیل۔ (دخیل)
الشَّرْجِبُ اصیل گھوڑا۔ لمبی ناکوں والا
گھوڑا۔

الشَّرْجَبَانُ وَالشَّرْجَبَانُ ایک قسم کا
پودہ جس کا پھل بیگن کے مشابہ ہوتا ہے
اور اس سے کھال کی دباغت کرتے ہیں۔

شَرَحَ (ف) شَرَحًا اللِّحْمَ: لے کر لے
کاٹنا الْمَسْفَلَةَ: مسد کی باریکی کو کھول دینا
اور بیان کرنا الْكَلَامَ: سمجھانا الشَّيْءَ
کھولنا؛ کشادہ کرنا۔ حَفَاظَتُ کرنا صِدْرَهُ
لِلشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: خوش ہونا الی الشَّيْءِ:
رغبت ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
يَشْرَحُ اِلَى الدُّنْيَا" فلاں دنیا کی طرف
رغبت ظاہر کرتا ہے۔

شَرَحَ الشَّيْءَ: کاٹ کر جدا جدا کرنا۔ اور
اسی سے اطباء کے نزدیک "عِلْمٌ
التَّشْرِيحِ" ہے شَرَحَ قِطْعَةَ اللِّحْمِ: پٹا
پٹلا پارچہ کاٹنا الشَّيْءَ: کھولنا ظاہر کرنا۔
أَشْرَحَ صِدْرَهُ: خوش ہونا۔

أَنْشَرَخَ: کشادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَرَحَ
اللَّهُ صِدْرَهُ بِقَبُولِ الْخَيْرِ فَأَنْشَرَخَ" اللہ
نے اس کے سینے کو قبول خیر کے لیے
کشادہ کر دیا اور وہ کشادہ ہو گیا۔

الشَّرْحَةُ گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کا
پارچہ۔

الشَّرِيحُ وَالشَّرِيحَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔
موتے گوشت کا دراز ٹکڑا۔ ج شَرَانِجٌ .
الشَّرِيحُ: فا۔ بیان کرنے والا۔ کیت کی
پردوں سے حفاظت کرنے والا۔
المَشْرُوحُ: سہ۔ سراب۔

المَشْرُوحُ اندام نہانی۔

شَرَخَ (ن) شَرُوخًا الصَّبِيَّ: جوان
ہونا۔ صفت (شَارَخَ) ج شَرَخَ (جیسے
صَاحِبُ كِي جَمْعِ صَحْبٍ) (شَرُوخًا
وَشَرُوخًا) نَابُ البَعِيرِ: دانت لگانا۔

الشَّرِيحُ: س۔ اصل۔ ابتداء جوانی۔ اول
امر۔ کسی چیز کا اُبھرا ہوا کنارہ۔ مثل ہم
عمر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَرِيحِي" وہ میرا ہم
عمر ہے۔ و "هُمَا شَرِيحَانُ" وہ دونوں ایک
جیسے ہیں۔ "شَرِيحَا الرِّخْلُ" کجاہ کا اگلا و
پچھلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَزَالُ
بَيْنَ شَرِيحِي رَحِيلِهِ" یعنی فلاں ہمیشہ سفر
کرتا رہتا ہے۔ اونٹ کی سالانہ پیدائش۔ ج
شَرُوخٌ .

الشَّرْحُوبُ: ریڑھ کی بڑی۔ ج
شَرَاخِيبٌ. شَرَدَ (ن) شَرَدًا وَشَرُودًا
وَشَرَادًا وَشِرَادًا. بدک کر بھگانا عَلَيَّ
اللَّهُ: اطاعت سے نکل جانا۔ صفت
(شَارِدٌ) ج شَرْدٌ (شَرُودٌ) ج شَرْدٌ
مؤنث شَارِدَةٌ ج شَوَارِدٌ وَشَرْدٌ. و
شَوَارِدُ اللُّغَةِ: نوادر کلمات۔

شَرْدَةٌ وَأَشْرَدَةٌ: دھکھارنا۔ بھگانا۔ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ مُطْرَدٌ مُشَرَّدٌ" فلاں دھکھارا
ہوا؛ بھگایا ہوا ہے؛ جیسے کہا جاتا ہے
"طَوَيْدٌ شَرِيدٌ" شَرْدٌ شَمَلَهُمْ: جماعت
متفرق کر دینا۔ شَرْدٌ بِفُلَانٍ: لوگوں کو
کسی کے عیوب سنانا۔

تَشَرَّدَ: القَوْمُ: جانا۔
الشَّرِيدَةُ: دھکھارا ہونا۔

الشَّرِيدَةُ: الشَّرِيدُ کا مؤنث۔ چیز کا بقیہ۔
ج شَرَائِدٌ .

الشَّرِيذَاحُ: موٹا ڈیلے گوشت والا۔
شَرْدٌ: الجَمْعُ: متفرق کرنا۔

الشَّرِيذَةُ: لوگوں کی قلیل جماعت۔ ج
شَرَاذِمٌ وَشَرَاذِمٌ. ثِيَابٌ شَرَاذِمٌ: پٹے
ہوئے کپڑے۔

شَرَزَةٌ (ن) شَرَزًا: کاٹا۔ صفت (شَارَزٌ)

ج شَرَازٌ .

شَرَزَةٌ: کٹے کٹے کرنا۔ گلی دینا۔
عذاب دینا۔
شَارَزًا: بدخلق ہونا الرَّجُلُ: جھگڑا کرنا۔
دشمنی کرنا۔

أَشْرَزَهُ: سختی و ہلاکت میں ڈالنا۔
الشَّرَزُ: س۔ سختی۔ سختی و درستی۔ سخت و
درشت۔ جیسے "عَذَبَهُ اللَّهُ عَذَابًا شَرَزًا"
اللہ اس کو سخت عذاب دے۔

الشَّرَزَةُ: اسم مرءة۔ ہلاکت۔ سختی۔
الشَّرَازُ: شَارَزُ اسم فاعل کی جمع۔ لوگوں
کو سخت عذاب دینے والے۔

الشَّرِيَزُ: وہی جس میں سے پانی نکال دیا
گیا ہو۔ ج شَوَارِيِزُ وَشَرَارِيِزُ .
المَشَارِزُ: فا۔ سخت۔ بدخلق۔

المَشْرُزُ: س۔ بندھا ہوا۔ ملائے ہوئے
کناروں والا۔

الشَّرَسُ (س) شَرَسَةً وَشَرَسًا
وَشَرِيَسًا: بدخلق ہونا۔ صفت (شَرَسٌ
وَشَرِيَسٌ وَأَشْرَسٌ) شَرَسَتْ المَاضِيَةُ:
کانٹے اور چھوٹے پودے ہمیشہ کھانا۔

شَرَسَةٌ (ن) شَرَسًا: سخت کلائی سے
جلانا۔

النَّاقَةُ: لگام سے کھینچنا۔
شَارَسَهُ مَشَارَسَةً وَشَرَسًا: سخت
معاہلی کرنا۔

تَشَارَسَ: القَوْمُ: باہم دشمنی کرنا۔
شَرَسَتْ (س) شَرَسَةً: المَاضِيَةُ:
خوب چرنا۔

الشَّرَسُ وَالشَّرَسُ: س (وَالشَّرَسُ)
کانٹے دار چھوٹے پودے۔ الشَّرَسَاءُ:

اشرس کا مؤنث۔ سفید پٹلا بادل۔

الشَّرِيَسُ: س۔ بدخلق۔ بہت جھگڑاؤ۔ کہا
جاتا ہے "لَهُ نَفْسٌ شَرِيَسَةٌ" اس کے اندر
بد خلقی اور جھگڑا کرنے کی عادت ہے۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ زَوْشَرِيَسٌ" وہ بد خلق ہے۔
وَقَدْ لَانَ شَرِيَسُهُ اس کی بد خلقی نرم پڑ

گئی۔ شَرِيْسُ الْأَكْلِ: بہت کھانے والا۔
 الشَّرِيْسُ: شیر۔ ایک بدمزہ پودہ۔
 أَرْضٌ (شَرِيْسَةٌ وَمُشْرِسَةٌ) بہت کانٹے دار چھوٹے پودوں والی زمین۔
 الشَّرَاسُ: سرسریں۔
 شَرَسَفٌ شَرَسَفَةٌ: بدخلق ہونا۔
 الشَّرْسُوفُ: پلیوں کا وہ کنارہ جو پیٹ کی جانب ہوتا ہے۔ بندھا ہوا اونٹ۔ سختی کی ابتداء۔ مصیبت۔ شَرَسِيفٌ۔
 شَرَشَرٌ: الشَّيْءُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 پھاڑنا۔ کات کر جھاڑنا البسْكِيْنُ: چھری پتھر پر تیز کرنا۔
 المَاشِيَّةُ النَّبَاتُ: جانور کا گھاس چرنا۔
 تَشَرَشَرٌ مِنْهُ: بکھرا۔ متفرق ہونا۔
 الشَّرَشَرُ: ایک قسم کی تیل جس میں کانٹے نہیں ہوتے۔ واحد (شَرَشَرَةٌ) شَوَاءٌ شَرَشَرٌ: بھنا ہوا گوشت جس سے چربی پختی ہو۔
 الشَّرَشَرَةُ: ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔
 الشَّرَاشِرُ: نفس۔ تمام بدن۔ اور کہا جاتا ہے "الْقِي عَلَيْهِ شَرَاشِرَةٌ" اس نے اس سے محبت کی یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ بوجھ۔ شَرَاشِرُ الذَّنْبِ: ذم کے اطراف۔
 الشَّرَشُورُ: ایک پرندہ جس کو "بِرْتَش" بھی کہتے ہیں۔ ج شَرَاشِيرٌ۔
 شَرَصَه (ن) شَرَصًا: کھینچنا۔
 شَرَصَةٌ وَشَرَصَةٌ: بگلابہ: گالی دینا۔
 الشَّرَصُ: سر۔ سختی۔ درشتی۔
 الشَّرِصُ: کپٹی کے پاس بال گرنے کی جگہ۔ ج شِرَاصٌ وَشِرَصَةٌ۔
 شَرَطٌ (ن ض) شَرَطًا: عَلَيْهِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوَهُ: شرط لگانا الجِلْدُ: نثر لگانا۔
 شَرَطٌ (س) شَرَطًا: کسی بڑے معاملہ میں پھنسا۔
 شَرَطٌ الجِلْدُ: نثر لگانا الشَّيْءُ: باندھنا۔

شَارِطَةٌ باہم شرط لگانا۔
 أَشْرَطُ: الإيْلُ: اونٹ کو فروخت کرنے کیلئے نشان لگا کر جدا کرنا إِلَيْهِ رَسُولًا: جلدی اپننا، بھینچنا نَفْسَهُ أَوْمَالَهُ فِي أَمْرٍ: پیش کرنا نَفْسَهُ لِكَذَا: تیار کرنا۔ آمادہ ہونا بِالشَّيْءِ وَفِيهِ: ہلکا بھیننا اور شرط لگانا۔
 تَشَرَطٌ فِي الْعَمَلِ: اچھی طرح غور کرنا۔ اپنے اوپر غیر ضروری شرطیں لگانا۔
 تَشَارَطَا: القَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگانا۔ تَشَارَطُوا عَلَي الشَّيْءِ: التزام شرط کرنا۔
 اشْتَرَطَ لَهُ كَذَا: شرم لازم کرنا۔
 اسْتَشْرَطَ: المالُ: درستی کے بعد خراب ہونا۔
 الشَّرْطُ: سر۔ کسی چیز کا لازم کرنا۔ ج شُرُوطٌ: کینہ۔ بچ۔ ج أَشْرَاطٌ۔
 الشَّرْطُ: سر۔ علامت۔ ہر چیز کا اول ہر چھوٹی نالی۔ ردی مال۔ چھوٹے چھوٹے مال۔ ج أَشْرَاطُ: الأَشْرَاطُ: رزیل لوگ۔ شریف لوگ (ضد) کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ شَرِطِ النَّاسِ وَأَشْرَاطِهِمْ" وہ رزیل یا شریف لوگوں میں سے ہے۔
 الشَّرْطَةُ: شرط جو تم لگاؤ۔ فوج کا پہلا دستہ جو میدان جنگ میں آئے۔ شَرَطَةٌ: مَكَلٌ شَيْءٌ: عمدہ و بہترین (و الشَّرْطِيُّ) شَرَطٌ کے واحد ہیں۔ شَرَطٌ کے معنی والی کے احوال و انصار لوگ اور آج کل کے زمانہ میں کوتوال کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ ایسی علامت لگاتے ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔
 الشَّرْطُ: فوج کا پہلا دستہ جو میدان جنگ میں حاضر ہو اور موت کے لیے تیار ہو۔
 الشَّرِيطُ: شرط۔ پوست خرما کی ٹٹی ہوئی رستی جس سے تخت وغیرہ کو باندھیں۔ ڈبہ جس میں عورت خوشبو وغیرہ رکھے۔ ج شَرَطٌ۔
 الشَّرِيطَةُ: شرط۔ پھنسنے ہوئے کان والا۔

اونٹ۔ ج شَرَائِطُ۔

أَشْرَطُ: النَّاسُ: رزیل آدمی۔

المِشْرَطُ والمِشْرَاطُ والمِشْرَطَةُ:

نثر۔ ج مَشَارِطٌ وَمَشَارِيطٌ۔

شَرَعٌ (ف) شَرَعًا: لِلْقَوْمِ: قانون بنانا۔

شریعت جاری کرنا لَهُمُ الطَّرِيقُ: ظاہر

کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَرَعَ اللَّهُ لَنَا كَذَا

بِشَرْعِهِ" یعنی خدا نے ہمارے لیے ایسا

ظاہر کیا الرَّجُلُ: حق کو غالب کرنا اور

باطل کو مٹانا البَيْتُ: گھر کا کھلے ہوئے

راستہ پر ہونا۔

البَابُ إِلَى الطَّرِيقِ: دروازہ کو کھلے

ہوئے راستہ کی جانب کرنا الحَبْلُ: رستی کی

گرہ کو کھول کر دونوں کناروں کو کڑے

وغیرہ میں ڈالنا۔

الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔

شَرَعٌ (ف) شَرَعًا: شَرُوعًا: فی

المَاءِ: پانی میں داخل ہونا یا اوک سے پینا۔

الْوَارِدُ: پانی کو منہ لگا کر پینا المَاشِيَّةُ:

جانور کو پانی پر لے جانا الأَمْرُ: کام شروع

کرنا فی الأَمْرِ: کام میں مشغول ہونا

الرِّيحَ فَشَرَعَتْ هِيَ: نیزے کو کسی کی

جانب سیدھا کرنا اور سیدھا ہونا۔ (لازمی و

متعدی)

الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر ہونا بفلان: کسی کو

پانی پر لے جانا فَلَانٌ عَلَيْنَا: قریب ہونا

اور جھانکنا۔ شَرَعٌ يَضْرِبُ: مارنے لگانا۔

(افعال مقاربہ سے ہے۔)

شَرَعٌ وَأَشْرَعُ: الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر

کرنا۔

ه فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل کرنا۔ شَرَعٌ

الحَبْلُ: رستی کی گرہ کھولنا۔ شَرَعٌ

السَّفِينَةَ: کشتی میں بادبان لگانا۔ أَشْرَعُ

بَابَهُ إِلَى أَوْعَلَى الطَّرِيقِ: راستہ کی طرف

دروازہ کھولنا۔ أَشْرَعُ عَلَيْهِ الرِّيحُ: کسی

کی جانب نیزہ سیدھا کرنا۔

أَشْرَعُ الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔

الشَّرْعُ الشَّرِيعَةُ: قانون بنانا۔ شریعت جاری کرنا۔
 الشَّرْعُ: من اللہ کے مقرر کردہ احکام۔ اور کہا جاتا ہے "شَرَعَكَ مَا بَلَغَكَ المحل" یعنی تمہارے لیے اتنا تو شہ کافی ہے جو مقصد کی جگہ تک پہنچا دے۔ اور یہ اس شخص سے کہتے ہیں جس کو تھوڑے پر قناعت کرنے کیلئے براہِ محنت کرنا ہو (الشَّرْعُ والشَّرَعُ) مثل۔ برابر۔ کہا جاتا ہے "النَّاسُ فِي هَذَا شَرَعٌ وَاحِدٌ وَهُمْ فِي هَذَا شَرَعٌ" یعنی لوگ اس میں برابر ہیں۔ الشَّرْعُ: جو تے کا تمہ۔

الشَّرْعَةُ والشَّرِيعَةُ: تانت۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبُوا عَلَيَّ الشَّرْعَ" انہوں نے تانت کو بجایا۔ الشَّرِيعَةُ: تقا پرندہ کے شکار کرنے کا جال۔ شریعت۔ مثل۔ پانی کی طرف راستہ۔ عادت۔ ج شَرَعٌ شَرَعٌ وشَرَاخٌ۔
 الشَّرِيعَةُ: کشتی۔ ج شَرَاخٌ۔
 الشَّرِيعُ: بہادر۔ عمدہ کتال من اللیف: درخت خرما کی چھال کے کاٹنے جو سخت ہو گئے ہوں۔

الشَّرِيعَةُ: طریقہ۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام۔ چوکت۔ دریا کے کنارے رہنے والوں کے لیے گھاٹ۔ ج شَرَاخٌ۔
 نَهْرُ الشَّرِيعَةِ: دریائے اردن۔

الشَّرَاخُ: اسم فاعل۔ مَوْجٌ شَرَاخَةٌ: ج شَرَعٌ و شُرُوعٌ و شَوَارِعٌ: کہا جاتا ہے "إِبِلٌ شَرَعٌ و شَوَارِعٌ" پانی میں داخل ہونے والے اونٹ۔ بَيْتٌ شَارِعٌ: وہ مکان جس کا دروازہ راستہ کی جانب ہو۔
 والشَّارِعُ: ج شَوَارِعٌ۔ سڑک عام راستہ۔ مَآجٌ شَارِعَةٌ و شَوَارِعٌ: کسی کی جانب سیدھے کیے ہوئے نیزے۔

الشَّوَارِعُ مِنَ النُّجُومِ: غروب کے قریب ستارے۔
 أَنْفٌ (أَشْرَعٌ) لِمَنْ لَبَسَهُ وَابِلًا نَاكٍ:

الشَّرَاخُ: ہر وہ چیز جو بلند اور کھڑی کی جائے۔ بادبان۔ تانت جب تک کہ کمان پر لگی رہے۔ اونٹ کی گردن۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ شَرَاخٌ الْأَنْفِ" لمبے بانہ کی ناک والا مرد۔ ج شَرِيعَةٌ و شَرَعٌ۔
 الشَّرَاغَةُ: دلیری۔

الشَّرَاغُ: عمدہ کتال بیچنے والا۔
 الشَّرِيعِيُّ: مطابق شریعت۔
 الشَّرَاغِيُّ: مِنَ الْإِبِلِ: لمبی گردن والا اونٹ۔

الشَّرَاغِيُّ: مِنَ الرِّمَاحِ: لمبے نیزے۔
 ایک شخص کی جانب منسوب جس کا نام شرع تھا اور وہ نیزے بنایا کرتا تھا۔
 الْمَشْرُوعُ وَالْمَشْرُوعَةُ وَالْمَشْرُوعَةُ: دریا کے کنارے رہنے والوں کے لیے گھاٹ۔
 ج شَرَاخٌ۔

الْمَشْرُوعُ: مِنَ الْبُيُوتِ: بلند مکان۔
 الْمَشْرُوعُ: سیدھا کیا ہوا۔ جس کو شریعت جائز رکھے۔ وَالْأَمْرُ الْمَشْرُوعُ: وہ کام جس کو تم شروع کرو۔
 شَرَعَبُ الْأَدِيمِ: لمبا کانا۔

الشَّرْعَبُ: لمبا۔
 الشَّرْعَبِيُّ: ایک قسم کی چادر۔ لمبا خوبصورت جسم والا۔

شَرَفَةٌ (ن) شَرَفًا: کسی سے عزت و مرتبہ میں غالب ہونا۔ صفت مفعولی (مَشْرُوفٌ) الْحَائِطُ: دیوار میں کنگرہ بنانا۔

شَرَفٌ (ك) شَرَفًا و شَرَفًا: دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا۔ صاحب عزت ہونا۔ (شَرَفَتِ النَّاقَةُ شَرُوفًا) بوڑھی ہونا۔

شَرَفٌ (س) شَرَفًا: بلند ہونا۔
 شَرَفًا: شرافت پر فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ شَرَفَ الْمَكَانَ: چڑھنا الشَّيْءَ:

اوپر سے چھا کرنا۔ قریب ہونا۔
 شَرَفًا: تقظیم کرنا۔ بزرگی دینا۔ عزت کرنا۔ شَرَفَ الْبَيْتِ: کنگرہ بنانا۔ الْمَكَانَ:

چڑھنا۔

الشَّرْفُ: الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ الْمَكَانَ: چڑھنا علیہ۔ اوپر سے چھا کرنا۔ الشَّيْءَ: ممکن ہونا۔ قدرت و طاقت میں ہونا۔ عَلَيَّ الْمَوْتِ: قریب الموت ہونا۔ عَلِيَّ: ڈرنا یا مہربانی کرنا۔
 الشَّرْفَتِ الْحَيْلُ: تیز دوڑنا۔ نَفْسُهُ عَلَيَّ الشَّيْءِ: حریص ہونا اور ہلاک ہونا۔

تَشَرَّفَ الْبَيْتَ: کنگرے دار ہونا۔
 الرَّجُلُ: عزت پانا۔ بَكْدًا: باعث عزت جاننا۔ الْمَكَانَ: چڑھنا۔ الشَّيْءَ: ہاتھوں سے اڑ کر کے کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا۔ للشَّيْءِ: چھا کرنا۔ عَلَيَّ الشَّيْءِ: اوپر سے چھا کرنا۔

تَشَرَّفَ الْقَوْمَ: ذی عزت لوگوں کا قتل کیا جانا۔
 اشترَفَ: سیدھا کھڑا ہونا۔

اشترَفَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ الشَّيْءَ: ہاتھ کی آڑ کر کے نظر اٹھا کے دیکھنا۔
 اشترَفَهُ حَقًّا: ظلم کرنا۔ حق مار لینا۔
 الشَّاةُ: عیوب سے سالم لینے کیلئے دیکھ بھال کرنا۔

الشَّرْفُ: س۔ عزت و بزرگی۔ شرفیت۔ بلند مکان۔ ناک۔ ج اشرفا۔ شرف البعیر: کوہان۔ الشَّرْفُ: شریف۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَرَفٌ قَوْمِهِ وَكَرْمُهُمْ" وہ قوم کا شریف ہے۔

الشَّرْفَةُ: خاندانی شرافت۔
 الشَّرْفَةُ: مِنَ الْقَصْرِ: کنگرہ۔ ج شَرَفٌ و الشَّرْفَةُ مِنَ الْمَالِ: عمدہ مال اور کہا جاتا ہے "أَعَدَّ زِيَارَتَكُمْ شَرْفَةً" تمہاری ملاقات کو میں اپنے لئے باعث عزت سمجھتا ہوں۔

الشَّرْفَةُ: شَرَفَاتٌ كَأَوْدِ شَرَفَاتِ انْ مَثَلٌ يَامُرُجِ بَرَجِيوں کو کہتے ہیں جو دیوار کے بالائی حصہ میں ہوتی ہیں۔

الشَّرَافُ: فَا: عقرب شرف حاصل

کرنے والاسنہم شارق: پرانا تیردن
 شارق: پرانی شراب کا مکامین التوق:
 بوڑھی اونٹنی۔ ج شرف و شرف
 وشروف و شرف
 الشارقة شارق کا موٹہ۔ بوڑھی
 اونٹنی۔ شوارفات وشوارف
 الشوارف: شراب کے برتن۔ مٹکا
 وغیرہ۔

الشاروف: جھاڑو۔
 الشریف: شرف و عزت والا۔ شرفاء
 و اشرف مؤنث شریفہ۔ ج شرائف
 و شرفیات حارک شریف: بلند موٹھا۔
 اشرف الإنسان: انسان کے ناک۔

الأشرف: اسم تفضیل۔ چگاڑو۔ قصر
 اشرف: مؤنث شرفاء۔ شرف: سنگرہ
 دار یا برجی والا محل۔ جرجل اشرف: بلند
 کاندھے والا مرد۔ شرف اشرف: بلند
 موٹھا۔

الشرفاء: اشرف کا مؤنثین الأذان:
 لبابان۔
 المشرف: من الاماکن: بلند جگہ۔
 المشرف: جھانکنے کی جگہ۔ ج
 مشارف: مشارف الأرض: زمین کی
 بلند جگہیں۔

المشرفی: عرب کے ان دیہات کی
 طرف منسوب جمحشارف الشام کے نام
 سے موسوم ہیں اور اسی سے شرفیوف
 المشرفیۃ اور بقول بعض السیف
 المشرفیۃ بین کے ایک علاقہ کی طرف
 منسوب ہیں۔ مشارف الشام کی طرف
 نہیں المنشرف: بلند۔

شرق (ن) شرقا: الشاة: بکری کے
 کان کو لبانی میں چیرتا۔ صفت مفعولی
 (شرقاء) الشمر: پھل توڑتا۔
 شرق: شرقا وشروقاً
 شرق: آفتاب طلوع ہونا النعل:
 الشمس:

درخت خرما پر کھجور کا گدر ہونا۔

شرق (س) مشرقاً: بریقہ: اچھو لگتا۔

شرفت عینہ: آنکھ کا سرخ ہونلوانہ:

شرم کی وجہ سے سرخ ہونلجرح بالدم:

زخموں کا خون سے بھرنا الدم فی عینہ:

آنکھ میں خون ظاہر ہونا الموضع باہلہ:

جگہ کا لوگوں سے بھر کر تنگ ہونا

الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب

ہونا الشی: مخلوط ہونا الأرض: پانی

جاری ہونے کے ناقابل ہونا الشاة: لبانی

میں چرے ہوئے کان والی ہونا۔

شرق: مشرق کی طرف متوجہ ہونا۔

چمکدار خوبصورت چہرے والا ہوناللحم:

گوشت کے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں

خشک کرنا۔

البناء: چونے وغیرہ سے لیپنا الشی

بالزعفران: کسی چیز کو زعفران سے

رنگنا۔

أشرفت الشمس: آفتاب کا طلوع

ہونا۔ چمکنا مشرق وجہہ: چمکدار ہونا

المکان: سورج کی چمک سے روشن ہونا۔

الرجل: طلوع آفتاب کے وقت داخل

ہونا۔ مشرفت الشمس المکان: روشن

کرنا۔ الثوب فی الصبح: گہرا رنگنا۔

شرقہ بریقہ: اچھو لگوانا النخل:

درخت خرما پر کھجور کا گدر ہونا۔

تشرق: دھوپ میں بیٹھنا۔ دھوپ کھانا۔

انشرق: القدس: کمان کا پھٹنا۔

اشروقت اشرفاً: العین بالدفع:

آنسوؤں سے ڈبڈبانا۔ سرخ ہونا۔

الشرق: مشرق طلوع ہونے کی

جگہ۔ چمن اور اسی سے ہے ما دخل

شرق فمی شی: میرے منہ کے شکاف

میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ ج اشراق

روشنی جو دروازے کی دراز

(والشرق) سے داخل ہو۔

الشرق: مشرق۔

الشرقة: شرق کا اسم مرآة۔ تم کہتے ہو

أخذته شرقاً کاذ یموت منها: اس کو

اچھو لگ گیا جس سے وہ مرنے کے قریب

ہو گیا۔ جائے کے زمانہ میں دھوپ میں

بیٹھنے کی جگہ (والشرقة) آفتاب جبکہ

طلوع ہو۔

الشریق: آفتاب جبکہ طلوع ہو۔

خوبصورت لڑکا۔ مشرق:

التشریق: مصلیام التشریق: عید الاضحی

کے بعد تین دن۔ اس لیے کہ ان دنوں

میں قربانی کا گوشت خشک کیا جاتا ہے۔

التشریق: عید کی نماز اس لیے کہ طلوع

آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

الشارق: فا: آفتاب بوقت طلوع۔ کہتے

ہیں لا اکلمک ماذر شارق: میں تم

سے گفتگو نہیں کروں گا جب تک آفتاب

طلوع ہو اور کبھی آفتاب کے علاوہ ستاروں

پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہاڑ

وغیرہ کی شرقی جانب۔ مشرق:

الشاروق: چونہ راکھ ملا ہوا۔

المشرق والمشرق: والمشرق: طلوع

آفتاب کی جگہ یا جہت۔ جحشارق:

المشرفة والمشرقة والمشرقة

والمشراق والمشرق: جائے کے

زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ۔

مشرق الباب: دروازے کی دراز جس

میں سے طلوع آفتاب کے وقت روشنی

پڑے۔

المشراق: وہ شخص جس کی عادت ہو کہ

دوسرے کو اچھو لگنے میں مبتلا کر دے۔

المشرق: منع۔ چونہ راکھ سے پلستر کیا

ہوا۔

الشرقوق والشرقیاق والشرقیاق

والشرقیاق: ایک اچھوٹا پرندہ جس کو

”أخیل“ بھی کہتے ہیں اور عوام اس کو

”شقوق“ کہتے ہیں۔

شרכת (س) شرکاً: النعل: تہ

ٹوٹا۔

شُرْكُهُ (س) شُرْكًا و شُرْكًا و شُرْكَةً
و شُرْكَةً. شُرِكٌ ہوتا۔

شُرْكٌ. النَعْلُ: جوتہ میں تمہ لگانا۔

أَشْرَكَهُ. فی امرہ: کام میں شریک بنانا۔

أَشْرَكَ بِاللَّهِ: شریک ٹھہرانا۔ شُرک کرنا۔

صفت (مُشْرِكٌ و مُشْرِكِيٌّ) اور اسم

(الشِّرْكُ)

النَعْلُ: جوتہ میں تمہ لگانا۔

شَارَكَهُ و تَشَارَكَ: باہم شریک ہونا۔

إِشْتَرَكَ: الأمر: مشتہر ہونا۔ إِشْتَرَكَ الْقَوَا

مُ فِي كَذَا: باہم شریک ہونا۔

الشِّرْكُ. شُرْكٌ و أَشْرَكَكَ اِسْمٌ۔ شریک

حصہ۔ اور اسی سے ہے ”بَيْعٌ شُرْكٌ مِنْ

دَارِهِ“ اس کے گھر کا ایک حصہ بیچا گیا۔ ج

أَشْرَكَ.

الشِّرْكَةُ: جس شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے

زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ

ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر

بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاف نہ ہو۔

الشَّرْكُ. جال۔ پھندا۔ ج شُرْكٌ

و أَشْرَكَكَ. راستہ پر جانوروں کے قدموں

کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)

الشِّرَاكُ: جوتے کا تمہ جو پشت قدم پر

پڑے۔ زمین پر گھاس کی ایک پٹی۔ ج

أَشْرَكَكَ و شُرْكٌ۔

الشَّرْكِيُّ و الشَّرْكِيٌّ: تیز چال اور کہا

جاتا ہے ”الطَّمَةُ لَطْمًا شَرْكِيًّا“ اس نے

اس کو جلدی جلدی پیاپے طمانچے مارے۔

الشَّرِيكُ. ساجھی۔ شریک۔ ج شُرْكَاءُ

و أَشْرَكَكَ. مؤنث شُرَيْكَةٌ ج شُرَائِكُ.

المُشَارِكُ. ساجھی۔ حصہ دار۔

المُشْتَرِكُ. جنہ جس میں دو یا دو سے زائد

شریک ہوں۔ کہا جاتا ہے ”طَرِيقٌ مُشْتَرِكٌ

و رَأْيٌ مُشْتَرِكٌ و أَمْرٌ مُشْتَرِكٌ“ لفظ

مُشْتَرِكٌ: جس کے معانی بہت ہوں جیسے

لفظ یمن۔ رَجُلٌ مُشْتَرِكٌ: ٹمکن آدمی کی

طرح خود بخود باتیں کرنے والا۔

الْأَشْتِرَاكِيُّ: اشتراکیت کو ماننے والا۔

الْأَشْتِرَاكِيَّةُ: وہ نظریہ جس میں معاشرہ

کے وسائل آمدن مشترک ہوں اور اس کو

ان پر خرچہ کیا جائے ان سے کام لیا جائے

اور خرچ دیا جائے۔ یعنی آمدن کا حق ملکیت

یا وراثت بالکل نہ ہوگا۔

شُرْمٌ (ض) شُرْمًا. الشُّيْ: پھاڑنا۔

الْأَنْفُ: ناک کا بائیں کاٹنا الْفَرِيذَةُ: شید کو

کناروں سے کھانا لُفْلَانٌ مِنْ مَالِهِ: تھوڑا

سادینا۔

شُرْمٌ (س) شُرْمًا. کئی ہوئی ناک والا

ہوتا۔ صفت (أَشْرَمٌ) مؤنث شُرْمَاءُ ج

شُرْمٌ.

شُرْمَةٌ. پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلاڑے کلاڑے

تَشْرُمٌ و انشُرْمٌ. پھٹنا۔ کلاڑے کلاڑے

ہوتا۔ شُرْمُ الصَّيْدِ: شکار کا زخمی ہو کر

بھاگانا۔

الشَّارِمُ. فاشانہ کے گوشہ کو چھیدنے

والا تیر۔

الشُّرْمُ. س. کھاری۔ سمندر کے پانی کا گہرا

حصہ۔ ایک قسم کا درخت۔ ج شُرُومٌ.

شُرُونٌ (س) شُرُونًا. الصَّخْرُ: چٹان کا

پھٹنا۔

الشُّرُونُ: شگاف۔

الشُّرُونِيَّتُ و الشُّرُونِيَّةُ. موٹے اور سخت

ہاتھوں والا۔ شیر۔

الشُّرُونِيُّ: ایک پرندہ۔

شُرُنْفٌ. الزُّرْعُ: کھیت کے بڑھے ہوئے

تپوں کو کاٹنا۔

الشُّرْنَاثُ. کھیتی کے بڑھے ہوئے پتے جو

کھیتی کے لیے معز ہیں۔

شُرُنْفٌ. الشُّيْ: کاٹنا۔

الشُّرَانِقُ. سانپ کی کینچلی جس کو چھوڑ

دے۔ و الشُّرَانِقُ عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: ریشم

کے کیڑے کا لویا واحد (شُرُنْفَةٌ) اس کو

”قِيَالِجٌ“ بھی کہتے ہیں جس کا واحد

”قِيَالِجَةٌ“ ہے۔ نیز ”صَلِجٌ“ کہتے ہیں جس

کا واحد ”صَلِجَةٌ“ ہے۔

شُرَاهُ (س) شُرَاهًا و شُرَاهَةً. إِلَى الطَّعَامِ

وَعَلَيْهِ: بہت حریص ہونا۔ صفت (شُرِهٌ

و شُرَاهَانٌ)

الشُّرَاهَاءُ. مِنَ السَّبِينِ: خشک سال۔

شُرُوهْفٌ. الصَّبِيُّ: بچہ کو عمدہ غذا دینا۔

الشُّرُوْ و الشُّرُوْ. شہر۔

الشُّرُوَالُ. سروال میں ایک لغت ہے۔

بمعنی پاجامہ۔

شُرَى يَشُرِي شِرَاءً و شُرَى. الشُّيْ:

خریدنا، بیچنا. اللُّحْمُ أَوْ الثُّوبُ: دھوپ

میں خشک ہونے کیلئے ڈالنا بِنَفْسِهِ عَنْ

قَوْمِهِ آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے

لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی

کرنا۔

هـ. ضَمَّهَا كَرْنَا. ٹمکن کرنا۔ کہا جاتا ہے

”فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَّاهُ“ اس نے اس کے ساتھ

وہ فعل کیا جس نے اسے ٹمکن کیا اللَّهُ

فَلَانًا: پتی اُجھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔

شُرَى يَشُرَى شُرَى. البُرْقُ: بجلی کا چمکانا۔

زَمَامُ الدَّابَّةِ: بہت زیادہ بلنا الرَّجُلُ:

غضبناک ہونا۔ اصرار کرنا الْجِلْدُ: جسم پر

پتی اُجھلنا۔ صفت (شُرَى) الشُّرْبُ بَيْنَهُمْ:

لڑائی پھیلنا الْفَرَسُ فِي سَبْرِهِ: تیز دوڑنا

الْفَرَسُ فِي لَجَامِهِ و البَعِيرُ فِي زَمَامِهِ:

کھینچنا۔

أَشْرَى. الزَّمَامُ: حرکت دینا الشُّيْ: جھکا

نا. الْحَوْضُ: حوض کو بھرنا البُرْقُ: بجلی کا

تیز چمکانا بَيْنَهُمْ: بھڑکانا الْقَوْمُ: خارجی جیسا

ہونا یعنی طاعت امام سے نکل جانا۔

شُرَى. اللُّحْمُ أَوْ الثُّوبُ و نَحْوَهُمَا:

گوشت یا پکڑے کو دھوپ میں ڈالنا۔

شَارَى مُشَارَاةً و شَرَاءً. الرَّجُلُ: خرید و

فروخت کرنا۔ جھگڑا کرنا۔

إِشْرَى. خریدنا۔ بیچنا۔

تَشَارَى تَشَارِيًا. الرَّجُلَانِ: باہم

غُضْبَانُکَ ہوتا۔
تَشْرَى تَشْرِيًا. متفرق ہونا۔ خوارج میں سے ہوتا۔

اِسْتَشْرَى اِسْتِشْرَاءً. □ الفرس فی سَبِيهِ: تیز دوڑنا الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ اصرار کرنا۔ اِسْتَشْرَبَ الْأُمُورَ: بڑا اور دشوار ہونا الرَّجُلُ: غُضْبَانُکَ ہونا۔ اِشْرُوْرَى اِشْرِيَاءً. مضطرب ہونا۔

الشَّرَى: اندران۔ عرب کہا کرتے تھے۔ "فَلَانٌ طَعْمَانٌ اَزَى وَشَرَى" یعنی فلاں بیٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی۔ درخت خرما جو بیج سے آکا ہو۔ واحد (شَرِيَّةٌ)

اِشْرَاءٌ. ج اَشْرِيَّةٌ و (الشَّرَى) خرید و فروخت۔

اِشْرَاءٌ. طرف۔ جانب۔

الشَّرَى: پتی اُچھلنے کی بیماری۔ پہاڑ۔ راستہ۔ طرف۔ جانب۔ ج اَشْرَاءٌ. کہا جاتا ہے "دَخَلُوا اَشْرَاءَ الْحَرَمِ" وہ لوگ حرم کے اطراف میں داخل ہوئے۔ الشَّرَى:

افرات کی جانب شیروں کے رہنے کی ایک جگہ جس کو بطور مثال کے کہا کرتے ہیں (والشَّرَاءُ) ردی مال یا عمدہ مال۔ کہا جاتا ہے "اِبِلٌ شَرَاءَةٌ" یعنی عمدہ اونٹ۔

الشَّرَى: مِنَ الْخَيْلِ: پسندیدہ۔ رفتار میں اتنا کو پہنچا ہوا۔

الشَّرِيَّةُ: الشَّرِيَّةُ کا مؤنث۔ طریقہ۔ طبیعت۔ روش۔ وہ عورت جو ہمیشہ لڑکی ہے۔

الشَّرُوْرَى: مثل یہی لفظ واحد شَرِيَّةٌ جمع ہو کر مؤنث سب کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ وَهِيَ وَهَمَا وَهْمٌ وَهْنٌ شَرُوْرَاكُ" یعنی تمہارے مثل ہیں اور کہا جاتا ہے "اِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَرُوْرَى نَقِيْرٍ" وہ

تعمیر کی برابر کسی چیز کا مالک نہیں۔ فقیری کے لیے بطور مثال کے بولا کرتے ہیں۔ اور تعمیر اس گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی کھٹلی میں ہوتا ہے۔

الشَّرِيَانُ: ایک درخت جس کی لکڑی سے کمان بناتے ہیں۔ اُچھلنے والی رگ جس میں خون دوڑتا ہے۔ ج شَرِيَانِيْنَ.

اِشْرِيَانَاتُ: جسم کی ہارک رگیں۔ اِشْرَاى: اسم قاعل۔ ج شْرَاءٌ: زمانہ حال کے علماء اس کلمہ کو کجی پر دلالت کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ اِشْرَاءٌ: خوارج۔

اِشْرِيَاى: فَا: خریدار۔ ایک سیارہ کا نام۔ ایک قسم کا پرندہ۔

شَرِيْفٌ: الزَّرْعُ: کھیت کے بڑھے ہوئے مضر پھوس کو کوٹنا۔

اِشْرِيَاى: کھیت کے بڑھے ہوئے پتے جو مضر ہوں۔

شَرْ (ض) شَرَاةٌ: بہت خشک ہونا۔ صفت (شَرْ و شَرِيَّةٌ)

شَرْبٌ (ن) و شَرْبٌ (ك) شَرْبًا و شَرْبًا: کھردرا ہونا یا لاغر و خشک ہونا۔ صفت (شَارِبٌ) کہا جاتا ہے "رَجُلٌ شَارِبٌ شَارِبٌ" رنگ بدلا ہوا لاغر و خشک مرد۔ ج شَرْبٌ و شَرْوَابٌ.

شَرْبٌ: الفرس: گھوڑے کو لاغر کرنا۔

چھپریرانا۔

تَشَارَبَ: الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ وَغَيْرِهِ: اپنے حصہ کا منتظر ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَمٌّ مَتَشَارِبُونَ" وہ لوگ اپنے حصہ کا انتظار کر رہے ہیں۔

اِشْرِيَّةٌ: اسم مرث۔ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ اِشْرِيَّةٌ مِنَ الْأَتَنِ: دیلی پتلی گدھی۔

اِشْرِيَّةٌ: فرصت۔ کہا جاتا ہے "مَضَّتْ شُرَيْتُهُ" اس کی فرصت کا موقع نکل گیا۔

اِشْرِيْبٌ: لکڑی جس کی اصلاح ابھی نہ ہوئی ہو۔ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ ج شَرْوَابٌ.

اِشْرُوْرَبٌ: علامت۔

شَرْزٌ (ض) شَرْزًا: الرَّجُلُ وَالْبَيْتُ: غُصَّةٌ میں ترچھی نظر سے دیکھنا فَلَانًا: دائیں

بائیں سے تیز مارنا۔ نظریہ لگانا۔ شَرْزٌ (ن) شَرْزًا و اِسْتَشْرَزَ: اِحْتِجَلٌ: رشتی بنانا۔ اِسْتَشْرَزَ اِحْتِجَلٌ: رشتی کا بٹ جانا۔ اِسْتَشْرَزَ الشَّيْءُ: بلند کرنا

الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ اَشْرَزَهُ: اللّٰهُ: ایسی مصیبت میں چھٹانا جس سے رہائی ممکن نہ ہو۔

تَشْرَزُ: غُضْبَانُکَ ہونا اِلْقِتَالُ: آمادہ جنگ ہونا۔

شَارَزَهُ مُشَارَزَةً: دشمنی کرنا۔ تَشَارَزَ الْقَوْمُ: ترچھی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنا۔

الشَّرَزُ: سب۔ سختی۔ دشواری۔ کہا جاتا ہے "عَزَلُ شَرْزًا" ناموار کتا ہوا سوت۔

اِشْرَزُ و اِشْرَزَةٌ: آنکھ کی سرفخی۔ اِشْرَزُ: سرخ۔ عین شَرْزَاءٌ: غُصَّةٌ کی

وجہ سے سرخ آنکھ۔

شَرْزٌ (س) شَرْزًا: الرَّجُلُ: چست ہونا۔ تَشْرَزُ: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ دشوار ہونا۔

لَهُ فِي الْخُصُومَةِ: جھگڑے میں سختی برتنا۔

لِلسَّفَرِ: سفر کی تیاری کرنا۔ سامان کرنا۔ (تَشْرَزًا و تَشْرِيْنَا) الرَّجُلُ: پچھاڑنا۔

الشَّاةُ: زرع کرنے کے لیے لٹانا۔ الشَّرَزُ: چوسر وغیرہ کھینے کا مہرہ۔

اِشْرَزُ و اِشْرَزُ: سختی۔ جانب دوری۔ زمین کی سختی۔ مِنَ الْعَيْشِ: زندگی کی سختی۔

اِشْرَزُ: چوسر وغیرہ کھینے کا مہرہ۔ اِشْرَزَةٌ: مِنَ النِّسَاءِ: کجیل عورت۔ اِشْرَزَةٌ: سختی۔

شَرْزًا يَشْرُوْرًا شَرْوًا: بلند ہونا۔ شَسَسٌ (ض) شَسُوسًا: الشَّيْءُ: خشک ہونا۔

الشَّاسُ: لاغر ضعیف و خشک۔

الشَّسَسُ: سخت زمین جو ایک پتھر کی طرح معلوم ہو۔ ج شَسَسًا و شَسُوسًا

اور حرکت کرنے لگے۔ مؤنث شصرة۔
ایک چھوٹا پرندہ۔ ج اشصار۔
الشاصِرُ. فال الشاصِر من الطباء
ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت
کرنے لگے۔ مؤنث شاصرق شواصر۔
الشاصرة درندوں کیلئے ایک جال۔
الشوَصِر. من الطباء ہرن کا بچہ جبکہ
قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔
الشصیر کانٹے کی چھین۔

شصا يشصو شصوا وشصي يشصي
شصيا. البصر: نگاه کا پھرا جانا
السحاب بادل کا بلند ہونا القربة: منک
کا خوب اچھی طرح بھر جانا الميت میت
کے ہاتھ بیروں کا اٹھ جانا۔ کہا جاتا ہے
"شصا برجله" اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی۔
اشصي بصره: کٹھی لگانا۔ نگاه اٹھانا۔
الشصو: تختی۔ سواک۔

شط (ص ن) شطا وشطوطا. دور
ہونا۔ فلانا دور کرنا۔ ظلم کرنا۔
شطلاض (شططا زیادتی کرنا۔ حق سے
دور ہو جانا علیہ فی قوله وحكمه: ظلم
کرنا فی سلطته حد سے تجاوز کرنا اور بیش
قیمت کرنا۔

اشط اشطاطا واشطط اشطاطا زیادتی
کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا۔ حق سے دور جا
پڑنا علیہ: ظلم کرنا۔

شطط زیادتی میں مبالغہ کرنا۔
ساطط زیادتی کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشط من دریا یا سمندر کا کنارہ۔ ج
شطوط وشططان کوہان کی ایک جانب۔
ج شطوط۔
الشطه اسم مرۃ۔ جارئة شططه: سڈول
بدن والی لوطی۔

الشطط والشطاطة والشطاط
والشطاط دوری۔ الشطاط والشطاط:
قد وقامت کی خوبصورتی اور اعتدال۔

الشطاط. فال رجل شاطط: سڈول بدن

الرجل دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما آذری
این شصص میں نہیں جاتا وہ کہاں گیا۔
شصدان) شصا واشصه. عن كذا:
منع کرنا۔ دور کرنا۔ ہٹانا۔ اشص الرجل:
دور چلا جانا۔ اشصت الناقة اونٹنی کا کم
دودھ والی ہونا۔ صفت شصوص. مَشصص
نہیں کہتے۔

الشص مشاق چور۔ ج شصوص
(والشصص) مچھلی شکار کرنے کا کاٹنا۔ جس
کو "سنارة" بھی کہتے ہیں۔ ج شصوص.
الشصوص. من النوق او الشياہ: کم
دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ ج شصص
وشصانص وشصاص. سنة
شصوص خشک سال۔ کہا جاتا ہے "نفی
اللہ عنك الشصانص" اللہ تمہاری
خچتوں کو دور کرے۔

شصبان) شصونا وشصبان) (ص
شصبا العیش تنگ گزران ہونا۔ صفت
(شصاب) الامر وشوار ہونا المكان:
قط زدہ ہونا۔

شصبان) شصبا الشاة بکری کی
کھال اُتارنا۔
أشصب اللہ عيشه تنگ گزران کرنا۔
الشصب تختی۔ قط۔ خشک سالی۔ صتہ۔
ج أشصاب.

الشصب والشصب خشکی۔
الشصب کھال اُتری ہوئی بکری۔ عیش
(شصب) شوار و تنگ گزران زندگی۔

الشصب صتہ۔ مسافر۔
الشصبہ تختی و خشک سالی۔ کنوئیں کی
گہرائی۔ ج شصاب. الشصاب پالان
کی کھڑی۔
الشصاب قصاب۔

شصر (ن) شصرا الثوب: کپڑے کو
دور دور سینا۔ لکر ڈالنا فلانا بالرمح کسی
کو نیزہ مارنا۔ ه الثور: بیل کا سینگ مارنا۔
الشصر ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے

وشصيس.
شصب (س) وشصب (ک) شصبا
وشصوبا خشک و لاغر ہونا۔ صفت
(شصب) ج شصب.
الشصب والشصيب. من القسي:
کمان جس کی کھڑی پتلی ہو۔

الشصوب. من النوق اونٹنی جس کا بچہ
سردی میں مر جائے اور پھر دودھ نہ دے۔
شصع (ف) شصعا وشصوعا.
المنزل دور ہونا۔ صفت (شصوع) ج
شصع و شصاع. شصعا وشصع
واشصع) النعل جوتے کے لیے تمہ
ہٹانا۔

اشصع الشی دور کرنا۔
شصع (س) شصعا النعل جوتے کا
تمہ ٹوٹنا الفرس گھوڑے کے حقیر اور
رباعیہ دانوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔
بہ دور کرنا۔

الشصع جوتی کا تمہ۔ کہا جاتا ہے
"أونی من الشصع جوتی کے تمہ سے
بھی قریب۔ تنگ زمین۔ کسی جگہ کا کنارہ۔
کہا جاتا ہے "نزل بشصع من الوادی وہ
وادی کے کنارے پر اتر۔ ٹھوڑا مال۔ زیادہ
مال (ضد) اور کہا جاتا ہے "هو شصع
مال وہ مال کا انتظام کرنے والا ہے۔ ج

اشصاع
شصف (ن) شصف (ک) شصوفا
شصافة وشصافة خشک و لاغر ہونا۔

صفت (شصاف وشصيف)
الشصف خشک روٹی کی ٹکری۔
الشصف کچی کھجور چیر کر خشک کی
ہوئی۔

الشصيف وہ شخص جو لاغری کی وجہ سے
خشک ہو چلا ہو۔

شصت (س ض) شصوصا
وشصاصا الناقة اونٹنی کا بہت کم دودھ
والی ہونا المعيشة تنگ گزران ہونا

والامرود مؤنث شطاطة.

شَطَلَان (شَطَلَاءُ وَشَطُوَاءُ) کنارہ پر چلنا الذابۃ بالحمْل بنانور پر بوجھ لانا۔
فَلَانًا: مغلوب کرنا۔ الْأُمُّ بِالْوَلَدِ: بچہ مگر دینا (وَاشْطَاءُ) الزَّرْعُ: کھیتی میں خوشہ لگانا۔
اشْتَطَأَ الشَّجَرُ بَعْضُونَهُ وَرَحْتَ فِيهِ شَيْئًا لَكَانَ: اشْطَأَ الرَّجُلُ زَكَامًا وَاللَّوْأَةُ: اشْطَأَ الْوَادِي: دونوں کناروں پر بہنا۔ کہتے ہیں
"مِلْنَا لَوَادِي كَذَا فَوَجَدْنَاهُ مُشْطَأًا" ہم فلاں وادی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو دونوں کناروں سے بہتا ہوا پایا۔
شَطَأًا تَشْطِيئًا: النَّهْرُ: دونوں کناروں پر بہنا۔

شَطَاةٌ: ایک دوسرے کے ساتھ دریا کے کنار پر چلنا۔

الشَّطَاءُ کنارہ۔ ج شَطُوَاءُ (وَالشَّطَاءُ) کھتی کے پتے یا خوشہ۔ درخت خرما کے پودے۔
مِنَ الشَّجَرِ شَاخِصٌ جُودِرْحَتِ كِي جَزْمِش كَلَّ أَمِينَ۔ ج اشْطَاءُ: الشَّطَاةُ زَكَامٌ۔

الشَّاطِي: فَا مِّنَ النَّهْرِ جَانِبٍ۔ تم کہتے ہو "شَاطِي الْأَوْدِيَةِ" اس کی جمع نہیں آتی۔
مِنَ الْبَحْرِ: کنارہ۔ ج شَوَاطِي وَشَطَانٌ۔ شَطَبٌ (ن) شَطَبًا: الشَّيْءُ لِبَاكَانِيَا جِيْرَانَا ه وَشَطَبٌ قَوْقَهٌ: کبیر کھینچنا الرَّجُلُ: دُور ہونا عَنَهُ: اعراض کرنا۔ بِنَا الرَّمْحِ عَنِ مَفْتَلِهِ نِيْزَةٍ كَاخْطَا كَرْنَا۔

شَطْبَةٌ: جِسْمٌ فِي مَعْلٍ تَشْرَحُ كَرْنَا تَشْطَبُ: کٹنا (وَإِنْشَطَبَ) الْمَاءُ وَنَحْوُهُ: بہنا۔

الشَّطْبُ: س۔ لِمَا خُوِيْعُورَتِ قَدِ وَاقَمَتِ وَاللَّ: درخت خرما کی تر و سبز شاخ۔ ج شَطُوبٌ۔

الشَّطْبَةُ: مِّنَ النَّخْلِ: کھجور کی سبز شاخ۔ تلواری۔ ج شَطْبٌ: کبیر جو غلط تحریر پر کھینچ دی جائے (وَالشَّطْبَةُ) لمبی خویصورت لڑکی۔ لپٹھے گوشت والا گھوڑا۔

الشَّطْبَةُ وَالشَّطْبَةُ وَالشَّطْبَةُ: تلواری وغیرہ کے پھل کی دھاری۔ ج شَطْبٌ۔

الشَّطْبِيَّةُ: اونٹ کے کوہان کا گلڑا جو لمبا کات لیا گیا ہو۔ جیسے شَطَابٌ۔

الشَّطَابُ: حَتْفٌ فَرَقَتْ: تختیاں۔ سَيْفٌ (مَشْطُوبٌ وَمَشْطَبٌ) دھاری دار تلواری۔ رَجُلٌ مُشْطَبٌ: وہ شخص جس کے چہرہ میں تلواری وغیرہ کی ضرب کا نشان ہو۔

شَطْرٌ (ن) شَطْرًا: الشَّيْءُ: دو برابر حصوں میں کرنا بَيْتَ الشَّعْرِ: شعر کا نصف حذف کرنا النَّاقَةُ أَوْ الشَّاةُ: ایک جانب کے تھن کو دھندا دوسرے کو چھوڑ دینا۔ اور کہتے ہیں شَطْرَ شَطْرُهُ اس نے اس کی جانب کا قصد کرنا۔

شَطْرَتٌ (ن) شَطْرًا: النَّاقَةُ: اونٹنی کے تھن کے ایک حصہ کا لمبا ہونا۔ شَطْرٌ بَصْرًا: اس طرح دیکھنا کہ تمہاری طرف بھی نظر رہے اور دوسرے کی جانب بھی الدار: دُور ہونا (شَطَارَةٌ) شوخ و پبیاک ہونا۔

چالاک و غیبت ہونا۔ (شَطُورًا وَشَطُورَةً وَشَطَارَةً) غَنِيْمٌ: جدا و بچید ہونا عَلِيٌّ أَهْلُهُ: خباثت و کینہی کی وجہ سے موافقت چھوڑ دینا الْبِهْمُ: متوجہ ہونا۔

شَطْرٌ (ك) شَطَارَةٌ: شوخ و پبیاک ہونا۔ چالاک و غیبت ہونا (شَطُورَةُ النَّاقَةِ) اونٹنی کے ایک پستان کا دوسرے سے لمبا ہونا۔ ایک پستان خشک ہونا۔

شَطْرٌ: الشَّيْءُ: دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ الشَّعْرُ: شعر کے ہر مصرعے پر دوسرا مصرعہ بڑھا دینا (مَوْلِدَةُ) النَّاقَةُ وَبَا النَّاقَةِ: اونٹنی کے ایک طرف کے تھن کو دھندا دوسرے کو چھوڑ دینا۔

شَطَاةٌ: مَالُهُ: آدھا آدھا تقسیم کر لینا۔ فَلَانًا: کسی کے گھر کے متصل گھر والا ہونا النَّاقَةُ: اونٹنی کے ایک طرف کے تھن کو دھندا دوسرے کو چھوڑ دینا۔

الشَّطْرُ: س۔ جَزَعٌ: نصف۔ اور اسی سے ہے

"شَطْرُ بَيْتِ الشَّعْرِ" شعر کا نصف واحد | دُورِي: جہت | جَانِبٌ: اور اسی سے ہے شَطْرُ شَطْرُهُ وَ "قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ" اے چہرہ کو مسجد کی جانب پھیرو۔ جِ انْشَطْرُ وَشَطُورًا: تاقہ کے تھن کے دو حصے ہوتے ہیں دو اگلے اور دو پچھلے۔ ہر دو بائیں کو شطر کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے "حَلَبَ انْشَطْرَ الذَّهْرِ" یعنی اس نے تجزیہ کیا اور زمانہ کے خیر و شر کو وہ پہچان گیا اور امثال عرب سے ہے "هَذَا حَلَبٌ لَكَ شَطْرُهُ" یہ ایسا عمل ہے جس میں فریقین کا نفع ہے۔

الشَّطْرَةُ: اسم نوع۔ اور کہا جاتا ہے "أَوْلَادُ فَلَانٍ شَطْرَةٌ" یعنی فلاں کی اولاد نصف مذکر نصف مؤنث ہے۔

الشَّطْرَانُ: صرف نصف تک بھرا ہوا مؤنث شَطْرِيٌّ۔

الشَّاطِرُ: فَا: شوخ و پبیاک۔ چالاک و غیبت۔ ج شَطَارٌ۔

الشَّطُورُ: (مِنَ النَّعَاجِ أَوْ الْبُقَاقِ) بھیرا۔ اونٹنی جس کے ایک جانب کا تھن لمبا ہو یا ایک جانب کا تھن خشک ہو گیا ہو۔ ثَوْبٌ شَطُورٌ: کپڑا جس کی ایک جانب دوسرے سے لمبی ہو۔ دَارٌ شَطُورٌ: دوسرے مکانوں سے علیحدہ مکان۔

الشَّطِيرُ: دُور۔ اَكْبَالٌ: مسافر۔ اجنبی۔ ج شَطْرَاءُ وَشَطْرٌ: آدھا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَطْرُهُ وَشَطِيرُهُ" یہ اس کا آدھا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے "هَذَا نَصْفُهُ وَنَصْفُهُ"۔

المَشْطُورُ: سید چٹنی لگی ہوئی روٹی۔ مِّنَ الرَّجْلِ: فن عروض کی اصطلاح میں بحرِ رجز کے چھ اجزاء سے تین جز حذف کیا ہوا۔

المَشَاطِرُ: مَسَايِدُ۔ کہا جاتا ہے "هَمْ مَشَاطِرُونَ" ان کے گھر ہمارے گھر سے متصل ہیں۔

الشَّطْرُنَجُ: ایک مشہور کھیل ہے۔ شکر ت لفظ چڑانگ کا معرب۔ اس میں چھ قسم کے مہروں سے کھیلتے ہیں جو شاہ فرزین اہل اہل اسپ

شظی (س) یَشْطِي شظی۔ پھٹنا۔
القَوْمُ: متفرق ہونا۔

شظی یَشْطِي شظیًا۔ السقاء: خوب
ابھی طرح بھر جانا المیت: میت کے ہاتھ
بیروں کا اٹھ جانا۔

شظی تَشْطِيَةً۔ القَوْمُ: متفرق کر دینا
الفرس: گھنے کی باریک بڑی کومپازنا۔

اشظی: ہ گھنے کی باریک بڑی پرارنا۔

تَشْطِي: پھٹنا۔ متفرق ہونا العود: بکڑے
کڑے ہونا۔

انْشظِي: پھٹنا۔

الشظی: س۔ دست یا زانو کی پتلی اور چھوٹی
بڑی یا ان میں کے چھوٹے چھوٹے ٹھٹھے۔ قوم
کے بیروں۔ اجنبی لوگ جو قوم میں داخل ہو
جائیں۔

الشظیة: مکان۔ پنڈلی کی بڑی۔ لکڑی۔ بڑی
وغیرہ کا کلا۔ ج شظایا وشظیٰ۔

الشظیة: پتھر کا بڑا کلا جو پہاڑ سے ایک
طرف کو نکلا ہوا ہو۔

شع (ض) شَعًا وشعاعًا۔ الماء: بکھرتا۔
پھیلتا (شعًا وشعیعًا) جلد کی کرنا۔

شع (ن) شَعًا وشعاعًا۔ الماء: بکھیرنا۔
کہا جاتا ہے "شع الغارة علیہم" ہر طرف
سے لوٹ ڈالنا۔

اشع إشعاعًا۔ الماء ونحوہ: بکھیرنا
الشمس: شعاع پھیلتا الزرع: کھیتی میں
خوشہ نکلتا السنبل: دانوں سے پر ہونا۔

انْشع الذئب فی الغنم: بھیڑیے کا
بکریوں میں تباہی ڈالنا۔

الشع کڑی کا جالا۔ شع الشمس:
آفتاب کی کرن۔

الشعاع: آفتاب کی کرن۔ ج اشعة وشعاع
وشعاع۔

الشعاع (علم ہندسہ)

خط مستقیم کا کلا جس کو سامنے لے جایا گیا ہو خط
مستقیم کا قطعہ جو مرکز اور نقطہ دائرہ کو ملا دے۔

اس کا نام شعاع الدائرہ ہے۔

"رَكِبَهُ شَيْطَانُهُ" یعنی وہ غضبناک ہوا و
"شَيْطَانِ الرِّاسِ" بھٹے کا جوش۔

شظی (س) شظیًا۔ المیت: میت کے
ہاتھ بیروں کا اٹھ جانا۔

شظی تَشْطِيَةً۔ الشاة: کھال اُتارنا اور
گوشت کو جدا کرنا۔

انْشظِي۔ الشی: پر اگندہ متفرق ہونا۔

شظَلان) شظًا۔ الامر: بوشوار ہونا۔ حتی
میں ڈالنا (وشظظ وانشظ) القوم: پر اگندہ
و متفرق کرنا۔ دھکانا۔ شظ وانشظ

الجوالق: تیرھے سرے کی لکڑی کو پورے
کے دونوں گوشوں میں باندھنا۔

الشظ: س۔ دن کا بقیہ۔ ج اشظاظ۔

الشظاظ: تیرھے سرے کی لکڑی جو پورے
کے دونوں گوشوں میں داخل ہو۔ ج اشظطة۔

الشظیظ: بندھا ہوا پورا۔ چری ہوئی لکڑی۔
ج اشظاظ: کہا جاتا ہے "عَارُوا اشظاظًا
اور شظاظًا" یعنی وہ لوگ متفرق ہو گئے۔

شظف (س) شظفًا۔ العیش: تنگ
گزران ہونا الرجل: تنگ زندگی والا ہونا۔

صفت (شظف) العیش: شظفت یدہ:
سخت اور کھر در ہونا السہم: تیر کا کھال اور

گوشت کے درمیان داخل ہونا۔ (وشظف
ک) شظافة) الشجر: سخت ہونا۔ صفت

(شظیف)

شظفان) شظفًا۔ عن كذا: منع کرنا۔
روکنا۔

الشظف: س۔ ج شظاف و (الشظاف)
تنگی و سختی۔

الشظاف بوری۔

الشظف: س۔ لامھی کی پھین۔

الشظف: خشک روٹی۔ کھوٹی کی مانند لکڑی۔
چھٹی۔ ج شظفة۔

الشظف: بدخلق۔ بڑا جنگجو۔ عود
شظف: بٹولی ہوئی لکڑی۔ أرض شظفة:

سخت و خشک زمین۔

المشظف: بے ارادہ تعریض کرنے والا۔

ارخ اور پیدل کہلاتے ہیں۔ ج شظرف نجات۔
شظس (ن) شظسًا۔ فی الارض: سفر
کرنا۔

الشظس: س۔ چالاک۔
الشظس والشظسة: مخالفت۔ دشمنی۔
عتاد۔

الشظوس: ہر طرف کو جانے والا۔ حکم کے
خلاف چلنے والا۔

شظع (س) شظعًا۔ الرجل: مرض
وغیرہ کی وجہ سے گھبر اٹھنا۔

شظف (ن) شظفًا۔ الرجل: جانا اور دور
ہونا عن الشی: ہٹنا القوب وغیرہ: کپڑا
وغیرہ دھونا۔

سہم (شاطف) نشانہ سے خطا کرنے والا
تیر۔ نیۃ (شظوف) بارہو بے پیمان۔

الشظفة: من الشی: کلا۔ ج شظف۔
شظنلان) شظنًا: مخالفت کرنا۔ دور کرنا۔
رتی سے باندھنا۔ شظن فی الارض:

داخل ہونا (شظونًا) الدار: دور ہونا۔
الرجل: جن وغیرہ سے دور ہونا
اشظنة: دور کرنا۔

شظن شظنة وشظین۔ شیطانی فعل
کرنا۔

الشظین: فاجحیت۔ حق سے دور ہونے
والا۔

الشظن: رتی۔ ج اشظان۔
بئر (شظون) زیادہ گہرا کنواں۔ حزب
شظون: بہت سخت جنگ۔ نیۃ شظون:

ارادہ بعید رُمح شظون لبائیز ہائیزہ۔
الشظین: دور۔

الشظیان: ج شیطانین بڑی۔ ہر سرکش و
نافرمان (آدی ہویا جن یا جاور) اور اسی سے ہے

"شیطانین العرب" عرب کے سرکش و
نافرمان لوگ۔ سائب۔ شیطان الفلاة:

پیاں۔ مُحاط الشظیان: تر سرے یعنی وہ
چیز جو گرمی کے زمانے میں لکڑی کے جالے کی
مانند قضا میں معلوم ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے

اشعس اور رُنجن: غیر مزی شعاعیں غیر شفاف اجسام جیسے لکڑی اور معدنی پلیٹ کو جلاتی ہے۔

اشعۃ ما قبل الاحمر سفید روشنی میں موجود غیر مرئی شعاعیں جن کا وقوع شرارے میں سرخ رنگ سے قبل ہوتا ہے بہت گرم ہوتی ہیں۔ اشعۃ ما بعد البنفسجی: غیر مرئی سفید روشنی میں موجود شعاعیں جن کا وقوع شرارے میں سبھی کے بعد ہوتا ہے۔ یہ فوٹو گرافی کی پلیٹ پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اس کے وجود کا علم ہوتا ہے۔

الاشعۃ المہبطۃ: ہلکے (خفیف) گیس کی نالی میں بجلی کے آنے کی وجہ سے نیچے سے اوپر کی طرف بجلی کے شرارے جاتے ہیں۔

الشعاع شعاع کو چھوڑنے کا آلہ۔ الشعاع: س۔ خون وغیرہ کا بکھرا ہوا سا یہ من اللہن: زیادہ پانی والا ہوادودھ ہر بکھری ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "صربت بالنعصاء علی الحانط فتطایرت شعاعاً" میں نے لاشھی کو دیوار پر مارا جس کی وجہ سے لاشھی کے چیتڑے اڑ گئے۔ و "ذهب القوم شعاعاً" قوم بکھر گئی و "طار قلبہ شعاعاً" اس کا دل غموں کی وجہ سے پر اُگندہ ہو گیا۔ و "طارت نفسه شعاعاً" خوف وغیرہ کی وجہ سے اس کا جی پر اُگندہ پریشان ہو گیا۔

شعاع السنبیل وشعاعہ وشعاعہ وشعۃ خوشہ کا خشک کا نا جب تک کہ خوشہ پر رہے۔

الشع والشعيع: جلدی۔ والشع من کل شیء: بکھری ہوئی۔

شعب (ف) شعبا، الشیء: جمع کرنا۔ متفرق کرنا۔ درست کرنا۔ (گازناضد) پھیلانا۔ الشیء: ظاہر ہونا القوم: متفرق ہونا الرجل: مرنا۔ شعبتہ المینۃ: اجناک ہلاک کرنا فلاناً: مشغول کرنا اللجام القوس: لگام کا گھوڑے کو روکنا اور دوسری طرف کو پھیرنا۔ کہا جاتا ہے "اشعب لی

شعبۃ من المال" یعنی اپنے مال میں سے ایک حصہ مجھ کو دو۔ شعب إلى القوم: اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر قوم کی طرف مائل ہونا الامیر رسولاً إلى موضع کذا: پیغامبر بنا کر بھیجنا۔

شعب (س) شعباً الرجل أو النور: کندھوں اور سینگوں کے درمیان فاصلہ والا ہونا۔

شعب وأشعب: غنہ۔ ہمیشہ کیلئے جدا ہونا۔ اشعب الرجل: مرنا۔

شاعب و شاعبت نفسه: مرنا۔ شاعب الحیوة: ہلاک کرنا صاحبہ: دور ہونا۔

الشعب: بڑا قبیلہ۔ وہ طبقات جن پر عرب کی نسل تقسیم ہیں درج ذیل ہیں۔ (۱) الشعب (۲) القبیلۃ (۳) العمارۃ (۴) البطن (۵) الفخذ (۶) الفصیلۃ (۷) العشرۃ۔ شعب میں کئی قبائل ہوتے ہیں قبیلہ میں کئی عمارہ، عمارہ میں کئی بطن، بطن میں کئی فخذ میں کئی فصیلہ اور فصیلہ میں کئی عشرہ ہیں۔

خزیمہ شعب ہے کنانہ قبیلہ، قریش عمارہ، قصی بطن، ہاشم فخذ اور عباس فصیلہ ہے۔ عشرہ سے مراد ایک باپ کے قریب ترین بیٹے۔

تشعبوا: متفرق ہونا۔ تشعب الزرع: شاخوں والی ہونا النہر: متفرق شاخیں لگانا عنہ دور ہونا۔ تشعبتہم الفتنة: جدا جدا کر دینا۔ تشعبت اعصان الشجرة: متفرق شاخیں پھیلانا الشیء: درست ہونا۔

انشعب: غنہ دور ہونا اغصان الشجرة: جڑ سے شاخیں لگانا الطریق او النہر: جدا ہونا۔ انشعب الرجل وانشعب نفسه: مرنا الشیء: درست ہونا۔ انشعب به القول: بات میں سے بات لگانا۔

الشعب: س۔ بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت مثل۔ کہا جاتا ہے "ہما شعبان" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ دوری۔ دور۔ کہا جاتا ہے "ماء

شعب" دور کا پانی۔ سر کے ٹکڑوں کے ملنے کی جگہ۔ شکاف۔ کہا جاتا ہے "النمام شعہم" وہ لوگ متفرق ہونے کے بعد جمع ہو گئے۔ ج شعوب۔

الشعوبیۃ: وہ لوگ جو عرب کی حقارت کریں اور عجم پر فضیلت نہ دیں۔ واحد (شعوبی)

الشعب: پہاڑی راستہ۔ پانی کا راستہ۔ درۃ کوہ۔ بڑا قبیلہ۔ جانب۔ ج شعاب اور کہتے ہیں۔ "شعلت شعابی جدواى" یعنی اہل وعیال پر خرچ کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کرنے سے باز رہا۔

الشعب: س۔ دونوں کندھوں یا دونوں سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الشعبۃ: فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شاخ۔ دونوں سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ۔ پانی بہنے کی جگہ۔ وادی کی بڑی نالی۔ پہاڑ کی دراڑ۔ ج شعب وشعاب وشعب الذہر: زمانہ کے احوال۔ شعب السقود: سچ کے دندانے جس میں بھوننے کیلئے گوشت لگاتے ہیں۔ شعب الید: انگلیاں۔ شعب الفرس: گھوڑے کے اطراف جو بلند ہوں جیسے سر وغیرہ۔ شعب الجسم: ہاتھ پاؤں۔ شعب الرجل: کجاوہ کا اگلا پچھلا حصہ اور کہا جاتا ہے "ہذہ مسألۃ کثیر الشعب" یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی تفریبات بہت ہیں۔

شعبان: قمری مہینوں کا آٹھواں مہینہ۔ ج شعبانات وشعابین (کلمہ غیر منصرف ہے) شعوب: موت کے لیے علم ہے اور غیر منصرف ہے۔

الاشعب: جس کے کندھوں یا سینگوں کے درمیان بہت فاصلہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے سیگ والا۔ مؤنث شعبا۔ ج شعب۔ الشعاب: شکاف کو درست کرنے والا۔ پیشہ کا نام (الشعبایۃ) ہے۔

الشعيب: کجاوہ۔ پرانی مشک۔ توشہ دان۔ ج

شُعْب

الشَّاعِبَانِ دونوں کندھے۔

المَشْعَبِ راستہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا

مَشْعَبُ الْحَقِّ“ یہ حق کا راستہ ہے جو حق اور

باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ج

مَشَاعِبِ

المَشْعَبِ سوراخ کرنے کا آلہ۔ ج

مَشَاعِبِ

المُشْعَبِ درست کیا ہوا۔

شُعْبَدٌ شعبہ بازی کرنا۔ بازی گری کرنا۔

شُعْبَتٌ (س) شُعْبَانِ الامرُ: پر اگندہ ہونا۔

(شُعْبَانِ وَشُعْبُونَةُ) الشُّعْرُ: بالوں کا غبار آلود

ہونا۔ چٹک جانا۔

شَعَّتْ الشَّيْءُ: متفرق کرنا۔ بکیرنا۔

پر اگندہ کرنا ہ بخیر: خبر پہنچانا۔ مِنْ فُلَانٍ:

چشم پوشی کرنا مِنْهُ شَيْئًا: لے لینا۔ نکال لینا

عَنْهُ: مدافعت کرنا مِنَ الطَّعَامِ: تھوڑا کھانا

الشَّاعِرُ: شعر میں تشعیب جاری کرنا (تشعیف

علم عروض کی اصطلاح میں: فاعلان) کے

وہد کے دو متحرک میں سے ایک متحرک حذف

کرنے کو کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ مفول

کے وزن پر ہو جاتا ہے۔)

تَشَعَّتْ: پر اگندہ ہونا۔ بکیرنا مِنَ الطَّعَامِ:

تھوڑا کھانا الشُّعْرُ: بالوں کا چٹک جانا اور غبار

آلود ہونا الشُّعْرُ: شعر میں تشعیف جاری

ہونا۔

الاشْعَثُ: چٹکے ہوئے اور غبار آلود بال والا۔

مَوْتٌ شَعَشَاءٌ: ج شُعْثُ

الشُّعْثُ: پر اگندگی معاملہ۔

الشُّعْثُ: کہا جاتا ہے ”لَمْ يَلِدْ

شَعَثُهُمْ“ اللہ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔

الشُّعْثُ وَالشُّعْثَانِ: چٹکے ہوئے اور غبار

آلود بال والا۔

شَعْرٌ (ن) شَعْرًا وَشَعْرًا: النَّوْبُ:

کپڑے میں بال بھرنا الرَّجُلُ: شعر کہنا

بِفُلَانٍ: کسی کے لیے شعر کہنا۔

شَعْرٌ (ن) وَشَعْرٌ (ك) شَعْرًا وَشَعْرًا

کہ اس نے کیا کیا۔

الشُّعْرَةُ: بال کا ایک ٹکڑا (والشُّعْرَاءُ) ناف

کے نیچے بال اگنے کی جگہ۔

الشُّعْرُ وَالشُّعْرَانِيَّ: بہت اور لمبے بال۔

والا۔

الشُّعَارُ: درختوں والی جگہ۔ نرم زمین میں

گنجان درخت جہاں لوگ سردی میں گرمی

حاصل کریں اور گرمی کے زمانہ میں سایہ لیں۔

درخت۔ بدن کے بالوں سے متصل لباس۔

شُعَارُ الْحَجِّ: احکام حج و رسوم حج۔ واحد

(شُعَارَةٌ)

الشُّعَارُ: مخصوص لفظ جس سے فوج والے

ایک دوسرے کو پہچانیں یا لڑائی کے موقع پر

ایک دوسرے کو پہچانیں۔ مولدین اس کو ”سِرُّ

اللَّيْلِ“ کہتے ہیں۔ لڑائی یا سفر میں مقرر کردہ

علامت۔ بدن کے بالوں سے متصل لباس

گھوڑے کا کھول۔ کڑک۔ گنجان درخت۔ ج

أَشْعُرَةٌ وَشُعْرٌ: شُعَارُ الْحَجِّ: علامت و

رسوم حج۔ وَشُعَارُ الْمَمْلَكَةِ: حکومت کے

علامت۔ واحد (شُعَارَةٌ)

الشُّعَيْرُ: جو۔ واحد (شُعَيْرَةٌ) ج شُعَيْرَاتٌ

اور شُعَيْرَةٌ کا اطلاق اس بیاباں پر بھی ہوتا ہے

جو خنجر کے بالوں کے چھ بال کے برابر ہو۔ نیز

گواہی جو آنکھ کے پلک کے کنارے پر ہوتی

ہے۔

الشُّعِيرَةُ: علامت۔ ج شُعَائِرُ: شعائر

الحج کے رسوم وعلامت۔

الشُّعِيرِيُّ: شعیر کی جانب منسوب۔ جو کا

نیچنے والا۔

الاشُّعْرُ: بہت اور لمبے بال والا۔ مؤنث

شُعْرَاءُ: ج شُعْرٌ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ اشُّعْرُ

الرَّقَبَةِ“ یعنی فلاں گردن پر بہت بالوں والا ہے

گویا کہ وہ شیر ہے۔ الاشُّعْرُ: ج اشُّعْرُ:

جانور کے کھر کے گرد گرد کا چمڑا۔ گوشت جو

ناخن کے نیچے نکلے۔ اور کہا جاتا ہے ”هَذَا

الْبَيْتُ اشُّعْرٌ مِنْ هَذَا“ یہ شعر اس سے اٹھا

ہے۔

وَشَعْرِي وَشَعْرِي وَشَعْرَةَ

بِتَلْبِيَتِ الشَّيْنِ وَشَعْرًا وَشَعْرَةً

وَمَشْعُورًا وَمَشْعُورَةً وَمَشْعُورَاءَ: بہ:

جاننا۔ محسوس کرنا۔ سمجھنا۔

شَعْرٌ (س) شَعْرًا: زیادہ اور لمبے بال والا

ہونا۔

شَعْرًا الْجَيْنِيْنُ: جنین کے شکم مادر میں بال

نکلتا النَّوْبُ وَنَحْوَهُ: کپڑے میں بال بھرنا۔

اشُّعْرًا الْجَيْنِيْنُ: جنین کے شکم مادر میں بال

نکلتا النَّوْبُ: کپڑے وغیرہ میں بال بھرنا ہ

الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ جَمًّا دِيْنَا: خبر دینا۔ ہ

الشُّعَارُ: شُعَارٌ (وہ کپڑا جو بالوں سے متصل

ہو) پہنانا۔ اور کہا جاتا ہے: اشُّعْرُ الْهَيْمُ

قَلْبِي“ غم میرے دل کے ساتھ چپک گیا۔

أَشْعُرَةٌ بِكَذَا: چپکانا الْقَوْمُ: اپنے لیے خاص

علامت مقرر کرنا۔ ایک دوسرے کو علامت

مقررہ سے پکارنا۔

أَمْرٌ فُلَانٌ: مشہور کرنا الرَّجُلُ: بُرے نام

سے مشہور کرنا ہ شَرًّا: ڈھانپ لینا۔

شَاعِرُهُ فَشَعْرُهُ: شعروں میں غالب ہونے

کے لیے مقابلہ کرنا اور غالب ہونا۔

اشُّعْرًا الْمَلِيْكُ: بادشاہ کا قتل کیا جانا۔

تَشَعْرًا الْجَيْنِيْنُ: جنین کے شکم مادر میں بال

نکلتا۔

تَشَاعَرَ: تکلف شاعر بننا۔

اشْتَشَعْرًا الْجَيْنِيْنُ: جنین کے شکم مادر میں

بال نکلتا الشُّعَارُ: پہننا الْقَوْمُ: ایک دوسرے

کو علامت خاص سے پکارنا النَّوْبُ: شعار کو

کپڑوں کے نیچے پہننا۔ کہا جاتا ہے ”اشْتَشَعْرُ

خَوْفِ اللَّهِ“ اللہ کے خوف کو اپنے قلب کے

لیے شعار بنالو۔

الشُّعْرُ وَالشُّعْرُ: بال۔ ج اشُّعَارُ وَشَعَارٌ

وَشُعُورٌ: واحد (شُعُورَةٌ) ج شُعُورَاتُ:

شَعْرُ الْفُؤُولِ: ایک قسم کی نباتات۔

الشُّعْرُ: س۔ کلام منظوم۔ ج اشُّعَارُ: ”لَيْتَ

شَعْرِي فُلَانًا أَوْ عَنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانًا مَا

صَنَعُ“ یعنی کاش مجھے فلاں کے متعلق علم ہوتا

ہوتا۔

شَعِبَتْ تَشَعَّى شَعًا. الغارة: چاروں طرف لوٹ پڑنا۔ صفت (شَعْوَاء)

أشعَى. به: اہتمام کرنا القوم الغارة: چاروں طرف لوٹ ڈالنا۔

غارة (شَعْوَاء) پھیلی ہوئی لوٹ۔ شیحرة شَعْوَاء: پھیلی ہوئی ٹہنیوں والی درخت۔

الشاعى. فا. دور۔ متفرق۔ مشترک حصہ۔ مؤنث شاعية ج شواع. کہا جاتا ہے

”جاءت الخيل شواعى وشواع“ گھوڑے متفرق آئے۔

الشعوى. پر آگندہ بالوں کا گچھا۔ واحد (شَعْوَة) شعوذ شعوذة. شہدہ بازی کرنا۔ نظر بندی

کرنا۔ بازی گری کرنا۔ صفت (مُشَعْوَذٌ وَمُشَعْوَذٌ)

شَعَبَ (ف) وَشَعِبَ (س) وَشَعِبًا وَشَعِبًا وَشَعَبَ. القوم وبهم وعليهم:

فساد برپا کرنا۔ تباہی ڈالنا۔ صفت (شَعَبٌ وَشَعَبٌ وَشَعَابٌ وَمِشَعَبٌ وَمِشَاعِبٌ وَذُو مِشَاعِبٍ)

شَعَبَ (ف) شَعِبًا. عن الطريق: ہٹنا۔ پھر جانا۔

شاعبه. جھگڑا کرنا۔ تَشَاعَبَ. الرجل: نافرمانی کرنا۔ کہا جاتا

ہے ”طلبتُ منه كذا فتشاعب“ میں نے اس سے فلاں چیز طلب کی وہ دینے سے باز رہا۔

الشعْبُ والشعْبُ. س۔ شور و غوغا۔ الشُعُوبُ. فساد انگیز۔ جھگڑا۔

تَشَعَّبَت. الریح: ہوا کا بل کھاتے ہوئے چلنا۔

شَعَبَتْ (ن) شُعُورًا. الأرض: بغیر محافظ و گھراس کے ہونا۔ صفت (شاعرة)

الرجل: دور ہونا السفر: بھاؤ گھٹنا الناس: لوگوں کا متفرق ہونا۔

شَعْرَةٌ (ن) شَعْرًا وشَعَارًا. عن بلدہ: جلا وطن کرنا۔

شَعْرَ (ف) شَعْرًا. الكلب: کتے کا ایک

ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا الناقة: اونٹنی کا ٹانگ اٹھا کر بچ کر لوٹنا۔

شاعرة مشاعرة وشعرا. کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی

اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح بغیر مہر کے اس سے کر دے الرجلان علیہ: نجوم کرنا۔ حملہ کرنا۔

أشغر. المنهل: چشمہ کا راستہ سے دور ہونا۔

الرفقة: ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔ الحسب علیہ: کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔

أشغفر. الحسب علیہ: خلط ملط ہونے اور پیچیدہ ہونے کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔ الأمر: بڑا اور وسیع ہونا۔ خلط ملط ہونا۔

علیہ: دست درازی کرنا۔ فخر کرنا الحوب بین القومین: وسیع بیانہ پر اور سخت جنگ

ہونا۔ فی الفلاة: بیابان میں دور تک جانا۔ تشغر. البعير: تیز دوڑنا فی امر قبیح:

انتہا کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے تفرقوا (شعر بغر وشعر وبغر) وہ لوگ ہر طرف متفرق

ہو گئے اور ٹکڑے ہو گئے۔ اناء (شعار) خالی برتن۔ الشعار: س۔ دھتکار۔ جلا وطنی۔ بنو شعبار

وآبار شعبار: بہت پانی والے وسیع کوئیں۔ البشاعة: چمقان۔

الشعير. بد خلق۔ المشغور. وحشی جانوروں کے بھگانے کا

چھوٹا تیز۔ الشوغر. مضبوط خلقت۔ الشوغرة. کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی

زنجیل۔ الشغور. ایک قسم کی گھاس۔ الشغریة. ٹانگ میں ٹانگ لگا کر زمین پر

پکنا۔ شَعَرَ (ف) شَعْرًا. علیہم: زیادتی کرنا۔ دست درازی کرنا بینہم: جھڑکانا۔ فساد ڈالنا۔

الشغریة. بمعنی الشعریة۔ تشغربت. الریح: ہوا کا بل کھاتے ہوئے

چلنا۔

شَعْنَعُ الشئ: داخل کرنا؛ نکالنا۔ اندر باہر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”شَعْنَعُ الطاعن“

جبکہ نیزہ مارنے والا نیزہ کو نیزہ زدہ کے جسم میں حرکت دے الملجم: جانور کو سدھانے کے

لیے لگام کو ہلانا۔ فی الأمر: جلدی کرنا فی الشرب: کم کرنا فی الاتاء ماءً وغیرہ:

بغیر بھرنے کے ڈالنا البئر: گدلا کرنا اور کہا جاتا ہے ”شَعْنَعُ شربى“ اس نے میرے

پینے کی چیز کو گدلا کر دیا۔ شَعْنَعُ (ف) شَعْفًا. دل کے پردے کو زخمی

کرنا فؤادہ: دل پر غاب ہونا بالبیس: سبزی نکل آنا۔

شَعَفَ (س) شَعْفًا وَشَعَفَ. به: فریفتہ ہونا۔ شَعَفَ حبه: محبت کا دل کے پردے

میں پہنچنا۔ تشعف. الناس: وسوسہ ڈال کر پر آگندہ

کرنا۔ الشعف. س۔ دل کا پردہ۔ الشعف. س۔ انتہائی محبت۔ شَعَفَ

القلب: دل کا پردہ۔ الشعاف. دل کا پردہ۔ سویداء۔ دل۔ ج

شَعَفَ والشعفة. الشعاف والشعاف. ایک بیماری جو دائیں

طرف کی پیلوں کے نیچے ہوتی ہے۔ الشغفر. خوبصورت عورت۔

شعلته (ف) شَعْلًا وَشَعْلًا والشعلته. بکذا: مشغول کرنا عنه: غافل کرنا۔ شغل

عنه بکذا: مشغول رہنا۔ کسی کام میں لگا رہنا۔ اور اسی سے کہا جاتا ہے ”ما اشغلته“

یعنی وہ کس قدر مشغول ہے اور یہ شاذ ہے اس لیے کہ فعل مجہول سے صیغہ تعجب نہیں بنایا

جاتا۔ شغلته. مشغول کرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے۔)

تسغل وتشاعل وانشغل. بکذا: مشغول ہونا۔ اشغل قلبه: بتلائے افکار ہو

کر پریشان ہوتا۔ اشْتَعَلَ فِيهِ السَّمُّ: زہر کا اثر کرنا الدَوَاءُ فِيهِ: دوا کا مفید ہونا۔
 وَتَشَاغَلَ عَنْهُ: غافل ہونا۔
 الشُّغْلُ وَالشُّغْلُ وَالشُّغْلُ: مصروفیت۔ مشغولیت۔ ج اشغال و شغول۔
 الشُّغْلُ: پری۔ بھراؤ۔
 الشَّاغِلُ: فاعل۔ مبالغہ کی صورت میں۔ "أَنَا فِي شُغْلٍ شَاغِلٌ" کہا جاتا ہے۔
 الشُّغْلَةُ: اسم مرۃ۔ کھلیان۔ غلہ کا ڈھیر۔ ج شغل۔
 الشُّغْلُ: کام میں لگا ہوا۔ مصروف۔
 الشُّغَالُ: بہت کام والا۔
 الْأَشْغُولَةُ وَالْمَشْغُولَةُ: کام۔ مشغلہ۔
 الْمَشْغُولُ: من بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ مَشْغُولٌ" بھری ہوئی جگہ۔ ذار مَشْغُولَةٌ: آباد گھر۔ جَارِيَةٌ مَشْغُولَةٌ: شوہر والی۔ مَالٌ مَشْغُولٌ: تجارت و کاروبار میں لگا ہوا مال۔
 الشُّغِيمُ: لاپٹی۔ بہت حریص۔
 الشُّغْمُومُ وَالشُّغِيمِمْ: خوبصورت لہا۔
 الشُّغْنَةُ: تر تھی۔ ج شُغْنٌ۔
 الشُّغْبُ وَالشُّغْنُوبُ: نازک و تر تھی۔
 شَغَتَ تَشْغُو شُغْوًا وَشَغِيَتْ تَشْغِيًا شُغًا: ایک دانت کا دوسرے دانتوں سے بڑھنا۔ ناہموار ہونا۔ دانت کی صفت۔
 شَاغِيَةٌ: ج شَوَاغٌ اور ایسے دانت والے کو (اشغی) اور مؤنث کے لئے (شغواء و شغیاء) ج شُغُوٌ۔
 أَشْغَى إِشْغَاءً: الْقَوْمُ بِهِ: لوگوں کی مخالفت کرنا فَلَانٌ رَأِيَهُ: پریشان کرنا۔
 الشُّغْوَا: عقاب۔
 شَفَّ (ض) شُفُوْفًا وَشَفِيْفًا وَشَفَا: الشُّيُّ: اتنا باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے۔ صفت (شَفِيْفٌ وَشَفَافٌ) عَنْهُ النَّوْبُ: کپڑے کا چھوٹا ہونا۔ تنگ ہونا۔ (شُفُوْفًا) الْجِسْمُ: بدن کا ڈبلا ہونا (شَفَا) الشُّيُّ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَفَفْتُ عَلَيْهِ" تم نے اس پر زیادہ کیا۔ کم ہونا۔ گھٹنا۔

"هَذَا ذُرْهُمٌ يَشْفِي قَلِيلًا" یہ درہم کچھ کم ہے۔ حرکت کرنا۔
 لَهُ الْأَمْرُ: قائم رہنا۔ ہمیشہ رہنا (شَفِيْفًا) فَمُ فَلَانٌ: دانتوں اور سوزوں میں سردی کی وجہ سے درد ہونا۔
 شَفَّهُ (ن) شَفَا وَشُفُوْفًا وَشَفَفَهُ: الْمَرُوضُ أَوْ الْهَمُّ: کمزور کرنا۔ ڈبلا کرنا۔
 شَفَّ الْمَاءَ: سب پانی پی لینا۔
 أَشَفَّهُ عَلَى فَلَانٍ: فضیلت دینا۔ أَشَفَّ الْقَمُّ: منہ کا بدبودار ہونا۔ أَشَفَّ عَلَى فَلَانٍ: سبقت لے جانا۔ بڑھنا الدِرْهُمُ: زیادہ کرنا یا کم کرنا۔
 إِشْتَفَّ وَتَشَافَّ: مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن سے سارا پی جانا اور کھا جانا۔ "اشْتَفَّ الْجَبْرِ الْجَزَامُ" اونٹ نے سارے تنگ کو گھیر لیا۔
 اسْتَشَفَّ: لَهُ السِّتْرُ: پردے کے پیچھے کی چیز نظر آنا النَّوْبُ: کپڑے کے عیب کو دیکھنے کے لیے روشنی میں پھیلانا الشُّيُّ: دیکھنا اور معلوم کرنا الْكِتَابُ: غور کرنا۔
 ہ: باریکی چیز دیکھنا مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن سے سب پی لینا پوری پوری رغبت کرنا۔
 فِي تِجَارَتِهِ: تجارت میں فائدہ اٹھانا۔
 الشَّفُّ وَالشَّفِّ: کھڑا یا باریک پردہ۔ کہا جاتا ہے "نَوْبٌ شَفٌّ وَشَفٌّ" باریک کپڑا ہوا۔ زیادتی۔ نقصان۔ ایک قسم کی بدبودار پھنسی۔ ج شُفُوْفٌ الشَّفِّ: تھوڑی چیز۔
 الشَّفِيْفُ: من آفتاب کی سخت گرمی۔ سردی کی شدت۔ ٹھنڈی ہوا۔ ج شَفَافٌ نَوْبٌ شَفِيْفٌ: باریک کپڑا۔
 الشَّفِّ: من۔ کم۔ ہلکا پن۔ بد حال۔
 الشَّفَانُ: بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔
 الشَّفَافَةُ: برتن کا بقیہ پانی۔ شَفَافَةُ النَّهَارِ: دن کا بقیہ حصہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَشَفَّ مِنْ فَلَانٍ" فلاں فلاں سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہے۔
 الْمَشْشُوفُ: بدبودار پھنسیوں والا۔
 شَفَّتْ وَاشْفَتَتْ: الْقَوْمُ: تڑپنا۔ ہونا۔

پراگندہ ہونا۔ إِشْفَرَ الْعُوْدُ: ثَوْبُ السِّيرَاجِ: زیادہ چوڑی بنی کا ہونا۔
 شَفَّتَنَ شَفَّتَنَةً: جماع کرنا۔
 شَفُّو (س) شَفَارَةٌ: گھٹنا کم ہونا۔
 شَفَّرَ: الْمَالُ: کم ہونا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا عَلَيَّ الْأَمْرُ: متوجہ ہونا الشُّيُّ: بڑے اگھیرنا۔
 الشُّفُو وَالشُّفَرُ: ج أَشْفَارٌ وَ (الشُّفَيْرُ) پلک کی جڑ۔ ہر چیز کا کنارہ مِنْ الْوَادِي: وادی کا بالائی کنارہ۔ کہا جاتا ہے "مَا فِي الدَّارِ شَفْرٌ وَشَفْرٌ وَشَفْرَةٌ" الشُّفْرَةُ: بڑی چوڑی پتھری۔ تلوار کی دھار۔ نیزے کے پھل کا پہلو۔ موچی کی راہی۔ ج شَفْرٌ وَشَفَارٌ وَشَفْرَاتٌ: الشُّفْرَةُ: نوکر۔ خادم۔ عیش (مُشْفَرٌ) تنگ زندگی۔
 الْمَشْفَرُ: شدت۔ روک۔ زمین باریگستان کا ٹکڑا۔ ہونٹ۔ اونٹ کے ہونٹ کے لیے خاص طور پر مستعمل ہے۔ ج مَشَافِرُ الشُّفَارِجِ: میوہ وغیرہ رکھ کر محفل میں لانے کی تھالی۔
 شَفْرَةٌ (ض) شَفْرًا: لات مارنا۔ ٹھوکر مارنا۔
 شَفَّشَفَ: الرَّجُلُ: کانپنا۔ بدخلق ہونا۔ صفت (مُشْفِشِفٌ وَمُشْفِشِفٌ) بِهِ: خلط ملط ہونا الدَوَاءُ عَلَى الْجُرْحِ: زخم پر دوا چھڑکنا الِهْمُّ فَلَانًا: ڈبلا کرنا الصَّفِيْعُ: النَّبَاتُ: پالے کا نباتات کو جلادینا۔ خشک کر دینا الْحَرُّ وَالْبُرْدُ الشُّيُّ: خشک کرنا عَلَيْهِ: ڈرنا۔
 تَشَفَّشَفَ: النَّبَاتُ: خشک ہونے لگنا۔
 الشَّقْشَافُ: اولوں والی پارش۔ عوام فَقْشَافٌ کہتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا۔ نَوْبٌ شَفَّشَافٌ: چمچدرا ہونا یا کپڑا۔
 شَفَّعَ (ف) شَفَّعًا: الشُّيُّ: چوڑا کرنا۔ دہرا کرنا۔ کہا جاتا ہے "كَانَ وَتَرًا فَشَفَّعَهُ بَاحْرًا" وہ طاق تھا اس نے دوسرا ملا کر جفت کر دیا جَارَةٌ: پڑوسی کو حق شفعہ دینا النَّافَةُ: ایک

پجہ ہوتے ہوئے حاملہ ہونا۔ تم کہتے ہو (شفع)
لی الاشخاص: نظر کی کمزوری سے ایک چیز
دور دکھائی دینا۔ آنکھ کی صفت (شافعة)
شَفَع (ف) شَفَاعَةً. فُلَانٍ أَوْ فِيهِ إِلَى
زَيْدٍ: سفارش کرنا۔ شَفَع عَلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ:
کسی کے خلاف دوسرے کی مدد کرنا۔ کہا جاتا
ہے "فُلَانٌ يُعَاذِنِي وَلَهُ شَافِعٌ" فلاں
فحسب مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور اس کے لیے
میری عداوت میں ایک شخص مددگار ہے
فُلَانٍ فِي الْمَطْلَبِ: کسی کے لیے کوشش
کرنا۔

شَفَع الشئ: جنت بنانا۔ شَفَعْنِي فِي
فُلَانٍ: سفارش قبول کرنا۔
تَشَفَّعَ لِي وَاللِّي بِفُلَانٍ أَوْ فِي فُلَانٍ:
سفارش کرنے کو کہا۔
اِسْتَشَفَّعَ زَيْدٌ إِلَى عَمْرٍو: سفارش
کرنے کی درخواست کرنا۔ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ:
مدد طلب کرنا۔

الشَّفْعُ: س. جنت۔ عدد۔ کہا جاتا ہے "اَشْفَعُ
هُوَ اَمٌّ وَتَرٌ" کیا وہ جنت ہے یا طاق۔ ج
اَشْفَاعٌ وَشِفَاعٌ.
الشَّفْعَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: زمین یا مکان میں
ہمسایگی کی وجہ سے حق خرید۔ دیوانگی۔ آنکھ
مِنَ الصُّحَى: چاشت کے وقت دور کتیں۔

شَفَّعَ.
الشَّافِعُ. فَا نَاقَةٌ شَافِعٌ: بچہ والی حاملہ
اونٹنی۔ عَيْنٌ شَافِعَةٌ: کمزوری سے ایک کو دور
دیکھنے والی آنکھ۔ نَاقَةٌ (شَفْوَعٌ) ایک دفعہ
کے دو جھن میں دو مرتب بھرنے والی اونٹنی۔
الشَّفِيعُ: سفارش کرنے والا۔ حق شفہ والا۔
ج شَفَّعَاءُ الشَّفِيعُ مِنَ الْعَدَدِ: جنت۔

الْاَشْفَعُ: لبا۔
المَشْفَعُ: وہ شخص جس کی سفارش مقبول ہو۔
المَشْفُوعُ: سفارش قبول کرنے والا۔
المَشْفُوعُ: باکل دیوانہ۔ اِمْرَاةٌ
مَشْفُوعَةٌ: نظر بدگئی ہوئی عورت۔
شَفِيقٌ (س) شَفِيقًا عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔

خیر خواہی و اصلاح کا خواہش مند ہونا۔ صفت
"شَفِيقٌ وَشَفِيقٌ وَشَفِيقٌ" شَفِيقٌ مِنْ
الْاَمْرِ: خوف کرنا۔ لَاحِجٌ كَرْنَا عَلَى الشَّيْ:
جمل کرنا۔

شَفَّقَهُ: مہربان بنانا۔ شَفَقَ الشَّيْ: کم کرنا
الثَّوْبُ: کپڑا خراب بننا۔
اَشْفَقَ الشَّيْ: کم کرنا علیہ منہ: کسی سے
چوکتا رہنا۔ خوف کرنا۔ لَاحِجٌ كَرْنَا عَلَى
الصَّغِيرِ: مہربان ہونا الرجلِ: شفق کا وقت
پانا الرينخ: ہوا کا تیز ہونا اور خاک اُڑانا۔

الشَّفَقُ: س. غروب آفتاب کے بعد آفت
آسمان کی سرفی۔ مہربانی۔ رومی چیزیں اذن۔
خوف۔ جانب۔ ثَوْبٌ شَفِيقٌ كَزُورٍ كِزْرًا ج
اشفاق۔

الشَّفَقَةُ: مہربانی۔ رحمت۔ خوف کے ساتھ
مہربانی۔ کہا جاتا ہے "اَحْدَسِي مِنْهُ شَفَقَةً"
اس پر مجھے ترس آیا۔ "وَلِي عَلَيْهِ شَفَقَةً"
مجھے اس پر ترس ہے۔

شَفَقَ (ض) وَشَفِنَ (س) شَفْوَانًا
الرَّجُلِ وَاللِّي الرَّجُلِ: ترجیحی نظر سے دیکھنا
یا بنظر اعراض دیکھنا۔ صفت (شَافِقٌ
وَشَفْوَانٌ)
الشَّفْنُ وَالشَّفِنُ: زیرک و دانہ۔ الشَّفْنُ:
انتظار۔ میراث کا منتظر۔

الشَّفُونُ: بہت غیرت مند جس کی نگاہ
شدت حذر کی وجہ سے نظر کرنے سے نہ
تھکے۔ شَفْنُ

الشَّفَنْتَرِيُّ وَالشَّفَنْتَرِيُّ: متفرق۔
شَفَّةٌ (ف) شَفَّهًا. فُلَانًا: ہونٹ پر مارنا۔
اصرار کر کے سوال کرنا اور سب کچھ خرچ کر
دینا الا ناء: سب پی کر خالی کر دینا۔ "مَصَادِثُ
الْعِيَالِ تَشْفَهُ مَالِي" قریب ہے کہ میرے
مال و عیال میرے مال کو ختم کر دیں ہ عن
الْاَمْرِ: غافل کر دینا۔

شَفَّهُ: زَيْدٌ: بہت سائلین کا ہونا الشئ:
بہت طالبین کا ہونا الطعام: بہت کھانے
والوں کا ہونا۔ صفت (مَشْفُوعَةٌ)

شَافَهُ شِفَاهًا وَمُشَافَهَةً. رُوِدْرُو كَتَلُو
کرنا الشئ: قریب ہونا۔

الشَّفَّةُ وَالشَّفِةُ: مِنَ الْاِنْسَانِ: ہونٹ۔
ج شَفَاهُ وَشَفَّهَاتٍ اور نسبت کے لیے
(شَفِيٌّ وَشَفَّهِيٌّ وَشَفْوَى) اور تصغیر
(شَفِيَّةٌ) کہا جاتا ہے "هُوَ خَفِيفُ الشَّفَّةِ"
وہ سوال کرنے میں بہت اصرار کرنے والا یا کم
سوال کرنے والا ہے۔ (ضد) و "لَهُ فِي
النَّاسِ شَفَّةٌ حَسَنَةٌ" اس کی لوگوں میں
اچھی شہرت ہے۔ و "مَا اَحْسَنَ شَفَّةَ
النَّاسِ عَلَيَّكَ" تمہارے متعلق لوگوں کی
تعریف کس قدر اچھی ہے۔ و "مَا كَلَمْتُهُ
بِئْسَ شَفَّةٌ" میں نے اس سے ایک لفظ بھی
نہیں کہا۔ شَفَّةُ الشَّيْ كَالدَّلْوِ: ذول
جیسی چیز کا کنارہ۔

الشَّافِه: بیاسا۔
الشَّفَاهِيُّ وَالْاَشْفَه: بڑے ہونٹوں والا۔
الْحُرُوفُ الشَّفِيَّةُ: ہونٹوں سے نکلنے
والے حروف اور وہ ہم ہیں۔

المَشْفُوه: مفتح۔ ماءٌ مَشْفُوهٌ: ایسا پانی
جس پر بہت پینے والے آتے ہوں اور کہا جاتا
ہے "فُلَانٌ مَشْفُوهٌ عَنَّا" یعنی فلاں ہم سے
غافل ہے اس کے پاس کثرت سے لوگ آتے
ہیں۔ و "هُوَ مَشْفُوهُ الْمَوَارِدِ" وہ بڑا
مہمان نواز اور بہت داد و بخش والا ہے۔

شَفَا يَشْفُو شَفْوًا. الْهَلَالُ: چاند کا طلوع
ہونا الشَّخْصُ: ظاہر ہونا الشَّمْسُ:

آفتاب کا غروب کے قریب ہونا الشفا: نئے
چاند کا یقینہ حصہ جو ابھی غروب نہ ہوا ہو۔ ہر چیز
کا حد و کنارہ۔ حثیہ شَفْوَانُ. ج اَشْفَاءُ.
آدمی کے لیے موت کے وقت اور چاند کے
لیے چھینے کے وقت اور آفتاب کے لیے غروب
ہونے کے وقت کہا جاتا ہے "مَا بَقِيَ مِنْهُ
اِلَّا شَفَا" یعنی صرف تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔

الاشْفِي: جس کے دونوں ہونٹ ملنے نہ
ہوں۔
شَفِي يَشْفِي شِفَاءً. اللّٰهُ فُلَانًا مِنْ

المرضى: تندرست کرنا۔ صحت یاب کرنا
فُلَانٌ فُلَانًا: کسی کیلئے شفا مانگنا الشمس:
آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ (و شَفِي
(س) شَفِي) الهلال: نئے چاند کا غروب
ہونا۔

شَفِي. المرِيضُ: صحت پانا۔ تندرست
ہونا۔

أَشْفَى إِشْفَاءً. فُلَانًا: شفا مانگنا عَلَيْهِ:
کنارے پر آگنا اور اسی سے ہے "أَشْفَى
المرِيضُ عَلَى الْمَوْتِ" مریض موت
کے کنارہ پر آگنا العَلِيلُ: حصول صحت سے
باز رہنا (ہمزہ سلب کیلئے) الْمُسَافِرُ: آخری
رات کی چاندنی میں چلنا المرِيضُ: مفید دوا
بتانا۔ تم کہتے ہو "أَشْفِي" یعنی مجھے کوئی ایسی
چیز دو جس سے صحت حاصل ہو۔ أَشْفَاءُ
الشئِ: مفید چیز دینا۔ شفا حاصل کرانے والی
چیز دینا۔

تَشْفَى. مِنْ غِيْظِهِ: غُصْبَةٍ سے ٹھنڈا ہونا اور
کہا جاتا ہے "تَشْفَى مِنْ فُلَانٍ" یعنی اس نے
اپنے دشمن کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ جس سے
اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا (و اشْفَى) بَكْدًا: شفا
حاصل کرنا۔

الْمُسْتَشْفَى - ہسپتال
اِسْتَشْفَى. بِهِ: شفا چاہنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
يُسْتَشْفَى بِرَأْيِهِ" فلاں کی رائے سے شفا
حاصل کی جاتی ہے المرِيضُ مِنْ عَلَيْهِ:
صحت یاب ہونا۔

الشفاء. س۔ دوا۔ (مجاز ہے اس لیے کہ سبب
کا نام دہر کہا گیا جو سبب کا تھا)

رَجَ اشْفِيَةً رَجَ اشْفَافٍ:

الشافِي. فَا. مِنَ الْاَدْوِيَةِ وَنَحْوِهَا:
مفید دوا وغیرہ۔ الْجَوَابُ الشَّافِي: ایسا
جواب جس میں پھر سوال کی ضرورت نہ ہو۔

الاشْفَى. سْتَالِي. سَوْجَا. رَجَ اشْفَافٍ.

شَقَّ (ن) شَقَّازَ. الشئِ: پھاڑنا۔ جدا جدا
کرنا۔ اور اسی سے ہے شَقَّ عَصَاءَ الْقَوْمِ
اس نے قوم کی جمعیت کو توڑ دیا۔ "شَقَّ فُلَانٌ

العَصَا" فلاں جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔

شَقَّ (ن) شَقًّا وَمَشَقَّةً. الامرُ: دشوار

ہونا علی فُلَانٍ: مشقت میں ڈالنا البرُقُ:

بجلی کا وسط آسمان تک سیدھی پھیلنا الفرسُ:

دوڑنے میں ایک جانب کو جھلنا (شَقْوَقًا)

النَّبْتُ: آگنا نابُ البعيرُ: دانت لگانا

(شَقًّا) الصُّبْحُ: فجر طلوع ہونا۔

بَشَقَّ. الحطبُ: لکڑی پھاڑنا۔ چیرنا

الكلامُ: بر محل کہا۔

شَاقَهُ شَقًّا وَمَشَاقَةً. مخالفت کرنا۔ دشمنی

کرنا۔

تَشَقَّقَ. الحطبُ: لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔

الفرسُ: گھوڑے کا دہلا ہونا اور کہا جاتا ہے

"تَشَقَّقَتْ عَصَاهُمْ بِالسِّنِّ" ان کا معاملہ

تترتر ہو گیا۔

تَشَاقَ. القنومُ: باہم مخالفت کرنا۔ باہم

عداوت کرنا الرجالان. باہم خوب جھگڑا

کرنا۔ تَشَاقَوْا تِيَابَهُمْ: ایک کا دوسرے کے

کپڑوں کو پھاڑنا۔

اِنشَقَّ. الشئِ: شگاف پڑنا الامرُ: پر آندھو

پریشان ہونا الفجرُ: فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا

ہے "اِنشَقَّتْ عَصَاهُمْ" ان کا معاملہ تترتر

ہو گیا۔

اِشْتَقَّ. الشئِ: آدھا لینا الکلیمة من

الکلیمة مشتق کرنا جیسے الضرب سے

ضرب الفرس في غدوه: دائیں بائیں

جانافی الکلام او الخصومة: ادھر ادھر

بٹ جانا الطريق في القلافة: بیابان میں

راستہ طے کرنا۔

الشَّقَّ. س۔ شگاف۔ پھین۔ صبح چھٹی ہوئی

جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ رَجَ شَقْوَقًا:

الشَّقَّ. جانب۔ کنارہ۔ انسان کی ایک جانب

جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگا

بھائی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "المالُ

بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَقٌّ أَوْ شَقٌّ شَعْرَةٌ" مال

میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔

الشَّقَّةُ. کپڑے وغیرہ کی لمبی چٹ۔ پھاڑا ہوا

کٹوا۔ چیز کا آدھا حصہ جبکہ پھاڑ لیا جائے۔ رَجَ

شَقَّقَ وَشَقَّاقًا:

الشَّقَّةُ وَالشَّقَّةُ. دور کا سفر۔ مسافت جس کو

مسافر طے کرے۔ راستہ جس کا طے کرنا چلنے

والے کے لیے دشوار ہو۔ وہ جانب جہاں کا

مسافر قصد کرے۔ مشقت۔ رَجَ شَقَّقَ:

الشَّقِيقُ. دو حصوں میں بھی ہوئی چیز کا آدھا

حصہ۔ حقیقی بھائی۔ نظیر۔

الشَّقِيقَةُ. حقیقی بہن۔ باغوں کے درمیان

سخت زمین۔ بہت بارش من البرُقُ: آفت

آسمان میں پھیلنے والی بجلی۔ آدھا سیسی کا درد۔

رَجَ شَقَّاقِي. شَقَّاقِي النُّعْمَانِ: گل لالہ۔

واحد۔ شَقِيقَةُ النُّعْمَانِ:

الاشَّقَّ. مِنَ الخَيْلِ: دائیں بائیں دوڑنے

والا گھوڑا۔ فرَسٌ اشَقُّ المُنْحَرِنِ: وسیع

تتھوں والا گھوڑا۔

المَشَقَّةُ وَالمِشَقَّةُ. دشواری۔ محنت۔ رَجَ

مَشَاقٍ وَمَشَقَّاتٍ:

شَقًّا (ف) شَقًّا وَشَقْوَاءًا. النَّابُ:

دانت لگانا شعر الراسِ: مانگ لگانا اور لگانا

کرنا راسًا: سر پھاڑنا فُلَانًا: کسی کی مانگ پر

مارنا۔

المَشَقَّاءُ. مانگ۔

المِشَقَّاءُ وَالمِشَقَّاءُ وَالمِشَقَّاءَةُ. لگانا۔

شَفَّحَ (ك) شَفَّاحَةً. قبیح ہونا۔ صفت

(شَفَّحَ)

شَفَّحَ (ف) شَفَّحًا الشئِ: توڑنا

الجَوْزَةَ غَرَمِي لگانا ہ اللہ: قبیح بنانا

الکلبُ: کتے کا پیشاب کرنے کے لیے ٹانگ

اٹھانا۔

شَاقِحَهُ مَشَاقِحَةً. باہم گالی گلوچ کرنا۔

اشَّقَحَهُ. دور کرنا (اشَّقَحَ وَشَفَّحَ)

السُّوسُ: رنگ پکڑنا النخلُ: درخت خرما پر

کھجور کا گدر ہونا۔ کہا جاتا ہے (شَفَّحًا

وَشَفَّحًا) لهُ: یعنی اس کے لیے دوری ہو۔

الاشَّقَحُ. سرخ زرد رنگ ملا ہوا۔ مَوْنَتُ

شَفَّحَاءُ (ج) شَفَّحًا:

الشَّقْحِيُّ: سرخ رنگ والا۔

شَقْدٌ (س) شَقْدًا: تیز نظر بد لگانے والا ہونا۔ بے نیند ہونا۔ صفت (شَقْدٌ وَشَقْدٌ وَشَقِيدٌ وَشَقْدَانٌ)

شَقْدٌ (ض) شَقْدًا وَشَقْدٌ (س) شَقْدًا: دور جانا۔

شَقْدَةٌ: باہم دشمنی کرنا۔ دور کرنا۔

أَشَقْدَةٌ: دھکارنا۔

الشَّقْدُ وَالشَّقْدُ وَالشَّقْدُ: گرگٹ کا بچہ۔
ج شَقْدَانٌ وَشَقَادِي: الشَّقْدُ: سر کہا جاتا ہے "مالہ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ" اس کے پاس کچھ نہیں "و هذا لَيْسَ بِهِ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ" اس میں کوئی اللہ اور نقصان نہیں۔

الشَّقْدَانُ: بھیریا۔ حشرات الارض۔ کیڑے موڑے۔ بھٹ۔ تیز وغیرہ کے چوڑے۔

الشَّقْدَانُ: سر ج شَقْدَانٌ وَ (الشَّقْدُ وَالشَّقْدُ) گرگٹ۔ بھیریا۔

الشَّقْدَاءُ: بہت بھوکا عقاب۔

شَقْرٌ (س) وَ شَقْرٌ (ك) شَقْرًا وَشَقْرَةٌ: سرخ زرد رنگ کا ہونا۔ صفت (أَشَقْرٌ) مؤنث شَقْرَاءُ ج شَقْرٌ: اَشَقْرٌ: گہرا سرخ و زرد رنگ کا ہونا۔

الشَّقْرُ: امر مقصور و دلچسپ۔ ج شَقْرٌ: کہا

جاتا ہے "أَلَصِبْتُ إِلَيْهِ بِشَقْرِي" میں نے اپنے ان امور پر اس کو مطلع کر دیا جن کو دوسروں سے چھپاتا تھا۔ "بَنَّهُ شَقْرَةٌ" اس نے اپنے حالات کی اس سے شکایت کی۔

الشَّقْرُ: مرغ۔ جھوٹ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالشَّقْرِ وَالْبَقْرِ" وہ جھوٹ اور مصیبت لایا۔

أَشَقْرَانُ: بناہات اور دانوں میں لگنے والی بیماری۔

الشَّقْرُ وَالشَّقْرَانُ وَالشَّقَارُ وَالشَّقَارِي: ایک قسم کی سرخ رنگ کی بناہات یا گل لالہ۔

الشَّقْرَاقُ وَالشَّقْرَاقُ: فاختہ سے بڑا ایک پرندہ جس کو شَقْرُوقٌ اور شَرْفُوقٌ بھی کہتے ہیں۔

شَقْنَقٌ شَقْنَقَةٌ: الحمل: اونٹ کا بلبانا الطَبْرُ: پرندہ کا آواز کرنا۔

الشَّقْنَقَةُ: بوقت مستی اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ ج شَقَاشِقٌ اور شَقْنَقٌ کیلئے "هَدْرَت شَقْنَقَةٌ" کہا کرتے ہیں۔ و "فَلَانٌ شَقْنَقَةٌ قَوْمِهِ" فلاں اپنی قوم میں شریف و فصیح ہے۔

شَقْنَصٌ: الذَّبِيحَةُ: ذبح کیے ہوئے جانور کو حصہ داروں کیلئے کاٹ کر برابر حصہ کرنا۔

الشَّقْنَصُ: حصہ۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔ زمین کا قطعہ۔

الشَّقْنِصُ: شریک۔ شرکت۔ حصہ۔ عمدہ کھوڑا۔ بہت میں سے تھوڑا۔

المَشَقْنَصُ: چوڑا پھل یا چوڑے پھل کا تیر۔ ج مَشَقْنِصٌ: المَشَقْنَصُ: قصاب۔

الشَّقْنِيطُ: مٹی کا مٹکا یا پکی ہوئی مٹی۔

الشَّقْنِيطُ: پکی ہوئی مٹی۔

شَقْعٌ (ف) شَقْعًا: فِي الْإِنَاءِ: برتن میں منڈاؤں کر پینا۔

الشَّقْفُ: ٹھیکری۔ ٹھیکری کے ٹکڑے واحد (شَقْفَةٌ)

الشَّقَائِفُ: عِنْدَ الْبَنَائِينَ: لوہے کا بڑا تھوڑا فصیح لفظ مِلْطَاسٌ اور مِلْطَسٌ ہے۔

شَقْلٌ (ن) شَقْلًا: الدَّرَاهِمُ: تولنا المَرَأَةُ: جماع کرنا۔

شَوْقَلٌ شَوْقَلَةٌ: حلیم و بردبار ہونا۔

الشَّقَائِلُ: معماروں کا ساہول جس سے دیواری کی ہمواری دیکھتے ہیں۔

شَقْنٌ (ن) شَقْنًا وَشَقْنٌ: العَطِيَّةُ: کم دینا۔ وَشَقْنٌ الرِّجْلُ: کم ہال ہونا۔

شَقْنٌ (ك) شَقْنُونَةٌ: العَطَاءُ: کم ہونا۔ صفت (شَقْنٌ وَشَقْنٌ وَشَقْنِيْنٌ)

المِشَقْنُ: بیگا (جو تے اور بوئے ہوئے کھیت کی مٹی کے برابر کرنے کا آلہ)

شَقًّا يَشَقُّو شَقْوًا وَاشَقُّوا: اللّٰهُ فَلَانًا: بد بخت بنانا۔ اَشَقُّوا: شغریہ کھینچ کرنا۔

شَقِيٌّ يَشَقِي شَقًّا وَشَقَاءٌ وَشَقَاوَةٌ وَشَقَاوَةٌ وَشَقْوَةٌ وَشَقْوَةٌ وَشَقْوَةٌ: بد بخت ہونا۔ صفت (شَقِيٌّ) ج أَشَقِيَاءُ:

شَقِيٌّ: فَلَانًا: بد بخت ہونے میں مقابلہ کرنا۔ تم کہتے ہو "شَقَانِي فِشَقْوَتِهِ" اس نے بد بخت ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں

غالب رہا یعنی میں اس سے زیادہ بد بخت رہا ہُ فِي الْحَرْبِ: لڑائی وغیرہ میں مشغول کرنا ہ

عَلِي كَذَا: صبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشَّقَائِي: فَلَانِ الْجِبَالِ: پہاڑ کا لبا لگا ہوا گوشہ۔ ج شَوَاقٍ وَشَقِيَانٌ:

الشَّقَا وَالشَّقِيَاءُ: سر تختی۔ بد بختی۔ المِشَقِي: ٹھیکری۔

شَكٌّ (ن) شَكًّا: فِي الْأَمْرِ: شبہ کرنا۔ صفت فاعِلٌ (شَاكٌ) اور صفت مفعولٌ

(مَشْكُوكٌ) فِيهِ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا ہ

بِالرَّمْحِ: بڑی تک چھیدنا۔ شَكَّتِ الشُّوْكَةُ رَجُلَةً: کاٹنا چھیننا۔ شَكَّ الْقَوْمُ بِيُوتِهِمْ: گھروں کو ایک طرز یا ایک تظار میں

بنانا الخِيَّاطُ النَّوْبُ: کپڑے میں دور دور ٹانگے لگانا إِلَيْهِ الْبِلَادُ: طے کر کے پہنچنا

الشَّيْءُ إِلَى الشَّيْءِ: ملنا عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا فِي السِّلَاحِ: ہتھیار بند ہونا۔ صفت

(شَاكٌ السِّلَاحِ وَشَاكٌ فِي السِّلَاحِ) ج شَكَاكٌ:

شَكٌّ (س) شَكًّا: فَلَانًا وَ إِلَيْهِ: مائل ہونا۔

شَكْكَةٌ: شَكٌّ وَشِبْهُ فِي الْوَالِدِ: تَشَكُّكٌ: فِي الْأَمْرِ: شبہ کرنا۔

الشُّكُّ: سر شبہ۔ بڑی میں تھوڑی سی درز۔ ایک دوا جو چوہوں کیلئے قاتل ہے۔ ج شَكُّوكٌ:

الشُّكَّةُ: اسم نوع۔ ہتھیار۔ کلزی وغیرہ کا ہتھیار جو کلہاڑے کے سوراخ کو تنگ کرنے کیلئے

لگاتے ہیں۔ ج شَكْكٌ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُّخْتَلِفٌ الشُّكَّةُ" فلاں مختلف اخلاق والا ہے۔

الشُّكَّةُ: مسافت۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمَا شُكَّةٌ بَعِيدَةٌ“ ان دونوں کے درمیان بڑی مسافت ہے۔

الشَّاعَةُ: الشَّائِكَةُ کاؤنٹ گلے کی سوجن۔
شَوْالُكَ: بِيُوتُ (شِگَاكَ) ایک تظار کے مکانات۔

الشَّيْكََةُ: زمین کا گوشہ۔
الشَّيْكََةُ: طریقہ۔ عادت۔ کہا جاتا ہے ”دَعُوْهُ عَلَيَّ شَيْكِيْتِه“ اس کو اس کی عادت پر چھوڑ دو۔ فرقہ میوہ کی ٹوکری۔ شَيْكَانَكَ و شَيْكَ.

أَلْمَشْكُ: سوراخ کرنے کا آلہ۔ زرہ۔ ج مَشَاكَ.

شُكْرٌ (ن) شُكْرًا و شُكْرًا و شُكْرًا. الرَّجُلُ وَلَهُ (و بِاللَّامِ أَفْصَحُ) شُكْرِيَّةٌ ادا کرنا۔ شکر کرنا۔ بہتر سلوک پر تعریف کرنا اور کہا جاتا ہے ”شُكْرُ اللَّهِ سَعِيْقٌ“ یعنی التَّسْلِيمُ ہاری کوشش کی جزا ہے ”شُكْرُتُ فُلَانٍ نَعْمَتُهُ“ میں نے فلاں کی نعمت کا شکر یہ ادا کیا۔

و ”شُكْرُ اللَّهِ وَ لِلَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ نِعْمَةُ اللَّهِ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ“ اس نے اللہ کا شکر یا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ صفت (شاکر) ج شَاكِرُوْنَ و شُكْرٌ. شَاكِرِيَّةٌ: ایک قسم کی گھاس۔

شُكْرَتٌ (س) شُكْرًا. النَّاقَةُ: اونٹنی کا بھرے ہوئے تھن والی ہونا۔ صفت (شُكْرَةٌ) ج شُكْرَاتٌ و شُكْرَايٌ و شُكْرِيٌّ و (مَشْكَارٌ) الشُّجْرَةُ: درخت کا جڑ میں سے شاخ ^{شَاخٌ} لِلرَّجُلِ: نکل کے بعد نئی ہونا۔

أَشْكَرُ: الضَّرْعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔ صفت (شُكْرَانٌ) مَوْنْتُ شُكْرِيٌّ. ج شُكْرَايٌ و شُكْرَايٌ. عَيْنٌ شُكْرِيٌّ: آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔ اَشْكَرُ الشُّجْرُ: درخت کی جڑ میں سے شاخ نکلنا۔

شَاكِرَةٌ: شکر گزاری دکھاناۃ الْحَدِيثُ: گفتگو شروع کرنا۔

أَشْكَرُ: الضَّرْعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

شُكْرٌ (س) شُكْرًا. النَّاقَةُ: اونٹنی کا بھرے ہوئے تھن والی ہونا۔ صفت (شُكْرَةٌ) ج شُكْرَاتٌ و شُكْرَايٌ و شُكْرِيٌّ و (مَشْكَارٌ) الشُّجْرَةُ: درخت کا جڑ میں سے شاخ نکلنا۔

أَشْكَرُ: الضَّرْعُ: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

شُكْرٌ (س) شُكْرًا. النَّاقَةُ: اونٹنی کا بھرے ہوئے تھن والی ہونا۔ صفت (شُكْرَةٌ) ج شُكْرَاتٌ و شُكْرَايٌ و شُكْرِيٌّ و (مَشْكَارٌ) الشُّجْرَةُ: درخت کا جڑ میں سے شاخ نکلنا۔

أَشْكَرْتُ الرِّيحَ: ہوا کا تیز چلنا لِسَمَاءُ: بارش لَانَالرَّجُلِ لِي عَذْوَةٌ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ اَشْكَرَ البُرْدُ اَو الحَرُّ: سردی یا گرمی کا تیز ہونا الشُّجْرُ: درخت کی جڑ میں سے شاخ نکلنا الحَيْنِ: رواں نکلنا۔

تَشْكُرُ: لَهُ: شکر ادا کرنا۔
الشُّكْرُورُ: بہت شکر گزار (مذکر مؤنث) ج شُكْرُ الشُّكْرُورُ فِي اَسْمَانِهِ تَعَالَى: تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینے والا۔

الشُّكْبِيْرُ: بڑے درختوں کی جڑ میں جو شاخ نکل آئے۔ بڑوں میں چھوٹے (پودے یا گھاس یا پریا بال) بال جو چہرہ اور پس گردن کے متصل ہوں۔ درخت کی ڈاڑھی۔ شُكْبِيْرُ الْاِبْلِ: چھوٹے اونٹ۔ شُكْرُ.

الشُّكْرَةُ: اَسْمَرَةٌ (وَالشُّكْرِيَّةُ) تھنوں کا دودھ سے بھرنا۔ کہا جاتا ہے نِيَابَتٌ (مَشْكُرَةٌ) یعنی دودھ والا پودہ۔

الشُّكْرَانُ: شکر گزاری۔
الشُّوْكَرَانُ وَالشُّيْكَرَانُ وَالشُّيْكَرَانُ: ایک زہریلا پودہ۔ (دخیل)

الشُّاْكَرِيُّ: خادِمٌ اَوْ نُوْكْرٌ۔ چاکر۔ ج شَاْكَرِيَّةٌ (دخیل)

الشُّاْكَرِيَّةُ: خادِمٌ كِي اَجْرَتِ۔ عوام شَاْكَرِيَّةٌ: کوئی بڑے سروالی چھری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔

الشُّكَاْرِي: پيشانيان۔
شُكْرَةٌ (ن) شُكْرًا: اُنْگلی چھوونا۔ زبان سے تکلف دینا۔ شُكْرَةٌ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔

الشُّكْرُ وَالشُّكْرُ: بدخلق۔
الشُّكَاْرُ: شاکر کا مبالغہ۔ جُجُو۔

شُكْسٌ (ك) شُكَاْسَةٌ و شُكْسٌ (س) شُكْسًا: بخیل ہونا۔ درخت خوب ہونا۔ سخت مزاج ہونا۔ صفت (شُكْسٌ و شُكْسٌ) ج شُكْسٌ.

شَاْكَسَةٌ مُشَاْكَسَةٌ: مخالفت کرنا۔ سختی سے پیش آنا۔

تَشَاْكَسٌ: الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”الليْلُ وَالنَّهَارُ يَتَشَاْكَسَانِ“ دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

الشُّكْسِيُّ: شحمت۔
المَشْكُسُ: بخیل۔ سخت مزاج۔
الشُّكْسُ: نئے چاند نکلنے سے ایک دو دن پہلے۔
الشُّكْسُ وَالشُّكْسِيُّ: بدخلق۔
الشُّكْسِيَّةُ: اونٹنی جس کے نہ تو تھن میں دودھ ہونہ حاملہ ہوں۔
الشُّكَاْسُ: نامور اداوتوں والی عورت۔
شُكْعٌ (س) شُكْعًا: المَرِيضُ: بہت آدھ زاری کرنا۔ صفت (شَاْكَعٌ و شُكْعٌ و شُكُوْعٌ)
الزَّرْعُ: بھتیق کا زیادہ دانوں والی ہونا الرَّجُلُ: غھبناک ہونا۔ درد مند ہونا۔
أَشْكَعَةٌ: غھبناک کرنا۔ طول کرنا۔ حکم دل کرنا۔ بوج کر دینا۔
شُكْلٌ (ن) شُكْلًا و شُكْلٌ: الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔ شُكْلٌ و شُكْلٌ الْعَنْبُ: اُغْمُوكا پکنے لگانا۔ شُكْلٌ و شُكْلٌ الْكِتَابُ: اعراب لگانا۔ شُكْلٌ و شُكْلٌ بِالشُّكَالِ: جانور کو پائے بند ڈالنا۔ شُكْلٌ الشُّيْ: تَمُوْر بناانا۔ شُكْلَتْ و شُكْلَتْ الْمَرْأَةُ شَعْرُهَا: دائیں اور بائیں جانب زلف کی دو لٹیں بنانا۔
شُكْلٌ (س) شُكْلًا: سرخ سفید ہونا الشُّيْ: سفید مائل سرخ ہونا الْمَرْأَةُ: عورت کا ناز و انداز والی ہونا۔
أَشْكَلٌ: الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔ کہا جاتا ہے أَشْكَلَتْ عَلَيَّ الْأَخْبَارُ: میرے اوپر خبریں مشتبہ ہو گئیں۔
العَنْبُ: اُغْمُوكا پکنے لگانا الشُّكْلُ: درخت خرما کپ کرتیار ہونا الْكِتَابُ: اعراب لگانا الشُّيْ: مشکل ہونا الْمَرِيضُ: بیمار کا صحت کے قریب ہونا۔
شَاْكَلَةٌ مُشَاْكَلَةٌ: مشابہ ہونا۔ موافق ہونا۔ کہا جاتا ہے ”فِي فُلَانٍ مُشَاْكَلَةٌ مِنْ اِبْنِهِ“ اس میں اُس کے باپ کی مشابہت ہے۔

تَشَكَّلٌ۔ صورت اختیار کرنا الْعَبُّ: انور پکے لگنا۔

الْمَشْكَلُ وَالْمَشْكَلَةُ۔ الْأَمْرُ: مشتبه ہونا۔

الشَّكْلُ۔ س۔ مشابہت۔ مثل۔ نظیر۔ مثل

معاملہ۔ قصد و ارادہ۔ کہا جاتا ہے "سَأَلْتُهُ عَنْ

شَكْلِ فُلَانٍ" میں نے فلاں کے ارادہ کو

دریافت کیا۔ عورت کا ناز و انداز۔ محسوس یا

متوہم چیز کی صورت شکل مثلاً گولائی آنکھی۔

سیدھا پن وغیرہ۔ جِ الْأَشْكَالِ وَالْمَشْكُولِ۔

الْأَشْكَالُ: چاندی یا موتیوں کے زیورات جو

ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور جن کو

عورتیں کان میں پہنتی ہیں اور کہا جاتا ہے

"أَمْوَرٌ أَشْكَالٌ" یعنی مشتبه اُمور۔ شَكْلٌ

الْكِتَابِ: کتاب کی حرکات۔ الشَّكْلَةُ:

ایک حرکت مثلاً زیرِ پایش۔

الشَّكْلُ۔ مثل۔ عورت کا ناز و انداز۔

الشَّكْلَةُ۔ سرنی مائل بہ سفیدی

(وَالشَّكْلُ) مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ

شَكْلَةٌ أَوْ شَاكِلٌ مِنَ آبِيهِ" اس میں اس

کے باپ کی مشابہت ہے۔ أَمْرَةٌ (شَكْلَةٌ)

ناز و انداز والی عورت۔

الشَّكَالُ۔ جانور کا پائے بند۔ ڈوری جو اونٹ

کے پیش بند اور ننگ کے درمیان باندھتے

ہیں۔ اگلی ناک اور پچھلی ناک باندھنے کا

بندھن۔ جِ الشَّكْلِ۔ الشَّكَالُ فِي التَّخْيِيلِ:

تین ناٹھوں کا سفید اور ایک دوسرے رنگ کا ہونا

یا اس کے برعکس۔

الشَّكَاكِلَةُ۔ الشَّاكِلُ كَمَا مَوْثُفٌ۔ شکل۔

جیسے شَاكِلَةُ الطَّرِيفِ۔ طریقہ

مذہب۔ نیت۔ حاجت۔ کوکھ۔ جِ شَوَاكِلِ۔

اور اسی سے ہے "أَصَابَ شَاكِلَةَ

الصُّوَابِ" اس نے طریقہ صواب پالیا۔ و

"فُلَانٌ يَرْمِي بِرَأْيِهِ الشُّوَاكِلَ" یعنی فلاں

دجہ صواب کو پالیتا ہے۔ الشُّوَاكِلُ۔ بڑے

رستے سے نکلے ہوئے راستے۔ کہا جاتا ہے ہذا

طَرِيقٌ ذُو شَوَاكِلٍ۔ یہ راستہ ایسا ہے جس

سے مختلف راستے نکلنے ہیں۔

الْأَشْكَالُ۔ سفید مائل سرنی۔ آنکھوں کی

سفیدی میں سرنی والا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا

الشَّكْلُ بِهِ" اس کے مشابہ ہے۔ جِ الشَّكْلِ۔

الشَّكْلَاءُ۔ أَشْكَالٌ كَمَا مَوْثُفٌ۔ حاجت۔

الشُّوَاكِلَةُ۔ تاجید۔ جانب (الشُّوَاكِلُ) کا

واحد بمعنی عوج۔ اور عوج ایک کانٹے دار

درخت کا نام ہے۔

الْأَشْكَالَةُ۔ التَّاسِيسُ۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے

"فِيهِ أَشْكَالَةٌ مِنْ آبِيهِ" اس کے اندر اس

کے باپ کی مشابہت ہے۔ حاجت جو انسان کو

پابند کر دے۔ تم کہتے ہو "أَنَا عِنْدَهُ أَشْكَالَةٌ"

اس کے پاس ہماری حاجت ہے۔

الشَّكِيلُ۔ خون آمیز جھاگ جو لگام کے

لوہے پر ظاہر ہو۔

المُشْكِلُ وَالْمَشْكَلَةُ۔ أمر دشوار یا أمر

مشتبه۔ جِ مَشَاكِلِ وَمَشَاكِلَاتٍ۔

المَشْكُولُ۔ مِنَ الْحَيْلِ: تین ناٹھوں میں

سفیدی اور ایک ناک میں دوسرے رنگ والا۔

پائے بند سے بندھا ہوا۔

المُشْكِلُ۔ صورت و شکل والا۔

شَكْمُهُ (ن) شَكْمًا دِيْنَا۔ بدلہ دینا۔

فُلَانًا: رشوت دینا۔

شَكْمَهُ (ن) شَكْمًا وَشَكْمِيْنَا۔ دانت

سے کاٹ لینا۔

شَكْمٌ (س) شَكْمًا جُوهَا هُونَا۔

شَكْمُهُ (ن) شَكْمًا جُوهَا هُونَا۔

الشُّكْمُ وَالشُّكْمِيُّ۔ ثَوَابٌ۔ بدلہ۔ عطیہ۔

الشُّكْمُ۔ ثِيْرٌ۔

الشُّكْمِيَّةُ۔ تكبير۔ ظلم کی دلاری۔ عہد۔

طبیعت۔ چیتا۔ زہر۔ مشابہت مِنَ اللِّجَامِ:

لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔

وَالشُّكْمِيُّ وَالشُّكْمِيُّ وَالشُّكْمِيُّ وَالشُّكْمِيُّ

یعنی فلاں خود دار اور غیرت مند ہے۔

شَاكِهَةٌ شَاكِهًا وَمَشَاكِهَةٌ۔ مشابہ ہونا۔

أَشْكُهُ۔ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔

تَشَاكَيْتُهَا۔ باہم مشابہ ہونا۔

شَاكَا يَشْكُو شَكْوَى وَشَكْوًا وَشَاكَاةً

وَشَاكَاوَةً وَشَاكَايَةً وَشَكَايَةً۔ إِلَيْهِ زَيْدًا:

شکایت کرنا۔ شکایت کرنے والے کو (شَاكٍ)

جس کی شکایت کی جائے اس کو (مَشْكُوٌّ)

وَمَشْكُوٌّ) اور جس سے شکایت کی جائے اس

کو (مَشْكُوٌّ) إِلَيْهِ اور شکایت کو (شَكْوَى)

کہتے ہیں۔ شَاكَا الْأَمْرَ أَوْ الْعِلَّةَ: ذَكَرْتُ أَيَا

درد مند ہونا مَرَضُهُ لِلطَّيِّبِ: طيب سے

مرض کی کیفیت بیان کرنا أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ

ظاہر کرنا۔

شَاكَا يَشْكُو شَكْوَى وَشَكْوًا وَشَاكَاةً۔

الْمَرَضُ فُلَانًا: ألم پہنچانا۔ درد مند بنانا۔

شَكَايَتِي تَشْكِيَّةٌ الشَّيْءِ: شکایت قبول

کرنا۔

أَشْكِي الشَّيْءَ: فُلَانًا: شکایت قبول کرنا۔

شَاكِي يَأْتِي: کسی کے سامنے شکایت اور تکلفات

شوق کو بیان کرنا۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا

کہ وہ شکایت کرنے پر مجبور ہو۔ کسی سے

شکایت کو زائل کر دینا فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ: کسی

سے کوئی چیز کسی کی خوشنودی کے لیے لینا۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ يَشْكِي بَكْدًا" وہ فلاں چیز

کے ساتھ ہم ہم ہے۔

شَاكَاهُ: شکایت کرنا۔

تَشَكَّى: بیمار ہونا إِلَيْهِ: شکایت کرنا۔ و

جُوحٌ: درد مند ہونا۔

الشُّكْيُ: بیمار ہونا إِلَيْهِ: شکایت کرنا۔ و

جُوحَةٌ: درد مند ہونا۔

تَشَاكَيْتُ الْقَوْمَ: باہم دگر شکایت

کرنا۔

الشُّكُو وَالشُّكْوَى وَالشَّكَاةُ وَالشَّكَاةُ

وَالشُّكْوَاءُ۔

بیماری۔ الشُّكْوَى: جس چیز کی شکایت کی

جائے۔ جِ الشُّكَاوَى: الشُّكُو: چھوٹا اونٹ۔

الشُّكْوَةُ: شَاكَا كَأَسْمِ مَرَّةٍ۔ شَكُو بمعنی

مرض کا واحد جِ شَكَاوَاتٍ وَشَاكَا

(وَالشُّكْيَةُ) پانی یا دودھ کا چڑے کا برتن۔

الشُّكْيُ: جس کی شکایت کی جائے۔

الشلطة: باریک اور لمبا تیر۔ شلطلط۔
 شَلَعٌ (ف) شَلَعًا. الراس: کچلا۔ توڑنا۔
 الشلف: من الحديد عند العامة:
 لوہے کی سلاخ۔
 الشالوف: عند العامة: آبخار۔ آبخار
 کرنے کی جگہ۔
 الشلأفة: من النساء: بدکار عورت۔
 شَلَفَةٌ (ن) شَلَفًا. لها بجانها ناي جيرانها:
 بالسوط: کوڑے سے مارنا۔
 الشلق والشلق: نرم کانٹوں والی ایک
 چھلی۔ شلقلق۔
 الشلفاء: چھری۔
 الشلقة والشلقة: گوہ کے اٹھے۔
 الشلقة: کھوڑوں کو سدھانے والے۔
 الشلقة: موگری جس سے کسی چیز کو توڑیں۔
 الشلاق: فقیروں کا تھیلا۔
 الشولقي: مشائی بیچنے والا یا مشائی کی زیادہ
 خواہش رکھنے والا۔
 المشليق: ہستے وقت منہ کھولنے والا۔
 الشيلم والشولم والشائم: ایک قسم کا
 کڑوا دانہ جو بیہوشی میں پیدا ہوتا ہے۔
 الشلم: چنگاری۔ کہا جاتا ہے "فلاق
 يتطائر شلمه" فلاں کے غصے کی وجہ سے
 چنگاری اُڑ رہی ہے۔
 شلا يشلوا شلوا: چلنا شئی بلند کرنا۔
 أشلى أشلاء: الكلب على الصيد: کتے کو
 شکار پر آکسانا۔ بھڑکانا ناقص: اونٹنی کو دوہنے یا
 چارہ کے لیے بلانا۔
 اشتلى: فلاناً: چھڑانا۔
 اشتشلى: غضبناک ہونے۔ چھڑانا۔
 الشولو: عضو اونٹنی کا بچہ۔ ہر پوست کشیدہ
 جس میں کچھ کھالیا گیا ہو اور کچھ پالی رہ گیا ہو۔
 شلألاء: أشلاء اللجام: لگام کے تھے جو
 پرانے ہوں۔ أشلاء الإنسان: اعضاء
 انسانی۔ کہا جاتا ہے "بنو فلان أشلاء في
 بني فلان" بنو فلان بقایا ہیں بنو فلان کے۔
 الشلو والشلاء: ہر چیز کا جسم۔

مزاج۔
 الشلال: متفرق لوگ۔ کہا جاتا ہے "جاء
 القوم شلالاً" اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لوگ
 آئے۔
 الشلثة: اسم رقوق الشلثة والشلتي دور کا
 مقصد۔ جہت سفر۔
 الشليل: اونٹنی کے کھڑا جس کو کچا وہ کے
 پیچھے جالور کے سر میں ڈالتے ہیں۔ چھوٹی
 زرہ جو بڑی زرہ کے نیچے پہنی جائے۔ کہتے جو
 زرہ کے نیچے پہنا جائے۔ واوی میں پانی بننے کا بڑا
 نالہ۔ شلثلة۔
 الشلال: آبخار۔ شلالات
 المشلل: گردن پر ڈالنے کا پتلا۔ رجل
 مشلل: سبک دست۔ تیز۔ خوش مزاج۔
 شلحة شلحاً: ننگ کرنا۔
 الشلحاء والشلحي: تیز تلوار۔ ج
 شلخ۔
 المشلح: حمام کا کرہ جس میں کپڑے
 اتارے جائیں۔
 شلخه (ن) شلخاً: بالسيف: تلوار
 سے کاٹنا۔
 الشلخ: س۔ اصل۔ جز۔ آدمی کی اولاد۔ کہا
 جاتا ہے "هو شلخ سوء" وہ بری اولاد
 ہے۔
 شلشل شلثلة وشلشالا الماء: پانی
 ٹپکانا الماء وبالماء: پانی متفرق چھڑکنا
 الماء: پانی ٹپکانا السيف الدم: گرانا۔ صفت
 مفعول شلشل وشلشل وشلشل بھرنے
 تشلشل الماء: پانی کا پھینکانا۔ بھرنے
 السيف بالدم: گرانا۔ کہا جاتا ہے "جاء و
 جرحه بشلشل دماً" وہ اس حال میں آیا
 کہ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا تھا۔
 الشلثيا: کچنے والی مٹک۔ ماء شلثيا: کچنے
 لگاتار کچنے والا پانی۔ ماء ذو شلشل: کچنے
 والا پانی۔ (الشلشل والشلشل) من
 الرجال: تیز و سبک دست۔ خوش مزاج۔
 الشلط والشلطاء: چھری۔

درومند۔ مؤنث شكيئة. ج شكيا
 (والشاكى) معمولی پیار رجل شاكى
 السلاح: تھیاری بند صاحب شوکت و رعب
 مرد (بھانک کا مقلوب ہے)۔
 الشكاة: عیب۔
 المشكاة: طاق۔ چراغ رکھنے کا طاق۔ چراغ
 دان۔
 شكى يشكى شكياً: اليه: شکایت کرنا۔
 الشكيئة: بقیہ۔
 شل (ن) شلاً. القوب: کپڑے میں ہلکی
 سلائی کرنا۔ شلت العين دفعها: آنکھ کا
 آسو بہانا البزرع وشلها عليه: زرہ پہننا
 الشئ: کاٹنا۔
 شل (ن) شلاً وشللاً: الابيل: اونٹوں کو
 بھگانا۔ دھکانا۔ کہا جاتا ہے "مر فلان
 يشلهم بالسيف" فلاں گزرا اس حال میں
 کہ لوگوں کو تلوار سے بھگا رہا تھا۔ والضح
 يشل الظلام: صبح تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔
 شلت (س) شلاً وشللاً وشلت و
 أشلت أشلاً: يذو: خشک ہونا۔ لچا ہونا۔
 ایسے ہاتھ کو (شلاء) اور ایسے ہاتھ والے کو
 (أشل) کہتے ہیں۔ جو شخص اچھی طرح تیر
 چلائے یا نیزہ بازی کرے اس کے لیے دُعا کے
 طور پر کہتے ہیں "لا شلت يذاك اولاً
 شلت عشرتك" تمہارے ہاتھ یا تمہاری دس
 انگلیاں بیکار نہ ہوں۔
 أشل: بھار ہاتھ والا ہونا۔
 إنشل المطر: برسات السيل: سیلاب
 بڑھنا شروع ہونا الذنب في الغيم:
 بھیرے کے کبکریوں میں تباہی ڈالنا۔ إنشلت
 الإبل: بھانکا۔ شلال: مینی علی
 الكسر: شلل کا اسم ہے۔ تیر انداز کے لیے
 دُعا کے موقع پر کہا جاتا ہے "لا شلال"
 بمعنی لا شلت يذك.
 الشلل: س۔ کپڑے کا داغ جو دھونے سے
 بھی نہ جائے۔ ہاتھ کی خرابی۔
 الشلل والشل والشلول: تیز۔ خوش

المُشَلِّي. لاغرو تحيف۔

شَمَّ (س ن) شَمًّا و شَمِيمًا و شَمِيمِي.

الوزد: گلاب کا پھول سوگھنا (شَمَمًا) تکبر

کرنا۔ الجبل: او الأنف: چوٹی بلند ہونا۔

صفت (أشَم و شَمِيم)

شَمَّ: آزمائش کیا جانا۔

شَمَمَ: الزهر: پھول سوگھنا۔ الزهر:

پھول سوگھانا۔

أشَمَّ: سرائحاً کر گزرتا الوزد: گلاب کا پھول

سوگھانا عن الأمر: الگ ہونا۔ ہٹنا۔ أشَمَّ

القارئ الحرف: انعام کر کے وقف کرنا۔

کہا جاتا ہے "أشَمِنِي يَدُكَ" مجھے اپنا ہاتھ

دو۔ "عَرَضْتُ عَلَيْهِ كَذَا فَإِذَا هُوَ مُشَمِّمٌ

لَا يُرِيدُهُ" میں نے اس پر فلاں چیز پیش کی اس

نے ناک بھوں چڑھائی۔ اس کی خواہش اسے

نہیں۔

شَامًا مُشَامَةً و تَشَامًا تَشَامًا: ایک

دوسرے کو سوگھانا۔

أشَمَّ: الشئ: سوگھنا۔

تَشَمَّمَهُ: آہستہ آہستہ سوگھانا۔

استَشَمَّهُ: سوگھنے کی درخواست کرنا۔

سوگھانا۔

الشَم: س۔ سوگھائی۔

الشَامَةُ: سوگھنے کی حس۔

الشَمَم: س۔ نزدیکی۔ دوری (شد) ناک کے

پانسہ کی بلندی حسن و ہمواری کے ساتھ۔

الشَمِيم: س۔ بلند۔ عمدہ خوشبو۔

الاشَمَّ: مغرور سردار۔ کریم۔ اونچی ناک

والا۔ مؤنث شَمَاء: ج. شَمَّ.

الشَمَام و الشَمُوم: بہت سوگھنے والا۔

الشَمَام: ایک قسم کا زرد رنگ کا خربوز۔ واحد

(شَمَامَةٌ) ج. شَمَامَات. الشَمَامَات:

عمدہ خوشبوئیں۔

الإشَمَام: عند القراء و النحاة: بغیر

آواز کے ہونے سے حرکت کی طرف اشارہ

کرنا۔

المَشْمُوم: ش۔ جو چیز سوگھنے سے معلوم ہو۔

مٹک۔

شَمَت (س) شَمَاتًا و شَمَاتَةٌ بفلان:

کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ صفت فاعلی

(شَمَاتٌ) ج. شَمَات. اور صفت مفعولی

(مَشْمُوتٌ) بہ۔

شَمَّتَ: العاطس و شَمَّتَ عَلَيْهِ:

يَرَحِمُكَ اللَّهُ کہہ کر دعا کرنا۔ یا دعا کرنا کہ

ایسی حالت میں بتلا نہ ہو جس پر کسی کو شامت کا

موتح لے ہ: محروم کرنا۔ شَمَّتَ بَيْنَهُمَا:

جمع کرنا۔

أشَمَّتَهُ: اللَّهُ بَعْدَهُ: دشمن کے غم سے

خوش کرنا۔

تَشَمَّتَ: القوم: بلا غنیمت کے محروم واپس

آنا۔

الشَامِت: ف. ج. شَمَات.

الشَامِيَّة: الشَامِت کا مؤنث۔ جانور کی

ناگ۔ ج. شَوَامِت. کہا جاتا ہے "نات

بَلِيلَةُ الشَوَامِت" اس نے سخت مصیبت میں

رات گزاری جس پر خوش ہونے والی عورتوں

نے خوش منائی۔ و نَات طَوَّع:

الشَوَامِت: مصیبت پر خوش ہونے والی

عورتوں کی خواہش کے مطابق اس نے رات

گزاری۔

الشَمَات و الشَمَاتِي: محروم لوگ (جمع)

ہے۔ واحد نہیں) کہا جاتا ہے "رَجَعَ القومُ

شَمَاتًا او شَمَاتِي" قوم محروم واپس آئی۔

الشَمَانِيَا فرسین روپہ وہاں کے شہر کے نام

پر۔

شَمَخَ (ن) شَمَخًا: الشئ: طانا القوب:

کڑے کو زور زور سینا۔ شَمَخَهُ عَر كَذَا:

الگ کرنا فلاتًا:

الشَمَاج: انگوڑا کا وہ حصہ جو کھانے کے بعد

پھینک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا دَقْتُ

شَمَاجًا" یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ نَاقَةٌ

(شَمَخِي) تیز رفتار اونٹنی۔

شَمَخُ: الرَجُل: خوفزدہ کی طرح دوڑنا۔

الشَمَخَط و الشَمَخَاط و الشَمَخُوط:

بہت سیاہ۔

شَمَخَ (ف) شَمَخًا و شَمُوخًا: الجبل:

پہاڑ کا بلند ہونا۔ صفت (شَامَخ) ج. شَمَخ.

مؤنث شَامِيخَةٌ: ج. شَوَامِخ و شَامِيخَات (و

شَمَخ) أَنفَهُ و بَأَنفَهُ: تکبر سے ناک چڑھانا۔

صفت (شَمَاح)

تَشَامَخ: بلند ہونا۔ تکبر کرنا۔

تَشَمَخ: بانہ: تکبر کرنا۔

الشَامِخ: ف. نَسَب شَامِخ: شریف

نَسَب رَجُل شَامِخ: متکبر مرد۔

الشَمَاح: شَامِخ کا مبالغہ جِبَل شَمَاح:

بہت بلند پہاڑ مَفَارَةٌ (شَمُوخ و شَمَخ)

دور اطراف والا۔ بیابان۔

شَمَخُ: شَمَخُورَةٌ: تکبر کرنا۔

إشَمَخَر: إشَمَخُورًا: الشئ: طویل ہونا

الجِبَل: پہاڑ کا بلند ہونا۔

الشَمَخُور و الشَمَخُور: متکبر مرد۔ بلند

نظر۔ موٹا آدمی یا اونٹ۔

الشَمْدَر و الشَمْدَر و الشَمْدَار تیز

رفتاری۔

الشَمْدَارَةُ و الشَمِيدَر: چست لڑکا۔

شَمَر (ن ض) شَمْرًا: تیز چلنا۔ تکبر سے

چلنا النخل: کھجوریں کاٹنا۔

شَمَر تَشْمِيرًا: تیز گزرتا ہ: تیز چلانا۔

الشئ: سَمِينًا السَفِينَةُ او الصَفَر:

چھوڑنا۔

القوب عن ساقية: اٹھانا فی الأمر: چستی

کرنا لِأمر: ارادہ کرنا اور آمادہ ہونا۔

إلى المكان: قصد کرنا۔ شَمَرَت

الجرب و شَمَرَت عن ساقية: سخت

ہونا۔

أشَمَره: جلدی کرنا ہ بالسيف:

تَشَمَر و انشَمَر: تیز چلنا یا تکبر سے چلنا

الأمر: ارادہ کرنا اور آمادہ ہونا۔

الشمر: فإش۔ حق۔ صاحب بصیرت۔

پر کھنے والا۔ تجربہ کار۔

الشَمْرَةُ و الشَمَار: ایک قسم کا پورہ ہے

جس کے پھول زرد رنگ کے اور دانے سبز رنگ کے لمبے ہوتے ہیں۔ شَرٌّ (شجر) تخت بُرائی۔

الشَّمُورُ الماس۔ ہیرا۔
الشَّمِيرُ والشَّمِيرِيُّ والشَّمِيرِيُّ والشَّمِيرِيُّ۔
الشَّمِيرِيُّ۔ تجربہ کار۔ دانائے امور۔ محنت سے کام کرنے والا۔ مِنَ الْإِبِلِ تَبِيرٌ قَتَارٌ۔ نَاقَةٌ أَوْ الشَّاةُ (شَامِرٌ أَوْ شَامِرَةٌ)۔

اونٹنی یا بکری جن کے تھن پیٹ سے لگے ہونے ہوں۔ لُثَّةٌ شَامِرَةٌ۔ دانوں کی جڑوں سے لگا ہوا مسوڑھا۔ ج شوامر۔

المُشْمَرُ۔ فا۔ تجربہ کار۔ محنت سے کام کرنے والا۔

شَمْرَجٌ۔ الثَّوْبُ۔ دور دور مانگے لگا کر خراب سلائی کرنا فی الکلام: گڑبڑ کرنا۔ غلط ملط کرنا۔

الشَّمْرَاجُ۔ جھوٹ سے مخلوط گفتگو کرنا۔ ج شَمَارِجُ الشَّمَارِجِ۔ باطل باتیں۔

الشَّمْرَجُ۔ باریک بناوٹ کا کپڑا۔
ثَوْبٌ (مُشْمَرَجٌ) باریک بناوٹ کا کپڑا۔

شَمْرَخٌ۔ العِدْقُ۔ کھجور یا انکور کے پھول کو کانا۔

الشَّمْرُوخُ والشَّمْرَاحُ۔ کھجور یا انکور کا کچھ۔ الشَّمْرَاحُ: پہاڑ کی چوٹی۔ بادل کا بالائی حصہ۔ الشَّمْرُوخُ: باریک ٹہنی جو سخت شاخ کے اوپر کے حصے میں نکلے۔ ج شَمَارِجُ۔

الشَّمَارِقُ والشَّمَارِيقُ والشَّمْرُوقُ۔ مِنَ النَّيَابِ: کپڑا جو کڑے کڑے ہو گیا ہو۔

شَمَزَتْ (ن) شَمَزًا نَفْسُهُ مِنْهُ۔ کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔

تَشَمَزَ الوجْهُ: سَکَرًا۔

اشْمَازًا اشْمِزَازًا۔ خوفزدہ ہونا۔ کراہت کی وجہ سے بدن پر روٹنے کھڑے ہونا الشَّيْءُ: مکروہ جاننا منہ: تقبض ہونا اور کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔

شَمَسَ (ن) شَمُوسًا وَشَمَاسًا۔ باز رکھنا۔ انکار کرنا لہ: دشمنی ظاہر کرنا۔ بُرَائِي كَا

ارادہ کرنا الفرس: نہ چڑھنے دینا نہ زین لگانے دینا نہ ایک جگہ قرار لینا۔ صفت (شَمُوسٌ) ج شَمْسٌ وَ شَمْسٌ وَ (شَامِسٌ) ج شَوَامِسٌ۔

شَمَسَ (ن ض) شَمَسًا وَشَمِسَ (س) شَمَسًا وَأَسَمَسَ الْيَوْمَ: دھوپ والا ہونا۔ صفت (شَامِسٌ وَ مَشْمِسٌ) وَشَمِسَ لِي: عداوت ظاہر ہونا اور چھپانے پر قادر نہ ہونا۔

شَمَسَ الْكَافِرُ: آفتاب کی پرستش کرنا الشَّيْءُ: دھوپ میں پھیلا نا ۵: نفرت دلانا۔

فَلَانٌ شَامِسٌ: شامس ہونا (دیکھو لفظ شَامِسٌ) شَامِسَةٌ: دشمنی کرنا۔

تَشَمَسَ: دھوپ میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا عَلَيْنَا: بجل کرنا۔

الشَّمْسُ: س۔ آفتاب۔ تَغْيِيرُ شَمْسِيَّةٍ: ج شَمُوسٌ الشَّمْسُ: ایک قسم کی کنگھی۔ ایک قسم کا ہار۔ کہا جاتا ہے "بَسَطَ الشَّيْءُ فِي الشَّمْسِ" اس نے چیز کو دھوپ میں پھیلا دیا۔

"وَذَحَلَتْ الشَّمْسُ فِي الْبَيْتِ" دھوپ گھر میں داخل ہو گئی۔

الشَّمْسُ: سورج جس کے درجہ حرارت کی مقدار سطح ۶۰۰۰ اور اندر وہی ۹۰۰۰ ملین ڈگری کی گئی ہے۔ اس کا قطر زمین کے قطر سے ۱۰۹ گنا زیادہ ہے۔

الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمُوسُ: مِنَ الْآيَامِ: دھوپ والا دن۔

الشَّمُوسُ بہت سخت دشمنی کرنے والا۔ ج شَمْسٌ وَ شَمْسٌ۔

الشَّمَامِسُ فا۔ مِنَ الْآيَامِ: دھوپ والا دن۔ مِنَ النَّحِيلِ: گھوڑا جو نہ قرار پکڑے اور نہ سوار ہونے دے مِنَ الرِّجَالِ: وَشَوَارِخُ ج شَوَامِسُ۔

الشَّمْسِيَّةُ: عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: چھتری (دھوپ یا بارش سے بچنے کے لئے) اور اَضْحِيَّةٌ ہے کہ دھوپ سے بچانے والی کو طَلَّةٌ یا مُطَلَّةٌ کہا جائے اور بارش سے بچانے والی کو

عَالَةٌ۔

الشَّمْسُاسُ: قیس سے نیچے درجہ کا پادری۔ (کامیہ سر یا نیہ ہے اس کے معنی خادم کے ہیں)۔

الشَّمْسَمَسُ فا۔ سخت۔ مضبوط۔ بخیل۔ شَمَصَ (ن) شَمَصًا وَشَمَصَ الدَّوَابُّ: جانوروں کو تیز ہانکا۔ شَمَصَهُ بِالسَّوْطِ: کوڑے سے مارنا الرَّجُلُ: تکلیف پہنچانا۔ یہاں تک کہ غضبناک ہو جائے۔

شَمَصَهُ الشَّيْءُ: بے قرار کرنا۔ شَمِصَ (س) شَمِصًا جلدی جلدی ہونا۔

أَشْمَصَ وَأَشْمَصَ: خوفزدہ ہونا۔ تَشَمَّصَ: سَکَرًا۔

الشَّمَاصُ: نکل جانا۔ الشَّمَاصُ: جلدی۔

الشَّمُوصُ: مِنَ النَّحِيلِ: سرکش گھوڑا جو نہ سوار ہونے دے اور نہ زین کئے دے۔

شَمَطَ (ض) شَمَطًا الشَّيْءُ: لَمَّا الْإِنَاءُ: برتن کو بھرنا الشَّجَرُ: درخت کا جھڑے ہوئے پتوں والا ہونا۔

شَمَطَ (س) شَمَطًا وَاشْمَطَ اشْمِطًا وَاشْمَاطًا وَاشْمَاطًا اشْمِطًا: سر میں کچھڑی بالوں والا ہونا۔

صفت (أَشْمَطٌ) ج شَمَطٌ وَ شَمَطَانٌ: مؤنث شَمَطَاءُ ج شَمَطٌ۔

شَمَّطَهُ وَأَشْمَطَهُ: بِهِ: لَمَّا اشْمَطَ الرَّجُلُ: سر میں کچھڑی بالوں والا ہونا۔

الشَّمَاطُ: وہ دیک جس میں پوری بکری معہ مسالاکے آجائے۔

الشَّمَطُ وَالشَّمَطُ وَالشَّمَطُ: مسالاج شَمَطًا وَاشْمَاطًا۔

الشَّمِيطُ: مخلوط۔ صبح (چونکہ اس میں کچھ رات کی تاریکی ملی ہوئی ہوتی ہے)۔

الشَّمِطَاتُ: فِي الرِّاسِ: سر کے کچھ تھوڑے سفید بال۔

الشَّمُوطُ: عِنْدَ الْعَامَّةِ: چینا کا خوشہ۔ دھاگے کا پینا ہوا گولا۔

الشَّمَطَاط وَالشَّمَطُوط وَالشَّمِيطُ.
گروہ۔ گد۔ ج شَمَاطِيطُ: کہا جاتا ہے
”جَاءُوا شَمَاطِيطُ: لوگ متفرق آئے۔
فَوْتُبْ شِمَطَاطُ: پھٹا ہوا کپڑا۔
الشَّمَطُوطُ: لہا۔

شَمَطَةُ (ض ن) شَمَطَا: منع کرنا۔ کچھ
نزی اور کچھ سختی سے گفتگو کرنا۔ براہِ حقیت کرنا اور
معمولی حرکت دینا الشَّيْءُ: ملانا۔ تھوڑا تھوڑا
لینا۔

شَمَعُ (ف) شَمَعًا وَشَمُوعًا وَمَشَمَعًا
کھیل کود کرنا۔ مزاح کرنا۔ صفت (شَمُوعُ)
کہا جاتا ہے ”أَشَامِعُ أَنْتَ أَمْ جَاءُ؟“ تم مذاق
کر رہے ہو یا واقعی بات کہہ رہے ہو۔
(شَمُوعًا) الشَّيْءُ: متفرق ہونا۔

شَمَعُ الشَّيْءُ: پھلے ہوئے موم میں غوطہ
دینا یا اوپر سے ڈالنا الرَّجُلُ: کھیل کود یا مزاح
پر آسنا۔

أَشَمَعُ السِّرَاجُ: روشنی پھیلانا۔

الشَّمْعُ وَالشَّمْعُ موم بنی۔ واحد (شَمْعَةٌ)
وشَمْعَةٌ ج شَمَعَاتُ و (الشَّمَاعُ)
موم بنی بنانے والا یا بیچنے والا۔ و (المَشَمَعَةُ)
موم بنی کا کارخانہ یا کیکے کی جگہ۔

الشَّمَاعُ وَالشَّمَاعَةُ: خوش طبعی۔ ہنس۔
مذاق۔

الشَّمُوعُ: مِنَ النِّسَاءِ: ہنسی مذاق کھیل کود
والی عورت۔

الشَّمْعَدَانُ: چرائے دان۔ ج شَمَاعِدُ و
شَمْعَدَانَاتُ دان فارسی کا کلمہ ہے۔ شَمْعَدَانُ
کے مقابل عربی میں مَائِلَةٌ ہے۔ مَسَلٌ
(مَشْمُوعٌ) عَظْمٌ مَلَاہِو مَسَلٌ۔

أَشَمَعَطُ أَشَمِعَطَاطًا شَمْعَةً سے بھر جانا۔
الْقَوْمُ فِي الطَّلَبِ: کسی چیز کو ڈھونڈنے
میں جلدی کرنا اور پھیل جانا الْإِبِلُ وَالْخَيْلُ:
اونٹوں اور گھوڑوں کا متفرق ہونا۔

شَمَعَلٌ وَتَشَمَعَلٌ وَالْأَشَمَعَلُ الْقَوْمُ:
متفرق ہونا۔ پھیلنا۔ شَمَعَلٌ
الْحَرْبُ: لڑائی کا بجز کرنا الْغَارَةُ: ہرجاب

سے غارت واقع ہونا الْإِبِلُ: اونٹوں کا خوشی
میں ہو کر ادھر ادھر متفرق ہونا۔ أَشَمَعَلُ
الرَّجُلُ: اوپر سے جھانکنا۔ بغیر ہنسی مذاق کے
گزر جانا۔

شَمِقٌ (س) شَمَقًا: جنون کی حد تک خوش
ہونا۔

تَشَمَّقُ: شادماں ہونا۔

الشَّمَاقَةُ: جنون۔ شادمانی۔ چستی۔ الشَّمِيقُ
وَالشَّمِيقُ: لہا۔ شادمان۔

شَمَلْتُ (ن) شَمُولًا الرَّيْحُ: بادِ شمالی
چلنا (شَمَلًا) الشَّيْءُ: بادِ شمالی کے سامنے کرنا
یہ: بائیں جانب لینا النَّخْلَةُ: تیار کھجوروں کو
چن لینا۔

شَمَلْتُ (ن ض) شَمَلًا: الشَّاةُ: بکری کے
تھن پر تھیلا چڑھانا۔

شَمَلَةٌ (س) شَمَلًا وَشَمُولًا: چادر میں
پہینا۔

شَمَلْتُ (س) شَمَلًا وَشَمَلًا وَشَمَلًا
الْقَوْمُ: بادِ شمالی لگانا۔

شَمَلْتُ (ن) وَشَمَلْتُ (س) شَمَلًا وَشَمَلًا
وَشَمُولًا: الْأَمْرُ الْقَوْمُ: عام ہونا۔ شامل
ہونا۔ کہا جاتا ہے ”شَمَلْتُ الْقَوْمَ خَيْرًا“ او
”شَرًّا“ اس کی بھلائی یا بُرائی ساری قوم کو عام
ہو گئی۔

شَمَلَةٌ تَشَمِيلًا: چھوٹی چادر میں لپیٹنا۔
شَمَلْتُ الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ بائیں ہاتھ سے
پکڑنا۔

أَشَمَلْتُ الْقَوْمُ: بادِ شمالی میں داخل ہونا۔
الرَّيْحُ: بادِ شمالی چلنا الشَّاةُ: بکری کے تھن
کیلے تھیلا بنانا الْقَوْمُ خَيْرًا“ او شَرًّا: خیر یا شر
کو سب کے لیے عام کرنا الرَّجُلُ: بڑی چادر
والا ہونا۔ أَشَمَلَةٌ: بڑی چادر دینا النَّخْلَةُ:
پختہ کھجوروں کو چن لینا۔

تَشَمَلْتُ بِالشَّمَلَةِ: چادر میں لپیٹنا۔

أَشَمَلْتُ: جلدی کرنا فِي الْحَاجَةِ: آراہ
ہونا آراہ کرنا بِالْقَوْبِ: سارے جسم پر لپیٹنا۔
الْأَمْرُ عَلَيْهِ: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔ عَلِيٌّ

فَلَانُ: بچانا۔

أَشَمَلْتُ جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَشَمَلْتُ
فِي حَاجَتِهِ“ اس نے اپنی حاجت میں جلدی
کی۔

الشَّمَلُ: س۔ بادِ شمالی۔ امر مجتمع۔ امر متفرق
(ضد) کہا جاتا ہے ”جَمَعَ اللَّهُ شَمَلَهُمْ“ اللہ
ان کے امور متفرق کو جمع کر دے۔ و ”فَرَّقَ
اللَّهُ شَمَلَهُمْ“ اللہ ان کے اجتماع کو توڑ دے
(وَالشَّمَلُ) کھجوروں کا گچھا اور بقول بعض کم
دانوں والا گچھا۔

الشَّمَلُ: س۔ بادِ شمالی۔ پناہ۔ تھوڑی بارش۔
تھوڑی تعداد کھجور، آدمی وغیرہ کی۔ کہا جاتا ہے
”أَصَابَنَا شَمَلٌ مِنَ الْمَطَرِ“ ہم لوگوں پر
تھوڑی بارش ہوئی۔ و ”مَّا عَلَيَّ النَّخْلَةَ
إِلَّا شَمَلٌ“ کھجور کے درخت پر تھوڑی سی
کھجوریں ہیں۔ ج أَشَمَلُ

الشَّمَلَةُ: جسم کو ڈھانکنے والی چادر۔ ج
شَمَلَاتُ أُمَّ شَمَلَةَ: دُنيا۔ شراب۔
آفتاب۔

الشَّمَلَةُ: لپٹنے کی بیت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ
حَسَنُ الشَّمَلَةِ“

الشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ
وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ
وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ: بادِ شمالی۔ کہا جاتا ہے
”هَبَّتِ الشَّمَالُ“ او رِيحُ شَمَالٍ“ بادِ شمالی
حلی۔ ج شَمَالَاتُ: الشَّمَالُ: بکری کے
تھن کا غلاف۔ وَالشَّمَالُ: ج أَشَمَلُ
وَشَمَلٌ وَشَمَالٌ (بِلِظِّ الْوَاحِدِ) وَشَمَالٌ:
بایاں۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ عِنْدِي
بِالشَّمَالِ“ فلان میرے نزدیک کم رتبہ والا
ہے۔ و ”هُوَ عِنْدِي بِالْيَمِينِ“ وہ میرے
نزدیک اچھے رتبہ پر ہے۔ الشَّمَالُ: اُتر۔
بد بختی۔ بکری کے تھن کا داغ۔ کھیتی کا ایک
مٹھاجس کو ہاتھ میں پکڑ کر کانٹے والا کانٹے۔
طَبْرٌ شَمَالٌ: وہ پرندہ جس سے بد شگونگی کی
جائے۔ نَاقَةٌ شَمَالٌ: تیز رفتار اونٹنی۔
الشَّمَالُ: ج شَمَالَاتُ: سیرت۔ عادت۔

الشوانی. شوانیہ کی جمع۔ شوانیہ A
 المال: ایسے اموال جن کیلئے نکل نہ کیا
 جائے۔
 الشنان. بغض رکھنے والا۔ مؤنث شنانة
 وشنانی. رَجُلٌ (شنانیة) بغض رکھنے والا
 مرد۔
 المشنان. وہ شخص جس سے لوگ بغض
 رکھیں۔ ایسے امور کا ارتکاب کرنے والا جن کی
 وجہ سے لوگ دشمنی کریں۔
 المشنأ. قبیح (واحد جمع مذکر مؤنث سب کے
 لئے ہے) لوگوں سے دشمنی کرنے والا۔
 شنب (س) شنباً. اليوم: ٹھنڈا ہونا۔
 صفت (شاب و شنب) اور اسم (الشنبة)
 الرجل: سفید خوبصورت دانتوں والا ہونا۔
 صفت (اشنب و شانب و شیب و شیب
 و منشب)
 المشابب. خوشبودار منہ۔
 الشنیاء. سفید خوبصورت دانتوں والی
 عورت۔ انار کی ایک قسم جس میں گھٹلی نہیں
 ہوتی صرف رس ہی رس ہوتا ہے۔
 شنبت. الهوى قلبه: محبت کا دل میں
 جاگزیں ہونا۔
 الشنبت والشباب. شیر۔ سخت۔
 الشنتة. قائل۔
 شنتر. ثوبه کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 الشنترة. انگلی۔ دو انگلیوں کے درمیان کا
 حصہ۔ شنتارتو کہتے ہیں "لا ضمنک ضم
 الشنارتو" یعنی میں تجھ کو انگلیوں کی طرح
 ملاؤں گا۔
 شنج (س) شنجاً وانشج وانشج
 وانشج. الجلد: کھال کا گرمی یا سردی سے
 سکڑنا۔ بھری ڈار ہونا۔ جلد کی صفت (شنج)
 اور صاحب جلد کی صفت (شنج وانشج)
 شنجہ. کسیرنا۔
 الشنج. س۔ اونٹ۔
 شنج علیہ. بُرا بھلا کہنا۔
 الشناح والشناجی والشناجی

الشما. موم۔
 شَن (ن) شناً الماء علی الشراب:
 متفرق چھیننا دینا۔ (واشَن) الغارة علیہم:
 چاروں طرف سے لوٹ ڈالنا۔
 شنت (ض) و شنت و شنت. القرنة:
 منگ پرانی اور خشک ہونا۔
 تَشَن و تَشَان الجلد: کھال خشک ہونا۔
 سکڑنا جلد الإنسان. بڑھاپے کے وقت
 بھری والا ہونا (واشَن) السقاء: منگ
 پرانی ہونا۔ تَشَان الشیان: باہم ملنا۔
 اسْتَشَن. ذُلبا ہونا الی اللبن: دودھ کا
 خواہش مند ہونا۔ اسْتَشَنت القرنة: منگ
 پرانی ہونا۔
 الشن. س۔ جنسان و انسان و (الشنة)
 چھوٹی پرانی منگ۔ قوس شنة: پرانی کان۔
 کہا جاتا ہے "قرنة انسان" پرانی منگ۔ ہر
 جزء کو منگ قرار دے کر انسان جمع لاتے
 ہیں۔
 الشنون. مونا۔ دبا (ضد) بھوکا۔
 الشنین. دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو۔
 الشنان. ٹھنڈی پانی۔ پانی برسانے والا۔ بادل۔
 ماء شنان: متفرق پانی۔
 الشنانة. منگ یا درخت سے چپکنے والا پانی۔
 الأشنان. ایک قسم کی گھاس جو ہاتھ دھونے
 کے کام آتی ہے۔
 شناً (ف) وشنی (س) شناً وشنأ
 وشنأة وشنأ وشنأ وشنأ وشنأ وشنأ
 وشنأة. الرجا: بغض رکھنا۔ دشمنی کرنا۔
 نفرت کرنا۔ صفت فاعلی (شانی) ج شناً.
 مؤنث شانئة. ج شوانی و صفت مفعول
 (مشنوء)
 شنی (س) شنة. الشی: نکالنا حقہ و
 بحقہ. اقرار کر کے دینا۔
 شنی. جمیل ہوتے ہوئے کمزور ہونا۔
 تَشَان القوم: ایک دوسرے سے بغض
 رکھنا۔
 الشناة. بغض۔ دشمنی۔

طبعیت۔ کہا جاتا ہے "لَيسَ مِنْ شِمَالِي أَنْ
 أَعْمَلَ بِشِمَالِي" میری عادت نہیں کہ
 بائیں ہاتھ سے کام کروں۔
 الشميلة. طبعیت۔ ج شمائل.
 الشميل. چادر سے لپٹا ہوا۔
 الشمول. شراب یا ٹھنڈی شراب۔
 الشميل. تھوڑی بھجوروں کا گچھا۔ ناقہ
 شميلة: تیز رفتار اونٹنی۔
 الشيمال. بائیں۔
 الشنالة. شکاری کے لیے شکار سے چھپنے کی
 جگہ۔ ج شمائل.
 المشمل. چھوٹی تلوار۔ خنجر پر بھی اطلاق
 ہوتا ہے۔ (والمشملة والمشمال) جسم
 کو ڈھانکنے والی بڑی چادر۔ لحاف۔
 المشمول. س۔ جس پر یا شمالی چلی ہو۔
 پسندیدہ اخلاق والا۔
 المشمولة. شراب اور بقول بعض ٹھنڈی
 شراب۔ ليلة مشمولة: ٹھنڈی رات۔
 اطلاق۔ مشمولة: بُرے اخلاق۔
 شملل. الرجل: جلدی کرنا النخلة: پختہ
 بھجوروں کو چن لینا۔ جمَل او ناقة
 (شمال و شمیل) تیز رفتار اونٹ یا
 اونٹنی۔ والشمال: بائیں۔
 الشمول. بھجوروں یا بارش کی تھوڑی
 مقدار یا آدمیوں کی تھوڑی تعداد۔ ج
 شمائل. الشمائل: شاخ کے سر پر
 متفرق ٹہنیاں۔ کہا جاتا ہے "مما علی النخلة
 الا شمائل" درخت خرما پر تھوڑی سی
 بھجوریں ہیں۔ "ذہبوا شمائل" وہ متفرق
 ہو کر چلے گئے۔ "توب شمائل" پشٹا پرانا
 کپڑا۔
 شمهذ. السگین: تیز کرنا۔ الحدید:
 پتلا کرنا۔
 الشمهذ. تیز چیز۔ ہلکا ہلکا۔ تیز دانوں والا
 کتا۔
 شَمَا يَشْمُو شُمُوا. الرجل: بلند شان
 والا ہونا۔

والشَّنَاحِيَةِ. مَوْتًا اور لَمَّا اَوْتًا. مَوْتًا شَّنَاحِيَةً.

شَتَّحَ النَّخْلَ: دَرَحْتَ خَرَمًا سے کاٹنے دور کرنا۔

الشَّنَاخُ: پہاڑ کی نوک۔

الشَّنَحَابُ وَالشَّنْحُوْبُ وَالشَّنْحُوْبَةُ:

پہاڑ کی چوٹی۔ ج شَّنَاخِيْبُ الشَّنْحُوْبُ:

نکدے کے اوپر کا حصہ۔ ریزہ کی ہڈی۔

الشَّنْدُخُ: گھٹے بدن کا مضبوط لہبہ۔ شِرٌّ۔

سفر سے واپسی یا عمارت کی تیاری کی دعوت۔

شَنَرٌ عَلَيْهِ: عَيْب لگانا۔ رَسُوَاكِرًا۔

الشَّنَارُ: عَارِبٌ بَدْرِيْنٌ عَيْبٌ۔

الشَّنِيْرُ وَالشَّنِيْرَةُ: بَدْعُلُقٌ۔ بَرَا شِرِيْرٌ۔ بَرَا

عَيْبِيْ۔

شَنَرٌ الشُّوْبِيْرُ وَالشَّنِيْرِيْرُ: كَلُوْبِيٌّ۔

شَنَّصٌ (ن) شَنَّصٌ (س) شَنَّصًا: بِهِ:

چٹنا۔ فَرَسٌ شَنَّصٌ وَشَنَّاصِيٌّ

وَشَنَّاصِيٌّ وَشَنَّاصِيَّةٌ) عَمْرٌ مَضْبُوْبٌ لِبَا

گھوڑا۔

الشَّنَطُ: پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔

المَشَّنَطُ: بَمَّا هُوَا گوشت۔ شَوَاءٌ

مَشَّنَطٌ اَجْمَعِيٌّ طَرَحٌ سے نہ بھنا ہوا۔

شَنَطٌ: شَنَاطٌ. الْجَبَلُ: پھاڑ کی چوٹی۔ کہا

جاتا ہے "اِمْرَاَةٌ ذَاتُ شَنَاطٍ" گھٹے بدن والی

پر گوشت عورت۔

الشَّنَطْبُ: لِمَا وَخَرِبُ صَوْرَتٍ۔

شَنَطِرٌ: يَهْمُ گالی دینا۔ فُشَّ بَكَتًا۔

الشَّنَطِيْرُ وَالشَّنَطِيْرَةُ وَالشَّنَطُوْرَةُ:

بَدْعُلُقٌ۔ چٹان جو پہاڑ سے پھٹ کر گرے۔

شَبْنَطِيْرَةُ كِي جَمْعُ شَنَاطِيْرٍ شَنَاطِيْرٍ

الْجَبَلِ: پھاڑ کے اطراف۔ ہر چیز کی شان۔

شَنَطِيٌّ: بِهِ بَرَا مَلَا سَنَاتًا۔

شَنَطُوْرَةُ: الْجَبَلِ: پھاڑ کی چوٹی۔ پھاڑ کا

کنارہ۔ ج شَنَاطٌ۔

شَنَّعَةٌ (ف) شَنَّعًا: قَتِيْحٌ سَهْمًا گالی دینا۔

رَسُوَاكِرًا۔

شَنَّعٌ (س) شَنَّعًا: بِهِ قَتِيْحٌ سَهْمًا کہا جاتا

ہے "رَأَى اَمْرًا شَنَّعًا بِهِ" اس نے ایسا معاملہ دیکھا جس کو قتیح سمجھا۔

شَنَّعٌ (ك) شَنَّاعَةٌ وَشَنَّعًا وَشَنَّعًا

وَشَنَّوعًا: قَتِيْحٌ هُوَا۔ مَفْتٌ (شَنَّعٌ ج شَنَّعٌ

و (شَنَّعٌ وَاشَنَّعٌ)

شَنَّعٌ: الرَّجُلُ: بَهْتٌ بَرَا مَلَا كَهْنَا عَلَيْهِ

الْاَمْرُ: قَتِيْحٌ قَرَارٌ دِيْنَا الرَّجُلُ: اَمَادَةٌ وَتِيَارٌ

هُوَا۔ (وَاشَنَّعٌ) الْبَعِيْرُ: دَوْرُنِيٌّ مِيْن

كُوَشَشٍ كَرِيْمٌ۔

تَشَنَّعٌ: دَوْرُنِيٌّ مِيْن كُوَشَشٍ كَرِيْمًا۔ لِلْاَمْرِ:

تِيَارٌ هُوَا السَّلَاخُ: تَهْيِيْرٌ يَبِيْنُنَا الْعَاوِرَةَ لَوْتُ

ذَالِنَا الْقَوْمِ: اِخْتِلَافٌ رَاَيْهِ كِي وَجْهٌ سَخِيْبٌ

حَالَتٌ وَاَلِيٌّ هُوَا الرَّجُلُ: بَرَا كَامٌ كَارِاِدُهُ كَرِنَا

الْفَرَسُ: گھوڑے پر سوار ہونا۔ چڑھنا

الْفُوْبُ: كِيْرِيٌّ كَابُوَسِيْدَةٍ هُوَا۔

اِسْتَشَنَّعَهُ: قَتِيْحٌ سَهْمًا كَرُوهُ سَهْمًا۔

الشَّنَعَةُ وَالشَّنَاعَةُ وَالشَّنُوْعُ: قِتَابَتٌ۔

المَشَنَّعُ: قَتِيْحٌ۔ بے حقیقت خبروں کا

پھیلائے والا۔

المَشَّنُوْعُ: بَسْرِيٌّ رِيْاَلِيٌّ مِيْن مَشْهُوْرٍ۔

الشَّنَعَابُ: لَبَةٌ قَدْرٌ وَقَامَتٌ كَامِرَةٌ۔

الشَّنَعُوْفُ وَالشَّنَعَابُ: پھاڑ کی چوٹی۔ بلند

پہاڑ۔ لِمَا كَرُوْرٌ رَمَدٌ۔

الشَّنَعْفَةُ: لِمَا بِيْئِيٌّ۔

شَنَّفٌ (ن ض) شَنَّفًا: اِلَيْهِ: تَعَجُّبٌ يَا

اِعْتِرَاضٌ كِي نَظَرٌ سِ دَكِيْحًا۔

شَنَّفٌ (س) شَنَّفًا: فَاِنَّا وَاوْرُ لِفَلَانٍ:

بَعْضٌ رَكْحًا لَهْ: سَجَّحَ جَانًا بِهِ تَارًا جَانًا۔

شَنَّفٌ: الْكَلَامُ: مَزِيْنٌ كَرِنَا اِلَيْهِ: كَتَمَ كَيْفِيٌّ

دَكِيْحًا (وَاشَنَّفٌ) الْجَارِيَةُ: لَوَاكِيٌّ كِيْلِيٌّ اِيْرَ

رَكْبٌ بَنَانًا۔ بَالِيٌّ بَنَانًا۔

تَشَنَّفْتُ: الْجَارِيَةُ: لَوَاكِيٌّ كَارِيْرٌ رَكْبٌ يَبِيْنُنَا۔

بَالِيٌّ يَبِيْنُنَا۔

الشَّنَائِفُ: فَا اِعْرَاضٌ كَرِنَا وَالا۔ کہا جاتا

ہے "اِنَّهٗ لَشَائِفٌ عَنَّا بَانِهٌ" وہ اپنے آپ کو

ہم سے برتر سمجھتا ہے۔

الشَّنْفُ: س۔ بَالِيٌّ اِيْرَ رَكْبٌ۔ ج شُنُوْفٌ

وَاشْنَاَفٌ

الشَّنْفُ: بَعْضٌ رَكْحَةٌ وَالا۔

شَنَّقٌ (ن ض) شَنَّقًا: الْبَعِيْرُ: سَوَارٌ هُوَا

كِي حَالَتٌ مِيْن لِكَامٍ كَيْفِيْحِيْنَا الْقَرِيْبَةَ: مَكْبٌ كُو

سَرَبَنْدٌ بَانِدُهُ كَرُوْدُوْنٌ بِاَتَقُوْنٌ سِرَبَنْدٌ كُو

كِيْلَانَا رَاسُ الدَّابَّةِ: دَرَحْتُ يَاوْرُجِيٌّ كَهُوْنِيٌّ

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو سِرَبَنْدٌ كُو

الشقیق پھانسی دیا ہوا۔ وہ لکڑی جس پر تھوڑا سا شہد لگا کر چھتے میں رکھ دیتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا۔

الشقیق۔ خود پسند۔ الشقیقۃ: عشق باز عورت۔

المُشکلُج شناکلُج زواہر یا گھڑی کا دست بند کرنے اور کھولنے کے لئے۔ کپڑے لگانے کے لئے کیل۔

المُشناق ہر چیز کی طرف نظر ڈالنے والا۔ شمنون (شمناء) الجلد: خراش لگانا۔ ماء (شیم) ٹھنڈا پانی۔

الشَّمم کئے ہوئے کان والے۔

الشَّمم چنگاری جو اڑے۔ کہا جاتا ہے "فلان یتطایر شَممًا" فلاں سے غصہ کی وجہ سے چنگاری اڑ رہی ہے۔

شہیق او شہیق: الحماز: گدھے کا ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا۔ یہ کلمہ عوام کے نزدیک ہے۔ فصیح لفظ نہیق یا شہیق ہے۔

الشانیۃ: بڑا جنگی جہاز۔ ج شوان (مفرد کا استعمال نادر ہے)۔

شہب (س) و شہب (ک) شہب: سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ والا ہونا۔ صفت (شاہب و اشہب) عام اشہب: خشک

سال۔ یوم اشہب: ٹھنڈی ہوا اور پالے کا دن۔ جیش اشہب: قوی و مضبوط لشکر۔ ج شہب۔

شہب (شہب) شہبا و شہبہ: الحوگرگی کا جھلس دینا۔ اشہب: العام القوم: قوم کے اموال کو تباہ کر دینا۔

اشہب و اشہاب و اشہب: سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ والا ہونا۔ الزرع: خشک زرد ہونا اور کچھ بڑی باقی رہنا۔

الشہب: س۔ برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔ الشہب و الشہبۃ: سفیدی جس میں کچھ کچھ سیاہی ملی ہوئی ہو۔

الشہاب: آگ کی چمک۔ ٹوٹا ہوا تارہ۔

تارہ۔ نیزہ کا پھل۔ ج شہب و شہبان و شہبان و اشہب: کہا جاتا ہے "فلان شہاب حرب" جبکہ جنگ میں کود پڑنے والا ہو۔

الاشہب شیر۔ دشوار کام۔ الشہباء اشہب کا مؤنث۔ شہر حلب کا لقب من الکتاب بہت ہتھیاروں والا بڑا لشکر۔ سَنۃ شہباء: بغیر بارش اور بڑی کے خشک سال یا بہت برف والا سال۔

الشہاب و اشہابۃ: دودھ جس میں دو تہائی پانی ملا ہو۔ الأشاہب: مندر نخعی کی اولاد۔

الشاہرج و الشہتر شہتر۔ شہد (س) شہودا: المجلس: حاضر ہونا الشی معانہ کرنا۔ اطلاع پانا الجمعۃ: پانا علی کذا: گواہی دینا۔ صفت (شاهد) ج شہود و شہد۔

شہد (س) و شہد (ک) شہادۃ: عند الحاکم لفلان او علی فلان: گواہی دینا۔ صفت (شاهد) ج شہود و شہد۔

شہادۃ: عند اللہ: جاننا یا قبول فرمانا۔ شہد بکذا: قسم کھانا۔ شہادۃ مشاہدۃ معانہ کرنا۔

أشہدۃ: حاضر کرنا۔ أشہد فلاناً علی کذا: گواہی دینے کو کہنا۔ استشهدہ: گواہی دینے کو کہنا۔

استشهدہ: گواہی کے معاملہ کو مرد دینا۔ أشہد و استشهد: اللہ کے راستے میں قتل ہونا۔

تشهد: گواہی طلب کرنا المسلم: التحیات پڑھنا۔

الشہد و الشہد: شہد جو موم سے جدا نہ کیا گیا ہو۔ ج شہادا اور (الشہدۃ و الشہدۃ) اس سے خاص ہے۔

الشہادۃ: س۔ یقینی خبر۔ گواہی۔ قسم۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونا۔ عالم ظاہر جو عالم غیب کے مقابل ہے۔

الشہادۃ: فاریبان۔ اور اسی سے قول ہے "مائلۃ زواہ و لا شہادۃ" یعنی اس کے لیے نہ تو حسن منظر ہی ہے نہ زبان۔ توام۔ ستارہ۔

صلوۃ الشہادۃ: مغرب کی نماز۔ وہ عبارت جو کسی قاعدہ نحو وغیرہ کے ثابت کرنے کے لیے نقل کی جائے۔ الشہادۃ من الامور: جلدی۔

الشہادۃ: الشہادۃ کا مؤنث۔ زمین۔ ج شہادات و شواہد۔

الشہید و الشہید: حاضر۔ گواہی میں امانت دار۔ وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں مقتول۔ ام (الشہادۃ) ج شہادا مؤنث شہیدۃ۔

المشہد: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی جگہ۔ ج مشاہد۔

المشہدۃ و المشہدۃ: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

المشہد: اللہ کے راستے میں مقتول۔ المشہد: فاء امرأۃ مشہدۃ: وہ عورت جس کا شوہر موجود ہو اور اس کا مقابل "امراۃ مفعیۃ" ہے۔ یعنی وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو۔

المشہود: من۔ جمع کا دن۔ قیامت کا دن۔ عرفہ کا دن۔

شہدر: شہدرۃ: الغلام او النجاریۃ: لڑکے یا لڑکی کا تین اور چھ سال کے درمیان حرکت کرنا۔

الشہدر: دولت مند۔ مؤنث شہدرۃ۔ الشہدارۃ: بد زبان۔ فساد انگیز۔ گھٹے بدن کا پتہ قد۔

شہرۃ (ف) شہرا و شہرہ: بکذا: مشہور کرنا۔ شہر و شہر السیف: تلوار کو سونت کر بلند کرنا۔ و شہر فلاناً: رسوا کرنا۔

الشہر: ایک مہینہ کسی حال میں ہونا۔ کہا جاتا ہے "اشہرنا فی هذا المكان" ہم نے

اس جگہ ایک مہینہ قیام کیا۔ اَشْهَرَاتُ الْمَرْأَةِ: ولادت کے مہینے میں داخل ہونا الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ مشہور کرنا۔ شَاهِرَةٌ شَهَارًا و مُشَاهَرَةٌ: ماہواری پر معاملہ کرنا۔

اَشْتَهَرَ: الْأَمْرُ: مشہور ہونا الْأَمْرُ: مشہور کرنا یا الْفَضْلُ: فضیلت میں مشہور ہونا۔

الشُّهُورُ: ماہ۔ شخصی سال کے کل ماہ بمع ایام درج ذیل: کانون الثانی (۳۱ دن)۔ شباط (۲۸ دن)۔ لیپ سال میں (۲۹ دن) اذار (۳۱ دن) نیسان (۳۰ دن) ایار (۳۱ دن) حزیران (۳۰ دن) تموز (۳۱ دن) آب (۳۱ دن) ایول (۳۰ دن) نثرین الاول (۳۱ دن) نثرین الثانی (۳۰ دن) کانون الاول (۳۱)

یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ قمری سال کے ماہ بمع تعداد ایام (اندازاً) محرم (۳۰ دن) صفر (۳۹ دن) ربیع الاول (۳۰ دن) ربیع الثانی (۲۹ دن) جمادی الاول (۳۰ دن) جمادی الاخرہ (۲۹ دن) رجب (۳۰ دن) شعبان (۲۹ دن) رمضان (۳۰ دن) شوال (۲۹ دن) ذوالقعدہ (۳۰ دن) ذوالحجہ (۲۹ دن) عربوں کے نزدیک حرمت والے چار ماہ ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔

الشُّهُورُ: س۔ دانہ۔ نیا چاند۔ چاند۔ مہینہ۔ س۔ اَشْهَرُ و شُهُورُ: شہرت۔ بُرَائِي میں مشہوری۔ رسوائی۔

الشُّهُورُ: مشہور۔ نامور۔ مؤنث شَهِيْرَةٌ: الْمُشْهُورُ: س۔ شہرت یافتہ۔ مؤنث مَشْهُورَةٌ: الشُّهُورُ: بڑی عمرو والا۔ مؤنث شَهْرِيَّةٌ: درخت خرما کے نیچے کا چھوٹا حوض۔

شَهَقَ (ف ض) و شَهَقَ (س) شَهِيْقًا و تَشَهَّقًا: الْحِمَارُ: گدھے کا رینگنا رونے میں سسکی لینا۔ (شَهْوَقًا) الْجَبَلُ

و غَيْرُهُ: پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا۔ صفت (شَاهِقٌ) اور تم کہتے ہو "شَهَقْتُ عَيْنِي عَلَيْهِ" جبکہ تم کو کوئی چیز پسند آئے اور تم اس پر نظر جمادو۔

تَشَهَّقَ عَلَيْهِ: نظر جمادینا۔ الشَّهْقَةُ: اسم مرءة۔ س۔

الشَّاهِقُ: ف۔ ذو شاقق: زیادہ غضبناک۔ الشَّهَائِقُ: س۔ کہا جاتا ہے "صَحْكُ تَشَهَائِقٍ" زور کی ہنسی۔ وصف بالمصدر کی بنا پر۔

شَهْلٌ (س) شَهْلًا و اشْهَلُ اشْهَلًا: آنکھ میں سیاهی مائل برخی ہونا۔ صفت (أَشْهَلٌ) مؤنث شَهْلَاءُ: س۔ شَهْلٌ: آنکھ کی صفت بھی شَهْلَاءُ: واقع ہوئی ہے۔

شَاهِلَةٌ مُشَاهِلَةٌ: گالی گلوچ کرنا۔ تَشَهَّلَ: بے رونق چہرہ والا ہونا۔ الشَّهْلُ و الشَّهْلَةُ: آنکھ کی سیاهی مائل برخی۔

الشَّهْلَاءُ: حاجت۔ کہا جاتا ہے "قَضَيْتُ مِنْ فَلَانٍ شَهْلَانِي" فلاں میں سے میں نے اپنی حاجت پوری کی۔

الشَّهْنَةُ: بڑھیا۔ شَهْمٌ (ف ن) شَهْمًا و شَهْمًا: الْفَرَسُ: ذَاتَا الرَّجْلِ: گھبرا دینا۔ خوفزدہ کرنا۔

شَهْمٌ (ك) شَهَامَةٌ و شَهْمَةٌ: تیز فہم ہونا۔ ذکی ہونا۔

الشَّهْمُ: تیز خاطر۔ ذکی۔ سردار جس کا حکم جاری ہو۔ س۔ چالاک گھوڑا۔ س۔ شَهْمٌ: تیزی۔ س۔ شَهْمٌ: غول بیابانی۔

الشَّهَامُ: بڑھیا۔ الشَّهْمَةُ: تیز خاطر۔ ذکی۔ خوفزدہ۔ الشَّهْمُومُ: ایک شکاری پرندہ۔ س۔ شَوَاهِيْنُ و شَيَاهِيْنُ: ترازو کا عمود۔

شَهَا يَشْهُوُ و شَهِي يَشْهِي شَهْوَةً و اَشْتَهِي الشَّيْ: خواہش کرنا۔ رغبت شدید

کرنا۔

شُهُورٌ يَشْهُوُ الطَّعَامُ: لذیذ ہونا۔ شَهِي الرَّجُلُ: خواہش کرنے پر آسانا عَلَيْهِ كَذَا: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشَّيْ يَشْهِي الطَّعَامَ" یہ چیز کھانے کی خواہش بڑھاتی ہے۔

شَاهَاهُ: مشابہ ہونا۔ اَشْهَاهُ: خواہش کے مطابق دینا۔ نظر بردگانا۔ تَشْهِي الشَّيْ: خواہش کرنا عَلَيْهِ كَذَا: بار بار خواہش کرنا۔

الشَّهْوَةُ: س۔ خواہش۔ س۔ شَهْوَاتٌ و شَهِي: الشَّهَاءُ: بہت خواہش کرنے والا۔

الشَّهِي: خواہش مند (والمشهي) مرغوب۔ کہا جاتا ہے "شئ شهي" لذیذ چیز۔

الشَّهْوَانُ: مؤنث شَهْوَى: س۔ شہاوی و (الشَّهْوَانِي) خواہش مند۔ الشَّاهِيَةُ: خواہش۔

شَهَابٌ يَشُوْبُ شَوْبًا و شَيَابًا: الشَّيْ: مَلَانَا الرَّجُلُ: خیانت کرنا۔ دھوکا دینا (و شَوْبٌ تَشْوِيْعًا عَنْهُ: آہستگی سے ہٹانا۔

اَشْتَابَ اَشْتِيَابًا و اَشْتَابَ اَشْتِيَابًا: مَلَانُ الشَّوْبِ: س۔ وہ چیز جو دوسرے سے ملائی جائے۔ گندھے ہوئے آئے کا بیڑا۔ شہد۔

الشَّوْبَةُ: اسم مرءة۔ دھوکا۔ الشَّابِيَةُ الشَّابُ: کا مؤنث۔ اور شَوَابٌ: کا واحد۔ بمعنی عیوب۔

الشَّيَابُ: س۔ ملاوت۔ لَيْلَةُ (الشَّيَاءِ) مہینے کی آخری رات۔

المَشْوَبُ و المَشِيْبُ: ملا ہوا۔ المَشَاوِبُ: بولٹ کا غلاف۔ س۔ مَشَاوِبُ: شَوْحُ الشَّيْ: انکار کرنا۔ نہ پہچانا۔

الشَّوْحَةُ: پھیل۔ ایک درخت جس کی شاخیں مخروطی شکل کی ہوتی ہیں۔ اور یہ (الشَّوْحُ) کا واحد ہے۔ الشَّوْحُطُ: ایک درخت جس کی لکڑی سے

کمان بنائی جاتی ہے۔ واحد (الشَّوْحَطَة)
شَوذَتْ. الشَّمْسُ: مائل بزروب ہونا۔
شَوذَ السَّحَابُ الشَّمْسُ: ڈھانکنا۔ گھیر
لینا۔

ہ: کسی کو عامہ باندھنا۔

تَشَوَّذَ وَاشْتَاذَ: پگڑی باندھنا
الاشَاوِذُ: مخلوق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَيْرُ
الاشَاوِذِ" وہ مخلوق میں بہتر ہے۔

المَشْوُذُ وَالمَشْوَاذُ: عامہ۔ بادشاہ۔
سر دراج۔ مشاوذ و مشاوبند۔

شَارَ يَشُوْرُ شَوْرًا وَشِيَارًا وَشِيَارَةً
وَمَشَارًا وَمَشَارَةً. العَسَلُ: چھتے سے شہد
نکالنا۔ صفت مقعولی (مَشُوْر) شَوْرًا
وَشَوْرًا (الدَّابَّةُ: جانور کو سدھانا۔ تجربہ
کیلئے سوار ہونا۔ خریدار کو دکھانے کیلئے سوار
ہونا۔

شَارَتِ الْاِبِلُ: اونٹ کا موٹا خوبصورت
ہونا۔

شَوْرُ: الدَّابَّةُ: جانور کو سدھانا۔ تجربہ کے
لئے سوار ہونا۔ خریدار کو دکھانے کیلئے سوار ہونا
یہ: شرمندہ کرنا۔ اِثْمًا: اشارہ کرنا۔

النَّارُ وَبِالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا۔

اَشَارَ: العَسَلُ وَالدَّابَّةُ: بمعنی شَارَهُمَا
النَّارُ وَبِالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا یہ پہنچانا۔

اَشَارَ اِلَيْهِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ: اشارہ کرنا علیہ:
حکم دینا۔ نصیحت کرنا۔ صحیح طریقہ بتانا فلاناً:
عسلاً: شہد نکالنے میں مدد دینا۔

اَشُوْرَ اَشْوَارًا: النَّارُ وَبِالنَّارِ: آگ کو بلند
کرنا۔

شَاوْرَةٌ: فِي الْاَمْرِ: مشورہ طلب کرنا۔

شَارَاتُ الزَّنَكِ: عزت کے شعار ٹوپوں پر یا
محل کی دیواروں پر۔

اَشْتَارَ اَشْتِيَارًا: العَسَلُ: شہد نکالنا۔

اَشْتَارَتِ الْاِبِلُ: اونٹ کا چمچ موٹا ہونا۔

تَشُوْرٌ: شرمندہ ہونا۔

تَشَاوَرُ وَاشْتَوَرُ: الْقَوْمُ: باہم مشورہ کرنا۔
اِسْتَشَارَ: عَمَدَ لِبَاسٍ يَهْنَأُ: العَسَلُ: شہد

نکالنا۔ اِسْتَشَارَتِ الْاِبِلُ: موٹا خوبصورت
ہونا۔ اِسْتَشَارَ الْاَمْرُ: واضح و روشن ہونا:
مشورہ طلب کرنا۔

الشُّوْرُ: س۔ شہد جو چھتے سے نکالا جائے۔

الشَّارَةُ وَاشْوَرَةٌ وَالشُّوْرَةُ وَالشُّوَارُ
وَالشُّوَارُ وَالشُّوَارُ وَالشُّوَارُ وَالشُّوَارُ وَ
جَمَالٌ۔ بَيْتٌ۔ مَنْظَرٌ۔ لِبَاسٌ وَرَيْبَةٌ۔ گھر کا عمدہ
سامان۔ کہا جاتا ہے "رَيْحُ شُوَارٍ" نرم ہو۔ و
"خَيْلٌ شِيْرٌ" خوبصورت موٹے گھوڑے۔
الشُّوْرَةُ: شہد کا چھتہ۔

الشُّوْرَةُ: شَارًا كَالْاَسْمِ مَرَّةً۔ شرمندگی۔

الشُّوْرَى: اِيك قِسْمٍ كِي دِرْيَانِي كَهَاسٍ۔

الشُّوْرَى: اِسْمٌ بِ"تَشَاوَرٌ" كَا اِيَا شَارَ
عَلَيْهِ كَا۔ مَجْلِسٌ شُوْرِي: كَوَسْلٌ وَ"تَرْكُ
عَمْرُ الْخِلَافَةِ شُوْرِي" كَا مَطْلَبُ يِهْ بِهْ كِهْ
حَضْرَتِ عَمْرٌ نَسَبَ خِلَافَتِ كُو بَا هِم مَشُوْرَهْ كِهْ
لِيَهْ چھوڑ دیا۔

الشُّوْرِي: خُوْبِصُوْرَتٌ۔ جِسْ سَهْ مَشُوْرَهْ كِيَا
جائے۔ دَرِيْعٌ شُوْرَاءُ۔

المَشَارُ: شہد کا چھتہ۔

المَشَارَةُ: قَابِلٌ كَا شَتِ زَمِيْنٌ كَا كَلْبًا۔ ج
مَشَاوِرٌ وَ مَشَاوِرٌ

المَشُوْرُ: اِسْمٌ اِسْمٌ اِسْمٌ۔ مَرِيْنٌ۔

المَشُوْرُ: شَهِدٌ نَكَلَ كَا اَلْمَرْجُ مَشَاوِرٌ۔

المَشِيْرُ: فَا فِي اِصْطِلَاحِ اَرْبَابِ
السِّيَاسَةِ: كَوَسْلُكَ۔ المَشِيْرِيَّةُ: كَوَسْلُكَ كَا
دَرَجَةٌ۔

المَشِيْرُ: مَشُوْرَهْ دِيْنِي وَالا حُكُوْمَتِ كَا نَمَائِنْدَهْ جُو
كِهْ دَرِيْعِ سَهْ بَاعْمَدَهْ دَارِ هُو۔

المَشِيْرَةُ: اَكْثَتِ سَابِهٌ۔

المَشُوْرَةُ وَالمَشُوْرَةُ: اَشَارَ عَلَيْهِ كَا
اِسْمٌ۔ مَشُوْرَهْ: نَصِيْحَتٌ۔ ج مَشُوْرَاتٌ۔

الشُّوَارُ: كَرْنِي كِهْ قَرِيْبٌ جِگَهْ كَا كِنَاوَهْ۔

المَشُوَارُ: مَنْظَرٌ۔ جَانُوْرٌ كُو دَكْهَانِي كِي
جِگَهْ۔ شَهِدٌ نَكَلَ كَا اَلْمَرْجُ دُكْهِنِي كِي كَمَا نِي

تَانَتٌ۔ ج مَشَاوِرٌ: كِيَا جَاتَا بِهْ "اَحْذَتِ
الْحَيْلُ مَشَارَهَا"۔ مَعْنِي گھوڑے موٹے اور

خوبصورت ہوئے۔

الشُّوْرَةُ: دَرِخْتُوْنٌ كِي قَطَارٌ۔ زَمِيْنٌ كَا طُوْبِلُ
قَطْعَةٌ۔

المَشُوَارَةُ: شَهِدٌ نَكَلَ كِي جِگَهْ۔

الشُّوْرِيَّةُ: جَاوِلٌ دَالٌ يَابِزِي كَا شُوْرِيهْ جُو كِهْ
گُوْشَتِ كِهْ سَاتْهَ يَابِگِي كِهْ سَاتْهَ يَابِگُو۔

شُوْرٌ: (شِيْرِيهْ شُوْرًا) عَلِي الْمَجْهُوْلِ:
فَرِيْقَتَهْ ہونا۔

الاشُوْرُ: مَغْرُوْرٌ۔ مَتَكْبِرٌ۔

المَشُوْرُ: بے آرام۔

شَاسٌ يَشَاسُ وَشَوَسٌ يَشَوَسُ شَوَسًا
وَتَشَاوَسٌ غَضَبٌ يَابِگِي كِي بِنَا بِرَ تَرْجِي نَظْرُ

سَهْ دِيكْهِنَا۔ دِيكْهِنِي كِهْ لِيَهْ اَكْهِيصُ چھوٹی کرنا۔
لِزَانِي فِي بَهْتِ دَلِيْرٌ ہونا۔ صفت (الشُّوْسُ)

مُوْنَفٌ شُوْسَاءٌ۔ ج شُوْسٌ۔ الشُّوْسُ:
لجے۔ اور کہا جاتا ہے "زَمِي فُلَانٌ بِخَطُوْبِ

شُوْسٍ" فُلَانِ كِهْ اُوپر تَحْتِ مَصِيْبِيْتِيں پڑیں۔
تَشَاوَسٌ تَشَاوَسًا۔ بِمَعْنِي شُوْسٌ۔

نَخُوْتٌ وَتَكْبِرٌ ظَاهِرٌ كَرْنَا۔

شُوْسٌ: الْاَمْرُ: مَحْلُوْبٌ كَرْنَا۔ بے ترتیب
کرنا۔

تَشَوَسٌ: عَلِيَهْ الْاَمْرُ: مَحْلُوْبٌ ہونا۔ گُڑبُز
ہونا۔

تَشَاوَسٌ: الْقَوْمُ: گڈمڈ ہونا۔

الشَّوَاْسُ: اِخْتِلَافٌ وَاضْطِرَابٌ۔

عِبَارَةٌ (مَشُوْسَةٌ) تَرْكِيْبٌ يَا مَعْنِي كِهْ لِحَاطِ
سَهْ نَادِرَتِ عِبَارَتٌ۔

الشَّاشُ: رُوْكِي كِي چَادِرٌ۔ رِيْثِمٌ كِي پِگڑِي

الشَّاوِيْشُ: سَارِجَتٌ۔ (جَدِيْدٌ)

الشَّاشَةُ الْبِيضَاءُ: سِيْمَانِي سَفِيْدٌ سَكْرِيْنٌ۔

شَاصَةٌ يَشُوْصُهُ وَشَاصَةٌ شُوْصًا۔ جِگَهْ
سَهْ بَلَانَا۔ ہاتھ سے ملنا۔ دھونا۔ شَاصٌ فَاذٌ

بِالسُّوَاكِ: مَنْهُ كُو سُوَاكِ سَهْ صَافٌ كَرْنَا

شُوْصًا وَشُوْصًا) بَهْرُ كِنَا الرِّجْلُ: ذَاوْهْ
يَا پِيْثِ كِهْ دَرُوْالَا ہونا الْجَبِيْنُ: جَمِيْنٌ كَا مَالٌ

كِهْ پِيْثِ فِي حَرَكَتِ كَرْنَا بِهْ الْعَرَبِي رِگْ كَا
حَرَكَتِ كَرْنَا فُلَانٌ بِفُلَانٍ: كِسْمِي كَا كِسْمِي پَر شُرْ كُو

الرجل (الاشواق) لبا مردوج شوق
الشوق عشاق

شاکہ يشوكة شوکا کانا چھنا۔
شاکتہ الشوكة کانا چھنا۔

شاک يشاک شاکة و شیکة کانوں میں
پڑنا ہ بالشوكة: کانا چھنا الشوک:
کانوں میں پڑنا (شوکا) شوکت ظاہر ہونا
لحبا البعیر: لے دانتوں والا ہونا لثدی
الحجاریة نمودار ہونا شروع ہونا۔

شیک کانا چھنا الجسد: بدن پر سرخ
پھنسیاں ظاہر ہونا۔ صفت (مشوک)
اشاکہ کانا چھنا۔

اشوک. المكان کانٹوں والی ہونا۔

اشوکت الشجرة: خاردار یا بہت کانٹوں
والا ہونا۔ صفت (مشوكة)

شوڪ. الشجر: درخت کا خاردار ہونا۔
کانٹے لگانا الحائط: دیوار پر کانٹے رکھنا

الفرخ: چوڑے کانٹے پر نکالنا شارب
الغلام: لڑکے کی مونچھ کا تخت ہونا الراس
بعء الحلیں سر میں نئے بال لگانا۔

الشوک من کانا۔ ج اشواک واحد
(شوكة)

الشوكة شوک کا واحد۔ بھوکا ذک۔ سرخ
پھنسی۔ تھمیر اور اس کی تیزی۔ قوت و

طاقت۔ دشمن کو تکلیف رسائی کہا جاتا ہے "لا
تتشوڪ منی شوكة" یعنی مجھ سے
تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ شوكة
الحانك تانا بنا درست کرنے کا آلہ۔

الشوكة المباركة و الشوكة اليهودية
والشوكة البيضاء: جزی بوٹیوں کے نام
ہیں۔ ریح الشوكة: ایک تکلیف دہ پھنسی
جو عموماً ہاتھ کے انگوٹھے میں ہوتی ہے۔

شوڪ الدراج کانٹے دار پودا جو کہ جانوروں
کے لئے گھاس اور دھویوں کے لئے عمدہ کے
کام آتا ہے۔

الشکو لانا ایک معجون کا نام

الشانك شوکا و (الشوک) خاردار۔

الجمل بالقطران، اونٹ پر قطران ملنا۔

شيفت الحجارية بناؤ سنگھار کیا جانا۔

شوف الحجارية لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا۔

مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔

اشاف اضافةً علیہ اوپر سے جھانکنا
منہ خوف کھانا الشی بلند ہونا۔

تشوف تشوفاً مزین ہونا من السطح:
دیکھنا اوپر سے جھانکنا الی الشی: جھانکنا

الشی بلند ہونا۔

اشتاف اشتیافاً الیہ گردن اٹھا کے دیکھنا
البرق بجلی کو با امید بارش دیکھنا۔

(واستشاف) الجرح زخم سخت ہونا۔

الشوف سر۔ بیگا۔

الشیاف آنکھ میں استعمال کرنے کی دوا کی
تی۔

الشیفة والشیفان دیدبان۔ دشمن کی
حرکت کی دیکھ بھال کرنے والا۔

الشواف من الرجال تیز نظر والا۔

المشوف: آراستہ کیا ہوا۔ من
الجمل قطران مع: اونٹ۔

شاقی يشوقی شوقاً وتشواقاً.
الحب الیہ: شوق دلانا۔ صفت مفعولی

(مشوق) و صفت فاعلی (شائق) شاق
القربة: منک کو دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا

کرنا۔ صفت مفعولی (مشوكة) الطنب الی
الوتد: خیمہ کی رسولوں کو کھونٹے میں

باندھنا۔

اشافه اضافةً شائق پانا۔

شوقه الیہ شوق کرنے پر براہیمتہ کرنا۔
تشوق الشی و الیہ بہت شوق ظاہر

کرنا۔

اشتافه و اشتاق الیہ بہت خواہش کرنا۔
الشوق سر سخت خواہش۔ ج اشواق:

الشیاق والشیق وہ چیز جس سے کسی چیز کو
کھینچ کر دوسری چیز میں باندھیں جیسے خیمہ کی

طنائیں۔

الشیق آرزو مند۔

براہیمتہ کرنا۔

شوصص (س) شوصصاً غینہ اتنی موٹی
ہونا جس سے دونوں پلکیں نہ مل سکیں۔ بہت

پھڑکنے والی پلکوں والی ہونا۔ جس کو یہ کیفیت

لاحق ہوا کو (اشوص) کہتے ہیں اور آنکھ
کی صفت (شوصص) ج شوصصاً

شوصص تشوصصاً و اشوصصاً اشوصصاً
الرجل مساوک کرنا۔

الشوصصة رگ کی حرکت۔ پسیوں کے
پردہ کا درم۔ پیٹ کا ریا کاری درد۔

الشیصاص بد خلقی۔

شاط يشوط شوطاً بہ الغضب:
بھڑکنا۔

شوط لبا سفر کرنا القدر ہانڈی کا جوش
دینا اللحم: گوشت پکانا الصقیع النبات:

پالے کانبات کو جلانا۔
تشوط الفرس گھوڑے کو چلا کر تھکانا۔

الشوط غایت۔ چکر۔ غایت تک ایک
مرتبہ دور۔ کہا جاتا ہے "جری الفرس

شوطاً" گھوڑے نے ایک چکر لگایا۔ ج
اشواط:

شاط يشوط شوطاً بفلان گالی دینا بہ
الغضب غصہ بھڑکنا۔

تشاوط القوم باہم گالی گولج کرنا۔
الشواظ والشواظ بغیر دھوئیں کا شعلہ۔

آگ یا دھوپ کی گرمی۔ بیاس کی شدت۔ چیخ و
پکار۔ گالی گولج۔

شوع يشوع شوعاً الراس پر آگندہ اور
گرد آلود بالوں والا ہونا الفرس: ایک

رخسارے میں سفیدی والا ہونا۔ صفت
(اشوع) ہونٹ شوعاء ج شوع:

شوع تشویعاً القوم جمع کرنا۔
الشوع بان کا درخت۔ واحد شوعة ج

شیاع
المشواع تور کی آگ ہلانے کی تیغ۔ (اس
کی اصل مشیاع ہے۔)

شافة يشوفه شوقاً معین کرنا۔

شَانِكُ السَّلَاحِ وَشَوْكُ السَّلَاحِ :
تھسیروں سے شاک اور (شاک السَّلَاحِ)
بالتعمیر اور (شاک السَّلَاحِ) بالتحقیف اور
(شاک السَّلَاحِ) بھی مستعمل ہیں۔ ارض اور
شجرہ (شاکہ) بہت کانٹوں والی زمین یا
درخت۔

الاشْوَكُ : مِنَ الشَّيْبِ وَنَحْوِهَا : كَهَرْدِ
مَوْثِ شَوْكَاءَ .

الشُّوْكَرَانُ : اِيْكَ زَهْرِيْلَاوِدَل (دخیل)
شَالِ شَبُوْلُ شُوْلَا وَشَوْلَانَا : الدَّنْبُ
وغيره : اُتْحَانَا - بلند ہونا۔ شَالِ الشَّيْءِ وَ
بِالشَّيْءِ : اُتْحَانَا - بلند کرنا۔

الْمِيْزَانُ : تَرَاوِجُكَ اِيْكَ بِلَاوِدَل (دخیل)
شَالَتْ الْقَرْيَةُ اَوْ الزُّقُ : پھونکنے یا بھرنے
کی وجہ سے منگ کی ٹانگوں کا کھڑا ہونا۔ کہا جاتا
ہے "شالَتْ نَعَامَتُهُ" وہ ہلکا ہوا وہ غضبناک
ہوا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مر گیا۔ و شَالَتْ
نَعَامَتُهُمْ : انہوں نے اپنے مکانات خالی کر
دیئے اور متفرق ہو گئے یا ان کا اتفاق ٹوٹ گیا اور
ان کی عزت چلی رہی۔

اَشَالُ : الشَّيْءُ : بَلَنْدِ كَرْتَا اُتْحَانَا -

شُوْلُ تَشُوْلِيْلَا : لَبِنُ النَّاقَةِ : اُوْنَفِيْ
دودھ کا کم ہونا۔ کھٹا۔ شُوْلُ النَّوْفِ : دودھ
خشک ہونا۔ شُوْلُ الْمَاءِ : کم ہونا۔ الْمَزَاوَةُ :
کم پانی والا ہونا۔ فِي الْمَزَاوَةِ : تھوڑا پانی باقی
رکھنا۔

شَاوُلُ الْحَجَرِ : اُتْحَانَا وَبِه : ہٹانا (و
تساؤل) ایک دوسرے پر نیزہ سے حملہ کرنا۔

اِنْشَالُ اِنْشِيَالًا : بَلَنْدِ ہونا۔
اِسْتَالُ اِسْتِيَالًا : بَلَنْدِ ہونا۔ تَعْرُضُ كَرْتَا -
گالی دینا۔

اِسْتِجَالَتِ النَّاقَةُ ذَنْبِهَا : اُوْنَفِيْ كَاوْمُ
اُتْحَانَا -

الشُّوْلُ : سِرْبُ بِلَاوِدَل وَغَيْرِه كَابَقِيْعَةُ پَانِي -
تھوڑا پانی۔ شَاوْلُ

الشُّوْلُ : كَامُ اُوْرْ خِدْمَتِ مِيْنِ چسٹ -
الشُّوْلَةُ : اِسْمُ مَرَاةٍ - چھوٹے ڈنک کا وہ حصہ جو

اُوْرْ كُوْ اُتْحَانَا ہوا ہوتا ہے مِنَ النَّسَاءِ : يُوْقُوْفُ
عورت۔

شُوْلَةٌ وَشُوْلَةٌ : بَجْهَوَا كَاوْمُ اِلْمِ الشُّوَالَةِ :
چغل خور عورت۔

الشُّوَالُ عِنْدَ الْعَامَّةِ : بَالُوْنُ يَاوُنُ كَابِرَا
پورا (یہ جوالق کی تحریف ہے)

الشَّالُ : كَنْدَرُوْنُ پُرْ دَاوْلُ كِي چادر۔ ج
شِيْلَانُ وَشَالَاتُ : اُوْرْ (الشَّالَةُ) اِخْص
ہے (الْمَجْمَعَةُ النَّاقَةُ) (الشَّالِي) بغير دودھ والی
مستق کے وقت دُم اُتْحَانَا والی اُوْنَفِيْ۔ ج

شُوْلُ وَشُوَالُ وَشِيْلُ وَشِيْلُ

الشَّالَةُ الشَّالِي كَاوْمُوْتُ مِنَ الْاِيْلِ :
اُوْنَفِيْ جِسْ كِي حَمْلُ كُو يَابَعْدُ وَصَحْ حَمْلُ كِي
سات مہینے ہو چکے ہوں اور دودھ خشک ہو گیا

ہو۔ ج شُوْلُ : اِنْشَوَالُ وَشَوَالُ
شُوَالُ : قَمْرِي سَالُ كَاوَسْوَالُ مِهْمِيْنُ اُوْرْ كِسْمِي

الف لام داخل کر کے الشُّوَالُ بھی کہا جاتا
ہے۔ ج شُوَالَاتُ : دُنْجُ شُوَاوِيْلُ

المِشْوَالُ : چھوٹی دار تھی۔
المِشْوَالُ : پتھر جو طاقت کی آزمائش کے
لیے اُتْحَالَا جاتے۔

شَانَ يَشُوْنُ شُوْنَا : الرُّؤُوسُ : دماغ کے
کیڑے نکالنے کے لیے سر کو کھولنا۔

تَشُوْنُ : كَمُ عَقْلُ ہونا۔
الشُّوْنَةُ : يُوْقُوْفُ عورت۔

الشُّوْنَةُ : عِلْمُ جَمْعُ كَرْتَا كِي جِلْدُ - جنگی جہاز۔
نَشُوَانُ

الشُّوَانُ : عِلْمُ جَمْعُ كَرْتَا كِي جِلْدُ -
شاہ نشوہ شوہا و شوہہ۔ الوجہ : چہرہ

بدشکل ہونا الرَّجُلُ : خُوْفَزِدُ كَرْتَا - ہبرا دینا۔
حد کرنا۔ نظر بد لگانا۔ کہا جاتا ہے "شاہت

نَفْسِه اِلٰی كَذَا" اس نے فلاں چیز پر آنکھ
لگائی۔

شُوَةٌ يَشُوُهُ شُوَهَا : الوجہ : چہرہ کا بدشکل
ہونا العُنُقُ : گردن کی ہونا۔ چھوٹی ہونا۔

(ضد)
شُوَةٌ : الْمَثَلُ وَجِهَةٌ : چہرہ کا بدشکل بنانا۔ کہا

جاتا ہے "لَا تَشُوَهُ عَلِي" مجھے نظر بد نہ لگاؤ۔
تَشُوَهُ : بدشکل ہونا۔ تَشُوَهُ الرَّجُلُ شَاةُ :

شکار کرنا لِفَلَانِ : اپنے آپ کو کسی کیلئے
ناشائساں کرنا۔ نظر بد لگانے کیلئے کسی کی طرف

نگاہ اُتْحَانَا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَتَشُوَهُ اِمْوَالُ
النَّاسِ لِيُصْنِبَهَا بِالْعَيْنِ" وہ نظر بد لگانے

کیلئے لوگوں کے اموال کی طرف نگاہ اُتْحَانَا ہے۔
الشُّوَهُ : سِرْبُ - بدشکل۔ خُوْبِصُوْرَتِي (ضد)

گردن کی لمبائی بلمندی۔ سر بلند کرنا۔
الشُّوَهُ : دُورِي - بدشکل۔

الشَّاهُ : بادشاہ نسبت کیلئے (شاہی و شاہانی)
الشَّانَهُ : فَا - حد کرنے والا۔ تَشُوَهُ

شَاہ بَنْدَرُ : سُوَاوَاوِرُوْنُ كَارِيْمِيْنُ -
شَاہ بَلُوْطُ : شَاہ بَلُوْطُ كَاوَرِخْتُ -

رَجُلُ (شَاہ) الْبَصْرِ وَشَائِهَةٌ وَشَاهِيَةٌ
تِيْرُ نَظَرُوَالَا -

الشَّاهُ : كِمْرِي - بَكْرَا - جَنْجَلِي كَاوَا - ج شَاءُ

وَشِيَاهُ وَشَوَاهُ وَاشِيَاوَهُ وَشِيَهَ وَشِيَهَ
وَشُوِيٌّ اُوْرْ شَاةُ كِي لَتَصْفِيْرُ شُوِيَهَ وَشُوِيَهَ

ج شُوِيَهَاتُ اُوْرْ نِسْبَتُ كِي لِيَعِي شَاوِيٌّ
چیسے سماء سے سَمَاوِيٌّ

الشَّاهِيُّ : كِمْرِي اُوَالَا -
الشَّاهْتَرُجُ : اِيْكَ كِهَاسُ نَمَاوِظَا جِسْ كِي چپے

ذیل ہوتے ہیں اُوْرِی شِکْلِ كِي چھول ہوتے
ہیں۔ اس کے چھول اور بیخ خارش کے لئے بطور

دواء استعمال ہوتے ہیں۔
الاشْوَهُ : بَدَشِكْلُ - جلدی نظر بد لگانے والا۔

شَكْبَرُ - مَوْثِ شُوَهَاءَ : ج شُوَهُ الشُّوَهَاءَ :
تَرَشُ رُو عورت۔ بدشکل عورت۔ خُوْبِصُوْرَتُ

عورت (ضد) مَنُوحُ عورت۔ فَرَسُ
شُوَهَاءَ : تِيْرُ نَگَاہُ اُوَالَا كِهُوْرَا - اَرْضُ

(مِشَاهَةٌ) بہت کم برون والی زمین۔
المِشُوَهُ : بَدَشِكْلُ : نَاہُوَارُ شِكْلِ وَصُوْرَتُ

اُوَالَا -
شُوِيٌّ يَشُوِيٌّ شِيَا : اللّٰحْمُ : گوشت کو

اِيْكَ مِيْنِ بَهُوْنَا - صِفَتُ مَفْعُوْلِي (مَشُوِيٌّ)
المَاءُ : پانی گرم کرنا۔

من الرجال کاموں میں کوشش کرنے

والا۔ چوکنارنے والا۔

الشیاح۔ من کوش۔ احتیاط۔ قحط۔

الشیحان والشیحان والمشیح۔ لہب۔

غیرت مند۔ محتاط۔

شاح یشیح شیحا وشیو حة وشیو حة

وشیو حة وشیو حة وشیو حة

وشیو حة بوڑھا ہونا۔

شیخ بوڑھا ہونا: تعظیم کیلئے یا شیخ کہہ کے

پکارنا علیہ۔ عیب لگانا۔ طعن و تفتیح کرنا بہ

رسوا کرنا۔

الشیخۃ پھول کی ایک جنس جو کہ بطور زرب و

زینت بوئے جاتے ہیں۔

تشیخ۔ بوڑھا ہونا۔

الشیخ۔ بڑھا۔ ج شیوخ وشیوخ

وآشیاخ وشیخہ وشیخۃ وشیخان۔

ومشیخۃ ومشیخۃ وجمع مشاخیح

وآشایح مؤنث شیخۃ اور شیخ کی تصغیر شیخ

وشیخ۔ شیخ المرأۃ۔ شوہر اور شیخ کا

اطلاق استاد۔ عالم۔ سردار قوم اور ہر اس شخص

پر ہے جو لوگوں کے نزدیک علم و فضیلت و

مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ شیخ النار:

الہیسی سے کنایہ ہے۔

الشیخون بڑھا۔

شاد یشید شیدا وشید البناء عمارت

کو بلند کرنا الحائط دیوار پر چڑھ کرنا۔ جلدہ

تالطیب جسم پر خوشبو ملنا۔ شاد الرجل:

ہلاک ہونا (شاد الابل شیادا) اونٹوں کو

بلانا۔

اشادۃ اشادۃ ہلاک کرنا۔ اشاد بذکرہ:

تقریف کر کے مشہور کرنا۔ اشاد علیہ

قیحا وبقیح: بدنام کر کے مشہور کرنا۔

اشاد علیہ کسی کے متعلق بُرائی مشہور کرنا

المعنی گانے میں آواز بلند کرنا۔ اشاد

صوتہ و بصوتہ: بے طریقہ سے آواز

بلند کرنا۔ اشاد الضالۃ: گم شدہ چیز کی

تقریف کرنا الشیان لہب کرنا۔

ہے۔

الشیئۃ۔ شاء کالاسم (والمشیئۃ) ارادہ۔

المشیئا۔ بد شکل۔ ناہموار صورت والا۔

شَاب یشیب شیبًا وشیئۃ ومشیئا۔

سفید بالوں والا ہونا۔ بوڑھا ہونا۔ صفت مذکر

(الشیب وشیاب) صفت مؤنث (شانیۃ)

(مؤنث کی صفت میں شیئۃ نہیں بلکہ

شَمَطَاء آتا ہے) کہا جاتا ہے (شابت

رؤوس الآکام، ٹیلوں کی چوٹیاں برف سے

سفید ہوئیں۔

أشَاب الرجل: بوڑھی اولاد والا ہونا۔

أشَاب وشیب. الحزن فلانا وبقلان:

غم کا بوڑھا کر دینا۔

الأشيب. سفید سردالا من الايام: برف و

بادل والادن: ج شیب وشیب. الشیب:

برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔

الشیاب. فا۔ سفید سردالا۔ مؤنث شانیۃ.

ج شیب. مبالغہ کے طور پر "شیب

شائب" کہا جاتا ہے مانند لیل لابل کے۔

یوم (شیبان) اولہ برف بادل کا دن

(ویشیان) ماہ دسمبر (چونکہ اس ماہ میں برف

اولہ کی وجہ سے زمین سفید رہتی ہے۔)

الشیئۃ اسم مرۃ۔ شاب کالاسم۔ ایک پودہ

ہے جس کا نام (افستین) ہے۔

الشیتان بڑی وغیرہ کی چھوٹی کڑی۔

شاح یشیح شیحا. علی حاجتہ: چوکننا

رہنا۔ کوشش کرنا۔

شیخۃ. ذرانا۔ شیخ خصمۃ: تنگ

نگاہوں سے دیکھنا۔

أشاح الأشاحۃ. فی امرہ: کوشش کرنا۔

چوکننا رہنا۔ محتاط رہنا۔ وناہ: وبوجہہ

وأنشاح عنہ وجہہ: نفرت سے منہ پھیر لینا

المکان شیخ نامی گھاس اگانا الفرس بذنبہ:

گھوڑے کا دم کو ڈھیلا چھوڑ دینا۔

شایح مُشایحۃ وشیحا جنگ کرنا۔ فی

الامر: کوشش کرنا۔

الشیخ ایک قسم کی گھاس۔ واحد (شیخۃ)

شَوَى وأشوى. القوم: بھنا ہوا گوشت

کھلانا الرجل: جسم کے ایسے حصے پر زخم لگانا

جس سے قتل واقع نہ ہو۔ آشوی السہم:

تیر کا نشانہ سے چوک جانا۔ آشوی الزرع:

بھوننے کے قابل ہونا الرجل: رات کے

کھانے سے کچھ چھوڑ دینا۔ گھنیا مال جمع کرنا۔

أشوی السعف: درخت خرما کی شاخ کا

خٹک ہو کر زرد پڑنا۔ اور اسی سے ہے "ما اعیاه

وما أشواه" وہ کس قدر کڑور ہے۔

إنشوی إنشواءً وانشوی إنشواءً. بھن

جانا۔ انشوی الرجل: بھوننا۔

الشیوی گھنیا مال۔ آسان معاملہ۔ ہاتھ پیر۔

جسم کے اطراف۔ وہ اعضاء جن پر زخم لگنے

سے قتل واقع نہ ہو (الشواء) کھوپڑی کا چھڑا۔

الشواء والشواء. بھنا ہوا گوشت وغیرہ

والشواءۃ والشواءۃ والشواءۃ بھنے

ہوئے گوشت وغیرہ کا ایک ٹکڑا۔

الشواءۃ گوشت بھوننے والا۔

الشیوایۃ والشیوایۃ والشیوایۃ والشیوایۃ

من المال بردی مال۔ ہلاک شدہ قوم یا مال کا

بقیہ۔ ج شویا سغفۃ (شواویۃ) درخت خرما

کی خٹک شاخ۔

الشیوی بھنا ہوا گوشت۔

المشواءۃ گوشت بھوننے کا آلہ۔ ج مشاوی

شاءۃ یشاءۃ شینا ومشیئۃ ومشاءۃ

ومشانیۃ۔ چاہنا۔ صفت فاعل (شاء) اور

صفت مفعول (مشی) اللہ الشی: مقلد

کرنا۔ تجب کے موقع پر "ماشاء اللہ" کہا

جاتا ہے۔

شیاءۃ علی الامر: براہیمتہ کرنا۔ شیاً اللہ

وجہہ چہرہ کا بد شکل بنانا۔

أشأۃ الیہ اشاءۃ: مجبور کرنا۔

تشیاً تشیواً غصۃ شتہا ہونا۔

الشی: چیز جس کے ساتھ علم و خبر کا

تعلق ہو سکے۔ ج اشیاء ج اشیای

وآشیوات و آشیوات و آشیایا اور تصغیر

شبی وشیب اور اشیاء کا کلمہ غیر مصرف

الشَّيْبُ دُجَّحٌ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْسْتَرِ -
المَشْبِيدُ - مَقْعٌ - بَيْسْتَرٌ كَمَا هُوَ (وَالْمَشْبِيدُ)
بَلَدٌ كَمَا هُوَ -

الشَّيْبَارُ يَوْمٌ شَبِيهُ - جِ الشَّيْبَرُ وَشَيْبَرٌ وَشَيْبَرٌ
شَيْبَرَةٌ - الْبُرْدُ بَهْرَتِيٌّ سَهْرِيٌّ سَهْرِيٌّ وَدَهَارِيٌّ بَنَانَا -
الشَّيْبَرُ وَالشَّيْبَرِيُّ - آيَةُ نَبِيِّ كَلْبِيٍّ يَأْتِي بِهَيْبَتِ
سَيَاهِرَتِكِ كِي مَضْبُوطٌ كَلْبِيٌّ -
الشَّيْبَانَةُ: تَبَابُ كُنُوشِي كَالْأَلَمِ
أَشَابَتْ: النُّخْلَةُ نَزَمَ مَعْشَلِيٌّ كِي كَهْجُورِ وَالدَّاءِ
هَوَانَا -

الشَّيْبُ نَزَمَ مَعْشَلِيٌّ كِي كَهْجُورِ - وَالشَّيْبُ
وَعِنْدَ الْعَامَّةِ: كُوشَتُ بَهُونَتِي كِي لُوسِي كِي سَجْ -
صَحِّحٌ لَفْظٌ سَقُودٌ -

شَيْبُصٌ: الْقَوْمُ بَرِيحٌ وَتَكْلِيْفٌ بِبَهْجَانَا عَذَابٌ
دِيْنَا - شَيْبُصَتِ النُّخْلَةُ: رَدِي كَهْجُورِ وَالدَّاءِ هَوَانَا -
لِلشَّيْبُصِ: أَيْكُ لَسْمِي كِي رَدِي كَهْجُورِ: أَيْكُ لَسْمِ
كِي بَحْشِيٍّ وَاحِدٌ - (بَشِيصَةٌ) -

الشَّيْبُصُ: نَزَمَ مَعْشَلِيٌّ كِي كَهْجُورِ - وَاحِدٌ
الشَّيْبُصَاءُ: (شَيْبُصَاءَةٌ)
الْمَشَابِيصَةُ: أَيْكُ دُوسَرِي سِي جَدَانِي -
مَنْفَرَتٌ -

شَاطٌ يَشِيْطُ شَيْطَانًا وَشَيْطَانَةً
وَشَيْطَانَةٌ: بِالشَّيْءِ جَلَانَا - شَاطَتْ
الْقَدْرُ: بِأَهْدَى كِي مِي فِي مَعْلِي هُوَتِي جِيَزُ كَالنَّارِ -
شَاطَ الزَّيْتُ: زَيْتُونَ كِي تَيْلُ كَا كَا زْهَا هَوَانَا -
شَاطَتِ الدَّيْبِيحَةُ: ذَبِيحَةُ كَا كُوشَتُ تَقْسِيْمٌ هُوَ
كِرْحَمٌ هُوَ جَانَا فَلَانٌ بِلَاكٌ هَوَانَا فِي الْأَمْرِ:
جَلْدِي كِرْنَا ذَمَّةٌ بِيكَارُ جَانَا فَلَانًا: الدَّمَاءُ:
مَلَانَا - عِنِي قَاتِلٌ كُو مَقْتُولٌ كِي خُونٌ پَرَسَلُ كِرْنَا -

شَيْطٌ وَأَشَاطٌ: الْأَصْقِيْعُ النَّبْتُ
أَوِ الدَّمَاءُ الْجَرِيحُ: جَلَانَا الرَّاسُ أَوْ
الْكِرَاعُ: سَرِي يَأْتِي كِي بَالُونِ كُو جَلَانِي
كِي لِي مَعْشَلِيٍّ بِأَهْدَى كُو جُوشُ دِيْنَا -
الْقَدْرُ: بِأَهْدَى كُو جُوشُ دِيْنَا -
أَشَاطَ فَلَانَا: بِلَاكٌ كِرْنَا - أَشَاطَ اللَّحْمُ
عَلَى الْقَوْمِ: كُوشَتُ تَقْسِيْمٌ كِرْنَا - أَشَاطَ
السُّلْطَانُ ذَمَّةً وَبِدْمِهِ: قَتَلَ كِرْنَا كِي لِي

سَاعِنَا لَانَا -
تَشَيْطٌ: جَلَانَا - كَثْرَتُ جَمَاعِ كِي وَجْهٌ سِي لَانَا
كِرْزُورُ هَوَانَا -

أَشَاطَ: أَشْتَبَا: عَلَيْهِ غُصَّةٌ سِي بَهْرُكٌ
أَهْتَا: الْحَمَامُ: كِي تَرَا كَا خُوشُ هُوَ كِرْزَانَا مِي
الْأَمْرِ: بِلَاكٌ هَوَانَا فِي الْحَرْبِ: اِپْتِي آيُ كُو
قَلُ كِي لِي پَرَسَلُ كِرْنَا -

الشَّيْطَانُ: رَدِيٌّ أَوِ دُنُوغِرُهُ كِي جَلِي كِي يُو -
التَّشَيْطُ وَالْمُشَيْطُ: كُوشَتُ جُو قَوْمٌ كِي
لِي جَهْوَانَا جَانَا -

الشَّيْطِيُّ: غِبَارٌ جُو فِضَائِلِ بَلَدِي هُوَ -
المُشَيْطِيُّ: بَهْتٌ بَشْنِي دَالَا - مَوْنَاوَنُثُ -
شَيْطَانٌ وَشَيْطَانٌ (دِي كِهْوَادَةُ طَهْنُ) -

شَاعٌ يَشِيْعُ شَيْعًا: بِالْخَبْرِ: خَبْرٌ كُو پَهْلِيَانَا -
الْإِنَاءُ: بَرِيحٌ كُو بَهْرَانَا -

شَاعٌ يَشِيْعُ شَيْعًا وَشَيْعًا وَمَشَاعًا
وَشَيْعَانًا وَشَيْعُوْعَةً: الْخَبْرُ: پَهْلِيَانَا فِيهِ
الشَّيْبُ بَزْهَابًا طَاهِرٌ هَوَانَا -

شَاعَةُ شَيْعًا: بِيچِي جَانَا - مِهْرَاهُ جَانَا أَوْ اِسِي
سِي هِي "شَاعَكُمْ السَّلَامُ" وَشَاعَكُمْ اللَّهُ
بِالسَّلَامِ: عِنِي سَلَامَتِي مِهْرَاهُ سَاتِه رَهِي
أَوْ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامَتِي كُو مِهْرَاهُ سَاتِه كِرِي -

أَشَاعَ: أَشَاعَةً: الْخَبْرُ وَبِالْخَبْرِ: پَهْلِيَانَا -
أَوْ كِرْنَا جَانَا هِي "أَشَاعَكُمْ اللَّهُ السَّلَامُ"
وَبِالسَّلَامِ: اللَّهُ تَعَالَى سَلَامَتِي كُو مِهْرَاهُ
سَاتِه كِرِي - أَشَاعَ بِالْأَبْلِ: بِيچِي رَهِي
هَوَانَا وَنُثُ كُو بِلَانَا -

شَيْعَةٌ: رَحْمَتُ كِرْنَا يَامَكَانُ تَكُ پَهْجَانِي
كِي لِي مِهْرَاهُ جَانَا - شَيْعٌ: شَهْرٌ رَمَضَانُ: شَيْعُ
عَمِيْدُ كِي رُوْزِي رَهْتَا - الرِّجْلُ: جِرَاتُ دَلَانَا -
قَوِي كِرْنَا النَّارُ: اِگُ تِيْزُ كِرْنَا كِي لِي
كِرْزَانِي دَالَانَا الشَّيْءُ بِالنَّارِ جَلَانَا -

الرِّجْلُ: شَيْعَةٌ هُوَتِي كَا دَعْوِي كِرْنَا الشَّيْءُ
كِي جِيْزُ كُو پَهْجِيْنَا أَوْ اِسُ كِي بِيچِي جَانَا -

شَيْعَةٌ: كَامٌ كِي لِي كِي مِهْرَاهُ جَانَا -
شَايِعٌ بِهِمُ الدَّلِيلُ: بَرَهْمَا كَا لُوكُونِ كُو پَهْلِيَانَا -
بِالْأَبْلِ: پَهْلِيَانَا أَوْ اِرْدِيْنَا -

تَشَيْعٌ: شَيْعَةٌ هُوَتِي كَا دَعْوِي كِرْنَا اللَّيْنُ فِي
الْمَاءِ: بَهْرَانَا هُوَ الْعَضْبُ: دَلٌ مِي غُصَّةٌ
بَهْرُ كِرْنَا فَلَانٌ فِي الشَّيْءِ: كِي جِيْزُ كِي مَحَبَتِ مِي
بِلَاكٌ هَوَانَا هُوَ الشَّيْبُ: بَزْهَابًا نَمَايَا هَوَانَا -

تَشَايَعٌ: تَشَايَعًا: الْقَوْمُ: مُخْتَلَفٌ رُوْدُهُ هَوَانَا -
تَشَايَعُوا عَلَى الْأَمْرِ: بِأَمْرِ مَوَافِقِ هَوَانَا -
تَشَايَعُوا فِي الدَّارِ: شَرِيكٌ هَوَانَا -
تَشَايَعَتِ الْأَبِلُ: مَتَفَرِّقٌ هَوَانَا -

الشُّيُوعَةُ: كَارَلُ مَادِكُ كَا اِجْتِمَاعِي نَظْرِيَّةٌ
اِشْتَاعًا اِشْتِيَاعًا: فِي الدَّارِ: شَرِيكٌ هَوَانَا -
الشُّيْعُ: مِي - مَقْدَارٌ - مَعْشَلٌ - جِ أَشْيَاعٌ: كَمَا
جَانَا هِي "هَذَا شَيْعٌ ذَاكُ" هِي اِسُ كِي مَعْشَلُ

هِي أَوْ اِسِي سِي هِي "كَمَا فَعَلُ بِأَشْيَاعِهِمْ"
عِنِي جِيْسَا اِنُ كِي اِمْتَالُ كِي سَاتِه كِي كِرْنَا -
وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا أَوْ شَيْعٌ: شَهْرٌ مِي
نِي اِسُ كِي پَاسِ اَيْكُ مِهْمِيْنِي يَا اَيْكُ مِهْمِيْنِي كِي

بِقَدْرِ اِقَامَتِي كِي - "كَانَ مَعَهُ مَائَةٌ رَجُلٌ أَوْ
شَيْعٌ ذَلِكَ" اِسُ كِي سَاتِه سَوَادِي يَا اِسِي كِي
بِقَدْرِ كِرْنَا - "نَزَلُوا مَوْضِعَ كَذَا أَوْ شَيْعَةً"
وَهُ لُوكُ فُلَانُ مَقَامٌ مِي يَاسُ كِي قَرِيْبُ


اِتْرِي - "أَتَيْتُكَ غِذَا وَشَيْعَةً" مِي مِهْرَاهُ
پَاسِ كِلُ يَاسُ كِي بَعْدُ آوَلُ كَا -
الشَّاعَةُ: بِيوِي - پَهْلِي هُوَتِي خَبْرِي أَوْ رِي شَاعِي
كِي جَمْعُ هِي -

شَيْعَةُ الرَّجُلِ: جِيْرُو دَا دَا كِرْنَا - جِ شَيْعٌ
أَوْ أَشْيَاعٌ وَالشَّيْعَةُ: فِرْقَةٌ (وَاحِدٌ شَيْعِيٌّ جَمْعُ
مَذْكُورٌ نُثُ سَبُ كِي لِي سَتَعْمَلُ هِي) اِسُ لَفْظُ كَا
غَلِيْبُ اِسْتِمَالِ اِنُ لُوكُونِ كِي لِي هِي جُو حَضْرَتِ عَلِيٍّ
كِي طَرَفْدَارِي هِي - وَاحِدٌ (شَيْعِيٌّ)

الشُّيْعُ: حَصَّةٌ دَارٌ - شَرِيكٌ: كَمَا جَانَا هِي "هَذَا
شَيْعٌ لِهَذَا" هِي اِسُ كَا حَصَّةٌ دَارُ هِي - جِ
شَيْعَاءُ: مَوْنُثُ شَيْعَةٌ: كَمَا جَانَا هِي "الدَّارُ
شَيْعَةٌ بَيْنَهُمَا" مِهْرَانُ دُونُو كِي دَرْمِيَانُ
مَشْرُكٌ هِي -

الشَّيْعَانُ: اِگُ سَلْكَانِي كِي جِيْزُ - چِرُو پِي كِي
بَانَسْرِي يَاسُ كِي آوَارُ -
الشُّيُوعُ: اِگُ سَلْكَانِي كِي جِيْزُ -

شِيمَ وَأَشَامَ وَأَشَامَ وَأَشَامَ. فِي الشَّيْ أَوْ الْأَمْرِ. دَاخِلٌ هُوَ الشَّيْمُ يَذِيهُ فِي رَأْسِ فُلَانٍ أَوْ نَوْبِهِ: لِأَنَّ كَرْنَ كَ لِيَسْرِيَا كَرْبُ كَ لِيَكْرَانَا. أَشَامَ الرَّجُلُ: مَنظُورٌ نَظْرًا هُوَ.	الشَّاعِ. فَالْحَدِيثُ شَاعَ وَشَاعَ بِحَدْفِ عَيْنٍ: بِمَجْهَلِي هَوِيَ بَاتَ. سَهْمٌ شَاعَ وَشَاعَ مُشْرَكٌ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ حَصَّةً. المُشَاعُ وَالمُشَاعُ: بِمَجْهَلِي هَوِيَ. مُشْرَكٌ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ أَوْ رَأْسِي سَهْمٌ "مُشَاعُ الْقُرَى" وَهُوَ جِزْيَةٌ جِزْيَةٌ فِي آبَادِي كَ سَبِّ لُؤْكَ شَائِلٌ هُوَ.
تَشِيمٌ. أَبَاهُ: خَصَلَتْ فِي بَاطِنِ كَ مَشَابِ هُوَ الشَّيْ فِي الشَّيْ: دَاخِلٌ هُوَ الشَّيْبُ فُلَانًا: بَرُوهَا غَالِبٌ هُوَ.	المُشْعُ: بَمَرٌ هُوَ بَرْتَنٌ. كَيْتِي سَهْمًا هُوَ كَيْتَةٌ وَرَ.
الشَّامَةُ: تَلٌ. زَمِينٌ فِي سِيَاهِ نَشَانٍ. جَانِدَا دَاخِلٌ كَالِي أَوْ نَفْسِي. نَشَامٌ وَشَامَاتٌ: كَمَا جَا هُوَ "سَاوَزُوا شَامًا فِي الْبِلَادِ" وَهُوَ لُؤْكَ شُورٍ فِي مَنفَرَقٍ هُوَ كَ. جِزْيَةٌ طَرَحٌ تَلٌ بَدَنٌ بِمَنفَرَقٍ هُوَ كَ.	المُشِيْعَةُ: لُؤْكَ جِزْيَةٌ فِي عَوْرَتِي رُوئِي رَكْعَتِي هِيَ.
الشَّيْمَةُ وَالشَّيْمَةُ: عَادَتٌ. طَبِيعَتٌ. ج شِيمٌ.	المُشِيْعُ: مَتْنٌ. بِمَهَادٍ. جَلْدِيَا.
الشَّيْمُ: بَرُوهَا زَمِينٌ جَوَابٌ تَكْ كَهْدِي نَهْ هُوَ أَوْ أَبِي كَ تَحِيَّ بَرِيَا هُوَ.	المُشِيْعُ: تَوْرُوكِي أَلْكَ بَلَانِي كِي تَحِيَّ.
الشَّيَامُ: زَمِينٌ. مَتْنٌ.	رَجُلٌ مُشِيْعٌ: رَاوُوكِي بِمَجْهَلِي وَالْأَمْرُ.
الشَّيَامُ: مَتْنٌ. جَوَابٌ. تَحِيْمٌ.	المُشْتَاعُ وَالمُشْتَاعُ: مُشْرَكٌ.
المُشِيمُ وَالمُشِيمُ وَالمُشِيمُ: تَلٌ وَالَا.	شَاقَهُ يَشِيْقُهُ شَيْقًا. إِلَيْهِ: بِمَجْهَلِي كَرْبَانَا هُوَ.
المُشِيمَةُ: بِحِي كِي جَمَلِي جِزْيَةٌ فِي سَبْحِ بِيْدَانِش كَ وَتَقْتٌ لِيَا هُوَ هُوَ تَقْتٌ هُوَ. شَامِيْمٌ وَ	كَمَا جَا تَقْتٌ "شَاقُ الطَّنْبُ لِي الْوَتْدُ" أَس نَظْمًا لِي كِي بِمَجْهَلِي كَرْبَانَا هُوَ.
مَشَائِمٌ.	الشَّيْقُ: بِهَارُوكِي جُوئِي أَوْ يَقُولُ بَعْضُ بِهَارُوكِي دَشْوَارُوكِي. جَانِبُ بِهَارُوكِي تَكْ دَرَزُ. جَانُورُوكِي دَمٌ كَالِ. الشَّيْقُ: أَيْكَ سَمْدَرُوكِي بِمَجْهَلِي.
شَانَهُ يَشِيْنُهُ شَيْنًا. عَيْبٌ لَكَ نَا.	وَاصِرٌ شَيْقَةٌ)
شَيْنٌ. حَرْفٌ "ش" لَكَ نَا.	الشَّيَالُ: تَلِي. بُوْجُهُ أَهْلَانِي وَالَا. وَ
المَشَائِمُ: عَيْبٌ.	(الشَّيَالَةُ) بُوْجُهُ أَهْلَانِي كَا بِمَجْهَلِي.
شَاهَهُ يَشِيْهُهُ شَيْهًا. نَظْرٌ بَدَلَاكَ نَا.	شَامٌ يَشِيْمُ شَيْمًا. بَدَنٌ فِي تَلٍ وَالَا هُوَ نَا.
الشَّيْوَةُ: نَظْرٌ بَدَلَاكَ نَا وَالَا. كَمَا جَا تَقْتٌ هُوَ شَيْوَةٌ مِّنْ أَشْيِهِ النَّاسِ" وَهُوَ بِهَيْتٌ نَظْرٌ بَدَلَاكَ لَكَ نَا وَالَا هُوَ.	صَفْتٌ (أَشْيِيمٌ) مَوْثٌ شَيْمَاءُ. جِزْيَةٌ شِيمٌ وَشَوْمٌ.
الشَّيَّةُ: (دَلِيْمُووشُوكِي) كَشَايُ. جَا هُوَ.	السَّيْفُ: تَلْوَارُوكِي مِيَا نِي مِيَا نَا. مِيَا نَا سَهْمًا سَوْنَتَا. (سَمْدُ) الْبِيْرُقُ: بِجَلِي كَ جِيْنِي أَوْ بَرَسِي كِي سَمْتٌ كُوْ دِيْمَانَا. كَمَا جَا تَقْتٌ هُوَ "شَامٌ مَخَائِلُ الشَّيْ" يَعْنِي أَس نَظْمًا لِي جِيْرُوكِي طَرَفٌ اِنْتِظَارُوكِي هُوَ نَا نَظْمًا لِي (شَيْمًا وَشَيْوَمَا) الرَّجُلُ: جَمُّ كَ حَمَلُهُ كَرْنَا فِي الشَّيْ: دَاخِلٌ هُوَ الشَّيْمُ فِي الشَّيْ جَمْعًا الشَّيْ: تَحْيِيْنُهُ وَانْدَازُهُ كَرْنَا. كَمَا جَا تَقْتٌ هُوَ "شَمٌ مَا بَيْنَهُمَا" أَلَا دَوْنُوْكَ كَ دَرْمِيَا انْدَازُهُ كَرْنَا.



صَبَّ الماءُ: پانی گرتا۔
 صَبَّ وَتَصَبَّ الماءُ: بچا ہوا پانی پینا۔
 صَبَّ وَتَصَبَّ العيشُ: بقیہ زندگی گزارنا۔
 صَبَّ الماءُ وَنَحَوْهُ: پانی بہنا۔
 لَصَبُ عاشقٍ مَحْضُونٍ: مؤنصبتہ
 وَصَبَاتٌ ماءٌ صَبَّ: پانی بہا ہوا۔
 لَصَبٌ وَالصَّبَّةُ: گرایا ہوا (کھانا وغیرہ)
 الصَّبَّةُ: آدمیوں کی جماعت۔ گھوڑے |
 اونٹ، بکریوں کا گلہ۔ تھوڑا مال۔ برتن میں پانی
 یاد دہانہ کا بقیہ۔ شوربا۔ رات کا کچھ حصہ۔
 لَصَبٌ: نشیب۔ لَصَبَابٌ
 الصَّبَابَةُ: برتن میں بچا ہوا پانی۔ ج
 صَبَابَاتٌ: کہا جاتا ہے لہ اذرنک من
 العيش الاصابية میں نے زندگی سے
 صرف تھوڑا سا حاصل کیا۔
 الصبابة: عشق۔ سوزش عشق۔
 الصَّبِيْبُ: زرد رنگ۔ اولد۔ عمدہ شہد۔
 پسینہ۔ خون۔ عذم کا نچوڑ۔ ایک قسم کا سرخ
 رنگ۔ گرائی ہوئی چیز۔ تلوار کی دھار۔ کہا جاتا
 ہے لَوْ صَفَعْتُ صَبِيْبَ السَيْفِ فِي بَطْنِهِ
 یعنی تلوار کی دھار کو اس کے پیٹ پر رکھا۔
 المصبُّ: گرنے کی جگہ۔ وھصباتُ
 المصبُّ: حروف ڈھالنے کا سانچہ۔
 المصبوبُ: گرایا ہوا المصبوبُ علی
 الشئ: کسی چیز پر برا بھانتہ کیا ہوا۔
 صَبًا (ف) كَسْبُو (ك) كَسْبًا وَصَبُونًا

لشكری رہنمائی کرنا۔
 صَبَّ يَصْبُمُ صَامًا: بہت پانی پینا۔
 الصانمُ: پیاسا۔
 صَاى يَصْنِي وَيَصْأى صُنْيًا صُنْيًا
 صُنْيًا تَصَانِي الفَرْخُ: پرندہ کے بچے کا چوں
 چوں کرنا۔ بچھو کا آواز کرنا۔ اسی سے ضرب
 العشل (تھلج) ویصی یعنی ظلم کرتا ہے
 اور شور مچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جاءَ بِمَا
 صَاى وَصَمْتُ یعنی مال ناطق اور مال
 صامت لایا۔
 صَاى: چوں چوں کرنا۔
 صَبَّ (ن) كَسْبًا الماءُ: پانی اٹھیلنے
 الوادى: وادی میں اترنا لدرع: زرد پہننا۔
 صَبَّتِ الدَّرْعُ عَلَى فُلَانٍ: میں نے فلاں
 کو زرد پہنایا۔ کہا جاتا ہے صَبَّ عَلَيْهِ البلاءُ
 من صَبَّ: اس نے اس پر اوپر سے مصیبت
 ذَالِي حَسْبٍ اللّٰهُ عَلَيْهِ صَاعِقَةٌ: اللہ اس
 کے اوپر بجلی ڈالے۔
 صَبَّ رِجْلُهُ فِي الْقَيْدِ: یعنی تیزی پہنا
 دی۔
 صَبَّ (ض) كَسْبًا الماءُ: پانی گرتا۔
 صَبَّ النسي: مٹایا جانا۔ مٹھو کیا جانا۔
 صَبَّ (س) كَسْبًا اليه: عاشق ہونا۔
 اصْبُ اَصْبَابًا القومُ: قوم کا بچے آرتنا۔
 انصبَّ الماءُ: پانی گرنے لہ۔ آرتنا۔ کہا
 جاتا ہے نَصَبْتُ قَدَ مَاءٍ فِي الوادى
 اس کے قدم وادی میں جم گئے۔

ص: الصاد: چودھواں حرف بنیادی حروف
 ہے۔ حروف اسلیہ سے ہے۔ بحساب جمل اس
 اعداد (۹۰) ہے۔
 صَبَّ (س) كَسْبًا مِنَ الشَّرَابِ:
 شراب سے سیر ہونا۔ بھر جانا صَبَّ
 وَاَصَابَ الرَّاسُ: سر میں جوں ہونا یا زیادہ
 جوں ہونا۔
 الصُّوَابَةُ: جوں کے اٹلے۔ حُذُوْبُ
 صِنَانٍ الصَّنَانِ: چھوٹے چھوٹے موتی
 کے مانند اولے۔
 المصنابُ: شراب سے بھر ہوا۔
 صَاَصًا الجَرَوُ: پلے کا آنکھ کھولنے کے
 قریب ہو بلکہ رجلُ: مرد کا بزدل ہو بن
 فُلَانٍ: ڈر (لصاصًا) مِنْهُ: خوف کرنا۔
 تابع ہونا۔
 الصنصا: ردی کھوریں۔
 صِنَصِنَةُ الدِّينِكِ: مرغ کی ناک کا خار۔
 صَنِكُ (س) كَسْبًا: بدبودار پسینہ لگانا
 الدمُ: خون چھیننا۔ چپکانا۔
 صَانِكَةٌ مُصَانِكَةٌ: سختی کرنا۔ تنگی کرنا۔
 الصنك: من الرجال: مضبوط آدمی۔
 صنول (ك) كَصْنُولٍ صَالَةً البعيرُ:
 اونٹ کا آدمیوں پر دوڑنا اور مار ڈالنا۔ صفت
 صنل وصنول
 صَالَ يَصْنُلُ صَنِيلًا الفَرَسُ: گھوڑے کا
 بہنانا۔
 صَامٌ يَصَامُ صَامًا: الجيش على القوم:

مذہب تبدیل کرنا۔ صائین کا دین اختیار کرنا۔
صفت صابی علیہم: اچانک پہنچ جانا
العُدو علیہم: دشمن کی رہنمائی کرنا
(واضباً اصباً) النَّابِ او النَّيَاتِ
دانت لگانا۔ نباتات آگنا وَاضباً القوم: قوم پر
اچانک پہنچ جانا۔

الصَّابُونَ وِ الصَّابِنَةُ: ایک قوم جو ستاروں
کی پرستش کرتی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
نوح کے دین کے پیرو تھے اور کہا گیا ہے کہ ان
کے علاوہ ہیں۔

الصَّبَاوُتِ وِ الصَّبَاوُتِ: جمع صَبِيٌّ
عبرانی کا لفظ ہے جس کے معنی خوبصورتی اور
شرافت کے ہیں اور اسی سے ہے ”رَبِّ
الصَّبَاوُتِ“ یعنی شرافت والا۔

صَبِيحٌ (ف) صَبَاخًا: القَوْمُ: صبح کے
وقت آنا عن الحق: حق ظاہر کرنا۔

صَبِيحٌ (س) صَبَا وِ صَبِيحَةٌ: چمکدار
روشن ہونا الشَّعْرُ: بال کا چمکدار ہونا
الحديد: لوہے کا چمکدار ہونا۔

صَبِيحٌ (ك) صَبَاحَةٌ: الوجه: چہرے کا
روشن و چمکدار ہونا الغلامُ: لڑکے کا
خوبصورت ہونا۔ صفت صَبِيحٌ صَبِيحٌ

صَبِيحَةٌ: صبح کے وقت آنا۔ صبح کی شراب
پلانا۔ صَبِيحٌ القَوْمِ المَاءُ: قوم کو لے کر چلنا
اور صبح کو پانی پر پہنچنا۔ الرَّجُلُ: صبح کو سلام
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صَبِيحَكَ اللّٰهُ بَخِيْرٌ“
اصْبِحْ صَبِيحٌ میں داخل ہونا۔ آدمی رات میں
بیدار ہونا المصباحُ: چراغ جلانا۔ الحقُ:
حق ظاہر ہونا۔

اصْبِحْ بِارْجُلِ اے شخص چو کنار ہو۔
عرب جب کسی سے بدگالی لیا کرتے تھے تو کہا

کرتے تھے صَبَاخَ اللّٰهُ لَا صَبَاخَكَ
تَصْبِحْ صَبِيحٌ کے وقت سونا۔ ناشتہ کرنا۔
تَصْبِحْ بہ صبح کے وقت ملنا۔

تصباحُ: مختلف خوبصورت بنا۔ کہا جاتا ہے
”فَلَانَ يَتَصَبَّحُ وَيَتَسَاحَرُ“، فلاں مختلف
خوبصورت و حسین بننا ہے۔

اصْطَبَحَ: چراغ روشن کرنا۔ کہا جاتا ہے
”الشَّمْعُ مِمَّا يَصْطَبَحُ بِهِ“ مومہاں چیزوں
میں سے ہے جن سے روشنی کی جاتی ہے۔
الرَّجُلُ: صبح کی شراب پینا۔
اصْبَاخٌ اصْبِيحًا: الشَّعْرُ: بال کا مائل
بسرخی ہونا۔

استصْبَحَ: الرَّجُلُ: چراغ جلانا۔ روشن
کرنا۔

الصَّبِيحُ: دن کا ابتدائی حصہ۔ صبح اصباح
الصَّبِيحَةُ: س۔ ناشتہ۔ سیاہ رنگ۔ مائل بسرخ
(و الصَّبِيحَةُ) صبح کی نیند۔

الصَّبَاخِ وِ الصَّبِيحَةِ: الاصبحة: دن کا
ابتدائی حصہ۔ اور وہ شام کی ضد ہے۔ تم کہتے ہو
”اَتَيْتَهُ صَبَاخَ مَسَاءً“ دو نوں بڑے کو جی کر

کے اور ”اَتَيْتَهُ ذَا صَبَاخٍ“ یعنی صبح کے وقت
اور ”عَمَّ صَبَاخًا“ یعنی تمہاری زندگی صبح کے
وقت اچھی ہو۔ ”يَوْمَ الصَّبَاخِ“: بوٹ کا دن۔

الصَّبَاخِ: قدیل کا شعلہ۔ غلامٌ صَبَاخٌ:
خوبصورت لڑکا۔ مؤنث صَبَاخَةٌ صَبَاخٌ:
الصَّبَاخِيَّةُ: چوڑا تیزو۔

الصَّبَاخِيَّةُ: بہت سرخ خون۔
الاصْبَحُ: شیر۔ بال جس میں حقیقتاً سفیدی

سرخی مائل ہو۔ سفیدی سرخی مائل بال والا۔
مؤنث صَبَاخَةٌ: صبح

الصَّبَاخِ: جو چیز صبح کے وقت کھائی یا پی
جائے۔ دودھ جو صبح کو دودھا جائے۔ کہا جاتا ہے

”اَتَيْتَهُ ذَا صَبَاخٍ“ یعنی صبح کے وقت میں
اس کے پاس آیا۔

الصَّبَاخِيُّ: بچوں کو سال کے آخر میں جو دیا
جائے۔ سیارہ عطی والی رات دلہن کو جو دیا جائے۔

الصَّبِيحُ: خوبصورت۔ صبح صبح مؤنث
صَبِيحَةٌ: صبح

الصَّبَاخِ: خوبصورت۔ مؤنث صَبِيحِي
صَبَاخِي: وہ شخص جو صبح کی شراب پیے۔

رَجُلٌ صَبَاخَانٌ: جلدی صبح کی شراب پینے
والا۔

الصَّبَاخِيَّةُ: خوبصورتی۔

المُصْبِحُ: صبح کرنا۔ صبح کرنے کا وقت۔ صبح
کرنے کا مقام۔

المُصْبِحُ: بڑا پیالہ۔ چراغ۔
المُصْبَاخُ: چراغ۔ چوڑو۔ تیزو۔ بڑا پیالہ۔

جس میں صبح کی شراب پی جائے۔ صبح
مصباح

صَبْرٌ (س) صَبْرًا: على الامر: دلیری
کرنا۔ بہادری کرنا۔ صفت صَابِرٌ صَبِيْرٌ

صَبُوْرٌ: عن الشيء: رگ جلانا الدابَّةُ:
جانور کو بغیر چارہ کے باندھ رکھنا۔ مجبور کرنا
اور لازم کر دینا۔ عن الامر: روک دینا۔ بند

کر دینا (کام سے) اسی سے ہے۔ صَبْرٌ
نَفْسِي عَنْ كَذَا: یعنی میں نے اپنے نفس کو
فلاں چیز سے روک دیا۔ وَصَبْرٌ عَلَى مَا

اُكْرَهُ وَصَبْرٌ عَمَّا أَحْبَبْتُ: جس چیز کو
میں مکرہ سمجھتا ہوں اس سے اپنے آپ کو
روک دیا اور جس چیز کو محبوب سمجھتا ہوں اس

سے صبر کیا۔ کہا جاتا ہے ”قَتِلَ صَبْرًا“ وہ قتل
کیلئے بند کیا گیا۔ وَحَلَفَ صَبْرًا: قسم کھانے
کے لیے بند کیا گیا۔

صَبْرٌ (ن) صَبْرًا وِ صَبَاةً: بہ ضامن
ہونا۔

و ضامن دینا۔ کہا جاتا ہے اَصْبِرْنِي یعنی
مجھ کو ضامن دو۔

صَبْرَةٌ: صبر دلانا۔ صبر کرنے کو کہنا
المَيْتُ: مردہ کے پیٹ میں ایلو ڈالنا تاکہ

بدبودار نہ ہو۔ صَبْرُ الكَأْسِ: پیالہ کو بالباب
بھرنا۔

أَصْبِرُ: اللين: کھلے پن کا تھی تک پہنچ جانا۔
ایلوے کی مانند گڑوا ہونا۔ صبر دلانا الرَّجُلُ ام

صبور یعنی مصیبت میں پڑنا۔ شیشی کو کاگ لگانا
القاصِي: فلاں قاصی کا خصم سے بدلہ دلانا۔

صَابِرَةٌ: صَبْرًا او مُصَابِرَةٌ: صبر کرنے میں
غالب رہنا۔

تَصَبَّرَ: تكلف سے صبر ظاہر کرنا علیہ صبر
کرنا۔

اصْطَبَرَ وِ اصْبَرَ: علیہ صبر کرنا منه

صبر (ن ض ف) صبغاً صبغاً
 النوب کپڑے کو رنگنا یدہ فی الساء پانی
 میں ہاتھ ڈبونا یدہ بالعمل کام میں مشغول
 ہونا فلانا بالنعیم نعمتوں سے چھادینا۔
 صبغہ بالماء فاصطبغ پانی سے ہتھمہ
 دینا کہا جاتا ہے صبغونی فی عینک
 یعنی انہوں نے میری برائی تمہارے سامنے
 بیان کر کے میری کیفیت بدل دی۔
 صبغ (ن) صبوغاً صرع اللافۃ
 اونٹنی کے تھن کا بھر جانا اور خوش رنگ ہونا۔
 صبغ گہرا رنگنا (واضح) کھجور کا پکنے لگانا۔
 اصبع علیہ النعمۃ کامل کرنا۔
 تصنع فی دینہ دین میں کامل و پختہ ہو
 جانا۔
 اصطبغ سالن لگانا کہا جاتا ہے اصطبغ
 بالخل او فی الخل اس نے سرکہ کو
 سالن بنایا۔ بکذا رنگین ہونا۔
 الصبغ والصبغ صبغ صبغ
 والصبغ صبغ اصبغہ والصبغہ رنگ۔
 الصبغ سالن۔
 الصبغۃ نوع ملت دین ہتھمہ کارنگ۔
 الصبغۃ ادھ بکجری کھجور۔
 الصباغۃ رنگریزی کا پیشہ۔
 الصباغ رنگنے والا لقب ہے یوحنا کا۔
 الصبغ رنگا ہوا کہا جاتا ہے صبغ
 صبغ ثياب صبغ
 الصباغ رنگریز جھونڈا۔
 الاصبغ بڑا سیلاب من الطیر والشاء
 پرندہ یا بکری جس کی دم سفید ہو من الخیل
 گھوڑا جس کی پیشانی یا کان کے اطراف سفید
 ہوں۔ مؤنث صبغاء صبغ
 المصبغۃ رنگنے کی جگہ۔
 صبن (ض) صبنا الشی عند روک
 دینا دوسری چیز کی طرف پھیر دینا المسافر
 الکعبین جواری کا پانسہ کو پھینکنے کے لیے
 درست کرنا۔
 الصبن واصطنع عند رک جانا۔ پھر

کیا ہوا۔
 الصبیر صبر کرنے والا ضامن۔ قوم کا
 چودھری۔ صبغ صبراً۔
 الصبیر والصبیرۃ چوڑی روٹی۔
 أم صبار وأم صبیرۃ مصیبت۔
 المصنور قتل کے لیے قید کیا ہوا ڈھیر۔
 مؤنث مصنورۃ۔
 صصب متفرق کرنا۔
 تصصب متفرق ہونا تصصب
 اللیل رات کا اکثر حصہ گزر جانا الخوگری
 زیادہ ہونا علیہا فلان بہت بھرت کرنا۔
 الصباص والصبص والصباص
 سخت مضبوط۔
 صبغ (ف) صبغاً صبغاً و علیہ انگلی سے
 اشارہ کرنا فلانا علیہ اشارہ سے رہنمائی
 کرنا۔
 صبغۃ (ف) صبغاً ومصعبۃ متکبر بنانا۔
 اسی سے ہے "من ولادۃ السلطان صبغۃ
 الشیطان" جس کو سلطان والی بنا دیتا ہے۔
 شیطان اس کو متکبر بنا دیتا ہے۔ انگلی پر مارنا۔
 صبغ الشی کسی چیز میں انگلی داخل کرنا بین
 النجوم کسی دوسرے کو قوم کا پتہ بتا دینا۔ فی
 الطعام کھانے میں انگلی ڈالنا۔
 لا صبغ الاصبغ الاصبغ الاصبغ
 الاصبغ الاصبغ الاصبغ الاصبغ
 الاصبغ انگلی۔ مؤنث۔ سائی ہے کبھی مذکر
 بھی آتا ہے۔ صبغ اصباغ الفنیات
 ایک پھول کی قسم۔ فرنجسٹک اصباغ
 العذاری او اصباغ العروس انگور کی
 ایک قسم جو لمبی ہوتی ہے۔
 المصبغۃ غرور متکبر گھمنڈ۔
 اصباغ الید: ہاتھ کی انگلیاں۔ جنصر
 (چنگا) بنصر (چنگا کے ساتھ والی) وسطی
 (درمیان والی) سبابة (آنت شہادت)
 الایہام (انگوٹھا)
 المصبوع گھمنڈی۔ متکبر۔
 المصبغ گوشت بھوننے کا پیچہ۔

بدل لینا۔
 اصباراً اصبراً علیہ صبر کرنا۔
 استصبر الشی: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔ تہ
 بہ ہونا۔
 الصبر بہادری۔ مصیبت کی شکایت نہ کرنا۔
 شہر الصبر رمضان کا مہینہ۔ عین
 الصبر: وہ قسم جس کو کھانے کے لیے قید کر
 دیا جائے۔
 الصبر والصبیر کنارہ سفید بادل۔ صبغ
 اصبار کہا جاتا ہے "اخذ الشی
 باصبارہ" یعنی پورالے لیا۔ "ملا الکاس
 الی اصبارہا" پالے کو کنارے تک بھر دیا۔
 الصبر والصبیر کٹکریلی زمین جو سخت نہ
 ہو۔
 الصبر برف۔ صبغ اصبار۔
 الصبر الیوان صبغ واحد صبرۃ اس
 لفظ میں ب کو بہت کم ساکن کیا جاتا ہے۔
 الصبرۃ غلہ کا ڈھیر۔ سخت پتھروں کا ڈھیر۔
 جمع صبار کہا جاتا ہے "اخذہ صبرۃ" یعنی
 بغیر وزن اور پیمانے کے کل لے لیا۔
 الصابر فا۔ ابو صابر: نمک۔
 الصابورۃ بوجھ جو سواری یا کشتی اجہاز
 وغیرہ میں رکھا جائے تاکہ ادھر ادھر نہ جھٹکنے
 پائے۔
 الصبرۃ والصبارة سخت سردی۔ صبرۃ
 الشتاء سردی کا درمیانی زمانہ۔
 الصبار کاگ۔ ایک کٹے درخت کا پھل۔
 الصبارۃ ضمانت۔ سردی کی شدت۔
 (والصبارة) چکنے پتھر۔
 الصبار والصبار الی۔ ناگ پھنی۔ واحد
 صبارۃ۔ صبارۃ۔
 الصبار امریکہ کے علاقہ کی الی
 الصبارۃ بجر سخت زمین۔
 الصبور صبغ۔ صبر بردبار۔ یہ اللہ تعالیٰ
 کے اسمے حسنی میں سے ہے (والصبار)
 بہت زیادہ صبر کرنے والا۔
 الصبورۃ من الرجال قتل کے لیے قید

صبا شوق۔	صبا شوق۔	صبا شوق۔
الصبا والصباء۔ بچپنا کہا جاتا ہے رائتہ	الصبا والصباء۔ بچپنا کہا جاتا ہے رائتہ	الصبا والصباء۔ بچپنا کہا جاتا ہے رائتہ
فی صباہ او فی صباہ۔ یعنی اس کو بچپنے	فی صباہ او فی صباہ۔ یعنی اس کو بچپنے	فی صباہ او فی صباہ۔ یعنی اس کو بچپنے
میں دیکھا تھا۔	میں دیکھا تھا۔	میں دیکھا تھا۔
الصبوة۔ بچپن۔ جوانی کی نادانی۔	الصبوة۔ بچپن۔ جوانی کی نادانی۔	الصبوة۔ بچپن۔ جوانی کی نادانی۔
الصبی۔ بچہ جو جوان سے کم عمر ہو۔ آنکھ کی	الصبی۔ بچہ جو جوان سے کم عمر ہو۔ آنکھ کی	الصبی۔ بچہ جو جوان سے کم عمر ہو۔ آنکھ کی
پتلی۔ صبیان و صبیان و صبوان	پتلی۔ صبیان و صبیان و صبوان	پتلی۔ صبیان و صبیان و صبوان
و صبوان و اصیبة و صبیة و صبیة	و صبوان و اصیبة و صبیة و صبیة	و صبوان و اصیبة و صبیة و صبیة
و صبیة و صبوة و اصب مؤنث صبیة۔	و صبیة و صبوة و اصب مؤنث صبیة۔	و صبیة و صبوة و اصب مؤنث صبیة۔
صبا یا۔ الصبیة: الرکی۔ الصبی: تلوار	صبا یا۔ الصبیة: الرکی۔ الصبی: تلوار	صبا یا۔ الصبیة: الرکی۔ الصبی: تلوار
کی دھار۔ پاؤں کا بچہ۔ کہا جاتا ہے بہ و جع	کی دھار۔ پاؤں کا بچہ۔ کہا جاتا ہے بہ و جع	کی دھار۔ پاؤں کا بچہ۔ کہا جاتا ہے بہ و جع
فی صبی قدمة۔ اس کے بچے میں درد ہے۔	فی صبی قدمة۔ اس کے بچے میں درد ہے۔	فی صبی قدمة۔ اس کے بچے میں درد ہے۔
الصبیان۔ ڈالھی کے کنارے جو ٹھوڑی کے	الصبیان۔ ڈالھی کے کنارے جو ٹھوڑی کے	الصبیان۔ ڈالھی کے کنارے جو ٹھوڑی کے
قریب ہیں۔	قریب ہیں۔	قریب ہیں۔
الصبیة الاصبیة۔ صبی کی جمع صبیة	الصبیة الاصبیة۔ صبی کی جمع صبیة	الصبیة الاصبیة۔ صبی کی جمع صبیة
اور اصبیة کی تغیر ہے۔	اور اصبیة کی تغیر ہے۔	اور اصبیة کی تغیر ہے۔
الصبا بیة۔ پروائی اور شمالی ہوا کے درمیان کی	الصبا بیة۔ پروائی اور شمالی ہوا کے درمیان کی	الصبا بیة۔ پروائی اور شمالی ہوا کے درمیان کی
ہو۔ المصابیة: مصیبت۔	ہو۔ المصابیة: مصیبت۔	ہو۔ المصابیة: مصیبت۔
صتہ (ن) صتا زور سے دکھا دینا۔ ہاتھ	صتہ (ن) صتا زور سے دکھا دینا۔ ہاتھ	صتہ (ن) صتا زور سے دکھا دینا۔ ہاتھ
سے مارنا بکلام او بد اہیة: تہمت لگانا۔	سے مارنا بکلام او بد اہیة: تہمت لگانا۔	سے مارنا بکلام او بد اہیة: تہمت لگانا۔
مصیبت ڈالنا۔	مصیبت ڈالنا۔	مصیبت ڈالنا۔
صاۃ مضاۃ و صتا جھگڑا کرنا۔	صاۃ مضاۃ و صتا جھگڑا کرنا۔	صاۃ مضاۃ و صتا جھگڑا کرنا۔
تصاۃ القوم: آپس میں جھگڑا کرنا۔ آپس	تصاۃ القوم: آپس میں جھگڑا کرنا۔ آپس	تصاۃ القوم: آپس میں جھگڑا کرنا۔ آپس
میں جگ کرنا۔	میں جگ کرنا۔	میں جگ کرنا۔
الصت و الصت و الصتة۔ جماعت	الصت و الصت و الصتة۔ جماعت	الصت و الصت و الصتة۔ جماعت
الصت و الصتة۔ ضد۔ ہٹ۔	الصت و الصتة۔ ضد۔ ہٹ۔	الصت و الصتة۔ ضد۔ ہٹ۔
الصت۔ درپے۔ کہا جاتا ہے "ہو بصتہ"	الصت۔ درپے۔ کہا جاتا ہے "ہو بصتہ"	الصت۔ درپے۔ کہا جاتا ہے "ہو بصتہ"
وہ اس کے درپے ہے۔	وہ اس کے درپے ہے۔	وہ اس کے درپے ہے۔
الصیت۔ جماعت۔ آواز۔ شور۔	الصیت۔ جماعت۔ آواز۔ شور۔	الصیت۔ جماعت۔ آواز۔ شور۔
المصیت۔ اپنے کاموں میں مستعد۔	المصیت۔ اپنے کاموں میں مستعد۔	المصیت۔ اپنے کاموں میں مستعد۔
صتعة (ف) صتعا۔ بچھاڑ دینا لہ: کسی کا	صتعة (ف) صتعا۔ بچھاڑ دینا لہ: کسی کا	صتعة (ف) صتعا۔ بچھاڑ دینا لہ: کسی کا
تصد کرنا۔	تصد کرنا۔	تصد کرنا۔
تصنع۔ کسی کام میں تردد کرنا۔	تصنع۔ کسی کام میں تردد کرنا۔	تصنع۔ کسی کام میں تردد کرنا۔
الصنع۔ مضبوط جوان۔ گور خر۔	الصنع۔ مضبوط جوان۔ گور خر۔	الصنع۔ مضبوط جوان۔ گور خر۔
صتم۔ الشیء کمل کرنا۔	صتم۔ الشیء کمل کرنا۔	صتم۔ الشیء کمل کرنا۔
تصتم۔ تیز دوڑنا۔	تصتم۔ تیز دوڑنا۔	تصتم۔ تیز دوڑنا۔
الصتم و الصتم۔ سخت مضبوط۔ کمال	الصتم و الصتم۔ سخت مضبوط۔ کمال	الصتم و الصتم۔ سخت مضبوط۔ کمال
صبا۔ صابن۔ کلمہ فارسی الاصل ہے۔	صبا۔ صابن۔ کلمہ فارسی الاصل ہے۔	صبا۔ صابن۔ کلمہ فارسی الاصل ہے۔
عربی میں (صابون) کہتے ہیں۔ ایک گلے کو	عربی میں (صابون) کہتے ہیں۔ ایک گلے کو	عربی میں (صابون) کہتے ہیں۔ ایک گلے کو
(صابون) کہتے ہیں اور اس کے بیچنے والے اور	(صابون) کہتے ہیں اور اس کے بیچنے والے اور	(صابون) کہتے ہیں اور اس کے بیچنے والے اور
بنانے والے کو صبان و صابونی کہتے ہیں۔	بنانے والے کو صبان و صابونی کہتے ہیں۔	بنانے والے کو صبان و صابونی کہتے ہیں۔
الصابونیة۔ ایک قسم کا پودہ جس سے دھویا	الصابونیة۔ ایک قسم کا پودہ جس سے دھویا	الصابونیة۔ ایک قسم کا پودہ جس سے دھویا
جاتا ہے۔	جاتا ہے۔	جاتا ہے۔
المصنبة۔ صابون کا کارخانہ۔	المصنبة۔ صابون کا کارخانہ۔	المصنبة۔ صابون کا کارخانہ۔
صبا یصبو صبوۃ و صبوة و صبوا۔ الیہ	صبا یصبو صبوۃ و صبوة و صبوا۔ الیہ	صبا یصبو صبوۃ و صبوة و صبوا۔ الیہ
ولہ: مشتاق ہونا۔	ولہ: مشتاق ہونا۔	ولہ: مشتاق ہونا۔
صبا یصبو صبا و صبوا و صبوا	صبا یصبو صبا و صبوا و صبوا	صبا یصبو صبا و صبوا و صبوا
و صبوا۔ بچپنے کی طرف مائل ہونا۔ بچوں کی	و صبوا۔ بچپنے کی طرف مائل ہونا۔ بچوں کی	و صبوا۔ بچپنے کی طرف مائل ہونا۔ بچوں کی
سی خصلت اختیار کرنا۔ صفت صاب مؤنث	سی خصلت اختیار کرنا۔ صفت صاب مؤنث	سی خصلت اختیار کرنا۔ صفت صاب مؤنث
صابیة۔	صابیة۔	صابیة۔
صت صبا و صبوا۔ الریح: پروائی ہوا	صت صبا و صبوا۔ الریح: پروائی ہوا	صت صبا و صبوا۔ الریح: پروائی ہوا
کا چلنا۔	کا چلنا۔	کا چلنا۔
صبی و اصبی۔ القوم: پروائی ہوا کا گنا۔	صبی و اصبی۔ القوم: پروائی ہوا کا گنا۔	صبی و اصبی۔ القوم: پروائی ہوا کا گنا۔
اصبی۔ الرجل: بچے والا ہونا۔ اصبی	اصبی۔ الرجل: بچے والا ہونا۔ اصبی	اصبی۔ الرجل: بچے والا ہونا۔ اصبی
الشیء فالانا: شوق میں ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے	الشیء فالانا: شوق میں ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے	الشیء فالانا: شوق میں ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے
اصبتہ المکارم: اس کو مکارم نے شوق میں	اصبتہ المکارم: اس کو مکارم نے شوق میں	اصبتہ المکارم: اس کو مکارم نے شوق میں
ڈال دیا۔	ڈال دیا۔	ڈال دیا۔
صبی یصبی صبا و استصبی۔ بچوں	صبی یصبی صبا و استصبی۔ بچوں	صبی یصبی صبا و استصبی۔ بچوں
جیسا کام کرنا۔ صبی الیہ: مشتاق ہونا۔	جیسا کام کرنا۔ صبی الیہ: مشتاق ہونا۔	جیسا کام کرنا۔ صبی الیہ: مشتاق ہونا۔
استصباہ: کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا	استصباہ: کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا	استصباہ: کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا
بچوں سے کیا جاتا ہے۔	بچوں سے کیا جاتا ہے۔	بچوں سے کیا جاتا ہے۔
صابی مضاہاة: نیزہ مارنا۔ نیزے کو مارنے	صابی مضاہاة: نیزہ مارنا۔ نیزے کو مارنے	صابی مضاہاة: نیزہ مارنا۔ نیزے کو مارنے
کے لیے جھکانا السیف: تلوار کو میان میں	کے لیے جھکانا السیف: تلوار کو میان میں	کے لیے جھکانا السیف: تلوار کو میان میں
الٹی طرف سے کرنا الکلام: بے قاعدہ بولنا	الٹی طرف سے کرنا الکلام: بے قاعدہ بولنا	الٹی طرف سے کرنا الکلام: بے قاعدہ بولنا
تبت الشفر: الجھٹی طرح نہ پڑھنا۔	تبت الشفر: الجھٹی طرح نہ پڑھنا۔	تبت الشفر: الجھٹی طرح نہ پڑھنا۔
تصبی تصبیاً و تصابی تصابیا۔ کھیل کود	تصبی تصبیاً و تصابی تصابیا۔ کھیل کود	تصبی تصبیاً و تصابی تصابیا۔ کھیل کود
کی طرف مائل ہونا المرأة: عورت کو فریب	کی طرف مائل ہونا المرأة: عورت کو فریب	کی طرف مائل ہونا المرأة: عورت کو فریب
دینا اور مقون بننا۔ تصباہ الشیء: شوق میں	دینا اور مقون بننا۔ تصباہ الشیء: شوق میں	دینا اور مقون بننا۔ تصباہ الشیء: شوق میں
ڈالنا۔	ڈالنا۔	ڈالنا۔
الصبا۔ پروائی ہوا (مؤنث ہے) اس کے	الصبا۔ پروائی ہوا (مؤنث ہے) اس کے	الصبا۔ پروائی ہوا (مؤنث ہے) اس کے
مقابل کی ہوا کا نام ذبور ہے۔ تشبیہ اس کا	مقابل کی ہوا کا نام ذبور ہے۔ تشبیہ اس کا	مقابل کی ہوا کا نام ذبور ہے۔ تشبیہ اس کا
صبوان اور صبیان اور جمع صبوات اور	صبوان اور صبیان اور جمع صبوات اور	صبوان اور صبیان اور جمع صبوات اور
اصبا۔	اصبا۔	اصبا۔

صحابیة وصاحبہ مَصَابِحَة ساتھی ہونا۔ دوستی کرنا۔ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔

صحب (ف) صحباً المذبذوب: کھال اتارنا۔

أصحب الرجل: ساتھی والا ہونا۔ بیٹے کا بالغ ہو کر اپنے ہی مانند ہونا۔ دشواری کے بعد تابعدار ہونا الماء پانی کا کالی والا ہونا فلاں: محفوظ رکھنا ہ عن کذا: روک دینا ہ الشئ ساتھ کر دینا۔

تصحب منه: شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "فلاں ما يتصحب من شئ" یعنی فلاں نہ تو پرہیز کرتا ہے اور نہ شرم کرتا ہے۔

أصطحب: فلانا: حفاظت کرنا۔ اصطحبو: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔ استصحبہ ساتھی بنانا۔ ساتھی بننے کے لیے کہنا۔ ساتھی بنا۔ استصحبہ الشئ: کسی چیز کو ساتھ رکھنے کے لیے کہنا الشئ: کسی چیز کو ساتھ کر دینا۔

الصاحب: ساتھی۔ ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ مالک۔ وزیر۔ گورنر۔ کہا جاتا ہے "صاحب حماة" یعنی حاکم حماة اور "یا صاحب" یا صاحب کی ترجمیم ہے۔ صحب واصحاب و صحبان و صحبایہ وصحابیہ اور اصحاب کی جمع اصحاب۔ الصحابة: صاحب کامونٹ۔ بیوی۔ صحاحبات و صواحب۔

الصحابة: وہ حضرات (رضی اللہ عنہم) جو روبرو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان لائے اور ایمان ہی پر انتقال ہوا ہو۔

الصحابی: جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رفق منسوب ہو۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے فرد واحد۔

المصاحب: ساتھ رہنے والا۔ دشواری سے فرما تیردار ہونے والا۔ المصحف: پاگل آدمی جو خود بخود باتیں

کرے۔ عُوذُ صُحْب: وہ لکڑی جس سے چھلکا علیحدہ نہ کیا گیا ہو۔ اِدِیْم مَضْحَب: وہ چیز جس سے بال دور نہ کیے گئے ہوں۔

المضحب و المصحاب: فرما تیردار۔ ذلیل۔ اِدِیْم مَضْحَب: جس چوڑے پر بال یا اون ہوں۔ عُوذُ مَضْحَب: وہ لکڑی جو چھیلی نہ گئی ہو۔

المضحوب: منہ اذیم معسوب: وہ چیز جس پر دے بال نہ اتارے گئے ہوں۔ عُوذُ مَضْحُوب: وہ لکڑی جس پر سے چھال دور نہ کی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "أذهب مضحوباً مضاحباً" یعنی محفوظ خیریت و عافیت کے ساتھ جاؤ۔

صَحْر (ف) صحرا: اللبن: دودھ کو اَبالنا۔ صحرتہ النسئس: دھوپ کا دامغ کو تکلیف پہنچانا۔

صحْر (ف) صحیراً و صحاراً: الحمار: گدھے کا زور سے رینکانا۔

صحْر (س) صحراً: سرخی مائل نیلا ہونا۔ صفت اصحر مؤنث صحراء صحْر: القارنگ کانام صحرة۔

أصحْر: جنگل کی طرف جانا المکان: جنگل کی مانند وسیع ہونا الامر و بالامر: ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "لا تصحروه أمرک" یعنی اس کے سامنے اپنے امر کو ظاہر نہ کرو۔ اور "أصحْر مافی قلبک" یعنی اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرو الرجل: کانا ہونا۔

أصحْرًا اصحیراراً: سرخی مائل نیلے رنگ والا ہونا۔

الصحْر: سرخ سفید رنگ۔

الصحراء: بیابان جس میں نباتات نہ ہو۔ صحاری صحار و صحاری و صحراوات۔

الصحیرة: دودھ جو اَبالا جائے اور اس میں شہی اور آملا دیا جائے۔

المصاحِر: وہ شخص جو اپنے مقابل سے بیابان میں جنگ کرے اور فریب نہ دے۔

المُصحِر: شیر۔

صَحْصَح: الامر: روشن ہونا۔ ظاہر ہونا۔

الصَحْصَح والصَحْصَحان: ہموار زمین جو نباتات وغیرہ سے خالی ہو۔ صحاصح الصحاصح و ترهات الصحاصح و لغویات: خرافات۔ اضافت کے ساتھ بہتر ہے۔

الصَحْصَح والصَحْصُوح: من الرجال: مرد بائیک ہیں۔

المُصحِح: خالص نجبت والا۔ باطل کوش۔

صَفَّف: الکلمة: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ اصْحَف: الکتاب: کتاب میں صحیفوں کو جمع کرنا۔

تَصَحَّف: القارئی: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ کہا جاتا ہے "تصحفت علیه الصحيفة" یعنی صحیفہ میں کلمہ اس پر متغیر ہو گیا۔

الصَحْفَة: بڑا چوڑا پیالہ جس سے پانچ آدمی آسودہ ہو جائیں۔ صحاف: الصحف: چھوٹے چھوٹے جتنے۔

الصحافة: ایڈیٹری۔ عالمہ الصحافة: محررین اخبار۔

الصحيفة: لکھا ہوا کاغذ۔ ورق۔ صحيفة الوجه: چہرے کی کھال۔ کہا جاتا ہے صن صحيفة وجهك: اپنے چہرے کی کھال کو بچاؤ۔ صحاف و صحف۔

الصحيفة: چھوٹا پیالہ جس سے ایک آدمی آسودہ ہو۔

الصحيف: رُوئے زمین۔

الصحاف: پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔ کتب فروش۔

الصحفي: بغیر استاد کے کتب بینی سے علم حاصل کرنے والا۔ (والمصحف) پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔

المصحف والمصحف: المصحف: جلد کتاب۔ مصحف: جمع۔

میں داخل ہونا الحِرَبَاء: گرگٹ کا دھوپ کھانا۔

الصاخدة. دوپہری۔

الصخدان والصخدان. سخت گرمی کا دن۔

صخذ الشمس: گرور آفتاب۔

هاجرة صيخود: سخت گرم دوپہری۔

صياخيد صياخيد الحر: گرمی کی تیزی۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

المصخذة. دوپہر۔

آسمان کا قوم پر ہے ابر ہونا۔

الصخو. کہا جاتا ہے "سَمَاءٌ صَخْوٌ وَ يَوْمٌ صَخْوٌ" یعنی آسمان اور دن بے ابر و بار ہیں۔ اور یہ وصف بالمصدر ہے۔

المصخاة. باعث افاقہ۔ کہا جاتا ہے "فِي مَسَلَاةٍ مِنْ كَرْبِ الْهَيْمِ وَ مَضْحَاةٍ مِنْ سَكْرِ الْهَيْمِ" یعنی اس میں غم سے تسلی اور نشہ غم سے افاقہ ہے۔

المصخاة برتن۔ طشت۔ پیالہ۔

صخ (ن) صخا الحديد بالحديد

لوہے کو لوہے پر مارنا الصب الاذن: آواز کا کان کو بہرا کر دینا (صخا صخيا).

الحديد: لوہے کا آواز کرنا الحديد: کان لگانا۔

الصخة. ام مرة۔ باری (والصخ و الصخیح) پتھر یا لوہے کی آواز۔

الصخیح. خوف زدہ کرنے کی آواز۔

الصاخة. سخت آواز جو بہرا کر دے۔ مصیبت۔ قیامت۔

صخب (س) صخبا شور مچانا۔

صاخبة مصاخبة. ایک دوسرے کا شور مچانا۔

تصاخب. القوم. باہم شور مچانا اور رہیٹ کرنا۔

اضطخيت الطير او الضفدع: پرندیا مینڈک کی آواز کا تعلق ہونا۔

الصخب من شور۔

الصاخب والصخب والصخاب و الصخوب والصخبان. شور مچانے والا۔

مؤنث صخبة و صخب و صخابة و صخوب و صخبی

صخا (س) صخدا و صخدانا اليوم.

صخذته (ف) صخبا الشمس.

جلانا. المصد للورے کا آواز کرنا۔

صخذ (ف) صخودا ليد کان لگانا۔

اصخذ الحر: گرمی تیز ہونا الرجل گرمی

المصخف. تغیر کیا ہوا۔

صحل (س) صخلا صوته: بڑی ہوئی آواز والا اور بھاری آواز والا ہونا۔ صفت

صحل واضحل

اصطخم الرجل: سیدھا کھڑا ہونا۔

اصحام اصحيمانما. النبات: پودہ کا بہت سرسبز ہونا۔ بزرگی کا زردی سے ملنا۔ صفت

اصحمت مؤنث صخماء رنگ۔ صخمة الارض: زمین کے نباتات کا تغیر ہونا

الورع: سردی لگ جانا اور خشک ہونا شروع ہونا۔

صحنه (ف) صحنا مارنا۔ کہا جاتا ہے "صحنه عشورين سوطا" اس نے اس کو تین کوڑے مارے۔ صحنه برجله: پیر سے مارنا الرجل: کسی کو پیالہ میں کچھ دینا۔

صحنه دينار: دینار دینا بينهم: اصلاح کرنا۔

الصحن چھوٹا پیالہ۔ بڑا پیالہ۔ گھر کا باطنی حصہ اور اسی سے ہے "فرس واسع" الصحن

من الارض: ہموار زمین۔ صحنون الصحنان: چھانچھانچھ ایک قسم کا پاجامہ۔

صحننا الاذنين: کان کے اندرونی حصے۔ فرس صحنون لٹ مارنے والا گھوڑا۔

الصحنی والصحناة والصحناء والصحناء: چھوٹی نمک ملی ہوئی پھل۔

المصحنة برتن جو بڑے پیالے کی مانند ہو۔

صحا يصخو صخوا وضخوا و صخی يصخى صخا واضخی اصحاء اليوم: دن کا بغیر بدل کے صاف ہونا۔ صفت

صحو و صاخ و مضح السكران: نشہ اتر جانا الرجل: بیچنے کی جھالت کو چھوڑ دینا۔ افاقہ میں آنا۔ صفت

صاح و صاخون صحاة مؤنث

صاحية و صاحيات و صواح صحاه: ہوش میں لانا۔ اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

اصخى القوم:

تَصَادَرُوا، عَلَي مَاشَاءَ وَ:

صدروا.

الصدر. ہر چیز کا سامنے سے اوپر کا حصہ۔

سینہ۔ ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ ہر چیز کا ایک ٹکڑا۔

تم کہتے ہو "أَخَذْتُ صَدْرًا مِنْهُ" میں نے

اس میں سے ایک حصہ لے لیا۔ صَدْرُ الْقَوْمِ:

رہیں۔ الصدر الاعظم۔ وزیر اعظم۔ ج

صُدُور.

بَنَاتُ الصُّدْرِ. افکار۔

ذَاتُ الصُّدْرِ. سینہ کی ایک بیماری کا نام۔

صُدُورُ الْوَادِي. وادی کا اگلا اور اعلیٰ حصہ۔

کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِصُدْرِهِ" یعنی اول

حصہ کو لے لیا۔ فَلَانَ بَعِيدَ الصُّدْرِ" یعنی

غیر مہربان۔

الصدر. پانی پر سے واپسی۔ سفر سے واپسی۔

صَادِرًا كَمَا تَج.

الصادر. فائز والا۔ پانی پر سے لوٹنے

والے پر عموماً بولا جاتا ہے اور اس کا مقابلہ وارد

ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا۔ اور اسی سے ہے

"مَالُهُ صَادِرٌ وَلَا وَارِدٌ" یعنی اس کے پاس

کچھ نہیں۔ طریق صَادِرٌ: پانی پر لے جانے

والا راستہ۔ طریق وَارِدٌ صَادِرٌ: ایسا راستہ

جس سے پانی پر لوگ آئیں جائیں۔

الصدرة. مِنَ الْإِنْسَانِ: سینہ یا سینے کا اوپر

کا حصہ۔ صدری۔ واسکت۔

التصديرة. تنگ اونٹ کے سینے کا۔

الصدار. صدری۔ اونٹ کے سینے پر نشان۔

الصدارة. تقدم۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ

(والصديرة) سینے کا اوپر کا حصہ۔ ج

صدائر.

الاصدر. مضبوط بڑے سینے والا۔

الاصدران. کپڑے کے نیچے کی رگیں۔

المصدر. جائے صدور۔ ج مصدر اور

اسی سے مصدر افعال ہیں اس لیے کہ مصدر

مشققات کے لئے اصل و جڑ ہیں۔

المصدر. فا. رَجُلٌ مُصَدِّرٌ: کاموں کو

پورا کرنے والا۔

تازک بدن مرد۔

الصدی. جس پر مورچہ لگ گیا ہو۔ کہا جاتا

ہے "رَجَعَ فَلَانٌ صَاعِرًا صَدْنَا" فلاں

شخص لوٹا اس حال میں کہ اس پر ذلت کا دھبہ

لگ چکا تھا۔

الصدأة. مورچہ کا رنگ۔

صدح (ف) صدحا و صدحا.

الرَّجُلُ او الطائر: سریلی آواز بلند کرنا۔

صفت صادح و صدح و صیدح و

صیداح و صدوح و صیدجی و

مصدح و مصداح.

الصدح. علم. خالی مکان۔ چھوٹا پتھر یا

ٹیلہ۔ شئی صدح: سیاہ چیز۔ ج صدحان.

الصدحة والصدحة والصدحة. مہر

جس کو بطور تعویذ استعمال کیا جاتا ہے۔

صَدْر (ن ض) صَدْرًا و مُصَدِّرًا. عِن

الْمَكَانِ و عِن الْمَاءِ: واپس ہونا الی

الْمَكَانِ: متوجہ ہونا الرَّجُلُ عَنِ كَذَا:

واپس کر دینا (صُدُورًا) الْأَمْرُ: پیدا ہونا۔

حاصل ہونا۔ واقع ہونا مِنْهُ: ظاہر ہونا عَنْهُ:

پیدا ہونا۔ نتیجہ نکالنا۔

صَدْرَةَ صَدْرًا. سینہ پرانا۔

صَدْر. سینہ میں درد ہونا۔ صفت مُصَدِّرٌ.

صَدْرَةٌ واپس کرنا۔ آگے بڑھانا۔ صدر مجلس

میں بھانا۔ صَدْرُ الْكِتَابِ بكذا: کتاب پر

کسی چیز سے شروع کرنا الْفَرَسُ: گھوڑے کا

آگے بڑھنا۔

أَصْدَرَهُ. عَنِ كَذَا: واپس کرنا۔ أَصْدَرَ

الْأَمْرُ: ظاہر کرنا الرَّجُلُ لے جانا۔ کہا جاتا

ہے "فَلَانَ يُوْرِدُ وَلَا يُصْدِرُ" یعنی فلاں کام

کو شروع کرتا ہے اور ختم نہیں کرتا۔

صَادِرَهُ. عَلَي الشَّيْءِ و بِهِ: اصرار کے

ساتھ مطالبہ کرنا۔

تَصَدَّر. صدر مجلس میں بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے

"تَصَدَّرَ الْمَجْلِسُ" مجلس میں سینہ نکال کر

بیٹھنا۔

الْفَرَسُ: گھوڑے کا آگے کو سینہ نکالنا۔

منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "صَدَّ السَّبِيلَ" یعنی

راستہ کے درے گھاٹی وغیرہ کی روک واقع

ہوگئی۔

صَدَّ (ن ض) صَدًّا و صُدُودًا. عَنْهُ:

اعراض کرنا۔ صفت صَادٌّ. ج جمع صُدَاد:

مؤنث صَادَةٌ جمع صَوَادٌ و صُدَاد.

صَدَّ (ن ض) صَدِيدًا. مِنَ الشَّيْءِ: جیح

پڑنا۔ چلانا۔

صَادَةٌ. مدافعت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ

يُصَادُّهُ و يُصَادُّهُ" یعنی وہ مدافعت کرنے

لگا۔

صَدَّد. تالی بجانا الْجُرْحُ: پیپ دینا۔

أَصْدَرَهُ. عَنِ كَذَا: منع کرنا۔ باز رکھنا۔

الْجُرْحُ: پیپ دینا یا بہ پڑنا۔

تَصَدَّدَ لَهُ: درپے ہونا۔

أَصْطَدَّتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا پردہ کرنا۔

الْصَّدُّ. مِنَ الصَّدِّ: بلند بادل۔ وادی کا

کنارہ۔ ج اصداد و صُدُود.

الصدد. درپے۔ قصد۔ میلان۔ کنارہ۔

الصداد. پردہ۔ ج اصيدة.

الصدود. روکنے والا (مفعول بمعنی فاعل)

چھوٹی کرتی۔

الصدید. سب پیپ خون سے ملی ہوئی۔

صدید الفضة. پھل ہوئی چاندی۔

الصداد. سانپ۔ چھکی۔ پانی پر جانے کا

راستہ۔ ج صدائد.

صدی (س) صَدًّا و صَدْرًا (ک)

صداءة. الحدید: رنگ لگ جانا۔ صفت

صدی مؤنث صدیة الشئ: رنگ کے رنگ

کے مشابہ ہونا۔ صفت أَصْدًا مؤنث صَدَاءُ

الرَّجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا اور دیکھنا۔

صَدًّا (ف) صَدًّا و صَدًّا تَصَدَّدَةُ

الشئ: رنگ دُور کرنا الْمَرْأَةُ: آئینہ کو

صاف کرنا۔

أَصْدَاهُ. مورچہ والا جھیبانا۔

تَصَدَّدَ لَهُ: درپے ہونا۔

الصداء. رنگ۔ مورچہ۔ رَجُلٌ صَدًّا:

المصدّر قوی اور بڑے سینہ والا۔ آگے بڑھے والا گھوڑا۔ شیر۔ بھیڑیا۔
صدع (ف) صدوعاً۔ الی کذا مثل ہونا۔

صدع (ف) صدعاً۔ الشیء ایس طرح پھاڑنا کہ جدا نہ ہو۔ القوم بمتفرق کر دینا۔ الأمر ظاہر کرنا۔ بالحق حق بات کو حکم کھلا بیان کرنا۔ فی الأمر کر گزرتا۔ الأمر بالحق حق کا فیصلہ کرنا۔ فلانا تصد کرنا۔ صدعہ عن کذا زوک دینا۔ النهر کاٹ دینا۔ فی المکان گزرتا۔ عبور کرنا۔ کہا جاتا ہے "هذا الطريق یصدع فی أرض کذا" یہ راستہ فلاں زمین میں گزرتا ہے۔ اللیلدرات میں چلنا۔

صدع و صدع و درو درو میں مبتلا ہونا۔ صفت مصدوع۔ صدع۔ الشیء پھاڑنا۔ الفلاة او النهر بیابان یا نہر کو طے کرنا۔

تصدع۔ القوم بمتفرق ہونا۔ تصدعت الارض بہ زمین میں بھاگ کر غائب ہو گیا۔

تصدع وانصدع۔ الشیء پھٹنا۔ کہا جاتا ہے "تصدعت وانصدعت الارض بالنسب یعنی زمین میں روئیدگی ظاہر ہوئی۔ انصدع الصباح صبح کی روشنی پھیلنا۔

الصادع۔ فاتحی۔ جبل صاعد عذور تک پھیلا ہوا پہاڑ۔ واد صاعد ذور تک پھیلی ہوئی وادی۔ سبیل صاعد ذور تک پھیلا ہوا راستہ۔ صبح صاعد غروب صبح۔ الصدع عکاف۔ ج صدوع۔

الصدع والصدع لکا پھکا مرد۔ قوی جوان۔ صدع الحدید لوہے کا مورچہ۔ زنگ۔ کہا جاتا ہے "الناس علیہم صدع واجد لوگ ان کے اوپر عداوت میں متفق ہیں۔

الصدع آدمیوں کی جماعت۔ دو برابر میں پھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔

الصدعة اسم مرۃ۔ پھین۔ پراگندگی۔ تفرق۔ ج صدعات کہا جاتا ہے "زابت بینہم صدعات یعنی رائے اور خولہات میں اختلافات و اصلحوا ما فیکم من الصدعات یعنی جمع ہو جاؤ اور تفرق مت ہو۔

الصدعة ج صدع والصدیع ج صدع بکریوں کا ریوڑ۔ اونٹوں کا گلہ۔ دو برابر میں پھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ صدع بمعنی مصدر۔ صح۔ پھٹا ہوا کپڑا۔ وہ کپڑا جو زہر کے نیچے پہنا جائے۔

الصداع اور دوسر۔ الصداع تفریق۔ المصدع بخت زمین میں نرم راستہ۔ ج مصادع۔

المصدع نیزہ۔ تیر۔ چھری کا چوڑا پھل۔ حطبت مصقع مصدع خلیج خلیب۔ صدع (ف) صدعاً۔ عن الأمر یاز رکنا۔ روکنا۔ سیدھا کرنا۔ السنلة چیونٹی کو مارنا۔

صدع (ف) صدعاً۔ مونڈھے سے مونڈھا ملا کر چلنا۔

صدع (ن) صدعاً و صدوعاً۔ الی الشیء نکل ہونا۔ صدع (ک) صداعاً۔ کمزور و ناتواں ہونا۔

صدع کپٹی کے درد میں مبتلا ہونا۔ صداعاً۔ مونڈھے سے مونڈھا ملا کر چلنے میں مقابلہ کرنا۔

الصدع کپٹی۔ کپٹی کے بال۔ ج اصداغ الصدع غمی۔ ٹیڑھا پن۔ الصداع کپٹی پر نشان۔ الصدیع کمزور۔ تین دن کا بچہ۔ الاصدغان دونوں کپٹی کے نیچے کی رگیں۔

المصدع غمگی۔ بعبیر مصدع و مصدوع کپٹی پر نشان

والا اونٹ۔

صدف (ن ض) صدفا و صدوفا پھر جانا۔

صدف (ض) صدفا۔ عنہ اعراض کرنا۔ فلانا پھیر دینا۔ ہٹانا۔

صدف (س) صدفا گھوڑے کی رانوں کا قریب اور کھروں کا دور ہونا۔

اصدفا۔ عند پھیر دینا۔ ہٹا دینا۔ صادف پیانا۔

تصادف ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ الصدث پی۔

الصدف ایک پی۔ ج اصداغ صدفة الاذن کان کا اندرونی حصہ۔

الصدف۔ فی الخیل رانوں کی نزدیکی اور کھروں کی دوری۔ الصدغ الصدفة۔

جانب۔ کنارہ۔

الصدف والصدف والصدف والصدف پہاڑ کا کنارہ۔ الصدغ زبان اور جڑے کا درمیانی حصہ۔

فرس اصدف وہ گھوڑا جس کی رانیں قریب قریب اور کھڑور ہوں۔

الاصداغ۔ سندر کی موجیں۔ الصدغ فلما قات۔

الصدغ فلما ترم مزاج جانور جو کہ پانی میں زندگی بسر کرتا ہے اس میں بڑی نہیں ہوتی اور جلد چھلی کی طرح ہوتی ہے۔

الصدغ فگندہ ذہن۔ بہت اعراض کرنے والا۔

المصدغ من چھاپا ہوا۔

صدق (ن) صدقا و صدقا و مصدوفة و تصدقاچ بولنا فی وعدہ و وعیدہ پورا کرنا۔ فی الجملة بہادری ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "صدق القتال و صدق فلانا القتال" بخت جنگ کی

النصحة او المحبة خالص نصحت یا محبت کرنا۔ الحدیث صحیحی بات بیان کرنا۔ صحیح خبر دینا۔

الاصداغ صدغی۔ ٹیڑھا پن۔ الصداع کپٹی پر نشان۔ الصدیع کمزور۔ تین دن کا بچہ۔ الاصدغان دونوں کپٹی کے نیچے کی رگیں۔

المصدع غمگی۔ بعبیر مصدع و مصدوع کپٹی پر نشان

”اِنَّهُ ذُو مِصْذِقٍ اَوْ ذُو مِصْذِقٍ“ یعنی

بہادر ہے جنگجو ہے یا تیز دوڑنے والا ہے۔

المِصْذِقُ مِصْذِقَةٌ۔ سچائی۔

النصديق: علم منطقی میں وہ شے جس کے وجود کے علاوہ اس پر حکم بھی لگا دیا جائے وہ تصدیق ہے اگر وجود مانا جائے اور حکم نہ لگایا جائے تو وہ تصور ہے۔

اس کی مثال: کسی حیوان کو دیکھ کر اس پرناطق یا غیرناطق نہ لگانا تصور ہے۔

صدمه (ض) دفع کرنا۔ ہٹانا۔

آڑنا۔ کہا جاتا ہے ”صدمه امر شديد“ اس کے

اوپر مصیبت آڑی ”صدمته حميا“

الکاس یعنی اس کے اوپر شراب کے پیالہ کی

تیزی کا اثر ہوا۔

صادمه مصادمة۔ مارنا۔

اصطدم و تصادم۔ الفارسان: ایک

دوسرے کو مارنا۔ ایک دوسرے کی مزاحمت

کرنا۔

الصدام۔ جانوروں کے سر میں ایک بیماری۔

الصدمة۔ اسم مرۃ۔ دفعة واحدة کہا جاتا

ہے ”صرعه بصدمة“ ایک ہی مرتبہ میں

”اعطاء رزق شهرين بصدمة“

پچھاڑ دیا۔

دو مہینے کی روزی ایک ہی مرتبہ دے دی۔

الصدمتان والصدمتان۔ پیشانی کے

دونوں جانب۔

الاصدم۔ وہ شخص جس کی پیشانی کے دونوں

جانب کے بال گر گئے ہوں۔

رجل مصدم۔ جنگجو بہادر۔

صدًا يصدوا صدوا وصدى۔ بیدینیہ:

دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔

صدى يصدى صدى۔ سخت پیاسا ہونا۔

صفت صد وصاد وصدیان۔ مؤنث

صدیا وصادیۃ ج صواد۔ کہا جاتا ہے

”انا صدیان ابی حدینک ولی احشاء

صواد“ یعنی میں تمہاری بات چیت کا بہت

مشاق ہوں۔ صدی الشی لمباہونا۔

صداہ مصادا۔ مقابلہ کرنا۔ مدارات

صدقة۔ سچا پانا۔ سچا سمجھنا۔

صَادِقَةٌ صَادِقًا وَ مِصَادِقَةٌ۔ دوست بننا۔

صَادِقَةُ الْمَوَدَّةِ: خالص دوستی کرنا۔

أَصْدَقُ. الإئِنَّة: سچی کام مقرر کرنا۔

تَصَدَّقَ. صدقہ دینا علی الفقیر بکذا

فقیر کو کوئی چیز صدقہ میں دینا۔

تَصَادَقَا. محبت کرنا۔ دوستی کرنا۔ تَصَادَقَا

الْحَدِيثُ اَوْ الْمَوَدَّةُ اَوْ فِيهِمَا. ایک

دوسرے سے سچی بات کہنا یا خالص دوستی کرنا۔

الصدق۔ سیدھا سچا نیرہ ہونا (کوئی اور چیز)

کہا جاتا ہے ”زمح صدق وفساة صدقة“

سیدھا سچا نیرہ ہونا۔ کامل۔ کہا جاتا ہے

”رجل صدق اللقواء والنظر“ ملاقات اور

شفقت میں کامل شخص۔ ج صدق وصدق

و صدقون۔ مؤنث صدقة ج صدقات۔

الصدق۔ سچ۔ فضیلت۔ صلاح۔ سختی۔

مضبوطی۔ کہا جاتا ہے ”هو رجل صدق و

صديق صدق“ مردانگی اور دوستی میں سچا

ہے یعنی کامل ہے۔

الصدقة۔ خیرات۔ ج صدقات۔

الصدقة والصدقة والصدقة

والصدقة۔ مہر۔

الصداق والصداق۔ مہر۔ ج اصدقة و

صدق۔

الصداقۃ۔ سچی دوستی۔

الصادق۔ سچا۔ تمر صادق الحلاوة۔

بہت میٹھی کھجور۔ نية صادقة: خالص نیت۔

حملة صادقة: شدید حملہ۔

الصدوق۔ ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ج صدق و

صدق۔

الصدقین۔ پیارا دوست۔ ج اصدقاء و

صدقاء و صدقان۔ ج اصداق۔ مؤنث

صدیقة۔

الصدقین۔ بہت سچا۔ سچائی میں کامل۔ عمل

سے اپنی بات کو سچ کر دکھانے والا۔

حضرت ابو بکر کا لقب۔

المصداق۔ کسی کی سچائی کا گواہ۔ کہا جاتا ہے

کرنا۔

الصدى: ألھامة: یعنی زمانہ جاہلیت کے

عقیدہ کے مطابق جب مقتول کو قبر میں ڈال دیا

جائے اور اس کا انتقام نہ لیا جائے تو میت کی قبر

سے ایک جانور باہر نکل کر آواز دیتا ہے اور انتقام

کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کو بوم القبر (قبر کا الو) یا

ألھامة بولتے ہیں۔

صدى تصدیة۔ بیدینیہ: دونوں ہاتھوں

سے تالی بجانا۔

اصدى اصداء۔ مرنا الجبل: گونجا۔

آواز باز گشت کرنا۔

تصدى لہ: درپے ہونا للأمر: کسی معاملے

کے لیے متوجہ ہونا۔

الصدى۔ سخت پیاس۔ آواز باز گشت۔

گونج دماغ انسانى لاش۔ تعرض۔ ج اصداء

کہا جاتا ہے ”ھم الیوم اعداء وھم غدا

اصداء“ یعنی وہ آج کے دن دشمن ہیں اور کل

مردہ ہوں گے ”و منعت صداه“ یعنی اس

کے درپے ہونے کو روک دیا۔

یعنی ہلاک ہو گیا۔ ”اصم اللہ صداه“ یعنی

ہلاک کر دے۔

الصدى۔ الو کی ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا

ہے اور چدرہ تم پھروادھر ہی وہ اپنے سر کو

پھراتا ہے اور وہ آواز تاریک مقامات میں رہا

کرتا ہے اور اس کا نام باہہ بھی ہے۔

زندہ جاہلیت میں خیال تھا کہ یہ مقتول کے سر

سے نکلے گا اور جب تک کہ اس مقتول کا بدلہ

نہ لیا جائے پختہ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پلاؤ

مجھے پلاؤ۔ اور اسی وجہ سے اس کو صدی کہا جاتا

ہے۔

صد (ن) صراً الصرة: تھیلی کو باندھنا

الذراهم فى الصرة: تھیلی میں رکھنا

القرس اذنه و باذنه: گھوڑے کا کان

کھڑے کرنا الناقۃ و بالناقۃ: تھن کو باندھ

دینا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔

صد (ح) صراً و صبراً: الشی

چرچاتا الرجل: زور سے چیخنا چلانا۔ پیاسا

ہونا۔ الأذن: کان بجا۔

صَرَ النَّبَاتُ: ٹھنڈی ہوا لگ جانا۔

صَرَدَتِ النَّاقَةُ: آگے بڑھنا۔ صَرَّ رَأْسَهُ: سننے کے لیے کان کھڑے کرنا۔

صَارَهُ مُصَارَةً: عَلِيٌّ كَذَا: مجبور کرنا۔

أَصَرَ: عَلِيٌّ الْأَمْرُ: پختہ ارادہ کرنا۔ ثابت قدم رہنا اور اکثر برائی اور گناہوں میں استعمال

کیا جاتا ہے "أَصَرَ عَلَى الذَّنْبِ" جب کہ باز نہ آئے۔ قرآن میں ہے ﴿كَأَنَّا بُصْرُؤُنْ عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ﴾ یعنی بڑے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے السُّبُلُ: خوشے

میں خار لگنا الفرسُ أذنه و بأذنيه: کھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔

الصَّرُّ وَالصَّرَّةُ: سردی۔ ربيعٌ صَرٌّ: سخت ٹھنڈی ہوا۔ تیز آواز والی ہوا۔ الصَّرَّةُ: چیخ۔

الصَّرَّةُ: شور۔ چیخ۔ لڑائی یا گرمی کی تیزی۔ ترش روئی۔ جماعت۔ تعویذ کے مہرے۔

الصَّرَّةُ: تھیلی۔ بٹوہ۔ صَرٌّ: یومین صِرٌّ: سخت قسم۔ کہا جاتا ہے "ہی مین صِرٌّ" یہ میری جانب سے کئی بات ہے۔

الصَّرَرُ: خوشہ کا خار۔ واحد صَرَرَةٌ۔ الصَّارُ: فَا. شَجَرٌ صَارٌ: مچھان درخت۔

الصَّارَةُ: الصَّارُ: کا مؤنث۔ حاجت۔ پیاس۔ صَوَارٌ: الصَّرُورُ وَالصَّارُورُ وَالصَّرُورِيُّ وَالصَّارُورِيُّ: جو نکاح نہ کرے اور حج نہ کرے (واحد اور جمع دونوں کے لئے)

الصَّارِيُّ: طاب۔ صَرَائِيُونُ: دھاگا جس سے گھن کو باندھ دیا جائے تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ بلند مکان جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔ صِ اَصْرَةٌ: الصَّرِيحُ: صَارٌ كَأَنَّ مَبَالَغَةَ - صَرَّارُ اللَّيْلِ: بھینگر۔

الصَّرَارَةُ: سانپ کھانے والا عقاب۔ الصَّرَارَةُ وَالصَّرُورَةُ وَالصَّارُورَةُ و

الصَّارُورَاءُ: وہ شخص جو نکاح نہ کرے اور حج نہ کرے (واحد اور جمع دونوں کے لئے)

صَرَّارُ اللَّيْلِ: ٹنڈی کی مانند ایک سیاہ رنگ کیڑا جو رات کو آواز کرتا ہے۔

الصَّرِيْرَةُ: تھیلی میں رکھے ہوئے درہم۔ صِ صَرَّابٌ: المَصَّارُ: آستین۔

المَصْرُورُ: بندھا ہوا قیدی۔ صَرَبٌ (ض) صَرَبًا: کانا یا کمانا دودھ کو ترش بنانا۔ پیشاب یا دودھ کو روکنا الصَّبِيُّ: بچہ کا کئی دن پاخانہ نہ کرنا۔

صَرَبٌ (س) صَرَبًا: اللِّينُ: تھن میں دودھ جمع ہونا۔

أَصْرَبَ: إِلَيْهِ مَالًا: دینا۔ صَرَبٌ: ترش دودھ پینا۔

اضْطَرَبَ: اللِّينُ فِي الْوِطْبِ: دودھ کو ترش ہونے کے لیے برتن میں تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔

إِصْرَابٌ: الشَّيْءُ صَافٌ أَوْ جَمَانٌ: صاف اور چمکانا ہونا۔

الصَّرْبُ وَالصَّرَبُ: بہت زیادہ ترش دودھ۔ صَرِحٌ كَوْنُهُ بَوْلٌ كَأَنَّ وَاحِدَ صَرِيْبَةٍ وَصَرِيْبَةٌ: غریب عربوں کے تھوڑے مکانات۔

الصَّرِيْبُ: کھٹا دودھ۔ صِ صَرِبٌ: المَصْرُوبُ: بندھ جمع کیا ہوا کھٹا دودھ۔

المَصْرَبُ: برتن جس میں دودھ جمع کیا جائے۔ صِ مَصْرَابٌ: صَرَجٌ: الحَوْضُ: حوض کو چونا مٹی ملا کر بنانا۔

الحَوْضُ بِالنُّوْرَةِ: حوض پر چونے کی قلعی کرنا۔

الصَّارُوجُ: چونا مٹی ملا ہوا (عرب)

صَرَحٌ (ك) صَرَاْحَةٌ وَصَرُوْحَةٌ: صاف ہونا۔ خالص ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت

صَرِيْحٌ: جمع صُرْحَاءُ مؤنث صَرِيْحَةٌ: صَرِحٌ (ف) صَرْحًا: الامرُ: ظاہر کرنا۔

صَرِيْحٌ: جمع صُرْحَاءُ مؤنث صَرِيْحَةٌ: صَرِحٌ (ف) صَرْحًا: الامرُ: ظاہر کرنا۔

صَرِيْحٌ: جمع صُرْحَاءُ مؤنث صَرِيْحَةٌ: صَرِحٌ (ف) صَرْحًا: الامرُ: ظاہر کرنا۔

صَرِيْحٌ: جمع صُرْحَاءُ مؤنث صَرِيْحَةٌ: صَرِحٌ (ف) صَرْحًا: الامرُ: ظاہر کرنا۔

صَرِيْحٌ: جمع صُرْحَاءُ مؤنث صَرِيْحَةٌ: صَرِحٌ (ف) صَرْحًا: الامرُ: ظاہر کرنا۔

واضح کرنا۔

صَرَحَ الْمُتَكَلِّمُ: بغیر کنایہ کے کھلم کھلا کہنا بِنَا فِي نَفْسِهِ: ظاہر کرنا الامرُ: واضح کرنا۔ الامرُ: واضح ہونا لازم و مستعدی ہے۔

النَّهَارُ: دن کا بے بدل ہونا۔ الخَمْرُ: شراب کا صاف ہونا۔ بے جھاگ کے ہونا۔

مثال ہے "صَرَحَ الْحَقُّ عَنْ مُخْضَبِهِ" یعنی حق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ صَرَحَتْ السِّبْطَةُ: خشک سالی ہوئی۔ صَرَحَ الرَّامِيُّ: تیر انداز کا خطا کرنا۔

أَصْرَحَ: الامرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

صَارِحَةٌ صَرَاْحًا وَصَرَاْحًا وَصَارِحَةٌ: کھلم کھلا کہنا۔ کہا جاتا ہے "شَمَّةٌ صَارِحَةٌ أَوْ صَرَاْحًا" رُوْدُ رُوْدًا لِي: صَارِحٌ وَصَرَحَ بِمَا فِي نَفْسِهِ: دل کی بات ظاہر کر دینا۔

إِنْصَرَحَ: الْحَقُّ: واضح ہونا۔ منکشف ہونا۔ تَصَرَحَ: الزَّبْدُ عَنِ الْخَمْرِ: شراب سے جھاگ دور ہونا۔

الصَّرْحُ: قعر۔ محل۔ ہر بلند عمارت۔ صِ صُرُوْحٌ: الصَّرِيْحَةُ: سخت زمین۔ صَرِحَةٌ الدَّارُ: گھر کا صحن۔ صِ صَرَحَاتُ: الصَّرْحُ وَالصَّرَاْحُ وَالصَّرَاْحُ وَالصَّرَاْحُ خَالِصٌ: الصَّرَاْحَةُ وَالصَّرُوْحَةُ: خلوص۔ وضاحت۔

الصَّرَاْحِيَّةُ: مِنَ الْخَمْرِ: خالص شراب۔ شراب کا برتن۔ کہا جاتا ہے "كَيْدٌ صَرَاْحِيَّةٌ" یعنی سفید جھوٹ۔

الصَّرَاْحِيُّ: واضح۔ ظاہر۔

يَوْمَ مَصْرَحٍ وَمُصْرَحٍ: بے بدل کا دن۔

صَرَخَ (ك) صَرَاْحًا وَصَرِيْحًا: سخت چیخنا۔ فریاد کرنا القَوْمُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصَرَخَ: بتکلف چیخنا۔

تَصَارَخَ وَاضْطَرَّخَ الْقَوْمُ: جمع دیکھ کر پھانسا اور مدد طلب کرنا۔ اضْطَرَّخَ بمعنی صَرَخَ۔

الصَّارِخُ: فارغ۔
الصَّارِخُ: راکٹ (دفاعی اسلحہ جو بم کو لے کر چلتا ہے)
میراٹل: اس کی تین اقسام ہوتی ہیں۔

(۱) اپنے آپ اپنے آلات کے زور پر مخصوص ہدف کی طرف چلتا ہے۔ (۲) راکٹ کی طاقت سے خاص شعاعوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ (۳) خاص قوت کے ذریعے جو اس کو ہدف مقرر کی طرف لے جاتا ہے۔

الصَّارِخَةُ: الصَّارِخُ کا مؤنث۔ فریادری۔ داد خواہی۔ داد خواہی کی آواز۔ تم کہتے ہو "سَمِعْتُ صَارِخَةَ الْقَوْمِ" میں نے قوم کی داد خواہی کی آواز سنی۔

الصَّارِخُ: بہت زیادہ چیخنے والا۔ مور۔ الصَّرِيخُ: سر۔ فریاد رس۔ داد خواہ۔ ج صُرْحَاءُ۔

صَرْدٌ (س) صَرْدًا: السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ نشانہ پر بیٹھنا الرَّجُلُ: سردی برداشت کر لینا۔ سردی محسوس کرنا السَّقَاءُ: جھاگ کا کلوے کلوے ہو کر لگنا۔ کہا جاتا ہے "صَرْدٌ قَلْبِي عَنهُ" یعنی میرا دل اس سے ہٹ گیا۔

صَرْدٌ (ن) صَرْدًا وَأَصْرَدَ: الرَّامِي السَّهْمُ: نشانہ لگانا۔ أَصْرَدَ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔

صَرْدٌ الشَّيْءُ: کلوے کلوے کرنا اِقْطَاءُ كَم دینا الرَّجُلُ: میرا بی سے کم پلانا۔

الصَّرْدُ: شخص خالص۔ کہا جاتا ہے "سَقَاءُ الْخَمْرُ صَرْدًا" خالص شراب پلانی۔ أَجْبَهُ حُبًا صَرْدًا خالص محبت کی۔ پہاڑ میں اونچی جگہ۔ بڑا ٹھنڈا۔ سردی۔ یَوْمَ صَرْدٍ: ٹھنڈا دن۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ صَرْدًا" شدید سردی سے مر گیا۔ اَرْضٌ صَرْدٌ: سرد ملک۔ ج صُرُودٌ: اس کے خلاف اَرْضٌ جُرُومٌ ہے۔ یعنی گرم ممالک۔

الصَّرْدُ: بڑا ٹھنڈا۔ ہمالے کی کلیں جس میں تیز لگایا جائے۔

الصَّارِدُ: فا. سَهْمٌ صَارِدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

الصُّوَارِدُ: ٹھنڈی ہوائیں۔
الصَّرْدُ: لٹورا (ایک پرندہ کا نام) ج صَرْدَانُ۔

الصَّرْدَانُ: زبان کے اندرونی حصہ کی دو رگیں۔

الصَّرْدُ: مِنَ الْخَيْلِ: وہ گھوڑا جس کی پیٹھ زخمی ہو مِنَ الرَّجَالِ: سردی کو برداشت کرنے والا۔ سردی کو محسوس کرنے والا۔ ج صَرْدِي يَوْمَ صَرْدٍ: سخت ٹھنڈا دن۔

الصَّرَادُ وَالصَّرِيدُ: بے پانی کا پتلا پادل۔ نَعَجَةٌ صَرِيدَةٌ: سردی زدہ۔ بھیڑ۔ ج صَرَائِدُ۔

المِضْرَادُ: بے درخت کی زمین۔ سردی برداشت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔ سَهْمٌ مِضْرَادٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

سَهْمٌ مُضْرَدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔
المِضْطَرْدُ: سخت غضبناک۔

صَرَصَرٌ: الصَّرْدُ او الصَّفْرُ: آواز کرنا الرَّجُلُ: چیخنا الشَّيْءُ: چیز کے منتشر اطراف کو جمع کرنا۔

الصَّرَصَرُ: مِنَ الرِّيحِ: تیز چلنے والی یا زیادہ ٹھنڈی ہوا۔ مَرُجٌ (الصَّرَصَرُ) ج صِرَاصِيرٌ: صِرَاصِيرٌ: الصَّرَصَرُ ج صِرَاصِيرٌ: جھیر۔ جھیر۔ الصَّرَصَرُ: شے۔

الصَّرَاطُ: راستہ۔ ج صَرَطٌ: الصَّرَاطُ: لمبی تیز تلوار۔

صَرَغَةٌ (ف) صَرَغًا وَصَرَغًا وَمَصْرَعًا: پچھاڑ دینا۔ زمین پر گرا دینا الشَّعْرُ: دو مصرعے بنانا البَابُ: دو کواڑ لگانا۔ صَرَغٌ: مرگی ہونا۔ کہا جاتا ہے "صَرَغَ الشَّجَرُ" یعنی کاٹ دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔

صَرَغَةٌ: سخت پچھاڑنا الشَّعْرُ: مصرعے لگانا البَابُ: کواڑ لگانا۔

صَارَعَهُ صِرَاعًا وَمُصَارَعَةً: کشتی لڑنا۔ تَصَارَعٌ وَاضْطَرَعٌ: الرَّجُلَانِ: باہم کشتی لڑنا۔

انْصَرَغَ: پچھاڑا جانا۔ تَصَرَغٌ: لِصَاحِبِهِ: تواضع کرنا۔ عاجزی ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا زِلْتُ انْصَرَغُ لَهُ" والِيهِ حَتَّى اجَابَنِي" میں عاجزی ظاہر کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے میری بات مان لی۔

الصَّرْعُ: سر۔ مرگی۔ مثل۔ مقابل۔ قسم کہا جاتا ہے "هُوَ صَرَغٌ كَذَا" یعنی وہ فلاں کے مقابل ہے۔ ج اَصْرَعُ: صُرُوعٌ۔

وَالْمِصْرَعَانِ: رات دن یا صبح شام۔ کہا جاتا ہے "اتَّبِعْتُهُ صَرَغِي النَّهَارَ" یعنی میں اس کے پاس صبح شام آیا اور "هُوَ ذُو صَرَغَيْنِ" وہ دو قسم یعنی رنگ کا ہے "تَوَكَّنْتُهُمْ صَرَغَيْنِ" یعنی میں نے ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

الصَّرْعُ: سر۔ مثل۔ قسم۔ رسی کی لڑی۔ ج اَصْرَعُ وَصُرُوعٌ: کشتی لڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا صَرَغَانِ" یعنی دونوں کشتی لڑنے والے ہیں۔

الصَّرْعَةُ: ام مرتہ۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَقَعُّهُ عَلَى كُلِّ صَرَغَةٍ" مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں کرتا ہے۔

الصَّرْعَةُ: جس کو لوگ پچھاڑ دیں۔

الصَّرْعَةُ وَالصَّرَاعُ وَالصَّرَاعَةُ وَالصَّرِيْعُ وَالصَّرُوعُ: لوگوں کو زیادہ پچھاڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "قَوْمٌ صَرَغَةٌ" یعنی ایسی قوم جو ہر کشتی لڑنے والے کو پچھاڑ

دے۔ الصَّرْعَةُ: عظیم و بردبار۔ اس لیے کہ اس کی بردباری غضب و غصہ کو پچھاڑ دیتی ہے۔

الصَّرْعُ جمع صُرُوعٌ کی ہے۔
الصَّرَاعَةُ: کشتی کا ٹن۔

الصَّرِيْعُ: زمین پر پچھاڑا ہوا۔ مجنون۔ ج صَرَغِي: کہا جاتا ہے "بَاتَ صَرِيْعٌ الْكَاَسِ" یعنی مجنون ہو کر رات گزارا۔

درخت کی جھکی ہوئی شاخ۔ ج۔ سرح۔

المصرع۔ سر۔ پچھاننے کی جگہ۔ ج۔
مصارع۔

المصراع من الباب: دروازے کا ایک
پت من الشعور: شعر کا ایک مصرعہ ج۔
مصارع۔

صرفہ (ض) صرفاً: پھیرنا۔ ہٹانا۔ دفع
کرنے والی کرنا۔ کہا جاتا ہے "صرف اللہ
قلوبہم" مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے قلوب کو

گمراہ کر دے۔ صرف الشراب: خالص
شراب پینا "الدنانیر" دراہم سے یا دوسرے
دنانیر سے بدل لینا المال: خرچ کرنا

الکلمۃ: منصرف بنانا۔ یعنی جروتوں لاحق
کرنے۔

صرف (ن) صرفیاً: بناہ: وانت پینا
الباب: بند کرتے ہوئے یا کھولتے ہوئے
دروازے سے آواز لگانا۔

صرفہ: مبالغہ کے ساتھ صرف کے معنی میں
ہے۔ صرف الشی: پینا الذراہم:
توڑ کر پینا الخمر: خالص شراب پینا

الکلام: بات سے بات نکالنا ہ فی الأمر:
سرور کر دینا صرف الماء: جاری کر دینا۔
اللہ الریاح: ایک جانب سے دوسری جانب

پھیر دینا۔
صارفہ: مبادلہ کرنا۔ صارف نفسه عن
الشی: پھیر دینا۔ باز رکھنا۔

أصرفه عن كذا: رو کر دینا۔ ہٹا دینا۔
أصرف الشراب: کچھ نہ ملانا۔
تصرف فی الأمر: کسی معاملہ میں

تصرف کرنا۔ تصرفت بہ الاحوال:
مصابب و آفات کا غائب آجانا۔
انصرف الرجل: باز رہنا۔ انصرفت

الکلمۃ: منصرف ہونا۔
اضطرّف: کمانی کرنے کیلئے پھرنا
الذراہم: بدل لینے تم کہتے ہو "اضطرّف
ہذہ الذراہم بدینار" یعنی میں نے ان

دراہم کو دینار سے بدل لیا۔

استصرف: اللہ المکارہ: مکروہات کو

پھیر دینے کی دعا کرنا۔
الصرف: ایک علم کا نام ہے جس میں کلمات
عربیہ کے صیغوں کی وضع و ہیئت وغیرہ سے

بحث کی جاتی ہے۔ صرف الذہر و
صرفہ: مصائب زمانہ۔ فضیلت۔ کہا جاتا
ہے "لہ علی صرف" اس کو مجھ پر فضیلت

ہے۔ صرف الحدیث او الکلام: کلام
کی زیادتی اور تخمین و تزیین۔ صرف المال:
خرچ کرنا۔

الصرف: خالص۔ جیسے "شرب صرف"
خالص شراب۔ ایک قسم کا سرخ رنگ۔
الصرقان الصرقان: رات دن۔

الصرقان: موت۔ پیتل۔ سیسہ۔
الصرافۃ: صرافی کا پیشہ۔
الصرافۃ: اسم مرۃ۔ گردش۔ مہرہ منتزیا

خوبیہ کا۔ ایک منزل منازل قمر میں سے۔
أو نثی کو صبح کے وقت دودھ کرا لگی صبح تک کیلئے
چھوڑ دینا۔

الصروف: وہ اونٹنی جس کے دانٹوں سے
آواز نکلے۔
الصریف: سر۔ چاندی خالص۔ صریف

الباب: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔ صریف
القلم: قلم کے جلنے کی آواز (و المصروف)
ہر شے خالص۔ درخت کی خشک شدہ شاخ۔

الصریفۃ: الصریف کا مؤنث۔ درخت خرا
کی خشک ٹہنی۔ چپاتی۔ ج۔ صرف و صراف
و صریف۔

تصاریف: الذہر: مصائب زمانہ۔
الصراف والصریف والصریفی:
روپے پیسے کی تجارت کرنے والا۔ ج۔

صیرافۃ:
الصراف والصریفی: علم صرف کا جاننے
والا۔

المتصرف: ملکہ کے ایک حصہ کا حاکم۔
المتصرفیۃ: ملکہ کا ایک حصہ۔ ملکہ کے
ایک حصہ کا حاکم۔

صرفہ: اصابعہ: انگلیاں ہٹانا۔

صرفاۃ: گوچھن۔ گوچھن کا وہ کنارہ جس
سے آواز نکلے۔

صرم (ک) صرامۃ: السیف: کاٹنا
الرجل: لیر و چالاک ہونا۔
صرم (ض) صرماً و صرماً: الحبل:

ٹوٹا لینی: کاٹنا۔ فلاناً: چھوڑنا۔ گفتگو بند
کرنا فلان عندنا شهراً: اقامت کرنا۔
صرمۃ: صرم کا مبالغہ ہے۔

صارمۃ: مصارمۃ: مقاطعہ کرنا۔ علیحدہ
ہونا۔
أصرم: الرجل: محتاج ہونا النخل: پھل

توڑنے کا وقت قریب ہونا۔
تصرم: الرجل: بہادری کرنا۔
تصرم وانصرم: کٹ جانا۔ ٹوٹ جانا۔

تصرمت وانصرمت السنۃ: سال ختم
ہونا۔
تصارم القوم: قطع تعلق کر لینا۔

اضطرم: الشی: کاٹنا۔
الصرم: سر کھال (مغرب چرم) الصرام:
چرم فروش۔

الصرم: جماعت۔ مکانوں کا اجتماع۔ قسم۔
چوڑے کا موزہ نعل لگا ہوا۔ ج۔ اصرام
واصرام و اصاریم و صرمان۔

الصرم: سر بے تعلق۔
الصرمۃ: قسم۔ اونٹوں کا گلہ۔ بادل کا ٹکڑا۔
چاندی کا ٹکڑا۔ ج۔ صرم۔

الصارم: فاء۔ بہادر۔ شیر۔ کاٹنے والی تلوار۔
ج۔ صوامر۔
الصرامۃ: سر۔ رجل صرامۃ: مستقل

بارے۔ ڈھن کا پکا۔
الصروم: کاٹنے والی تلوار۔ اچھی طرح
کاٹنے والا۔ الصرام: جگمگ۔ مصیبت۔ رجل
صرام: کاٹنے میں توی مرد۔

الصریم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔
صبح: لکڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ
دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھٹی

کٹ چکی ہو۔ غلہ جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔
 صرینما اللیل: رات کا اؤل و آخر حصہ۔ افر
 صرینم: لازمی امر۔
 الصرینمة: عزیت۔ رات کا کلاڑ۔
 الصیرم: پختہ رائے والا۔ معیت۔ دن میں
 ایک پار کھانا۔
 الاصرم: جس کے کانوں کے کنارے کئے
 ہوئے ہوں۔ مؤنث صرماء ج صرْم
 (والمُصرْم) بہت بال بچے والا مفل۔
 الاصرمان: رات دن کو او بھیرا۔ کہا جاتا
 ہے ”تَوَكَّنْهُ بوجش الاصرمین“ یعنی
 ایسے جنگل میں قتل کیا جس میں صرف
 بھیڑیے اور کتے ہیں۔
 الصرماماء: الاصرم کا مؤنث۔ بے پانی کا
 جنگل۔ ہانڈی۔ کم دودھ والی اونٹنی۔
 المصْرْم: ایسی جگہ جو تنگ ہو اور جلدی
 سیلاب آجائے۔
 المصْرْم: دارنق۔
 الصرناية: بانسری کی قسم کا ایک باج۔
 صرايضر و اصروا: الیہ: دیکھنا۔
 صری یصری صریاً: الشی: دفع کرنا۔
 ہٹانا۔ دور کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صری اللہ عنہ
 الشر“ اللہ اس شر کو دور کرے۔ صری
 بولہ: پیٹاب روک دینا۔
 فلاناً: منع کرنا۔ بچانا۔ ہلاکت سے نجات
 دینا۔
 الشی: بلند بنانا۔ نیچے ہونا القوم: آگے
 بڑھ جانا۔ پیچھے ہٹ جانا بیہم: فیصلہ کرنا۔
 صری یصری صری: الماء: دیر تک
 ٹھہرنے سے متغیر ہونا اللین: دودھ کا مزہ
 بدل جانا فلان فی ید فلان: کسی آدمی کا کسی
 کے ہاتھ میں قید ہونا الدمع: آنسو کا بھر آنا
 اور نہ بہنا۔
 صریت و اصرت: الناقا: اونٹنی کے
 تھن میں دودھ بھر جانا۔
 صری تصریة: الشاة: دودھ زیادہ معلوم
 ہونے کے لیے تھن میں روک دینا۔

الصری: باقی ماندہ (الصری) پانی جو دیر
 تک ٹھہرا رہے۔ کہا جاتا ہے ”الین صری“
 دودھ جس کا مزہ بدل گیا ہو۔
 الصاری: فا: ملاج۔ ج صراء و
 صراری و صراریون: بادبان کا ڈنڈا۔ ج
 صوار۔
 الصاریة: الصاری کا مؤنث۔ کتوں جس کا
 پانی دیر تک ٹھہرنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔
 الصراة و الصری و المصراة: من
 الشاة او النوق: وہ بکری یا اونٹنی جس کے
 تھن میں دودھ کئی روز چھوڑ دیا گیا ہوتا کہ جمع
 ہو جائے۔
 المصطبة و المصطبة: چوترو۔
 المصطب: لوہار کی نہائی۔
 المصطح: خشک جنگل۔ وہ جگہ جو غلہ کی
 گہائی کے لیے ہموار کی جائے۔ ج مصاطح۔
 صطر (ن) صطراً: لکھنا۔
 صیطر: داروہ ہونا۔ محافظ ہونا۔
 المصطع: فصیح و بلیغ۔
 الاضطمة: چیز کا بڑھنا۔ جمع ہونے کی
 جگہ۔ وسط۔
 صعب (ک) صعوبة: علیہ الامر:
 دشوار ہونا۔ صفت صعب: مؤنث صعبة: ج
 صعاب۔
 اصعب: الامر: مشکل ہونا الشی: شکل
 پانا الجمیل: سواری چھوڑ دینے کی وجہ سے
 سرکش ہو جانا۔
 صاعبة مضاعبة: سختی کرنا۔
 صعبة: دشوار بنانا۔
 تصعب: دشوار ہونا۔ مشکل ہونا الامر:
 دشوار بنانا۔
 تصاعب: باہم سختی کرنا۔
 استصعب: مشکل ہونا الشی: مشکل
 پانا۔
 الصعب: سر۔ دشوار۔ مشکل۔ خوددار۔
 شیر۔
 الصعوب: دشوار۔ ج صعب۔

الصعوب: دشوار۔
 المصاعب: سختیاں۔ مشقتیں۔
 المصعب: ساندہ گھوڑا جو سواری چھوڑ
 دینے سے سرکش ہو۔ ج مصاعب
 و مصاعیب: کہا جاتا ہے ”جمال
 مصاعب و مصاعیب“ سرکش اونٹ۔
 صعتر: النخل: پہاڑ پودینہ کھانا۔ الرجل
 الشی: مزین کرنا۔
 الصعتر: پہاڑی پودینہ۔
 الصعتری: چالاک۔ کریم۔ بہادر۔
 صعد (س) صعُوداً و صعُداً و صعُداً
 فی السلم: سیرھی پر چڑھنا بہ: چڑھنا
 (صُعُوداً) المكان: نیچے جھانکتے ہوئے
 چڑھنا۔
 صعُداً: فی وعلی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا
 فی الوادی: وادی میں اترنا۔
 صعُداً فیہ النظر: اوپر سے نیچے غور سے
 دیکھنا۔
 اصعد: مَلَكَة کو جانابی الأرض: اونچی زمین
 کی طرف جانابی الوادی: وادی میں اترنا فی
 العدو: تیز دوڑنا: چڑھنا۔
 اصعدت السفینة: بادبان کھینچ دینے سے
 ہوا کا کشتی کو لے اُڑنا۔
 تصعد و تصاعد: چڑھنا تصعد و
 تصاعد الامر: دشوار و مشکل ہونا تصعد
 النفس: مشکل سے سانس نکلنا۔
 اصطعد: چڑھنا۔
 الصاعد: فا: کہا جاتا ہے ”بلغ کذا
 فصاعداً“ یعنی اس سے اوپر۔ اور یہ باعتبار
 حایت کے منسوب ہوا کرتا ہے۔
 الصعاد: بہت چڑھنے والا۔
 الصعد: بلندی۔ کہا جاتا ہے ”هبط من
 صعداً“ بلندی سے اُترا و ”هذا النبات ينمو
 صعداً“ یہ پودہ بلندی میں بڑھتا ہے۔ ایک
 درخت ہے جس سے تارکول بچھلایا جاتا ہے۔
 الصعد: مشقت۔ عذاب صعداً: سخت
 عذاب۔

الصعيد۔ مٹی۔ قبر۔ راستہ زمین کا پلید
صعبہ کہا جاتا ہے "صارت الحديفة"
یعنی باغ ہموار زمین ہو گیا جس
میں درخت وغیرہ نہیں۔ ج سعد و
صعدات و صعدان۔ مہر میں چند
شعروں کا نام صعيد ہے۔
الصعود چڑھائی۔ خميس الصعود:
جمرات کا دن جس میں سیدنا حضرت مسیح
آسان پر تشریف لے گئے۔
الصعود چڑھائی۔ چڑھتا ہوا راستہ۔
دشوار گزار گھاٹی۔ ج صعدا و صعدة و
صعائد کہا جاتا ہے "لا زهقنك صعوداً"
یعنی میں تم کو مصیبت میں پھنساؤں گا۔
الصعداء غم یا تمکین کی وجہ سے لمبی

سائیں۔
الصعداء شقت۔

الصعدة اسم مرۃ۔ سیدھا نیزہ۔ ج
صعاد و صعادات۔

الصعوداء دشوار گزار گھاٹی۔
المصعد من الأشرية: آگ سے گرم

کہا ہوا۔
التصعد: جاد جسم کا دھواں کی شکل میں
تہرل ہونا۔ بغیر ٹکھنے کے۔

المصعد: بجلی یا گیس کے بند کرنے کے
بمقام۔
المصعد: بلند عمارت پر چڑھنے کے لئے

الفتو۔
جبل مصعد۔ بلند پہاڑ۔

المصعاد درخت خرا پر چڑھنے کی
رتی۔

صغر (س) صغراً و جھبہ۔ ٹیڑھا ہونا۔

ایک جانب کو جھکانا صفت اصغر۔ مؤنث
صغراً ج صغر رأسہ: سر کا چھوٹا ہونا۔

صغر و صاعر و اصغر۔ تکبر و غرور کی بنا
پر رخسارہ ٹیڑھا کرنا اور کبھی غلظت ہوتا ہے۔

تصغر و تصاعر۔ تکبر کی وجہ سے
رخسارہ ٹیڑھا کرنا۔

صغور الشی: گھمانا۔

تصغور گھومنا۔

اصغور و اصغور: پیچ و تاب کھانا۔

اصغرت الابل: تیز دوڑنا۔

الصغار مغرور و تکبر۔

الصغور والصغور: درخت کا پانی جو

گوند کی طرح جم جائے۔ ج صغایر۔

الصغورۃ گھریلا کی گولی۔

صغصع القوم: متفرق کر دینا الشی۔

حرکت دینا۔ من فلان خوف کرنا رأسہ

بالذہن سر کو تیل سے چکانا کرنا۔

تصغصع متحرک ہونا، متفرق ہونا۔

الرجل: بزدل ہونا۔ ذلیل ہونا۔ عاجزی

کرنا۔ کہا جاتا ہے "تصغصع بهم الذہر"

یعنی زمانے نے ان کو پرانڈہ کر دیا۔

"تصغصعت صفوفہم" یعنی ان کی

صفتیں منتشر ہو گئیں۔

الصغصع متفرق (و الضغصع) ایک

پرنہ ہے جس کے بدن پر نقطے ہوتے

ہیں۔ ج صغاصع کہا جاتا ہے "ذہبوا

صغاصع" وہ لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔

ضعف صغفا کچی لاحق ہونا۔ صفت

مصغوف۔

اصغف الوزع: بھین کے خوشوں کا اس

لائق ہونا کہ مل دل کر اسے کھایا جاسکے۔

الصغفة کچی۔ سردی یا گھبراہٹ کی وجہ

سے۔

الصغفق والصغفوق والصغفقی۔ وہ

شخص جو بغیر سرمایہ کے بازار میں تجارت

کیلے جائے اور جب کوئی شخص کچھ خریدے

تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ کمزور

جس کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو اور شجاعت

بھی نہ ہو۔ الصغفوق: کینڈ۔ ج

صغایق و صغایفة۔

صغقت (ف) صاعقة السماء القوم۔

بجلی گرائنا۔ صغقتہم الصاعقة: بجلی گرائنا۔

صق (س) صغفا۔ الرغد: زور سے

بادل گرجنا الرکیحة: گنوکس، گر جانا
(وصیق صغفا و صغفا و صغفة

و تضغفا) گرج سے غشی طاری ہو جانا۔
صفت صغق۔ مرنا۔ صغق الثور صغفا:

تیل کا سخت ڈکارنا۔

اصغقتہ السماء: بجلی گرائنا۔ اصغقتہ:

قتل کرنا۔

الصغق سر۔ جیح۔ موت۔

الصغاق بادل کی گرج۔

الصاعقة۔ سر۔ آگ ہے جو بہت ہو

کڑک لور گرج کے ساتھ آسمان سے گرتی

ہے۔ موت۔ ہر مہلک عذاب۔ عذاب کی

جیح۔ ج صواعق۔

المصغوق غشی والا۔ اچانک مرنے

والا۔

الصغفر۔ مچھلی کے اٹھنے۔

صعل (س) صغلا و اصعل۔ چھوٹا سر

اور تپتی گردن والا ہونا۔ صفت اصعل۔

مؤنث صغلاء ج صعل۔

الصعل۔ چھوٹے سر والا (آدی یا شتر

مرغ یا کھجور) لمبا۔ گدھا جس کے بال گر

گئے ہوں۔

صغلكہ صغلكة محتاج بنانا۔ ڈبلا کرنا۔

تصغلك فقیر و محتاج ہونا۔

الصغلوک فقیر و محتاج۔ کمزور۔ ج

صغالك و صغالك۔ صغالك العرب:

عرب کے چور اور فقراء۔

اصغن الرجل: چھوٹے سر والا اور کم

عقل ہونا۔

اصغن الشی: باریک اور نازک ہونا۔

صغایضو صغواً باریک اور چھوٹا ہونا۔

الصغو۔ چھوٹے چڑے۔ واحد صغوة

صغوات۔ مولا۔ ج صغاء و اصغاء ناقة

صغوة۔ چھوٹے سر والی اونٹنی۔

الصغب۔ جوں کے اٹھنے۔

صغر (س) و صغر (س) صغراً

و صغارة و صغراً و صغراناً۔ چھوٹا ہونا۔

صَفَّةُ السَّرَجِ او الرِّحْلِ: زین یا چوہے کی گدی۔ صَفَّةُ الْمَسْجِدِ: مسجد کا سایہ دار چوہترہ۔ الصَّفَّةُ: گرمی کے لئے مکان جس کی چھت گھاس پھوس سے پٹی ہوئی ہو۔ صَفَّةٌ مِنَ الدَّهْرِ: زمانے کی ایک مدت۔ ج صُفْفٌ وَ صُفَّاتٌ وَ صِفافٌ. الصَّافُ: فا. الصَّافَةُ مِنَ الْإِبِلِ: جو اپنی ٹانگوں کو ایک صف میں رکھے ہوئے ہوں۔ ج صَافَاتٌ وَ صَوَافٌ. الصَّافَاتُ:

فرشتے۔

نَافَةٌ صُفُوفٌ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی جو کثرت دودھ کی وجہ سے برتنوں کی صف لگا دے اور یا جو اپنی اگلی ٹانگوں کو دودھ دوہنے کے وقت ایک صف میں کر لے۔

الصَّفِيفُ: خشک ہونے کے لئے دھوپ میں یا بھوننے کے لئے آگ پر صف لگائی ہوئی چیز۔

الصَّفِصَافُ: ایک درخت جو کہ عام طور پر ٹوکرا بنانے کے کام آتا ہے۔

الْمُصَفِّ: صف باندھنے کی جگہ۔ میدان جگہ۔ مطلقاً کڑے ہونے کی جگہ۔ ج مَصَّافٌ.

تَصَفَّتِ الرِّجْلُ: قوی و مضبوط ہونا۔ الصَّفِثُ وَالصَّفِثَانُ وَالصَّفِثَانُ: بیماری

بھر کم جسم والا۔ قوی سخت اندام۔ صَفْحٌ (ف) صَفْحًا: غنہ، روگردانی

کرنا۔ اعراض کرنا۔ چھوڑ دینا۔ گناہ معاف کرنا۔ صَفْحُ السَّائِلِ عَنْ حَاجَتِهِ: حاجت پوری نہ کرنا۔ تم کہتے ہو "أَتَيْتَنِي فِي حَاجَةٍ فَصَفَحْتَنِي" میں اس کے پاس ایک حاجت

سے آیا اس نے حاجت پوری نہیں کی ہ

بِالسَّيْفِ: تلوار کی چوڑائی کی طرف سے مارنا الشی: چوڑا کرنا النَّاسُ: لوگوں میں

مقابلہ کر کے ان کی حالت دیکھنا وَرَقٌ الْمَضْحَفُ: ایک ایک ورق کو پیش کرنا

فِي الْأَمْرِ: غور کرنا۔

مثل ہے "المرءُ باصغریہ" آدمی کی وقعت دو چھوٹی چیزوں یعنی دل و زبان سے وابستہ ہے۔

صَفَا يَصْفُو وَ يَصْفَى صَفْوًا وَ صَفَى يَصْفَى صَفًى وَ سَعِيًّا. إِلَيْهِ: جھکتا النَّجْوَمُ او الشَّمْسُ: ڈوبنے لگنا۔ مَفْتُ صَفْوَاءٌ اور جمع صَوَاحِجٌ.

أَصْفَى إِضْفَاءً. إِلَيْ حِدِيثِهِ: کان لگانا إِلَيْهِ: سننے کے لئے جھکتا الْإِنَاءُ: جھکانا الشی: کم کرنا۔ گھٹانا۔ تم کہو گے "أَصْفَى حَقًّا" جبکہ حق گھٹا دیا۔

الصَّفْوُ: کنوئیں کا کنارہ۔ ذُلُّ کا کنارہ جو دوہرا ہو۔ صَفْوَا الْكُفِّ او الْمَغْفِرَةُ: ہتھیلی یا چھچھ کا گڑھا۔ ج أَصْفَاءٌ.

صَاعِيَةً. الرِّجْلُ: ماتحت لوگ۔ کہتے ہیں "أَكْرَمُوا الرِّجْلَ فِي صَاعِيَتِهِ" یعنی اس کے ماتحت لوگوں کے سامنے آدمی کا اکرام کرو۔

صَفٌّ (ن) صَفًّا وَ صَفَّفَ. الشی:

صف بنانا الْقَوْمُ: میدان جنگ میں صف بندی کرنا صَفَّفَ الْقَوْمَ: صف بستہ کھڑا ہونا الطَّائِرُ بِجَنَاحِهِ: پر پھیلانا اور حرکت نہ دینا الْإِبِلُ قَوَائِمُهَا: اونٹوں کا اپنی

ٹانگوں کو ایک صف میں رکھنا اللَّهُمَّ: طول میں کانٹا السَّرَجُ: گدی بنانا۔

صَافٌ مَصَافَةٌ. الْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ: میدان جنگ میں صف بستہ کھڑا ہونا فَلَانٌ فَلَانًا: کسی کے چوہترہ کے مقابل چوہترہ

بنانا۔ بنانے والا مَصَافِيٌّ کہلاتا ہے۔

أَصْفٌ. السَّرَجُ: زین کے لئے گدی بنانا۔

تَصَافٌ. الْقَوْمُ: صفوں میں اکٹھا ہونا۔ إِضْطَفَأَ. الْقَوْمُ: صفوں میں کھڑا ہونا۔

الصَّفُّ: سیدھی نظار۔ کلاس۔ صف بستہ قوم۔ ج صُفُوفٌ.

الصَّفِيفُ: زرہ کے نیچے کا لباس۔

الصَّفَّةُ: ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانے۔

صَفْرٌ (ک) صَفْرًا وَ صَفْرًا وَ صَفْرًا وَ صَفْرًا وَ صَفْرًا. وَ صَفْرَانًا. وَ صَفْرَانًا. وَ صَفْرَتِ الشَّمْسُ: غروب کی طرف ہاٹل ہونا۔ صَفْرٌ (ن) وَ صَفْرٌ (س) صَفْرًا. الْقَوْمُ: قوم میں چھوٹا ہونا۔

صَفْرًا أَصْفَرَةً. چھوٹا بنانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے "صَفْرَةٌ فِي أَغْيُنِ النَّاسِ" یعنی لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کیا۔ "أَصْفَرَتِ الْأَرْضُ" زمین چھوٹے پودے والی ہوئی۔ أَصْفَرُ الْقَوْمُ: چھوٹے چھوٹے بچے پیدا کرنا۔

تَصَاعَرَ الرِّجْلُ: حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَصَاعَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ" یعنی اس کا نفس حقیر ویے قدر ہو گیا۔

اسْتَصْفَرَهُ: چھوٹا پایا۔ چھوٹا سمجھنا فَلَانٌ: چھوٹا طلب کرنا۔

الصِّفْرَةُ: اولاد میں سب سے چھوٹا۔ قوم میں سب سے چھوٹا کہا جاتا ہے "هُوَ صِغْرَةٌ أَبُوَيْهِ او صِغْرَةٌ أَوْلَادِ أَبُوَيْهِ" وہ اپنے ماں باپ کی اولاد میں سب سے چھوٹا ہے۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے کہا جاتا ہے "أَنَا مِنَ الصِّغْرَةِ" یعنی میں چھوٹے چھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔

الصَّغَارُ وَالصِّغْرُ: ذلت۔ ظلم۔ الصَّغَارَةُ: چھوٹا پن۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صغارت مرتبہ میں چھوٹا ہونا اور

صَغْرٌ جسامت میں چھوٹا ہونا۔

الصَّغَارُ وَالصِّغْرَانُ: چھوٹا۔

الصَّاعِزُ: ذلیل۔ بے قدر۔ جو ذلت اور ظلم پر راضی رہے۔ ج أَصْفَرَةٌ وَ صَاعِزُونَ.

الصِّغِيرُ: چھوٹا (مرتبہ یا جسامت میں) ج صِغَارٌ وَ صِغْرَاءٌ.

الأَصْفَرُ: اسم تفضیل۔ ج أَصَاغِرُ أَصَاغِرَةٌ وَأَصْفَرُونَ. مَوْتٌ صَفْرَى. ج صُفْرٌ.

الأَصْفَرَانُ: دل و زبان۔ اور اسی سے

صَفَحَتْ (ف) صَفُوْحًا. النَّاقَةُ
وغيرُها. دودھ کا ختم ہو جانا۔ صفت
صافح۔
صَفْحٌ. الشَّيْءُ: لَمَّا چوڑا کرنا الْمَكَانَ:
مکان میں چوڑے پتھروں کا فرش لگانا۔
صَفْحٌ بِيَدَيْهِ: تالی بجانا۔
أَصْفَحَ. السَّنَائِلُ: محروم واپس کر دینا
الشَّيْءُ: أَلْتَنَا پلٹنا۔
صَافِحُهُ مَصَافِحَةٌ وَصَافِحًا. ہاتھ ملانا۔
مصافحہ کرنا۔
تَصَفَّحَ. الشَّيْءُ: تامل کرنا۔ دیر تک دیکھنا
القَوْمَ: چہروں کو۔ غور سے دیکھنا تاکہ
حالات کا اندازہ ہو سکے۔ حالات کا جائزہ
لینا۔
تَصَافَحَ. القَوْمَ: باہم دگر مصافحہ کرنا۔ کہا
جاتا ہے "تَصَافَحَتِ الْأَجْفَانُ" یعنی پلک
لگ گئی۔
اسْتَصَفَّحَهُ. الذَّنْبُ: گناہ کی معافی چاہنا۔
الصَّفْحُ. جَانِبٌ مِنَ الْوَجْهِ: رخسارہ من
الإنسان: پہلو من السِّنْفِ: چوڑا پہلو۔
ج صَفْحٌ. کہا جاتا ہے "ضَرْبٌ عِنْدَ
صَفْحًا" یعنی اعراض کیا۔
الصَّفْحَةُ. مِنَ الشَّيْءِ: جانب۔ چہرہ من
الکِتَابِ: ورق کا ایک جانب۔ صَفْحَةٌ
الرُّجْلِ: سینہ کی چوڑائی۔ ج صَفْحَاتُ
الصَّفْحَانِ وَالصَّفْحَتَانِ. رخسارے۔
الصَّفْحُ. چہرے اور تلوار کی چوڑائی۔
الصَّفْحُ وَالصَّفْحُ. رخسارہ یا پیشانی کی
بہت زیادہ چوڑائی۔ کہا جاتا ہے "لَقِيَهُ
صَفْحًا" وہ اس سے اچانک ملا۔
الصَّفِيحُ. آسمان۔ ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔
الصَّفِيحَةُ. چوڑی تلوار۔ چوڑا پتھر۔ ہر
چوڑی چیز کا ظاہر۔ صَفِيحَةُ الْوَجْهِ:
چہرے کی کھال۔ ج صَفِيحٌ وَصَفَائِحُ.
الصَّفَائِحُ: سر کی چار ہڈیاں۔ دروازے
کے تختے۔
الصَّفْحُ. پتلے چوڑے پتھر۔ اُونٹ جن

کے کوہاں بڑے ہوں۔ ج صَفْحَاتُ
صَفَائِحُ۔
الصَّفْحُ وَالصَّفْوَحُ. معاف کرنے والا۔
الصَّفْوَحُ بمعنی کریم۔
المُصْفَحُ. چوڑا اُلٹا جھکا ہوا من
الوَجْوهُ: ملائم و خوبصورت من الْأَنْوْفِ:
ستواں ناک من الرُّؤوسِ: کنپٹیوں کی
طرف تک اور پیشانی اور گدی کے
درمیان طویل من الْقَلْبِ: جس میں
ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں من النَّاسِ:
جو کافر سے کافرانہ طریقہ سے لے اور
مومن سے مومنانہ طریقے سے۔
المُصْفَحُ. چوڑا جس پر چوڑے پتھر لگے
ہوئے ہوں۔ اَنْفٌ مُصْفَحٌ: ستواں ناک۔
المُصْفَحَةُ وَالْمُصْفَحَةُ. تلوار۔ ج
مُصْفَحَاتُ وَصَفْحَاتُ.
صَفْدَةٌ (ض) صَفْدًا وَصَفْدًا وَصَفْدَةٌ.
قید کرنا۔ بھگڑی لگانا۔
أَصْفَدَهُ. قید کرنا مَالًا: دینا۔
الصَّفْدُ. بَشْشٌ۔ بندھن۔ ج أَصْفَادٌ کہا
جاتا ہے "الصَّفْدُ صَفْدٌ" یعنی دار و دہش
قید ہے۔ الصَّفَادُ. ہر وہ چیز جس سے
قیدی کو باندھا جائے۔ بندش۔
صَفْرٌ (ض) صَفِيرًا. ہونٹوں سے سیٹی
بجانا۔ صَفْرٌ بِالْفَرْسِ عِنْدَ رُؤُودِهِ:
گھوڑے کو پانی پلانے کے لئے بلانا۔
صَفْرٌ صَفْرًا. پیٹ میں صفر جمع ہونا۔
صَفْتٌ مَصْفُورٌ (دیکھئے صَفْرًا)
صَفْرٌ (س) صَفْرًا وَصَفُورًا وَصَفُورَةٌ
الْإِنَاءُ: برتن کا خالی ہونا۔ کہا جاتا ہے
"صَفْرٌ وَطَابَةٌ أَوْ إِنَاءٌ ه" یعنی ہلاک
ہو گیا۔
صَفْرٌ. الشَّيْءُ: زرد کرنا الشُّوبُ: زرد
رنگنا الْبَيْتُ: خالی کرنا لِلدَّابَّةِ: ہونٹوں
سے جانور کے لئے سیٹی بجانا بِاللِّدَابَّةِ:
جانور کو پانی پینے کے لئے بلانا۔
أَصْفَرُ. محتاج ہونا الْإِنَاءُ: خالی ہونا

الْبَيْتُ خالی کرنا۔

أَصْفَرُ أَصْفَارًا. زرد رنگ ہونا۔

الصَّفْرُ وَالصَّفْرُ وَالصَّفْرُ. خالی۔ کہا جاتا
ہے "بَيْتٌ صَفْرٌ مِنَ الْمَتَاعِ" گھر سامان
سے خالی ہے "هُوَ صَفْرٌ الْبَيْدُ" وہ خالی ہاتھ
ہے۔

الصَّفْرُ. سوتا۔ پیتل۔

الصَّفْرُ. زیرو۔ اہل حساب کا وہ نقطہ جو
عدو نہ ہونے پر دلالت کرے۔

صَفْرٌ. قمری مہینوں میں سے دوسرا
مہینہ۔ کبھی غیر منصرف بھی پڑھا جاتا
ہے۔ ج أَصْفَارُ.

الصَّفْرَانُ. عربی سال کے دو مہینے جس
میں سے پہلے کا نام ظہور اسلام کے بعد
محرم ہو گیا اور دوسرا نام اپنی حالت پر باقی
رہا۔

الصَّفْرُ. س۔ برقان۔ بھوک۔ کہا جاتا ہے

"عَصَّ عَلَى شَرِّ سَوْفِهِ الصَّفْرُ" یعنی
بھوکا ہوا۔ عقل کہا جاتا ہے "لَا يَلْسَاطُ هَذَا
بِضَفْرِي" یہ میری عقل میں نہیں آتا۔

میرے دل میں نہیں پکتا۔
الصَّفْرُ. خالی۔ ج أَصْفَارٌ. کہا جاتا ہے

"إِنَاءٌ أَصْفَارٌ" خالی برتن۔
الصَّفِيرَاءُ: ایک درخت جس کے پتے

سبز زردی مائل ہوتے ہیں۔
الْبَابَانِيَّةُ: زینب و زینت والا ایک درخت

جس کے پتے پر نما ہوتے ہیں اور سفید
رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔

الصَّفْرَةُ: ایک مرتبہ بھوکا ہونا۔
الصَّفْرَةُ: زردی۔ سیاہی۔

مِصْفَارٌ: ایک قسم کی پھلی۔
الصَّفْرِيَّةُ كَثِيرُ الْعِيَالِ مِتَّاجٌ: ج صَفْرَانِيَّةُ.

الصَّفْرِيُّ وَالصَّفْرِيَّةُ. فعل خریف کی
بارش۔ ایک پودہ جو فصل خریف میں ہوتا

ہے۔
الصَّفْرَارُ. آواز۔ زرد رنگ کا پانی جو پیٹ

میں جمع ہو جاتا ہے۔ کنپٹور۔ پیٹ کے

کیڑے۔ زردی جو رنگ پر غالب ہو (والصْفَار) جانوروں کے دانتوں میں گھاس کا بقیہ۔

الصَّفَارَةُ: مرجھایا ہوا پودہ۔
الصَّفِيرُ: ہر آواز جو لمبی ہو اور حروف سے خالی ہو۔ حُرُوفُ الصَّفِيرِ: زای مجملہ سین و صاد مہملہ ہیں۔

الصَّفَارُ: ٹھنڈا۔
الصَّفَارَةُ: سیٹی۔ مقعد۔
الصَّفَارِيَّةُ: زرد پردوں کا پرندہ۔

الصَّفِيرُ: سیٹی بجانے والا چور۔ ایک پرندہ ہے جو رات میں آواز کرتا رہتا ہے اس خوف سے کہ کہیں سوتے میں پکڑ نہ لیا جائے۔ مثال ہے "هُوَ أَجْبَنُ مِنَ صَافِرٍ" وہ صافر پرندہ سے زیادہ بزدل ہے۔ ہر ایک پرندہ جو شکار نہ کرے ہر ایک آواز کرنے والا۔ پرندہ کہا جاتا ہے "مابالدار صافر" گھر میں کوئی آواز کرنے والا نہیں یعنی کوئی نہیں۔

الأصْفَرُ: زرد رنگ والا۔ مؤنث صَفْرَاءُ
بِجِ صَفْرٍ.

الصَّفْرُ: دنا تیر۔
الأصْفَرَانُ: زعفران اور سونا۔

الصَّفْرَاءُ: مؤنث أصْفَرٍ۔ سونا۔ پتہ۔ ٹڈی جو انڈے دے چکی ہو۔ ایک قسم کا پودہ جس کے پتے خس کے مانند ہوتے ہیں۔

المُصْفَرُ: فاجح۔ محتاج۔

المُصْفُورُ وَالْمُصْفَرُ: بھوکا۔
الصَّفْرُدُ: ایک پرندہ جس کی بزدلی کی مثال دی جاتی ہے۔

صَفْفُ الرِّجْلِ: بیابان میں اکیلا چلنا
العُصْفُورُ: چڑیا کا چچھانا۔

الصَّفْصَفُ: چڑیا۔

الصَّفْصَفَةُ: بیابان۔

الصَّفْصَافُ: بید اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بید اس کی ایک قسم ہے۔ واحد صَفْصَافَةٌ.

صَفَقَةٌ (ف) صَفَعًا تَهْتِرُ مَارًا۔
صَافِقَةٌ وَتَصَافَعًا: ایک دوسرے کو تھپڑ مارتا۔

الصَّفَعَانُ وَالْمُصَفَعَانِي: جس پر کثرت سے تھپڑ لگائے جائیں۔

صَفَقَةٌ (ن ض) صَفَقًا: تھپکی لگانا۔ تالی

بجانا۔ صَفَقَ البَابُ: دروازہ بند کرنا۔

كحولًا (ضد) الرِّجْلُ عَنِ مَرَادِهِ: کسی کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا الطَائِرُ

بِجَنَاحِيهِ: پرندہ کا بازوؤں کو پھڑپھڑانا

عَيْنُهُ: آنکھ بند کر دینا العُودُ: بریل کے تاروں کو حرکت دینا القَدْحُ: پیالہ بھرنا

الشَّرَابُ: صفائی کیلئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا لَهُ البَالِيعُ وَصَفَقَ

عَلَى يَدِهِ وَصَفَقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ: سودا کرنے کیلئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا الرِّجْلُ: جانا

هَ بِالسَّيْفِ: تلوار مارنا الرِّيْحُ الاشْجَارُ: ہوا کا درختوں کو حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے

"صَفَقَتْ عَلَيْنَا صَافِقَةٌ" یعنی ہمارے پاس ایک جماعت آئی۔

صَفَقَ (ك) صَافِقَةً الرِّجْلُ: بے حیا ہونا الثَّوْبُ: کپڑے کا ٹکڑا ہونا۔

أَصْفَقَهُ: باز رکھنا۔ أَصْفَقَ البَابُ والقَدْحُ والشَّرَابُ بمعنی صَفَقَ

الحَوْضُ: حوض میں پانی جمع کرنا لِلْقَوْمِ: اتنا کھانا لانا جس سے آسودگی ہو جائے

الثَّوْبُ: کپڑے کو گف بنا۔ کہا جاتا ہے "أَصْفَقُوا عَلَي قَوْلٍ وَاحِدٍ" یعنی ایک

قول پر سب کا اتفاق کرنا القَوْمُ: مضطرب و پریشان ہوتے۔

صَفَقَ الطَائِرُ بِجَنَاحِيهِ: پرندے کا بازو پھڑپھڑانا الرِّجْلُ يَدِيهِ: تالی۔ بجانا حَوْلَ

الشَّيْءِ: طواف کرنا الرِّجْلُ: جانا

الشَّرَابُ: صفائی کے لئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا۔

صَافِقَ الرِّجْلَانِ عِنْدَ البَيْعِ: بیچ کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

صَافِقَ الرِّجْلَ بَيْنَ جَنِيْبَيْهِ: ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر ہونا۔ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ: ایک کپڑے کو دوسرے کے اوپر پہننا۔

تَصَافَقَ القَوْمُ: خرید و فروخت کرنا۔

تَصَفَّقَ الرِّجْلُ: تردد کرنا لِلأَمْرِ: درپے ہونا۔

انصَفَقَ: واپس ہونا۔ پھر جانا القَوْمُ عَلَيْهِ: متوجہ ہونا۔

إِصْطَفَقَ العُودُ: بریل کے تاروں کا متحرک ہونا البَحْرُ: موجوں کا متلاطم ہونا

القَوْمُ: مضطرب ہونا الاشْجَارُ: حرکت کرنا النساءُ عَلَى المِيْتِ: عورتوں کا میت پر نوحہ و بین کرنا۔

الصَّفَقُ: گوشہ۔ چاند۔ دروازہ کا کواڑ۔

صَفَقًا العُنُقُ: گردن کی دونوں اطراف۔

صَفَقًا الفَرَسُ: گھوڑے کے رخسارے۔

صَفَقَ الجَبَلُ: پہاڑ کی سطح۔ بَصِ صَفْقُوقِ:

الصَّفَقُ: دروازے کا کواڑ۔ پٹ۔

الصَّفَقَةُ: خرید و فروخت میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ عقد بیع۔ کہا جاتا ہے "صَفَقَةُ رَابِعَةٌ" نفع بخش عقد بیع۔ صَفَقَةُ

خَاسِرَةٌ: نقصان دہ عقد بیع "رَبِيْحَتُ صَفْقَتِكَ" تمہارا عقد بیع نفع بخش ہے۔

الصَّفَقُ: گوشہ۔ داغ کا آخری حصہ۔

الصَّفَاقُ: کھال کے نیچے کی جھلی۔ پیٹ پر کی جھلی۔ وہ کھال جو لکڑی کی بنی ہوئی

وہال پر مڑھ دیتے ہیں۔ بَصِ صَفْقُوقِ:

الصَّافِقَةُ: نازل ہونے والی جماعت۔ مصیبت۔

الصَّفَاقُ: صافق کا اسم ماخوذ۔ بہت زیادہ تجارت کے لئے سفر کرنے والا اور لین

دین کرنے والا۔

الصَّفُوقُ: بلند پہاڑ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ بلند چٹانی چٹان۔ نرم کمان۔ بَصِ صَفْقُوقِ:

الصَّفَاقُ: آنے جانے والے قافلے۔

الصَّفَاقُ وَالصَّوْافِقُ: مصیبتیں۔

حوادث۔

الصَّفِيقُ بے حیا بے شرم۔ کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ صَفِيقٌ" بے شرم چہرہ "تَوْبُ
صَفِيقٌ" گف۔ کپڑا۔
المَصْفُوقُ راستہ۔

المُصَافِقُ. فَا. ہاتھ پر ہاتھ مارنے والا
مِنَ الْإِنْبِلِ: جو ایک مرتبہ ایک پہلو پر
سوئے اور دوسری مرتبہ دوسرے پہلو پر۔
صَفْنٌ (ض) صَفُونًا. الفرسُ: گھوڑے
کا تین ٹانگوں اور چوتھے کے کمر پر کڑا
ہونا الرَّجُلُ: دونوں قدم کو ایک قطار میں
کرنا بہ الْأَرْضِ: زمین پر دے مارنا
(صَفْنًا) الطائرُ الحَبِيشُ او الْوَرَقُ:
پرندہ کا اپنے پنجے کے لئے گھاس یا چوں کو
تہ بہ رکنا الرَّجُلُ: خصیتین کی گھمیلی کو
پھاڑ دینا۔

صَافِنٌ. الْقَوْمُ: قوم کے مقابل کڑا ہونا۔
الماءُ بِنَهْمٍ: پانی کو آپس میں تقسیم کرنا
اور یہ اس طریقہ سے کہ برتن کی تہ میں
کوئی ننگری وغیرہ رکھ دیتے تھے اور پھر اس
میں پانی ڈالتے تھے جس سے ننگری تہ آب
ہو جائے پھر ایکسر آدمی پیتا تھا پھر پانی
ڈالتے تھے تو دوسرا پیتا تھا اور پھر اسی طرح
کرتے رہتے تھے تاکہ ہر ایک کو برابر برابر
پانی مل جائے اور یہ طریقہ پانی کی کمی کی
وجہ سے سفر میں اختیار کیا کرتے تھے۔

تَصَافِنُ. الْقَوْمُ الْمَاءَ: مذکورہ بالا طریقہ
سے پانی تقسیم کرنا۔

الصَّفْنُ خَصِيءٌ كَيْسِيٌّ۔ چڑے کا دستر
خِوَانٌ: مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی
جھاگ۔ جِ صَفْنٌ وَصَفْنٌ وَأَصْفَانٌ وَ
صَفْنَانٌ۔

الصَّفْنُ: چڑے کی جھاگل۔ چرواہے کا
توہرہ۔

الصفنة: ایک مرتبہ بھدرا حصص پانی
تقسیم کرنا۔ دستر خوان۔ مستی کے وقت
اونٹ کے منہ کی جھاگ۔ چرواہے کا
توہرہ۔

الصَّفْنُ: جِ أَصْفَانٌ وَصَفْنَانٌ الصَّفْنَةُ.
خَصِيءٌ كَيْسِيٌّ۔

الصَّافِنُ: پنڈلی کے نچلے حصہ میں ایک
رگ۔

مِنَ الْخَيْلِ: وہ گھوڑا جو تین ٹانگوں پر کڑا
ہو اور چوتھے پاؤں کا صرف کمر زمین پر
لگائے۔ جِ صَافِنَاتٌ وَ صَوَائِنٌ وَ
صَفُونٌ

صَافًا يَصْفُو صَفْوًا وَ صَفَاءً وَ صُفْوًا.
صَافٌ ہونا الْخَوُّ: نفا کا بے ابرو باد ہونا۔
الْقِدْرُ: دیک کا خالص حصہ لے لینا۔
صَفَّتْ: تَصْفُو صَفْوًا وَ صَفَوْتُ صَفَادَةً
النَّاقَةُ: بہت دودھ والی ہونا۔

صَفَى تَصْفِيَةً الشَّيْءُ: صَافٌ سَتْرًا كَرًا۔
أَصْفَى إِصْفَاءً: فَلَانًا الْوَدَّ: وَأَصْفَى لَهُ
الْوَدَّ: خَالِصٌ مُجْتَبٍ كَرْنَا الَّذِي يَخْفِرُ:

کھودتے ہوئے پھر تک پہنچ جانا جو آئندہ
کھودنے سے روک دے۔ أَصْفَبْتُ
الدَّجَاجَةَ: مرغی کا انڈے دینے سے رُک
جانا الشَّاعِرُ: شعر کہنے سے رُک جانا اور

اسی سے ضرب المثل ہے "أَنَا شَاكِرُكَ
الَّذِي يَصْفِي وَ شَاعِرُكَ الَّذِي لَا
يَصْفِي" یعنی میں تمہارا ایسا شکر گزار ہوں
جو خالص تجتبت کرتا ہے اور ایسا شاعر ہوں
جو شعر کہنے میں رکتا نہیں۔ أَصْفَى مِنْ
الْمَالِ: مال سے خالی ہونا ہ بکذا: مخصوص

کرنا۔ راضی کر دینا الشَّيْءُ: کل لے لینا۔
صَافِيٌّ مُصَافَاةً: فَلَانًا: خَالِصٌ مُجْتَبٍ
کرنا۔

تَصَافَى: الْقَوْمُ: بعض کا بعض سے خالص
تجتبت کرنا۔

إِسْتَصْفَى: الْمَالُ: کل لے لینا الرَّجُلُ:
خالص دوست بنانا۔ کہا جاتا ہے۔
"إِسْتَصْفَاهُ وَإِسْطَفَاهُ" یعنی جن لینا۔
الصَّفْوُ: سر۔ خالص تجتبت (الصَّفْوُ)
قَوَالِصُفْوَةٌ وَالصَّفْوَةُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ:
خالص اور عمدہ۔

الصَّافِي: صَافٌ سَتْرًا: يَوْمٌ صَافٌ: بے
ابر و باد کا دن۔ كَلَاءٌ صَافٍ: بغیر وزرا
کرکت کی گھاس۔

الصَّافِيَةُ: زمین جس کے باشندے چلے
گئے ہوں یا مر گئے ہوں اور کوئی اس کا
وارث نہ ہو۔ جِ صَوَائِفٌ

الصَّفْوَةُ: خَالِصٌ دَوَسْتُ: طَرِزٌ صَفَائِيٌّ۔
الصَّفْوَةُ مِنَ الْمَاءِ وَ نَحْوُهُ: تھوڑا سا پانی
وغیرہ۔

الصَّفَاءُ: جمع صَفَاةٌ کی بمعنی پتھر اور لقب
ہے پطرس کا (کلمہ سریانی ہے)

الصَّفَاةُ: جِ صَفَاءٌ صَفَوَاتٌ جِ أَصْفَاءٌ
وَ صَفِيٌّ وَ صَفِيٌّ

الصَّفْوَانَةُ: جِ صَفْوَانٌ وَ صَفْوَانٌ
وَالصَّفْوَاءُ: مَحْسُوسٌ بَرًا پتھر۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ لَا تَدْنَى صَفَاتِهِ" مراد یہ ہے کہ
بجیل ہے و "فَلَانٌ لَا تُفْرَعُ لَهُ صَفَاةٌ"
یعنی کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

الصَّفْوَانُ: چکنا پتھر۔ يَوْمٌ صَفْوَانٌ:
صاف دن۔

الصَّفِيُّ: مَخْلُصٌ دَوَسْتُ: جِ أَصْفِيَاءُ
مَوْثٌ صَفِيَّةٌ: ہر چیز کا خالص حصہ۔

الصَّفِيُّ وَالصَّفِيَّةُ: مالِ غَنِيمَةٍ كَا وَ: حصہ
جو سردار اپنے لئے خاص کر لے۔

الصَّفِيَّةُ: زیادہ دودھ والی اونٹنی۔ بہت
چھلدار کھجور۔ جِ صَفَايَا

المِصْفَاةُ: چمننا۔ جِ مِصَافٍ
المِصْفَطِيُّ: برگزیدہ چنا ہوا۔

صَقِبٌ (س) صَقْبًا: الْمَكَانُ: قَرِيبٌ
ہونا۔ بعید ہونا۔

صَقْبُهُ (ن) صَقْبًا: تھمیر مارنا الشَّيْءُ: جمع
کرنا الْبِنَاءُ: عمارت کو بلند کرنا۔ الطَّائِرُ:
پرندہ کا آواز کرنا۔

صَاقِبَةٌ صَقَابًا وَ مُصَاقِبَةٌ: قَرِيبٌ كَرْنَا
کہا جاتا ہے لَقَيْتُهُ صَقَابًا یعنی رو در رو
ملاقات کی۔

أَصْقَبُهُ: نَزْوِيكٌ كَرْنَا: أَصْقَبَ الشَّيْءُ

قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "اصقبك الصید" یعنی شکار تم سے قریب ہے جس پر نشانہ لگانا ممکن ہے۔
الصفب مکان کے اندر سب سے لمبا کھیل ج صقوب لمبا ج عقیاب و صفبان۔

الصفب والصفب قریب نزدیک کہا جاتا ہے "ذاری من ذارہ بصفب میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔" الحجار احق بصفیہ" پڑوسی اپنی قربت کی وجہ سے زیادہ حق دار ہے۔
الصفیقانی عطر فروش۔
الصفح والصفحة صحن۔ سر کے اگلے حصے کے بال گر جانا۔
الاصقع صحن۔ صحن۔ صحناء جمع صفحہ۔

صفرة (ن) صفراً بالعصاء لاشی سے مارنا۔ اسی سے ہے "صفرفنی بکلامہ" اس نے مجھ کو اپنی گفتگو سے تکلیف پہنچائی یہ الارض زمین پر ٹپک دینا الحجارة: ہتھوڑے سے پتھر توڑنا۔
صفرو صفراً النار: آگ کو جلاانا۔
صقرت (ن) صفراً و صفرة واصقرت الشمس أو النار: صفرة الشمس آگ کا تیز گرم ہونا۔ صفرة الشمس آفتاب کا مجلس دینا۔
صقر (ن) صفراً واصقر اللبن: دودھ

کا زیادہ کٹا ہونا۔
تصفرو شکرہ سے شکار کرنا بالمکان مکان میں ٹھہرنا۔ تصفرت واصظفرت النار: آگ کا جلانا۔
الصفرو گدھ اور عقاب کے علاوہ ہر پرندہ جو شکار کرے۔ شکرہ ایک پرندہ ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے جس کو فارسی میں چرخ کہتے ہیں۔
ج اصقرو و صفورو و صفورة و صفار و صفارة و صفرو کہا جاتا ہے "صففر

صافر یعنی تیز نگاہ والا۔
الصففر بہت کھانا دودھ۔ سزا ہوا پانی ج صفور و صفار۔
الصففر والصففر شیرہ۔ تر کھجور کا ہو یا خشک انکھور کا۔ کہا جاتا ہے "هذا التمر اصفر من ذاك" مراد یہ ہے کہ اس میں شیرہ زیادہ ہے۔
الصفرة بہت کھانا دودھ۔
صفرو طبقہ جنم کا نام۔ یہ کلمہ غیر منحرف ہے اور ستر میں ایک لغت ہے۔
الصففر من الرطب أو الزبيب تر کھجور یا خشک انکھور چورس ٹکالے کے قابل ہو۔ امرأة صفرة: بہت تیز نگاہ والی عورت۔ کہا جاتا ہے "جاء بالصففر والبقر او بالصفقاری والبقراری" یعنی سفید چھوٹ بولا۔
الصفرة پرندہ کی سبزی یا سیاہی کا سرخی یا زردی سے ملنا۔
الصفرة حوض کا بقیہ پانی۔
الصففور ہتھوڑا جس سے پتھر توڑا جائے۔ کدال (والصافرة) مصیبت بڑی مصیبت۔

الصفار چغل خور۔ کافر۔ غیر مستحقین کو لعنت کرنے والا۔ شیرہ کا بنانے والا اور بیچنے والا۔
صفعة (ف) صفعاً سر پر مارنا۔ صفع بہ الارض: بھجنا دینا الرجل: جانا۔ کہا جاتا ہے "ما اذری ابن صفع" یعنی میں نہیں جانتا کہاں گیا۔ راستہ سے ہٹ جانا یا بھلائی اور کرم کے راستہ سے ہٹ جانا الحمار بکی گدھے کے بٹنہ یا سر پر داغ لگانا۔ کہا جاتا ہے صفعته الصافعة بمعنى صفعته الصاعقة یعنی اس کے اور بجلی گری۔
صفع (ف) صفعاً و صفعاً و صفیعاً الدینک: مرغ کا ہانگ دینا (صفعاً و صفعاً) بصوتہ: آواز بلند کرنا۔

صفعاً بالازدود جگہ۔
الصفعة گھوڑوں اور پرندوں کے وسط سر میں سپیدی۔
الصفعاء مؤنث اصقع کا آفتاب۔
الصفاع جموں کہتے ہیں "صہ صفاع" یعنی اے جموںے جب رہ۔
الصفاعة مؤنث صفاع کا بجلی۔
الصفاع برق۔ اوڑھنی کو تیل سے بھانے کے لئے چھتروا۔ وہ چیز جس سے اوڈھنی کی ناک کو باندھ دیں۔ اونٹ کی گدی پر داغ۔ صفاع الخباء وہ رشتی جس کو خیمہ کے اوپر ڈال دیں اور اس کے دونوں کناروں کو دو طرف کھونٹے میں باندھ دیں اور ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کہ ہوا کا تیزی کی وجہ سے خیمہ کے انکھ جانے کا خوف ہو۔
الصفیع رخ پالا۔ ایک قسم کی بجز۔
المصفع فصیح بلیغ۔ بلند آواز والا۔ وہ شخص جس کو اپنے کلام میں التباس نہ ہو۔
ج مصافع۔
صوقعة سر پر مارنا۔
الصوقعة عماد۔ سر کا درمیانی حصہ۔

صفع (س) صفعاً الرجل: بیہوش ہونا۔
الفرس أو الطائر: سر کے درمیان سفید ہونا۔ صفت اصقع۔ صفت البئر: کنواں گر جانا۔
صفع واصقع مکان: رخ والا ہونا۔
بالازدود: صقع لفلان: کسی کے لئے قسم کھانا۔
اصقع الرجل: رخ پر چلنا الصقع الارض: رخ پڑنا۔
الصفع جانب گوشہ ج اصقاع الصقع: سر میں بال کم ہونا یا بالکل نہ ہونا۔
الصفیع: منجنا غائب آدمی جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے۔

بالازدود جگہ۔
الصفعة گھوڑوں اور پرندوں کے وسط سر میں سپیدی۔
الصفعاء مؤنث اصقع کا آفتاب۔
الصفاع جموں کہتے ہیں "صہ صفاع" یعنی اے جموںے جب رہ۔
الصفاعة مؤنث صفاع کا بجلی۔
الصفاع برق۔ اوڑھنی کو تیل سے بھانے کے لئے چھتروا۔ وہ چیز جس سے اوڈھنی کی ناک کو باندھ دیں۔ اونٹ کی گدی پر داغ۔ صفاع الخباء وہ رشتی جس کو خیمہ کے اوپر ڈال دیں اور اس کے دونوں کناروں کو دو طرف کھونٹے میں باندھ دیں اور ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کہ ہوا کا تیزی کی وجہ سے خیمہ کے انکھ جانے کا خوف ہو۔
الصفیع رخ پالا۔ ایک قسم کی بجز۔
المصفع فصیح بلیغ۔ بلند آواز والا۔ وہ شخص جس کو اپنے کلام میں التباس نہ ہو۔
ج مصافع۔
صوقعة سر پر مارنا۔
الصوقعة عماد۔ سر کا درمیانی حصہ۔

بارش۔
 الصَّلَّةُ: دباغت سے پہلے خشک چمڑا بدبودار چمڑا۔ جو تازہ چمڑے پر شہید بارش۔ تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ تر مٹی۔
 الصَّلَّةُ: بدبودار ہوا۔ بقیہ پانی۔
 الصَّلَّةُ: مصیبت۔
 الصَّلَاةُ: چرمی موزے کا استر۔ ج اصلۃ۔
 صَلَاةُ الْحَبِّ: نلے کا کوڑا کرکٹ۔
 الصَّلِيلُ: جھکار لوہے کی یا توار کی۔
 الصَّلَالُ وَالْمُضَلَالُ: من الطین: خشک مٹی جو لوہے کی مانند آواز دے۔ ماء صَلَالٌ: متغیر پانی۔
 الصَّلِيَانُ: ایک قسم کی نباتات۔ واحد صَلِيَانَةٌ۔
 الْمُضَلَّلُ: سردار۔ شریف۔ خالص النیب۔ کثیر بارش۔
 صَلْبُهُ: (ن) ض) صَلْبًا: سولی دینا اللہم: گوشت بھونا العظام: ہڈیوں سے گودا نکالنا صَلْبَتُهُ الشَّمْسُ: آفتاب کا جھلس دینا۔ صَلْبَتٌ عَلَيْهِ الْحُمَى: بخار کا ہمیشہ اور تیز رہنا۔
 صَلْبٌ (ک) (س) صَلَابَةٌ: سخت ہو علی المال: بخل کرنا۔
 صَلْبٌ الشَّيْءُ: سخت کرنا الشَّيْءُ: سخت ہونا اور خشک ہونا اللِّصُّ: چور کو سولی دینا۔
 الْمَسْبُوحِيُّ: ہاتھ سے صلیب کا نشان بنانا۔
 أَصْلَبُ النَّاقَةِ: بچہ کو دودھ پلاتے ہوئے اُوٹنی کا اپنی گردن کو آسمان کی طرف اٹھانا۔
 تَصَلَّبَ: سخت ہونا۔
 إِضْطَلَبَ الْعِظَامَ: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔
 الصَّلْبُ: ریزہ کی ہڈی۔ چرمی۔ گودا۔ سخت زمین۔ ج صَلْبَةٌ وَأَصْلَابٌ: ان

الصَّكَاكُ: زور سے طمانچہ مارنے والا۔
 چپک لکھنے والا۔ چپک کی حفاظت کرنے والا۔
 الصَّكِيكُ: کمزور۔
 المِصْكُ: مضبوط۔ جس سے دروازہ کو بند کیا جائے۔
 المِضْكُوکَاتُ: در اہم و دنا تیر۔
 صَكَمَةٌ (ن) صَكْمًا: مارنا۔ صَكَمَ الفَرَسُ عَلَى لِحَامِهِ: گھوڑے کا لگام کو چبانا۔
 الصَّكْمَةُ: صدمہ شدیدہ۔
 الصَّوَاكِمُ: مصائب۔ حوادث۔ کہا جاتا ہے "صَكَمْتُهُ وَصَوَاكِمُ الذَّهْرِ" اس کے اوپر زمانہ کے مصیبتیں پڑیں۔
 صَلٌّ (ض) صَلِيْلًا: السَّلَاحُ: جھکار ہونا الشَّيْءُ: آواز دینا المِسْمَارُ: ٹھونکا جانا اور کسی چیز میں زبردستی داخل کرنا الاِبِلُ: اُونٹ کی آنتوں کا پیاس سے خشک ہونا جس سے پانی پیتے ہوئے آواز سنائی دے السَّقَاءُ: مٹک کا خشک ہونا (صُلُوْلًا) اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا الماءُ: پانی کا متغیر ہونا۔
 صَلٌّ (ن) صَلًّا: الشَّرَابُ: صاف کرنا الْحَبُّ الْمُخْتَلِطُ بِالْتَّرَابِ: پانی ڈال کر دانہ کو مٹی سے جدا کرنا الخَفُّ: چرمی موزہ پر استر لگانا۔ کہا جاتا ہے "صَلْتَهُمُ الصَّالَّةُ" یعنی ان کو مصیبت لاحق ہوگی۔
 أَصَلَّ: اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا الْقَدَمُ الْمَاءُ: لایر تک ٹھہرنے سے پانی کو متغیر کر دینا۔
 الصَّلُّ: گوشت وغیرہ جو متغیر ہو جائے۔
 الصَّلُّ: خبیث قسم کا سانپ۔ مصیبت۔ ہسر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا صَلُّ ذَاكَ" یعنی اس کے مماثل ہے۔ توار۔ ج أَصْلَالٌ۔
 کہا جاتا ہے "هُوَ صَلُّ أَصْلَالٍ" یعنی وہ بڑا مکار خبیث ہے۔
 الصَّلُّ وَالصَّلُّ وَالصَّلَّةُ: تھوڑی متفرق

اوڑھنی کو تیل سے بچانے والا کپڑا۔
 الصَّفْعَبُ: لہب۔ آواز نکلنے والا۔ (دانتوں سے یا دروازے سے)
 صَفْعَرٌ: فِیْ أذُنِهِ: کان میں چلانا۔
 الصَّفْعَرُ: ٹھنڈا پانی۔ سڑا ہوا پانی۔
 صَقَلٌ (ن) صَقْلًا وَصِقْلًا: الشَّيْءُ: صاف کرنا۔ چمٹا کرنا۔ زنگ دور کرنا۔ صفت صاقِلٌ ج صَقْلَةٌ: صفت معنوی مَصْفُوْلٌ الدَّابَّةُ: ڈبلا کرنا ہ بالعصا: لاٹھی سے مارنا بہ الأَرْضُ: زمین پر پک دینا۔
 صَقِلٌ (س) صَقْلًا: صاف شدہ ہونا۔
 الصَّقِلُ: گھوڑے کے پہلو کی لہائی۔
 الصَّقِلُ: پہلو۔ جانوروں میں ہکا چمکا۔
 الصَّقِلُ وَالصَّقْلَةُ: کر۔
 الصَّقِيلُ: مختلف چال والا۔ کم گوشت کا گھوڑا۔ فَرَسٌ صَقِيلٌ: بے پہلو کا گھوڑا۔
 الصَّقِيلُ: صاقِلٌ کا مبادلہ۔ تلواریں کو تیز کرنے والا۔ ج صِقَاقِلٌ وَصِقَاقِلَةٌ۔
 الصَّقِيلُ: صاف کیا ہوا توار۔
 الصَّقَالُ: صاقِلٌ کا مبادلہ۔
 المِضْقَلُ: مِنَ الخَطْبَاءِ: فصیح و بلیغ۔
 المِضْقَلَةُ: جس سے صیقل کیا جائے۔
 صَكَّهُ (ن) صَكًّا: زور سے بارنا۔ طمانچہ مارنا۔ صَلَّ الْبَابُ: دروازہ بند کر دینا۔
 صَكٌّ (س) صَكْكًا: الرَّجُلُ: او الفَرَسُ: چلنے میں گھٹنے اور ایڑیوں کا ٹکرنا۔ صَفْتٌ أَصَكٌّ۔
 اصْطَلَكْتُ رُكْبَتَاهُ: چلنے میں گھٹنوں کا ایک دوسرے سے ٹکرنا "اصْطَلَكْتُ الْقَوْمَ بِالسُّيُوفِ" توار سے لڑنا۔
 تَصَاكَّتِ الرُّكْبُ: زانو کا رگڑ کھانا۔
 الصَّكُّ: چپک۔ اقرار نامہ۔ ج أَصَكٌّ وَ صَكُّوْكٌ وَ صَكَاكُ۔
 الاَصَكُّ: چلنے میں گھٹنے اور ایڑیوں کو ٹکرانے والا۔ لٹے ہوئے ڈاڑھ اور دانت والا۔ قوی۔ مؤنثٌ صَكَاةٌ ج صَكٌّ۔

تصالح الرجل: بہرا بہناد۔ الصلح كمرے درہم۔ الصلحة رقیم کے کیڑے کا خول۔ ج صلح۔	صَلَبٌ عَلَى الزَّوْءَاءِ مَنْصُوبٌ. كَوَيْتٌ كَا وَأَرْجُحُ صَلْبٍ خَالِصٌ نَبٍ وَاللَّهِ كَمَا جَاتَا ہے "ہو عربی صلیب" وہ خالص عربی ہے۔ "ذو الصلیب" لقب ہے "الاضطل نعمانی شاعر کا۔"	زمینوں کو جو ایک زمانے سے جوتی نہ گئی ہوں ان کے لئے کہتے ہیں۔ "انہا لأضلاب منذاً عوام"
الصلیحة پھلی ہوئی صاف خالص چاندی کا ٹکڑا۔ الصلوئجان والصلوئجانة۔ ٹیڑھے سرے کی لاشی۔ ج صوالجہ۔ الصلوئج۔ خالص چاندی۔ کان کا سوراخ۔ ٹیڑھی لکڑی۔	بِعِزِّ مُصَلَّبٍ مَّضْلُوبٌ جَسٌّ پَرِ صَلِيبٍ جیسا داغ ہو۔ مؤنث مُصَلَّبَةٌ وَ مَضْلُوبَةٌ سنان مُصَلَّبٌ تیز نیزے۔ شئ مُصَلَّبٌ علیہ: جس پر صلیب جیسا نشان ہو۔ ثُوبٌ مُصَلَّبٌ جس کیڑے پر صلیب کا نشان ہو۔	الصلب سخت۔ کہا جاتا ہے "ہو صلب فی دینہ" وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ "زاع صلب العضا" جبکہ اونٹوں پر سختی کرتا ہو۔ ریزہ کی بڑی۔ ج اصلاب واصلب و صلیبہ اور کہا جاتا ہے "ہو من صلب فلان" یعنی فلاں کی نسل اور اولاد سے ہے۔
الاضلج سخت چٹا بہرا۔ صلح (ک ف ن) صلاح و صلوحا و صلاحیۃ۔ درست ہونا۔ فساد کا زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "صلحت حال فلان" فلاں کا حال درست ہو گیا الرجل: نیک ہونا فی عملہ: کام میں درست ہونا۔ کہا جاتا ہے "هذا یصلح لك صلاحاً" یعنی تہارے موافق ہے۔ تہارے لائق ہے۔ صالحة صلاحاً و مصلحة۔ موافق ہونا۔ صلح کرنا۔	صَلَّتْ (ن) صَلَّتَا الْفَرَسُ: گھوڑے کو اڑانا۔ صَلَّتْ (س) صَلَوْتُهُ الرَّجُلُ: کشادہ پیشانی والا ہونا۔ أَصَلَّتِ السَّيْفُ: تلوار سونٹا۔ أَنْصَلَّتْ فِي عَدُوِّهِ: دوز میں آگے نکل جاتا۔	الصلب قوت۔ حسب۔ سخت پتھر جی جگہ۔ ج صلیبہ۔ الصلب ایک پرندہ ہے۔ الصالب فالحمی صالِبٌ: تیز بخار جس میں کچی بھی ہو۔ الصالب والصالب: ریزہ کی بڑی۔ الصلب سخت۔ سان رکھنے کا پتھر۔ ریزہ کی بڑی۔ الصلبۃ سان رکھنے کا پتھر۔
صلح کرنا۔ أصلح الشئ: درست کرنا۔ بینہم صلح کرنا الیہ: لہذا کرنا۔ کہا جاتا ہے "أصلح الله فی ذریتہ ومالہ" تصالح واصلح واصلح واصلح القوم: رضامند ہونا۔ استصلح الشئ: درستی چاہنا۔ الصلح سلامتی۔ درستی۔ مصالحت کا اسم ہے (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "ہم لنا صلح" یعنی صلح کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے "قوم صلوح" یعنی رضامند ہیں۔ مصدر کے ساتھ وصف بیان کیا گیا ہے۔ الصلاحیۃ۔ وہ حالت جس سے کوئی چیز درست ہو۔	الصلت کشادہ ہموار ابھری ہوئی پیشانی۔ کہا جاتا ہے "جین صلت" کشادہ پیشانی۔ الصلت والصلت: بڑی چھری۔ ج اصلات۔ الصلت والصلتان والاصلیت والاصلیت والاصلات والمصلت و المصلات والمنصلت: من الرجال: بہادر آدمی۔ کہا جاتا ہے "ہو من مصلیت الرجال" وہ بہادر آدمیوں میں سے ہے۔ الصلت والاصلیت والمنصلت من السیوف: صیقل شدہ تیز تلوار۔	الصلبۃ بمعنی صلیبی تا مبالغہ کے لئے ہے۔ المصالب: وہ ستون جس کے چارھے بنائے گئے ہوں۔ الانبوب: وہ ستون لبا جس کے حصے نہ ہوں۔ الأعراج: وہ ستون جو دو پر قائم ہوا اور باقی لبا ہو۔
اصطلاح عرف خاص۔ یعنی کسی جماعت خاص کا کسی چیز پر یا کسی کلمہ کے وضوح پر اتفاق کر لینا۔ ج اصطلاحات الصالح نیک۔ ٹھیک۔ درست۔ حقوق و	المصالفة باہم دگر تلوار بازی کرنا۔ شاعر کا کسی دوسرے کے شعر کو لفظاً و معنی لے لینا اور یہ سرقات شعر یہ میں نتیجہ ترین ہے۔ صلح (ن) صلحاً الفضة: چاندی پگھلانا صلحاً بالعصا: لاشی سے مارنا۔ صلح (س) صلحاً سمعاً: بہرا ہونا۔	وہ لکڑی جس پر عیسائیوں کے گمان کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ ہر وہ جو دو خط کی شکل پر ہو جو آپس میں تقاطع کرتے ہوں جس پر سولی دی جائے۔ ج صلبان و صلب۔ قوی۔ سولی دیا ہوا۔ چلی۔ گودا۔ کہا جاتا ہے "استخرج صلیب العظم" یعنی بڑی کا گودا نکال لیا۔ جمنزل لندی

ملذبات کا پورا کرنے والا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ صَالِحٌ بَكْدًا“ یعنی اس کے اندر فلاں کام کی اہلیت و قابلیت ہے اور بسا اوقات کثیر سے کتابہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ”لَهُ حَقٌّ صَالِحٍ مِنَ الْاَدَبِ“ یعنی اس کیلئے ادب کا حصہ کثیر ہے۔

بِح صَالِحُونَ وِ صُلَاحٌ
الصَّالِحَةُ مَوْثٌ صَالِحٍ كَمَا جَاءَتْ فِي
”اتَّقِنِي صَالِحَةً مِنْ فُلَانٍ“ یعنی فلاں کی طرف سے مجھے بہت نعمت یا بڑی بھلائی پہنچی۔
الصَّالِحُ بِمَعْنَى صَالِحِ بِنِ صُلْحَاءِ
الْمُصْلِحَةِ: جَو مِصْلَاحٍ بِرِ اِهْتِمَاتِهِ كَرَمَ
يَكُنِي: جِ مِصْلَاحٍ كَمَا جَاءَتْ فِي ”هُوَ مِنْ اَهْلِ
الْمَقَابِلِ لَا الْمِصْلَاحِ“
صَلِحٌ (م) صَلِحًا سَمْعُهُ: سَخْتٌ بِهَرَا
هُوَ۔

تصالح بہر اہنا۔
اصلح لئنا۔
الصالح بمعنى السالِح یعنی عارِش۔ کہا جاتا ہے ”جَرَّبْتُ صَالِحًا وَ سَالِحًا“ کالا سانپ۔

الْاَصْلُحُ: بہت بہرہ۔ مِنْ الْجَمَالِ:
خَارِشِي اَوْثٌ۔ مَوْثٌ صُلْحَاءِ صُلْحِ
الصِّلْحِ بِهَرَا بِنِ۔ خَارِشٌ۔ وَ اِهْيَاةٌ صُلُوحٌ
بِلاک کرنے والی مصیبت۔
اصْلِحْهُ سِدْحًا كَمَا كَرِهْتَا

الْصِّلْحِدُ وَالصِّلْحِدُ وَالصِّلْحِدُ
وَالصِّلْحَادُ وَالصِّلْحَادُ وَالصِّلْحَادِي
قَوِي۔ ذَهَبِي۔ دَلِيرِي۔ جِ صِلْحَادِ
الصِّلْحَادِمُ۔ مِنْ الْاِبِلِ قَوِي اَوْثٌ۔
صَلْدًا (ض) صَلْدًا اَوَّازُ كَرْتَا۔ صَلْدَتُ
بَغِيرِ اَگِ نَلْکَے ہوئے آواز کرتا۔ صَلْدَتُ
الْاَرْضُ زَمِيْنًا كَا سَخْتٌ هُوَا۔ صَلْعَتُهُ بِرِ
كَلْمٌ كَا مِجْلَا۔

صَلْدَتُ (ض) صَلْدًا الذَّابِيَةُ جَانُوْرًا
كَمَا هُوَا۔ دَوْرَتِي مِنْ يَاقُوْنِ كُوْرِيْمِيْنَ بِرِ مَارَاتَا
الرَّجُلُ فِي الْجَبَلِ يَهَارُ بِرِ مَارَاتَا۔ صَلْدُ
السَّبَابِلِ يَحْمُوْهُ دِيَابَةُ بِيْدِيَةِ بَالِي جَامَاتَا۔

صَلْدٌ (ك) جِلْدَةٌ وَ صَلْدٌ تَصْلِيْدًا
بِجَلِّ كَرْتَا۔

اَصْلُدُ۔ الزَّنْدُ بِغَيْرِ اَگِ نَلْکَے کے چقماق کا
آواز کرتا۔ اَصْلُدْتُ الْاَرْضُ: سَخْتٌ هُوَا۔
اَصْلُدُ الزَّنْدُ بِغَيْرِ اَگِ کے چقماق سے آواز
لگاتا۔

الصِّلْدُ: مَوْسٌ۔ چَکْنَا۔ وَهْ زَمِيْنًا جِسْ مِيْنِ كَچھ
نہ اگے۔ کہا جاتا ہے اَرْضٌ صَلْدٌ وَ مَكَانٌ
صَلْدٌ جِ اَصْلَادُ فَرَسٌ صَلْدٌ: وَهْ كُوْرَا
جِسْ كُوْبِيْنِيْنَهْ اَے اور یہ صفت مذ مومند ہے۔
رَاسٌ صَلْدٌ جِسْ سِرِّ بِرِ بَالٍ نَهْ نَلْکِيْنِ۔ جِيْبِيْنِ
صَلْدٌ: سَخْتٌ پِيْشَانِي۔ رَجُلٌ صَلْدٌ: بِجَلِّ مَرْدِ
الْاَصْلُدُ: بِجَلِّ مَوْثٌ صُلْحَاءِ صُلْحِدُ
الصَّالِدُ: فَاوَهُ چقماق جِسْ مِيْنِ اَگِ نَهْ نَلْکَے۔
الصَّالِدَةُ مَوْثٌ صَالِكَا۔ دَانْتُ جِسْ كَلْے
پِيْنِيْ مِيْنِ اَوَّازِ نَلْکَے۔ جِ صَوَالِدُ۔

الصِّلْدُ: اَگِ نَهْ دِيْنِيْ وَ الْاَلَا چقماق۔ مَوْسٌ۔
اَكِيْلَا۔ بہت بچل۔ خَلْکُ۔ فَرَسٌ صَلْدٌ: وَهْ
كُوْرَا جِسْ كُوْدِرِيْ مِيْنِ پِيْنِيْنَهْ اَے۔ قِيْدَرُ
صَلْدٌ: وَهْ ہانڈی جسے دیر میں جوش آئے۔
اِمْرَاةٌ صَلْدٌ: نَبِيْ بَرَكْتِ عَوْرَتِ۔
الصِّلْدُ: دُ مَوْسٌ چَکْنَا۔

الصِّلْدُ اَكِيْلَا۔
عَوْدٌ صَلْدٌ وَ مِصْلَادٌ۔ نَهْ سَلْکَے والی
کٹڑی۔ نَاقَةٌ مِصْلَادِيْبِيْ دُوْدَهْ كَلْمٌ سَخْتِے والی
اُوْنْتِي۔

الصِّلْدَاءُ وَالصِّلْدَانَةُ: سَخْتٌ مَوْسٌ زَمِيْنِ۔
الصِّلْدِحُ: چُوْرَا چَچَرِ۔
الصِّلْدُوْدِحُ: سَخْتٌ قَوِي۔
الصِّلْدَمُ: مَوْسٌ۔ سَخْتٌ كَرَمِ۔ ثِيْرِي۔ جِ
صِلَادِمِ۔

الصِّلْوَرُ: اَبَكٌ تَسْمِيْ كَا مِجْلَا۔
صَلْصَلٌ صَلْصَلَةُ الْحَنِيْ اَوْ اللِّحَامِ:
زِيُوْرِيْ اَلْاَگَمِ سے آواز لگتا الرعد صاف گرجتا۔
الجَوْسُ: آواز کو دہراتا فلانا دمگلی دیتا۔
تَصَلْصَلُ: اللِّحَامِ اَوْ الْحَلِيْ اَلْاَگَمِ يَزِيُوْرُ
سے آواز لگتا۔

الصِّلْصَلُ: كُوْرِيْے كِيْ پِيْشَانِي۔ كُوْرِيْے كِي
پِيْچِيْ كِيْ سَفِيْدِ جِلْدِ۔ چھوٹا پیالہ۔ برتن میں بقیہ
پانی یا اور کوئی چیز۔ ماہر چرواہا۔ فاختہ۔
الصِّلْصَالُ: كَهْكُهَانِيْے وَ اَلِيْ خَشْکِ مِثْلِيْ
وَ الصِّلْصَالِ وَ الْمِصْلِصَلِ اَوَّازِ دِيْنِيْے وَ الْاَلَا
گدھا۔

الصِّلْصَالَةُ زَمِيْنًا جِسْ مِيْنِ كُوْنِيْ نَهْ هُوَا۔
الْمِصْلِصَلُ: مَصْدَرٌ مِثْلِيْ۔ خَالِصٌ النَّسْبِ۔
شَرِيْفٌ سَرْدَارِ۔

الصِّلْطَلَةُ وَ الصِّلْطَلَةُ: مِلَادٌ اَلْعِنِيْ بِنِيْ پِيْزَا
نَمَكٌ، تِيْلٌ اَوْ دِيْگَرُ اَشْيَاءِ سے کچا کھانا تیار کیا
جائے۔

الصِّلْصَلَةُ لِيُوْنِ كَا جَوْسٌ۔
الصِّلْصَلْتُ: الطَّبْحَاءُ كَشَاوَهُ هُوَا۔
الصِّلْصَالِحُ وَ الْمِصْلِصَلِحُ: چُوْرَا كَشَاوَهُ۔

صَلِحٌ (س) صَلْعَا مَرِے كَلْمٌ هَمَّے كَلْمٌ
بَالُوْنِ كَا كَر جَانَا۔ صَفْتٌ اَصْلَعُ جِ صُلْعٌ وَ
صُلْعَانٌ كَمَا جَاءَتْ فِي صَلْعَتِ الشَّجَرَةِ اَلْعِنِيْ
شَبِيْهِيْوْنِ كَلْمٌ پتے گر گئے۔

صَلْعَتٌ وَ تَصَلْعَتٌ وَ اِنْصَلَعَتْ
الشَّمْسُ: اَقْتَابٌ كَا بَادِلٌ سے نکل آتا۔
الْحِيَّةُ: سَانِپٌ كَا صَافٌ سَمْرًا بِغَيْرِ مِثْلِيْ كَلْمٌ
لُكْنَا۔ تَصَلْعَتِ السَّمَاءُ: بَادِلٌ كَا حِوْثٌ جَانَا۔
صِلَاغٌ: الشَّمْسُ اَقْتَابٌ كِيْ گری۔
الصِّلْعَةُ وَ الصِّلْعَةُ: بِرِ كَا وَهْ جِهَانِ سے
بال گر گئے ہوں۔

الصِّلْعَاءُ: اَصْلَعُ كَا مَوْثٌ۔ خَالِيْ بِيَابَانِ۔
مِصِيْبَةٌ: رَمْلَةٌ صَلْعَاءٌ بِغَيْرِ دَرَخْتِ كَلْمٌ
رَمْلًا مِيْدَانِ۔ جِ صُلْعِ۔

الصِّلْعُ وَ الصِّلْيَعُ وَ الصِّلَاعُ: چُوْرَا چَچَرِ۔
مِنْ الْاِمْكِنَةِ بِجَمْرُ زَمِيْنِ۔ رَاسٌ صِلْيَعِ بِرِ
جِسْ كَلْمٌ هَمَّے كَلْمٌ بال گر گئے ہوں۔

صَلْعَمُ: صَلِيٌّ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمٌ كَا اَخْتِصَارِ۔
صَلْفٌ (س) صَلْفًا: رِيْگُ مَارَاتَا۔ صَفْتٌ
صَلْفِجٌ صَلْفُوْنٌ صَلْفَاءٌ وَ صَلْفَا فِي
لِصَاحِبِهِ غَيْرِ پَسِنْدِيْدِهِ پاتش کرتا۔ الْمَرْأَةُ
عِنْدَ زَوْجِهَا شَوْهَرِے كَلْمٌ نَزْدِيْكِ بِيْ وَ قَعْتِ

ہونا۔ مفت صلیفہ۔ ج صلیفات و
صلایف السحاب: زیادہ گرجتا اور پانی کم
برتا۔
أصلف: بے برکت ہونا۔ گراں جان ہونا۔
فلاناً: بغض رکھنا۔
تصلف: بے تکلف ڈیک مارنا۔ چالوسی کرنا۔
القوم: سخت زمین میں پڑنا۔
الصلف: درخت خرما میں خالی ہونا۔ صلیفۃ
واحد ہے۔
الصلیف: بے مزہ کھانا۔ ہماری برتن۔ اناہ
صلیف: کم پانی لینے والا برتن۔ سحاب
صلیف: زیادہ گرج اور کم بارش کا بدل۔
أرض صلیفۃ: زمین جس میں کچھ نہ اُگے۔
الصلیف: گردن کا پہلو۔ کہا جاتا ہے أخذہ
بصلیفہ یعنی پورالے لیے۔ طعام صلیف
بے مزہ کھانا۔
الأصلف: زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ
نہ اُگے۔ ج أصالیف۔
الصلفاء والصلفاء والصلفاء
والصلفانۃ: زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ
نہ اُگے۔ ج الصلافی۔
المُصلِف: بیوی کی بے قدری کرنے والا۔
صَلَفٌ: مفلس ہونا۔ رأسہ موٹو رہنا۔
صَلِق (ن) صَلَفًا الرَّجُلُ: معیبت میں
چینا چلانا۔ صَلَفٌ بِالْعَصَا: لاٹھی سے مارنا۔
صَلَفْتَهُ الشَّمْسُ: آفتاب کا گرمی سے تکلیف
پہنچانا۔
صَلِق (ن) صَلَفًا نَابَهُ: دانت پینا۔
أَصَلِقَ الرَّجُلُ: معیبت میں چینا چلانا۔
النَّابُ: دانت پینے میں آواز نکالنا۔
تَصَلَّقَ المَرِيضُ: دور کی وجہ سے مریض کا
مضطرب رہے چین ہونا۔ المَرءَةُ: روزہ میں
چلا ہونا۔
إِصْطَلَقَ البَعِيرُ بِنَابِهِ: اونٹ کا دانت پینا۔
الصَّلَافَةُ: پانی جو ایک جگہ میں دیر تک رہے۔
الصلق: سخت آواز۔
الصلق: ہموار زمین۔ ج أصلاق۔ ج

أصالیق۔
الصلیق: چمنا۔
الصلیقۃ: پتی روٹی۔ چپاتی۔ گوشت کا بنا
ہوا کھانا۔ ج صلیق۔
المصلق والمصلاق: مِنَ الخُطباءِ:
بلغ خطیب۔ ج مصالیق و مصالیق۔
المصالیق: بڑے بڑے پتھر بلکے چمکے
اونٹ۔
صَلَفٌ: مفلس ہونا۔ رأسہ: سر موٹو رہنا۔
صوتہ: آواز تیز کرنا۔
الصلق: خالی۔ کہا جاتا ہے مکان صَلَفٌ
بَلَقْعٌ و صَلَفٌ بَلَقْعٌ خالی مکان۔ بَلَقْعٌ و
بَلَقْعٌ صَلَفٌ و صَلَفٌ بَلَقْعٌ کے لیے تابع
ہیں۔
الصلق: مرد دلدار و توانا۔
صَلَمَ (ن) ض) صَلَمًا و صَلَمٌ: الشیءُ: جڑ
سے کاٹنا۔ صَلَمَةٌ و صَلَمَةٌ: جڑ سے ناک کان
کاٹ لینا۔
إِصْطَلَمَهُ: جڑ سے اکھیرنا۔ کہا جاتا ہے
إِصْطَلَمَهُ الذَّهْرُ یعنی زمانے نے ان کو برباد کر
دیا۔
الصلم والصلمة: مضبوط اور بہادر لوگ۔
واحد صالم۔
الصلمة: خود۔
الصلامة والصلامة والصلامة:
آدمیوں کی جماعت۔ سخاوت میں بہادری میں
اور عمر میں ایک قسم کے لوگ۔ ج صلومات
صلومات صلومات۔
رَجُلٌ أَصْلَمُ الأَدْنِینَ: وہ شخص جس کے
دونوں کان کٹے ہوئے ہوں گویا کہ خلقنا
ایسے ہی ہیں۔ مؤنث صلماء ج صلَم۔
الصلیم: تلوار۔ سخت کام۔ معیبت۔ دن
میں ایک مرتبہ کا کھانا۔ وَقَعَةُ صَلِیمَةٍ: جڑ بنا
دینے والی جگہ۔
صَلَمٌ: مفلس ہونا۔ الراس: موٹو دینا
الشیءُ: اکھیر دینا۔ چمکنا کر دینا۔ کہا جاتا ہے: هُوَ
صَلَمَةٌ قَلَمَةٌ یعنی وہ اور اس کے باپ غیر

معروف ہیں۔
إِصْلَهَبٌ: دراز ہونا۔
الصلهب والمصلهب: لمبا آدمی۔
الصلهب: بڑا مکان۔
الصلهبج: بڑی چٹان۔ قوی اونٹنی۔
إِصْلَهَبٌ: سخت ہونا۔
الصلہام: دلیر۔ شیر۔
صَلَا یَصْلُو صَلَوًا: فلاناً: پیٹھ کے
درمیان مارنا۔
صَلَبَتْ تَصْلُو صَلَا وَاصْلَتْ إِصْلَاءً:
النَّاقَةُ: قرب ولادت کی وجہ سے اونٹنی کے
دُور اور دُوم کے درمیان کا ڈھیلا پڑ جانا۔
صَلَّى صَلَاةً: دُعا کرنا۔ نماز پڑھنا۔ اللہ
عَلَيْهِ: برکت دینا۔ اجمعی تعریف کرنا تَصْلِيَةً
الفرس: گھوڑو ڈوڑ میں دوسرے نمبر پر ہونا۔
مفت مُصَلًی۔
الصلَا: انسان اور چوپایہ کی پیٹھ کا درمیان
حصہ۔ ج صَلَوَاتٍ وَأَصْلَاءُ۔
الصلَاةُ وَالصَّلْوَةُ: دعا۔ نماز۔ تسبیح میں
اللہ: رحمت۔ ج صَلَوَاتٍ۔
المُصَلًی: نماز پڑھنے کی جگہ۔
صَلَّى صَلًیاً: اللحم: گوشت جھوننا۔ مفت
مفعول مُصَلًی: فلاناً النَّارَ و فِیْهَا و عَلَیْهَا:
آگ میں داخل کرنا۔ الرَّجُلُ: فریب دینا
لِلصَّیْدِ: جال لگانا۔
صَلَّى (س) صَلًی و صَلًی و صَلًیاً و
صَلًیاً النَّارَ و بَیْهَا: آگ کی گرمی برداشت
کرنا۔ آگ میں جلنا۔ الأَمْرُ و بِالْأَمْرِ: معاملہ
کی شدت برداشت کرنا۔
صَلَّى العَصَا عَلَی النَّارِ او بالنَّارِ: آگ
دکھلا کر سیدھا کرنا۔ صَلًی و أَصَلًی یَدُهُ:
ہاتھ گرم کرنا۔
أَصْلَاهُ النَّارَ: آگ میں داخل کرنا۔
تَصَلَّى تَصَلًیاً النَّارَ و بالنَّارِ: آگ کی
گرمی برداشت کرنا۔ آگ تپنا۔ عَصَاهُ عَلَی
النَّارِ: آگ دکھلانا۔
إِصْطَلَى إِصْطَلَاءً: بالنَّارِ: آگ تپانا۔ کہا

المراة ولدھا: عورت کا اپنے بچے کو بہلانے

کے لیے کچھ کھانا۔

الصمات: خاموشی۔ پاس کیا سرعت۔ کہا

جاتا ہے۔ زمانہ بضمائہ و سکاتہ یعنی جب

کرادیا کہا جاتا ہے۔ ہو علی صمات الاثر

او بضمات۔ وہ کام کرنے کو مستعد و تیار ہے۔

بات من القوم علی صمات قوم سے

قرب ہوا۔

الضمنة والضمنة: کھانا یا مٹھائی وغیرہ

جس سے بچے کو بہلایا جائے اور چپ کر لیا

جائے۔

الصامت: خاموش۔ گاڑھا دودھ

المنال: چاندی سونا ہال ناطق حیوانات ہیں کہا

جاتا ہے۔ قالہ ناطق ولا صامت یعنی اس

کے پاس کچھ بھی نہیں۔

الضمیت والضموت: بہت خاموش

رہنے والا۔

الضموت: بھاری ذرہ۔ شہد سے بھرا ہوا۔

چھتہ۔ ضربہ صموت: پار ہو جانے والی

ضربہ۔

المصمت کہا جاتا ہے۔

غير مصمت یعنی ایسے شخص سے شکایت کر

رہا ہے جو اس کی پروا نہیں کرتا۔

المصمت: ثھوس۔ باب مصمت: بند

دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ معلوم نہ ہو۔

حائط مصمت: جس دیوار میں فرج نہ ہو۔

فرض مصمت: جس گھوڑے کے رنگ میں

اناء مصمت: اناء مصمت جس پر

کوئی دوسرا رنگ نہ ہو۔

چاندی کی قلعی نہ ہو۔

المصمت: کامل ایک ہزار۔

صمحة (ف ص) صمحا: الحر گرمی کا

دماغ کو پھلانا دینا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

صمحا: کھانا۔

والا۔

صمحا: برونن قظام۔ سخت مصمت کے

لیے علم۔ کہتے ہیں صمی صمام اسے

مصمت زیادہ ہو۔ صمام صمام یعنی امر۔

الصمام: اصمۃ الصمامۃ۔ شیشی کی

ڈاٹ۔

الصمیم: ہڈی جس پر عضو کا مدار ہو۔

کحل شمی: خالص۔

سخت گرمی یا سردی۔ کہا جاتا ہے

صمیم الحر: سخت گرمی میں گیا اور یہ واحد

اور جمع دونوں کیلئے مستعمل ہے۔ تم کہو گے

رجل صمیم و رجال صمیم مؤنث

صمیمۃ۔

کہا جاتا ہے

القوم یعنی قوم کا اصل ہے۔

الاصم: ٹھوس۔ کہا جاتا ہے

صخرة صماء یعنی ٹھوس پتھر۔

اصم: مضبوط نیزہ۔

رجل اصم: جس سے

کسی خیر کی امید نہ ہو اور اپنی خواہشات سے باز

نہ رکھا جاسکے۔

دھر اصم: زمانہ گویا کہ اس

سے شکایت کی جاتی ہے اور وہ سنتا نہیں۔ عرب

رجب کے مہینے کو شھر اصم کہتے تھے اس وجہ

سے کہ اس مہینے میں نہ تو قتل و قمار کی آواز

آتی تھی اور نہ ہتھیاروں کی جھکار سنائی دیتی

تھی اور نہ کوئی فریاد شور مچاتا تھا۔

الصماء: مؤنث اصم۔ ٹھوس زمین۔ سخت

مصمت۔

الضمائہ والضمات: ہر پتھر جی سخت

زمین۔

المصمم: ہر گزرنے والا۔

المصمم: ہڈی میں گھس جانے والی تلوار۔

صما (ف ص) صما علیہم: برآمد ہونا۔

فلانا علی الامر: برا بھلا کرنا۔

ظاہر ہونا۔

صمت (ن) صمتا و صموتا و

صماتا۔

صمتا: خاموش رہنا۔

صمت واصمت: خاموش رہنا۔ صمتہ

واصمتہ: خاموش کرنا۔ واصمت

العلیل: بیمار کی زبان بند ہو جانا۔

فلان لا یصطی بنا رہ یعنی فلاں

جاتا ہے

ایسا ہمارے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

الضلاء: والصلی: آگ یا بڑی آگ۔

الصلیۃ والصلاة: پیشانی۔ خوشبو۔

پتھر۔ ہر بڑا پتھر جس پر پیسا جائے۔ ج

و صلی: ایک جنگلی گھاس۔

الصلیان: ایک جنگلی گھاس۔

واحد۔

المصلاة والمصلی: جال چھکار کیلئے لگا

جائے۔ ج مصال کہا جاتا ہے

فجحا و مصالی کہ شیطان کے لیے بہت

سے بچنے اور جال میں الفارورة: شیشی بند

صم (ن) صمۃ الفارورة: شیشی بند

الصرح: زخم کو باندھنا اور لپ لگانا

عزیمتہ: پکا ارادہ کرنا۔

بجحر: پتھر سے مارنا۔

صم (س) صمما و صمما: بہرا ہونا۔

اصم مؤنث صماء ج صم و

صمان صم صماء: اس کی آواز بہری

ہوگی یعنی ہر گیا ہلاک ہو گیا۔

صمۃ: بہرا کر دینا۔

و فیہ: سرگزرنا اور منع کرنے والی کی بات نہ

سننا۔

السيف: تلوار کا ہڈی میں گھسا اور کاٹ

دینا۔

صمۃ الحدیث: یاد کرنا۔

وانت سے کاٹنا۔

اصم: بہرا ہونا۔ بہرا کرنا۔ بہرا ہونا۔

الفارورة: شیشی بند کرنا۔ اصم دعاؤہ:

ایسی قوم کو پکارنا جو طاقت سے نہ جواب دے۔

اصم اللہ صدای فلان: اللہ اسے ہلاک کر

دے۔

تصام: عن الحدیث: بہرا ہونا۔

الصم: سخت مصمت۔ شیر۔

الضمۃ: بہادر شیر۔ مذکر سائب۔ مادہ سبکی۔

شیشی وغیرہ کی ڈاٹ۔ ج صمم

الصمم: ہر اپنی۔ رجل صمم: پختہ ارادہ

بہرا ہونا۔

بہرا ہونا۔

بہرا ہونا۔

بہرا ہونا۔

بہرا ہونا۔

السیر۔ استقیال سے کام جاری رکھنا۔
 صَمَصَمَتِ الْقَفْذَةَ: سیکی کا آواز کرنا۔
 الصَّمَامُ والصَّمَامَةُ: تلوار جس کی
 دھار نہ مڑے۔
 الصَّمِصِمُ والصَّمَامِصِمُ والصَّمَامِصِمَةُ:
 مِنَ الْخَيْلِ: چلنے میں ثابت قدم گھوڑا۔
 الصَّمِصِمُ: چھوٹا موٹا۔
 الصَّمِصِمُ: بہت زیادہ بخیل۔
 الصَّمِصِمَةُ والصَّمِصِمَةُ: قوم میں اچھا
 آدمی۔ لوگوں کی جماعت۔ ج صَمِصِمُ و
 صَمَامِصِمُ.
 صَمَعَةٌ (ف) صَمَعًا بِالْعَصَا أَوْ
 السِّيفِ: لالھی یا تلوار سے مارنا۔ الطَّبِي:
 زمین کے اندر چل دینا۔
 صَمِعَ (س) صَمَعًا: لاپرواہی سے گزر
 جانا۔ فِي الْكَلَامِ: غلطی کرنا۔ صَمِعْتَ
 أَذُنَهُ: کان کا چھوٹنا ہونا اور سر سے چپٹا ہونا۔
 صَفَا صَمِعُ مَوْتٌ صَمَعَاءُ: ج صَمِعُ.
 صَمِعَ: غلی راہبہ۔ پختہ ارادہ کرنا۔
 انْصَمِعَ: فِي غَضَبِهِ: غضب پر قائم رہنا۔
 الاَصْمِعُ: چھوٹے کان والا۔ مَوْتٌ صَمَعَاءُ
 ج صَمِعُ اور چڑھنے والا۔ تلوار قاطع۔ تیز
 ذہن والا۔ روئیدگی کہ جس کا پھل ابھی غلاف
 سے نہ نکلا ہو۔ عمدہ پر۔ ج صَمَعَانُ.
 اصْمَعَانُ: قلب ذکی و پختہ رائے۔
 الصمیع: ذکی القلب۔ تیز فہم والا۔ بہادر۔
 صَمِعٌ: گوند لگانا۔
 اصْمَعُ: الشَّدْقُ: باجھوں کا زیادہ تھوک والی
 ہونا۔ اصْمَعَتِ الشَّجَرَةُ: درخت کا گوند
 والا ہونا۔
 اسْتَصْمَعُ: الشَّجَرَةُ: گوند نکالنا۔ فلان
 زخم ہونا۔
 الصَّمْعُ والصَّمْعُ: گوند۔ واصْمَعَةٌ و
 صَمَعَةٌ: نَصْمُوغُ.
 الصمغ والصمغة: تھن کے اندر ولادت
 کے بعد کوئی مجدد چیز ہوتی ہے۔
 الصَّمْعَانُ: وہ شخص جس کے کان ٹاک ٹپ

کے پاس رکھا ہوا رہا۔
 الصَّمْدَةُ والصَّمْدَةُ: بلند گڑھی ہوئی چٹان۔
 الصَّمَادُ: شیشی کی ڈاٹ۔
 الصَّمَادُ والصَّبَادَةُ: گڑھی کے علاوہ سر پر
 لینے کا کپڑا۔
 المَصْمَدُ والمَصْمُودُ: قصد کیا ہوا۔ جس
 کا قصد کیا جائے۔
 صَمَدَحُ: اليَوْمُ: دن کا بہت گرم ہونا۔
 الصَّمَادِحُ والصَّمَادِحِي: بہت سخت چیز
 کا خالص۔
 الصَّمَادِحُ: کھلا ہوا راستہ۔ شیر۔
 الصَّمِيدِحُ: بہت سخت گرم دن۔
 صَمْرٌ (ن) صَمْرًا و صَمُورًا: بخیل ہونا۔
 ماء: پانی کا آہستہ آہستہ نشیبی زمین سے ہموار
 زمین کی طرف بہنا۔
 صَمْرٌ (ض) صَمْرًا و صَمِرٌ (س)
 صَمْرًا: اللبَنُ: کھانا ہونا۔
 اصْمَرُ: اللبَنُ: زیادہ کھانا ہونا۔ (و صَمْرٌ)
 الرَّجُلُ: بخل کرنا۔ غروبِ آفتاب کے وقت
 آنا۔ اصْمَرٌ و صَمْرٌ المتاع: جمع کرنا۔
 الصمور: تازہ مشک کی خوشبو (و الصمور)
 بدبو۔
 الصمور: آہستہ آہستہ پانی بننے والے کے جمع
 ہونے کی جگہ۔
 الصمور: برتن وغیرہ کا کنارہ کہا جاتا ہے
 مَلَا الْكَاسَ إِلَى اصْمَارِهَا أَوْ اصْبَارِهَا
 یعنی پیالے کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔
 الصمور: بدبودار۔ کہا جاتا ہے یدنی من
 السَّمَكِ صَمْرَةً یعنی میرا ہاتھ چھٹل کی وجہ
 سے بدبودار ہے۔
 الصامور: بخیل۔ صَامِرُونَ.
 الصمیر: دبا پتلا خشک آدمی جس سے پینہ
 کی بدبو پھیلی۔
 الصمیر: آفتاب کے غروب ہونے کا
 وقت۔
 الصمورة والصامورة: کھلا دودھ۔
 صَمِصِمٌ صَمِصِمَةٌ: فِي الْأَمْرِ أَوْ

وَاللَّهِ
 يَوْمَ صَامِخٍ وَصَمُوخٍ: سخت گرم دن۔
 حَافِرٌ صَمُوخٌ: سخت کھر۔
 الصَّمْحَاءُ والصَّمْحَانَةُ: سخت زمین۔
 صَمْحَهُ (ن) صَمْحًا: کان کے سوراخ پر
 مارنا۔ صَمَحَ أَنْفَهُ: ناک توڑ دینا۔
 الصمخ: خشک چیز جو بکریوں کے تھن کے
 سوراخ میں بچھ جانے کے وقت ہوتی ہے کہ اس
 کے نکل جانے کے بعد دودھ اچھی طرح آنے
 لگتا ہے۔ مار کا نشان جو چہرے پر پڑ جائے۔
 الصمخ: کان کا سوراخ۔ ج صَمِخُ
 وَاصْمِخَةٌ.
 الْأَصْمُوخُ: کان کا سوراخ۔ کہتے ہیں
 ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى صَمَاخِهِ یعنی اللہ اسے
 سلا دے۔
 الصمخ: کمر پانی کا نواں۔ ج صَمِخُ
 اصْمَحَدَ: غصے سے پھول جانا۔
 صَمَدٌ (ن) صَمْدًا و صَمَدًا: فَلَانًا
 وَلَهُ وَاللَّهِ: قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
 صَمَدٌ صَمَدٌ هَذَا الْأَمْرُ یعنی اس امر پر اعتماد
 کیا۔ ہ بالعصاء لالھی سے مارنا۔ صَمَدَتِ
 الشَّمْسُ وَجَهَةٌ: آفتاب کا چہرے کو بھلس
 دینا۔ صَمَدٌ الْقَارُورَةُ: شیشی میں ڈاٹ لگایا۔
 صَمَدٌ الرَّجُلُ رَأْسُهُ: مرد کا اپنے سر پر بند
 پٹیٹا۔
 صَامِدَةٌ صَمَادًا وَمُصَامِدَةٌ: تلوار بازی
 کرنا۔
 اصْمَدُ: إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سہارا دینا۔
 تَصَمَدٌ لَهُ بِالْعَصَاءِ: لالھی سے مارنا۔
 الصَّمْدُ: بلند جگہ۔ ج اصْمَادٌ و صَمَادُ.
 الصَّمْدُ: سردار جس کے بغیر امور پورے نہ
 ہوں۔ ٹھوس۔ ایسا شخص جو لڑائی میں بھوکا پیاسا
 نہ ہو۔ ہمیشہ رہنے والا۔ بلند۔ اور صمد۔ اللہ
 تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے یعنی وہ ذات
 جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ
 ہو۔
 الصَّمْدَةُ: بیسیائیوں کے نزدیک قربان تندس

سے مادہ نکلے جس طرح درخت سے گوند نکلتا ہے۔
الصَّمغَانِ وَالصَّمغَتَانِ وَالصَّمغَانِ

وَالصَّمغَانِ بِالْحَمْلِ۔
أَصْمَقُ. الْبَابُ: دِرْوَاهُ بَدْرُ كَرْتَابِ الْكَبْنِ أَوْ

الْمَاءُ: خَثِيرٌ هَوَانٌ، يَكُونُ جَانِبَ الرَّجُلِ: غَيْبٌ هَوَانٌ۔
الصَّمغَةُ: بِلَا هَوَانٍ دَرَاهِمٌ۔

صَمَقٌ وَأَصْمَقُ. الْكَبْنُ: بَهْتٌ كُفَا هَوَانٌ۔
إِصْمَقَتْ الشَّمْسُ: بَهْتٌ غَرْمٌ هَوَانٌ۔

إِصْمَاكَ الرَّجُلُ: غَضَبَانٌ هَوَانٌ۔ الْهَنْ: جَمٌّ كَرِيحٌ جِيسَا هَوَانٌ۔

الْأَرْضُ: بَارِشٌ تَرٌّ هَوَانٌ۔ الْجَرْحُ: زَخْمٌ كَا هَوَانٌ۔
الصَّمْكَوْكُ وَالصَّمْكِيكُ: شَرٌّ فَسَادِي

طَرَفٌ سَبَقَتْ كَرْنَةً وَالْجَالُ: سَخْتٌ مَضْبُوطٌ۔
بَهْتٌ سَخْتٌ دَلٌّ۔ لَيْسَ دَارِجٌ تَرٌّ۔

صَمَلٌ (ن) صَمَلًا وَصَمُولًا. الشَّيْءُ: سَخْتٌ هَوَانٌ۔ شَكٌّ هَوَانٌ۔ الرَّجُلُ عَنِ الطَّعَامِ:

رُكَّ جَانِبًا صَمَلَةً بِالْعَصَا: لَامِحِي سَ مَارَانٌ۔
أَصَمَلَهُ الصِّيَامُ: رَوَّضَهُ كَا هَوَانٌ۔

إِصْمَالَ: سَخْتٌ هَوَانٌ۔ النَّبَاتُ: نَبَاتَاتٌ كَا هَوَانٌ۔
الصَّمَلُ: مَرْدُ قَوِي دَشٌّ۔

الصَّمَالُ وَالصَّمِيلُ: شَكٌّ۔
الْمُصْمَلُ: عُصَّةٌ كِي وَجَدٌ سَ هَمْلَةً وَاللَّ:

الْمُصْمَلَةُ: مَصِيْبَةٌ۔
صَمِيٌّ سَمِيٌّ صَمِيَانًا. الرَّجُلُ: پَلْتَانٌ۔

كُوْدَانٌ جَلْدِي كَرْنَانٌ۔
صَمِيٌّ سَمِيٌّ صَمِيَانًا. الرَّجُلُ: پَلْتَانٌ۔

صَمِيٌّ سَمِيٌّ صَمِيَانًا. الرَّجُلُ: پَلْتَانٌ۔
آرْطَانٌ كَمَا جَانِبًا سَ مَارَانٌ۔

صَمِيٌّ سَمِيٌّ صَمِيَانًا. الرَّجُلُ: پَلْتَانٌ۔
چیز نے تم کو اس پر برا بھلا کہتا ہے۔ صَمِيٌّ: شَاكِرٌ كَا

سَانَةٌ مَرَانٌ۔
صَمِيٌّ صَمِيٌّ الرَّجُلُ: جَلْدِي كَرْنَانٌ۔

الصَّمِي: تَمِيْرٌ مَارَانٌ أَوْ شَاكِرٌ كَا سَانَةٌ سَمِيٌّ مَرَانٌ۔
هَوَانٌ۔ الْفَرَسُ عَلِيٌّ لِحَامِيَهُ: رَهْمٌ كَا كَا ثَارٌ أَوْ

چِلَابٌ۔ أَصْمِيٌّ مَنِيْبَةٌ: مَوْتٌ كَا مَرَةٌ مَرَانٌ۔
أَنْصَمِيٌّ أَنْصَمَاءٌ عَلَيْهِ: مَرِيْبٌ۔ الطَّائِرُ:

ثَوْتٌ يَزْنَانُ۔
الصَّمِيَانُ: بَهَادِرٌ جَسٌ كَا مَحْمَلَةٌ خَالِيَةٌ نَهَ جَانِبًا۔

أَصْنٌ: مَكْنَدَةٌ بَغْلٌ هَوَانٌ۔ غَرُورٌ سَ نَاكٌ
پھیلانا۔ الْمَاءُ: فَاسِدٌ هَوَانٌ۔ اَللَّهُمَّ: يَدْرُوْدَارٌ

هَوَانٌ عَلِيٌّ الْأَمْرُ: اَصْرَارٌ كَرْنَانٌ۔ الرَّجُلُ: خَا مَوْشٌ

هَوَانٌ۔ غَيْظٌ وَغَضَبٌ سَ مَرَجَانٌ۔
الصَّمِنُ: ثَوْرِيٌّ۔ رَوْتِيٌّ رَكْحَةٌ كِي دُحْكَنَةٌ دَارٌ

ثَوْرِيٌّ زَنْبِيلٌ۔ جِ صِنَانٌ۔
الصَّمِنُ: أَوْنَتٌ كَا پِشَابٌ۔ دِرْنَانِيٌّ اَلِكٌ جَانُوْرٌ كَا

پِشَابٌ۔ جَاوَزَةٌ سَخْتٌ سَاتٌ دَنُوْنٌ مِثْلٌ
سَ مَرَادَانٌ۔

الصَّنَانُ: مَكْنَدَةٌ بَغْلِيٌّ۔ بَدْوِيٌّ اَصْنَةً۔
الصَّنَةُ: مَكْنَدَةٌ بَغْلِيٌّ۔ بَدْوِيٌّ۔

الصَّنَانُ: بَهَادِرٌ۔
الْأَصْنُ: غَفْلَةٌ بَرْتَنَةٌ وَاللَّ:

الصَّنَابُ وَالصَّنَابِيَةُ: لَبِيٌّ يَبِيْهُ أَوْ پِثٌّ وَاللَّ۔
چٹنی جو رانی اور زیتون کے تیل سے بنائی جاتی

ہے۔
الصَّنَابِيَةُ: سَفِيْدِيٌّ كَسَا تَهٌ زَرْدِيٌّ اَمِيْرٌ

سَرِيْحٌ رَيْبٌ وَاللَّ۔
صَنْبَرٌ صَنْبِرَةٌ: النَّخْلَةُ: دَرَخْتُ خَرْمَا كَا

کَمِ پھل اور پتلے تے والا ہوا۔
الصَنْبِرُ: ہَرَجَةٌ كَا پَارِيْكٌ وَكُرُوْرٌ۔

الصَنْبُوْرُ وَالصَنْبُوْرَةُ: دَرَخْتُ خَرْمَا جَسٌ كَا
پھل کم اور تنہ پتلا ہوا۔ دَرَخْتُ خَرْمَا جُوْدُوْرٌ سَرِيْحٌ

دَرَخْتُ خَرْمَا كِي جَزٌ سَ بَغِيْرٌ بُوْرٌ هَوَانٌ نَكْلَةٌ۔
الصَنْبُوْرُ وَهُوَ مَخْضٌ جُوْ كُرُوْرٌ بَغِيْرٌ وَالِيٌّ وَارِثٌ كَسَا

ہوا۔ كَمِيْنَةٌ۔ جَمُوْنَا بَجَجٌ۔ مَصِيْبَةٌ۔ مَخْضِيٌّ هَوَانٌ۔
گرم ہوا۔ حَوْضٌ كِي نَالِيٌّ جَسٌ سَ پَانِيٌّ نَكْلَةٌ۔ جِ

صَنْبِيْرٌ۔
الصَنْبِرُ: مَخْضِيٌّ هَوَانٌ۔ گرم ہوا۔ جَاوَزَةٌ سَخْتٌ

سَخْتٌ سَاتٌ دَنُوْنٌ مِثْلٌ سَ دُوْ مِرَادَانٌ۔ جِ
صَنْبِيْرٌ كَمَا جَانِبًا سَ لَيْلَةٌ صَنْبِيْرٌ وَصَنْبِيْرٌ:

بَهْتٌ مَخْضِيٌّ يَا گرم رات۔
صَنْبِيْرٌ: الشَّمَاءُ: جَاوَزَةٌ كِي شَدْتٌ۔

الصَنْبُوْرُ: اَلِكٌ دَرَخْتُ سَ جَسٌ كَسَا پَتِيٌّ

ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور اس کے پتے بلندی پر
ہوتے ہیں۔

الصَنْبُوْرِيٌّ: جُوْ صَنْبُوْرٌ كَسَا پھل کی شکل کَا
گول لپٹا مخروطی ہوا۔

الصَنْبُوْرِيَاتُ: لَبِيٌّ اَو سَبْزٌ دَرَخْتُوْنٌ كِي
قسمیں: جِسْمٌ صَنْبُوْرٌ سَرُوْرٌ عَرُوْرٌ غَيْرُهُ۔

الصَّبُوْحَةُ: اَلِكٌ زَرْعِيٌّ دَانَةٌ جُوْ كَسَا ہِنْدُ جَاپَانٌ اَو
چین میں بویا جاتا ہے۔ کلابی یا سفید پھولوں والا

اس کے آسے نپہ آور وڑی بنائی جاتی ہے۔
صَنْعٌ الْبَحِيْلُ: سَوَالٌ كَسَا وَقْتُ مَنْبِقِضٌ

ہوانا۔
أَصْنَتُ الشَّيْءِ: مَضْبُوطٌ كَرْنَانٌ۔

الصَّنُوْتُ: شَيْشِيٌّ كَا غَلَاْفٌ۔ كَجُوْرٌ كَسَا پتوں
کی بنی ہوئی زنبیل۔ جِ صَنْبَانِيَةُ

صَنْجَةٌ (ن) صَنْجُوْرٌ بِالْعَصَا: لَامِحِي
سَ مَارَانٌ۔ صَنْجُ النَّاسِ: ہر اَلِكٌ كُوْ اس کی

اصل کی طرف لوٹانا۔
صَنْجٌ تَصْنِيْجًا: بَدْوِيٌّ پَجَاوَزِيْنٌ۔ عَوَامٌ كَسَا

پس صَخَّخْتُ رَقِيْبَتَهُ عِنِّيْ گِرْدَانٌ كَسَا
اعصاب اڑنے اور صَخَّخْتُ شَخْبَتَهُ

الصَّنْحُ: جَانِحٌ۔ مَجِيْرٌ۔ جَنَكٌ۔ جِ صَنْوُجٌ
صَنْجُ الْحِنِّ: جِنٌّ كِي آوَارٌ۔ كَمَا جَانِبًا سَ مَا

أَدْرِيٌّ اَلِكٌ صَنْجٌ هُوَ مِثْلٌ نَیْسٌ جَانِبًا كَسَا
کون آدی ہے۔

الصَّنَاجُ وَالصَّنَاجَةُ: جَمَانِحٌ وَاللَّ۔
صَنَاحَةُ الْعَرَبِ: اَعْمِيٌّ قَمِيْسٌ شَاعِرٌ جَابِلِيَّتٌ كَا

لَقَبٌ صَنَاحَةُ الْجَيْشِ: طَبَلٌ۔
الصَّنِيْدِيْدُ: مِثْلٌ الرِّيْحِ أَوْ الْبَرْدِ: حِيْرٌ مِثْلٌ

الغَيْثِ: بَرِيٌّ بُوْنَدٌ كِي پَارِشٌ (وَالصَّنِيْدُ)
سردار۔ بَهَادِرٌ جِ صَنْبَانِيْدُ: الصَّنَانِيْدُ:

مَصِيْبَتِيْنِ: لَفْظٌ كَرْمِيٌّ جَمَاعَتٌ۔ كَمَا جَانِبًا سَ بُوْمٌ
حَامِيٌّ الصَّنِيْدِيْدُ أَوْ الصَّنَانِيْدُ: لَعْنٌ سَخْتٌ

گرم دن۔
الصَّنْدُوْقُ: كَسَا۔ جِ صَنْبَانِيْقٌ:

الصَّنْدَلُ: اَلِكٌ خُوْشْبُوْرٌ لَكْزِيٌّ كَا نَامٌ۔
الصَّنْدَالُ: بُوْرٌ سَرُوْرٌ وَاللَّ:

الصَّنْدَلَانِيٌّ: عَطَارٌ۔ صَيْدَلَانِيٌّ مِثْلٌ اَلِكٌ

لغت ہے۔ ج صنَادَةٌ۔ الصَّنَارُ والصَّنَارُ، چنار کا درخت۔ واحد صِنَارَةٌ أو صِنَارَةٌ۔ الصَّنَارَةُ، نکلے کے سرے پر منڈھا ہوا وہا۔ صِنَارَةُ الصَّيَادِ، مچھلی وغیرہ کے شکار کرنے کا کلاں۔ بنی۔ ج صِنَابِيرٌ، کہا جاتا ہے رَجُلٌ صِنَارَةٌ و صِنَارَةٌ یعنی بدخلق مرد۔ ج صِنَابِيرٌ۔ الصَّنُورُ، بخیل۔ بدخلق۔ صَنَعَ (ف) صَنَعًا و صَنَعًا، الشَّيْءَ، بنانا إِلَيْهِ مَعْرُوفًا، احسان کرنا۔ بہ صَنِيعًا قَبِيحًا، بُرَائِيٌّ کرنا۔ (صَنَعًا و صَنَعَةً) الْفَرَسُ، اچھی تربیت کرنا۔ صَنَعَ الشَّيْءَ، مزین کرنا۔ کاریگری سے خوبصورت بنانا۔ أَصْنَعُ الرَّجُلَ، سیکنا۔ مضبوطی سے کام کرنا۔ دوسرے کو بددینا۔ صَانِعُهُ مَصَانِعَةً، نرمی کرنا۔ مدارات کرنا۔ رَشْوَتٌ دینا۔ مثل مشہور ہے مَنْ صَانَعُ بِالْمَالِ لَمْ يَحْتَشِمِ مِنْ طَلَبِ الْحَاجَةِ جو شخص رشوت میں مال خرچ کرے وہ حاجت کے طلب کرنے سے منقبض نہیں ہو سکتا عَنِ الشَّيْءِ، فریب دینا۔ الرَّجُلُ، رفیق بننا۔ تَصْنَعُ، تَزْمِينٌ کا تکلیف کرنا۔ بناوٹ کرنا۔ أَصْطَنَعُ شَيْئًا، تیار کرنے کا حکم دینا۔ عِنْدَهُ صَنِيعَةً، احسان کرنا۔ ادب سکھانا۔ لِنَفْسِهِ، اپنے لیے اختیار کرنا۔ فُلَانٌ خَيْرَاتِيٌّ كَمَا تَيَارَ کرنا۔ الرَّزْقُ، پیش کرنا۔ أَسْتَصْنَعُهُ الشَّيْءَ، کسی چیز کو بنانے کے لیے کہنا۔ الصَّنْعُ، س۔ ایک چھوٹا سا جانور۔ رَجُلٌ صَنَعَ الْيَدَيْنِ، کاریگری میں ماہر۔ ج رَجَالٌ صُنُوعٌ۔ الصَّنْعُ، س۔ عمل۔ احسان۔ رزق۔ الصَّنْعُ، بنا ہوا۔ کپڑا۔ عمامت۔ حوش۔ قلعہ۔ گوشت بھوننے کی جگہ۔ درزی۔ ج أَصْنَاعُ رَجُلٌ صَنَعَ الْيَدَيْنِ، کاریگری میں ماہر۔ ج	رَجَالٌ صُنُوعٌ۔ الصَّنْعَةُ، پیشہ۔ کاریگری۔ صَنَعَةٌ الْفَرَسُ، گھوڑے کے سدھانے کا فن۔ الصَّنَاعُ، کلوی جو پائی کو کچھ دیر روکنے کے لئے نالی میں لگادی جائے۔ رَجُلٌ صَنَاعُ الْيَدَيْنِ و صَنَعَ الْيَدَيْنِ، کاریگری میں ماہر اور ایسا ہی امْرَأَةٌ صَنَاعُ الْيَدَيْنِ و امْرَأَاتُنَّ صَنَاعَانُ و نِسْوَةٌ صُنْعٌ، اور شاعر و بلخ کے لیے کہا جاتا ہے۔ هُوَ صَنَعَ اللِّسَانِ وَلَهُ لِسَانٌ صَنَعٌ، الصَّنَاعَةُ و الصَّنَاعَةُ، پیشہ۔ وہ علم جو مزاولت عمل سے حاصل ہے جیسے درزی کا کام جو لاءہ کاری وغیرہ۔ وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہو جیسے منطق۔ اور کہا گیا ہے کہ صَنَاعَةُ الْبَالِغِ كَالِاسْتِهْلَالِ مُحْسِنَاتٍ مِثْلُ هُوَ تَابِعٌ و صَنَاعَةُ الْبَالِغِ كَالِاسْتِهْلَالِ كَمَا عَالِيٌّ مِثْلُ ج صَنَاعَاتٌ و صَنَائِعٌ، الصَّنَاعِيُّ، مصنوعی۔ طبعی کا مقابل۔ الصَّنِيعُ، س۔ بنایا ہوا۔ صِغْلٌ شَدِيدٌ تَلَوَّرَ، تیر۔ صاف ستھرا کپڑا۔ سدھا ہوا گھوڑا۔ کھانا۔ احسان۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ صَنِيعٌ، یعنی فلاں میرا تربیت یافتہ ہے۔ سَيْفٌ صَنِيعٌ، جس کی جلاہ کی دیکھ بھال کی جائے۔ رَجُلٌ صَنِيعٌ الْيَدَيْنِ، کاریگری میں ماہر۔ مَوْنٌ صَنِيعَةٌ الْيَدَيْنِ قَوْمٌ صَنِيعٌ الْاَيْدِي و صَنِيعٌ الْاَيْدِي و صَنِيعِي الْاَيْدِي و صَنِيعِي الْاَيْدِي و اصْنَاعُ الْاَيْدِي، کاریگری میں ماہرین۔ الصَّنِيعَةُ، احسان۔ ج صَنَائِعٌ، کہا جاتا ہے هُوَ صَنِيعَتِي مِثْلُ رَبِيتِ يَانْتَهِي۔ الصَّنَاعِ، فَا، کاریگری۔ ج صُنَاعٌ، کہا جاتا ہے امْرَأَةٌ صَانِعَةٌ الْيَدَيْنِ، یعنی کاریگری میں ماہر عورت۔ صَنَاعَاءُ، موجودہ بین کلاواں حکومت۔ نسبت کرنے میں صناعانی اور صناعانی کہا جاتا ہے۔ الصَّنَاعَةُ، کلوی جو پائی کو روکنے کیلئے نالی میں
---	--

صِم (س) صَمًا. العَبْدُ: قوی ہوتا۔
 مَفْت صَمِمٌ مَوْثٌ صَمِيمَةٌ جِ صَمِيمَاتُ
 الرِّيحِ: خراب ہونا۔
 صَمَمٌ: آواز دینا۔ چلانا۔ تصویر بنانا۔
 الصَّمَمُ: بُت۔ جِ اصْنَامٌ۔
 الصَّمَمَةُ: جانور کے پر کا قلم۔ مصیبت۔
 اصْصَى اصْنَاءً اَوْ تَصْنَى وَ تَصْنِيًا حِرْصٌ
 کی وجہ سے چولے کے پاس بیٹھ کر کباب بنانا اور
 گوشت بھونا یہاں تک کہ راکھ وغیرہ لگ
 جائے۔ اصْصَى النَّخْلُ: درخت خرما کی ایک
 جڑ سے دوسرے درخت کا ہونا۔
 الصَّنَاءُ وَالصَّنِي: راکھ۔
 الصَّنُو: دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی۔ جس
 میں تھوڑا پانی ہے۔ جِ صُنُوٌ۔
 الصَّنُو وَالصَّنُو: حقیقی بھائی۔ بیٹا۔ بچا۔
 مَوْثٌ صَنُوَةٌ وَصَنُوَةٌ جِ اصْنَاءٌ وَ
 صَنَوَانٌ: ایک جڑ سے دو یا دو سے زیادہ درخت
 خرما نکلیں تو ہر ایک کو ان میں سے صُنُوٌ یا
 صُنُوٌ کہا جاتا ہے۔ تشبیہ صَنَوَانٌ وَ
 صَنِانٌ مثلث صاد کے ساتھ اور جمع
 صَنَوَانٌ کہا جاتا ہے رَكِيْتَانٌ صَنَوَانٌ یعنی
 پاس والے کنوئیں یا جو ایک ہی چشمے سے جاری
 ہوں۔
 الصَّلُوَةُ وَالصَّلُوَةُ: پودہ۔ درخت کا قلم۔
 الصَّانِي: ہمیشہ خدمت کرنے والا۔
 الصَّنَانِيَةُ: کل۔ کہا جاتا ہے اَخَذَ بِصَّنَانِيَتِهِ
 یعنی کل لے لیا۔
 صَه: اسم فعل ہے بمعنی خاموش رہ اور یہی لفظ
 مَوْثٌ و مذکر کے لیے اور جمع میں بھی استعمال
 ہوتا ہے اور صِه تئوں کے ساتھ بولا جاتا ہے
 جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت میں
 خاموش رہو۔
 صَهَ الْقَوْمُ: ڈانٹنا۔
 صَهَبَ (س) صَهَبًا وَ صَهْبَةً وَ صُهُوبَةً
 وَ اصْهَبَ وَ اصْهَابًا: الشُّعْرُ: بالوں کا
 سرخ ہونا یا سرخ سفید ہونا۔ صَفْتٌ اصْهَبٌ
 الصَّهَابُ: ایک مقام کا نام ہے جس کی

طرف اونٹ منسوب ہوتے تھے۔
 الصَّهَابِيُّ: مِنَ الْجَمَالِ: جو موضوع
 صہاب کی طرف منسوب ہوں۔ جو بہت زیادہ
 سفید نہ ہو زیادہ جو کم نہ ہو۔ سخت اور اسی معنی
 میں ہے الْمَوْتُ الصَّهَابِيُّ یعنی سخت قسم کی
 موت۔
 الصَّيْهَبُ: سخت گرمی۔ گرم دن۔ لمبا آدمی۔
 سخت پتھر۔ ہموار زمین۔ دھوپ کی وجہ سے
 ایسی گرم زمین کہ جس پر گوشت بھن جائے۔
 جِ صَيَاهِبٌ۔
 الاَصْهَبُ: سفیدی سرخی مائل۔ ٹھنڈا دن۔
 شير۔ اصْهَبُ السَّيَالُ: دشمن۔ مَوْثٌ
 صَهْبَاءٌ جِ صَهْبٌ۔
 الصَّهْبَاءُ: شراب۔
 الْمُصْهَبُ: گوشت چربی ملا ہوا۔ گوشت کم
 بھنا ہوا۔
 الصَّهْبَانِيَةُ: نڈی۔ اونٹنیاں جو صہاب نامی
 اونٹ کی جانب منسوب ہیں۔
 صَهْدَتُهُ (ف) صَهْدًا: الشَّمْسُ: آفتاب
 کا چلنا۔
 الصَّهْدَانُ: گرمی کی شدت۔
 الصَّيْهَدُ وَالصَّيْهُودُ: گرمی کی شدت۔
 بیابان بے آب د گیا۔ متحرک سراب۔ عَزَّ
 صَيْهُودٌ: عزت بلند۔
 الصَّهُودُ: تن و توش والا۔
 صَهْر (ف) صَهْرًا: الشَّيْ: بچھلانا۔
 صَهْرَتُهُ الشَّمْسِي: آفتاب کا گرم کر دینا۔
 صَهْرُ الشَّيْ: پھل ہونی چربی ملنا۔ الخَبْرُ:
 پھل ہونی چربی کو ساکن بنانا۔ صَفْتٌ مَعْعُولِي
 صَهْرٍ وَ مَصْهُورٌ فَلَانًا بِالْيَمِينِ: سخت
 سخت قسم کھلانا۔ الشَّيْ: قریب کرنا۔
 صَاهِرٌ مَصَاهِرَةٌ: الْقَوْمُ وَ فِي الْقَوْمِ
 اصْهَرُ: بِهِمْ وَ اليَهُمْ وَ فِيهِمْ: داماد بننا۔
 سر بننا۔ اصْهَرُ الْجَيْشُ لِلْجَيْشِ: بعض
 لشکر کا بعض سے قریب ہونا۔ صَهْرَةٌ: قریب
 کرنا۔
 انْصَهَرَ الشَّيْ: بچھلانا۔

اصْطَهَرَ الشَّيْ: بچھلانا (واضْهَارٌ)
 الْحِرْبَانُ: گرگ کی پیٹھ کا سورج کی گرمی سے
 چمکانا۔
 الصَّهْرُ: گرم۔
 الصَّهْرُ: قرابت۔ قبر۔ داماد یا بہنوئی۔ جِ
 اصْهَارٌ مَوْثٌ صَهْرَةٌ۔
 الصَّهَارَةُ: جو بچھلایا جائے۔ چربی کا ٹکڑا۔ بڑی
 کا گودا۔
 الصَّهْوَرُ: بچھلانے والا۔ گوشت بھوننے
 والا۔ جِ صَهْرٌ۔
 الصَّهْرِيُّ: بچھلنے والا۔
 صَهْرَجُ: الْفَرْقَةُ: چونہ مٹی ملا کر لپٹا۔
 الصَّهْرِيْجُ وَالصَّهَارِجُ: پانی کا حوض۔ جِ
 صَهَارِيْجٌ وَ صَهْرِيْجٌ بھی ایک لغت ہے۔
 حَوْضٌ صَهَارِجٌ: حوض چونہ مٹی سے لپٹا
 ہوا۔
 الصَّهْصَلِيُّ وَالصَّهْصَلِيُّ: مِنَ
 الاَصْوَابِ: تیز آواز۔
 صَهْصَهٌ بِالْقَوْمِ: صد صد کہہ کے لوگوں کو
 خاموش کرنا۔
 صَهْلٌ (ف ض) صَهْلًا وَ صَاهِلَةٌ وَ
 صَهَالًا: الْفَرَسُ: بہنانا۔
 تَصَاهَلْتُ: الْخَيْلُ: ایک دوسرے کی
 طرف بہنانا۔
 الصَّهْلُ: آواز کی تیزی مع گا پڑنے کے۔
 الصَّاهِلُ: فَ: گھوڑا جسے نابح کہتے کیلئے۔ جِ
 صَوَاهِلُ الصَّوَاهِلِ: کھاس وغیرہ میں
 کھٹیوں کی جھنجھٹا بہت۔
 الصَّهَالُ وَالصَّهِيلُ: گھوڑے کی آواز۔
 الصَّهَالُ: بہت بہنانا والا۔
 صَهًا يَصْهِي صَهْوًا وَ صَهِي يَصْهِي
 صَهِي زَحْمٌ كَمَا بَرَا يَوْمًا زَحْمٌ كَارِسًا: صَهَا
 الرَّجُلُ: مالدار ہونا۔
 صَهِي يَصْهِي صَهِيًا: عُمر رسیدہ ہونا۔
 صَاهِي: الدَّابَّةُ: جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا۔
 اصْهِي اصْهَاءً: الْفَرَسُ: گھوڑے کی پیٹھ کا
 درد مند ہونا۔

الصَّهْوَةُ: گھوڑے کی پیٹھ۔ کہا جاتا ہے 'اِسْتَوَى عَلَى صَهْوَةِ الْعَزْزِ' یعنی اسے عزت حاصل ہوئی۔ کوہان کا پھیلا حصہ۔ ج صہاء و صَهَوَاتٍ پہاڑ کی چوٹی کا برج۔ ج صُھِيّہ زمین کا پست حصہ جس میں پانی جمع ہو۔ پانی کا شمع۔ ج صہاء

صَابٌ يَصُوبُ صَوْبًا وَ مَصَابًا. المَطَرُ بَارِشٌ هَوْنَا. الشَّيْءُ أَوْرَءُ مِنْ أَرْنَا (صَوْبًا) الْمَاءُ: ہمانا السَّمَاءُ الْأَرْضُ: بَرَسَانَةُ الْمَطَرُ: بَارِشٌ كَمَا يَهْتَجُّ صَوْبًا وَ صَيُّوْبَةُ السَّهْمِ نَحْوُ الرَّمِيَةِ: تِيرٌ كَمَا تُهَيِّكُ نَشَانٌ پَرَلْگَنَّا.

صَابٌ يَصِيْبُ صَيْبًا. السَّهْمُ الْقِرْقَرَسُ: تِيرٌ كَمَا نَشَانُ پَرَلْگَنَّا. صَوْبٌ لَهُ رَايَةٌ: تَصَدِّقٌ كَرَامَةٌ. فَلَانًا كَسَى كِي تَصَدِّقٌ كَرَامًا. السَّهْمُ سِيْدَاهُ كَرَامَةُ الْقِرْسِ: گھوڑے کو دوڑنے کے لیے چھوڑنا۔ اِنَاءًا: جھکا دینا۔ الْمَاءُ: گِرَادِيْنَا رَأْسَهُ: پست کرنا۔ الْمَكَانُ وَغَيْرُهُ وَهُلْوَانٌ هَوْنَا.

أَصَابَ السَّهْمُ: تِيرٌ كَمَا نَشَانُ پَرَلْگَنَّا الرَّجُلُ. دَرَسْتُ كَرَامًا. الشَّيْءُ: صَوَابٌ تَجَمَّهْنَا مِنْ الشَّيْءِ لَيْسَا الشَّيْءُ يَأْتِي: جُزْءٌ مِنْ كَيْفِيَّتِنَا: پست کرنا۔ (إِصَابَةٌ وَ مُصَابَةٌ) الدَّهْرُ الْقَوْمُ بِأَمْوَالِهِمْ أَوْ نَفْسِهِمْ: تَكْلِيفٌ دِيْنَا. أَصَابَتِ الْمُصِيبَةُ فَلَانًا: نَاثِلٌ هَوْنَا. أَصَابَهُ بَعِيْنُهُ: نَظَرٌ بَدَلْگَنَّا.

تَصَوَّبٌ: نَجَّى أَرْنَا. انْصَابٌ انْصِيَابًا. الْمَاءُ يَأْتِي كَمَا يَهْنَا.

اِسْتَصَابَ اِسْتِصَابَةً أَوْ اِسْتَصَوَّبَ اِسْتِصَوَابًا. الرَّأْيُ أَوْ الْفِعْلُ: صَوَابٌ تَجَمَّهْنَا.

الصَّابُ: اِيْكَ كَرُوْدَرِخْتِ هِيَ صَابِيَةٌ اَحَدٌ اَوْرُ صَابِيَةٌ سَرِخْتِ كِي عَصَاوَهُ كُو بِي كِي كِي تِي.

الصَّوْبُ: جَانِبٌ. كَمَا جَاتَا هِيَ فَلَانٌ مُسْتَقِيْمٌ الصَّوْبُ: جَبٌ كِي اِسْنِي اِرَادَهُ سِي دَاكِي بَايْسُ جَانِبٌ مَأَلٌ نِي هُو. صَوْبٌ مَطَرٌ

سے تطہیر دے کر عطا کے معنی بھی آتے ہیں۔ ضدِ خطا (الصَّيْبُ) بارش والا بادل۔

الصَّابَةُ: مَصِيْبَةٌ. عَقْلٌ كِي كَزُوْرِي: كَمَا جَاتَا هِيَ، فِي عَقْلِهِ صَابَةٌ يَعْْنِي تَهْوُرًا سَا جَنُوْنٌ هِي۔
الصَّوْبَةُ: غَلَّةٌ كَاذُوْبِي۔
الصَّوَابُ: تُهَيِّكُ۔ لَاقٌ۔ حَن۔
الصَّائِبُ: تُهَيِّكُ كَرْنِي وَاللَّجُ صِيَابٌ.
الصَّوْبُ وَالْمُصِيبُ: دَرَسْتُ كَارُ۔
صَوْبٌ تُهَيِّكُ كَرْنِي وَاللَّجُ: بَارِشٌ۔
مَطَرٌ صَوْبٌ: بِنِيءِ وَالِي بَارِشٌ۔
صَوَابَةُ الْقَوْمِ وَ صَيَابُهُمْ وَ صِيَابَتُهُمْ: قَوْمٌ كِي تَجَمَّهْنَا لُوْكَ۔

الأَصُوْبُ: نَحْتٌ مَصِيْبَةٌ وَاللَّجُ۔
المُصِيبَةُ: بِلَا۔ اِمْرًا مَكْرُوْدَةً جَ مَصَائِبُ وَ مَصَاوِبُ وَ مُصِيبَاتٌ.
المُصَابُ وَ الْمُصَابَةُ وَ الْمُصَوْبَةُ: بِلَا۔ اِمْرًا مَكْرُوْدَةً۔

المُصَابُ: جَسٌ مِي سِي كِي جَنُوْنٌ هُو۔
المُصَوَّبُ: جَجِيءٌ ذُوْنِي۔
الصَّوْبُجُ وَ الصَّوْبِيْعُ: بِلِيْنٌ۔
صَاتٌ يَصُوْتُ وَ يَصَاتُ صَوْتًا: اَوَاوُ رِيْنَا: يَكْرَامُنَا۔

صَوْتُ تَصَوِّيْنَا وَ أَصَاتٌ إِصَاتَةٌ: اَوَاوُ رِيْنَا: أَصَاتٌ بِفُلَانٍ: كَسَى كِي كِي مُتَعَلِقٌ غَيْرُ بَسِيْدِيْدَةٍ جِيْزٌ كُو مَشْهُوْرٌ كَرَامًا. أَصَاتُ الطَّنْطِ وَ صَوْتُهُ طَشْتٌ جَبَانًا۔

انْصَاتُ الرَّجُلُ: يَجِيءُ سِي جَانَا۔ جَهَاؤُ كِي اِبْدَقْدَا كِي سِيْدَاهَا هُوْنَا۔ كَمَا جَاتَا هِيَ، انْصَاتٌ بِهِ الرِّمَانِ يَعْْنِي مَشْهُوْرٌ هُوَ كِيَا۔ وَ دُعِيَ فَاَنْصَاتُ بِلَايَا كِيَا سِي مَتُوْجِدٌ هُوَا۔

الصَّوْتُ: اَوَاوُ۔ ہر قسم کا راگ۔ ج اَصْوَاتٌ: نَحْوِيُوْبُ كِي زُرْدِيْكَ اِسْمَاءُ اِصْوَاتٍ وَ هِي كِي جِن سِي كَسَى اَوَاوُ كِي كَايْتِ كِي جَانِي جِيءِي تَجَمَّهْنَا پَرَقَمَرُ كِي اَوَاوُ كِي لِيءِي طَقُ۔ اَوْرِ يَا جِن سِي جَانُوْرٌ غَيْرُهُ كُو اَوَاوُ دِي جَانِي يَا

ڈانٹا جائے جیسے گھوڑے کے لیے ہلا اور چڑھنے کے لیے غدس۔ اور یا تعجب کے لیے جیسے ذی یا ظہار و رد کے لیے جیسے اُح یا ظہار حسرت و انوس کیلئے جیسے آہ۔

الصَّوْتُ وَ الصَّاتُ وَ الصَّيْتُ وَ الصَّيْتَةُ: اِحْتَجِي شَهْرَتٌ۔ كَمَا جَاتَا هِيَ، اِنْتَشَرَ صَوْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ اِسْ كِي شَهْرَتٌ لُوْگوں مِي بَجِيْلٌ كِي۔
الصَّيْتَةُ: نُوْعٌ اَوَاوُ۔

الصَّاتُ وَ الصَّيْتُ: بِلَنْدِ اَوَاوُ وَاللَّجُ: كَمَا جَاتَا هِيَ۔ رَجُلٌ صَاتٌ وَ صَوْتُ صَيْتٌ الْمِصْوَاتُ: بِيءَتْ اَوَاوُ دِيءِي وَاللَّجُ: كَمَا جَاتَا هِيَ، مَا بِالْدَارِ مِصْوَاتٌ يَعْْنِي گَهْرِي مِي كُوْنِي نِيْسِي۔

الصَّوْجَانُ: خَشْكٌ نَحْتٌ۔ مُؤْنِثٌ صَوْجَانَةٌ. نَخْلَةٌ صَوْجَانَةٌ: خَشْكٌ دَرِخْتِ خَرْمَا جَسٌ كِي پِيءِي جِي خَشْكٌ هُوْنَا۔ كَمَا جَاتَا هِيَ، اِي صَوْجَانٌ هُوَ يَعْْنِي كُوْنٌ اَدِي وَ هِي۔
صَاْحَةٌ يَصُوْحُهُ صَوْحًا: پَهَارَانَا۔
صَوْحَتُهُ الشَّمْسُ أَوْ الرِّيْحُ: خَشْكٌ كَرَامًا۔
صَوْحُ الْبَقْلِ: خَشْكٌ هُوْنَا۔
تَصَوْحٌ: پَهَارَانَا۔ خَشْكٌ هُوْنَا۔
اِنْصَاْحٌ: اِنْصِيَاْحًا: پَهَارَانَا۔ الْفَجْرُ: رُوْشَنٌ هُوْنَا۔

الصَّوْحُ وَ الصَّوْحُ: نَهْرٌ كَا كَرَامَةٌ۔ دَا مَن كُو۔
الصَّاحَةُ: جَبْرُزْمِيْنٌ۔
الصَّوْحُ: گھوڑے کا پسینہ۔ جھور کا خشک ٹھنڈو۔
الصَّوْحَانُ: خَشْكٌ۔
صَاْحٌ يَصُوْحُ صَوْحًا: فِي الْأَرْضِ: زَمِيْنٌ مِي دَهْنَانَا۔

أَصَاخُ إِصَاخَةٌ لَهُ وَ اِيْهِ كَانُ لَغَانًا: كَمَا جَاتَا هِيَ، اِصَاخٌ عَن كَمْدًا يَعْْنِي فُلَانٌ جِيْزٌ سِي رَجُوْعٌ كِيَا وَ اِصَاخٌ عَلَيَّ حَقِي فُلَانٌ فُلَانٌ كِي حَقٌّ ضَالِعٌ كَرْنِي پَرَا خَمُوْشٌ رَهَا۔
الصَّاخَةُ: مَصِيْبَةٌ۔ بَدِي پَرِ صَدْمَةٍ كَا اَثْرُ۔ ج

صَاخٌ يَصُوْحُ صَوْحًا: فِي الْأَرْضِ: زَمِيْنٌ مِي دَهْنَانَا۔

أَصَاخُ إِصَاخَةٌ لَهُ وَ اِيْهِ كَانُ لَغَانًا: كَمَا جَاتَا هِيَ، اِصَاخٌ عَن كَمْدًا يَعْْنِي فُلَانٌ جِيْزٌ سِي رَجُوْعٌ كِيَا وَ اِصَاخٌ عَلَيَّ حَقِي فُلَانٌ فُلَانٌ كِي حَقٌّ ضَالِعٌ كَرْنِي پَرَا خَمُوْشٌ رَهَا۔
الصَّاخَةُ: مَصِيْبَةٌ۔ بَدِي پَرِ صَدْمَةٍ كَا اَثْرُ۔ ج

صَاخ و صَاخَات.

بَلَدٌ صَوَاخٌ وَه شہر جس میں پیر دھنس جاتے ہوں۔

الصُّوْدِيُّومُ: سوڈیم ایک سفید حات چاندی کی طرح جس سے نمک کھانے والا بنتا ہے۔

سوڈیم کاربونیٹ: غسل اور بد بھمی وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم نائٹریٹ: مشہور کھاد۔

صَارَ يَصْوُرُ صَوْرًا. آواز دینا الشئ: جھکا دینا۔ تم کہتے ہو 'صَارَ عُنُقَهُ او وَجْهَهُ اِلَى' یعنی اس نے اپنی گردن یا اپنے چہرے کو میری طرف مائل کیا۔ کسی چیز کو اپنی طرف جھکانا۔ کہا جاتا ہے 'صُرْتُ الْفَصْنَ لِاجْتِنَاءِ الشَّمْرِ' یعنی میں نے شہنی اپنی طرف جھکائی تاکہ پھل توڑوں الشئ: کانا۔ جدا کرنا۔

صَوْرٌ يَصْوُرُ صَوْرًا. جھکانا۔ صفت اَصْوَرٌ. کہا جاتا ہے 'هو اَصْوَرُ اِلَى كَذَا' جب کہ اپنی گردن یا چہرے کو مائل کرے۔ صَوْرَةٌ. تصویر بنانا۔

صَوْرَلِي. خیال میں آنا۔

اَصَارَةٌ. جھکا دینا۔ توڑنا۔

تَصَوَّرَ الشئ: ذہن میں لانا۔ خیال میں لانا۔ الرَّجُلُ: گردن یا گردن کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے 'طَعَنَهُ فَتَصَوَّرَ اس نے نیزہ مارا پس وہ گر گیا۔ تَصَوَّرَ لَهُ الشئ: اس کے ذہن میں صورت آگئی۔

اِنصَارٌ اِنصِيَارًا. جھکانا۔ ٹوٹنا۔

الصُّوْرُ. چھوٹا اور سخت خرم۔ ج صِيران و اَصْوَارٌ. گردن کا پہلو۔ نہر کا کنارہ۔ ج صِيران. الصُّوْرُ. نرسنگھا۔

الصُّوْرُ. کبھی۔ نرسنگھا۔ کہا جاتا ہے 'فِئِي عُنُقِهِ صَوْرٌ' یعنی اس کی گردن میں کبھی ہے۔

الصَّارَةُ. مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔

صَارَةٌ الْمِسْكُ. نمک کا ڈبہ۔

الصُّوْرَةُ. اسم مرۃ۔ جھکاؤ۔ سر کی خارش۔ الصُّوْرَةُ. شکل۔ ج صُوْرٌ. صُوْرٌ.

صُوْرٌ.

الصُّوْرَةُ. صفت۔ نوع۔ چہرہ۔

الصُّوَارُ وَالصُّوَارُ. گائیوں کا گلہ۔ ابھی یُو تھوڑا سا نمک۔ نمک کا ڈبہ۔ ج صِيران.

الصُّوَارُ. گائیوں کا گلہ۔

الصِّيارُ. گائیوں کا گلہ۔ ج صِيران.

الصِّيرُ. ابھی صورت والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ صِيرٌ شَيرٌ" مرد ابھی صورت بیت کا۔

الاصْوَرُ. جھکاؤ والا۔

التصْوِيْرَةُ. شیچو۔ مجسمہ۔ بت۔

المُصَوِّرُ. فَا۔ تصویر بنانے والا۔

مُصَوِّرُ الْكائِنَاتِ. اللہ تعالیٰ۔

الصُّوْصُ. لَئيمٌ۔ بخیل۔ جو رات کو چھپ کر آئے تاکہ مہمان نہ دیکھ لے۔ الصُّوْصُ عِنْدَ الْعَامَةِ: عوام کے نزدیک مرغی کا بچہ جبکہ وہ اٹھے سے لٹکے اور قبیح لفظ قُوب ہے۔

صَاعٌ يَصْوُغُ صَوْعًا. الحَبُّ: صاع سے ناپنا القوم: ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا الشئ: موڑنا۔ متفرق کرنا القوم: قوم پر اطراف سے آنا النَّحْلُ: شہد کی کھپوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جانا الرَّجُلُ: خوف دلانا گھبرا دینا۔

صَوْعٌ. الشئ: گول اور نوکدار بنانا لِلْقَطْنِ: روٹی دھننے کے لیے جگہ صاف کرنا الرَّيْحُ النَّبَاتُ: ہوا کا پودوں کو حرکت دینا الطائِرُ بَرَابِسُهُ: پرندہ کا سر کو حرکت دینا الفرس: سرکشی کرنا۔ کہا جاتا ہے "صَوْعٌ بِه فَرَسُهُ" یعنی سرکشی کی اور قبضہ میں نہیں آیا۔

تَصَوَّعٌ. متفرق ہونا۔ دور ہونا۔ پھیلنا۔ النَّبَاتُ: پودہ کا ہلنا لہلہانا الشَّعْرُ: پراگندہ

ہونا۔

اِنصَاعٌ اِنصِيَاعًا. جلدی لوٹنا۔ گزرتا۔ الصَّاعُ وَالصُّوْعُ وَالصُّوْعُ. ایک قسم کا

پیمانہ جو اسی روپے کے سیر سے ساڑھے تین سیر کے مساوی ہے۔ ج اَصْوَاعٌ و اَصْوَعٌ وَاَصْوَعٌ و صُوْعٌ و صِيْعَانٌ. الصَّاعُ: پست زمین۔ کھینے کا ڈنڈا۔ سینہ کا وسط۔ وہ زمین جس میں جھاڑو دے کر کھیلا جائے۔

الصَّاعَةُ. پست زمین۔ روٹی یا اُون دھننے کے لئے زمین۔ کہا جاتا ہے "اِنخَلَدُ لِصُوفِكَ صَاعَةً" اپنی اُون دھننے کیلئے زمین بنالو۔

الصُّوَاعُ وَالصُّوَاعُ. پانی پینے کا پیالہ۔ ج صِيْعَانٌ.

صَاعٌ يَصْوُغُ صَوْعًا. الماءُ: پانی کا نیچے اتر جانا الشئ: درست نمونہ پر آراستہ کرنا الكَلِمَةُ: وزن مخصوص پر دوسرے کلمہ سے کوئی کلمہ بنانا۔ کہا جاتا ہے "صَاعُ الْكَلَامِ" یعنی گھڑ لیا۔ صَاعُ اللّٰهِ فَلَا تَأْتِي صِيْعَةً حَسَنَةً" یعنی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ "وَصَيَغُ عَلِي صِيْعَتِهِ" یعنی وہ اس کی پیدائش پر پیدا کیا گیا۔ و صَاعٌ لَهُ الشَّرَابُ: اس کیلئے شراب خوشگوار ہوتی۔

صَاعٌ يَصْوُغُ صِيْعَةً وَصِيَاعَةً وَصِيْعَوَةً. الشئ: بگھلانا ڈھالنا۔

اِنصَاعٌ اِنصِيَاعًا. بگھلانا ڈھالنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَوَّغٌ اَوْ صَوْعَةٌ اَخِيْبُهُ" یعنی وہ اس کے ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد پیدا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اور نہیں۔ "هَذَا صَوَّغٌ هَذَا" یعنی وہ اس کے مطابق ہے۔ "هُمَا صَوَّغَانٌ" یعنی وہ پیدائش وغیرہ میں ایک جیسے ہیں۔

الصِّيْعَةُ. قسم۔ اصل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صِيْعَةٍ كَرِيْمَةٍ" یعنی وہ اصل کریم سے ہے "وَصِيْعَةُ الْاَمْرِ كَذَا وَ كَذَا"

مُراد وہ وزن ہے جس پر امر کا صیغہ بنایا جائے۔ ج صیغ۔
الصواع: زرگر۔ سار۔ ج صاعۃ و صیاع و صواع: الصیاعۃ: زرگری۔
ساری کا پیشہ۔ کہا جاتا ہے ”ہو من صاعۃ الکلام“ یعنی وہ لپڑیا ہے۔
الصواع والصیاع والصیغ۔ لپڑیا۔

جموٹا۔

المصاع: ڈھالے ہوئے زیور۔
صاف یصوف صوفا: عن کذا:
اعراض کرنا السهم عن الهدف: تیر کا نشانہ سے خطا ہو جانا (صوفاً و صووفاً و صوف یصوف صوفاً) الکبش:
مینڈھے کا بہت اُون والا ہونا۔ صفت
أصوف: صوفاً: صوفی بنانا۔
أصافہ: مائل کرنا۔ جھکانا۔
تصوف: صوفی بننا۔ صوفیوں کی سی

عادت بنانا۔

الصوف: اُون۔ ج أصواف: صوفاً:
اُون کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے ”أخذہ یصوف رقیبہ“ یعنی زبردستی پکڑا و ”أعطاه آباءہ یصوف رقیبہ“ یعنی ہتمامہ یا مفت دے

دیا۔

الصواف: اُون کا بیچ والا۔
الصوفیۃ: عبادت گزاروں کی جماعت۔
واحد صوفی۔

الصاف والصافی والأصوف و الصائف: اُون والا۔
الصوفان: بہت اُون والا۔ مؤنث
صوفانۃ۔

الصوفان: ایک نرم خشک چیز ہے جو درخت کی کڑی کے اندر ہوتی ہے جو جلدی آگ پکڑ لیتی ہے۔

الصوف والصوفانی بہت اُون والا۔
جبة صیفة: بہت اُون والا جبہ۔

صاق: الدابة: ہانکانا۔

الصوبیق: ستو۔ سوتل میں ایک لفت ہے۔

الصاق: پٹلی۔ ج صوق: ساق میں ایک لفت ہے۔

صاك یصوك صوڪا: یہ الزعفران او المسك او نحوهما: زعفران یا مسك وغیرہ کا چکنا۔

تصوك: فی رجبہ و برجبہ: گوہر میں تھڑنا۔

صال یصول صولا و صولة: علیہ: کور پڑنا (صولا و صیلا و صالا و صوولا و صیلانا و مصالۃ) علیہ: حملہ کرنا اور زبردستی کرنا۔

صیل: لہ الامر: کوئی معاملہ مقدر کیا جانا۔

صول: البیدر: کھلیان کے اطراف و جواب کو جھاڑو دینا الشی: پانی سے نکالنا۔ پانی میں ڈال کر صاف کرنا۔

صاولة مصاولة و صیلا و صیلة: ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کود پڑنا۔

تصاولا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کود پڑنا۔

الصولة: حملہ۔ قدرت۔ تہر۔ کہا جاتا ہے ”لقیتہ اول صولة“ یعنی اول وہلہ میں ملاقات کی۔

صولة: الحنطة: پانی میں سے نکالا ہوا اور صاف کیا ہوا گیہوں۔

الصولة: گیہوں وغیرہ کا کوڑا کرکٹ جو پانی سے صاف کرنے میں نکلے۔ کھلیان کے ارگرد کا کوڑا کرکٹ۔

الصنول: من الرجال: لوگوں کو مارنے والا۔ لوگوں پر زبردستی کرنے والا۔

المضول: بھگونے کا برتن۔ ج مضاول۔

المضولة: کھلیان کا جھاڑو۔

صام یصوم صوماً و صیاماً و اصطاماً: روزہ رکھنا۔ چلنے پھرنے یا بولنے ا کھانے پینے سے رُک جانا۔ صفت صائم ج

صائمون و صوام و صیام و صوم و صیم و صیام: صام الشهر: روزہ رکھنا۔ منیتہ: موت چکھنا النعام: شتر مرغ کا بیٹ کرنا۔

صام النهار: دوپہر ہونا۔ صامت الشمس: آفتاب کا وسط آسمان پر پہنچنا۔

کھا جاتا ہے ”حینئہ و الشمس فی مصایمہا“ یعنی میں اس کے پاس ایسے

وقت پہنچا کہ آفتاب وسط آسمان میں تھا۔

صامت الريح: ہوا کا رُک جانا۔

صومه: روزہ رکھنا۔

الصوم: روزہ۔ صوم سے رُکنا۔ روزہ دار یہ لفظ مذکر و مؤنث واحد جمع سب پر بولا جاتا ہے۔

کھا جاتا ہے ”هو صوم ہی صوم هم صوم۔ شہر الصوم: رمضان۔ صوم النعام: شتر مرغ کی بیٹ۔

الصوام: من الاراضی: خشک بے پانی کی زمینیں۔

الصومان: روزہ دار۔ ج صیامی۔

الصائم: روزہ دار۔ یوم صائم: وہ دن جس میں روزہ رکھا جائے۔ ماء صائم: ٹھہرا ہوا پانی۔

الصائمة من السکاکین: کند چھری من الخیل: بغیر چارہ کے کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ والصائمة من البکرات: نہ گھونے والی چرخی۔

الصوام: بہت روزہ دار۔ کہا جاتا ہے ”هو صوام قوام“ یعنی وہ دن میں روزے

رکھنے والا اور رات میں عبادت کرنے والا ہے۔

مصام الفرس و مصامتہا: گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ۔

صومع: الشی: جمع کرنا۔ البناء: عمارت کو بلند کرنا۔

الصومعة و الصومع: راہب کی کئی گرجا۔ الصومعة: عقاب: ایک قسم کی لمبی

لوہی پہاڑ کی چوٹی۔ ج صوامع: صومل: الرجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے خشک ہو جانا۔

صَانَهُ يَصُونُهُ صَوْنًا وَصِيَانًا وَصِيَانَةً وَ
اضْطَانَةً اضْطِيَانًا. حفاظت کرنا۔ صفت
مفعول مَصُونٌ مَصُونُونَ. دوسرا کم
استعمل ہوتا ہے۔ صَانَ الثَّوْبَ او
العروض: کپڑے اور آبرو کو عیب لگانے
والی چیزوں سے محفوظ رکھنا۔

تَصَوَّنَ وَ تَصَوَّنَ. مِنَ الْعَيْبِ: اپنے
نفس کی عیب سے حفاظت کرنا۔ تَصَوَّنَتْ:
بچنے کے لیے تکلف کرنا۔

الصَّوَانُ وَالصَّوَانُ وَالصَّوَانُ وَالصَّيَانُ
وَالصَّيَانُ وَالصَّيَانُ. کپڑوں یا کتبوں کے
محفوظ کرنے کا برتن۔

الصَّوَانَةُ. ایک سخت قسم کا پتھر۔ ذر۔
المَصَانُ وَالْمِصْوَانُ. کمان وغیرہ کا
غلاف۔

الصَّوْءُ خَالِي. کہا جاتا ہے "إِنَاءٌ صَوٌّ خَالِي"
برتن۔

الصَّوْءُ. گونج۔ آواز بازگشت۔ نیلہ نشان
راہ کا پتھر۔ جِ صَوِيٌّ جِ أَصْوَاءُ. الصَّوِيٌّ
وَالْأَصْوَاءُ: تپور۔

صَوِيٌّ يَصْوِيُّ صَوِيًّا وَصَوِيٌّ يَصْوِيُّ
صَوِيًّا وَ صَوِيٌّ يَصْوِيُّ صَوِيًّا وَصَوِيٌّ
أَصْوَاءُ النَّخْلِ: خشک ہونا۔ صفت صَوِيٌّ
وَصَوَاوُ الضَّرْعِ: تھن کا خشک ہو جانا۔

صَوِيٌّ (س) صَوِيٌّ. الرَّجُلُ: قوی ہونا۔
صَابٌ يَصِيْبُ صَيْبًا. درست ہونا۔
صفت صَائِبٌ. صَابَةُ السَّهْمِ: تیر کا

نشانے پر لگانا۔
سَهْمٌ صَيْبٌ. تیر نشانے پر لگنے والا۔ جِ
صَيْبٌ.

الصَّيَابُ وَالصَّيَابَةُ وَالصَّيَابُ وَ
الصَّيَابَةُ. خالص۔ ہر چیز میں سے عمدہ۔
کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صَيَابِهِمْ وَمِنْ
صَيَابَتِهِمْ" یعنی وہ سب میں عمدہ ہے۔

الصَّيَابَةُ. سردار۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ صَيَابَةُ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا سردار
ہے۔ صَيَابَةُ الْقَوْمِ: یعنی جماعت قوم۔

صَاحٌ يَصِيْحُ صَيْحًا وَصَيْحَةً وَصَيْحًا
وَصَيْحًا وَصَيْحَانًا. چیخ جھلانا بہ:
پکارنا۔ آواز دینا۔ عَلَيْهِ: دُائِمًا الْعُقُودُ: تر
خوشے کا پڑھنا۔

صَيْحٌ. بھم: گھمراٹا فیہم: ہلاک ہونا۔
صَيْحٌ. چیخنے میں مبالغہ کرنا الشَّيْءُ: توڑ
دینا۔ پھانسا۔ صَيِّحَتِ الرِّيحِ او الشَّمْسِ
الْبَقْلُ: ہوا یا آفتاب کا ساگ کو خشک کرنا۔

صَايَحٌ وَتَصَايِحٌ. القَوْمُ: ایک دوسرے
کو پکارنا۔ صَايِحٌ بہ: آواز دینا۔ پکارنا۔
تَصَايِحٌ جَفْنُ السَّيْفِ: تلوار کے میان کا
پھٹ جانا۔

تَصَيِّحٌ وَانْصَاحٌ. پھٹ جانا۔ تَصَيِّحٌ
الْبَقْلُ. اوپر کی جانب سے خشک ہونا۔
شروع ہونا۔ انْصَاحُ الفَجْرِ وَالْبُرْقِ:
ظاہر ہونا۔ انْصَاحَتِ الْأَرْضِ: زمین کا

کچھ حصہ روئیدگی سے ڈھک جانا اور کچھ کا
خالی رہنا۔
الصَّيْحَةُ. چیخ۔ عذاب۔ اجابک غارت۔
الصَّائِحَةُ. مؤنث صَائِحٌ. نوچ کی چیخ۔

الصَّيَّاحُ. بہت چیخنے والا۔
صَادٌ يَصِيْدُ وَ يَصَادُ صَيْدًا وَتَصِيْدٌ
وَاضْطَادٌ. الطَّيْرُ: پرندے کا شکار کرنا۔

صفت صَائِدٌ. صَادٌ فَلَانًا: کسی کیلئے شکار
کرنا۔ صَادٌ وَاضْطَادُ الْمَكَانِ: فلاں جگہ
میں شکار کرنا۔ صَادٌ زَيْدًا: نیزگی گردن کا
کردینا۔

صَيْدٌ يَصِيْدُ صَيْدًا. نیزگی گردن کا ہونا۔
أَصَادَهُ. شکار پر آکسانا۔ أَصَادَ الْبَعِيْرُ:
تکلیف دینا۔ علاج کرنا (کئی گردن کا)

الأصيد. تکبر سے سر کو بلند کرنے والا۔
وہ اونٹ جس کی گردن نیزگی ہو۔ بادشاہ
اس لیے کہ وہ بھی فخر و غرور کی وجہ سے
ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ شیر۔ مؤنث صَيْدَاءُ


جِ صَيْدٌ.
الْصَادُ. حروف تہجی کا ایک حرف جس کا
عدد بحساب جمل ۹۰ ہے۔ تانبا۔ پتیل۔ جِ

صَيْدَانٌ اِيكٌ مَرَضٌ هُوَ جُوْ اُونْتُ كُوْ هُوْتَا
هے۔ جس کی وجہ سے اس کی ناک ہمیشہ
بہتی رہتی ہے اور وہ اپنے سر کو بلند کرتا
ہے۔ شیر۔
الصَيْدُ. شکار۔
الصَيْدَاءُ. مؤنث أَصَيْدٌ. کتکر۔ اَرْضُ
صَيْدَاءُ. سخت زمین۔
الصَيْدُ. ص. (وَالصَيْدُ) اُونْتُ كِي مَذْكُوْرَه
بِالَا بِمَارِي۔
الصَيْدَاءُ. شکاری۔ شیر۔
الصَيْوُدُ. شکاری۔ کہا جاتا ہے۔ كَلْبٌ
صَيْوُدٌ وَ صَفْرٌ صَيْوُدٌ. جِ صَيْدٌ وَ
صَيْوُدٌ. الصَيْوُدُ مِنَ النِّسَاءِ: بدخلق
عورت۔
الصَيْدَانُ. سونا۔ تانبا۔ صَيْدَانٌ
الْحَصَى. کتکریاں۔
الصَيْدَانَةُ. بھوت مِنَ النِّسَاءِ. بدخلق۔
بہت بولنے والی۔
المَصِيْدُ وَالمَصِيْدَةُ وَالمَصِيْدَةُ
وَالْمَصِيْدَةُ. جال۔
المَصِيْدُ. شکار کیا ہوا۔
المَصَادُ وَالمَصْطَادُ وَالمَتَصِيْدُ. شکار
گاہ۔
الصَيْدَلَةُ. دوا فروش۔
الصَيْدَلِيُّ وَالصَيْدَلَانِيُّ. دوا فروش۔ جِ
صَيْدَالَةٌ. یہ کلمہ ذخیل ہے اور اس کے
لیے اجزائی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے
اور دواخانہ کو اجزائیہ کہتے ہیں۔
الصَيْدَانُ. مضبوط عمارت۔ چاندی کی
سل۔ تنگ چادر۔ بجو۔ لومڑی۔ بادشاہ۔
عطر فروش۔ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو
اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے محفوظ رکھنے
کے لیے زمین میں بھٹ بناتا ہے۔
الصَيْدَانِيُّ. بھٹ۔
صَارَ يَصِيْرُ صَيْرًا وَصَيْرُوْرَةً وَمَصِيْرًا.
لونڈا۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی
طرف پلٹنا۔ جیسے "صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا" یعنی

فقر سے غنا کی طرف پلٹ گیا۔ منتقل ہونا
إِلَى كَذَا أَوْ إِلَى فُلَانٍ: پہنچنا۔ اور یہ افعال
ناقصہ میں سے ہے۔
صَارَهُ يُصَوِّرُهُ وَيَصِيرُهُ صَيْرًا: کانا۔
الشئ: روک دینا۔
صَيْرَهُ وَأَصَارَهُ إِصَارَةً: ایک حالت سے
دوسری حالت کی طرف کر دینا۔
تَصَيْرُهُ: مشابہ ہونا۔
الصَيْر: انجام۔
الصَيْر: کسی شے کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے
"فُلَانٌ عَلَى صَيْرِ الْأَمْرِ" یعنی فلاں کام
کے پورے ہونے کے کنارے پر ہے۔
دروازے کی جھری۔ چھوٹی نمکین پھلیاں۔
یہودیوں کا پادری۔ انجام کار۔
الصَيَارُ: گالوں کا گلہ۔ چنگ کی آواز۔
الصَيَارَةُ وَالصَيْرَةُ: گائے بکریوں کا بازہ۔
ج صیر و صیر۔
الصَائِرَةُ: خشک گھاس۔
الصَيْرُ: جماعت۔ قبر۔
الصَيُورُ: عقل رائے (الصَيُورَةُ) انجام
کار۔
المَصِيرُ: انجام کار۔ پانی کا تپتی۔ ج
مَصَانِرُ۔
الصَيْصَةُ وَالصَيْصِيَّةُ: کپڑا بننے والے کا
کوٹھ۔ مرغ کا خار۔ ہرن اور گائے کا
سینگ۔ چھوڑے توڑنے کا دستہ۔ قلعہ۔
گڑھی اور ہر پناہ لینے کی جگہ۔ ج
صَيَاصِيٌّ
صَاعٌ يَصْنَعُ صَيْغًا وَأَصَاعٌ الْعَنَمُ

متفرق کرنا الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر حملہ
کرنا۔
تَصَيَّعَ: الماء: متحرک ہونا۔ جوش مارنا۔
إِنْصَاعَ الرَّجُلِ: تیزی سے واپس ہونا۔
الطَّيْرُ: نضاء آہنی میں چڑھنا۔
صَافٌ يَصِفُ صَيْفًا وَصَيْفٌ وَ
تَصَيَّفٌ وَأَصَيْفٌ: المكان: موسم گرما
میں اقامت کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا
الطَّعَامُ يَصَيِّفُنِي" یعنی یہ کھانا میرے لیے
گرم موسم گرما بھر کیلئے کافی ہے۔
صَافٌ (ض) صَيْفًا وَصَيْفُوقَةً: السَّهْمُ
عَنِ الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ سے خطا کرنا غیبی
وَجْهَةً: منہ پھیر لینا۔
صَيْفٌ وَصَيْفٌ: المكان أَوْ الرَّجُلُ:
مکان یا آدمی پر موسم گرما میں بارش ہونا۔
مفت مفعول۔ مَصَيْفٌ مَصْيُوفٌ وَ
مَصَيْفٌ
صَيَّفَهُ مَصَيَّفَةً وَصَيَّافًا: موسم گرما کے
لیے معاملہ کرنا۔
أَصَافَ إِصَافَةً: بڑھاپے میں شادی کرنا یا
بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا الْقَوْمُ: زمانہ گرمی
میں داخل ہونا اللَّهُ عَنْهُ الشَّرُّ: اللہ کا شر کو
دور کرنا۔ أَصَافَتِ الذَّابِتَةُ: جانور کا گرمی
کے زمانہ میں بچہ دینا۔
الصَيْفُ: موسم گرما۔ جَاصِيَّافٌ
الصَيْفَةُ: موسم گرما۔ یہ صَيْفٌ سے اخص
ہے۔ ج صَيْفٌ
الصَيْفُ وَالصَيْفَةُ: موسم گرما کی بارش۔
کہا جاتا ہے "أَصَابَتْنَا صَيْفَةٌ غَزِيرَةٌ" ہم

پر موسم گرما کی کثیر بارش ہوئی۔
الصَيْفُ وَالصَيْفِيُّ: گھاس جو موسم گرما
میں اُگتی ہے۔
الصَّائِفُ وَالصَّافُ: گرم۔
صَيْفٌ صَائِفٌ: تاکید کے موقعہ پر بولا
جاتا ہے جیسے لَيْلٌ لَيْلٌ
الصَّائِفَةُ: مؤنث الصَّائِفُ کا۔ موسم گرما
کا وقت۔ گرمی کے زمانے میں جنگ۔
"صَائِفَةُ الْقَوْمِ" زمانہ گرما کی خوراک۔ ج
صَوَائِفُ
المَصَيْفُ وَالْمُتَصَيْفُ وَالْمُصْطَافُ:
موسم گرما بسر کرنے کا مکان۔ المَصَيْفُ:
مدی جہاں پر بل کھاتی ہو۔
أَرْضٌ مَصْيَافٌ: زمین جس میں روئیدگی
موت ہو جائے اور موسم گرما میں اس میں
بارش زیادہ ہوتی ہو۔ ج مَصَيَّافٌ
المَصَيَّافُ: وہ بچے جو گرمی میں پیدا
ہوں۔
الصَيْقُ: چڑا چڑے۔ ج صَيْقَانُ: پیندہ۔
بدبو۔ آواز (وَالصَيْقَةُ) وہ غبار جو نضاء
آسمانی میں پکڑ لگائے۔ ج صَيْقُ
صَاكٌ يَصِيكُ صَيْكًا: بِهِ الطَّيْبُ أَوْ
الدَّمُ: خوشبو یا خون کا چپکانا۔
صَيْلٌ لَهُ كَذَا: مقدر کیا جانا۔
الصَيْمُ: بہت سخت۔
الصَيْمُ: ملک چین۔
الصَوَائِي: چینی برتن۔ واحد صَيْيئَةٌ
الصَيْيئَةُ: کسی دھات کا طبق جو کسی چیز کو
پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔



ض: الضاد: پندرہواں حرف بنیادی حروف سے مخارج کے لحاظ سے حروف شمیریہ سے ہے۔ بحساب جمل اس کا عدد (۸۰۰) ہے۔

الضنب: ایک دریائی جانور۔ موتی۔ الضؤبان: موٹا قوی مرد یا اونٹ۔ ضَادٌ (ف) ضَادًا: خصوصیت میں غالب آتا۔

ضَبْدٌ ضَوَادًا: زکام زدہ ہونا۔ اَضَادَةٌ اِضَادًا: زکام میں مبتلا کرنا۔ الضؤد والضؤدۃ والضؤدۃ: زکام۔ المَضؤود: زکام زدہ۔ ضَاؤَةٌ (ف) ضَاؤًا و ضَاؤًا ظلم کرنا۔ ضَاؤَةٌ حَقٌّ: حق گھٹانا۔ قِسْمَةٌ ضؤزى و ضَاؤى و ضنزى: ناقص تقسیم۔

الضیاز: کاموں میں گھس پڑنے والا۔ الضؤرۃ: حقیر مرد۔ ضَاؤًا ضَاؤًا و ضؤصًا ضؤصًا: القوم فی الحرب: قوم کا لڑائی میں شور مچانا۔

الضَاؤًا و الضؤصًا و الضؤصی: لڑائی کا شور۔ الضؤضؤ و الضنضی: اصل۔ کان۔ معدن۔ الضؤضؤ: ایک قسم کا پرنده جس کے پردوں پر طرح طرح کے نقشے ہوتے ہیں۔

ضَنطٌ (س) ضَاظًا: الرجل: چلنے میں موثر ہے اور جسم کو حرکت دینا۔ ضَنطٌ: زکام زدہ ہونا۔ الضؤالک: زکام۔ ضؤلٌ (ک) ضَالَةٌ و ضؤولَةٌ: لاغر ہونا۔ حقیر ہونا۔

ضَاعَلٌ: شَخْصَةٌ: اپنے آپ کو حقیر کرنا۔ تَضَاعَلٌ: حقیر ہونا۔ کمزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔ الشئُ سَكْرًا: ہونا۔ الشئُ سَكْرًا: ہونا۔

اِضْطَالَ: چھوٹا ہونا۔ کمزور ہونا۔ صفت مُضْطَبِلٌ: چھوٹا۔ باریک۔ حقیر۔ ڈبلا۔ ج ضؤلاء و ضنال و ضنیلون: الضؤولۃ: کمزور۔ ڈبلا۔

الضنیلۃ: ضنیل کا مؤنث۔ باریک سانپ۔ حلق کا کوا۔ ضَانٌ (ف) ضَانًا: الضان: بھیڑ کو بکریوں سے جدا کرنا۔ اَضَانٌ اِضَانًا: بہت بھیڑ والا ہونا۔ الضان: بھیڑ۔ ذنب۔

الضانی مولدین کے نزدیک بھیڑ کا گوشت الضانین: کمزور۔ کہا جاتا ہے ”زَجَلٌ ضَانٌ“ کمزور مرد۔ ریت کا سفید چوڑا قطعہ۔ اون والا۔ بھیڑ، ذنب۔ ج ضَانٌ و ضَانٌ و ضنین و ضینین۔

الضانۃ: مؤنث ضانین ج ضوانین۔ الضننی: وہی جمانے کی بڑی منگ بھیڑ

کی کھال کی۔

ضَاى ضَاىًا ضَاىًا: الرجل: جسم کا لاغر ہونا۔

ضَبٌ (ض) ضَبًا: چپ ہونا۔ الناقۃ: اونٹنی کو پوری پھیلی لگا کر دوہنا علی الشئ: جمع کرنا الشئ: زمین سے چٹنا عَلَیْہ: مضبوطی سے پکڑنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ یَضِبُ فُوہ او تَضِبُ لِفَانِہ بِکَذَا او عَلَی کَذَا“ جبکہ حرص زیادہ ہو جائے (ضَبًا و ضَبیبًا) الریقُ او الذم: تھوک یا خون بہنا۔

ضَبَّتْ (ض) ضَبًا و ضؤوبًا الشفۃ: ہونٹ میں ایسی بیماری ہونا جس کی وجہ سے خون نکلے۔

ضَبِبٌ یَضِبُ و ضَبِبٌ یَضِبُ ضَبَابًا: المکان: کسی جگہ میں زیادہ گوہ ہونا۔ صفت ضَبِبٌ مؤنث ضَبیبۃ۔

ضَبِبٌ: عَلَی الشئ: سخت قبضہ کرنا۔ جمع کرنا۔ ضَبِبٌ عَلَی الضَب: گوہ کو بھڑکانا۔ ضَبِبٌ البَاب: دروازے میں پٹی لگانا۔

اَضَبٌ: خاموش ہونا۔ چخنا اور گفتگو کرنا۔ (ضد) الماء او الریق: پانی یا تھوک بہنا اليوم: دن کا کھر والا ہونا المکان: زیادہ رونہی والا ہونا الشعر: بال کا زیادہ ہونا۔ القوم: کسی کام کے لیے اکٹھا اٹھ کھڑا ہونا۔ القومُ فی بُغیَتِہم: حصول مطلب کیلئے متفرق ہونا۔ اَضَبُوا لِفَلَان: کسی کے

الضَبْدُ. غَصَمَةٌ. غَضَبٌ.

ضَبْرٌ (ن) حَصْبًا. الْحِجَارَةُ. تَدْبِتُ رَكْنَا الْكَبْرُ. جَمْعُ كَرْنَا بِئِذْ بِنَا ضَبْرًا وَضَبْرَانَا الْقُرْسُ أَوْ الْمُقِيدُ. نَاغُونَ كَوِ جَمْعُ كَرْنَا أَوْ كَوْنَا.

ضَبْرٌ الشَّيْءُ جَمْعُ كَرْنَا.

الضَّبِيرُ. كَلْبِي كِي بَنِي هُوِي جِيزِ جِسْ پَرِ كَمَالِ مَنُذِ هُوِي تَحِي اور جِسْ كِي اندرِ دَاغِلِ هُو كَرِ جِنگِ كِي لِي قَلَعِ كِي قَرِيبِ تَپَنجِي تَحِي. تَضْبُورُ. الضَّبِيرُ. قَرَفَرَسُ

ضَبِيرٌ: كُوْنَامِ الْخَلْقَةِ.

الضَّبِيرُ وَالضَّبِيرُ. جَنْجَلِي اَخْرُوْتِ كَا

دَرْخَتِ.

الضَّبِيرُ. بَغْلٌ.

الضَّبَارُ وَالضَّبَارُ. كَتَائِبِي. اِن كَا وَاحِدِ

نَمِي.

الضَّبَارَةُ. خَلْقَتِ كِي مَضْبُوِي.

الضَّبَارَةُ وَالضَّبَارَةُ. كَتَائِبِي كَا بِنْدَلِي يَا

تِيروِي كَا كَمَالِ. تَضْبَائِي.

الضَّبَارَةُ. كَتَائِبِي كَا بِنْدَلِي يَا تِيروِي كَا

كَمَالِ. تَضْبَائِي.

الضَّبَارَةُ. كُوْنُوِي كِي جَمَاعَتِ. مَجْمَعُ كَبْتِي

هِي "رَأَيْتُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَكَانِ

ضَبَائِي ضَبَائِي" مِي نِي اِن كُو دِيكَا كِي

لُو كِي جَوَقِ دَرِ جَوَقِ نَكَلِ رَسِي تَحِي.

الضَّبِيرُ. بَهْتِ زِيَادِي كُوْنِي دَالَا.

الضَّبِيرُ وَالضَّبِيرُ. سَخْتِ. شِيْرُ.

الضَّبَارُ. لَمُوِي كِي مَانَدِ اِي كِي دَرْخَتِ. وَاحِدِ

ضَبَارَةُ.

الضَّبِيرُ. كُوْنِي دَالَا. شِيْرُ الْمَضْبُورِ.

دَارِنِي.

ضَبِيرَةٌ (ض) حَصْبًا. كَمِيوِي سِي تِيْرُ

دِيكَا.

الضَّبِيرُ وَالضَّبِيرُ. مِي الدَّنَابِ: تِيْرُ نَظَرِ

بَهِيْرِيَا.

ضَبْسٌ (ن) حَصْبًا عَلِي الْغَرِيمِ:

قَرَضَارِ پَرِ تَحِي سِي قَاضَا كَرْنَا.

الْمَضْبَابُ. بَحْلٌ.

ضَبًّا (ف) حَصْبًا وَضُبُوًا. الرَّجُلُ: زَمِيْنِ

يَا دَرْخَتِ سِي چِنَا. مَفْتَحِي الصَّانِدُ:

شَكَرِي كَا قَرِيبِ دِيْنِي كِي لِي چِهِنَا

بِالْأَرْضِ: چِنَا لِيْهِي: بِنَا لِيْهِي: شَرْمُ كَرْنَا

عَلِي الْقَوْمِ: اچَا نَكِ اچَا نَا.

أَضْبًا. الشَّيْءُ: چِهِنَا لِيْهِي: خَامُوَشُ رَهِنَا

اور چِهِنَا لِيْهِي فِيْ يَدِيهِ وَغَلِيْهِي: پَکَرِي رَكْنَا.

أَضْبًا أَضْبَاءً. مَنَّةُ: چِهِنَا.

الضَّابِي: رَاكُ.

الْمَضْبَا: چِهِنِي كِي جَلْدِ. تَضْبَائِي.

ضَبَّتْ (ض) حَصْبًا وَأَضْبَطْتُ بِالشَّيْءِ وَ

عَلِيْهِي: تَحِي سِي قَبْضِ كَرْنَا ضَبَّتْ بِهِي: حَمَلِ

كَرْنَا ضَبَّتْ عَلِيْهِي: مَارَا جَانَا.

الضَّبِيَّةُ. قَبْضُ. تَضْبِيَّاتٌ وَأَضْبِيَّاتٌ.

الضَّبِيَّاتُ. شِيْرُ كِي پَنجِي.

الضَّبِيَّاتُ وَالضَّبِيَّةُ وَالضَّبُوْتُ. شِيْرُ.

الْمَضْبَابُ. چَنْجَلِ اور شِيْرُ كِي پَنجِي.

مَضْبُتٌ. وَاحِدِ.

ضَبِحَتْ (ف) ضَبْحًا وَضَبْحًا. كِي

الْحَيْلِ فِي وَرْدِهَا: كُوْرِي كَا دُوْرِي كِي

حَالَتِ مِي جَوَفِ سِي آوَارِ نَكَالَا.

(ضَبْحًا) الْأَرْبُ وَالنَّعْلُبُ وَالْقَوْسُ:

آوَارِ كَرْنَا ضَبْحًا النَّارُ الْعُوْدُ: اَگ كَا

كَلْبِي كُو تَتْيَرِ كَر دِيْنَا.

ضَابِحَةٌ. رُو دَرِ رُو مَقَابِلِ كَرْنَا. گَالِي دِيْنَا.

تُرَا بَهْلَا كَهِنَا.

أَنْضِجَ لَوْنُهُ: رَاكُ كِي رَنگِ كَا هُو جَانَا.

تَضَابِحًا. اِي كِي دُوْرِي كَا مَقَابِلِ كَرْنَا. تُرَا

بَهْلَا كَهِنَا.

الضَّبِحَاءُ. كَمَانِ كِي جِسْ مِي اَگ كَا اَثَرِ

هُوَ.

الضَّبْحُ. رَاكُ.

الْمَضْبُوحُ. سَكْسَانِ كَا پَنجِي.

ضَبْدٌ (ن) حَصْبًا. تَرَاوَرِ گَدَرِ كَهْمُورُوِي كُو

مَلَا نَا.

ضَبْدَةٌ. غَصَمَةٌ آوَرِ جِيْرُوِي كُو يَا دَلَانَا.

طلب کرنے کے لئے متفرق ہونا الماء او

الدم: بہا ناغلی الامر: حاوی ہونا غلی

الشيء: چھپانا۔ غلی المطلوب کامیابی

کے قریب ہونا۔ ضبوًا علیہ: بھڑکنا۔

أضب علی ما فی نفسہ: جو کچھ دل میں

ہو اس پر خاموش رہنا غلی غلی فی قلبہ:

کینہ کو دل میں پوشیدہ رکھنا۔

تَضَبَّبَ الضَّبُّ: بَنجِي كَا مَوْنَا هُوْنِي لَگْنَا.

الضَّبُّ. كُوْرُ: جِ أَضْبٌ وَضَبَانٌ وَ

ضَبَابٌ وَ مَضْبَةٌ. عَرَبُ كَبْتِي تَحِي "لَا

أَفْعَلُهُ حَتَّى يَرُو الضَّبُّ" لِيْنِي مِي سِي يِه كَامِ

نَمِيں كَرُوں گَا يِهَاں تِك كِي كُوْرِي پَانِي پَرِ آئِي

اِس لِي كِي اِن كَا خِيَالِ تَهَا كِي كُوْرِي پَانِي پَرِ

نَمِيں آيَا كَرْتِي.

بَقْلَةُ الضَّبِّ: اِي كِي خُوْشْبُوْدَارِ نَبَاتَاتِ.

الضَّبُّ. أُوْنْتُ كِي سِيْنِي يَا قَدَمِ كَا دَرْمِ.

أُوْنْتُ كِي اَگَلِي بِيْرُ كَا مَرَضِ. هُوْنْتُ كَا

مَرَضِ جِسْ سِي خُوْنِ نَمِي.

الضَّبُّ وَالضَّبُّ. پُوْشِيْدِي كِيْنِي. جِ

ضَبَابٌ. كَهَا جَاتَا "رَجُلٌ حَبَّ ضَبًّا"

لِيْنِي دَعَا بَا زِ حِيْلِي كَرْمَرِي.

الضَّبَّةُ. ضَبُّ كَا مَوْنْتُ. شُكُوْنِي قَبْلِ اِس

كِي كِي كَهَلِي. تَحِي سِي نَچُوْرُ كَر دُوْهِنَا.

دَرَوَانِي كَا لُوْبِي يَا كَلْبِي كَا مَوْسَلَا. جِ

ضَبَابٌ.

الضَّبُّ. مِي الْحَمَالِ: وَهُ أُوْنْتُ جِسْ كُو

(ضَبُّ) كِي بِيَارِي لَاتِحِ هُو. مَوْنُضَبَاءُ.

تَضْبُتٌ.

الضَّبُوْبُ. تَحْنِ مِي تِك سُوْرَاخِ وَالِي

كَبْرِي.

ضَبِيْبُ السَّيْفِ: تَلُوَارِ كِي دَهَارِ.

الضَّبَابَةُ. كَهْرُ. تَضْبَابٌ.

الضَّبِيَّةُ. اِي كِي تَمِ كِي خُوْرَاكِ جُو گَچِي اور

كَهْمُورِ كِي شِيْرِي سِي پَنجُوں كِي لِي تِيَارِ كِي

جَانِي هُو.

أَرْضٌ مَضْبَةٌ. زِيَادِي كُوْرِي وَالِي زَمِيْنِ. جِ

مَضَابٌ.

ضَبَيْسَت (س) ضَبَيْسًا. نَفْسُهُ: جی کا گڑنا اور متلاش۔
الضَّبَيْسُ: بخیل۔
الضَّبَيْسُ شَرِيْرٌ: کہا جاتا ہے ”هُوَ ضَبَيْسٌ شَرِيْرٌ“ وہ برائی کا سا بھی ہے یعنی شریر ہے۔
الضَّبَيْسُ: سخت مزاج۔ فریبی۔
الضَّبَيْسُ: سخت مزاج۔ گراں تن۔ گراں جان۔ بزدل۔ بیوقوف۔

ضَبَطَ (ض) ضَبْطًا وَضَبَاطَةً: لازم ہونا۔ غالب ہونا۔ قوی ہونا۔ خوب حفاظت کرنا۔ العمل: مضبوط کرنا۔ الكتاب: تصحیح کرنا۔ اعراب لگانا۔ عَلَيْهِ: گرفتار کرنا۔
ضَبَطَ (س) ضَبْطًا: دونوں ہاتھوں سے کام کرنا۔ صفت اضبط مؤنث ضَبْطَاءُ: ج ضَبْطٌ۔

ضَبَطَتِ: الْأَرْضُ: زمین پر بارش ہونا۔
تَضَبَّطَ: زبردستی گرفتار کرنا۔ تَضَبَّطَ الضَّائِبُ: ہونا ہونا۔ تھوڑی سی گھاس کھانا۔
الضَّبْطُ: قابو میں آنا۔ مضبوط ہونا۔
الضَّبْطُ: سر۔ روک۔ گرفتاری۔
الضَّبَابُ: فا۔ قوی۔ ہوشیار۔ حاکم۔ فوج کا جنرل۔ ج ضَبَابٌ (والضَّبَابَةُ) عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: وہ قاعدہ کلیہ جو اپنے سارے جزئیات پر منطبق ہو۔
الضَّبَابِيَّةُ: خاد: الضابلی۔

حاکم کا لشکر جن سے مال کو جمع کرنے، حفاظت کرنے اور مجرمین وغیرہ کو حکومت کے سامنے حاضر کرنے کی خدمت لی جاتی ہے۔

الضَّبَابُ وَالضَّبَابُ: شیر۔
ضَبَّعَ (ف) ضَبْعًا وَضَبُوعًا وَضَبْعَانًا: البعير: اونٹ کا تیز دوڑنا اور اسے پہلوؤں کو پھیلا کر القوم الضلع: صلح کی طرف مائل ہونا۔ ضَبْعَهُ ضَبْعًا: مارنے کیلئے ہاتھ بڑھانا۔ الرَّجُلُ: ظلم کرنا۔ عَلِيٌّ: فلان: بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔
ضَبَّعَ الرَّجُلُ: بزدل ہونا۔ ضَبَّعَتْ

الْخَيْلُ وَالْإِبِلُ: چال میں پہلوؤں کو پھیلانا۔

ضَبَاعَةٌ مُضَابِعَةٌ: ایک دوسرے کی طرف تلوار کا ہاتھ بڑھانا۔ الرَّجُلُ: مصافحہ کرنا۔ اضْطَبَّعَ: بازو ظاہر کرنا۔ دہائی بغل سے چادر کو نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالنا۔ الشئُ: بغل میں لینا۔

الضَّبْعُ وَالضَّبْعُ: بگو۔ لفظ مؤنث ہے۔ زر و مادہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ج ضَبَاعٌ وَأَضْبَعٌ وَضَبْعٌ وَضَبُوعَةٌ وَضَبْعَاتٌ وَضَبْعَةٌ: اور تصغیر ضبع کی اَضْبَعٌ: خلاف مَضْبَعَةٌ اور تصغیر ضبع کی اَضْبَعٌ: خلاف قیاس اور کبھی مادہ کے لیے ضَبْعَةٌ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دو قسمیں مشہور ہیں۔ ضبع مخططة (دھاری دار) ضبع رقطاء (خال دار) اور ضبع رقطاء مخططة سے بڑا اور قوی ہوتا ہے۔

الضَّبْعُ: بازو کا وسط۔ بازو۔ بغل۔ الضَّبْعُ وَالضَّبْعُ وَالضَّبْعُ: جانب۔ کنارہ۔ ج اَضْبَاعٌ۔ الضَّبْعُ: قحط کا سال۔ الضَّبْعُ وَالضَّبَاعُ: دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔

الضَّبْعَانُ: زر بگو۔ مثنیٰ: ضَبْعَانٌ ضَبْعَانَانٌ غلط ہے۔ ج ضَبَاعِيْنٌ. مؤنث ضَبْعَانَتٌ ضَبَاعِيْنٌ وَضَبْعَانَاتٌ۔

الضَّبَاعُ: فا من الخيل والابل: تیز دوڑنے والا۔ ج ضَبْعٌ۔ ضَبْنٌ (ن) ضَبْنًا: المکان: تنگ ہونا۔ صفت ضَبْنٌ عَنْهُ: الْهَدْيَةُ: ہدیہ کو روک دینا۔ منع کرنا۔ ضَبْنَهُ: بغل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

أَضْبَنَ وَأَضْبَنَ: بغل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضَّبْنُ: بغل اور پہلو کے درمیان۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ فِي ضَبْنِ فَلَانٍ“ او ضَبْنَتُهُ“ یعنی فلاں آدمی فلاں کی پناہ میں ہے۔

الضَّبْنَةُ وَالضَّبْنَةُ وَالضَّبْنَةُ: بال بچے۔

الضَّبْنَةُ وَالضَّبْنَةُ: بیوی۔

الضَّبْنُ وَالْمَضْبُونُ: لہجہ۔

ضَبًا يَضْبُو ضَبْوًا: إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ ضبته النار: آگ کا بھون دینا اور متغیر کر دینا۔ اَضْبَى: الشئُ: اٹھانا۔ روکنا۔ عَلَيْهِ: فتح مندی کے لیے جا پھینچنا۔

الضَّبَابُ: فا۔ رکھ۔

الضَّبُوعَةُ: عِنْدَ الْعَامَّةِ: تمباکو کیلئے چڑے کا بٹوہ اور صلح لفظ الضبوعہ ہے اور ممکن ہے کہ یہ طَبِيْعَتِي تحریف ہو۔

الْمَضْبَاةُ: بھوبھل کی کچی ہوئی روٹی۔

الْمَضْبَاةُ: بھوبھل میں روٹی پکانے کا گڑھا۔

ضَبَّحَ (ض) ضَبْحًا وَضَبْحِيًّا وَضَبْحًا: شور بچانا۔

أَضْبَحَ: اَضْبَحًا: القوم: بچنا۔ شور بچانا۔

ضَبَّحَ: الرَّجُلُ: جانا اور مال ہونا الطائر ونحوه: زبردینا۔

ضَبَّحَهُ: ضَبْحًا: مَضَابِحَةٌ: بھگڑا کرنا اور شور بچانا۔

الضَّبْحَةُ: جج و پکار۔ شور۔

الضَّبْحَاجُ: ہاتھی دانت۔ ایک قسم کا مہرہ۔

الضَّبْحَاجُ: گوند جو کھلایا جاتا ہے۔ ہر اس درخت کا پھل جو پرندوں یا درندوں کو بطور زہر کے دیا جائے۔

الضَّبْحُوجُ: مِنَ النُّوقِ: دودھ دہتے وقت چلانے والی اونٹنی۔

الضَّبْحَاجُ: بہت شور بچانے والا۔

ضَبَّحَ (س) ضَبْحًا وَضَبَّحًا: مِنْهُ: تنگ دل ہونا۔ بے قرار ہونا۔ زج ہو جانا۔

صفت ضَبَّحٌ۔

أَضْبَحَهُ: اَضْبَحًا: زج کر دینا۔ بے قرار کر دینا۔ تنگ دل کر دینا۔

الضَّبْحُ: غم کی وجہ سے تنگ دل۔ بے قراری۔

الضَّبْحُ: تنگ مکان۔

<p>ضاحکہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسا۔ ہنسی میں غالب آنا۔ أَضْحَكُهُ، ہنسانا۔ أَضْحَكَ الحَوْضُ: لبریز کر دینا۔ تَضَحَّكَ و تَضَاحَكَ و اسْتَضَحَّكَ. ہنسا۔ و تَضَاحَكَ الرَّجُلُ: تکلف ہنسا۔ تَضَاحَكَ القَوْمُ: ایک دوسرے کو ہنسانا۔ الضَّحْكَ، من سفید دانت۔ گلی۔ جھاگ۔ برف۔ درمیان راستہ۔ تعجب۔ شہد یا شہد مع موم کے۔ گھوڑ کا گھونڈ غلاف سے نکلا ہوا۔</p>	<p>الضَّاحِجَةُ، مؤنث ضاحج، نھر کا دھانا۔ ٹیلہ۔ نج ضَوَاجِع (والضَّجَعَاء) زیادہ بکریاں۔ الضَّجُوعُ و المَضْجُوعُ، کمزور رائے والا۔ الضَّجُوعُ: مشک جو لے جانے والے کو جھکا دے۔ کشادہ ڈول۔ پانی کی زیادتی سے آہستہ آہستہ چلنے والا بادل۔ الضَّجِيعُ، ساتھ لپٹنے والا۔ مؤنث ضَجِيعَةٌ. المَضْجِعُ، خواب گاہ۔ نج مَضْاجِعُ المَضْطَجِعُ، خواب گاہ۔ مَضْاجِعُ الغَيْثِ: بارش کی جگہ۔</p>	<p>الضَّجْرَةُ، بے قراری۔ تک دی۔ الضَّجُورُ و الضَّجْرَةُ، بہت بے قرار۔ بہت تک دی۔ المَضْجِرُ، بے قرار کرنے والا۔ تک دیل کرنے والا۔ نج مَضْاجِرُ و مَضَاجِرُ. ضَجِعَ (ف) ضَجَعًا و ضَجُوعًا و انضَجَعَ و اضْطَجَعَ، پہلو کے بل لیٹنا۔ ضَجِعَ النَّجْمُ: ستارہ کا ڈوبنے کی طرف مائل ہونا۔ أَضْجَعُهُ، پہلو کے بل لیٹانا الشَّيْءُ: پست کرنا الحَرْفُ: حرف کا کہہ کی طرف اٹال کرنا جَوَّالِقَةُ: بھری ہوئی گون کو خالی کر دینا۔</p>
<p>الضَّاحِكُ، فا، ہنسنے والا۔ پہاڑ میں نہایت سفید چمکتا ہوا پتھر۔ کہا جاتا ہے "لَهُ رَأْيٌ ضَّاحِكٌ" یعنی ظاہر ہے جس میں کوئی التباس نہیں۔ الضَّاحِكَةُ، مؤنث ضاحک۔ دانت جو ہنستے ہوئے ظاہر ہو جائیں۔ نج ضَوَاحِكُ، کہا جاتا ہے "اِفْتَرَّ عَنْ ضَوَاحِكِهِ" اس نے ہنسنے میں دانتوں کو ظاہر کیا۔ الضَّحْكَةُ و الضَّحُوكَةُ و الضَّحَاكُ و الضَّحُوكُ و المَضْحَاكُ، بہت زیادہ ہنسنے والا۔ الضَّحُوكُ و الضَّحَاكُ: درمیان راستہ۔ الضَّحُوكُ کی جمع ضَحَاكُ الضَّحُوكَةُ، جس آدمی پر لوگ ہنسیں۔ الضَّحُوكَةُ، جو لوگوں پر ہنسنے۔ الأَضْحُوكَةُ، وہ چیز جس پر ہنسی آئے۔ نج ضَاحِكُ.</p>	<p>ضَجَمَ (س) ضَجَمًا الفَمُ أو العُنُقُ: مُنْذُ یا گردن کا ٹیڑھا ہونا۔ جس کا ٹیڑھا ہو جائے اس کو اُتْحَمَ اور مؤنث کو ضَجَمَاءُ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "فِي فَمِهِ ضَجَمٌ" یعنی اس کے مُنْذُ میں جلی ہے۔ تَضَاجَمَ الفَمُ: مُنْذُ کا ٹیڑھا ہونا۔ الأمرُ بَيْنَهُمْ: مختلف فیہ ہونا۔ الضَّحْجُ، آفتاب کی روشنی۔ جس پر آفتاب کی روشنی پڑے۔</p>	<p>ضَجَعَتِ الشَّمْسُ: غروب کیلئے مائل ہونا (و تَضَجَعَ) فِي الأَمْرِ: کوتاہی کرنا۔ ضَاجِعَةٌ، ساتھ لیٹنا۔ صفت مَضْاجِعُ، کہا جاتا ہے "ضَاجِعَةُ الهَمِّ" یعنی اس کو غم لازم ہے۔ تَضَاجَعَ عَنِ الأَمْرِ: غفلت کرنا۔ الضَّجِعُ، من ہر وہ چیز جس سے کیزاد ہو گیا جائے۔ صابون۔ الضَّجَعَةُ، صابون کا ایک ٹکڑا۔ ایک بار کا سونا۔ رائے کی کمزوری۔ آرام۔ راحت۔ الضَّجِعُ، جھاڈو۔ کہا جاتا ہے "ضَجَعُهُ إِلَيَّ" یعنی اس کا میلان میری طرف ہے۔ الضَّجَعَةُ، پہلو پر لیٹنے کی ہیئت۔ کالی۔ الضَّجَعَةُ، رائے کی کمزوری (و الضَّجَعَةُ و الضَّجَعِيُّ و الضَّجِيعِيُّ و الضَّجِيعَةُ و الضَّجِيعَةُ) بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کابل۔ الضَّاجِعُ، فا۔ لیٹنے والا۔ کابل۔ وادی کا موڑ۔ وادی کا ڈھلوان۔ بیوقوف من الذُّوَابُ، بے برکت جانور من النُّجُومُ: نج غائب ہونے کی طرف مائل ستارہ۔ نج ضَوَاجِعُ رَجُلٌ ضَاجِعٌ بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کابل۔ کہا جاتا ہے "أَرَاكَ ضَاجِعًا إِلَيَّ" یعنی میں تم کو اس کی طرف مائل دیکھتا ہوں۔</p>
<p>ضَحَلُ (ف) كضَحَلَا، العَدِيرُ: تالاب کا پانی کم ہونا الماءُ: پانی کا پلایا ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَضْحَلُ خَيْرِكُ" یعنی کس چیز نے تمہاری خیر و برکت کو کم کر دیا۔ الضَّحَلُ، پلایا پانی۔ نج ضَحَالٌ و اَضْحَالٌ و ضَحُولٌ، وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔ ضَحَا يَضْحُو ضَحْوًا و ضَحْوًا و ضَحِيًا الرَّجُلُ: دھوپ کھانا الشَّيْءُ: دھوپ کا لگنا للطَّرِيقِ، ظاہر ہونا۔ کہا جاتا</p>	<p>ضَحِكَ (س) ضَحْكًا و ضَحْكًا و ضَحِكًا و ضَحِكًا، ہنسا۔ کہا جاتا ہے "ضَحِكُ مُنْذُ و بِهِ و عَلَيْهِ" اس نے کشادہ روٹی کی اس طرح پر کہ دانت ظاہر ہو گئے۔ القِرْدُ: بندر کا آواز کرنا السَّحَابُ: بادل کا چمکتا الطَّرِيقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضَحَكَتِ الأَرْضُ عَنِ النَّبَاتِ: آگنا لشیب براسہ: بڑھاپا ظاہر ہونا طَلْعُ النَّخْلَةِ: درخت خرما کا گھونڈ نکلتا (ضحكًا) الرَّجُلُ: تعجب کرنا۔</p>	<p>ضَجَعَتِ الشَّمْسُ: غروب کیلئے مائل ہونا (و تَضَجَعَ) فِي الأَمْرِ: کوتاہی کرنا۔ ضَاجِعَةٌ، ساتھ لیٹنا۔ صفت مَضْاجِعُ، کہا جاتا ہے "ضَاجِعَةُ الهَمِّ" یعنی اس کو غم لازم ہے۔ تَضَاجَعَ عَنِ الأَمْرِ: غفلت کرنا۔ الضَّجِعُ، من ہر وہ چیز جس سے کیزاد ہو گیا جائے۔ صابون۔ الضَّجَعَةُ، صابون کا ایک ٹکڑا۔ ایک بار کا سونا۔ رائے کی کمزوری۔ آرام۔ راحت۔ الضَّجِعُ، جھاڈو۔ کہا جاتا ہے "ضَجَعُهُ إِلَيَّ" یعنی اس کا میلان میری طرف ہے۔ الضَّجَعَةُ، پہلو پر لیٹنے کی ہیئت۔ کالی۔ الضَّجَعَةُ، رائے کی کمزوری (و الضَّجَعَةُ و الضَّجَعِيُّ و الضَّجِيعِيُّ و الضَّجِيعَةُ و الضَّجِيعَةُ) بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کابل۔ الضَّاجِعُ، فا۔ لیٹنے والا۔ کابل۔ وادی کا موڑ۔ وادی کا ڈھلوان۔ بیوقوف من الذُّوَابُ، بے برکت جانور من النُّجُومُ: نج غائب ہونے کی طرف مائل ستارہ۔ نج ضَوَاجِعُ رَجُلٌ ضَاجِعٌ بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کابل۔ کہا جاتا ہے "أَرَاكَ ضَاجِعًا إِلَيَّ" یعنی میں تم کو اس کی طرف مائل دیکھتا ہوں۔</p>

ہے "صَحَاظَلَّةٌ" یعنی سر گیا اور یہ لہجے کے قول "شَجْرَةٌ صَاحِيَّةٌ" (غیر سایہ دار درخت) سے ماخوذ ہے۔

صَحِي يَضْحِي ضَحًا وَصَحَاءً وَهَوِپ كَلَنَ وَهَوِپ كَهَانَ كَل جَانَا وَصَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ يَبِي بَادِل كَا هَوِپَا.

صَحِي تَضْحِيَةٌ فَلَانَا: چاشت کے وقت کھانا کھانا بِالنَّشَاةِ: بقر عید کے زمانہ میں چاشت کے وقت زَن كَرْنَا يَامَطْلَقًا ذَن كَرْنَا: اَلْعَنَمُ: چاشت کے وقت چرانا الرَّجُلُ: فردی ہو جانا عَنِ الْأُمُورِ: دیر کرنا۔ جلدی نہ کرنا۔ اَلْيَهُ: بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔

صَاحِي مَضَاحَاةً. الرَّجُلُ: چاشت کے وقت آتا۔

اضْحِي. چاشت کے وقت میں داخل ہونا۔ اَضْحِي يَقْعَلُ كَذَا: چاشت کے وقت ایسا کرتا تھا یا مطلقاً ایسا کرتا تھا (یہ) کہہ ان جیسے جملوں میں کان جیسا مغل کرتا ہے) الشُّي: ظاہر کرنا۔ عَنِ الْأُمُورِ: دور رہنا۔ کہا جاتا ہے "اضْحِي اللَّهُ ظَلُّكَ"

یعنی اللہ تیرے سامنے کو دور کر دے۔ مُرَاد يَبِي كَر تَجِي يَلَاك كَر دے۔

تَضْحِي تَضْحِيًا. چاشت کے وقت کھانا۔ چاشت کے وقت تک سونا۔ دھوپ کھانا۔ اَسْتَضْحِي اِسْتَضْحَاءً لِلشَّمْسِ: موسم

سرا میں دھوپ کھانا۔ الضَّحَاءُ: چاشت کا وقت۔ الضَّحْوَا الضَّحْوَةَ: چاشت کا وقت۔

الضَّحِي. چاشت۔ اَقْرَابُ: بیان۔ کہا جاتا ہے "مَا لِكَلَامِهِ ضَحِي" یعنی اس کے کلام کے لیے بیان نہیں۔

الضَّحِيَانُ: چاشت کے وقت کھانے والا۔ مَوْنُ الضَّحِيَانَةِ:

الضَّحِيَّةُ: دن کا □ بند ہونا۔ قربانی کی بکری۔ ذَبِيحَةٌ: چ ضَحَايَا.

الاضْحَاةُ: قربانی۔ ج اَضْحِي. الاَضْحِيَّةُ: الاَضْحِيَّةُ: قربانی۔ ج

اَضْحَانِي. يَوْمُ الاَضْحِي. قربانی کا دن۔ الاَضْحِي مِنَ الغَيْبِ: سفید سیاہی مائل گھوڑا۔ مَوْنُ ضَحِيَاءُ.

الضَّاحِي. فَا. دھوپ کھانے والا۔ ضَاحِي الْجِلْدُ: جسم کا کھلا ہوا حصہ۔

الضَّاحِيَّةُ: مَوْنُ ضَاحِي. ہر شے کا کھلا ہوا حصہ۔ ج ضَوَاحٍ. ضَوَاحِي البَلْدَةِ: اطراف شہر۔ ضَوَاحِي الحَوْضِ: حوض کے اطراف۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ ضَاحِيَةً" یعنی اعلانیہ کیا۔ شَجْرَةٌ ضَاحِيَةٌ الظِّلُّ: بے سایہ درخت۔

يَوْمُ اَضْحِيَانُ: بے بادل کا دن۔ لَيْلَةٌ اَضْحِيَانَةٌ وَاضْحِيَةٌ: چاندنی رات۔ اَرْضٌ مَضْحَاةٌ: سورج کے سامنے کی

زمین یا جس سے سورج غائب نہ ہو۔ ضَح (ن) ضَحًا. المَاءُ: پانی گرتا۔ ضَحَّتِ العَيْنُ: آنسو بہانا۔ اِنضَخَ المَاءُ: مگرنا۔

المِضْحَةُ: پچکاری۔ ضَحْر (ف) ضَحْرًا عَيْنَهُ: آنکھ نکال لینا۔

ضَحْم (ك) ضَحَامَةٌ وَضَحْمًا. مَوْنَا ہونا۔ مَفْتُ ضَحْمٌ: ج ضَحَامٌ مَوْنُ ضَحْمَةٍ: ج ضَحْمَاتُ.

ضَحْمَهُ: مَوْنَا بَانَا. الضَّحَامُ: ہر شے کا بڑا۔ الاَضْحَمُ: مَوْنَا زیادہ مَوْنَا.

المِضْحَمُ: بہت مارنے والا۔ سردار۔ عالی مرتبت۔

ضَدَّ (ن) ضَدًّا فَلَانَا فِي الخُصُومَةِ: جھگڑے میں غالب آتا۔ نَدَّهُ عَنْ كَذَا: نرمی سے ہٹانا۔ بَار كُنَا القُرْبَةَ: مٹک کو بھر دینا۔

ضَادَةٌ مُضَادَةٌ: مخالفت کرنا۔ اَضْدَهُ: غصبناک ہونا۔ ضد کرنا۔ تَضَاكَ اِتِّضَادًا: ایک دوسرے کی مخالفت

کرنا۔

الضَّادُ: مخالفت۔ مثل و نظیر۔ دشمن۔ ج اَضْدَادٌ وَضَدًّا. اَلْاَضْدَادُ: ایسے کلمات جو معانی متضادہ پر دلالت کریں جیسے یہی لفظ ضد کہ اس کے معنی مخالف اور ظہیر دونوں کے ہیں۔ الضَّيْدُ: ضد۔ نظیر۔ کہا جاتا ہے "لَا ضَيْدُ لَهْ" یعنی اس کا کوئی مثل نہیں۔ ضَيْدِي يَضْدِي ضَيْدِي: عَلَيْهِ غَضْبَانُ: ج ہونا۔ مَفْتُ ضَادٌ مَوْنُ ضَادِيَّةٌ: ج ضَوَادٌ وَضَادِيَاتُ.

ضَادَةٌ مُضَادَةٌ: مخالفت کرنا۔ اَضْدَايُ اِضْدَاءً. اَلْاِنَاءُ: برتن کو بھر دینا۔

ضَرَّ (ن) ضَرًّا وَضَرًّا. فَلَانَا وَ لُقْلَانُ: نَقْصَانُ دِينَا ه اَلْيَ كَذَا: مجبور کرنا۔ ضَرَّ: بَصْرَةً: اندھا ہونا۔ ضَارَةٌ ضَرَارًا وَ مُضَارَةٌ: نقصان دینا۔ مخالفت کرنا۔ تَكْلِيْفُ پَنِيَانَا: ضَارَ اِمْرَاةً: اپنی بیوی پر سوکن لانا۔ ضَرَّةٌ تَضْرِبُ: بہت زیادہ نقصان دینا۔ اَضْرَةً: تَكْلِيْفُ پَنِيَانَا ه عَلَيَّ الْأُمُورِ: مجبور کرنا۔ اَضْرَبَهُ: بہت قریب ہونا اَلْيَهُ وَ عَلَيْهِ: جلدی کرنا۔ اَضْحَرُ بَعْدُو: کچھ تیز دوڑنا عَلَيَّ السَّيْرِ الشَّدِيدِ: تیز چلنے میں صبر کرنا الرَّجُلُ: سوکن کر کے لانا۔ اندھا ہونا۔ تَضَرَّرَ: نقصان پہنچانا۔ اِضْطَرَّةً: اِلَيَّ كَذَا: محتاج کرنا۔ مجبور کرنا۔ اَضْطَرَّ: مجبور کیا جانا۔ اِسْتَضَرَّ: بہ: نقصان پہنچانا۔ الضَّرُّ وَالضَّرُّ وَالضَّرُّ: نقصان۔ تَحْجِي: سختی بد حال۔ ج اَضْرَارُ: اور عوام کے استعمال میں ضَرَّہ چوٹی چوٹی کے معنی میں ہے مگر صحیح لفظ (ذ) ہے۔ الضَّرُّ وَالضَّرُّ: سوکن کر کے لانا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ضَرَّ اَضْرَارًا" یعنی مصیبتوں

میں ایک مصیبت ہے۔

الضراء: سختی۔ قحط۔ جانی و مالی نقصان۔

الضرة: جانی و مالی نقصان۔

الضرة حاجت۔ تکلیف۔ تکلیف۔

پستان کی جز۔ پستان۔ تھن۔ مال کثیر۔

ضرة المرأة: سوکن۔ ج ضرائر۔ کہا جاتا

ہے "بیتھم ذاء الضرائر" یعنی ان کے

درمیان خد ہے۔ الضرتان: چکی کے

دونوں پاٹ۔

الضار: نقصان پہنچانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ

کے ایہم حسی میں سے ہے۔

الضوررة والضارورة والضارورة

والضارورة: حاجت۔ الضارورة بمعنی

ضرر۔

الضاررة: اندھا ہونا۔ جانی و مالی نقصان۔

الضریر: اندھا۔ لاغر مریض۔ نقصان

زور۔ ج اصراء و اضراء مؤنث ضریرة۔

ج ضرائر۔

الضریر: غیرت۔ مخالفت۔ صبر۔ وادی

کا کنارہ۔ نفس۔ یقینہ جسم۔ صابر۔ کہا جاتا

ہے "انہ ضریر و ذو ضریر علی

الشیء" یعنی جب کہ صابر ہو "ناقة ذات

ضریر" یعنی دیر میں تھکنے والی۔

الضورری: جس پر انسان کو مجبور کیا

جائے۔ جس میں اختیار مسلوب ہو اور

منطقیوں کی اصطلاح میں معنی بدیہی۔

التضرة والتضرة: بد حالی۔

المضرة: نقصان۔ ج مضار۔

ضراً (ف) ضرباً الشیء: مخفی ہونا۔

چھپانا۔

انضرات انضراء: الابل: اونٹوں میں

موت کا واقع ہونا الشجرة: درخت کا

خشک ہونا۔

ضرب (ض) ضرباً الشیء: متحرک

ہونا العرق: رگ کا پھوسنا الجرح او

الضریس: زخم یا داڑھ میں درد ہونا

العقرب: چھو کا ٹیک مارنا اللیل: رات

طویل ہونا الزمان: عجزنا الطیر: پرندہ کا

خوراک کی تلاش میں جانا۔ مارنا البرذ:

سردی لگنا۔ ضرب الخیمة: خیمہ قائم

کرنا۔ ضربت العنکبوت نسیبجھا:

تکڑی کا جالانا۔ ضرب الاجل: مدت

مقرر کرنا المثل: مثال بیان کرنا الدرهم:

درہم پر ٹھہر لگانا الخاتم: انگوٹھی ڈھانا

الصلاة: نماز قائم کرنا الشیء بالشیء: ملانا

الحاسب کذا فی کذا: ضرب دینا

الجزیة علیہم: جزیہ مقرر کرنا علیہم

الذلة: ذلت کو لازم کر دینا سہما من

مالہ: مال سے حصہ مقرر کرنا علی یدہ:

روک دینا القاصی علی یدہ: قاضی کا کسی

کو تعریف سے منع کر دینا۔ ضرب بنفسہ

الارض: اقامت کرنا۔ سفر کرنا فی الماء:

تیرنا بیٹھنا: فساد کر دینا فلانا عن فلان:

روک دینا۔ منع کر دینا بیدہ: اشارہ کرنا

عن فلان کذا: روک لینا الذہر بیننا:

چھرا کر دینا بالقдах: تیروں کو گھمایا علی

اذنہ: سننے سے منع کرنا علی المكتوب:

مہر لگانا فی البوق: بگل بھانا الیہ: مائل

ہونا۔ کہا جاتا ہے "ضربت عنہ صفحا"

یعنی میں نے اعراس کیا اور اس کو چھوڑ دیا

"ضربت عنہ جروتی" میں نے اس

سے بے رغبتی کی اور اس سے باز رہا و

"ضرب بدقیہ الارض" یعنی بڑی کی اور

خوف کیا و "ضرب فی الارض ضرباً و

ضرباناً" تجارت یا غزوہ کے لیے سفر

کرنا۔

ضرب (س) ضرباً النبات: نباتات کا

سردی یا ہوا سے مرجھا جانا۔

ضرب الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضربہ: بہت مارنا الشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو سینا ضربت عنہ: آنکھوں کا

دھس جانا۔ ضرب بیٹھنا: بھڑکا دینا فی

الارض: زمین پر کھراڑنا۔

ضرباً: ضرباً بالشیء بالشیء: بلانا

المظلة بالخیوط: چھتری کو دھاگے سے

مضبوط کرنا النجاء المضربة: روزی کا

رضائی کو

واحدة یعنی میرا مال جو تمہارے ذمہ ہے اس کو ایک ہی دفعہ لوں گا۔ آفت۔ فساد۔ الضربان۔ میں ضربان الذہن زمانے کے حوادث۔

الضروب والضرب مارنے والا۔

الضرب زیادہ مارنے والا۔

الضارب۔ فایہ پت جگہ جس میں درخت ہوں۔ وادی کے مشابہ۔ تاریک رات جس کی تاریکی محیط ہو۔ ج ضوارب۔ الطیر الضوارب۔ خوارک تلاش کرنے والے پرندے۔

الضرب مارنے والا۔ ج ضرباء پنا ہوا۔ ج ضربی قسم۔ مثل۔ شکل۔ حصہ۔ آدمی کی ہیئت۔ برف پالا۔ ج ضرائب۔

الضربية۔ طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے ”هذه ضربته التي ضرب عليها“ یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جہاں مار واقع ہو۔ جزیه من السيف: دھار من الصوف و نحوه: اون یا روئی کی پوئی۔ ج ضرائب۔

المضرب مارنے کی جگہ یا وقت۔ اصل (والمضرب) تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مضارب۔

المضرب والمضارب مارنے کا اوزار۔ زخم۔ بہت مارنے والا۔ المضرب: بڑا خیر۔ ج مضارب۔

المضرب والمضربة من الحيات: غیر متحرک سانپ۔

مضربة السيف ومضربته: تلوار کی دھار۔

بساط مضرب: سلا ہوا پتھونا۔

المضربة: دلائی۔ رضائی۔

ضرح (ن) ضربا۔ الشئ: پھاڑنا الثوب بالدم: خون میں تھیرنا الشئ إلى الأرض: ڈالنا۔

ضرحه: تھیرنا ضرح الثوب: سرخ

رنگنا جو گلابی سے کچھ زائد ہو الانف بالدم: خون آلود کر دینا الكلام: آراستہ کرنا الابل: لوٹ میں دوڑانا۔

ضرح وأضرح: الجيب: انکانا۔

تضرح: پھٹنا الزهر: پھول کا کھلنا الشئ:

لت پت ہونا الخد: رخسارہ کا سرخ ہونا المرأة: عورت کا بناؤ سنگھار کرنا۔

انضرح: پھٹنا لنا الطريق: کشادہ ہونا ما بین القوم: دوری ہونا۔

انضرح العقاب: شکار پر لوٹ پڑنا۔

الضرب: ہلکا سرخ رنگ ہوا۔ عدو الضرب: تیز دوڑ۔

الاضرب: زرد رنگ کی چادر۔ سرخ ریشم سرخ رنگ۔ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

المضرح: پرانا مستعمل کپڑا۔ ج مضارج المضارج: مشتقیں۔

عين مضروجة: بڑی خوبصورت آنکھ۔ الضرجع: چیتا۔ ج ضراجع۔

ضرح (ف) ضرحا۔ الشئ: پھاڑنا۔ علیہ کرنا۔ دفع کرنا۔ کہا جاتا ہے ”ضرح شهادة فلان عنی“ یعنی فلاں کی شہادت کو رد کر دیا۔

”ضرحت عنی الثوب“ میں نے کپڑے کو اتار دیا۔ القبر: قبر کھودنا۔ ضرح للميت: میت کیلئے صندوق قبر بنانا۔

ضرحت (ن) ضروحا و ضرحا۔ السوق: کساد بازاری ہونا ضرحا و ضرحا۔ الذابة برجلها: دولتی مارنا۔

ضارحة: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تیر مارنا۔ قریب ہونا اور مقابل ہونا۔

أضرحه: فاسد کرنا۔ دور کرنا۔ أضرح السوق: کساد بازاری کرنا۔

انضرح: الشئ: پھٹنا ما بین القوم۔ دوری ہو جانا۔ تعلقات کا ختم ہو جانا۔

اضطرح: الشئ: ڈال دینا۔ پھینک دینا۔ الضراح: چوتھے آسمان میں بیت المعمور۔

الضرح: کھال۔ دوری۔ وحشت۔ الضرح: خراب آدمی۔ نية ضرح: دور دراز کا ارادہ۔

الضروح من الذواب: دولتی مارنے والا جانور۔ فوس ضروح: زور سے پھینکنے والی کمان۔

الضريح: دور۔ قبر۔ ج ضرائح۔

المضرح والمضرحی: شکر۔ بے ڈینے کا گدھ۔ المضرحی: فیاض سردار۔ سفید چیز۔

ضرس (ض) ضرسا۔ الشئ: ڈاڑھ سے سخت کانٹا۔ کہا جاتا ہے ”ضرسه الذهر“ یعنی زمانہ نے اس پر مصیبت ڈالی۔

”ضرسه الخطوب“ حوادث نے اس کو کچل دیا۔ ضرس البئر: پتھروں سے کنوئیں کا من بنانا الرجل: رات تک خاموش رہنا۔

ضرس (س) ضرسا۔ الأسنان: دانت کھٹے ہونا۔ ضرسه الزمان: زمانہ کا سخت ہونا۔ ضرسه الحروب او الأيام: تجربہ کار کر دینا۔

أضرس: الحامض الأسنان: ترشی کا دانتوں کو کھلا کر دینا۔ رنجیدہ کرنا۔ بالكلام: خاموش کر دینا۔

ضارسه: لڑائی کرنا۔ دشمنی کرنا۔ ضارس الأمور: تجربہ کرنا اور پچھانا۔

تضارس الفداء: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔

البناء: نامہوار ہونا۔ الضرس: ڈاڑھ کے دانت۔ ج أضراس۔

الضرس: ٹیلہ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ پتھر جس سے کنوئیں کا من بنایا گیا ہو۔ ملکی بارش۔ ج ضروس۔

الضرس: سخت مزاج۔ بھوک کی وجہ سے غضبناک۔ تجربہ کار۔ مسافر۔ جنگجو۔

الضروس: من النوق: وہ اونٹنی جو

الضرع. تهن. ج ضرّوع
الضرع. مثل. رتی کی لک. ج
ضرّوع.

الضرع. سر. کزور. بڑی۔ کہا جاتا ہے
”زجل ضرع و قوم ضرع“
الضراع. لاغر۔ کزور۔ چھوٹا۔
الضراع والضریعة. من الشاء
والبقر. بڑے تهن والی۔

الضروع. بڑے تهن والی۔ عاجز و ذلیل۔
الاضرع. لاغر۔ کزور۔ چھوٹا۔

المضراع. مشابہ۔ افعال میں سے ایک
فعل ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا
ہے اور ماضی کے صیغے پر حرف (التین)

میں سے ایک حرف بولھانے سے بنتا ہے۔

علم عروض کی ایک بحر کا نام

ضرعم و تضرعم. شیر جیسا کام کرنا۔

شیر کے مشابہ ہونا۔

الضرعم. شیر۔ ج ضراعم.

الضرعام والضرعامة. شیر۔ بہادر م

قوی۔

الضرف. عند العامة. گھی تیل وغیرہ
کے لیے چڑے کا برتن اور صواب کفر
ہے اور اس کے مرادف زق ہے۔

الضرفة. کثرت۔

ضرفطه. بالحبل. رتی سے باندھنا۔

مضبوط کرنا۔

ضرك (ك) ضراكة. بیوقوف ہونا۔

الضريك. احق۔ اندھا۔ لجا۔ بدحال۔

فقیر۔ مذکر گدھ۔ ج ضرائك و

ضركاء.

الضراك. موٹا آدمی۔ مضبوط و توانا

آدمی۔ شیر۔

ضرم (س) ضرمًا. بھوک یا غصہ سے

بھڑکنا۔ ضرمت النار. آگ کا مشتعل ہونا

علیہ. غصہ سے بھڑک اٹھنا فی الطعام.

کھانے کو بالکل صاف کر دینا اور کچھ نہ

چھوڑنا۔

أضراط وانت الأعلى. مثال ہے قوی
کے لیے جو باوجود قدرت کے کمزور سے
دبتا ہو۔

الضراط والضریط. گوز۔

ضرع (ن) ضرعًا. من الشئ. قریب

ہونا الشمس. آفتاب کا غروب ہونا یا

غروب ہونے کے قریب ہونا۔

ضرع (ن) ضرعًا. فرسہ. سدھانا۔

ضرع (ف) ضراعة و ضرع (س)

ضرعًا و ضرع (ک) ضراعة. کزور

ہونا۔ الیہ: فروتنی کرنا۔ صفت ضراع و

ضرع. ج ضارعون و ضروع و

ضراعة.

ضرع من فلان. چپکے چپکے قریب آنا۔

ضرعت الشمس. غروب ہونا یا غروب

ہونے کے قریب ہونا القدر. ہانڈی کا پکنے

کے قریب ہونا. ضرع الرب. شیرہ کا

اچھی طرح نہ پکنا۔

ضراعة. مشابہ ہونا. ضارعت

الشمس. آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا

القدر. ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔

أضرعت الشاة. بکری کے تهن کا ظاہر

ہونا یا بڑا ہونا۔ صفت ضرعاء و ضروع

وضریع وضریعة. بچے کی پیدائش سے

پہلے بکری کا دودھ اترنا۔ أضرع الرجل.

ذلیل کرنا لفلان مالاً کسی کے لیے مال

خرچ کرنا الحمی فلاناً. کمزور کر دینا۔

مثال ہے الحمی أضرع عنتی للثوم اس

شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو حاجت

کے وقت زلت برداشت کرے۔ أضرعتہ

الحاجة الی فلان. مجبور کر دینا۔

تضرع. ذلیل ہونا۔ چپکے چپکے قریب آنا

الی اللہ. عاجزی سے دعا کرنا الظل. سائے

کا سنا۔

تضارعا. ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔

استضرع. لہ. انکساری □ کرنا ذلیل

ہونا۔

دوبنے والے کو کاٹ کھائے۔ حرب
ضروس. سخت جنگ۔

الضریس. پتھر کا من بنا ہوا کٹوں۔

ریڑھ کی بڑی۔ بہت بھوکا۔ ج ضرابی

المضرس. مصیبت زد۔ من الوشی. وہ

کپڑا جس پر دانت کی طرح نقش و نگار ہے

ہوں۔ کہا جاتا ہے ”فی الباقوة

تضریس“ یا قوت میں ناہواری۔ ج

تضاریس. تضاریس الارض. زمین میں

دانت کے مانند نگلی ہوئی بلندی۔

الضرضم. شیر۔ زرد نرے۔

ضراط (ض) ضراطاً و ضریطاً و ضراطاً

و ضریطاً. گوز کرنا۔

ضراط (س) ضراطاً. ہلکی ڈاڑھی اور

باریک ابرو والا ہونا۔ صفت اضراط.

ضراط و اضراط. الجمار. بہت گوز

کرنا۔ ضراط و اضراط الجمار. گدھے

سے اتنا کام لینا کہ گوز نکل پڑے۔ ”ضراط

و اضراط بفلان“ مھنے کے طور پر گوز کی

آواز مڑے نکالنا۔

مضراط الحجارة. حیرة کے بادشاہ عمرو

بن ہند کا لقب۔

الضراط والضروط والضروط. گوز

کرنے والا۔ زیادہ گوز کرنے والا۔

الضریط. موٹا۔ کہا جاتا ہے ”کیش

ضریط و نعة ضریطة“ مثلاً عرب

میں سے ہے ”الاخذ سریط والقضاء

سریط یا الاخذ سریطی والقضاء

سریطی یا الاخذ سریطی والقضاء

سریطی یا الاخذ سریطاء والقضاء

سریطاً“ یعنی قرض کو لے کر نکل لیتا ہے

اور ادا کرنے میں گوز کرتا ہے۔

أودى العیز الاضراطاً. مثال ہے اس

شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ذلیل و

خوار ہو گیا ہو اور سب کچھ ضائع ہو گیا ہو

اور جو باقی رہا ہو اس سے کچھ نفع حاصل نہ

ہو۔

و ضَعْفَةٌ و ضَعْفِيٌّ مؤنث ضَعِيفَةٌ الضَعِيفُ مِنَ الْكَلَامِ وَرَجَاءُ فَصَاحَتِ سَے گرا ہوا کلام۔

الْمُضَاعَفَةُ مِنَ الدُّرُوعِ: اِیْسِ زَرِّهِ جِسِّ كَے طَلْقَ ذَہِرَے ذَہِرَے ہوں۔

أَرْضٌ مُضَعَّفَةٌ: زَمِینِ جِسِّ پَرِ بَلْکِی بَارَشِ ہوئی ہو۔

ضَعْلٌ (س) ضَعْلًا: مَالِ بَآپِ كَے قَرِیبِ اَلنَّسَبِ ہونے سے بچے کا ڈیلا ہونا۔

ضَعَا يَضَعُو ضَعْوًا: پُوشِیدَہ ہونا۔

أَضَعُ: الْقَوْمُ: سَرِ سَبْزِ بَاغِ مِیں ہونا۔ فَرَاخِ

ذَسْتِ كِی زَنْدِگی بَسْرُ كَرْنَا: أَضَعْتُ

وَإِضْطَفْتُ الْأَرْضَ: سَبْزَہ زَارِ ہونا۔

الضَّعِيفُ: تَرَوْتَازِگی۔

الضَّعِيفَةُ: سَرِ سَبْزِ بَاغِ۔ فَرَاخِ ذَسْتِ كِی

زَنْدِگی۔ پَیْلا خَیْر۔ لُوكُوں كِی مَخْطَلِ جَمَاعَتِ۔

ضَعَبٌ (ف) ضَعْبًا: بَھِیڑِیے یَا خَرِگُوشِ

كِی طَرَحِ آوازِ كَرْنَا۔ گَھبرِ اَدِیْنَا۔

الضَّعِيبُ وَالضَّعَابُ: خَرِگُوشِ

بَھِیڑِیے كِی آوازِ۔

الضَّعْبُوسُ: لُوكُزِی كَا بَچَّہ۔ كَزُورِ مَرُودِ۔

كَلْزِی كَھِیرَا: بَلِیوں كِی مَآئِدِ اِیْكِ سَبْزِی۔ جِ

ضَعَابِیْسِ:

ضَعَّتْ (ف) ضَعْفًا: الْحَدِيثُ: مَلَاہَا۔

كَپڑے كُودھونا اور صَاف نہ كَرْنَا الشَّيْءُ: جَمْعِ

كَرْنَا۔

أَضَعْتُ: الْحَالِمُ الرُّؤْيَا: خَوَابِ كُوشِكِ

سَے بَیَانِ كَرْنَا۔

ضَعَّتْ: النَّبَاتُ: سَبْزِی كَا مَٹھَا بَٹَا۔

إِضْطَعْتُ: الْحَطَبُ: كَلْزِی كُوشِ كَا كَٹھَا كَرْنَا۔

الضَّعْفُ: تَرَوْتُوشِكِ گَھاسِ كَا مَٹھَا۔

مِنِ الْخَبْرِ وَالْأَمْرِ: مَخْلُوطِ تَابِیْسِ جِنِّ كِی

كُوشِ حَقِیْقَتِ نہ ہو۔ جِ أَضْعَافُ: أَضْعَافُ

أَحْلَامِ: گُزْبُودِ خَوَابِ جِنِّ كِی كُوشِ تَغْیِیرِ نہ

دِی جَا سَكے۔

كَلَامُ ضَعْفٌ وَضَعْفٌ: اِیْكِی كَٹھَنُوكُو جِسِّ

مِیں كُوشِ خَبْرِ نہ ہو۔

التَّضْعِيفُ بَارَشِ سَے تَرَزْمِیْنِ اِنَابَاتِ۔

ضَعْفُهُ (ف) ضَعْفًا وَأَضْعَفُهُ: بَھِیڑِیَا۔

بَھِیڑِ كَرْنَا۔ تَخَلَّی كَرْنَا۔

ضَاعَفُهُ: حَاطَا و مُضَاعَفَةٌ: اِیْكِ

دُوسرے كُوشِ بَھِیڑِیَا۔ تَخَلَّی كَرْنَا۔

تَضَاعَطُوا: تَخَلَّی كَرْنَا۔

انْضَعَطَ: مَقْلُوبِ ہونا۔

اِضْطَعَطَ: عَلَیْہِ: تَاوَانِ وَغَیْرَہِ مِیں تَخَلَّی

كَرْنَا۔ اور قِیَاسِ كَے مَطَابِقِ اِضْطَفَطَ ہے۔

الضَّعْفَةُ: تَخَلَّی۔ كَہَا جَاتَا ہے "أَخَذْتُ

فَلَانًا ضَعْفَةً" جِیكہ تَم تَخَلَّی كَرْنَا تَاكہ كَہِی

شے پَرِ مَجْبُورِ كَرُو۔ شَدْتِ۔ مَشَقَّتِ۔

الضَّعْفَةُ: قَبْرِ۔ تَخَلَّی۔ مَجْبُورِی۔ ضَعْفَةُ

الْقَبْرِ: فِثَارِ قَبْرِ۔

الضَّاعِطُ: فَا۔ گَھبَانِ۔ اِمَانَتِ دَارِ۔

الضَّاعُطُ: كَا بَوسِ (اِیْكِ قِسمِ كِی بَیْمَارِی)

الضَّعِيفُ: كَزُورِ رَاے وَاللَا۔ جِ ضَعْفِيٌّ

مُؤنثِ ضَعِيفَةٌ۔

الْمُضْفَطُ: ہَوَا' فِضَا اور مَوسَمِ كُوشِ مَعْلُومِ

كَرْنِے كَا آلِ۔

الْمُضْعَطُ: پَسْتِ زَمِیْنِ۔ جِ مَضَاعِطُ۔

ضَعَمٌ (ف) ضَعْمًا: الشَّيْءُ وَ بَہ:

بَھِیڑِیوڑَا۔ كَہَا جَاتَا ہے "ضَعَمَهُ ضَعْمَةً

الْأَسَدُ" اس نے اسے شِیرِ كِی طَرَحِ بَھِیڑِیوڑِ

لِیَا۔

الضَّعَامَةُ: دَانُوں سَے كَاٹِ كَرِ بَھِیڑِی كِی ہوئی

چِیرِ۔

الضَّعِيمُ: شِیرِ۔ كَاٹے وَاللَا۔ جِ ضِیَاعِمُ۔

الضَّعِيمِيُّ: شِیرِ۔

ضَعِنٌ (س) ضَعْنًا: عَلَیْہِ: كَیْنِہِ رُكْمَا اِلَیْہِ:

مَآلِ ہونا۔

إِضْطَفَنَهُ: بَغْلِ كَے نِیچے لِیْنَا۔

إِضْطَفَنَ وَ تَضَاعَنَ: الْقَوْمُ: اِیْكِ

دُوسرے سَے كَیْنِہِ رُكْمَا۔ كَہَا جَاتَا ہے

"أِضْطَفَنَ فَلَانٌ عَلَیْ فَلَانٍ ضَعِيفَتَهُ"

اِیْعِنِ كَیْنِہِ كُوشِ پُوشِیدَہ رُكْمَا۔

الضَّعْفُ: كَیْنِہِ۔ شَوْقِ۔ مِیْلَانِ۔ كَہِی۔

بَغْلِ۔ جَانِبِ۔ پَہَاڑِ كَا پَہلو۔ جِ أَضْعَانُ:

الصَّاعِنُ وَالضَّعِيفُ: كَیْنِہِ وَر۔ قَرُوسُ

ضَاعِنٌ وَ ضَعِيفٌ: اَنْزِیلِ گَھوڑَا جُوشِ بَغِیرِ مَارَسَ

ہوئے نہ چلے۔ عُوذُ ضَعِيفٌ: نِیڑِی كَہِی۔

الضَّعِيفَةُ: كَیْنِہِ۔ جِ ضَعَائِنُ:

ضَعَا يَضَعُو ضَعْوًا: الْمَقَامَرُ: خِیَانَتِ

كَرْنَا اِلَیْہِ: عَآجِزِی كَرْنَا (ضَعْوًا وَضَعَاءً)

السَّنُورُ: بَلِی كَا مِیَاؤں مِیَاؤں كَرْنَا۔

أَضْعَاهُ أَضْعَاءً: مِیَاؤں مِیَاؤں كَرْنِے پَرِ

بِرَاھِیْتِ كَرْنَا۔

تَضَاعَى: بَھُوكِ یَا مَارَسَ بَلِیْلَانِ۔

الضَّعَاءُ: سَرِ ذَبِیلِ آدَمِ كِی آوازِ۔

ضَفٌّ (ن) ضَفًّا وَ ضَفْفًا: الْقَوْمُ عَلَی

الْمَاءِ اَوْ الطَّعَامِ: بَھِیڑِ كَرْنَا (ضَفًّا)

الشَّيْءُ: جَمْعِ كَرْنَا۔

تَضَافٌ: الْقَوْمُ: بَھِیڑِ كَرْنَا۔ كَمِ مَالِ وَاللَا

ہونا۔

ضَفُّ الْحَالِ: بَدْحَالِ۔

الضَّفَّةُ: جَمَاعَتِ۔

الضَّفَّةُ وَالضَّفَّةُ: دَرِیَا كَا كَنَارَہِ۔

مِنِ الْبَحْرِ: سَمْدَرُ كَا سَاحِلِ۔ جِ ضَفَافٌ:

الضَّفَفُ: مَالِ كِی قَلْتِ اور اِیلِ و عِیَالِ كِی

كَثْرَتِ۔ حَآجَتِ۔ كَزُورِی۔ جِلْدِ بَآزِی۔

الضَّفَافَةُ: بے عَقْلِ۔

عَیْنِ ضَفُوفٌ: بَہْتِ پَانِیِ وَاللَا چِشْمِ۔

مَاءٌ مَضْفُوفٌ: جِسِّ پَانِیِ پَرِ بَھِیڑِ زَیَادَہ ہوں۔

ضَفْدَةٌ (ض) ضَفْدًا: طَہَاچِہِ مَارَا۔

ضَفْدَعُ الْمَاءِ: پَانِیِ كَا مِیْنْدُوكُوں وَاللَا ہونا

الرَّجُلُ: سَكْرَا۔ گُوزِ كَرْنَا۔

الضَّفْدَعُ: مِیْنْدُوكِ۔ جِ ضَفْدَاعٌ وَ

ضَفْدَاةٌ اور یہ كَمِ مُسْتَعْمَلِ ہے۔ وَاحِدِ

ضَفْدَعَةٌ۔

ضَفْرٌ (ض) ضَفْرًا وَ ضَفْرًا: الْحَبْلُ:

رَسْتِ بَیْنَا الشَّعْرِ: بَالِ وَنَدھِنَا۔ ضَفْرٌ

الْبِنَاءُ: عِمَارَتِ۔ پَیْجُروں سَے بَغِیرِ چُونے

گَارے كَے بَٹَا۔

الرَّجُلُ: دُورُنے مِیں كُودْنَا الذَّآبَةَ: جَانُورِ

ضَلَّلَهُ تَضَلُّلاً وَتَضَلُّلاً. گمراہ کر دینا۔

گمراہی کی طرف نسبت کرنا۔

أَضَلَّ الشَّيْءُ ضَالِحٌ كَرِهًا. ہلاک کرنا۔

دفع کرنا۔ غائب کرنا۔ اللہ کا کسی کو

گمراہ کر دینا فَلَانَ فَرَسَهُ: گھوڑے کا بھاگ

جانا اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں گیا الشَّيْءُ

او الرَّجُلُ: گمراہ پانا اور اسی سے ہے "اتنی

قَوْمَهُ فَاضَلَّاهُمْ" یعنی اپنی قوم کے پاس آیا

□ تو ان کو گمراہ پایا۔

تَضَلَّ: گمراہی کا دعویٰ کرنا۔

اسْتَضَلَّ: گمراہ ہونے کو کہنا۔

الضَّلُّ وَالضَّلُّ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ.

گمراہی۔ باطل۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

ضَلُّ نَبِّ ضَلُّ او ضَلُّ نَبِّ ضَلُّ او ضَلُّ

أَضَلَّ او ضَلُّ أَضَلَّ" یعنی وہ گمراہی

میں منہمک ہے یا اس کے باپ کا پتہ نہیں

یا اس کے اندر خیر نہیں۔

الضَّلُّ: گمراہی۔ پانی جو پتھروں کے نیچے

بے یاد رختوں کے نیچے جس کو بھی دھوپ

نہ لگے۔

الضَّلَّةُ: اسم مرءة۔ حیرت۔ خیر یا شر کے

طلب کرنے میں غائب ہونا۔

الضَّلَّةُ: گمراہی۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دَمُهُ

ضَلَّةً" یعنی اس کا خون بلا قصاص کے ضائع

ہو گیا۔ "ذَهَبَ ضَلَّةً" یعنی معلوم نہیں

کہاں گیا۔ "هُوَ نَبِّعَ ضَلَّةً" یعنی وہ مصیبت

ہے "هُوَ يَلْمُضِي ضَلَّةً" یعنی ملامت

رُغْنَةً میں اسے ہدایت کی توثیق نہیں

ہوئی۔

الضَّلَّةُ: کامل رہنمائی۔ کہا جاتا ہے "ذَلِيلٌ

بِهَ ضَلَّةً" یعنی ایسا رہنما ہے جس کے اندر

کامل رہنمائی ہے۔

الضَّلَّةُ: مؤنث ضَالٌّ۔ گم شدہ چیز جس

کے پیچھے تم پھر رہے ہو۔ جِ ضَوَالٌّ۔

الضَّلِيلُ: بہت زیادہ گمراہ۔

الضَّلُولَةُ: گمراہی۔ جِ اَضَالِيلُ

الضَّلُّ: جس میں لوگ گمراہ ہو جائیں۔

الضَّفَاطُ وَالضَّفَطُ وَالضَّفِيطُ. موٹا

ڈھیلا۔ بڑے پیٹ والا۔ بیوقوف۔ کمال جو

قوم کا ساتھ جگک وغیرہ میں نہ دے۔ شتر

بان۔

الضَّفَاطُ: کمینہ آدمی۔

الضَّفَطُ: موٹا ڈھیلا۔ بڑے پیٹ والا۔

ضَفَنَ (ض) ضَفْنَا: اللہ کسی کے پاس جا

کر بیٹھنا بِحَاجَتِهِ: حاجت پوری کر دینا۔

بِرَجُلِهِ: لات مارنا مَعَ الضَّعِيفِ: ساتھ

آنا بِه الْأَرْضِ: زمین پر چلک دینا فَلَانًا:

چوڑے تر لات مارنا عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔

تَضَافَنَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: مل کر مدد کرنا۔

الضَّفَنُ وَالضَّفِينُ: بیوقوف۔ چھوٹے قد کا

موٹا۔

ضَفًّا يَضْفُو ضَفْوًا: الرَّاسُ: سر پر بال

بہت زیادہ ہونا الْحَوْضُ: حوض کا کناروں

سے بہنا الثَّوْبُ: کپڑے کا پورا ہونا۔ صفت

ضَافٍ.

الضَّفَا: جانب۔ مثنی ضَفْوَانٌ.

ضَفْوَةٌ: العَيْشُ: خوش عیشی۔

ضَقَّ (ض) ضَقًّا: آواز کرنا۔

ضَكَّةٌ (ن) ضَكًّا.

بِجَمْعِ الْأَمْرِ فَلَانًا: تنگ ہونا هُ بِالْحُجَّةِ:

مغلوب کرنا۔

ضَكْرَةٌ (ن) ضَكْرًا: زور سے چھوٹا۔

الضَّكَلُ: تمھوڑا پانی۔

الضَّيْكَلُ: بڑے ڈیل ڈول کا۔ ننگا۔ فقیر۔

جِ ضَيَاكِلٌ وَضَيَاكِلَةٌ.

الضَّيْكَلُ: ننگا۔

ضَلَّ (س ض) ضَلَالًا وَضَلَالَةً: گمراہ

ہونا۔ دین حق یا راہ حق سے ہٹ جانا۔

صفت ضَالٌّ: جِ ضَلَالٌ وَضَالُّونٌ

الطَّرِيقُ او غَنَةً: ہدایت نہ پانا الشَّيْءُ غَنَةً:

ضائع ہونا بیکار جانا۔ ضَلَّ سَعْيُهُ: کامیاب

نہ ہونا الشَّيْءُ: تلف ہونا الرَّجُلُ: مرنا اور

گل سڑ کر مٹی اور ہڈی ہو جانا الرَّجُلُ:

بھول جانا۔

کے منہ میں لگام دینا۔

ضَافِرَةٌ: غلی الامر: مدد کرنا۔

تَضَافَرُوا: غلی الامر: ایک دوسرے کی

مدد کرنا۔

انضَافِرُ: گندھا ہوا ہونا۔ بنا ہوا ہونا۔ کہا

جاتا ہے "انضَافِرُ الْحَبْلَانِ" یعنی دونوں

رسیاں گندھ گئیں۔

الضَّفَرُ: سب کجاوہ کا تنگ۔ گندھے ہونے

بالوں کی ایک پٹی۔ ریت کا بڑا تودہ جو ایک

جگہ جمع ہو گیا ہو۔ جِ ضَفُورٌ وَاضْفَارٌ:

الضَّفَارُ: کجاوہ کا تنگ۔ جِ ضَفْرٌ.

الضَّفِيرَةُ: ریت کا بڑا تودہ جو ایک جگہ جمع

ہو گیا ہو۔ كِنَانَةٌ ضَفِيرَةٌ: بھرا ہوا ترش۔

الضَّفِيرُ: گندھے ہونے۔ بالوں کی رستی۔

سندر کا کنارہ۔ کجاوہ کا تنگ۔

الضَّفِيرَةُ: گندھے ہونے۔ بالوں کی ایک

پٹی۔ چوٹی۔ جِ ضَفَائِرُ: کہا جاتا ہے

"كِنَانَةٌ ضَفِيرَةٌ" یعنی بھرا ہوا ترش۔

ضَفْرٌ (ن) ضَفْرًا: کودنا فَلَانًا: دفع کرنا۔

ہاتھ یا پیر سے مارنا الْفَرَسُ: گھوڑے کے

منہ میں لگام دینا الْعَبِيرُ: اونٹ کے منہ میں

زبردستی لقمہ دینا۔

إِضْطَفَرَهُ: زبردستی لگانا۔

الضَّفَارُ: چغل خور۔

الضَّفِيرَةُ: بڑا لقمہ۔ جِ ضَفَائِرُ.

ضَفْفِضَةٌ: الْقَوْمُ: جماعت۔ قوم۔

ضَفَطَةٌ (ن) ضَفَطَةً: بِالْحَبْلِ: رستی سے

باندھنا الرَّجُلُ: حاجت پوری کرنا

بِسَلْحِهِ: پانخانہ کرنا۔

ضَفَطٌ (ك) ضَفَاطَةً: ڈھیلے اور بڑے

پیٹ کا ہونا۔ جال اور کمزور رائے کا ہونا۔

تَضَافَطُ: الدَّحْمُ: گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔

الضَّفِطَةُ: جہالت۔ کمزوری رائے۔

الضَّافِطُ: فا۔ مسافر جس کا سفر دور کا نہ

ہو۔

الضَّافِطَةُ: مؤنث ضَافِطٌ: بار برداری کا

اونٹ۔ کمینہ آدمی۔ شتر بان۔

المُضَلَّ فَا- سراب۔

المَضَلَّةُ والمَضَلَّةُ گمراہی۔ اَرْضُ مَضَلَّةٌ و مَضَلَّةٌ زمین جس میں راستہ بھول جائیں اور جمع کیلئے کہا جاتا ہے۔

”أَرْضُونَ مَضَلَّاتٍ“

المُضَلَّلُ بہت زیادہ گمراہ۔ گمراہی کے پیچھے بہت زیادہ پڑنے والا جس کو خیر کی توقع نہ دی گئی ہو۔

ضَلَعُ (ک) ضَلَاعَةٌ قوی مضبوط پسیلیوں والا ہونا۔ مَفْتُ ضَلِيعٌ۔

ضَلَعُ (ف) ضَلَعًا الشَّيْءُ ٹیڑھا ہو جانا۔ مَفْتُ ضَالِعُ الرَّجُلِ پہلی پر نارنا علیہ ظلم کرنا۔

ضَلَعُ (س) ضَلَعًا و ضَلَعًا پیدائشی ٹیڑھا ہونا۔ مَفْتُ ضَلَعٌ اور اسی سے ہے ”لَا فِيمَنْ ضَلَعَكَ او ضَلَعَكَ“ یعنی میں تیری تکی کو درست کر دوں گا۔ ضَلِيعٌ مَعَ فَلَانٍ جَمَلًا الرَّجُلُ شکم سیر یا سیراب ہونا۔

ضَلَعُهُ جھکانا۔ ٹیڑھا کرنا۔ بوجھل کرنا۔ ضَلَعُ الثَّوْبِ کپڑے پر پسیلیوں کے مانند نقش و نگار بنانا۔ اَضَلَعُهُ جھکانا بوجھل کرنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ اَضَلَعْتَهُ الخُطُوبُ“ یعنی فلاں کو حادث نے بوجھل کر دیا۔

تَضَلَعٌ شکم سیر یا سیراب ہونا اور اسی سے ہے ”تَضَلَعُ مِنَ العُلُومِ“ یعنی اس نے علوم سے حصہ کامل پایا۔

اِضْطَلَعُ قوی ہونا بَحْمَلِهِ بوجھ لے کر کھڑا ہونا اور اس کی طاقت رکھنا۔

الضَّلَعُ میلان و ٹیڑھا پن۔ کہا جاتا ہے ”ضَلَعُكَ مَعَ فَلَانٍ“ تمہارا میلان فلاں کی جانب ہے۔

الضَّلَعُ وَالضَّلَعُ پہلی (مؤنث) اَضْلَعُ و ضَلُوعٌ و اَضْلَاعٌ کہا جاتا ہے ”هَمَّ عَلَى ضَلْعٍ جَانِبًا“ یعنی وہ سب میرے لوہہ ظلم کرنے میں مصروف ہیں۔ الضَّلْعُ

وَالضَّلَعُ مِنَ البَطْنِ خربوزے کی قاش بھاک۔ ضَلْعُ السَّلْقِ و نَحْوُهُ پتھر کے پتھوں کی موٹی رگ۔ الضَّلْعُ چھوٹا پہاڑ۔ پتھر۔ جال آبرو۔

الضَّلَعَةُ جانب۔

الضَّلَعَةُ ایک سبز رنگ کی چھوٹی مچھل۔

الاضْلَعُ مضبوط موٹا مرد۔ ج ضَلْعٌ

الضَّلُوعُ زمین کا ڈھلوان۔

الضَّلِيعُ مضبوط پسیلیوں والا۔ قوی۔ ج ضَلِيعٌ

مَفْتُ ضَلِيعَةٌ رَجُلٌ ضَلِيعُ القَمِّ

بڑے منہ والا۔ قُوسٌ ضَلِيعٌ و ضَلِيعَةٌ و مَضْلُوعَةٌ کمان جس کی لکڑی میں جھکاؤ ہو۔

المُضْلَعُ مِنَ الاحْتِمَالِ بوجھل۔ عاجز کر دینے والا۔ کہا جاتا ہے ”مُضْلِعٌ بِهَذَا الامر“ اسے اس کام کی طاقت ہے۔

المُضْلَعُ پہلوؤں والا مِنَ الشَّيْبِ دھاری دار کپڑا۔

المُضْلَعُ او ذُو لاضْلَاعِ (ہ)

خط منکر اور اس کے قطعات کو اضلاع اور اطراف اضلاع کو روس بولتے ہیں۔

المُضْلَعُ المنتظم: وہ خط جس کے اضلاع برابر ہوں اسی کو محب اور محبب بولتے ہیں۔

المُضْلَعُ الرباعي: چار اضلاع والا۔

المُضْلَعُ الخماسي: پانچ اضلاع والا

المُضْلَعُ السداسي: چھ اضلاع والا

ضَمَّ (ن) ضَمًّا الشَّيْءُ جمع کرنا الشَّيْءُ اَلَيْهَ قبضہ کرنا اور اپنی طرف کھینچنا علی الشَّيْءِ قبضہ کرنا فَلَانًا اَلَيْهَ ساتھ رکھنا۔

ضَمَّهُ اِلَى صَدْرِهِ موانعہ کرنا الحَرْفِ حرف کو ضمہ کی حرکت دینا کہا جاتا ہے

”ضَمَّ جَنَاحَهُ عَنِ النَّاسِ“ یعنی اس نے لوگوں سے تزی برتی۔

ضَامَةٌ اَلَيْهَ ملانا۔

اَضَمَّهُ الشَّيْءُ اِلَى فَلَانٍ فلاں کی طرف چڑھ جانا۔

انضَمَّ لَنَا عَلَي كَذَا: مشتمل ہونا۔

تَضَمَّ الشَّيْءُ پوری طرح سے شامل ہونا۔

اَضْطَمَّ اِلَيْهِ طَرَفٌ ملانا۔ اَضْطَمَّ عَلَيْهِ مشتمل ہونا۔

الضَّمُّ وَالضَّمَّةُ پیش کی حرکت۔

الضَّمَّةُ گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی جماعت۔

الضَّمَامُ ملانے کا ذریعہ۔

الضَّمُومُ دو بے ٹیلوں کے درمیان کی واوی۔

الضَّمِيمُ ساتھی۔ مؤنث ضَمِيمَةٌ

الاضْمَامَةُ جماعت۔ ج اَضْمَامِيْمٌ مِنَ الكُتُبِ کتابوں کا بٹل۔

المُنْضَمُّ عَلَي كَذَا: مشتمل ملا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”اَضْمَحَ مُنْضَمًا“ یعنی لاغر ہو گیا گویا کہ بعض بعض کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

ضَمَّجَ (ن) ضَمَّجًا و ضَمَّجَ جَسَدَهُ: خوشبو لگانا۔

ضَمَّجَ و اَضَمَّجَ بِالْاَرْضِ: زمین سے چمٹ جانا۔

الضَّمَّجَةُ ایک بدبودار کیزا جو کاٹا ہے۔ کھٹل۔

الضَّمَّجُ آفت جو انسان کو لاحق ہو۔

اَضْمَحَلَّ نِيسَتٌ و نَابِرٌ ہونا السَّحَابِ بادل کا کھل جانا۔

ضَمَّجَ (ن) ضَمَّجًا و ضَمَّجَ جَسَدَهُ بِالطَّبِيبِ: بدن میں خوشبو لگانا۔

تَضَمَّجَ و اِنضَمَّجَ و اَضْمَحَجَ بِالطَّبِيبِ: خوشبو سے لت پت ہونا۔

الضَّمَّجَةُ موٹی عورت یا اونٹنی۔

ضَمَدَ (ن ض) ضَمَدًا و ضَمَدًا

الجُوحِ: زخم پر مٹی باندھنا۔ کہا جاتا ہے

”اَضْمَدَ عَلَيكَ قِيَابَكَ“ یعنی اپنے کپڑے کو اپنے اوپر باندھو۔ ضَمِدَةٌ بِالْعَصَا“ اس نے اُس کے سر پر لاٹھی ماری اور ایسا ہی

”ضَمَدَ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ“

ضَمَّنَ الشَّيْءَ الْوَعَاءَ: برتن میں رکھنا
 الشَّيْءَ ذِمَّةً دَارِ بِنَاوِيحَ الشَّاعِرِ: شاعر کا
 تضمین کرنا۔ یعنی دوسرے کے شعر کو اپنے
 کلام میں شامل کر لینا۔
 تَضَمَّنَ الشَّيْءُ مِثْلَ شَيْءٍ عَنَى: اس نے میری طرف سے اپنے ذمہ لے
 لیا۔
 الضَّمْنُ وَالضُّمْنَةُ وَالضُّمَانُ
 وَالضُّمَانَةُ: ہمیشہ کا رہنے والا مرض۔ لہذا
 ہیں۔

الضَّمْنُ: اندرون شئی۔ ضَمْنُ الْكِتَابِ:
 کتاب کا بیچ۔ الضَّمْنُ: عاشق۔ پرانے
 مرض والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمْنٌ عَلَيَّ
 أَهْلِي" یعنی وہ اپنے لوگوں پر بوجھ ہے۔
 الضَّامِنُ: ضامن۔ کفیل۔ ذمہ دار۔
 الضَّمِينُ: کفیل۔ مرض لازم میں مبتلا۔
 جِ ضَمِينِي

الضَّمَانُ: کفالت۔ تاوان۔ ڈنڈہ۔
 الْمَضْمُونُ: جس کی کفالت کی
 جائے۔

مِنَ الْجُمْلَةِ: مفہوم جو جملہ سے سمجھ میں
 آئے اور جملہ اس کے لیے بیان نہ کیا گیا
 ہو۔ جِ مَضَامِينُ.
 الْمَضْمُونُ: مفہم۔ تضمین کیا ہوا
 مِنَ الْأَصْوَاتِ: غیر مکمل آواز جب تک
 دوسرے سے ملایا نہ جائے سمجھ میں نہ
 آئے۔

ضَمَّنَ (س ض) ضَمَّنًا وَضَمَّنًا وَضَمْنَةً وَ
 ضَمَانَةً وَضَمْنَةً وَضَمْنًا بِالشَّيْءِ: بخل
 کرنا۔ ضَمَّنَ بِالْمَكَانِ: مکان سے جدا نہ
 ہونا۔

الضَّمْنُ وَالضُّمْنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔
 خاص۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمْنِي وَضَمْنِي"
 وہ میرے ساتھ شخص ہے۔

الضَّمْنُ: بہار۔
 الضَّمِينُ: بخل۔ کہا جاتا ہے "أَنَا يَضُنُّ
 بِالضَّمِينِ" یعنی بخل کے ساتھ بخل کیا

الضَّمْرُ: چھری۔ ذَمَلًا: پتلے پیٹ والا۔
 تَزَكُ بَدَنًا: مؤنث ضمرة۔ تنگ۔ راز
 (المضمز) پوشیدہ۔
 الضَّمْرُ وَالضُّمْرُ: ذمہ ہیں۔

الضَّمِيرُ: راز۔ پوشیدہ خیال۔ پڑھو
 اَكْوَرُ: ضمیر نحووں کے نزدیک وہ کلمہ ہے
 جو متکلم مخاطب اور غائب پر دلالت کرے
 جیسے أَنَا، أَنْتَ، هُوَ جِ ضَمَائِرُ.

الضَّمَارُ: پوشیدہ۔ نالا ہوا وعدہ۔ ہر وہ چیز
 جس پر اجماع نہ ہو۔ مال جس کی واپسی کی
 امید نہ ہو۔ مِنَ الدِّينِ: جس کی مدت معین
 نہ ہو۔

الإضمار: س۔ زحافات شعر یہ کی ایک
 قسم ا تشریح ضمیر فعل کے تحت میں
 دیکھو۔

الضُّمُورَانُ وَالضُّمَيْرَانُ: ایک قسم کی
 خوشبودار گھاس۔

المضمار: گھوڑ دوڑ کے میدان کی اجہا۔
 وہ میدان جہاں گھوڑے چھریے کئے
 جائیں۔ گھوڑوں کے چھریے کرنے کی
 مدت۔ میدان گھوڑ دوڑ۔

ضَمَزَمَ (ن ض) ضَمَزَمًا: چپ رہنا
 اللقمة: بڑا لقمہ بنانا اور نگل جانا علی
 ماله: بخل کرنا۔ صفت ضامز و ضَمُورُ.
 جِ ضَمُورُ.

ضَمَسَ (ض) ضَمَسًا: آہستہ آہستہ
 چبانا۔

ضَمَّضِمَ ضَمَّضِمَةً: دل کو قوی کرنا۔
 بہار بنانا۔ الاسد: شیر کا گونجا فلان علی
 المال: بخل لے لینا۔
 الضَّمَّضِمُ وَالضَّمَّاضِمُ: دلیر۔

گرائڈیل۔ شیر غضبانک۔
 ضَمَّنَ (س) ضَمَّنًا وَضَمَانًا الشَّيْءَ وَ
 بِهِ كَفِيلٌ هُوَا ضَامِنٌ هُوَا جِ بَعَجٌ كَرْنَا.

ضَمَّنَ (س) ضَمَّنًا وَضَمَانَةً الرَّجُلُ:
 ایسے مرض میں مبتلا ہونا جو ہمیشہ رہے اور
 وقتاً فوقتاً تخت ہوتا رہے۔ صفت ضَمْنِ.

ضَمَّدَ (س) ضَمَّدًا: تنگ ہونا۔ تخت
 غضبانک ہونا علیہ کینہ کرنا۔
 أَضَمَّدَ الْقَوْمَ: جمع کرنا۔
 تَضَمَّدَ الْجُرْحُ: پٹی بندھ جانا۔

الضَّمْدُ: س۔ تر۔ تنگ۔ عمدہ بکریاں۔
 خراب بکریاں۔ کینہ دہری۔ الضَّمْدُ:
 دوست۔ ساتھی۔
 الضَّمْدُ: علم۔ پرانا حق۔

الضَّمَادُ وَالضَّمَادَةُ: پٹی جس سے عضو
 مجروح کو باندھا جائے کہا جاتا ہے "أَنَا
 عَلَيَّ ضَمَادَةٌ مِنَ الْأَمْرِ" یعنی میں کام
 کے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔

ضَمُورَانُ (ن) وَضَمُورُكَ (ن) ضَمُورًا: ذمہ
 ہونا۔ لاغر ہونا۔ چھریا ہونا۔ صفت ضامز
 مؤنث ضامز و ضامرة جِ ضَمْرُ وَ
 ضَوَامِرُ.

أَضَمَّرَ الْأَمْرَ: پوشیدہ کرنا: یعنی نفسہ
 شینا۔ اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا
 الخبر: تک پہنچنا۔ أَضَمَّرَتِ الْأَرْضُ
 فَلَانًا: زمین نے اس کو موت یا سفر کی وجہ
 سے غائب کر دیا۔ الشَّاعِرُ: شاعر کا اخبار
 برتا اور اِضْمَارُ اصطلاح فن عروض میں
 یہ ہے کہ دوسرے حرف کو ساکن کر دیں۔
 جیسے مُتَفَاعِلُنَ کے دوسرے حرف کو
 ساکن کر دیں تو مُتَفَاعِلُنَ ہو کر مُسْتَفْعِلُنَ
 کے وزن پر ہو جاتا ہے۔

أَضَمَّرَ وَضَمَّرَ الْفَرَسَ: ذمہ کرنا۔
 چھریا بنانا۔
 تَضَمَّرَ وَجْهَهُ: لاغری کی وجہ سے کھال
 سکر جانا۔

انضمم الغضن: پس کا تنگ ہونا۔
 اِضْطَمَّرَ: مل جانا۔ الفرس: گھوڑے کا ذمہ
 ہونا۔ چھریا ہونا۔

الإضمار: علم عروض میں دوسرے حرف
 کو ساکن کرنا۔ جیسے تاتفاعلن اس کو
 استفعلن کی طرف منتقل کر دیا گیا۔

ضَهَبَ اللَّحْمُ: گوشت کو بریاں کرنا
القَوْمُ: نرم کرنے کے لیے آگ کے
سامنے کرنا۔ مَفَتٌ ضَهَبَاءُ ضَهَبَ الْقَوْمُ:
زیادہ ہونا اور تیز چلنا۔

ضَاهِبَةٌ مُضَاهِبَةٌ: براتاؤ کرنا۔ گالی گلوچ
کرنا۔

ضَهَبَ الْقَوْمُ: مخلوق لوگ۔

الضَّهْبُ: پہاڑ کا وہ گرم حصہ جہاں
گوشت کو بھون سکتے ہوں۔

ضَهٌ □ تَلَانٌ: ضَهَبًا: سخت روندنا۔

ضَهْدٌ (ف): ضَهْدًا:

أَضْهَدُهُ وَأَضْهَدُ بِهِ وَأَضْهَدُهُ عَلَيْهِ: کرنا
اور ظلم کرنا۔ تکلیف دینا اور مجبور کرنا۔

الضَّهْدَةُ: غلبہ اور قہر۔ کہا جاتا ہے
ضَهْدَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ لِيَنْ بَرَّهَ وَهُوَ فَخْصٌ جُوَابُهُ:

ہے اسے مجبور کرتا ہے۔

الضَّهْدُ: سخت مضبوط۔

الضَّهْرُ وَالضَّاهِرُ: پہاڑ کی چوٹی۔ وادی۔
الضَّهْرُ: کھجوا۔

ضَهْرَةٌ وَضَهْسَةٌ (ف): ضَهْرًا وَ
ضَهْسًا: سخت روندنا۔ الدَابَّةُ: جانور کا اٹکلے
دانتوں سے کاٹنا۔

ضَهْلٌ (ف): ضَهْلًا وَضَهْلًا: اللِّبْنُ:
تھوڑا تھوڑا جمع ہونا ناقہ و نحوها:

تھوڑی دودھ والی ہونا۔ مَفَتٌ ضَهْوَلُجٌ
ضَهْلٌ ضَهْلُهُ: حَقَّةٌ: حق کم کرنا (و)

تَضَهَّلَ: إِلَى فَلَانٍ: کسی کی جانب بغیر
ارادہ جنگ کے لوٹنا۔

أَضْهَلَ: النَّخْلُ: کجھوڑیں پکنے لگنا الی
فُلَانٌ مَا لَا تَالُ كُو فُلَانٍ كِي طَرْفِ كَرِيَا:

اِسْتَضَهَّلَ: الخَبْرُ: حسب امکان خبر
طلب کرنا۔

الضَّهْلُ: مجمع دودھ۔ تھوڑا پانی۔

الضَّاهِلَةُ: مِنَ الْعُيُونِ: تھوڑے پانی کا
چشمہ۔ الضَّهْوَاءُ: بے پستان عورت۔

الضَّهْوَةُ: جو بڑ۔ ج اَضْهَاءُ:

ضَهِيْتُ تَضَهِي ضَهِي الْمَرْأَةُ: عورت

الضَّنْكُ: جگ۔ مذکر و مؤنث دونوں میں
مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے مَكَانٌ ضَنَّكَ وَ
عَيْشَةٌ ضَنَّكَ:

الضَّنَاكَ: مضبوط جسم والا۔ مذکر و مؤنث
دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ □ ضَنَّكَ وَ امْرَأَةٌ ضَنَّكَ“ بڑا
درخت۔

الضَّنَاكَ وَالضَّنْكَةُ: زکام۔

الضَّنَاكَةُ: جنگ زندگی۔

الضَّنِيكُ: جنگ زندگی۔ صرف خوراک پر
خدمت کرنے والا۔ کئی ہوئی چیز۔

ضَنِيٌّ (س): ضَنِيٌّ (وادی) مرض کی وجہ
سے کمزور و لاغر ہونا۔ صفت ضَنِيٌّ وَ
ضَنٌ: کہا جاتا ہے ”تَرَكْتُهُ ضَنِيٌّ وَ ضَنِيًّا“

ضَنِيٌّ: بفتح النون میں مذکر و مؤنث واحد
جمع سب برابر ہیں اور ضَنٌ بكسر النون

جب بولا جائے گا تو اس کیلئے تشبیہ جمع اور
مؤنث کے صیغے استعمال کئے جائیں گے۔

ضَنِيٌّ: جمع اَضْنَاءُ:

ضَنَانِيٌّ: مَضَانَاةُ الشَّيْءِ اَوِ الْاَمْرِ: مشقت
برداشت کرنا۔

اَضْنِيٌّ: اَضْنَاءُ: المرَضُ: فَلَانًا: بیماری کا
سبب کر دینا الرجلُ: بیماری کی لاغری کی
وجہ سے صاحب فراش ہونا۔

تَضَنَّى: تکلف بیمار ہونا۔ بنا۔

اِنضَنَّى: سبب ہو جانا۔

الضَّنِيٌّ: بیماری۔ لاغری۔ بدحالی۔

الضَّنُو وَالضَّنُو وَالضَّنِيُّ: اولاد۔ کہا جاتا
ہے ”لَهُ ضَّنُوٌ كَثِيرٌ“ اس کی بہت اولاد
ہے۔

الضَّنِيٌّ: مخفی بیماریاں۔

ضَنَّتْ تَضَنَّى وَ ضَنِيَّتْ تَضَنَّى ضَنِيٌّ وَ
ضَنَاءُ الْمَرْأَةِ: کثیر اولاد ہونا۔ ضَنِيٌّ
تَضَيَّبَ فَلَانٌ: صہ کا بڑھنا۔

ضَهَبٌ (ف): ضَهَبًا: بالنار: آگ سے
مختیر کرنا۔

ضَهْلٌ (ف): ضَهْوًا: کمزور ہونا۔

جاتا ہے۔

الضَّنَانِيُّ: وہ چیزیں جن کی نفاست کی وجہ
سے بخل کیا جائے اور اسی سے ہے

”ضَّنَانِيُّ اللّٰهِ“ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے
خاص لوگ۔

الضَّنَانِيُّ: بخل کرنا۔ کہا جاتا ہے
”هَجَمْتُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ بَضْنَانِيَّهُمْ“

میں قوم پر اچانک پہنچ گیا اور وہ لوگ
مترق نہیں ہوئے تھے۔

المَضَنَّةُ وَالْمَضْنَةُ: جس پر بخل کیا
جائے۔ ج مَضَانٌ:

ضَنَاءٌ (ف): ضَنًا وَ ضُنُوءًا: چھپنا فی
الْاَرْضِ: جانا المال: کثیر ہونا (ضَنَانٌ
(ف): ضَنًا وَ ضُنُوءًا وَ ضَيَّفْتُ (س): ضَنًا

وَ اَضْنَاتٌ) الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔
مَفَتٌ ضَنَانِيٌّ □ ضَانِيَةٌ: ج ضَوَانِيٌّ:

اِضْطَنَّا لَهُ وَ مِنْهُ ثَمْرَانٌ اور منقبض ہونا۔
الضَّنُّ: اصل۔ معدن۔ کثرت نسل۔ ج
ضُنُوءٌ:

الضَّنُّ: وَالضَّنُّ: اولاد (اس کیلئے واحد
نہیں)

الضَّنَانَةُ وَالضَّنَانَةُ: ضرورت۔

ضَنَّابٌ (ن): ضَنَّابًا: بِالْاَرْضِ: زمین پر
پلک ہونا۔ ضَنَّابٌ بِالشَّيْءِ: قبضہ کرنا۔

ضَنَّابٌ (س): ضَنَّابًا: الشَّخْمُ: ہونا اور
ٹھوس ہونا۔

اِنضَنَّابٌ: الْقَوْمُ: بھیر کرنا۔

الضَّنُّ: جنگی۔

الضَّنُّ: چرلی۔ نشاط۔ ڈیک۔

الضَّنُّ: کٹوئیں وغیرہ پر بہت زیادہ
بھیر۔

ضَنَّكَ (ك): ضَنَّكَ: سبب رائے۔

ضَنَّكَ: الضَّنُّ: کمزور بدن والا۔ مَفَتٌ
ضَنَّكَ (ك): ضَنَّكَ: وَ ضَنَّكَ وَ
ضَنَّكَ: جگ ہونا۔

ضَنَّكَ: ضَنَّكَ: زکام زدہ ہونا۔

أَضَنَّكَ: اللّٰهُ: زکام میں مبتلا کرنا۔

کا بغیر پستان اور بغیر دودھ کے ہونا۔ صفت
ضہنیاء صُحَّ ضہنی صہیت الأرضین
زمین میں کچھ نہ آگنا اور بغیر پانی کے پھیل
میدان ہونا۔

ضاهی مضاہاة الرجل: مشابہ ہونا۔
الضہی: مشابہ۔ ہم شکل۔ کہا جاتا ہے
”هو ضہیک“ وہ تمہارا ہم شکل ہے۔

ضَاءَ يَضُوُّ ضَوْءًا او ضَوْءًا و ضِيَاءًا
القمر وغيره: روشن ہونا۔ چمکانا۔
ضوء تَضَوُّةً البیت: روشن کرنا۔ عن
الامر: پھر جانا۔

أضَاءَ أضائةً البیت: روشن ہونا۔
البیت: روشن کرنا۔

تَضَوُّوا تاریکی میں کھڑا ہونا تاکہ آگ کی
روشنی میں لوگوں کو دیکھ سکے۔ تَضَوُّوا:
کسی ایسی جگہ مائل ہونا جہاں سے آگ کی
روشنی سے دیکھ سکے۔

استضاء به: روشن ہونا میں فلان: مشورہ
کرنا۔

الضوء والضوء: روشنی۔ ضواء
الضیاء والضواء: روشنی۔

الضوی والمضی: روشن۔ روشن کرنے
والا۔

ضاح يَضُوخُ ضَوْحًا عن كذا:
اعراض کرنا۔ پھر جانا (وانضاج)

الوادئ: کشادہ ہونا۔

تَضَوَّج الوادئ: وادی کا بہت بچ دار
ہونا۔

انضوج في ضوح الوادئ: وادی کے
موتوں میں داخل ہونا۔

الضوج: وادی کا موٹ۔ ضوضاج
الضوجان: سخت خشک۔ مؤنث

ضوجانہ۔

ضَوْج اللب: دودھ میں پانی ملانا۔
ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا: سخت بھوکا ہونا۔

ضارة الأمر: نقصان پہننا۔
تَضَوَّرَ درد کی تکلیف یا بھوک سے بچ

و تاب کھانا الذئب و نحوه: بھوک سے
بلبلانا۔

الضور: سخت بھوک۔
الضور: کالی بدلی۔

الضورة: ذیل اختیار۔
ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا الشمة: پھل کو چبانا

ه حقه: کم کر دینا۔
ضَوْضِي ضَوْضَاءٌ و ضِيضَاءٌ شور

مچانا۔
الضوضي والضوضا والضوضاء: شور

وغوا۔
ضَوَّطَ الأشياء: جمع کرنا۔

تَضَوَّطَ الشيء: جمع ہونا۔
الأضوط: ٹیڑھے جڑے والا۔ بیوقوف۔

الضويطة: بیوقوف۔ حوض کی تہ کی مٹی
کا گیلنا خیر۔

ضاعة يَضُوغُهُ ضَوْغًا: حرکت دینا۔
رجیدہ کرنا۔ بھڑکا دینا۔ گھبرا دینا۔ ضَاع

المسك: مشک کی خوشبو پھیلانا الذائبة:
جاوڑ کو ڈبلا کرنا الصبی: رونے میں بچ

و تاب کھانا۔
تَضَوَّعَ المسك: مشک کی خوشبو

بھڑکانا۔
الصبي: رونے میں بچ و تاب کھانا

(وانضاع) الفرح: پرندہ کے بچے کا چوگر
کے لیے اپنی ماں کی طرف پر پھیلانا۔

الضوع والضوع: نرالو۔ رات کو اُڑنے
والے پرندوں میں سے ایک پرندہ۔

الضواع: نرالو کی آواز۔
رجل مضوع: خوفزدہ۔

ضاف يَضُوفُ ضَوْفًا عن الشيء: لگ
ہونا۔

ضان يَضُونُ ضَوْنَةً: زیادہ اولاد ہونا۔
الضونة: سہ۔ چھوٹی بچی۔

الضيون: بلا۔ ضضوان:
الضوة: شور۔ لڑائی کا شور۔

ضَوْضِي يَضُوِي ضَوْيً: خلقتا یا لاغری

سے تپتی ہڈی کا ہونا۔
ضَوْي يَضُوِي ضَيًّا و ضَوِيًّا اليه: ملنا۔

پناہ لینا الرجل: رات کو آنا۔ ضواء اليه:
مائل کرنا۔

أضوى: ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا الرجل:
کمزور کرنا ه حقه: کم کرنا الامر: کچا کام

کرنا۔ أضوت المرأة: کمزور بچہ جانا۔
أضواء اليه: اپنی طرف مائل کرنا۔

انضوى انضواءً اليه: شامل ہونا۔ ملنا۔
الضواي: فاء رات کو آنے والا۔

الضواي: کمزور ڈبلا۔ خلقتا یا لاغری سے
کمزور رجیم والا۔ مؤنث ضاوية۔

ضاج يَضِيحُ ضِيحًا و ضِيوُجًا و
ضِيحَانًا عَنْهُ و اليه: بھگتا۔ مائل ہونا۔

ضاحت عظامه: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں
کا ہل جانا۔

ضاحت تَضِيحُ ضِيحًا البلاد: خالی
ہونا۔

ضاح و ضيح اللب: پانی ملانا۔ ضيح
فلان: پانی ملا ہوا دودھ پلانا۔

تَضِيحُ اللب: پانی میں دودھ ملنا الرجل:
پانی ملا ہوا دودھ پینا۔

الضح: شہد۔
الضح والضحاح: پانی ملا ہوا دودھ۔

الضححة: پانی ملے ہوئے دودھ کی ایک
مرتبہ پینے کی مقدار۔

ضارة يَضِيرُهُ ضِيْرًا الامر: نقصان
دینا۔

ضارة يَضِيرُهُ ضِيْرًا: ظلم کرنا۔ ضارة
حقه: کم کرنا۔

الضير: ٹیڑھ۔ کچی۔
قِسْمَةٌ ضِيْرِيٌّ ناقص تقسيم ظالمنا

تقسيم۔
ضاط يَضِيطُ ضِيْطًا و ضِيْطَانًا: ہلنے

مشیبہ۔ مونٹے کی وجہ سے چلنے میں جسم
اور مونٹوں کو حرکت دینا۔ صفت


ضاط يَضِيطُ ضِيْطًا و ضِيْطَانًا: ہلنے
مشیبہ۔ مونٹے کی وجہ سے چلنے میں جسم

اور مونٹوں کو حرکت دینا۔ صفت

ضَيْطَانٌ وَضَيْطَاءٌ.
ضَاعٌ يَضِيعُ ضَيْعًا وَضَيْعًا وَضَيْعَةً
وَضَيْعًا. ضَاعَ هَوْنًا تَلَفَ هَوْنًا. بَكَرَ
هَوْنًا مَفْتَضَاعًا نَضِيعًا وَضَيْعًا.
أَضَاعَهُ ضَاعَ كَرَاهًا أَضَاعَ الرَّجُلُ
بِهِتَ جَانِدًا وَلَا هَوْنًا.
تَضَاعَ الْمَسْكُ مَسَكَ كَابْزُ كَرَاهًا مَسَكَ كُو
خَوْشِبُو كَابْزِيَانًا.
الضَّيَاعُ. سِرٌّ أَيْ قَسَمٌ كِي خَوْشِبُو. بَعِ
فَانَدَهُ كَمَا جَاتَا بَعِ "مَاتَ ضَيْعًا وَضَيْعًا
وَضَيْعًا" لِأَنَّ مَرِغِيَا أَوْ كَسِي كُو كَسِي كِي بِرَوَا
نَهَ هَوْنًا.
الضَّيْعَةُ. جَانِدَارٌ. زَمِينٌ سِيرٌ حَاصِلٌ. اس
كِي تَقْيِيرٌ ضَيْعَةً بَعِ أَوْ جَمْعٌ ضَيْعٍ وَ
ضَيْعٍ وَضَيْعَاتٍ. الضَّيْعَةُ: بِشْرٌ. كَمَا
جَاتَا بَعِ "كَانَتْ ضَيْعَةُ الْعَرَبِ سِيَّاسَتَهُ
الْإِبِلِ" عَرَبٌ كَابْشِرٌ أَوْ تَمُونٌ كَابْشِرٌ
تَمًا.
المضْيَاعُ. بِهْتٌ ضَاعَ كَرَاهًا وَلَا.
المضْيَعَةُ وَالمضْيَعَةُ. مَوْضِعٌ هَلَاكَةٌ.
جَاهٌ ضَاعَ هَوْنًا كَرَاهًا بَعِ اسْبَابٌ زِيَادَةٌ هَوْنًا.
كَمَا جَاتَا بَعِ "بَلَدُكُمْ مَضْيَعَةُ الْعِلْمِ"
تَمَارِي شَهْرٌ فِي عِلْمِ كَرَاهًا هَوْنًا بَعِ
اسْبَابٌ بِهْتٌ هَوْنًا.
ضَاعَ يَضِيعُ ضَيْعًا إِلَيْهِ: مَآلٌ هَوْنًا.
بِهِتَ جَانِدًا ضَاعَتِ الشَّمْسُ: آفَاتٌ كَابْزُ
عَرُوبٌ كَرَاهًا بَعِ مَآلٌ هَوْنًا السَّهْمُ عَن
الْهَدَفِ: تَمِيرٌ كَابْشَانَةٌ سَعِ بِهِتَ جَانِدًا الرَّجُلُ
خَوْفٌ كَرَاهًا. بِرَمِيزٌ كَرَاهًا أَوْ زَرَانًا.
ضَاعَهُ يَضِيعُهُ ضَيْعًا وَضَيْعًا. مَهْمَانٌ
هَوْنًا. مَهْمَانِي طَلَبٌ كَرَاهًا. كَمَا جَاتَا بَعِ
عَضَاةً لَهُمْ فَلَانًا" لِأَنَّ فَلَانَ بِرَمِيزٌ نَارِلٌ
هَوْنًا.

ضَيْفَةٌ. مَهْمَانٌ بِنَانًا. مَهْمَانِي كَابْشَانَةٌ
كَرَاهًا. ضَيْفَةُ إِلَيْهِ: جَمْعًا. ضَيْفَ الرَّجُلِ
مَآلٌ هَوْنًا. بِهِتَ جَانِدًا الشَّمْسُ: آفَاتٌ كَابْزُ
عَرُوبٌ كَرَاهًا بَعِ مَآلٌ هَوْنًا.
أَضَاعَ الرَّجُلُ دَوْرَانًا جَلْدِي جَلْدًا. خَوْفٌ
كَرَاهًا الشَّيْءُ إِلَى الشَّيْءِ: جَمْعًا. سَهَارًا دِيَانًا.
مَلَانًا الرَّجُلُ: بِنَانًا دِيَانًا. مَجْرُورٌ كَرَاهًا. بِرَمِيزٌ
رَهْمَانِيهِ: جَمْعًا. فَلَانًا عَلِيًّا فَلَانًا: مَهْمَانٌ
أَتَانَا الْكَلِمَةَ إِلَى الْكَلِمَةِ: أَيْ كِي نِسْبَةٌ
ذَوْرَةً كِي طَرَفٌ طَرِيقَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِرَمِيزٌ.
تَضَيْفُهُ: مَهْمَانٌ هَوْنًا. طَلَبٌ ضِيَاةً كَرَاهًا.
تَضَيْفَ الرَّجُلِ: مَآلٌ هَوْنًا الشَّمْسُ
عَرُوبٌ كَرَاهًا بَعِ مَآلٌ هَوْنًا.
أَضَاعَ إِلَيْهِ: مَلَانًا.
تَضَائِفُ الْوَادِي: تَمَكٌ هَوْنًا.
اسْتَضَاعَهُ: ضِيَاةً طَلَبٌ كَرَاهًا. اسْتَضَاعَ
بِهِ: فَرِيَادٌ كَرَاهًا. هُنَّ فَلَانٌ إِلَى فَلَانٍ: بِنَانَةٌ
لِيَانًا.
الضَّيْفُ. مَهْمَانٌ (وَاحِدٌ وَجَمْعٌ) مَوْثٌ
ضَيْفٌ وَضَيْفَةٌ نَضَائِفٌ وَضَيْفٌ وَ
ضِيَاةً وَضَيْفَانٌ وَأَضَائِفُ.
الضَّيْفُ: طِفْلٌ.
الضَّيْفُ: بِهْتٌ. كَمَا جَاتَا بَعِ "هُوَ فِي
ضَيْفِ فَلَانٍ" وَهَ فَلَانَ كَرَاهًا هَوْنًا بَعِ
الضَّيَاةً: مَهْمَانِي كَابْشَانًا.
المضَائِفُ فِي الْحَرْبِ: جَوْجُ مِيَانٌ
كَمَا هُوَ جَوْجٌ كَرَاهًا بَعِ مَآلٌ هَوْنًا.
المضْيَفُ وَالمضْيَعَةُ: مَهْمَانِي كِي جَمْدٌ.
المضْيَاةُ: بِهْتٌ مَهْمَانِي وَالا مَهْمَانِي.
المضْيَعَةُ وَالمضْيَعَةُ: حَزَنٌ. غَمٌ.
مَضَائِفُ الْوَادِي: وَادِي كَرَاهًا بَعِ مَآلٌ هَوْنًا.
ضَاعَ يَضِيعُ ضَيْعًا وَضَيْعًا. تَمَكٌ هَوْنًا.
مَفْتَضَاعٌ وَضَائِقٌ وَضَيْقُ الرَّجُلِ

بَعِ كَرَاهًا.
ضَيْفُهُ تَضَيْفًا. تَمَكٌ كَرَاهًا. ضَيْقٌ عَلَيْهِ:
تَمَكٌ كِي جَانِدًا.
أَضَاعَ أَضَاعَةً. تَمَكٌ كَرَاهًا. أَضَاعَ
الرَّجُلُ مَتَاعًا هَوْنًا.
تَضَيْقٌ وَتَضَائِقٌ. تَمَكٌ هَوْنًا. وَتَضَائِقُ
الْأَمْرِ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ: تَمَكٌ هَوْنًا. كَمَا جَاتَا بَعِ
"تَضَائِقُ الْقَوْمِ" لِأَنَّ قَوْمَ كَشَادَةِ وَادِي نَهْمَانِي
يَا نَ كَرَاهًا كَشَادَةٌ نَهْمَانِي.
ضَائِقَةٌ مَضَائِقَةٌ. تَمَكٌ كَرَاهًا.
الضَّيْقُ وَالمضْيَقُ: تَمَكٌ. حَزَنٌ غَمٌ جَسَدٌ
سَعِ تَمَكٌ وَادِي هَوْنًا.
الطَّيْقُ وَالمضْيَقُ: تَمَكٌ.
الضَّيْقَةُ وَالمضْيَقَةُ: بِدَحَالِي. مَتَاعِي. نَجْدٌ
ضَيْقٌ وَضَيْقٌ.
الضَّيْقُ: تَمَكٌ. كَمَا جَاتَا بَعِ "فَلَانٌ
ضَائِقٌ صَدْرُهُ بِكَذَا" فَلَانٌ وَجَدَ سَعِ تَمَكٌ
وَادِي هَوْنًا. نَجْدًا حَيْثُ سَعِ سَعِدٌ كِي جَمْعٌ
سَادَةٌ.
الأضْيَقُ: بِهْتٌ. تَمَكٌ. مَوْثٌ ضَيْقِي وَ
ضَيْقِي.
الضَّيْقَةُ: شَهْلِي أَمْرِيَّةٌ مِيَانٌ أَيْ دَرَجَتٌ كَابْزُ
تَمَكٌ جَسَدٌ كَابْشَلٌ كَمَا جَاتَا بَعِ.
المضْيَقُ: تَمَكٌ جَمْدٌ. مَشْطَلٌ كَامٌ. كَمَا جَاتَا بَعِ.
نَجْدًا ضَيْقِي.
ضَامَةٌ يَضِمُّهُ ضَيْمًا. عِلْمٌ كَرَاهًا. مَجْرُورٌ
كَرَاهًا.
ضَامَةٌ وَاسْتَضَامَةٌ. حَقْلَةٌ كَمٌ كَرَاهًا.
الضَّيْمُ: عِلْمٌ. نَجْدًا.
ضَيْمٌ الْجَمَلُ: بِهْتٌ كَرَاهًا.
الضَّامَةُ: حَاجَةٌ. ضَرُورَةٌ.



”هُوَ فِي تِلْكَ الطَّبَّةِ“ یعنی وہ اس گوشہ میں ہے۔

الطَّبَّةُ ج طَبَبٍ الطَّبَّابَةُ ج طَبَّابٌ
زمین اکپڑے کھال یا بدل کا مستطیل ٹھکانا
والطَّبَّابَةُ مِنَ الْخُرْزِ: منگ کے نچلے حصہ
میں دو سوراخوں کے درمیان کا پتڑا۔

الطَّبِيبُ فَن طَبَّابٌ ج طَبَّابٌ
ماہر۔ ج اطِبَّاءُ. مَوْتٌ طَبِيبَةٌ.
المَطْبُوبُ: سحر زدہ جس پر جادو کا اثر ہو۔

طَبَّيْحٌ (س) طَبَّيْحًا الرَّجُلُ: بیوقوف
ہونا۔ صَفْتُ أَطْبَحَ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَعَلَى كُلِّ
أَجْوِفٍ سِرٌّ يَأْتِيهِرُ كَهَوِّ كَلِمَةٍ يَجْرِي بِرَدَائِدِهَا۔

تَطْبِيحٌ: فِي الْكَلَامِ: مَخْلَفٌ رَغْوٍ مِمَّنْ لَقِيَ
كُرَاهًا۔

طَبَّيْحٌ (ف) طَبَّيْحًا وَطَبَّيْحٌ: اللَّحْمُ:
لَا شَيْءَ يَكُونُ طَبَّيْحًا إِلَّا بِحَرَكَةِ
كُرَاهًا بَرَهَانًا۔

أَطْبَحَ: الرَّجُلُ: إِذْ لَقِيَ يَكُونُ
اللَّحْمُ: كَرْمًا يَكُونُ طَبَّيْحًا۔

الطَّبَّيْحُ وَالطَّبَّيْحَةُ: جَوْ كَرْمٍ يَكُونُ
الطَّبَّيْحَةُ: بَانْدِي كَيْ جَمَّاحٍ۔ بَنِي هَوْنِي جَزِيرٌ۔
الطَّبَّيْحَةُ: بَادِرِي جَمَّاحِي كِيرِي۔

الطَّبَّيْحُ: يَكُونُ وَاللَّحْمُ: كَرْمًا يَكُونُ
مِنْ أَوْ اسْتِمَالِ عَوَامٍ مِمَّنْ طَبَّيْحًا كَالطَّبَّيْحِ
پڑھتا ہے اور حسن یہ ہے کہ اس کو منصب کہا
جائے۔

كُنْتُ طَبَّيْبًا وَلَقَدْ طَبَّبْتُ أَوْ طَبَّبْتُ
تَمَّ طَبِيبٌ نَمِيبٌ تَمَّ أَوْ بِنَ كُنْتُ۔

طَبَّ الرَّجُلُ: جَادُوا كَمَا جَانَا۔
طَبَّبَهُ: عَلاَجَ كَرَاهًا۔ طَبَّبَ الْخَيْطُ الْفُؤَابَ:
دِرْزِي كَا كِزْرِي فِي كَشَادِهِ هُوَ كَيْ لِي جَوْرٌ
لَكَانَا۔

الْقَرْبَةُ: مَنَكٌ كَيْ سَوْرَانٍ بِرَبِيْرٍ نَدَلَكَانَا۔
طَبَّ مَطْبَابَةً: الْأَمْرُ: مَرَاوَلَتْ كَرَاهًا
جَانَا بِهِيَ ”أَنَا أَطْبَابٌ هَذَا لِأَمْرٍ مُنْذَجِينِ
نَحْيِ الْبَلْعَةِ“ یعنی میں ایک مدت سے اس امر
کی مشق و مرادلت کر رہا ہوں تاکہ اس کو
حاصل کر لوں۔

تَطَبَّبَ الرَّجُلُ: طَبِيبًا لِفُلَانٍ: عَلاَجَ
كُرَاهًا۔

اسْتَطَبَّه دَوَا جَوْبِرَ كُرَاهًا۔
الطَّبُّ: طَبِيبٌ: حَازِقٌ۔ كَمَا جَانَا بِهِيَ ”هُوَ
طَبُّ يَهْدِي الْأَمْرَ“ یعنی وہ اس امر کا عالم
ہے۔ طَبِيبٌ۔

الطَّبُّ: ارَادَهُ۔ خَوَّاشٌ۔ حَالٌ۔ شَانٌ۔
عَادَتٌ۔ كَمَا جَانَا بِهِيَ ”فُلَانٌ طَبُّهُ الْمَجُونُ“
فُلَانٌ كَيْ عَادَتِ مَذَاقِي كَيْ هِيَ۔

الطَّبُّ وَالطَّبُّ وَالطَّبُّ: جَسَامِيٌّ أَوْ
رَدْوَانِي عَلاَجٌ۔ نَرْمِي۔ جَادُوا۔

الطَّبَّابُ: جَسٌ سِي عَلاَجَ كَمَا جَانَا۔ كَمَا جَانَا
بِهِ ”هَذَا طَبَّابٌ مَرَضِكُ“ یعنی یہ تمہارے
مرض کا علاج ہے۔

الطَّبَّةُ مَوْتٌ۔ طَبُّ الْغُوشَةِ: كَمَا جَانَا بِهِيَ

ط الطَّاءُ: بِنَادِي حُرُوفٍ مِمَّنْ سَوْبُوَانِ
حُرُوفٍ هِيَ۔ حُرُوفٌ نَطِيعَةٌ سِي هِيَ۔ یعنی طَلُو
سے خارج ہونے والا حرف ہے۔ بحساب جمل
اس کا عدد (۹) ہے۔

طَاطًا: الرَّاسُ وَغَيْرُهُ: پَسْتُ كُرَاهًا: كَمَا جَانَا
بِهِ ”طَاطًا رَأْسُهُ عَنْ كَذَا“ یعنی فلاں چیز
سے اس نے اپنے سر کو پست کر لیا۔ فَرَسَةٌ:
كَهَوْرَةٍ كَوَجْهِ دَوْرَانِي كَيْلِي عِيَانِي كِي دَوْنُوِي
رَاوِي مِي اِيْزُ لَكَانَا۔ طَاطَاتُ الْعَمْرَةَ
بِسْتَرَاهَا: عَمْرَتٌ كَا بِرَدْوَةٍ ذَلَّلَا۔ طَاطَا يَدُهُ
بِالْعِيَانِ كَامٌ كُوْضِيْلَا جَمُورَتَا الْخُفْرَةَ: كَرْهِي
كُوْكِبَرٌ: كُرَاهًا۔ فُلَانٌ مِّنْ فُلَانٍ كَمِي كُوْمَرِي
سِي كُرَادِيَا۔ طَاطَا فِي قَطْلِ الْقَوْمِ: قَوْمٌ كَيْ:
قَتْلُ كُرَاهِي مِي مَبَانَدَةِ كُرَاهِي حَقِي بَرْتَانَا۔

تَطَاطَا: پَسْتُ ہونا۔
الطَّاطَا: پَسْتُ زَمِيْنٌ۔ جَمُورَتَا وَنُفُوتُ۔
الطَّاءُ كَجَزْرٍ۔

طَبَّةٌ (ن) طَبَّابٌ: عَلاَجٌ كُرَاهًا۔ طَبَّبْتُ
الرَّجُلَ: جَلْدَ بَازِي نَدَلَا۔ نَرْمِي كُرَاهًا: أَوْ اِيْ
سِي مَثَلٌ هِيَ ”مَنْ أَحَبَّ طَبَّ“ یعنی جو
دوست رکھتا ہے نرْمِي کرتا ہے اور کہا جاتا ہے
”إِضْغَعَةُ صَنْعَةٍ مِّنْ طَبَّ لِمَنْ حَبَّ“ یعنی
معاملہ کرو اس شخص جیسا جو کسی کے ساتھ

مَحَبَّتُ كُرَاهِي سِي نَرْمِي كُرَاهِي حَوْرُ الْقَرْبَةِ
مَنَكٌ مِي بِرَدْوَةٍ لَكَانَا۔ عَامٌ لَوْ كَيْ هِيَ ”طَبُّ
عَلَيَّ وَجْهِي“ یعنی وہ اپنے منہ کے بل اوندھا
ہو گیا اور صواب اَكْبَرٌ ہے اور کہا جاتا ہے ”فَا

الطَّبِيعِ: کچی ہوئی چیز۔ چونہ۔ کچی اینٹ۔ ج
 أَطْبِخَةً۔
 الطَّبِيعِ: پکانے والا۔ سخت بخار۔
 الطَّبِيعَةُ: مؤنث طبایخ۔ دوپہر۔
 الطَّبَاخُ وَالطَّبَاخُ: مضبوطی۔ قوت۔
 مَوْتَايَا: کہا جاتا ہے ”ماضی کلامہ طَبَاخ“
 یعنی کوئی فائدہ نہیں۔
 الإطْبِخُ: بہت زیادہ بیوقوف۔
 المَطْبِخُ: باورچی خانہ۔ ج مطبخ۔
 المَطْبِخُ: پکانے کا اوزار۔ ج مطبخ۔
 المَطْبِخُ وَالْمَطْبِخُ: بلاچ خانہ۔
 طَبْرُ (ن) طَبْرًا: اچھلنا۔ کودنا۔ چھینا۔
 الطَّبْرُ وَالطَّبْرَيْنِ: کلہاڑا (یہ دونوں طے
 دخیل ہیں)
 الطَّبَارُ: انجیر کے مشابہ ایک درخت۔ واحد
 طَبَّارَةٌ۔
 الطَّبْرِي: طبرستان کی طرف منسوب۔
 طَبْرَه (ن) طَبْرًا: بھردینا۔
 الطَّبْرُ: پہاڑ کا مضبوط کنارہ۔ دو کوہان کا
 اُوقَشَ۔
 طَبْسَةٌ: گارے سے لپٹا۔
 الطَّبْسُ: ہر ایک کالی چیز۔
 الطَّبْسُ: بھیڑیا۔
 بَحْرُ طَبْسٍ: بہت پانی والا سمندر۔
 الطَّبْسُ: لوگ۔
 الطَّبْشُورَةُ: چاک جو کہ تختہ سیاہ اور سلیٹ پر
 برائے تحریر استعمال ہوتا ہے۔
 الطَّبْشَةُ: استعمال عوام میں بچوں کے مارنے
 کی لمبی چمڑی اور فصیح لفظ مخففہ ہے۔
 المَاءُ: پانی کو حرکت دینا۔
 طَبَعَ (ف) طَبْعًا الشَّيْءُ: کسی چیز کی تصویر
 بنانا علیہ: مہر لگانا اللِّدْرَهُمُ: سکہ ڈھالنا۔
 السِّيفُ: تلوار بنانا۔ ڈھالنا اللہ الخَلْقُ: پیدا
 کرنا الذَّلْوُ: ڈول بھرتا۔ کہا جاتا ہے ”طَبَعَ
 اللہ علی قلبہ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے
 دل پر مہر کر دی جس کی وجہ سے وہ خیر کی توفیق
 سے محروم ہے۔

طَبَعَ (س) طَبْعًا: میلا پھیلا ہونا۔ عیب دار
 ہونا السِّيفُ: تلوار کا نازق آلود ہونا۔
 مَفْعٌ طَبْعٌ وَأَطْعٌ
 طَبَعَ عَلَيَّ الْجَهْلُ: پیدا کیا جا۔
 طَبَعَ الْإِنَاءُ: بھردینا گند کرنا۔ عوام کہتے
 ہیں ”طَبَعَ الدَّابَّةُ“ یعنی سدھا لیا۔ فصیح لفظ
 اس کے لیے ”رَاضِعًا“ ہے۔
 تَطَعُ: بھر جانا۔ ڈھلنا بِطَاعِ أَيْبِه: باپ
 کے اخلاق اختیار کرنا النَهْرُ بِالنَّهْرِ: نہر کا
 کناروں سے بہہ نکلنا۔
 انطع: بھر جانا۔ ڈھلنا۔
 الطَّبَعُ: پیدا کی عادت۔ مثال۔ نمونہ۔ کہا
 جاتا ہے ”اضربہ علی طبع هذا“ یعنی اس
 کو اس کے نمونہ پر بناؤ۔ ج طَبَاعُ
 الطَّبَعُ: پانی جذب ہونے کی جگہ۔ پیمانہ بھر۔
 منکیزہ۔ نہر ج طَبوع و طَبَاع (و الطَّبَع)
 زنگ میل پھیل۔ عیب۔ ج نَطْبَاعُ
 المَطْبَعُ: کینہ۔ سِيفُ طَبَعِ زَنْجِ آلود
 تلوار۔
 الطَّبَاعِ وَالطَّبَاعِ: خلقی عادت۔
 الطَّبَاعِ وَالطَّبَاعِ: مہر۔ ہر وہ چیز جس سے مہر
 کی جائے۔ ج طَبَاعِ: کہا جاتا ہے ”هذا
 کلام علیہ طَبَاعِ الفصاحة“ یعنی یہ ایسا
 کلام ہے جس پر فصاحت کی مہر ہے۔
 طَبَاعِ البَرِيدِ: خط پر لگانے کے لئے ڈاک
 ٹکٹ جو کہ اندرون اور بیرون خطوط پر لگائی جاتی
 ہیں۔
 الطَّبَاعِ الْأَمِيرِيَّةِ: رسید ٹکٹ یعنی مالی
 معاملات میں ٹکٹ دستخط یا توثیق کے لئے لگائی
 جاتی ہے۔
 الطَّبَاعِ الْفَنَئِيلِيَّةِ: حکومت کی طرف سے
 ٹکٹ جو کہ سفار تجماعتوں میں استعمال کی جاتی
 ہیں۔
 الطَّبَاعِ: طَبَاعِ اسم فاعل کا مبالغہ۔
 الطَّبَاعَةُ: تلوار سازی۔ چھاپنے کا پیشہ۔
 دَارُ الطَّبَاعَةِ: تلوار سازی کا کارخانہ۔ چھاپنے
 کی جگہ۔

الطَّبِيعَةُ: خلقی و جنسی عادت۔ ج طَبِيعِ
 الطَّبَاعِ الْأَرَبِ: سردی۔ گرمی۔ خشکی۔
 تری۔
 الطَّبِيعِي: جو طبیعت کے ساتھ مختص ہو۔ جو
 ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے۔ جو
 علم طبایع کا ماہر ہو اور علم طبایع وہ علم ہے
 جس میں طبایع اشیاء سے بحث کی جائے۔
 الطَّبَاعُ: مہر۔ کہا جاتا ہے ”هذا طَبِيعَانُ
 الْأَمِيرِ“ یہ امیر کی مہر ہے۔
 المَطْبَعَةُ وَالْمَطْبَعُ: چھاپنے کی جگہ۔ ج
 مطابع۔
 المَطْبَعَةُ: چھاپنے کا آلہ۔ پر لیس۔ ج
 مطابع۔
 المَطْبُوعُ: مفع۔ چھپا ہوا۔ پسندیدہ میں
 الشعراء: جو بلا تکلف اشعار کہتے۔
 طَبَقَتْ (س) طَبَقًا وَأَطْبَقًا يَدُهُ: بند ہونا۔
 پہلو سے لگنا۔ طَبَقَ يَفْعَلُ الشَّيْءُ: شروع
 کرنا۔ کرنے لگنا۔
 طَبَقَ الشَّيْءُ: عام ہونا السَّحَابِ الْجَوِّ:
 بادل کا نفا کو گھیر لینا الماءُ وَجْهَ الْأَرْضِ:
 ڈھانپ لینا۔ السِّيفُ الْمَفْصَلُ: تلوار کا جوڑ
 کو جدا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَنَّهُ يَطْبِقُ
 الْمَفْصَلَ“ جبکہ جت میں غالب ہو۔ طَبَقَ
 الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: حاکم کا درست فیصلہ
 کرنا الْقُرْسُ فِي عَدْوِهِ: دوڑنے میں ایک
 ساتھ دونوں ناگوں کا اٹھانا اور اکٹھا رہنا۔
 طَابِقَةُ طَبَاقًا وَمُطَابِقَةٌ: موافقت کرنا۔
 طَابِقُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: دونوں کو ایک طریقہ پر
 کرنا مِمَّا يَفْصِلُ: ایک کے اوپر ایک پہننا
 عَلَيَّ الْأَمْرُ: برابری کرنا الرَّجُلُ عَلَيَّ
 الْعَمَلُ: حاوی ہونا بِالنَّحْوِ: اقرار کرنا۔ یقین
 کرنا الْمُقَيَّدُ: قیدی کا چھوٹے چھوٹے قدم
 رکھنا الْقُرْسُ فِي حَرْبِهِ: اگلی ناگوں کی جگہ
 میں پھیل ناگوں کو رکھنا۔
 أَطْبَقَ الشَّيْءُ: ڈھانپنا اللَّيْلُ: تاریک ہونا
 النُّجُومُ: نسرٹ سے ظاہر ہونا الرَّحَى: ایک
 پاٹ کو دوسرے پاٹ پر رکھنا۔ کہا جاتا ہے

”طبق شفیک“ یعنی چپ رہ۔ طبق
الرائح: رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو
گھٹنے کے درمیان کر لیں۔ اطبقوا علی
الامر: اجماع کر لیں۔ اطبقت الحمی:
بخار کا لگاتار رہنا۔ کہا جاتا ہے۔

”فلانا“ یعنی وہ کیا حافظ ہے۔
تطابق القوم: اتفاق کر لیں۔
تطقق وانطبق: الشی بند ہونا۔
الطبق مطبق: کہا جاتا ہے۔

”ذاك“ یعنی یہ اس کے مطابق ہے۔ دن کا
حصہ۔ لاسر جس سے پرندوں کا شمار کیا جائے۔
ایک درخت کا پھل الطبق من الناس:
جماعت۔

الطبق مطبق پردہ۔ طشری: ج اطباق
الطبق: سطح زمین۔ ریزہ کی ہڈی من اللیل
والنهار: دن رات کا بواحصہ۔ کہا جاتا ہے
”اقمت عنده طبقا من النهار“ یعنی میں

نے اس کے پاس دن کے بڑے حصے میں
اقامت کی من المطر: عام بارش۔ کہا جاتا
ہے مطر طبق وديمة طبق حال۔ کہا جاتا
ہے ”الدهر اطباق“ یعنی زمانے کے مختلف

احوال ہیں۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے ”مضی
طبق بعد طبق“ یعنی ایک جماعت کے بعد
دوسری جماعت گزر گئی ”جاءه طبق من
جواد“ یعنی ہڈیوں کی جماعت آئی۔ ”اطباق

الراس“ سر کی ہڈیاں۔ بنات طبق:
مصیبتیں۔ کچھوے۔ سانپ۔ ام طبق:
مصیبت۔

الطبقہ: جال۔ پھندا۔ دن کا ایک حصہ۔ ج
طبق و طبق
المطابق (ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ
ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

ب × ج = ب × ج × ب × ج
(س) (۱+س) = (۲+س) (۲+س)
الطبقہ مرتبہ۔ حال۔ کہا جاتا ہے ”ان
کتبہ الی طبقہ“ اس کے خطوط میری
طرف متواتر آئے۔ ج طبقات۔

الطبق بند۔

الطبق: رات کا ایک حصہ۔ ج طبق
(والطباق) مطابق۔ کہا جاتا ہے ”هذا
طبق ذاك او طباقه“ یعنی یہ اس کے
مطابق اور موافق ہے۔ طباق الارض:

زمین کی سطح۔
المطابق والمطابق کڑا ہی۔ آدمی بکری۔ ج
طوابق و طوابق:
المطابق والمطابق والطابق۔ شیشہ۔ بڑی

پکی اینٹ (اور یہ دخیل ہے)
المطبق: زمین کے نیچے تیرخانہ۔ الجنون
المطبق: لگاتار جنون۔ سنة مطبقة: سخت
قول۔ المطبقات: مصیبتیں۔ الحروف

المطبقة: ص ض ط ظ۔
المطبق: صاحب الرائے۔ سباحة
مطبقة: تمام زمین پر رسنے والا بادل۔
طبل (ن) طبل و طبل و حول بجانہ۔

عوام کہتے ہیں۔ طبل فی المشی: یعنی چلنے
میں تھک گیا اور صحیح لفظ (نطق) ہے۔
الطبل و حول۔ ج طبل و اطبال۔
الطبال و حول بجانے والا۔

الطبالة و حول بجانے کا پیشہ۔
الطبلة و حولک۔
الطبلیة: ج طبلیات گول میز جس پر روٹی
لگائی جائے اور کھائی جائے۔

الطبلیة: خراج کے روپے۔ ج طبلیات۔
الطوبالة: مادہ بھیڑ۔ ج طوبالات۔
طبن (ض) طبنا النار آگ کو دیا گیا۔

طبن (ض) طبنا طبن (س) طبنا و
طبانة و طبانية و طبونة الشی و
للشی سمجھ دار ہونا۔ مفت طبن و طبان۔
طبانة موافق ہونا۔ طبان الحفيرة گہرا

کرنا۔
اطبان اطمینانا۔ بالمکان مطمئن ہونا۔
الطبن و الطبن بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے
”انّی الطبن هو یعنی وہ کون آدمی ہے۔
الطبن طنبور یا ربڑ۔

الطبن گھر۔ کوڑا کرکٹ جس کو ہوا اڑا
لائے۔

الطبن و الطبن و الطبن و الطبن مردار
جو گدھوں اور درندوں کے شکار کیلئے جال میں
رکھا جائے۔ اعرابوں کا ایک کھیل۔
الطننة: سمجھ۔ ج طبن۔

الطننة: طنز کی آواز۔ ایک کھیل۔
الطابون: گڑھا جس میں حفاظت کے لیے
آگ کو دیا جائے۔

الطنجة: تخم۔ ج طنجات۔
طباہ یطوہ طبا و اطباہ اطباء۔ پکارنا۔
بلانا۔

طباہ یطیہ طبیا۔ کھینچ ہ عنہ۔ پار کھانا ہ
الیہ۔ بلانا۔
طیبت تطبی طبی النافقة: وحیلے تھنوں

والی ہونا۔
اطباہ اطباء۔ بلانا۔
الطبی و الطبی: تھن گدھی اگھوڑی، اونٹنی
اور مادہ درندوں کا۔ ج اطباء۔

الطبواء و الطیبة: من النوق: وحیلے
تھنوں والی اونٹنی۔
طٹ (س) ططا: الشی پاؤں یا ہتھیلی سے
مار کر جگہ سے ہٹانا۔

الطٹ: بچوں کا ایک کھیل جس میں گول
لکڑی کو پھینکتے ہیں۔
المطٹة: بچوں کے کھیل کی ایک گول لکڑی۔
ططرن (ن) ططرا و ططورا و ططرن: اللین

دودھ کا بالائی والا ہونا۔ مفت طاطر۔
الطثرة: کچھو۔ کائی۔ بالائی۔ غلیظ پانی۔
وسعت میں۔ بھیڑ کا اون۔
اطثر الشی زیادہ کرنا۔ □

طجن (ن) طجنا و طجن: الشی
بھونا۔
الطاجن و الطینجن کڑا ہی۔ ج طیاجن
و طواجن (اور یہ دونوں لگے دخیل ہیں)
المطججن بھنا ہوا۔
طحرت (ق) طحرا: العین قذاہا۔

بہت اونٹ۔	کچھروا پانی۔	خس و خاشاک کو دور کرنا۔ نکال پھینکنا۔ صفت
المطحنة۔ پکے۔ مطاحن۔	الطحن۔ عند الغامة۔ باریک نئے اور صبح	طخورة الريح السحاب۔ ہوا کا بادل کو اڑا
المطحنة۔ پینے کا مکان۔ مطاحن۔	لفظ نکل ہے۔	دینا۔
طحا يطحون طحوا۔ بعید ہونا۔ ہلاک ہونا۔	طخلب۔ الماء۔ کالی والا ہونا۔ صفت	طحور (ض) طحرا۔ وطحيرا وطحارا۔
الشيء دفع كرتا بالحركة۔ پھینکنا القوم۔ ایک	مطحلب۔ مطحلب الأرض۔ سرسبز	آہ کرنا۔
دوسرے کو ہٹانا۔	ہونا۔ الرجل۔ کل کرنا۔	الطحر والطحر۔ متفرق پتلے پتلے بادل۔
طحا يطحون طحوا۔ الشيء۔ پھیلتا۔ دراز	الطحلب۔ شديد سبز رنگ کی تیل جس کے	الطخورة والطخورية۔ بادل کا ٹکڑا۔
کرتا۔ الشيء۔ پھیلتا۔ دراز ہونا القمر۔ روشن	پتے اور پتی ہوتی ہے لیکن تانیں ہوتا دور دور	الطخور۔ جلدی کرنے والا۔
ہونا الرجل۔ جانا۔ کہا جاتا ہے "طحابه	تک پھیل جاتی ہے درختوں اور مکلوں پر عام	الطخور والمطحور۔ من القسي۔ دو
همته" یعنی اس کی ہمت اس کو ہر کام پر لے	چڑھ جاتی ہے۔	پھینکنے والی کمان۔
گئی۔ پہلو پر لیٹنا طحا بفلان شخصه۔ موٹا	الطحلب والطحلب والطحلب۔	الطحار۔ سخت قسم کی پچیس جس میں آدمی آہ
ہوتا۔	کالی۔ ایک کلا کالی کا۔	آہ کرنے لگے۔
الطحا۔ چوڑی زمین۔	طحلبة۔ کہا جاتا ہے "ما عليه طحلبة"	الطخور۔ بدل۔ ج طحارین۔
الطاحي۔ بلند۔ پھینکنے والا۔ بڑی جماعت۔	یعنی اس کے اوپر پال نہیں۔	الطحارین۔ بادل کے ٹکڑے۔
مظلة طاحية و مظوعة و مطحية۔ بڑا	طخم (ف) طخمة۔ غلیبہ کو نانا اور حملہ	طحوب۔ تیز دوڑنا القریة۔ مکہ بھرنا گوز
سائبان۔	کرنا اور یہ استعمال عوام ہے اور ممکن ہے کہ یہ	کرنا۔
بقلة مطحية۔ زمین پر پھینکنے والی سبزی۔	فخم کی تحریف ہو۔	الطخوب۔ کوزا کرکت۔
طحي يطحي طحيا۔ پہلو پر لیٹنا۔	الطخمة۔ مقلقة من الناس۔ جماعت۔	الطخورية۔ مثلثة۔ بادل یا کپڑے کا ایک
الطخية۔ بادل کا ٹکڑا۔	من السيل۔ سیلاب کا زور۔ من الميادين	ٹکڑا
طخ (ن) طحا الشيء۔ پھینکنا اور دور	بہت تاریکی (والطخماء) ایک قسم کی	طخطحة۔ توڑنا۔ طخطح القوم
کرتا۔ (طخوخا) بد خلق ہونا۔	سبزی۔	یا القوم۔ متفرق کر دینا۔ ہلاک کرنا مانند
المطخة۔ ایک کڑی جس سے سچے کھیتے	الطخمة۔ سخت جنگبوں۔ بہت اونٹ۔	بکھیرنا۔ طخطح الرجل۔ ہلکی ہلکی ہنسا۔
تھیں۔	الطخوم۔ تیز جانکنے والا۔	تطخطح۔ توڑنا۔ متفرق ہونا۔ ہلاک ہونا۔
طخشت (س) طخشا العين۔ آنکھ کا	المطخوم۔ بھرا ہوا۔	بکھیرنا۔
بے نور ہونا۔	طحن (ف) طحنا و طحن البئر۔	طحلة (ف) طحلا۔ تلی پر مارنا۔ طحل
طخطح الشيء۔ برابر کرنا۔ ایک کو	گہروں پینا الممتعة القوم۔ ہلاک کرنا۔	الإناء۔ برتن بھرنا۔
دوسرے سے ملانا اللیل۔ تاریک کرنا۔	طحنت الافعى۔ سانپ کا کٹڑی مارنا۔	طحل (س) طحلا و طحلا۔ تلی کا بڑھنا
تطخطح الرجل۔ تاریک ہو □ □ نا	صفت مطحان۔	الماء۔ پانی کا بدبودار ہونا۔
السحاب۔ بادل ٹکر کر برابر ہونا۔	تطحن۔ پینا۔	طحل طحلا۔ تلی کی بیماری ہونا۔ صفت
الطخطاخ۔ گھرا ہوا بادل۔ بد خلق۔	الطحن والطحين۔ پسا ہوا آٹا۔	مطحول۔
الطخاطخ۔ تاریکی۔	الطاحنة۔ مؤنث طاحن۔ ڈالہ۔ ج	الطحال۔ تلی۔ ج اطحلة و طحل و
طخش: طخشا العين۔ اندھیر ہونا۔	طواجن۔	طحالات۔
طخم (ف) طخما و طخم (ک)	الطحان۔ پینے والا۔ آٹے کا بیچنے والا۔	الطحال۔ مرض جو تلی کو لاحق ہو۔
طخامة۔ تکبر کرنا۔	الطحانة۔ پانی کا پیشہ۔	الطخلة۔ خاستری رنگ۔
اللحم۔ خشک ہو کر سیاہی مائل	الطاحون والطاحونة۔	الاطحل۔ خاستری رنگ والا۔ مؤنث
ہوتا۔	ج طواجن۔	طحلاء ج طحيا
الطخمة۔ بکریوں کا گلہ۔	الطحون والطحانة۔	بڑی تلی والا۔ غضبناک۔ بھرا ہوا۔

الطَّخْمَةُ ناک کے اگلے حصے کی سیانی۔
الاطَّخِمُ جانور یا انسان کے ناک کا اخاصہ
(والطَّخِيمُ) خشک گوشت۔
طَخَا يَطْخُو طَخْوًا و طَخْوًا اللَّيْلُ
تاریک ہونا۔
الطَّخَاءُ بلند بادل۔ □□□□ کی گھبراہٹ۔
الطَّخِيَّةُ وَالطَّخِيَّةُ وَالطَّخِيَّةُ تاریکی۔
بادل کا ایک ٹکڑا۔ الطَّخِيَّةُ: بوقوف ج
طَخِيُونٌ۔

الطَّخْوَاءُ وَالطَّخِيَاءُ مِنَ اللَّيَالِي
تاریک راتیں۔
الطَّخَايَةُ سخت تاریکی۔

طَرَانٌ (ن) طَرًا الْمَاشِيَةُ جانوروں کو زور
سے ہانکنا الاِبِلُ اونٹوں کو اطراف سے گھیرنا
الشَّى كَاثَا النَّوْبُ کپڑے کو پھاڑنا۔ الاِبِلُ
الْحِيَالُ اونٹوں کا پہاڑ کو طے کرنا۔ طَرَّ
الْقَوْمُ کسی قوم پر گزرتا □ السَّكِينُ جھری
تیز کرنا۔ البَنِيَانُ کسی عمارت کی حرمت
کرنا۔ الحَوْضُ حوض کو لینا المال نال
چھیننا اور اسی سے ہے "طَرَّ عَقْلُهُ" فَلَانَا
لما نَحْمَدُ رَانَ دَحْكَارًا۔

طَرَانٌ (ش) طَرًا و طَرُورًا الشَّرَابُ
او النَّبَاتُ مومچھ یا نباتات کا آگنا۔ طَرَّتْ
النُّجُومُ ستاروں کا روشن ہونا يَدُهُ زَمَّ كِ
وجہ سے گر جانا۔ الرَّجُلُ مِنَ السَّنْطَحِ گرتا۔
اَطْرَهُ گرتا۔ كَاثَا دَحْكَارًا اَطْرَهُ عَلِي
الْأَمْرُ بِرَأْيِهِ تَگرتا۔
طَرَّتْ الْجَارِيَةُ لِرُكِي كَا اِبْنِي زَلْفُونِ كُو
سنوارتا۔

الطَّرُّ کنارہ ج اَطْرَارٌ کہا جاتا ہے "هُوَ
يَنْحُمِي اَطْرَارَ الْبِلَادِ بِشَيْءٍ وَه اَطْرَارُ بِلَادِ
کی حفاظت کرتا ہے۔ "و جَاؤْ اَطْرَارِيْنِي
سب آئے۔

الطَّرَّةُ کمر۔
الطَّرَّةُ بِيْشَانِي۔ بِيْشَانِي کے بال۔ کپڑے کا
نقش و نگار۔ کنارہ۔ کتاب کا حاشیہ۔ نہر کا
کنارہ۔ وادی کا کنارہ۔ بادل کا لمبا ٹکڑا۔ ج

طَرَاتٌ و طُورٌ و طَرَارٌ و اَطْرَارٌ اور اس
لفظ کو اس علامت کے لیے بھی استعمال کرتے
ہیں جو شاہی فرامین وغیرہ میں لگایا جاتا ہے جس
میں بادشاہ کا نام مع لقب کے ہوتا ہے اور
صواب لفظ طُورٌ ہے۔

عَلَامٌ طَرَارًا و طَرِيْرٌ جوان جس کی مسین
بھگ گئی ہوں۔ سَنَانٌ طَرِيْرٌ بیز تیزہ۔
المَطْرُ فَا غَضِبَ مَطْرٌ بے موقع
غضب۔

الطَّرِيَانُ تَشْتَرِي۔ طَارِقٌ۔
المُطْرَةُ عَادَتٌ۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ مُطْرَةٌ
حَسَنَةٌ اِنْ كَانَتْ عَادَتٌ عَادَتٌ بے۔

طَرَا (ف) طَرًا و طُرُوًا عَلَيْهِمُ زُور
سے اور اچانک آجانا۔ کہا جاتا ہے "طَرَّ عَلَيَّ
هَمٌّ لَا اَطْلِقُهُ" میرے اوپر ایسا غم آچکا ہے
جس کی مجھے طاقت نہیں۔

طَرُوْدٌ (ك) طَرَانَةٌ و طَرَاءٌ النَّبَاتُ
تروتاڑ ہونا۔ صفت طَرِيٌّ۔
اَطْرَاءُهُ حد سے زیادہ مدح کرنا۔

الطَّارِيُّ فَا۔ اجنبی۔ مسافر۔ غیر اصلی۔ ج
طَرَاءٌ طَرَاءٌ۔

الطَّارِنَةُ مَوْتٌ طَارِيٌّ مَصِيْبَةٌ ج
طَوَارِيٌّ و طَارِنَاتٌ اور طَارِنَةٌ كُو اَنْ
لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے جو غیر ملکی ہوں اور
کسی جگہ آباد ہو جائیں۔

الطَّرَانُ رَاسْتَةٌ اَمْرٌ مَكْرٌ غَيْرُ پَسْنِدِيْدَةٌ بَات
کہا جاتا ہے "حَمَامٌ طَرَانِيٌّ" یعنی وہ کبوتر جو نہ
معلوم کہاں سے آیا "كَلَامٌ طَرَانِيٌّ" جو کلام
غیر پسندیدہ اور ادب و تہذیب سے گرا ہوا ہو۔

طَرَاةٌ السَّنِيْلُ سِيْلَابٌ كَا زُوْرٌ۔
طَرِيْلَسٌ طَرِيًّا جُوْشِيٌّ يَأْتِي مِنْ جَهْوَمَانَا۔
صفت طَرِبٌ۔

طَرِبَ كَاثَا فِي صَوْتِهِ سُرَّ اِنْكَانَا عَقْنِ
الطَّرِيْقُ بہت جانا۔ طَرِبَهُ وَاطْرَبَهُ و
تَطْرِبُهُ جُوْشِيٌّ بِرَأْيِهِ تَگرتا۔

اِسْتَطْرَبَ بہت خوش ہونا فَلَانَا جُوْشِيٌّ
ہونے کو کہتا۔ الاِبِلُ عَدِيٌّ سے حرکت میں

لَانَا۔
الطَّرُوْبُ وَالْمَطْرَابُ وَالْمَطْرَابَةُ
بہت زیادہ خوش۔

الْمَطْرَبُ وَالْمَطْرَبَةُ تَحْكُ رَاسْتَةٌ ج
مَطْرَابٌ الْمَطْرَابُ جَتْرُقٌ رَاسْتَةٌ۔

الطَّرِيْبَالُ بَرِيْدَةٌ عِمَارَتٌ۔ دُوْرٌ سے نظر آنے
والا جھنڈا بڑی چٹان پہاڑ کی جو نفا میں ہو ج
طَرَابِيْلٌ طَرَابِيْلُ الشَّامِ بَلْكَ شَامٌ كَعِ
گرے۔

الطَّرِيْبَالُ كَاغَنِيٌّ كَالْمَشِيْنِ ج طَرَابِيْلُ
طَرَحٌ (ف) طَرَحًا الشَّى وَالشَّى بِالشَّى
پھینک دینا عَنَهُ ذُوَال دِيْنَا اور دُوْر کر دینا۔ کہا
جاتا ہے "طَرَحَتِ النَّوْيُ بَفْلَانِ كَلُّ
مَطْرَحٌ" یعنی فراق نے فلاں کو دُوْر ڈال دیا۔

طَرَحَ النَّوْبُ عَلَيْهِ كَسِيٌّ بِرَ كِزْرَاؤَانَا۔
طَرَحَتِ الْاَنْثَى جَمَلٌ گرتا۔ طَرَحَ
الْحَاسِبُ حَسَابٌ كَرْنَةٌ وَاَلْ كَا كَسِيٌّ بَرِيْدٌ
عَدُوٌّ كُوْجُوْرْدِيْنَا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ بِسَالَةِ بِيْشِ
کرتا۔

طَرَحٌ (س) طَرَحًا بِدَفْلِقٍ هُوْنَا جُوْشِيٌّ
عِيْشٌ هُوْنَا۔

طَرَحَ طَرَحًا كَا مَالِدٌ۔ طَرَحَ بِه السَّفَرُ
إِلَى نَاحِيَةٍ كَمَا سَفَرْنَا اِسْ كُوْ فُلَانِ كُوْشِ
میں پھینک دیا۔ طَرَحَ الْاَنْثَى جَمَلٌ گروانا
الْبِنَاءُ عِمَارَتٌ كُوْ بہت بلند کرتا۔

طَارَحَهُ مَطَارِحَةٌ الْكَلَامُ او الشَّعْرُ او
الْعِنَاءُ كَقَتْلُوَا شَعْرًا يََا كَانِيٌّ مِيْنَ مَقَابِلِهِ كَرْنَا۔
اَطْرَحَهُ بِبِيْحِكٌ دِيْنَا۔ دُوْر کر دینا۔

تَطَارَحَ الْقَوْمُ الْكَلَامُ او الْعِنَاءُ اِيْكَ كَا
دُوْر سے کلام یا گانے میں مقابلہ کرتا۔
الطَّرْحُ ذَالَا هُوَا پھینکا ہوا۔ جَمَلٌ نَاتَامٌ۔

الطَّرْحُ وَالطَّرُوْحُ وَالطَّرَاْحُ مَكَانٌ
بَعِيْدٌ۔ الطَّرُوْحُ لِيْ شَاخُوْنِ وَاَلَادِرْخْتُ خَرْمَا
ج طَرُوْحٌ۔

الطَّرْحَةُ چادر سبز رنگ کی اور عوام کے
نزدیک یعنی اوڑھنی۔
الطَّرِيْحُ ذَالَا هُوَا پھینکا ہوا ج طَرْحِيٌّ۔

الطَّرْحُ: ڈالا ہوا چھینکا ہوا۔

الاطْرُوْحَةُ: سوال جو تم کسی کے سامنے پیش کرو۔

المَطْرَحُ: ڈالنے کی جگہ۔ بچھانے کی جگہ۔ ج مطارَح: کہا جاتا ہے "مَّا طَرَحَكَ هَذَا المَطْرَحُ" یعنی تمہیں اس میں کس نے ڈال دیا۔

طَرَفُ مَطْرَحٍ: دُور مین نگاہ۔ رُمَحٍ مِطْرَحٍ لَمِيزَةٍ۔

المَطْرَحُ مَقْوَمٌ مَطْرَحٌ: وہ قول جس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔

الطَّرْحَانُ وَالطَّرْحَانُ: رئیس۔ ج طَرَاخِنَةُ:

الطَّرْحُونُ: ایک قسم کی نباتات ہے جس کا ریشہ عاقر قریح ہے۔

الطَّرِيْحُ: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔

اِطْرَحَمَ اللَّيْلُ: تاریک ہونا الرجل: نگاہ کمزور ہونا۔

طَرَدَهُ (ن) طَرَدًا و طَرَدًا: دُور کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ دھتکارنا۔ مِنْ بِلَادِهِ: جلاوطن کرنا۔ طَرَدَ الْاِبِلَ: ادھر ادھر سے جمع کر کے ہانکنا۔

طَرَدَ (س) طَرَدًا: شکار کا پیچھا کرنا۔ طَرَدَ السُّوْطُ: اُٹھانا۔ طَرَدَهُ عَنِ الْبِلَدِ: جلاوطن کرنا۔

طَارَدَ طَرَادًا و مَطَارَدَةً: الاقْرَانُ: ایک کا دوسرے کے اوپر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَمَّ فُرْسَانُ الطَّرَادِ" وہ لوگ مدافعت کے شہسوار ہیں۔

اَطْرَدَهُ: جلاوطن کرنے کا حکم دینا۔ جلاوطن کرنا۔

تَطَارَدَ: القَوْمُ: بعض کا بعض پر حملہ کرنا۔ اِنطَرَدَ: جلاوطن ہونا۔

اِطْرَدَ: دُور ہونا الامر: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور درست ہونا الانہار: جاری ہونا القَوْمُ اِلَى الْمَسِيْرِ: پے در پے چلنا۔

اِسْتَطْرَدَ لَه: فَرِبَ دِئِنَ كَيْلِ كَلْبَتِ كُو

ظاہر کرنا۔ کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسرا کلام لازم آجائے۔ اِسْتَطْرَدَ الْبِيَهَ الامر: پہنچنا۔

الطَّرْدُ: کھجور کے پودے۔ ج طَرُوْدُ: الطَّرْدُ: پانی جس میں جانور گھستے ہوں۔

الطَّرَادُ: طَارَدَ كَمَا مَلَغَ: تیز رفتار جنگی جہاز کشادہ مکان۔ لِبَادُنِ:

الطَّرِيْدُ: دھتکارا ہوا۔ بھاگنے والا جو تمہارے بعد پیدا ہوا اور تم بھی اپنے بعد پیدا ہونے والے کا طریقہ کہلاؤ گے من الايام لبان۔

الطَّرِيْدَانُ: رات دن۔ الطَّرِيْدَةُ: بھگایا ہوا شکار | ریشم وغیرہ کا مستطیل ٹکڑا چرایا ہوا اُونٹ۔ تنور وغیرہ کے صاف کرنے کے لیے بھیجا ہوا چیتھرا۔ ج طَرَانِدُ:

الطَّرَادُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَمْشِي مَشْيًا طَرَادًا" یعنی فلاں سیدھی چال چلتا ہے۔ چھوٹا تیز۔

المَطْرَدُ: چھوٹا تیز۔ ج مَطَارِدُ: يَوْمٌ مَطْرَدٌ: لِبَادُنِ:

حُكْمٌ مَطْرَدٌ: عام حکم اور اسی سے ہے "قَاعِدَةُ مَطْرَدَةٌ"

المَطْرَدَةُ وَالْمَطْرَدَةُ: وسط راستہ۔ شاہراہ المَطْرَدَةُ: دھتکارنے کا سبب۔

طَرَزَ (س) طَرَزًا: بد خلقی کے بعد لہتا اغلاق ہونا فی الملبس: لباسِ فاخرہ استعمال کرنا۔

طَرَزَهُ (ن) طَرَزًا: گھونہ مار کے ہٹانا۔ طَرَزَ: الثَّوْبُ: تیل بوئے ہٹانا۔

تَطَرَزَ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

الطَّرُوزُ: ہیئت۔ طریقہ۔ ترتیب۔ الطَّرَازُ: کپڑے کا نقش و نگار۔ مقام جہاں کپڑے اچھے بنے جائیں۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا عَلِيٌّ طَرَازٌ دَاكٌ" یعنی یہ اس کے طریقہ پر ہے "لَيْسَ هَذَا مِنْ طَرَازِ دَاكٌ" یعنی یہ تمہارے طور و طریقے پر نہیں۔ ج

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

الطَّرُوزُ: ہیئت۔ طریقہ۔ ترتیب۔ الطَّرَازُ: کپڑے کا نقش و نگار۔ مقام جہاں کپڑے اچھے بنے جائیں۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا عَلِيٌّ طَرَازٌ دَاكٌ" یعنی یہ اس کے طریقہ پر ہے "لَيْسَ هَذَا مِنْ طَرَازِ دَاكٌ" یعنی یہ تمہارے طور و طریقے پر نہیں۔ ج

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

الطَّرُوزُ: ہیئت۔ طریقہ۔ ترتیب۔ الطَّرَازُ: کپڑے کا نقش و نگار۔ مقام جہاں کپڑے اچھے بنے جائیں۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا عَلِيٌّ طَرَازٌ دَاكٌ" یعنی یہ اس کے طریقہ پر ہے "لَيْسَ هَذَا مِنْ طَرَازِ دَاكٌ" یعنی یہ تمہارے طور و طریقے پر نہیں۔ ج

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

طَرُوْرَةُ: تیل بوئے ہٹانا۔ طَرُوْرَةُ: الثَّوْبُ: تیل بوئے والا ہونا۔ فی لَبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

سب مر گئے یا قتل کئے گئے۔

طرف (ک) طرفہ: نیامال ہونا۔

طرفہ: ایک گوشہ میں کرنا۔ آگہ میں کچھ پڑ

جانا۔ طرف الخیل: گھوڑوں کی اگلی تھار کو

پچھے کر دینا۔ سنانہ: پورے کو مہندی سے رنگنا

الشی: پسند کرنا۔

اطرف: نئی عمدہ چیز لانا۔ بکوں کو بند کرنا۔

کذا بكذا: لائق کرنا۔ الشی: تجھ دینا۔

تطرف: ایک کنارہ میں ہونا۔ الشی: کنارہ پر

ہونا۔ حد اعتدال سے بڑھ جانا۔ الشمس:

آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ الشی:

اطراف سے لینا۔ پسند کرنا۔ علیہم: غارت

ڈالنا۔

اطرف: الشی: نئی چیز خریدنا۔

استطرفہ: نیا سمجھنا۔ الشی: نیا پانا۔ فائدہ

لینا۔ پسند کرنا۔

الطرف: آگہ۔ کسی چیز کا کنارہ۔ ہر شے کا

مٹھی۔ ج۔ اطراف الطرف: شریف۔ کہا

جاتا ہے "نظر بطرف خفی" یعنی خوف یا

حیا کی وجہ سے نیم ہاز آنکھوں سے دیکھا۔

الطرف: نجیب الطرفین۔ ج اطراف

اصیل (گھوڑو وغیرہ) ج طرف و اطراف

مؤنت طرفہ: نیامال۔ من النبات: جو ابھی

اپنے غلاف شگوفہ میں ہی ہو۔ من الناس: جو

بوجہ ملال طبع کسی کے ساتھ معاشرت پر قائم

نہ رہے۔ ایسا حریص نگاہ کا کہ جس چیز کو دیکھے

اس کے متعلق خواہش کرنے کہ وہ اس کے

پاس ہو۔ رجل طرف فی نسبه: نئی

شرافت والا۔ امراة طرف: الحدیث:

خوش کلام عورت۔

الطرف: ہر شے کا مٹھی۔ گوشہ۔ چیز کا ٹکڑا۔

شریف۔ ج اطراف ج اطراف: اطراف

البدن: دونوں ہاتھ | دونوں پیر اور سر۔

اطراف الناس: اپنی جسم کے لوگ۔ شرفاء

اور خاندان شرفاء۔ اطراف الرجل:

اقرباہ۔

الطرف: غیر مستقل۔ جو کسی ساتھی کی

محبت پر قائم نہ رہے۔ نئی شرافت والا۔

الطرفہ: خون کا نقطہ جو آگہ میں ہو جاتا ہے۔

الطرفہ: بیخبات۔ نئی عمدہ چیز۔ ج طرف

الطرفاء: جھاڑو کا درخت۔

الطرف: فا۔ نیامال اور اس کے مقابلہ میں

نئے۔ التالیذ: پرائیڈ۔

الطارفة: مؤنت طرف: کہا جاتا ہے "جاء

بیطارفة عین" یعنی اتنا مال کثیر لایا کہ جو دیکھے

اس کی آگہ کو چکا چوندا لگ جائے ج طوارف

الطوارف: آنکھیں۔ کہا جاتا ہے "لا تراہ

الطوارف طوارف الخباء" خیر کا وہ

حصہ جو باہر نظر ڈالنے کے لیے اٹھا دیا جائے۔

طوارف القرائح: طبیعت کے لطائف و

ظرائف۔

الطرفین: نادر میوہ من المال: نیا حاصل

کردہ مال اور اس کے مقابلہ میں ہے۔ التلیذ:

پرائیڈ۔ الطرفین: نئے مال والا۔ نئی شرافت

والا۔ ج طرف و طرف:

الطرفیفة: طرفیف کا مؤنت۔ نادر و مستحسن

بات ج طرائف: کہا جاتا ہے "طرائف

الحدیث" پسندیدہ باتیں۔ "همل وراءك

طرفیفة خیر تطرفنا به" یعنی کوئی خیر جدید

نے جو تم ہمارے سامنے پیش کرو۔

الأطروفة: نئی عمدہ نادر بات۔

الطوارف: چمکے کا خیر۔ اتنا حصہ کھیتی کا جو

اطراف سے کاٹ لیا جائے۔ ج طرف:

شرافت و بزرگی۔

المطرف: من المال: نیا مال حاصل

کرنے والا۔

المطرف والمطرف: نقش و نگار والی

ریشم کی چادر ج مطارف۔

طرفس: نظر تیز کرنا۔ گھورتا بہت کپڑے

پہننا۔ اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ المؤرد

گھاٹ کا گدلا ہونا۔ الماء: پانی پر آنے جانے

والوں کا زیادہ ہونا۔

الطرفسان: تاریکی۔ چھوٹا۔ فالجیچہ۔

الطرفساء: تاریک۔

طرفہ (ن) طرفہ: ہتھوڑا مارنا۔ النجار:

الصیوف: اون و حضا الشی: بجانا۔ الباب:

دروازہ کھانچانا۔ الاہل الماء: اونٹوں کا پانی میں

گھسا۔ الرجل: چادو منتر کے طور پر کٹکری

پھینکا (حرفاً و طرفاً) القوم: رات کے

وقت آتا۔

طرف (س) طرفہ: گدلا پانی پینا (طرفاً)

العیون: اونٹ کے گھنے میں کمزوری یا اس کی

پڈلی میں کچی ہونا۔ صفت اطرف: مؤنت

حرفاً ج طرف:

حرف لہ: راستہ بنانا۔ الموضوع: راستہ اختیار

کر لینا۔ کہا جاتا ہے "لا تطرفوا

المساجد" یعنی مسجدوں کو راستہ مت بناؤ۔

"طرف طریفة حسنة" بہتر طریقہ کھڑ لینا

الحدید: لوہے کو کوشا اور پھیلانا۔ طرفت

الحامیل: بولدہا: بچے کو مشکل سے جانا۔

القطاة: اٹلے دینے کا وقت قریب ہونا۔ کہا

جاتا ہے "طرف بحقی" یعنی میرے حق کا

انکار کیا پھر اقرار کر لیا۔

طارف: بین التوبین: اوپر نیچے پہننا۔

الظلام او الغمام: تاریکی یا بادل کا پیا پے

آتا۔

اطرف: خاموش ہونا۔ نگاہ جھکا کر زمین کی

طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "اطرف راسہ"

یعنی سر جھکا کر الی اللہو: نائل ہونا۔ الصید:

جال لگانا۔ اطرفت الاہل: ایک دوسرے کے

پچھے چلنا۔ الرجل: پیدل چلنا۔ نکاح کرنا۔

تطرف: الیہ: چلنا یہاں تک کہ پہنچنا۔ الی

الامر: راستہ تلاش کرنا۔

اطرفت الاہل: بعض کا بعض کے پچھے

چلنا۔ متفرق ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ

دینا۔ اطرف جناح الطیر: پرندے کے

بازوؤں کا ایک پر ایک جم جانا۔ التراب: مٹی کا

دھبہ ہونا۔

تطارق الشی: بے درپے ہونا۔ تطارقت

الاہل: بعض کا بعض کے پچھے ہونا۔

استطرف: الشی: راستہ بنانا۔ بین

طَسِعَ (س) ضَعَعًا. بے غیرت اور مفلس ہونا۔ مَفَتِ طَسِعَ وَ طَسِيعٌ ہونا۔ طَسِمَ (ن) طَسِمًا. الشَّىءُ: مَنَّا۔ طَسِمَ (ض) طَسِيمًا. مَنَّا۔ طَسِيمَ (س) طَسِيمًا. ہبِضَ ہونا۔ تَحْمَرُ ہونا۔ الطَّسِمُ. تاریکی۔ تیرگی۔ گرد آلودگی۔ طَسَمَ او اَطَسَمَ مِنْ سَحَابٍ: تھوڑے سے بادل۔ الطَّسَامُ وَالطُّسَامُ وَالطَّسَامُ. مِنَ الْغَبَارِ: بہت زیادہ غبار۔ طَشَتَ (ن ض) طَشًا وَأَطَشَتِ السَّمَاءُ: پھو بار برسنا۔ طَشَّ الرَّجُلُ: زکام جیسی بیماری لاحق ہونا۔ الطَّشَاشُ وَالطُّشَّةُ: زکام جیسی ایک بیماری کا نام۔ الطَّشَاشُ: کزوری نگاہ۔ الطُّشَّةُ: چھوٹا بچہ۔ طَعِمَ (ش) طَعْمًا وَطَعْمًا. الشَّىءُ: چکھنا عَلِيَّهِ: قادر ہونا۔ طَعِمَ (س) طَعْمًا وَطَعْمًا الطَّعَامَ: کھانا طَعْمًا الْغَضْنَ: ایک درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی ٹہنی میں گھس جانا۔ طَعِمَ (ف) طَعْمًا آسودہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَطْعَمُ أَكَلٌ هَذَا" یعنی اس کا کھانے والا آسودہ نہیں ہوتا۔ طَعِمَ الْغَضْنَ: ٹہنی کو دوسرے درخت کی ٹہنی سے پیوند لگانا اور عرف اطباء و عوام میں نیکہ لگانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ "طَعِمَ الْعِظْمَ" گوڑے دار ہونا۔ أَطْعَمَ الْغَضْنَ: پیوند لگانا: کھانا کھلانا۔ خوراک دینا الشَّجْرُ: پھل دینا پھل پکنا الشَّىءُ: مزے دار ہونا یا مزے کا بدل جانا۔ طَاعَمَ وَ طَاعَمَ: الحِمَامُ: مادہ کی چوچ میں چوچ ڈالنا۔ طَاعَمَهُ: ساتھ کھانا۔ تَطَعَّمَ. الشَّىءُ: چکھنا۔ أَطْعَمَ الشَّجْرَةَ: اطمینان

پھل کا پکنا اور عمدہ ہونا۔ عرب بولتے ہیں "هُوَ لَا يَطْعَمُ" یعنی نہ تو وہ ادب سیکھتا ہے اور نہ ایسی چیز حاصل کرتا ہے جو اسے درست کر دے۔ اسْتَطْعَمَ. مزہ پانا: کھانا مانگنا الطَّعَامَ: مزہ معلوم کرنے کے لیے چکھنا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَطْعَمَهُ الْحَدِيثُ" یعنی اس نے بات کہنے کے لیے کہا۔ الطَّعْمُ. مزہ ح طَعْمُومٌ. کھانے کی خواہش۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذُو طَعْمٍ" یعنی صاحب عقل و تجربہ ہے۔ الطَّعْمُ. کھانا۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ طَعْمٌ" یعنی ایک شخص کو سیر کرنے والا ہے۔ دانے جو شکار کے لیے ڈالے جائیں۔ الطَّعْمَةُ. کھانے کا طریقہ۔ کب و کمانی کا ذریعہ۔ الطَّطْعِيمُ: ایک گوشہ یا ٹہنی دوسری ٹہنی میں لگانا۔ (پیوند کاری کرنا) الطَّعْمَةُ. خوراک۔ کھانے کی دعوت۔ رزق۔ کب و کمانی کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے "جَعَلْتُ ضَيْعَتِي طَعْمَةً لِفُلَانٍ" یعنی میں نے فلاں کو اپنی جائیداد زراعت کے لیے عاریت پر دے دی ح طَعْمُ. الطَّعَامُ. خوراک ح الطَّعْمَةُ ح الطَّعِمَاتُ. گیہوں۔ الطَّعِيمُ وَالطَّاعِمُ. خوش خوراک۔ کہا جاتا ہے "أَنَا طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِكُمْ" یعنی میں تمہارے کھانے سے مستغنی ہوں۔ جَزُورٌ طَعْمُومٌ وَ طَعِيمٌ. ذبح کرنے کے اُونٹ نہ ڈیلے نہ موٹے۔ الطَّعُومَةُ: بکری جو کھانے کیلئے روک لی گئی ہو۔ الطَّعَامِيُّ. کھانا بیچنے والا۔ الْمَطْعَمُ. کھانے کی جگہ۔ خوراک۔ ح مَطَاعِمٌ. مَطَاعِمٌ. زیادہ کھانے والا۔ الْمَطْعَامُ. مہمان نواز۔ الْمَطْعَمُ. ح رزق دیا ہوا۔

المَطْعُومُ. ح خوراک۔ جو چکھا جائے۔ پیوند۔ نیکہ۔ طَعْنَهُ (ف ن) طَعْنًا. نیزہ مارنا اور چھوٹی المَفَازَةُ: جاہلی السِّنِّ: بوڑھا ہونا الفرس فِي الْعِنَانِ: گام کھینچ کر تیز چلنا (طَعْنَا وَطَعْنَانَا: فِي الرَّجْلِ وَ عَلِيَّهِ) عیب لگانا۔ طَعْنَهُ: مارنا لکیل: ساری رات چلنا۔ طَعِنَ الرَّجُلُ: طاعون زدہ ہونا۔ تَطَاعَنَ الْقَوْمُ تَطَاعِنًا وَ طَعَانَا وَاطْعَنُوا. ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔ الطَّعْنَةُ: نیزے کی ضرب۔ نیزے کی ضرب کا نشان۔ ح طَعْنٌ وَ طَعْنَاتٌ. الطَّاعُونُ. پلگ۔ وبا کی موت۔ ح طَوَاعِينٌ. الطَّعَانُ وَالْمَطْعَنُ وَالْمَطْعَانُ. بہت نیزہ مارنے والا ح مطاعن و مطاعین اور اسی سے ہے "هُوَ طَعَانٌ فِي أَخْرَاضِ النَّاسِ" یعنی وہ لوگوں کی آبرو پر بہت زیادہ طعنہ کرنے والا ہے۔ الطَّعِينُ. نیزہ زدہ۔ پلگ زدہ۔ ح طَعْنٌ. الطَّعِينُ. جنگ میں نیزہ مارنے میں ماہر۔ المَطْعَنَةُ. نیزہ بازی۔ طَعْرَهُ (ف) طَعْرًا. دفع کرنا۔ ہٹانا۔ الطَّعْرَاءُ وَ الطَّعْرِيُّ. شاہی فریمن اور سکون کی علامت۔ ح طَعْرَاءَاتٌ وَ طَعْرِيَّاتٌ. الطَّعْرَانِيُّ. طعرا بنانے والا۔ تَطَعَّمَ. عَلِيَّهِ: جاہل بننا۔ طَعْمَةُ. جماعت جن کا معاملہ ایک ہو۔ ح طَعْمَاتٌ وَ طَعْمٌ. الطَّعْمُ. سندر۔ بہت پانی۔ الطَّعَامُ. کینے لوگ (واحد و جمع) معمولی۔ پرنے۔ واحد طَعَامَةٌ. الطَّعَامَةُ: بیوقوف۔ الطَّعُومَةُ وَ الطَّعُومِيَّةُ. بیوقوفی۔ کینہ پن۔ طَعْمَشَ الرَّجُلُ: کزور نظر ہونا۔ إِلَيْهِ: کزور نظر سے دیکھنا۔ مَفَتِ مَطْعَمِشَ:

الظَّمْشَةُ: ضعف بصر۔
 طَفَا يَطْفُو طَفُوءًا وَطَفُوءًا: حد سے بڑھ جانا البحر: سمندر کا جوش مارنا۔
 السَّيْلُ: سیلاب کا چرہ آنا۔
 تَطَاعَى: الموج: موجوں کا جوش مارنا۔
 أَطْعَاهُ وَطَعَاهُ: سرکشی پر براہِ محبت کرنا۔
 أَطْعَاهُ الْمَالَ وَنَحْوَهُ: سرکش بنا دینا۔
 الطَّغْوَةُ: بلند جگہ۔ ج طغوات
 الطَّغْوَى: سرکشی۔
 الطَّاعُونَ: ہر حد سے تجاوز کرنے والا۔
 بدی و شرارت کا سرغنہ۔ شیطان۔ موجود باطل۔ ج طواغ و طواغیت۔ الطواغی و الطواغیت: مت خانے۔
 طَعَى وَطَعَى: يطعني طغيًا و طغيانًا و طغيانًا: یعنی طغا و اوی الکافر کفر میں غلو کرنا الرجل: ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھ جانا الماء: بلند ہونا۔
 طَعَى وَطَعَى: فَلَانًا: سرکشی پر براہِ محبت کرنا۔ سرکش بنانا۔
 الطَّغْيَةُ: اسم مرۃ۔ سرکش گھوڑا وغیرہ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ہر بلند جگہ۔
 الطَّاعَى: قَا۔ طَاغ۔ طَعَاة۔ طَاغُونَ۔
 الطَّاعِيَةُ: مؤنث طاعی۔ جبار۔ متکبر۔ سرکش۔ بیوقوف۔ بجلی۔ رومی بادشاہوں کا لقب اور بسا اوقات عرب زومی بادشاہوں کے علاوہ دوسروں پر اطلاق کرتے تھے۔
 طَفَّ (ن ض) طَفَا الشَّيْءُ مِنْهُ: قریب ہونا الحانط: دیوار پر چڑھنا۔ طَفَّهَ بِرَجُلِهِ او يَدِهِ: پیر سے یا ہاتھ سے اٹھانا۔
 طَفَّفَ: المكيال: کم پانا الطائر: پرندہ کا بازو پھیلاتا علی عیالہ: ہال بچوں پر نکل کرنا۔
 طَفَّقَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا بہ موضع کذا: قریب کرنا۔
 أَطْفَ عَلَيْهِ: جھانکنا الکئیل: بھرتا لد فریب دینے کا ارادہ کرنا عَلَيْهِ: مشتعل ہونا عَلَيْهِ بحجر: پھینکنے کے لیے اٹھانا لَهُ السيف: تلوار کو جھکانا۔

اسْتَطَفَّ عَلَيْهِ: جھانکنا۔ اسْتَطَفَّتِ الْحَاجَةُ: حاجت کا پورا ہونا۔
 الطَّفُفُ: بلند زمین۔ کنارہ۔ جانب۔ صحن۔ مکان۔ پہاڑ کا پہلو ج طفوف۔ (و الطفف و الطفاف و الطفاف و الطفاقة) من الاناء: برتن کا کنارہ۔ کنارے تک بھرا ہوا۔
 الطَّفَافُ وَالصَّنَافُ: رات کی تاریکی۔ طَفَّافُ الشَّمْسِ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "اتانا عند طَفَّافِ الشَّمْسِ" غروب آفتاب کے قریب ہمارے پاس آیا۔
 الطَّفِيفُ: کم۔ نامکمل۔ حقیر خسیس۔
 الطَّافَةُ: باغ کا گرد آگرد۔ قطعہ زمین جو پہاڑوں اور میدان کے درمیان ہو۔
 الطَّفُفُ وَالتَّفَافُ: من الخيل: ہلکا چھکا تیز رفتار گھوڑا۔
 الإطفافية: آگ کو بجھانے والا خاص گروپ۔
 إِنْاء طَفَّانٍ: لبال برتن۔
 طَفَّنتِ (س) طَفُوءًا: النار: آگ کا بجھنا عَيْنُهُ: آنکھ کا بے نور ہونا۔
 أَطْفَأَ: النار: آگ کا بجھانا۔ کہا جاتا ہے "أطفأ الفتنه او الحرب: یعنی فتنہ یا لڑائی کو فرد کر دیا۔
 انطفأت النضواء: النار: آگ کا بجھنا۔
 المطفئ: فإ مطفئ الجمر: ایام عجز کا چوتھا یا پانچواں دن۔ مطفئ الرصف: مصیبت۔ مطفئ الرصف: چرپل کی جو گرم پتھر پر پڑے تو پگھل جائے اور اس کی گرمی کو دور کر دے۔
 المطفأة: آگ بجھانے کا آلہ۔ ج مطفأی۔
 طَفَّحَ (ف) طَفَّحًا وَطَفَّوْحًا: الاناء: بھر جانا اور بہہ پڑنا الاناء: بھر دینا (لازم و متعدی) السكران: شراب سے پڑ ہونا المرأة بالولد: پورے دونوں پر بچہ جننا اور کہا جاتا ہے "اطفح عني" یعنی جاؤ۔
 طَفَّحَ وَاطْفَحَ: الاناء: بھرتا یہاں تک کہ بہ پڑے۔

اطْفَحَ: القدر: جھاگ نکالنا۔

الطفاح: پڑی۔

الطفاحة: ہانڈی کے جھاگ۔

الطفحان: لبریز جو بہہ پڑے۔ مؤنث طَفْحَى.

الطفاحة: مؤنث طافح: خشک۔

فَرَسٌ طَفَّاحٌ: القوائيم: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

المطفحة: کفیر۔

طَفَّذَ (ض) طَفَّذًا: الميت: دفن کرنا۔

الطفذ و الطفد: تبریح اطفالہ۔

طَفَّرَ (ض) طَفَّرًا وَطَفَّرًا: کودنا۔

أونچائی میں کودنا۔

طَفَّرَ: اللبن: بالائی والا ہوتا (واطفر) الفرس النهر: گھوڑے کو نہر کے ایک جانب سے دوسری جانب کودانا۔

الطفرة: أونچائی کی کودائی من اللبن: بالائی۔

طِفْسٌ (س) طِفْسًا وَطِفَاسَةً: گندہ ہونا۔

صفت طِفْس.

طِفْسٌ (ن) صُفُوسًا: الرجل: مرنا۔

طَفَّفَطَ طَفْفَطَةً: دشمن کے ہاتھوں میں ڈھیلا ہونا۔

الطفطفة و الطفطفة: کر۔ ڈھیلا گوشت۔

ج طفطاف.

الطفطاف: جانب۔ دریا کا کنارہ۔ درخت کی تروتازہ نرم شاخیں۔

طَفَّقَ (س) و طَفَّقَ (ض) طَفَّقًا وَطَفُّوْقًا: یفعل کذا: شروع کرنا۔ طَفَّقَ الموضع: لازم ہونا۔ طَفَّقَ بمراده:

کامیاب ہونا۔

أَطْفَقَهُ: بمراده کامیاب کرنا۔

طَفَّلَ (ک) طَفُولَةً وَطَفَالَةً: نرم و ناز پروردہ ہونا۔

طفل (ن) طَفُولًا: رات کے وقت داخل ہونا۔ طَفَّلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

طفل (س) طفلا و طفل النبات : نباتات کا مٹی لگ جانے سے طویل نہ ہونا۔ طفل اللیل : قریب ہونا۔ طفلت الشمس آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا الرجل : طفلی ہونا الکلام : غور کرنا۔ طفلة: نرمی برتاو اور یہ طفل الراعی الابل سے ماخوذ ہے جبکہ چرواہا چلنے میں اونٹوں سے نرمی کرے تاکہ اونٹ کے بچے بھی ساتھ ہو جائیں۔

اطفل: رات کے وقت داخل ہونا۔ اطفلت الشمس: آفتاب کا غروب کے وقت سرخ ہونا الانشی: بچہ والی ہونا۔ اطفل الکلام: سوچنا۔

تطفل: بچوں کی سی عادت اختیار کرنا۔ طفیل ہونا۔

الطفل: نرم و نازک۔ ج طفل و طفول مؤنث طفلة۔

الطفل: ہر چیز کا چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "ھو یسعی لی فی اطفال الحاجات" یعنی وہ میری چھوٹی چھوٹی حاجتوں میں کوشش کرتا ہے ہر وحشی جانور کا بچہ مؤنث طفلة۔ کہا جاتا ہے جاربة طفل و طفلة اور طفل واحد جمع دونوں کیلئے مستعمل ہے اسلئے کہ اسم جنس ہے۔ الطفل: حاجت رات۔ آفتاب جو قریب غروب ہو۔ چنگاری۔ کہا جاتا ہے "تطایرت اطفال النار" یعنی چنگاری آڑی۔ ریح طفل: نرم نرم چلنے والی ہوا۔ ج اطفال۔

الطفل: بچپن کی حالت۔ تاریکی۔ طفل الغداة: طلوع آفتاب کے کچھ بعد۔ طفل العشی: غروب آفتاب سے کچھ قبل۔

الطفلی: من النبات والحيوان: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور اور دخت و پودے۔

الطفال والطنان: خشک گارا۔ الطفولية والطفالة والطفولة: بچپنا۔ الطفیل: گدلا پانی جو حوض میں باقی رہ

جائے۔

الطفیلی: بے بلائے دعوت میں شریک ہونے والا اور یہ ایک شخص جس کا نام طفیل تھا اس کی طرف منسوب ہے۔

المطفل: بچہ والی (انسان ہو یا جانور) ج مضاف و مضافیل: کہا جاتا ہے "لیلۃ مطفل" بچوں کو بلاک کرنے والی ٹھنڈی رات۔

طفن (ن) طفنا: مرنا۔ قید کرنا۔ اطفان: المکان: قابل اطمینان ہونا الرجل: اچھی عادت والا ہونا۔

الطفانی: جھوٹ۔ لغو و بیہودہ گفتگو۔ قید۔ طفا یطفو طفوا و طفوا: پانی پر آجانا اور تیز نشین نہ ہونا اور اسی سے "السمت الطافی" جو مچھلی کہ پانی میں مر جائے اور اوپر آجائے الطبی: ہرن کا تیز دوڑنا فوق الفرس: کود کر گھوڑے پر بیٹھنا فی الارض: داخل ہونا فلاں: مرنا۔

الطفافة: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "اصبنا طفافة من الربیع" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا اہتاب کا بالہ۔

الطفوفة: باریک گھاس۔ الطفیفۃ: غیبت تم کا ایک سانپ ج طفلی: طنق: پتھر پر پتھر پڑنے کی آواز کی نقل۔

الطقس: طریقہ۔ طریقہ دینیہ پر عموماً استعمال ہوتا ہے۔ ج طقس اور عوام کے نزدیک بمعنی حالت جو اور تغیرات جو اس میں لاحق ہوں۔

طفطقت طفطقة: الدواب: جانوروں کے پاؤں سے آواز نکلنا۔

طل (ن) طلا: الغریبہ: ناناہ حقہ کم کرنا یا باطل کرنا۔ صلت السماء الارض: زمین پر ہلکی بارش ہونا ہ بالذھن: تیل ملنا۔ طل الابل: اونٹ کو تیز بانگنا۔

طل (س) وطل طلا واطل الدم: بغیر قصاص کے چھوڑ دینا۔ صفت طلیل و مظلون و مظل۔

اطل الدم: بغیر قصاص کے چھوڑ دینا الزمان: قریب ہونا علیہ: جھانکنا علی حقی: غالب آنا۔ کہا جاتا ہے "اطل علی فلان بالاذی" یعنی ہمیشہ تکلیف پہنچائی۔

تطل: گردن اٹھا کر دور کی چیز دیکھنا اور کہا جاتا ہے "تطاللت لہ" میں نے اس کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھائی۔

استطل: علیہ: جھانکنا الفرس ذنبہ و بذنبہ: گھوڑے کا ذم اٹھانا۔

الطل: ہلکی بارش۔ نجی ج طلال و طلل خوش نما دل پسند۔ بڑی عمر والا۔ سانپ (الطل): دودھ و بقول بعض خون۔ اونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الطل: سانپ۔ الطلة: خوش نما دل پسند۔ لذیذ خوشبو۔ لذیذ شراب۔ بیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیا ہوا باغ۔

کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بد زبان۔

الطلة: ایک مرتبہ دودھ پینے کی مقدار گردن ج طفل۔

الطلاء: بے بدلہ خون۔

الطلل: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "اغحسنى طللة ورافتی هیکلہ" یعنی اس کا جسم اور ڈول ڈول مجھے پسند آیا ج اطلال و طلون: طلل السفینة: کشتی کا پردہ۔ طلل الماء: پانی کی سطح لطلل من الدار: چوتروہ۔

الطلالة: ہر چیز کا جسم۔ اچھی بیت۔ اچھی حالت۔ تروتازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔

الطلیل: پرانی چٹائی۔ ج طلة واطلة و طلل: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔ المظلون: من الاماکن: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔

المطلل: کہہ۔ طلب (ن) طلبا: الشئ ذھوناً الیہ:

راغب ہونا۔
 طلب (س) طلباً زور ہونا۔
 تَطَلَّبَ وَاطْلَبَ الشَّيْءَ تَلَفُّفَ كَيْفَ سَأَلَهُ
 اور بار بار ڈھونڈنا۔
 طَلَبَ الشَّيْءَ مَهْلِكَةً يَسْأَلُهُ
 طَالِبُهُ طَالِبًا وَمَطَالِبُهُ اِبْنُ حَقِّ مَا تَكُنَّ
 اَطْلَبُهُ مَا تَكُنَّ كَيْفَ لِي بِمُجِيبٍ كَرِهْتُ طَلَبَ كَرِهْتُ
 چیز کو دینا کہا جاتا ہے "اطلبه الفقر یعنی
 فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اطلب الماء
 زور ہونا کہ بغیر ڈھونڈنے نہ مل سکے۔
 الطلبة اسم ہے مطالبہ کا۔ طلب کی نوعیت
 (والطلبية) جو چیز طلب کی جائے۔
 الطلب جو چیز طلب کی جائے۔ طلب کرنے
 والا۔ طلب اطلاب و طلبية۔
 الطلبة زور کا سفر۔
 الطالب فا۔ شاگرد۔ طلبية و طالب
 و طلب و طلب۔
 الطلوب بہت زیادہ طلب کرنے والا۔ بہت
 طلب کنوں جس کا پانی دور ہو۔ طلب
 الطلب بہت زیادہ مانگنے والا۔ طلباء
 الطالب بہت زیادہ مانگنے والا۔
 الطلبة مؤنث طلبية ج طالب
 المطلب طلب کرنا۔ مقصد کسی علم کا کوئی
 مسئلہ ج مطلب
 المطلب فا۔ ماء مطلب زور کا پانی۔
 المطلب جو طلب کیا جائے۔ ج
 مطالب
 طلت (ن) طلونا الماء پانی بہنا۔ جاری
 ہونا۔
 طلت علی کذا زیادہ ہونا۔
 الطلثة جاہل۔ ضعیف العقل۔ کمزور دین۔
 طلح (ف) طلحا و طلاحة العبير
 اُونٹ کا تھکانا۔ صفت طلح و طلح و
 طلیح
 طلح العبير و طلحة و اطلحة تھکانا۔
 طلح علی فلان اصرار کرنا۔ ضح
 العبير تھکانا۔

طلح (ن) طلحا فاسد ہونا۔ خراب
 ہونا۔
 طلح (س) طلحا و طلح پیٹ خالی ہونا۔
 صفت طلیح و طلح و طلح طلحت
 الإبل طلحا بول کھانے سے پیٹ خراب
 ہونا۔
 الطلح شگوفہ۔ درخت خراب۔ کیلا۔ حوض کا
 بقیہ گدلا پانی۔ بول کا درخت۔ واحد طلحة
 الطلح لاغر۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے بعیر
 طلح و ناقہ طلح ج اطلاق و طلاح
 مکان طلح جس میں بول کے درخت
 زیادہ ہوں۔
 الطلح نعمت۔ کہا جاتا ہے "هو فی طلح"
 وہ خوش عیش ہے۔
 الطالح فا۔ بدکار۔ ج طالحون و طلح
 ناقہ طالح و ابل طلح تھکے ہوئے
 اُونٹ۔
 الطلاح کیکر کا درخت۔ ابل طلاح سفر
 کی وجہ سے تھکا ہوا اُونٹ۔
 الطلیح چیز۔ لاغر۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے
 بعیر طلیح و ناقہ طلیح و طلیح ج
 طلاح و طلحی۔
 الطلیحہ کاغذ کا ایک ورق ج طلاحی
 المصلح فی الكلام بہتان گھڑنے والا
 فی المال مال میں نلک کرنے والا۔
 طلح (ن) طلحا الشیء کالا کرنا
 الکتابۃ خراب کر دینا فلانا بالقدیر لت
 پت کر دینا۔
 اطلح الذمغ بہنا۔ بکھرنے۔
 الطلح خراب پانی۔
 الطلحاء بیوقوف عورت۔
 اطلحہم الرجل تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔
 أمور مطلقہ مات سخت و دشوار امور۔
 طلسم (ض) طلسم البصر نگاہ کا ضائع
 ہونا (و طلسم) الکتابۃ لکھے ہوئے کو مٹا
 دینا۔
 طلسم (س) طلسم و طلسم (ک)

عَلَيْهِمْ متوجہ ہونا عَنْهُمْ: غائب ہونا اور دور ہونا۔

طَلَعُ (ف ن) و طَلَعُ (س) طُلُوْعًا الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا عَلَي الْأَمْرِ: جاننا البلاد: ملکوں کا قصد کرنا۔

الْمَسْكَانِ: پہنچنا مِنَ الْبِلَادِ: شہروں سے نکلنا (و طَلَعُ) النَّخْلُ: شگوفہ نکلنا۔ طَلَعُ الْكَيْلُ: پیانہ کو بھرنانا۔

طَالَعَهُ مَطَالَعَةً و طَالَعًا: زیادتی غور و فکر سے مطلع ہونا الْكِتَابِ: کتاب پڑھنا ہ بالَأَمْرِ: پیش کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَالَعْنِي كُلَّ وَقْتٍ بِكُتُبِكَ" یعنی اپنی کتابوں کو ہر وقت میرے سامنے پیش کرو۔

أَطْلَعُ الْكَوْكَبَ: ستارہ کا نکلنا النَّبَاتُ: نباتات کا آگنا النَّخْلُ: شگوفہ نکلنا الشَّجَرُ: درخت کے پتے نکلنا النَّخْلَةَ: درخت خرما کا طویل ہونا عَلَي الشَّيْءِ: جھانکنا الْفَجْرُ: فجر کے طلوع ہونے کو دیکھنا هُ عَلَي سِرِّ جَوَافِقِ: کر دینا۔ أَطْلَعُ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا: جہاں سلوک کرنا۔ أَطْلَعَهُ طَلَعُ أَمْرِهِ: حقیقت حال کو ظاہر کر دینا الرَّجُلُ: نے کرنا الرَّامِي تَبِيْرًا: نشانہ کے اوپر سے نکل جانا عَلَي فَلَانٍ: اپناک پہنچ جانا۔

أَطْلَعُ الْأَمْرَ و عَلَيْهِ جَانَا عَلَيْنَا: چاک آجانا الْفَجْرُ: طلوع فجر کو دیکھنا۔ أَطْلَعُ طَلَعُ الْعَدُوِّ: دشمن کی حقیقت حال سے واقف ہونا۔

تَطْلَعُهُ: جاننا۔ چہرے کی طرف دیکھنا۔ الرَّجُلُ: پائینا۔ غالب آنا۔ تَطْلَعُ الْمَكِّيَالُ: پیانہ کا بھر جانا الْمَاءِ مِنَ الْإِنَاءِ: پانی کا برتن کے کناروں سے ابل پڑنا۔

اسْتَطْلَعُهُ ظَاهِرٌ هُوْنَةُ كِي خَوَاشِ كَرْنَا: حقیقت حال دریافت کرنا۔ "اسْتَطْلَعُ رَأْيَ فَلَانٍ و اسْتَطْلَعُهُ رَأْيَهُ كِي كِي رَأْيَهُ و تَدْبِيرُهُ غُورُ كَرْنَا: مطلع مقدار۔ تم کہتے ہو "الجيش طلع اليب" یعنی لشکر ہزار کی مقدار میں ہے

النَّخْلِ: شگور کا گاجھا۔ شگوفہ۔

الطَّلَعُ: اسم ہے الطَّلَعُ: کہا جاتا ہے "أَطْلَعُ طَلَعُ الْعَدُوِّ" وہ دشمن کی حقیقت حال کو جان گیا۔ سانپ۔

الطَّلَعُ و الطَّلَعُ: بلند مکان جہاں سے جھانکیں۔ گوشہ۔ الطَّلَعَةُ: دیدار۔ چہرہ۔

أَمْرًا طَلَعَةً: عورت بہت زیادہ ظاہر ہونے والی۔ کہا جاتا ہے "نَفْسٌ طَلَعَةٌ" یعنی اپنی خواہشات کی طرف زیادہ میلان رکھنے والا نفس۔

الطَّلَاعُ مِنَ الْإِنَاءِ: پری ج طَّلَعُ و طَّلَاعُ الشَّيْءِ: مقدار شی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَّلَاعُ هَذَا" یعنی یہ اس کی مقدار ہے "عَيْنٌ طَّلَاعٌ" آنسو سے بھری ہوئی آنکھ۔ قَدْخ طَّلَاعُ: بھرا ہوا پیالہ۔

الطَّلَاعُ: مبالغہ طالع۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَّلَاعُ النَّبَا و الْإِنْعَادِ" یعنی وہ بڑے بڑے امور کا قصد کرتا ہے یا وہ امور میں تجربہ کار ہے جن کی تدبیر اچھی طرح کرتا ہے۔

الطَّلَعَاءُ و الطَّلُوعُ: ت۔ الطَّلِيعَةُ مِنَ الْجَيْشِ: ہراول۔ مقدمہ الجیش جو لشکر کے پہلے بھیجا جائے تاکہ دشمن کے احوال و کوائف کی تفتیش کرے۔ واحد و جمع دونوں میں مستعمل ہے۔ ج طَّلَاعُ: الطَّلَاعُ: پہلی رات کا چاند۔ فجر کا ذب عنہ أصحاب الفأل زانجی۔ ستاروں کے طلوع سے جس پر سعد و نحس کا شگون لیا جائے۔

ج طَوْلَاعُ: الطَّلُوعُ بمعنی طالع۔ المَطْلُوعُ: المَطْلُوعُ ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ۔ میٹر می۔ چڑھنے کی جگہ ج مَطْلَاعُ: مطلع الامر کسی کام کے حصول کا ذریعہ و طریقہ۔ مطلع القصيدة: قصیدہ کا پہلا شعر۔

المَطْلُوعُ: قوی غالب۔ المَطْلُوعُ: آنے کی جگہ۔ اُونُجْ سے

جھاکنے کی جگہ۔ طَلَّفَ عَلَيْهِ: زیادہ کرنا۔ أَطْلَفَهُ كَذَا: ہبہ کرنا۔ أَطْلَفَ الدَّمُ: خون کو رائیگاں کر دینا۔ الطَّلْفُ: وار و دہش۔ آسان چیز۔ زائد چیز (و الطَّلْفُ) رائیگاں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبٌ دَمَةٌ طَلْفًا" یعنی اس کا خون رائیگاں گیا۔ الطَّلِيفُ: ناخوشی رائیگاں۔ باطل۔ طَلَّقَ (ض) طَلْفًا: الشَّيْءُ فَلَانًا: دینا طَلِقَ يَدَهُ بِخَيْرٍ: بھلائی کے لئے ہاتھ کھولنا۔ طَلَّقَ (ن) طَلْفًا: المَرَأَةُ مِنْ زَوْجِهَا عورت کا شوہر سے جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا۔ صفت طَالِقُ ج طَالِقَةٌ: ج طَوَالِقُ النَّاقَةِ: پاؤں باندھنے کی رشتی سے کھل جانا۔ طَلَّقَ (س) طَلْفًا: بے حد ہونا۔ طَلَّقَ (ك) طَلْفًا و طَلُوقَةً: اللِّسَانَ: فصیح خوش بیان ہونا۔ طَلَّقَ (ك) طَلُوقَةً و طَلَاقَةَ الرَّجُلِ: ہنس کھ ہونا۔ طَلَّقَتِ الْمَرَأَةُ طَلْفًا: در روزہ والی ہونا۔ صفت مَطْلُوقَةٌ: طَلَّقَ قَوْمَهُ: قوم کو چھوڑ دینا۔ جدائی اختیار کرنا الْمَرَأَةُ زَوْجِهَا: قید نکاح سے علیحدہ کر دینا۔ النَّخْلَةَ: درخت خرما میں گامھا دینا۔ أَطْلَقَ الْمَرَأَةَ و النَّخْلَةَ: بمعنی طَلَّقَ الْمَوَاشِيَّ: چھوڑ دینا الْإِسْبِيْرَ: قیدی کو آزاد کرنا يَدَهُ بِخَيْرٍ: بھلائی کیلئے ہاتھ کھولنا فحی کلامیہ: تعظیم کرنا۔ مقید نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَقَ رَجُلَهُ" یعنی جلدی کی الدواء بطنہ: یعنی دوانے اس کے پیٹ کو چلا دیا یعنی دست جاری ہو گیا۔ الْحَلْبَةَ: یعنی اپنے گھوڑے کو میدانِ مسابقت میں دوڑایا۔ تَطَلَّقَتْ وَجْهَهُ: شہادہ رو ہونا۔ تَطَلَّقَتْ الْحَيْلُ: گھوڑوں کا بغیر روک کے ہنسی پر پہنچ جانا۔

انطلق جانا لسانہ زبان کا رواں ہونا
وَجْهَهُ بِشَاهِدِهِ رُوهُنَا نَفْسُهُ لِلْأَمْرِ بِشَرْحِ
صدر ہونا انطلق بہنے جایا جانا۔

إِطْلُقْ نَفْسَ كَمْ هُوَا۔
اِسْتَطْلُقُ الْبَطْنَ نَيْتَ جِلْنَا الطَّلْبِي هِرْنَ كَا
تیزی سے دوڑنا اور کسی چیز کی طرف مائل نہ
ہونا الامر کلام میں جلدی کرنا۔

الطَّلُوقُ س۔ درو زہ ہرن۔ ج اطلاق
(والطَّلُوقُ وَالطَّلُوقُ وَالطَّلُوقُ وَالطَّلُوقُ
وَالطَّلُوقُ) آزاد غیر مقید کہا جاتا ہے
”خَيْسَ طَلْقًا وَطَلْقًا“ یعنی بغیر پھڑکی کے
قید کیا گیا۔ یوم طَلْقَ ذَنْ جَسْ مِیْنِ نَ سَرْدِی
ہونہ گرمی۔ فَرَسٌ طَلَقَ الْبِدْمُحُوْرًا جَسْ كِ
اگلی ناگوں میں سفیدی نہ ہو۔ رَجُلٌ طَلَقَ
الْبِدْمِیْنَ جَعْلًا۔ رَجُلٌ طَلَقَ الْوُجْهَ وَطَلَقَهُ
وَطَلَقَهُ وَطَلَقَهُ وَطَلَقَهُ كَشَاهِدِهِ رُوْمَرِدِ
نہں کھ۔ کہا جاتا ہے ”لِسَانُهُ طَلَقٌ وَطَلِقٌ وَ
طَلِیقٌ“ یعنی اس کی زبان تیز و طرار ہے۔
الطَّلُوقُ خِلَالِ حَصَّةٍ كَهَا كَمَا بَا هُوَا بِنْدِ۔ الطَّلُوقُ
وَالطَّلُوقُ اَبْرَكِ۔

الطَّلُوقُ س۔ گھوڑے کی دوڑ کا ایک پیکر۔
آت۔ رتھی مضبوط بنی ہوئی۔ کھال کا بنا یا ہوا
بندرج اطلاق۔ کہا جاتا ہے ”اَصْبَتْ مِنْ مَالِهِ
طَلْقًا“ مجھے اس کے مال سے حصہ ملا۔ کہا جاتا
ہے ”عَلَى الْاِطْلَاقِ اَوْ مُطْلَقًا“ یعنی عام
طریقہ سے بلا کسی استثناء کے۔

الطَّلُوقُ وَهُوَ حَضْرَاتُ فَوْجِ مَكَّةَ كَ دِنِ اِسْلَامِ
لائے اور ان پر احسان کیا گیا۔
الطَّلُوقُ وَالْمِطْلَاقُ وَالْمِطْلَاقُ بَهْتِ

زیادہ طلاق دینے والا۔
الْمُطْلَقُ خِلَافَ مُتَقَدِّمِ الْخَيْلِ وَهُوَ گھوڑا
جس کی ایک ٹانگ میں سفیدی نہ ہو۔

طَلْمٌ (طَلْمٌ) طَلْمًا وَطَلْمٌ الْخُبْرَةُ زَوْئِي كُو
ہاتھ سے ہموار کرنا۔ طَلْمٌ الْعَرَقُ عَن
جسبہ پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔
الطَّلْمُ رُوئِي پھیلانے کا تختہ۔
الطَّلْمُ دَانْتُوں كَامِيلِ۔

الطَّلْمَةُ رُوئِي جِ طَلْمٌ الْمَطْلَمَةُ بِلِيْنِ۔
عام لوگ اسے شوک کہتے ہیں۔

طَلْمَسٌ تَرَشٌ رُوئِي كَرْنَا۔ تِيُوْرِي چڑھانا
الْكِتَابُ مَنَانَا۔
اِطْلَمَسَ الْكَيْلُ خَتَ تَارِيكِ هُوَا۔
الطَّلْمَسَاءُ تَارِيكِي۔ بغير کسی علامت کے
زمین۔ چلا پتلا بادل۔

طَلْمَرٌ (طَلْمَرٌ) طَلْمًا الرَّجُلُ فِي الْبِلَادِ
جانا۔ آہتہ چلنا۔
اِطْلَمَّ اِطْلَمًا مَطْلَعٌ هُوَا۔

الطَّلْمَةُ چلا بادل۔
الطَّلْمَةُ بَقِيَّةُ مَالِ۔
طَلَاةٌ يَطْلُوْنَ طَلَاةَ الرَّجُلِ يَدِيْرُ كَرْنَا۔
طَلَا يَطْلُوْنَ طَلَاةَ الرَّجُلِ يَدِيْرُ كَرْنَا۔
اَطْلَمْتُ الْوَحْشِيَّةَ بَعِيْجًا وَآلِي هُوَا۔
اِطْلُوْا لِي اِطْلِيْلًا اِحْسِيْ كَفْتُوْا اَلَا هُوَا۔

الطَّلَاةُ وَالطَّلُوْا هِرْنَ كَا بَعِيْجًا هُوْتِي
وقت۔ ہر چیز کا چھوٹا ج۔ اَطْلَاةٌ وَطَلَاةٌ وَطَلِيْ
وِطَلِيَانٌ وَطَلْمَانٌ۔
الطَّلُوْا بَعِيْجِيَا۔

الطَّلُوْةُ مَانُوْرُوں كَا بَعِيْجِ۔
الطَّلُوْةُ صَبْحِ كِي سَفِيْدِي۔
الطَّلَاةُ وَالطَّلَاةُ وَالطَّلَاةُ وَهُوَ حَسَنٌ وَ

رُوْتِي۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا كَلَامٌ مَا عَلَيْهِ
طَلَاةٌ“ یعنی یہ ایسی گفتگو ہے جس میں کوئی
خوبی و روتق نہیں۔ منہ میں کھانے کا بقیہ۔
جاود۔ خون یا دودھ پر کی پتلی جھلی۔ الطَّلَاةُ
جو کسی چیز پر طلاء کیا جائے۔

طَلِيْ يَطْلِيْ طَبِيْعًا نَائِكٌ بَانْدَه كَر كَرْنَا۔
الْبَعِيْرُ الْقَطْرَانُ اَوْ بِالْقَطْرَانِ اَوْتِيْ پَر
قطران ملنا (دیکھئے القَطْرَانِ) الشَّيْءُ زُو كَرْنَا۔

طَلِيْدِيْرِي (طَلِيْدِيْرِي) طَلِيْ فُوْةٌ اَوْتِيُوں مِیْنِ زَرْدِي
ہونا لسانہ زبان کا ثقیل ہونا۔
طَلِيْ تَطْلِيْبِيَّةٌ كَمَا فَلَانَا قَدِيْر كَرْنَا۔ گالی دینا
الْبَعِيْرُ الْقَطْرَانُ اَوْتِيْ پَر قَطْرَانِ مَلْنَا (دیکھئے
القَطْرَانِ) الْكَيْلُ الْاَفَاقُ رَاتِ كَا اَتَاقُ كُو
ڈھانپ لینا۔

اَطْلِيْ كَزُوْرِي يَا كِي وَجْهَ سَ غُرْدِنِ كَا بَحْلَانَا۔
تَطْلِيْ كَيْلِ كُوْدِي مِیْنِ مَنَهْكِ رَهْتَا (واطْلِيْ)
بِالْقَطْرَانِ قَطْرَانِ سَ لَتِ پَتِ هُوَا۔
الطَّلِيْ شَخْصٌ۔ قَطْرَانِ مَلَا هُوَا۔ خَتِ
مَرِيضٌ۔ هِرْنَ كَا بَعِيْجِ اِطْلَاةٌ خَوَاشِ۔ كَمَا
جَاتَا هُوَا ”قَضِيْ طَلَاةٌ“ یعنی اپنی خواہش
پوری کی۔
الطَّلِيْ لَذْتِ۔

الطَّلَاةُ قَطْرَانِ۔ اَمْگُوْر كَارِسِ جَسْ مِیْنِ سَ
پکانے کی وجہ سے دو تہائی جاتا رہے۔ اور
شَرَابِ سَ بَعِيْجِي كُنَا يَه كَمَا جَاتَا هُوَا۔ رَتْسِيْ جَسْ
سَ هِرْنَ كَ سَ بَعِيْجِي كَ سَ بَعِيْرُ كُو بَانْدِ مِیْنِ
(وَاطْلَاةُ اَبْرُوْهَ جِزْجِسْ كُو طَلَا كَمَا جَاتَا هُوَا۔
الطَّلَاةُ خُوْنِ كَ اُو پَر كِي بَارِي كِ جَعْلِي۔
الطَّلِيْ دُوْدَهْ اَبْرُوْهَ جِزْجِسْ كُو مَقْدَارِ۔
الطَّلِيَّةُ وَالطَّلَاةُ كَزُوْرِنِ جِ طَلِيْ۔

الطَّلِيْ كَبْرِي كَا چھوٹا بَعِيْجِ جِ طَلِيَانِ
(وَاطْلِيَانِ) اَوْتِيُوں كِي زَرْدِي۔
الْمِطْلِيْ وَالْمِطْلَاةُ جَعْلًا نَالِدِ مَطْلَالِ۔
الْمِطْلِيْ وَآئِمُّ الْمَرَضِ۔ كَزُوْرِنِ مَرِيضِ۔ قَدِيْدِي

كِي جَسْ كِي رَهَابِي كِي اَمِيْدِي نُو۔
طَمْرُنٌ طَمًّا وَطَمْمًا الْاِنَاءُ بَرْتِنِ
بھرتا الشَّعْرُ نَالِ كَانَا يَا كَرِهَ لَكَا نَا الْفَاءُ
ڈھانپ لینا الشَّيْءُ زَاوِدَه هُوَا الْاَمْرُ بَزُوْهَانَا۔

طَمْرُنٌ (طَمْرُنٌ) طَمًّا الْبَشَرُ كُو نِیْسِ كُو پَاثِ
دینا۔
طَمْرُنٌ (طَمْرُنٌ) طَمًّا وَطَمِيْمًا الْفَرَسُ۔

گھوڑے کا آہتہ آہتہ دوڑنا۔
طَمٌّ وَطَمٌّ وَطَمْمٌ الْطَائِرُ بَزُوْدَه كَا بَشِي
پَر اَتْرَا۔

اَطْمٌ وَاسْتَطَمَّ الشَّعْرُ نَالِ كَانَا كَانَا كَا وَتِ
قریب ہونا۔
الطَّمُّ پَانِي۔ سَمْدَرُ۔ عَدَدُ كَثِيْرٍ۔ عَمَدٌ گھوڑا۔

تَجِبٌ۔ تَجِبٌ اَكْمِيْرٌ۔ كَمَا جَاتَا هُوَا ”جَاءَ بِالطَّمِّ
وَالرَّمِّ“ یعنی بہت مال لایا۔
الطَّمَّةُ مِنَ النَّاسِ جَمَاعَتِ طَمَّةُ الْقَوْمِ
قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔

زبوع طمّاس مئے ہوئے مکانات۔
الطمیس والطمّوس اندھا۔
طمطم وسط سندر میں تیرنا۔
الطمطام وسط سندر۔
الطمطم والطمطمی والطمطمانی
زبان کی لکت والا۔
طمع (س) طمعا وطماعا و طماعیة
فی الشی و بہ لالچ کرنا۔ صفت طامع و
طمع و طمع ج طمعون و طمعاء
و اطماع و طماعی۔
طمع (ک) طماعة بہت لالچ کرنا۔
طمعہ لالچ پر برا بھینٹ کرنا۔
اطمعہ لالچ میں ڈالنا۔
تطمع لالچی ہونا۔ خواہش مند ہونا۔
الطمع وہ چیز جس کی خواہش کی جائے۔ لشکر
کی تنخواہ اطماع۔
الطماعۃ خواہش مندی۔
الطماع و المطماع بہت زیادہ لالچی۔
المطمع جس کی خواہش کی جائے ج
مطماع۔
المطمعۃ باعث طمع۔ لالچ پر آسانے والی
چیز۔
طمعت (س) طمعا عینہ آنکھ کا بہت
کچھڑ والی ہونا۔
طسل (ن) طملا الخباز الخبز روٹی کو
بیلن سے چوڑی کرنا الثوب کپڑے کو گہرا
رنگنا۔
الدد السہم وغیرہ خون کا تیر کو تھیرنا۔
الراعی چرواہے کا تختی سے ہانکنا۔
طسل (س) و طمل طملا خون آ تیل یا
تار کول سے تھیرنا۔ صفت طمیل۔
اطسل الکتاب مٹانا۔
انطسل الرجل چوروں کے ساتھ شریک
ہونا۔
الصلل خمیر گو ہندھا ہوا آٹا مخلوق۔
الطمل بیوقوف۔ کمینہ بدکار۔ بد زبان جو
نہ اپنے فعل پر شرمائے اور نہ کسی کے کچھ کہنے

جانا۔
البد ورم آجانا۔
طمر فی ضرسہ داڑھ میں درد ہونا۔
طمر الشی لیٹنا اور دفن کرنا البیت پردہ
لگانا۔
اطمر علی فرسہ پیچھے سے کود کر سوار
ہونا۔
الطمر پرانا کپڑا جو کسی چیز کا مالک نہ ہو ج
اطمار کہا جاتا ہے "لاحت الشمس فی
الاطمار" یعنی زرد رنگ کا ہو گیا اور اس کی
کچھ روشنی جاتی رہی۔
الطمر و الطمر و الطمر و الطمور و
بسی ناگوں کا تیز رفتار گھوڑا۔
الطامر فاب پوج طوامر کہا جاتا ہے
"هو طامر بن طامر" وہ جموں ہے یہ بھی
نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے۔
الطمر جہل نادانی۔
طمرۃ الشباب ابتدائے شباب۔ عقوان
شباب۔
الطامور و الطومار صحیفہ ج طوامیر کہا
جاتا ہے "کتب فی الطومار و الطوامیر"
المطمر و المظمار معماروں کا دھاگا۔
پرانے لباس والا۔ کہا جاتا ہے "هو علی
مظمار ابیہ" وہ صورت ویرت میں اپنے
باپ کے مشابہ ہے۔
المطمورة کھیتی قید۔
طمس (ن) طموسا ڈور ہونا۔ کہا جاتا
ہے "لا اذری این طمس" میں نہیں جانتا
کہاں گیا بعینہ ڈور تک دیکھنا۔
طمس (ن ض) طمسا و طموسا و
تطمس و انطس۔ نسا۔ طمس النجم
او البصر ستارہ یا نگاہ کاے نور ہونا۔
طمس (ض) طمسا الشی مٹانا۔ ہلاک
کرنا۔ ڈھانپ لینا۔ جڑ کھودنا الغیمہ النجوم
پاول کا ستارے کی روشنی کو زائل کر دینا۔
طمس (ض) طمسا الشی اندازہ
کرنا۔

الطمیم آہستہ دوڑ۔ عمدہ گھوڑا۔ طمیم
الناس مختلف قسم کے لوگ۔
فرس طموم تیز رفتار گھوڑا۔
الطامة بڑی مصیبت۔ قیامت۔
الاطامیم ناگلیں۔
طمان و کھومادہ "طمین"
طمث (ن ض) طمنا الشی چھوٹا۔
طمث و طمٹ (ن ک) طمنا۔
المراة حائضہ ہونا۔ صفت طامث۔
الطمث س میں پکیل۔ نسا۔ خون۔ حیض۔
تہمت کہا جاتا ہے "ما بفلان طمٹ
رشیہ" یعنی فلاں کے ساتھ تہمت کا میل پکیل
نہیں۔
طمح (ف) طمحا وطمحا و طموحا
بصرہ الیہ: نگاہ اٹھانا۔ بصرہ الیہ: بلندی
کی جانب دیکھنا بانفہ: مغرور ہونا۔ ناک چڑھانا
بہ لے جانا۔ فی الطلب کوشش کرنا۔
طمحت (ف) طمحا و طموحا۔
الدابة جانور کا سرش ہونا المراة علی
زوجہا عورت کا نافرمان ہونا۔ صفت
طامح ج طوامح۔
طمح الفرس گھوڑے کا گلی ناگوں کو اٹھانا
بالشی فی الہواء پھینکانا۔
اطمح بصرہ الیہ: نگاہ اٹھانا۔
یحز طموح الموج بلند موج والا
سندر۔
طمحات الدھر و طمحاتہ: مصائب۔
الطماح غرور۔ فخر۔
الطماح دور۔ حریص۔
طمح (ن) طمحا بانفہ تکبر کرنا۔
طمر (ض) طمرا الشی دفن کرنا۔
چھپانا (طمرا و طمورا و طمارا و
طمرانا) کو ڈبانا۔ اچھلانا۔
طمر (ن) طمورا جانا۔ سفر کرنا۔
طمر (ن) طمرا المطمورة: کھیتی
بھرتا۔
(و طمر (س) طمرا الجرح: سوج

کی پروا کرے۔ کالا کبل۔ فقیر۔ بد حال بد شکل
بار۔ برانا کپڑا۔ ج طمّول (الطمّولة)
والطمّولة) گدلا پانی۔ کچھڑ۔

الطامل۔ فاجر و بدکار جو اپنے فعل کی پروا نہ
کرے۔

الطمیل۔ گدلا پانی۔ گنام۔ چٹائی۔ بارہ تلوار
وغیرہ کا چوڑا پھل۔ بکری کا بچہ۔ سہمہ طمیل
خون سے لٹ پت تیر۔ حیز طمیل۔ بیلین
سے چوڑی کی ہوئی روٹی۔

الطمول۔ بدکار جو اپنے فعل کی پروا نہ
کرے۔

الطمولة۔ بدکاری بدکاری۔

المطملة۔ بیلین۔

طمآن طمانة و طامن۔ ظہور۔ پیٹھ کو
پست کرنا۔ جھکانا الشیء ساکن کرنا۔

تطامن۔ پست ہونا۔

اطماناً اطماناً و طمانینة الید۔ آرام
لینا۔ قرار پکڑنا۔ پست ہونا۔ کہا جاتا ہے
"اطماناً عما كان یفعله" یعنی چھوڑ دیا۔

الطنن۔ ساکن ج طمّون۔

المطمئن۔ ساکن من الأرض۔ نرم پست
زمین۔

طما یطمون طمونا و طمی یطمی طمیاً
الماء۔ پانی کا بلند ہونا اور نہر کو بھر دینا البحر
سمندر کا بھر جانا لبیت نباتات کا طویل ہونا۔
بڑھنا۔

طمث همته۔ ہمت بلند ہونا۔ طمابه الهم
او الخوف غم یا خوف کا سخت ہونا۔

طن (ض) طناً و طیناً و طیناً الذباب او
النافوس و شبه ذلك۔ جھنسانا۔ بجائے آواز
دینا۔ وطن فلان۔ مرنا۔

اطن۔ بجانا۔ آواز کرنا اطن الساق۔ پٹری
کو کاٹ دینا۔

الطن۔ جسم ج اطنان و طنان۔ بانس کا
گٹھا۔ اور ایک بانس طنّہ کہلاتا ہے۔ الطن
ڈھکی ہوئی روٹی کا بوجھ۔

الطنان۔ زیادہ بچنے والا۔ کہا جاتا ہے "فلان

ذکر ضان" یعنی فلاں کا ذکر مشہور ہے
تلك قصيدة طنانة" یعنی اس قصیدہ کی ہر
جگہ میں شہرت ہے۔

الطنانة۔ زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام
کے کیڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹا کے
آواز آتی ہے بھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطنی۔ من الرجال۔ بڑے ذیل ڈول کا۔
طناً (ف) صناً و صنی (س) طناً شرم
کرنا۔

اطناً کسی مکان کی طرف مائل ہونا۔

اطناً الی الحوض۔ حوض کی طرف جانا اور
پانی پینا۔

اطناً الی البساط۔ بچھو کے کی طرف جانا اور
کابلی سے اس پر سو جانا۔ کہا جاتا ہے "حیث لا
تطنی" سانپ جس کا ڈسا ہوا فوراً ہی مر
جائے۔

الطن۔ بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے زمی
فلان فی طنہ" یعنی مر گیا۔ بچھی ہوئی
راکھ۔ خواہش نفس کی طرف میلان۔

بدکاری۔ بچھونا۔ فرش باغ۔ ہمت۔ کہا جاتا
ہے "فلان بعید الطن" یعنی فلاں بڑی
ہمت والا ہے۔ منزل۔ تہمت۔

طنب (س) طنباً۔ الریح تیزے کا ٹیڑھا
ہونا الفرس گھوڑے کا لمبی پیٹھ اور لمبی اور
کمزور ٹانگوں والا ہونا۔ صفت اطنب مؤنث
طنباء۔

طنب الحیسة۔ خیرہ لگانا بالمکان
اقامت کرنا الدنّب۔ بھیڑیے کا بھونکنا
السقاء۔ منگ کے سوراخ پر پوند لگانا۔

طاب القود۔ قوم کے خیموں کی رسی کے
ساتھ اپنے خیمہ کی رسی ملانا۔

اطنبت۔ ہوا کا غبار کو اڑانا۔
الابن۔ بعض اونٹوں کا بعض کے پیچھے چلنا۔

فی الوصف او العدو۔ مبالغہ کرنا۔
تطاب القود۔ خیمے کی رسیوں کو بعض کو
بعض کی طرف کرنا۔

الطنب۔ خیمہ کی لمبی رسی۔ جسم کا پٹھا۔

درخت کی جڑ ج اطناب و طنبہ۔ کہا جاتا ہے
"مدت الشمس اطنابیا" یعنی آفتاب
طلوع ہوا۔ "تقصت اطنابیا" یعنی غروب
ہوا (الاطنابہ) کمان کے قبضہ پر باندھنے کا

ترمہ ج اطنیب۔ کہا جاتا ہے "حیل
اطنیب" بعض بعض کے پیچھے چلنے والے۔

المطنب۔ کندھا۔ مونڈھا۔ ج حساب۔
المطنب۔ فار بہت تعریف کرنے والا۔
جیش مطناب۔ بہت بڑا لشکر۔

الطنبور و الطنبار۔ ستار ج طنابیر۔

طنیل طنيلة الرجل۔ عظمندی کے بعد
بیوقوف بننا۔ کہا جاتا ہے "کان یسبہ
طنيلة" یعنی ان کے درمیان شرف و فساد ہے۔

الطنیل۔ بیوقوف۔ کنز و ن۔

الطنجرة۔ تانبے کی دیگی۔

الطنجیر۔ کڑا ہی۔ کناہی از بزدل و کمینہ۔

طنخ (س) طنخاً۔ بد بھمی ہونا۔ دل پر
چرہی غالب ہونا۔ مونا ہونا۔ صفت طنخ و
طنخ صحنه نفسه۔ جی کا بگڑنا۔

اطنحه و طنحه۔ بد بھمی کرنا۔ کہا جاتا ہے
"مرطخ من اللیل" رات کا ایک حصہ گزر
گیا۔

طنز (ن) طنزابه۔ تمسخر کرنا۔

تطنز۔ القوم۔ ایک دوسرے کے ساتھ
تمسخر کرنا۔
الطناز۔ تمسخر کرنے والا۔

الطنظلة عند العامة۔ طلق کا کول۔ صحیح لفظ
ظلا طلة ہے۔

طنطن طنطنة الجرس و الطست
والذباب و نحوها۔ جس کا بچنا۔ طشت کا
آواز دینا۔ کسی کا جھنجھٹانا۔

طنف (س) طنفاً۔ متمم ہونا (طنافه
و طنوفه و طنفاً) بدباطن ہونا۔ صفت
طنف۔

طنفة۔ متمم کرنا طنفت الجدار۔

دیوار پر کانٹے کی بازھ لگانا۔ کانس نکالنا۔ مبتابی
بناत्मفسه الی کذا۔ لالچ کے قریب کرنا۔

الطھی تکا۔
 الطھی گناہ پاک ہوا۔
 الطھی سخت مار۔ پتلا بادل۔
 الطھی نا۔ باورچی۔ نانائی۔ بھوننے والا
 طہا و طھی مؤنٹ طاہیج طواہ و
 طاہیات۔
 الطہایة پکانے کا پیشہ۔
 الطہاوة دودھ یا خون کے اوپر کی باریک
 جھلی۔
 الطہانة بلند بادل۔
 طاء یطاء و یطوء طوءا آنا جانا۔ فی
 الارض دور تک نکل جانا۔
 تطائت تطایوا الاسعار بھاؤ کا گراں
 ہونا۔
 الطائنة کچھ۔ چراگاہ میں دور نکل جانا۔ کہا جاتا
 ہے "ما بالدار طوی" یعنی گھر میں کوئی
 نہیں۔
 الطوب کی اینٹ۔ واحد طوبۃ۔
 الطواب خشت پز۔
 طاح یطوح طوحا حیران ہونا۔ ہلاکت
 کے قریب ہونا السہم نشاندہ سے خطا کرنا۔
 طوحہ حیران کرنا۔ آوارہ پھرنا۔ طوح
 بہ خطرناک امور پر براہمجہت کرنا۔ فضاء آسانی
 میں پھیلنا۔ کہا جاتا ہے "طوحث بہ طوانح
 الزمن" یعنی زمانے کے حوادث نے اس کو
 پھینک دیا۔
 طوح تطویحا و طیح تطیحا الشی
 ضائع کرنا۔
 طواحة مطاوحة۔ بگذا ایک دوسرے
 پر پھینکانا۔
 اطاحہ ہلاک کرنا۔ فنا کرنا۔ اطاح
 الشعربال گرا دینا۔
 تطوح فی البلاد نگر گرداں ہونا اور ادھر
 ادھر پھرنا۔ فی البئر کنوئیں میں گرنا۔ کہا
 جاتا ہے "نام علی مطیبة۔ یطوح یعنی
 وہ وہاں آمدورفت رکھتا ہے۔
 تطاوح تطاوحا القوم فلانا بالامر او

کرنے کی جگہ (کلمہ نصرانیہ)
 المظہرة والمظہرة۔ لوٹا۔ طہارت
 حاصل کرنے کا مکان۔ کہا جاتا ہے "السؤال
 مظہرة للقم" یعنی مساوک مُد کی صفائی کا
 سبب ہے۔ ج مظاہر۔
 المظہرة۔ متعدی امراض کے مریض کے
 کپڑے اور سامان کے صاف کرنے کا آلہ۔
 طہس (ف) طہسا۔ فی الارض
 داخل ہونا اور گھسنا۔
 طہس (ف) طہسا العمل کام کو بگاڑ
 دینا۔
 اظہف السقاء نزم ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ فی
 الکلام آسان اور روانی سے کہنا لفلان من
 ماله طہفۃ کچھ حصہ دینا۔
 الطہف بھوسہ۔
 الطہف پناہ۔
 الطہفۃ من الشی نکلوں۔
 الطہف من السحاب بلند بادل۔
 الطہافۃ گیوں۔
 طہق (ف) طہقا تیز چلنا۔
 طہل و طہیل (ف س) طہلا و طہلا و
 تطہل الماء بدبو دار ہونا۔ صفت طاہل
 و طہیل۔
 اظہلت الارض توڑی سی گھاس اگانا۔
 الطہلۃ توڑی سی گھاس۔ بقیہ شے
 طہم الشی مونا ہونا منہ نفرت کرنا۔
 تطہم الطعام ناپسند کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "فلان یتطہم عنا" فلاں ہم سے وحشت
 کرتا ہے۔
 المظہم۔ مونا۔ کزور۔ کمل اور خوش نما اور
 اسی سے ہے "جواد مظہم" یعنی
 خوبصورت۔ عمدہ گھوڑا۔
 طہا یطہو طہوا سفر کرنا۔ جانا۔
 طہا یطہو و یطہی طہوا و طہوا و
 طہیا و طہایة اللحم پکانا۔
 اظہا اظہا پکانے یا بھوننے میں ماہر ہونا۔
 الطہو کام۔

تظنّف القوم قوم پر پہنچ کر گھیر لینا۔
 الظنّف والظنّف والظنّف والظنّف
 پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کی ابھری ہوئی چٹان۔ حججہ۔
 کانس۔ مہتابیج ظنوف و اظناف
 المظیف حججہ یا کانس والا۔ پہاڑ کی چوٹی پر
 چڑھنے والا۔
 ظنفس بدخلق ہونا۔ بہت کپڑے پہننا۔
 الظنفس زوی۔ بد شکل۔
 الظنفسۃ والظنفسۃ والظنفسۃ
 فرش۔ چٹائی۔ کپڑا۔ ج ظنافس۔
 الظنو بدکاری۔
 الظنو فرش۔
 ظنی (س) ظنی و اظنی تلی یا پھیمپڑے کا
 پہلو یا پسلیوں سے چمٹا۔ صفت ظن و ظنی
 فی فجورہ او فسادہ۔ بدکاری یا فساد میں
 ہمیشہ مبتلا رہنا (ظنی) اللیغ من لدغ
 العقرب بچھو کے کانے کا اچھا ہو جانا۔ اظناہ
 المرض مرض کا باقی رہ جانا۔
 ظنی تلی یا پھیمپڑے کی بیماری کا علاج کرنا۔
 الظنی تہمت۔ ججھی ہوئی راکھ۔ مرض۔
 الظنی بدکاری و فساد۔
 الظانی۔ فلان کا راج طباہ۔
 ظہر (ن) و ظہر (ک) ظہرا و ظہورا
 و ظہارة پاک ہونا۔ صفت طاہر ج اظہار
 ظہر ج ظہرون و ظہیر ج ظہاری کہا
 جاتا ہے "رجل طاہر الشیاب" یعنی پاک
 دامن۔
 ظہر (ف) ظہرا دور کرنا۔
 ظہرۃ پاک کرنا۔ ظہر الشی بالماء
 دھونا۔
 تطہر و اظہر۔ میل کچیل سے پاک ہونا۔
 نہانا۔
 الاظہار عورت کی پاکیزگی کا زمانہ۔
 الظہور جس سے پاک حاصل کی جائے۔
 الظہرۃ پاک۔ پانی سے نہانا۔
 المظہر موت کے بعد ایک مدت معینہ
 لیے برابر صالحین کے لیے جس سے پاک

بالضرب آپس میں تنازع کرنا۔
تَطَاوُحٌ حَتَّىٰ بَلَغَ النُّوَىٰ. فراق اور بعد نے اس کو ٹھنک دیا۔
الطَّوْحُ دُورٌ بَعِيدٌ. کہا جاتا ہے "نَبِيَّةٌ طَوَّحَتْ" دُور کی نیت۔
الطَّوَّاحُ شِدَائِدٌ مَهْلِكَةٌ۔
المَطَاوِحُ بِلَاكَةٌ كِي جَاهِبِينَ۔ وَاحِدٌ مَطَاوِحَةٌ۔
المَطْوُوحُ الرَّضِيٌّ۔
طَاخَهُ يَطْوُحُهُ طَوْحًا. قول یا فعل کی تہمت لگانا۔ صفت طَوْاحٌ۔
طَاذٌ يَطْوُذُ طَوْذًا. ثابت رہنا۔
طَوَّدٌ وَتَطْوُدٌ فِي الْبِلَادِ: پھرتا۔ طَوَّدَ بِهِ مَهْلِكٌ جَنُودًا فِي جَانِبِهَا۔
انطاد: ہوا میں بلند ہونا۔
الطَّوْدُ: سہ پہاڑ۔ نِلْمٌ۔ جِ اعْوَادٌ وَ طَوْدَةٌ۔
المَطَاوِدُ: دُور دراز کا بیان۔
المَطَاوِدُ: خَطِرَانُكَ مَقَامَاتٍ۔
المُنطَادُ: بَلَدٌ غَيْرُهُ۔ جِ مَنَاطِدٌ۔
طَارَ يَطْوِرُ طَوْرًا وَ طَوْرَانًا بَفَلَانٍ قَرِيبٍ هُوَ۔
الطَّوْرُ: اِنْدَاذَةٌ وَ حِدٌ۔ كَمَا جَاتَا فِي "عَدَا طَوْرَهُ" يَعْنِي حِدٌ سَهْ بَرَّهٌ مِيَا۔ وَ جَاوَزَ طَوْرَهُ" اِنْدَاذَةٌ سَهْ جَاوَزَ كَرِيْمًا۔ بَيْتٌ۔ جَالٍ۔
بَارِي۔ كَمَا جَاتَا فِي "اَتَيْتُهُ طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ" يَعْنِي بَارِجٌ اَطْوَارٌ. اَوْرُ كَمَا جَاتَا فِي "النَّاسُ اَطْوَارٌ" يَعْنِي لَوْجٌ مُخْتَلِفٌ قِسْمٌ كِي اَوْرُ مُخْتَلِفٌ حَالَاتٍ كِي هِيَ۔
الطَّوْرُ: پھاڑ۔ مَكَانٌ كِي سَانِي كِي صَحْنٍ۔ وَ هُوَ شَيْءٌ جَوْسِي شَيْءٍ كِي اِنْدَاذٌ پَرُ هُوَا اِس كِي مَقَابِلُ هُو۔
الطَّوَارُ: وَ هُوَ شَيْءٌ جَوْسِي شَيْءٍ كِي مَقَابِلُ هُو۔ يَا اِس كِي اِنْدَاذٌ پَرُ هُو۔ (وَ الطَّوَارُ) مَكَانٌ كِي سَانِي كِي صَحْنٍ۔ كَمَا جَاتَا فِي "هَذِهِ الدَّارُ عَلِي طَوَارٍ دَارِي" يَعْنِي اِس كِي دِيوَارِ مِيْرِي مَكَان كِي دِيوَارِ سَهْ مَلِي هُو كِي هِيَ۔

الطَّوْرِيُّ وَ الطَّوْرَانِيُّ: وَ حَشِي پَرْنَدِ هُوَا اَوْرِي۔ الطَّوْرُ: اَجْبِي۔ كَمَا جَاتَا فِي بَالِدَارِ طَوْرِي اَو صَوْرَانِي" يَعْنِي كُوْنِي نَبِيٌّ۔
طَاوَةُ الْمُنْحَلِ: جَمَلِي كَا كَبِيْرٌ۔ اَوْرِي مَحْرَفٌ سَهْ صَحِيحٌ "الْاَضَارُ" سَهْ۔
الطَّارَةُ وَ الطَّارُ: مَحْمَدُ الْعَامَّةُ: وَ اَبْرَهَمُ "لَقِي مِنْهُ الْاَطْوَرِيْنَ"۔
دَفٌ: كَمَا جَاتَا فِي "لَقِي مِنْهُ الْاَطْوَرِيْنَ" يَعْنِي اِس كُو اِس سَهْ بَرِي صَبِيْتٌ بَطِيْنِي۔ اَوْرِي مَالِغٌ كِي اَرُو ه سَهْ جَمْعٌ سَالِمٌ لَيَا جَاتَا فِي "بَلِغٌ فَلَانٌ فِي الْعِلْمِ اَطْوَرِيَه" فَلَانٌ عِلْمٌ كِي دُونُوں حِدُو اَوْلٍ وَ اَخْرِيَعِي عِلْمِي كِي اِنْتِهَارِ بَطِيْنِي مِيَا۔
الطَّوْرِيْبِيْلُ يَطْوَرِيْبِيْلُ: سَمْنَدَرِي پَاوْرِي سَرِيج۔
طَاَسٌ يَطْوَسُ طَوْسًا: الْوَجْهَةُ: چِرِي كَا خُوْبُصُوْرَتٌ هُوَا لَشِي رُوْبِنْدَانِي۔
طَوْسَةٌ: مَزِيْنٌ كَرِيْبٌ طَوْسٌ الْمَصُوْرُ: مَوْرِي كِي شَكْلُ بِنَانَا۔ طَوْسٌ سَهْ لِي جَانَا۔
تَطْوَسُ لِحَمَامَةٌ: كُوْتَرِي كِي سَانِي پَرُوں كُو پِچھلانا۔ تَطْوَسَتِ الْمَرْءَةُ: اَرَسَتْ وَ مَزِيْنٌ هُوَا۔
الطَّوْسُ: چَانْد۔
الطَّوْسُ: اِيكٌ مَسْبَلٌ دُوَاكَا نَامٌ۔
الطَّاسُ: پَانِي پِيْنِي كَا بَرْتَن۔ پِيَالِ جِ طَاسَاتٌ۔
الطَّاوُوسُ الطَّاوُوسُ: مَوْرٌ تَقْوِيْرٌ طَوْسِي جِ اَطْوَاَسُ وَ طَوَاوِيْسُ۔
طَوْسٌ: الرَّجُلُ: مَالٌ مَثُوْلٌ كَرِيْبٌ الدَّكُوْرُ اَخْتَرُ كَرِيْبَانِي۔
الطَّوَاوِشِيُّ اَخْتَرُ: حَصِي جِ طَوَاوِشِيَّةٌ مَوْلِدِي اَوْر كَمَا كِيَا كِي لَقْظٌ جَمْعِي سَهْ۔
طَاعٌ يَطْوَعُ وَ يَطْوَعُ طَوْعًا بَفَلَانٍ: فَرِيَاں بَرْدَارِ هُوَا۔ صَفْتٌ طَاوِيْعٌ جِ طَوْعٌ وَ طَاوِيْعُوْنٌ كَمَا جَاتَا فِي "اَمْرَةٌ فَاطَاعَ" اِس سَهْ حَكْمٌ دِيَا اَوْر اِس نِي اَطَاعَتِ كِي۔ اِس مَوْقِعِ پَرِ جَابِ اِفْعَالِي سَهْ اِسْتِمَالِ سَهْ مَحْرُوْسِي نَبِيْسِي۔
"لِسَانُهُ لَا يَطْوَعُ بَكْدًا" يَعْنِي اِس كِي زَبَانِ

تا بعد اری نہیں کرتی و طاع له المرتع یعنی چراگاہ اس کے لئے وسیع ہے۔
اطاعه اطاعة و طاعة۔ فرمانبردار ہونا۔
اطاع الشجر: پھل پکانا۔
المرعى: و اطاعة: چراگاہ کا کشادہ ہونا۔
انطاع انطباعاً: لہ: فرمانبردار ہونا۔
تطوع: جگہ اطاعت کرنا۔
الجندیة: لشکر میں رضا کارانہ شامل ہو جانا۔
بالشئى: تبرع کرنا بالشئى و لئشى: جگہ استطاعت ظاہر کرنا الشئى: ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔
تطواع للأمر: جگہ استطاعت ظاہر کرنا۔
استطاع استطاعة: الأمر: طاقت رکھنا اور حذب تاء کے ساتھ استطاع يستطيع بھی کہا جاتا ہے۔
الطواغية: طوع کا اسم مصدر ہے۔
الطاع و الطوع و الطبع: فرمانبردار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَوْعٌ يَدُوكُ" یعنی وہ تمہارا تابع ہے۔
فَرَسٌ طَوْعٌ الْعِنَانِ: یعنی نرم و تابعدار گھوڑا۔
"عَمَلُهُ طَوْعًا" یعنی اس نے اس کام کو بخوشی کیا۔
المطواع و المَطْوِوعَةُ: فرمانبردار۔
المَطْوِوعَةُ: رضا کارانہ جہاد میں شامل ہونے والی۔
المتطوع و المَطْوِوعُ: فرائض و واجبات کے علاوہ اعمال صالحہ کو بطور نفل ادا کرنے والا۔
طَافٌ يَطْوِفُ طَوْفًا وَ طَوَافًا وَ طَوْفَانًا بِالْمَكَانِ وَ حَوْلَهُ: مَحْمُوْمًا۔ چکر لگانا۔
فِي الْبِلَادِ مُلْكٌ فِي مِجْرَتَا: بِدِ الْحِيَالِ فِي التَّوْمِ: خراب میں نظر آتا۔
طَوَفَهُ تَطْوِيْفًا وَ تَطَوَّافًا مَحْمُوْمًا: طَوَفَ فِي الْبِلَادِ: مُلْكٌ فِي مِجْرَتَا۔
طَوَفٌ وَ تَطْوُفٌ وَ اسْتِطَافٌ اسْتِطَافَةٌ بِالشئى وَ حَوْلَهُ: بہت چکر لگانا۔ "طَوَفَ

لناس او الجراد" آدمی یا مڈیوں کا زمین پر چھانچانا۔ استطاقہ گھومنا۔ چکر لگانا۔
 اطاف بالشی نازل ہونا۔ احاطہ کر لینا۔
 قریب ہونا علیہ و بہ رات کو آنا علیہ گرد گھومنا۔
 اطوف پانی پر تیرنے والی چیز۔ گھنٹی۔
 الضوف رات کو پہراوے والے چوکیدار۔
 الضوف عواف دیوارِ ج عواف
 الطواف بہت زیادہ طواف کرنے والا۔
 الطوفان سخت سیلاب۔ سخت بارش۔ رات کا سخت اندھیرا۔ موت تباہ کن۔
 من کل شی ہر چیز کا زیادہ۔
 الطائف فاقہ چوکیدار۔
 الطائفة مؤنث طائف جماعت۔ گروہ۔
 کلوا کسی چیز کا وہ لوگ جو ایک مذہب یا رائے کے ہوں۔ ج طائفات طوائف
 الطواف بہت پھرنے والا۔ بہت چکر لگانے والا۔ خادم۔ گھنٹی۔ گھنٹی پھانے والا۔
 المصاف طواف کرنے کی جگہ۔
 طاق يطوف طوفا و طاقۃ و طاق الشی قادر ہونا۔
 طاق علی الشی قادر ہونا۔ طاقت رکھنا۔
 طوفۃ الشی کسی کام کی تکلیف دینا۔ طوفۃ القنوق طوق پہنانا۔ کہا جاتا ہے طوفۃ بالسيف وغيرہ اس نے اُسے تلوار باندھ دی۔
 اصوف و تطوف طوق پہنانا۔ تطوقت الحیۃ کنڈلی مارنا۔
 الطاق محراب۔ طاق۔ ج طاقات و طیقان الطاق بغیر گریبان کے ایک قسم کا کپڑا (الضائق) پہاڑ سے نکلا ہوا بڑا پتھر۔ و طاق کل شی احاطہ کرنے والا۔
 الطوف گلے کا زیور۔ گلہ۔ ہر احاطہ کرنے والا ج اطواق
 الطوف و الطاقۃ قدرت۔ طاقت۔ کہا جاتا ہے "هذا فی طوفی" یعنی یہ میری طاقت میں ہے "لا تحمّلنا مالا طاقۃ لناہ"

یعنی ہمارے اوپر وہ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر وسعت نہ ہو اور ہمارے لئے وہ دشوار ہو۔
 دھاگے کی ایک لٹ۔ بالوں کا مٹھا۔ پھولوں کا گلدستہ۔ اور عام لوگ روشن دان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔
 المصطفیٰ کٹھنے دار کبوتر۔ بوتل جس کی گردن طوق کے مانند ہو۔
 طال بطول طولاً کہا ہونا علیہ غالب ہونا۔ فخر کرنا۔ احسان کرنا۔
 طولہ کہا کرنا۔ طوّل لہ مہلت دینا للذابۃ جانور کی رستی ڈھیلی کر دینا۔
 تطوّن تطوّل علیہ احسان کرنا۔
 اطالہ و اطولہ اطالہ و اطوّلوا کہا کرنا۔ اطالت المراقۃ لمے لمے بچے چننا۔
 طاولہ مطاولۃ نال مٹول کرنا۔ لمبائی یا فضل و بخشش میں غالب ہونا۔
 تطاول دیکھتے ہوئے گردن بلند کرنا تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔ ظلم کرنا۔ لمبائی ظاہر کرنا علیہ العسر بڑھنا۔ تطاولوا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔
 استطال استطاقۃ طویل ہونا علیہ فضل و احسان کرنا۔ بلند ہو کر دیکھنا علی عرصہ بدنامی کی شہرت دینا۔ کہا جاتا ہے "استطالوا علی القرد" یعنی قوم نے جتنا قتل کیا تھا اس سے زیادہ قتل کیا۔
 الطول فضل۔ بخشش۔ قدرت۔ غنا۔
 الطول لمبائی ج اطوال
 الطول السماوی الکوکب وہ زاویہ جو آسمانی کرہ کے دو دائروں کے سطح کے درمیان واقع ہونے والا ہے ان میں سے ایک کو کب کے پاس سے اور دوسرا نقطہ اصل کے پاس سے گزرتا ہے۔
 الطیلۃ عمر۔ کہا جاتا ہے "اطال اللہ طیلۃ" اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کرے۔
 زمانہ بھر۔
 الطول لمبائیوں کا ایک آبی پرندہ۔
 الطیل الطول و الطوال و الطیال۔

زمانہ بھر۔
 الطائل و الطائیلۃ قدرت۔ فضل۔ غنا۔ کہا جاتا ہے "سینہم طائیلۃ" یعنی ان کے درمیان عداوت ہے ج "طوائل هذا امر لا طائل فیہ" یہ ایسا امر ہے جس میں کوئی نفع نہیں "ما حدی بطائل او هو غیر طائل" یعنی گھٹیا ہے۔ اور اس میں مذکور مؤنث دونوں برابر ہیں۔
 الطویل لمباج طول و طیل۔ مؤنث طویلۃ ج طویلات۔ کہا جاتا ہے "فلاق طویل الباع" یعنی جی ہے۔ "هو قصیر الباع" یعنی بیل ہے۔
 الاطول اسم تفضیل ج اطاول مؤنث طویلی ج طول الطولی بلند مرتبہ۔
 والسبع الضول سات بڑی بڑی سورتیں قرآن پاک کی۔
 الطوال لمب۔ مؤنث طوالۃ۔
 الطوال بہت زیادہ لمبا۔
 المظول رتی۔ جانور کا سر ج مظاول طوی یطوی طیا۔ النوب کپڑے کو پھینٹنا ہ اللہ غمہ۔ موت دینا۔ کہا جاتا ہے "طوی فلان وهو منشور" جب کسی کا ذکر حسن اور اثر جمیل باقی رہ جائے۔ طوی الحدیث بات چھپانا کشحہ علی الاشر۔ پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے طوی کشحہ غمی" یعنی اس نے مجھ سے اعراض کیا اور مفارقت اختیار کی۔ و طوی البلاد قطع مسافت کرنا۔ السیر پتھروں سے کوئیں کا من بنانا۔ طوی الرجل بھوکے رہنے کا ارادہ کرنا السیر فلانا۔ لاغر کرنا۔
 طوی (س) طوی و اطوی۔ بھوکا ہونا۔ صفت طیان و طو و طاور مؤنث طیا و طویۃ و طاریۃ۔
 تطوّت الحیۃ سانپ کا کنڈلی مارنا۔
 انطوی القوم غلیبہ اکٹھا ہونا (د) اطوی (ک) لپیٹنا۔
 الطوی بھوک۔ مک۔

الطوى والطوى. یعنی ہوئی چیز۔
الطی۔ لپیٹ۔ ضمن۔ کہا جاتا ہے "العی فی طی قلبہ" یعنی گرا ہی اس کے دل کے ضمن میں ہے۔

الطیة۔ حاجت۔ ضمیر۔ نیف۔ لپیٹنے کی ہیئت۔ گوشہ۔ چھت۔ کہا جاتا ہے "مضی لطیہ" یعنی اپنی نیف پر کار بند ہوا "لقیۃ بطیات العراق" میں نے اس سے عراق کے اطراف میں ملاقات کی۔

طاری۔ البطن۔ پتلے پیٹ والا۔
الطایة۔ سطح۔ چھت۔ گھور خشک کرنے کی جگہ۔ ریگستان میں بڑی چٹان۔ زمین کہ جس میں پتھر نہ ہو۔ ج طایات۔

الطوی۔ گیہوں کا بور۔ رات کا حصہ۔ ج الاطواء (والطویة) من بنا ہوا کٹواں۔
الطویة۔ نیف۔ ضمیر۔

الاعواء۔ نڈی کی دم کی گرہ۔ واحد طوی۔
المطوی۔ لپیٹ۔ ج مطاؤ۔ مطاوی الحیة۔ سانپ کی کٹڈی۔

المطوی۔ جس پر کتا ہوا سوت لپیٹا جائے۔
طاب یطیب طیباً و طاباً و حییة و تطیباً۔ لذیذ ہونا۔ میٹھا ہونا۔ اچھا عمدہ ہونا۔
طابت النفس بکذا۔ دل خوش ہونا۔
طاب عیشہ۔ خوش عیش ہونا عن الشی نفساً۔ خوشی سے چھوڑ دینا الشی۔ اچھا کرنا۔
طابت الارض۔ گھاس آگانا۔

طیب الشی۔ اچھا کرنا یا اچھا پانا۔ خوشبو لگانا۔ طیب خاطرہ۔ تسکین دینا۔ مطمئن کر دینا۔

اطاب اطابة الشی۔ اچھا کرنا۔ شیریں کلامی کرنا۔

الحیب اطیابا الشی۔ اچھا پانا۔
طایبہ مطایبہ۔ نئی مذاق کرنا۔ کھیل کود کرنا۔

تطیب۔ خوشبو لگانا۔
استطاب استطابة القوم۔ شیریں پالی مانگنا۔ (واستطیب استطایاباً) الشی۔ اچھا

پانا۔

الطاب۔ لذیذ۔ مزے دار۔

الطیب۔ خوشبو۔ ج اصحاب و طیبوب۔
حلال۔ کہا جاتا ہے "هذا طیب لک" یعنی یہ تمہارے لئے حلال ہے۔ ہر چیز سے افضل۔

الطایة۔ شراب۔ مدینہ منورہ کا لقب۔
الطیبة۔ حلال۔ طیبة الخمر۔ صاف شراب۔ کہا جاتا ہے "فعلت ذلك بطیبة" یعنی میں نے اس کو رضامندی سے کیا کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔

الطیاب۔ بہت زیادہ پاکیزہ۔
الاطیب۔ اسم تفصیل ج اطایب مؤنث طویبی ج طویبات۔

الطویبی۔ رفیق۔ سعادت۔ خیر۔
الطیب۔ پاکیزہ۔ اچھا۔ حلال۔ مؤنث طیبة ج طیبات و ضویبی۔ کہا جاتا ہے "کلمة طیبة" پاکیزہ کلمہ۔ جس میں کوئی کمر وہ بات نہ ہو۔ بلدۃ طیبة۔ مامون شہر جس میں برکت زیادہ ہو۔

الاطایب والمطایب۔ من الشی۔ عمدہ اشیاء۔
شراب مطیبة۔ عمدہ شراب جس کے پینے سے دل خوش ہو۔

طاح یطیح طیحا۔ بمعنی طاح یطوُح۔ طوحاً یعنی ہلاک ہونا۔ سرگرداں پھرنا۔
طیحہ۔ ہلاک کرنا الشی۔ ضائع کرنا۔
اطاحہ۔ ہلاک کرنا۔

تطایح الشی۔ بکھرنا۔
الطیحة۔ تباہی۔ کہا جاتا ہے "اصابتهم طیحة" یعنی ایسے امور پیش آئے جس نے تفریق کرا دی۔ "ووضوحتهم طیحات" یعنی ان کو حوادث نے ہلاک کر دیا۔

طاح یطیح طیحا۔ بُرنے کام سے آلودہ ہونا۔ تکبیر کرنا۔ باطل میں منہمک ہونا۔
الامر۔ کام کو پاکیزہ کرنا۔

طاح و طیحہ۔ قبیح بات میں آلودہ کرنا۔
طیح اصحابہ۔ گالی دینا۔

الطیر۔ جمع طائر۔ اور کبھی واحد پر بھی بولا جاتا ہے اسم ہے تطیر کا بمعنی بد شگونئی اور اسی سے عرب کا قول ہے "لا طیر الا طیر اللہ" جیسا لا امر الا امر اللہ۔ اور طیر للہ لا طیرک۔ جیسا صباخ للہ لا صباخک اور کہا

تطیح۔ برائی سے آلودہ ہونا۔

الطیحة۔ فتر (والطایح والطیاح) بے برکت۔ بیوقوف۔

طار یطیر طیراً و طیراناً و طیرورة الطائر۔ پرندہ کا اڑنا۔ مشہور ہونا۔

الشعر۔ بال بے ہونہ کڈنا۔ سابق ہونا۔
الی کذا۔ دوڑنا۔ کہا جاتا ہے "طار طائراً" وہ غضبناک ہوا۔ طیش میں آکر جلد بازی کرنا۔

طیرة و طیربہ و اطارة اطارة و طایرة مطایرة۔ اڑنا۔ طار و طیر المال تقسیم کرنا۔ طیر نومة۔ نیند اڑا دینا۔

اکبیر و تطیر۔ بالشی و منه۔ بد فالی لینا۔
تطایر۔ متفرق ہونا الشی۔ لبا ہونا۔
السحاب فی السماء۔ بادل کا چاروں طرف گھر جانا۔

انطار الشی۔ پھٹنا۔
استطار استطارۃ الشی۔ متفرق ہونا۔
منقشر ہونا الحانض۔ دیوار کا پھٹنا السیف۔

جلدی سے سونتا۔ الطیر۔ پرندے کو اڑانا۔
استطیر۔ خوفزدہ ہونا۔ جلدی سے لے جایا جانا۔
الصدغ فی الحانض۔ دیوار میں پھین

ظاہر ہونا۔ الفرس۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
الطائر۔ فاعل۔ پرندہ ج طیر اور طیور و

اطیار۔ جمع الطیر۔ نام ایک ستارے کا جس کو نسر طائر بھی کہتے ہیں جس سے اچھا یا بُرا شگون لیں۔ نصیب۔ روزی۔ دامغ۔ کہا جاتا ہے "هو میمون الطائر" وہ مبارک چہرے والا ہے۔

"سز علی الطائر المیمون" مبارک شگون پر سفر کرو (مسافر کیلئے دعا ہے "هو ساکن الطائر" یعنی حلیم صاحب وقار ہے "طار طائر فلان" جبکہ غضبناک ہو یا جلد

بازی کرے۔
الطیر۔ جمع طائر۔ اور کبھی واحد پر بھی بولا جاتا ہے اسم ہے تطیر کا بمعنی بد شگونئی اور اسی سے عرب کا قول ہے "لا طیر الا طیر اللہ" جیسا لا امر الا امر اللہ۔ اور طیر للہ لا طیرک۔ جیسا صباخ للہ لا صباخک اور کہا

الطَّيْفِ خيال جو خواب میں آئے۔ غضب۔
جنون۔

الطَّيْفِ رات کی تاریکی۔

الطَّيْفِ وہ صورت جو موٹور میں سفید روشنی
گزرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ
سے مختلف رنگ سرخ، مالٹا، زرد، سبز، بنفشی اور
نیلا حسب ترتیب ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی
طیف (صورت) کے ذریعے گیس کی تلاش میں
مدد لی جاسکتی ہے۔

طام يطعم طيماً نیکو کار ہونا اللہ فلاں
علی الخیر اللہ کا کسی کو خیر پر پیدا کرنا۔

الطيماء جلت۔ طبیعت۔

طَانٌ يَطِينُ طِينًا وَطَيْنَ الحَانِطِ دیوار کو
گارے سے لیپنا۔ طَانُ الكِتَابِ خط پر مہر
لگانا۔ طَانَهُ اللّٰهُ عَلَي الخَيْرِ اللہ کا خیر پر
پیدا کرنا۔

تَطِينٌ گارے سے لیپا جانا۔ گارے سے
تھڑنا۔ لت پت ہونا۔

الطِينِ وَ الطِينَةِ گار۔ مٹی اور چونہ یا ریت
چونہ ملا ہوا الطِينَةِ گارے کا ایک حصہ۔

حَلَقَت حِلْتِ کہا جاتا ہے ”ہو یابس
الطِينَةِ“ وہ سخت دل اور خشک مزاج ہے ”لہ
طِينَةَ طِينَةٍ“ اس کی طبیعت نرم ہے۔

مَكَانٌ طَانٌ بہت گارے کی جگہ۔

الطَيَانَةُ گار ابنانے کا پیشہ۔

الطَيَانُ گار ابنانے والا۔

الطَيُونُ ایک بدبودار پودا جس کے پھول زرد
ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھوڑا دوئی تیار کی
جاتی ہے۔

(۶) الْقَلْبَةُ الطَّائِرَةُ دشمن کے علاقوں پر
بیاری کرنے والا بڑا ہوائی جہاز۔

الطَّيَارِ وَالْمَطَارِ مِنَ الخَيْلِ تيز خاطر
چست چالاک گھوڑا۔

أَرْضٌ مَطَارٌ کثرت سے پرندوں والی
زمین۔

الطَّيَّارَةُ مَوْثٌ طَيَّارٌ ہوائی جہاز۔

المَطَارُ اُذُنٌ كِجْدٌ۔

المُنطَيَّرُ بَدَنٌ يَمْسَا ہوا۔ ٹوٹا ہوا۔ ایک قسم کی
چادر۔

المُسْتَطِيرُ فَا۔ پھیلنے والا۔ کہا جاتا ہے
”صَبَحَ مُسْتَطِيرٌ“ یعنی صبح منتشر اور ایسا ہی
بجلی ابر بھاپ اور شر کے لئے مستعمل ہے۔

طَاسٌ يَطْسُ طَيْسًا الشَّيْءُ زیادہ ہونا۔

الطَيْسُ عددٌ كَثِيرٌ۔ مٹی۔ ہر وہ مخلوق جس کی
نسل بہت ہوتی ہو۔ جیسے مچھلی۔ چوٹی۔

طَاشٌ يَطِيشُ طَيْشًا اوجھا ہونا۔ عقل
زائل ہونا السَّهْمُ عَنِ الغَرَضِ تیر کا نشانہ
سے خطا کرنا۔ صفت طائش۔

أَطَاشٌ أَطَاشَةً السَّهْمُ عَنِ الغَرَضِ تیر
کا نشانہ سے خطا کر دینا۔

الطَيَّاشُ بمعنى طائش جو خفت عقل کی
وجہ سے ایک طریقے پر نہ جے۔

الطَيَّاشَانُ سبکی۔ اوجھا پن۔

طَاعٌ يَطِيعُ طَيْعًا بمعنى طَاعٌ يَطْوَعُ
طَوَّعًا۔

طَافٌ يَطِيفُ طَيْفًا وَ مَطَافًا الخَيْالُ
خواب میں خیال آنا۔

طَيْفٌ تَطِيفًا وَأَطَافٌ أَطَافَةٌ وَ تَطِيفٌ
تَطِيفًا بہت پھرنا۔

جاتا ہے ”كَانَ عَلَي رُوؤسِهِم الطَّيْرُ“
یعنی وہ ہیبت کی وجہ سے بالکل ساکن اور
خاموش ہے اور اصل اس کی یہ ہے کہ کوڑا اونٹ
کے سر پر بیٹھتا ہے اور چھڑی چلتا ہے جس سے
اونٹ کو آرام ملتا ہے اور وہ اس ڈر سے کہ کوڑا
نہ جائے بالکل حرکت نہیں کرتا۔ ”وَأَجْرُ
أَحْنَاءِ طَيْرِكَ“ ڈور کرانی محنت و غصہ کو۔
الطَّيْرَةُ الطَّيْرَةُ۔ بدھگون جس سے لیا
جائے۔

الطَّيْرَةُ وَ الطَّيْرُورَةُ طَيْسٌ۔ ہکا پن۔ اوجھا
پن۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّاكَ وَ طَيْرَاتِ
الشَّيْبَانِ“ اپنے آپ کو جوانی کے طیس سے
بچاؤ۔

الطَّيْرُونُ طَيْرٌ كِ تَصغيرُ۔
الطَّيَّارُ منتشر۔ ترازو کی زبان۔ سکہ تولنے کی

ترازو۔
الطَّيَّارَةُ ہوائی جہاز۔

اس کی کئی اقسام ہیں۔ (۱) طَائِرَةُ رَمَحٍ
سواروں کے لئے ہوائی جہاز اندرونی و بیرونی
سفر کے لئے۔


(۲) طَائِرَةُ حَرْبِيَّةٌ ہوائی جنگی جہاز۔ اس کی
کئی اقسام ہیں۔

(۱) طَائِرَةُ طَرَادِ دُشْمَنِ كُوْدِ كَهْلِكَةِ كَلْتِ۔
(۲) الطَّائِرَةُ انْفَاثَةُ لَمِينٍ پُرُوشَنِي چھوڑنے

والا جہاز۔
(۳) الطَّائِرَةُ العَافُورِيَّةُ تيز ترين ہوائی جہاز۔

(۴) الطَّائِرَةُ الفَانِصَةُ دُشْمَنِ كَلْتِ ہوائی جہاز
کو گرفتار (شکار) کرنے والا ہوائی جہاز۔

(۵) طَائِرَةُ لَانْفِصَاضِ دُشْمَنِ كَلْتِ ہوائی جہاز
کو مار گرانے والا جہاز۔



ظ: الظاء: سہرواں حرف بنیادی حروف میں سے۔ یہ لٹوی حروف میں سے ہے۔ یعنی حلق کا کواں کا مخرج ہے۔
بحساب جمل اس کا عدد (۴۰۰) ہے۔
ظاب (ن) ظابا: نکاح کرنا۔ ظلم کرنا۔ شور کرنا تیس: بکری کا میاں۔
ظانبہ مظانبہ: سالی سے نکاح کرنا۔ کہا جاتا ہے "نزوجا بالمظانبہ" یعنی دونوں ہم زلف ہوئے۔
تظانبا: ہم زلف ہونا۔
الظائب: ہم زلف۔ ساڑھو۔ ج ظووب و اظوب۔

ظَار (ف) ظَارًا و ظَانِرًا و اِظَارَ اِظَارًا و اِظَانِرَ اِظَانِرًا: الناقۃ او المرأة علی و لید غیرھا۔ مہربان کرنا۔ فطارت و اِظَارَت: مہربان ہونا۔ اور صفت "ظُوُور و ظُوُورَة ج اِظَار و ظُوُور: خانورہ الی کذا: مہربان کرنا۔ ظَارَ علی عدوہ: حملہ کرنا۔ ظَارَ و ظَاوَرَة و اِظَارَہ علی کذا: مہربان کرنا۔ ظَانِرَة علی الامر طلب کرنا یا مجبور کرنا۔ ظَانِر الرّجل: دایہ ہانا۔ ظَانِرَت المرأة: دایہ گری کرنا۔ اِظَارَ لِوَلَدِہ ظَارًا: لڑکے کے لیے دایہ مقرر کرنا۔

الظنبر: غمر کے بچے پر مہربانی کرنے والی۔ غیر کے بچے کو دودھ پلانے والی ج اظنور و اظار و ظوور و ظوورہ و ظوار۔ ظنبر

القصر: ستون۔
الظنبر: تھوٹی۔ کھمبا۔
الظنبر: دایہ۔ دائی پلائی۔
ظانمہ مظانمہ و تظاءما تظاؤمًا: ہم زلف ہونا۔
الظام: ہم زلف۔ ساڑھو۔
الظیبة: تموار وغیرہ کی دھار۔ ج ظبات و ظبی و ظبون و ظب و اظب۔
اظبی المکان: بہت ہرنیوں والی ہونا۔
الظبی: ہرن زیادہ ج ظباء و اظب و ظبی و ظبیت۔

صحت جسم کے متعلق عرب کا قول ہے "بہ ذاء الظبی" یعنی اسے کوئی مرض نہیں اٹلے کہ ہرن کو سوائے مرض الموت کے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ "اذا ابتہم فاریض فی دارہم ظبیاً" یعنی جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو ہرن بن کر اقامت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہرن کو کوئی شک ہوتا ہے تو وہ نہیں ٹھہرتا اسی طرح تم بھی شک ہونے پر چل دو۔

الظیبة: ہرنی۔ بکری۔ گائے۔ عورت اور اونٹنی کی اندام نہانی۔ ج ظباء و ظبیت۔
الظیبة وادی کا موڑ۔ ہرن کے بال دار چمڑے کا چھوٹا تھیلہ۔

أرض مظابة: بہت ہرن والی سرزمین۔
ظَر (ن) مظرة: دھار دار پتھر توڑنا۔
الناقۃ: اونٹنی کو دھاری دار پتھر سے ذبح کرنا۔

أظَر: دھار دار پتھروں کی زمین میں واقع ہونا۔
المکان: بہت دھار دار پتھروں والا ہونا۔
الظَر و الظور و الظورۃ: پتھر۔ دھار دار پتھر۔ حظران و حظران و حظرا و حظرة۔
الظران: چتھاق کے نکلے جو زمانہ قدیم میں نیزے اور بھالے اور کلبائے وغیرہ کی شکل پر بنائے جاتے تھے اور دیاسلائی کے بنانے سے پہلے اسی کا استعمال کیا کرتے تھے۔
"والطور الظری والظرائی" مذکور چتھاق کے استعمال کا زمانہ۔

أرض ظرب و مظرة: بہت چتھاق والی سرزمین۔ الظرب: رہنمائی کا نشان۔ ج حظرا و حظرة و حظرا۔
المظرة: چتھاق۔ ج مظار۔
ظرب (س) حظربا: بکذا: چکنا۔
الظرب: اُمبرا ہوا تیز پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ ج حظرا و اظرب۔

الظرب من الرجال: چھوٹے قدر کا موٹا۔
الظربان والظرباء: بلی کے برابر خاکستری رنگ کا سیاہی مائل بدبودار جانور ج حظرابی و حظرابین: کہا جاتا ہے "فساسینہم الظربان" یعنی ان میں ناقصی ہوگی۔
الظربی والظرباء: حظربان کا اسم جمع۔

الأظرب: نواجذ کے پیچھے کے چار دانت اظراب اللحم: گام کے لوہے کے اطراف کی گرہ۔

الاطفر لے چوڑے ناخن والا۔

الاطفار ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار چیز۔ اس کا واحد نہیں۔ اظفار الثوب کپڑے کی شکلیں۔ الاظفار نر طائر کے آگے کے ستارے۔

المظفر والمظفار ہر معاملہ میں کامیاب۔

ظل (س) ظلا و ظلولا يفعل كذا۔ ہمیشہ رہنا۔ تم کہہ سکتے ہو "ظلت و ظلت و ظلت"

ظل ظلاله اليوم دن کا سایہ دار ہونا الشی لبها ہونا۔

ظلہ سایہ ڈالنا۔ ظلل بالسوط دھکانے کے لیے حرکت دینا۔

اطل اليوم دن کا سایہ دار ہونا سایہ ڈالنا۔ اپنی پٹی میں لینا۔ اطل الامر فلانا پہنچ جانا۔ قریب ہونا اور اسی سے ہے۔

اطلک الشهر یعنی مہینہ آگیا۔

تظلل بالشجرة درخت کے سایہ میں بیٹھنا۔

استظل بالظل سایہ کے نیچے بیٹھنا من الشی سایہ لینا الکرمہ انگور کی شاخ کا گٹھ جانا العیون چشمے کے پانی کا نیچے آ کر جانا الشمس آفتاب کا بدل میں چھپ جانا۔

الظل سایح ظلال و اظلال و ظلول عزت۔ آرام و آسودگی۔ ظل من اللیل رات کا حصہ یا اس کی سایہ۔ من القبط گرمی کی شدت من الثوب کپڑے کا روال۔

ظل السباب او الشتاء جوانی یا جلائے کی ابتدا کہا جاتا ہے "بقی عندی ظل النهار"

وہ میرے پاس تمام دن رہا اور یہ اس لیے کہ ظل کا بقا و زوال شے کے زوال و بقا پر موقوف ہے۔ "و هو فی ظلہ" یعنی وہ اس کی پناہ میں ہے۔ "و مشیت علی ظلی او انتعلت ظلی" میں چلا اس حال میں کہ دوپہر ہو چکی تھی اس لیے میرا سایہ نہیں تھا۔ و "سکان ذلك اليوم اطول من ظل القنطرة" یعنی یہ

اطعن الیودج ہودے میں سوار ہونا۔

الطعان والطعون وانصعد ہودہ باندھنے کی رتی۔

الظعون والظعون بار بردار اونٹ۔ ہودہ اٹھانے والا اونٹ صغر۔

الظعینہ ہودہ ج طعان و ظعن و ظعن حج اطعان و ظعنات بیوی یا عورت جب تک ہودے میں رہے۔ یا مطلقاً عورت۔ کہا جاتا ہے "هؤلاء ظعنانه" یہ اس کی عورتیں ہیں۔

المطعان من الخیل والنوق بزم چال چلنے والا گھوڑا یا اونٹنی۔

ظفره (ض) ظفرا چہرے پر ناخن مارنا۔ ناخن توڑنا۔

ظفر (س) ظفرا و اظفر المطلوب و بہ و علیہ کامیاب ہونا۔ غالب ہونا۔ ظفوت عینہ ناخن ہونا۔ آنکھ کی صفت ظفر قادر شخص کی مظفور۔

ظفرہ کامیابی کی دُعا کرنا۔ ظفر الشی کسی چیز میں ناخن چھبونا الثوب کپڑے پر خوشبو لگانا الجلد کھال کو ملنا۔ ظفرہ و اظفرہ بعدوہ دشمن پر کامیاب کرنا۔ فتح مند کرنا۔ اظفر فلاناً منہ پر ناخن مارنا۔

تظافر القوم ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ الظفر والظفر والظفر ناخن حج اظفار حج اظافر کہا جاتا ہے "ما بنی فی الدار ظفر" یعنی گھر میں کوئی باقی نہیں رہا "ورأینہ بظفرہ" یعنی میں نے اس کو دیکھا و "قلتم اظفاره عن اذی الناس" یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچانی کم کر دی یا بالکل چھوڑ دیا "و کسر اظفاره فی فلان" یعنی تہمت کی۔

"ظفر القط و ظفر السور و ظفر العقاب" نباتات کی تسمیہ۔

الظفر والظفرہ ناخن (آنکھ کی ایک بیماری) الظفرہ ظفر کی جمع ہے۔

الظفر والظفر والظفر ہر معاملہ میں کامیاب۔

ظرف (ک) ظرفا و ظرفا غرض شکل

چالاک ہونا۔ ذہین ہونا۔ صفت ظریف۔ ج ظرفاء و ظراف و ظرف و ظرف و ظرفون مؤنث ظریفہ ج ظرفات و

ظرائف۔ ظرفہ ظریفہ تر ہونا۔ کہا جاتا ہے "ظارفتی فظرفتہ"

اظرف۔ ظریف اولاد پیدا ہونا المتناع برتن ہونا۔

تظرف و نظارف ظرف بننا۔ استظرف۔ ظریف طلب کرنا۔ ظریف سمجھنا۔ ظریف پانا۔

الظرف ذاتائی۔ مذاقت۔ نوقت۔ برتن۔ کہا جاتا ہے "من الظرف جوڈ المہندی بالظرف" پہلا ظرف بمعنی ذاتائی اور دوسرا بمعنی برتن جس میں ہدیہ بھیجا جائے اور عوام مشکیزہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

الظرف ہر وہ چیز جس میں کوئی دوسری چیز رہے اور اسی سے ہے "ظروف الزمان والمکان" اور کہا جاتا ہے "هو نفی الطرف" یعنی وہ امین ہے "زائنته بظرفه"

میں نے اسی کو دیکھا ہے۔

الظراف والظراف ظریف ج ظرفاء و ظرافون۔

المظروف مفع۔ برتن میں جو چیز ہو۔ کہا جاتا ہے "بعثت بالرسائل مظروفا"

ظری (ض) ظریا۔ الماء پانی کا جاری ہونا۔

ظری (س) ظری۔ الغلام لڑکے کا زیرک ہونا۔

اظروزی اظریراء پیت پھولنا۔ الظاری۔ فاکٹ کھانے والا۔

الظروزی زیرک۔ عمل مند۔ ظریف۔

ظعن (ف) ظعنا و ظعنا و ظعوناً و مظعناً کوچ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ظعنوا عن ديارهم" وہ لوگ اپنے ملکوں سے کوچ کر گئے۔

أظعن کوچ کرنا۔ سفر کرنا۔

دن نیزے کے سائے سے بھی زیادہ طویل تھا۔ عرب نیزہ کے سائے کو بہت زیادہ طویل سمجھتے تھے۔ "فَلَانٌ يَبَارِي ظِلَّ رَأْسِهِ بِلَوْلَا كَرْتِي تَحْتِي" جب کوئی تکبر کرتا تھا۔ مُلَاعِبٌ ظِلِّهِ أَوْ خَاطِفٌ ظِلِّهِ يَكْبُرُ بِرَنْدِهِ كَانَامُ بِهِ۔ الظَّلَّلُ رِخْتِ كَيْ نِيحِ كَإِنِّي جَسَّ كَوْدُ حُوبِ نَدَّ لَكِ۔

الظَّلَّةُ اسم مرؤة۔ اقامت۔ الظَّلَّةُ نَجْكَ سَابِئَانَ۔ ہر وہ کہ جس کی سردی و گرمی میں پناہ لیں۔ ہر سایہ دار جِ ظِلُّلٍ وَ ظِلَالٍ۔

الظَّلَالُ وَالظَّلَالُ وَالظَّلَّةُ وَالظَّلَلَةُ۔ ہر سایہ دار۔ ظِلَالُ الْبَحْرِ: سمندر کی موجیں۔

الظِّلِيلُ سَابِيهٌ دَارٍ۔ ہمیشہ سایہ والا۔ الظِّلِيلَةُ: مؤنث ظِّلِيلٍ۔ زیادہ درختوں کا باغ۔ وادی کے نچلے حصے۔ پانی کا چشمہ۔

المِظْلَةُ وَالْمِظْلَةُ: جس سے سایہ لیا جائے۔ بَرَاخِيمٍ۔ چھتری۔ جِ مِظَالٍ: عید المِظَالِ یہودیوں کی عید جس میں درخت کے پتوں سے نیچے بناتے ہیں اور مصر کی آزادی کی یادگار میں ان نیچوں میں چند روز قیام کرتے ہیں۔

يَوْمٌ مِظَلٌّ سَائِيَةٌ وَالْوَالِدَانُ۔ ظَلُّظَلُّ كَشْتِيَا۔

ظَلُّظَلُّ (ظَلُّظَلُّ) ظَلُّظَلُّ: الْبَعِيرُ أَوْ نَتِ كَاجِلِي فِي مِظَلِّهِ نَتْرَانُ۔ صَفْتِ ظَالِغٍ: ظَلَعَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ: زَمِينٌ نَتَكُ هُونَا۔

الظَّلْعُ عَيْبٌ۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ "أَرْبَعٌ عَلِيٌّ ظَلْعُكَ" یعنی تم ضعیف ہو جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہو اس سے رُكْ جَاؤُ۔ "لَا يَرْبُوعٌ عَلِيٌّ ظَلْعُكَ مِنْ لَيْسَ يَحْزُونُهُ أَمْرٌ"۔

یعنی تمہاری شان کا اہتمام وہی کرے گا جو تمہارا غم خوار ہوگا۔ "أَرْقُ عَلِيٌّ ظَلْعُكَ" اور کبھی ہمزہ کے ساتھ "أَرْقَا" کہا جاتا ہے یعنی پہلے اپنی حالت کو درست کرو یا اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی کی طاقت رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی

حد سے آگے مت بڑھو اور اپنی کوتاہی و عاجزی کو دیکھو اور اپنے عیوب کی وجہ سے خاموش رہو اس لیے کہ سیرھی پر چڑھنے والا اگر لنگڑا ہوتا ہے تو وہ اسے نفس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ الظَّلْعُ لَنَتْرَانِ۔

الظَالِغُ: فَانٌ يَجْتَنِي وَاللَّ: مَتَمُّ (مَذْكُورٌ مَوْثٌ) اور مؤنث کے لیے ظَالِغَةٌ بھی بولا جاتا ہے جِ ظَلْعٌ۔

الظَّلَاعُ: جَانُورٌ كِي نَائِكٌ فِي مِیَارِي جُو حَمَكُنْ سَعْنُ هُو۔

ظَلْفَانٌ (ظَلْفَانٌ) ظَلْفًا كَهْرٍ لَكِنَا۔ ظَلْفٌ نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْءِ بَارَكِنَا۔

ظَلْفَانٌ (ش) ظَلْفًا: الْقَوْمُ: قَوْمٌ كَيْ نَشَانِ قَدَمٍ بِرِجَانَا۔ ظَلْفٌ وَ ظَالِفٌ مِظَالِفَةٌ: آتْرَةٌ قَدَمِ كَيْ نَشَانَاتِ كُو مِثَابِيَا۔

ظَلْفَانٌ (س) ظَلْفًا الْأَرْضُ: سَخْتٌ هُونَا مَعِيَشَةُ فَلَانٌ: تَكْلِيْفٌ دَهْ هُونَا نَفْسُهُ زَكُ جَانَا۔

ظَلْفُ الرَّجُلِ: سَخْتٌ زَمِينِ فِي رُوكَا جَانَا تَاكُ كُو كِي نَشَانِ قَدَمِ كَا بِتِنَدَلِكُ سَكُ۔

ظَلْفُهُ: عَنِ كَذَا يُدْرِكُنَا۔ ظَلْفٌ عَلِيٌّ كَذَا: يَادُهُ كَرْنَا۔

أُظْلَفُهُ: دُورٌ كَرْنَا۔ اُظْلَفٌ وَ تَظْلَفٌ: سَخْتٌ پَتْرَمِلِي زَمِينِ فِي پُرْنَا۔

الظِّلْفُ: پِئِي هُوئے كَهْرٌ۔ جِ ظَلُوفٌ وَ اُظْلَافٌ: كَمَا جَاتَا بِهٖ "جَاءُوا عَلِيٌّ ظَلْفِيهِ" یعنی اس کے نشان قدم پر آئے۔ الظِّلْفُ: حَاجَتٌ وَ تَهَكُّبٌ عِيَشٌ۔ سَخْتٌ زَنْدِكُ۔

الظِّلْفُ بَاطِلٌ۔ مَبَاحٌ۔ بے کار۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبٌ دَمَهُ ظَلْفًا وَ ظَلْفًا وَ ظَلْفِيْنَا" یعنی اس کا خون بیکار گیا۔

الظِّلْفُ وَ الظِّلْفُ پَانِي اُور كَبْجُو سَعْنُ بَلَنْدٌ جَلْمَا رَجُلٌ ظَلْفُ النَّفْسِ: اَوْ صَافٌ ذَمِيرَةٌ سَعْنُ پَاكٌ صَافٌ۔

أَرْضٌ ظَلْفَةٌ وَ ظَلْفَةٌ وَ ظَلْفَةٌ: سَخْتٌ پَتْرَمِلِي زَمِينِ۔

الظِّلْفُ بِدَحَالٍ۔ ذَلِيلٌ۔ سَخْتٌ مَشْكَلٌ كَامُ جِ ظَلْفٌ ظَلْفٌ۔

رَجُلٌ ظَلْفٌ النَّفْسِ: اخْلَاقٌ رَذِيْلَةٌ سَعْنُ پَاكٌ صَافٌ۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ "أَخَذَهُ بِظَلْفِيهِ وَ بِظَلْفِيهِ وَ بِظَلْفِيهِ: یعنی سب کچھ لے لیا کچھ نہیں چھوڑا۔

الظِّلْفَاءُ: هُمُ اُولَا سَابِئَةٍ۔ الْأُظْلُوفَةُ: تَبِيْرٌ پَتْرَمِلِي زَمِينِ جِ اُظْلَافِيهِ: ظَلْمٌ (ش) ظَلْمًا وَ ظَلْمًا وَ مِظْلَمَةٌ: بے موقع رکھنا: ظَلْمٌ كَرْنَا هُ حَقُّهُ: گھٹانا

الْأَرْضُ: بے موقع رکھنا الطَّرِيقُ: رَاسَتُهُ سَعْنُ جِئْتُ جَانَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ "مَا ظَلَمْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" یعنی تم کو کس چیز نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ ظَلَمَ الْبَعِيرُ بَعِيْرٌ كِسِي مَرَضٌ اُور عِلْتُ كَيْ ذَنْجُ كَرْنَا اُور ہر وہ کام جس کو وقت سے پہلے کیا جائے اس پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔

ظَلْمٌ (س) ظَلْمًا وَ اُظْلَمَ اللَّيْلُ رَاتِ كَا تَارِيكٌ هُونَا۔ اُظْلَمَ اللَّيْلُ رَاتِ كُو تَارِيكٌ كَرْنَا۔ اُظْلَمَ الرَّجُلُ: تَارِيكِي فِي دَاخِلِ هُونَا۔ مَظْلُومٌ هُونَا۔

ظَلْمَةٌ: ظَلْمٌ كِي طَرْفِ نَسْبِ كَرْنَا۔ هُ الْحَاكِمُ: ظَلْمٌ كِي شَكَايَتِ دُورٌ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ "تَظْلَمُ فَلَانٌ اِلَى الْحَاكِمِ مِنْ فَلَانٍ فَظَلَمْتُهُ" یعنی فلاں نے فلاں کی حاکم سے ظلم کی شکیات کی اس نے شکیات دُور کر دی۔


تَظْلَمُ مِنْهُ: ظَلْمٌ كِي شَكَايَتِ كَرْنَا هُ حَقُّهُ: گھٹانا دِينَا الرَّجُلُ: ظَلْمٌ بِرِ صَبْرٌ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ "ظَلَمْتُهُ فَظَلَمْتُهُ" میں نے اس پر ظلم کیا اس نے صبر کیا۔

تَظْلَمُ الْقَوْمُ: بَعْضٌ كَا بَعْضٍ بِرِ ظَلْمِ كَرْنَا۔ اُظْلَمَ وَ اُظْلَمَ: ظَلْمٌ بِرِ دَاشْتِ كَرْنَا۔

الظَّلْمُ بِرِفٍ: دَاشْتُوں كِي چمک۔ جِ ظَلْمٌ: ظَلْمٌ بے موقع رکھنا۔ حَقُّ گھٹانا۔ ظَلْمٌ۔

الظَّلْمُ بِدَنْ: پھاڑنا۔ جِ ظَلْمٌ: ظَلْمٌ بے موقع رکھنا۔ حَقُّ گھٹانا۔ ظَلْمٌ۔

الظَّلْمَةُ وَ الظَّلْمَةُ: تَارِيكِي جِ ظَلْمٌ وَ ظَلْمَاتٌ وَ ظَلْمَاتٌ وَ ظَلْمَاتٌ۔



ع: الْعَيْن اٹھارواں حرف بنیادی حروف میں سے۔ حروف حلق میں سے ایک یعنی اس کا مخرج حلق ہے۔ بحساب جمل اس کا عدد (۷۰) ہے۔

عَبَّ (ن) عَبًّا تعبير کے بعد چہرے کا خوبصورت ہونا الماء: جانوروں کی طرح منہ لگا کر پانی پینا۔ عَبَّتِ الدَّلُوبُ ذُول کا بھرتے وقت گڑگڑاتا (عُبابًا) البَحْرُ: موج کا زیادہ ہونا اور بلند ہونا۔

تَعَبَّ: النَّيْذُ وَكُدَّ كَاكُ الْعَبَّ: س۔ اولے۔ عَبَّ السَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔

العَبَّ آستین کا سرا۔ ج عَبَاب العُوبُ اُچھلنے والے پانی۔ العُبابُ مَدْرًا كَرِيهًا پینا۔

العُبابُ سِيَابُ كَا حَرَاهَا عَبَابُ الْبَحْرِ موج۔ کہا جاتا ہے ”جَاؤْا بِعُبَابِهِمْ“ آئے۔

العَيْبَةُ وَالْعَيْبَةُ نَحْوَت۔ فُحْر۔ تَكْبِير۔ غُرُور۔ الْعَيْبُوبُ تَبْرُجٌ بَنِي دَالِدِيَا۔ تَبْرُجٌ رَقْمًا لِمَا كُوهُوا۔ بَادِلٌ ج يَعَابِيْبُ۔

عَبَّ (ف) عَبًّا وَعَبًّا تَعَبْنَةُ وَتَعَبْنَا الْمَتَاعُ سَامَانُ كَرْنَا الْجَيْشُ لِلْحَرْبِ لِكَلْمٍ مَرْتَبٌ كَرْنَا۔ عَبًّا إِلَى فَلَانٍ وَ لَهُ قَصْدٌ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَانِي ”لَا اَعْبَابِيَهٗ“ مَحْسُ اس كِي پَرَا نَهِيْسُ۔

اِعْتَبَا مَا عِنْدَهُ سَب كَچھ لے لِيْنَا۔ الْعَبَاءُ بُوَجْه۔ بُوْرِي۔ كُفْرِي۔ ج اَعْبَاءُ (وَالْعَبُّ) مِثْل۔ نَظِيْر۔ ج اَعْبَاءُ۔ الْعَبَاءُ جِعْز۔ ج اَعْبِيَّةُ۔ الْعَبَائَةُ جِعْز۔ الْمَعْبَاءُ رَاْسَتِي۔

عَبَّ (ن) عَبَّنَا الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ بَلَاثَا۔ عَبَّ (س) عَبَّنَا كَهَيْلٍ كُوْد كَرْنَا۔ مَدَاق كَرْنَا بِاللَّدِيْنِ: حَقَارَت كَرْنَا۔ صَفْت عَابِثٌ وَ عَيْبِيْثٌ۔ عَيْبِيْثَةُ النَّاسِ بِمُخْتَلَف قِسْم كے لُوْگ۔

العَيْثُ بے فَاكِدِه۔ لَعُو۔ بے نَتِيْجِيَه۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”فَعَلَّ ذَلِكْ عَيْثًا“ اس نِيَه كَام لَعُو كِيَا۔ الْعَيْثُ اِيْكَ قِسْم كَا پُجُوْل۔

الْعَيْبُوْرَانُ وَالْعَيْبِيْرَانُ اِيْكَ قِسْم كَا خُوْشِيُو دَار بُوْرِه۔ ثَاء كے فِتْرَة سَ جُحِيْ هِيْسُ۔

عَبَّد (ن) عِبَادَةٌ وَ عِبُوْدَةٌ وَ عِبُوْدِيَّةٌ وَ مَعْبُدًا وَ مَعْبُدَةً اللّٰهَ اِيْكَ جَانَا۔ خِدْمَت كَرْنَا۔ ذَلِيْلٌ هُوْنَا۔ خُضُوْعٌ كَرْنَا۔ پَرَسْتِش كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”مَا عَبَّدَكَ عَنِّي“ لِيْعْنِي كَس كِيْز نِي تَم كُوْجْه سَ رُوْكََا۔

عَبَّد (ك) عِبُوْدَةٌ وَ عِبُوْدِيَّةٌ بِاِپ دَاوَا سَ غَلَام رَهْنَا۔

عَبَّد (س) عَبَّدَا عِبْدًا وَ عِبْدَةً عَلِيْ فُلَانٍ: غُفْبِيْنَاك هُوْنَا مَنَدَاك چَرْحَانَا۔

مَا قَالَهُ اِنْكَار كَرْنَا عَلِيْ نَفْسِيَه بِلَاْمَت كَرْنَا الرَّجُلُ نَادِمٌ وَ پِشِيْمَانُ هُوْنَا: اِلْاَزْم هُوْنَا۔ جِدَا

هُوْنَا عَلِيْ الشَّيْءِ: حَرِيْضٌ هُوْنَا۔ صَفْت عَابِثٌ وَ عِبْدٌ۔

عَبْدُهُ: فَرْمَاں بَرُوْدَار بَنَانَا۔ غَلَام بَنَانَا۔ عَبْدُ الطَّرِيْقِ: رَاْسَتِي كُو چِلْنَا هُوَا بَنَانَا۔ پَاْمَال كَرْنَا۔ الرَّجُلُ جَلْدِي كَرْنَا۔ بَهَاكُنَا الْبَعِيْرُ: قَطْرَان مَلْنَا (دِيْكِيْنِي الْقَطْرَانُ كَمَا جَاتَا بِهٖ ”عَبْدٌ يَعْدُو“ لِيْعْنِي كَچھ تَبْرُوْرَا۔ ”مَا عَبَّدَانُ فَعَلَّ كَذَا“ اس نِي اِيَا كَرْنِي سِي دِيْر نِيْسُ كِي۔

اَعْبَدُهُ الْغَلَامُ: غَلَام كَا مَالِك بَنَانَا۔ اَعْبَدَ الْغَلَامُ غَلَامًا بَنَانَا الْقَوْمُ جَمْعُ هُوْنَا۔ تَعَبَّدَ عِبَادَت كے لِيْے عَلِيْمِه هُوْنَا: اِطَاعَت كِيْلِيْنِي بَلَانَا۔ غَلَام بَنَانَا۔ غَلَامٌ حِيْمَا رَتَاؤ كَرْنَا۔ تَعَبَّدَ الْقَوْمُ: مَتَفَرَّقُ هُوْنَا۔

اِسْتَعَبَّدَهُ وَ اِعْتَبَدَهُ غَلَام بَنَانَا۔

العَبْدُ: اَدْمِي۔ غَلَام۔ ج عَبِيْدٌ وَ عِبَادٌ وَ عِبْدَةٌ وَ عِبْدُوْنٌ وَ اَعْبُدُ وَ عُبْدَانُ وَ عُبْدَانٌ وَ عِبْدَانٌ وَ اَعْبَادٌ وَ مَعْبُدَةٌ وَ عِبْدَاءٌ وَ عِبْدِيٌّ وَ عِبْدٌ وَ عِبْدٌ وَ مَعْبُوْدَاءُ جَمْعُ اَعْبَادِيٍّ وَ مَعْبَادِيٍّ وَ اَعْبُدَةُ عِبْدِيْقٌ وَ عِبْدِيْقٌ خَانَدَانِي غَلَام۔

العَبْدِيَّةُ وَالْعَبُوْدَةُ وَالْعَبُوْدِيَّةُ وَ التَّعْبِيْدَةُ: فَرْمَا تَبْرُوْرَا۔ غَلَامِي۔ ذَرَاهِمُ عِبْدِيَّةٌ بِرَاْنِي دَرَاهِمُ۔

العِبَادُ: عِبْدِي كِي جَمْعُ حِيْرِه كے چنْد نَصْرَانِي عَرَبِي قَبَاكُل۔ نَسْبَت كے لِيْے عِبَادِيٌّ۔

العِبَادِيْدُ وَالْعَبَائِيْدُ لُوْگُوں كے فَرْتِي۔ كُوهُوْرُوں كے كَلِي۔ ذُوْر كے رَاْسَتِي۔ (اِن كَا دَاوَاد

پہنچنا الذکبہ کسی عذر کے جھوٹ گھڑنا
عزضہ گالی دینا۔ بے آبرو کرنا۔ عَطَبُ
الریح وَجۃ الارض من سطح زمین کا صاف کر
دینا الشَّجْحُ مٹ جانا۔
اَعْبَطَهُ المَوْتُ سحمت و جوانی میں موت
واقع ہونا۔
اِعْتَبَطَ الذبیحۃ ہونا تازہ ذبح کرنا
المَوْتُ سحمت و جوانی میں موت واقع ہونا
الرَّجُلُ مَاتَ لَمَّا قُتِلَ کرنا العزضہ گالی دینا۔ بے
آبرو کرنا۔ الرَّجُلُ تَارَ اَنَّا زحمی کیا جانا۔
العطب سفید جھوٹ۔ خالص افترا۔ کہا جاتا
ہے مات عَطَبٌ یعنی صحیح تندرست جوان مر
گیا۔
العطب تندرست مونا تازہ ذبح کیا ہوا
جانور۔ عَطَبٌ و عِطَابٌ اَدِيمٌ عِطَابٌ
پشما ہوا چڑا۔ دَمٌ عِطَابٌ ظوہ خون۔
الاغنیاط مصدر اِعْتَبَطَ الحذف
الاغنیاطی عند النحاح حذف جو بغیر
کسی علت کے ہو۔
العویط مصیبت۔ سندر کا وہ حصہ جہاں پانی
زیادہ ہو۔ ج عَوَاطِطُ
عَقَبَ الجیش لشکر کا نکلت کھانا۔
تَعَبَبَ الشَّجْحُ قورے کو ہلاک و برباد کر
دینا۔
العقب کشادہ کپڑا۔ اُونٹ کے بالوں کا نرم
کبل (والعقباب لئذ قد والا۔ کشادہ حلق
والا۔ کال الخلق۔
عقبی (س) عَقْفًا و عِقَافَةً و عِقَافَةٌ
الطَّيْبُ بِفِی شَبْوِ لَنَا الْمَكَانُ بِالطَّيْبِ
جگہ کا خوشبو سے بھرا کھانا فلان بالشَّجْحِ
حریص ہونا بالمکالمات کرنا۔
عَبَقَرُ اَبْحَةُ الطَّيْبِ شَبْوِ پھیلا نا۔
العقب کا وغیرہ کا لقب۔
العقب خوشبو دار وہ چیز جس سے خوشبو
بھڑکے۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ عَقِبٌ لِبَعْضِ
ظریف مرد۔
العقباقیہ مکار۔ مصیبت۔ چہرے پر زخم

کا نشان۔ شاطر چور۔

عَنْقَرُ عِنْفَرَةُ السَّرَابِضِ زاب کا چمکانا۔
عَنْقَرًا مَایک مقام کا جس کے متعلق عرب
کا گمان تھا کہ وہاں جنات بہت ہیں۔
العنقری بقر کی طرف منسوب۔ سردار۔
ہر چیز سے فائق۔ تعجب انگیز چیز۔ مَوْنُثُ
عَنْقَرِيَّةٌ (والعباقری ایک قسم کا نشی
فرش۔

عَنْكًا عِنكًا الشَّيْءُ بالشَّيْءِ لَمَّا نَا۔
العنکہ کھلا۔ مشک کی میل۔ رستی کی کاٹھ
کہتے ہیں ”يَبْلِي الحنبل و تَبْقَى العنكۃ“
یعنی رستی جل جائے اور بل نہ جائے۔

عَبَلًا الشَّجْرَةُ بَخْتِ
پتے گرانا الحنبل بی بنا الشَّيْءِ کائنا۔ رد
کرنا۔ روکنا پہلے جانا الشَّجْرُ بَخْتِ لَمَّا نَا۔

عَبَلًا عِبَالًا و عَبَالًا عِبُولًا
عَبَالَةٌ ہونا۔ صفت عِبَلٌ و عِبَالٌ
عِبَالٌ و عَابِلٌ عِبَلٌ مَوْنُثُ عِبَالٌ
عِبَالٌ و عِبَالٌ۔

اَعْبَلٌ مونا ہونا۔ سفید ہونا الشَّجْرُ
درخت کا پتی ہوئی پتیوں والا ہونا۔

العبل پتی ہوئی پتیاں۔ گرے ہوئے پتے۔

ج اَعْبَالٌ۔
العقب ہونا۔ مَوْنُثُ عِبَالَةٌ۔
الاَعْبَلُ بخت قسم کا پتھر جو سفید اسرخ اور

کالا ہوتا ہے۔ ج اَعْبَلَةٌ۔
العِبَالُ بکلی گلاب۔

العِبَالُ جَمَانٌ۔ بقول بعض سفید چٹان ج
عِبَالٌ۔

المعبلۃ کالسا جوڑا پھل ج معابِلٌ۔
العَبُولُ موت۔

عَبَلٌ عِبَامَةٌ عَبَالٌ قوف ہونا۔
ماء عِبَامٌ تپانی۔

العِبَامُ بست تھا ہوا۔ مونا۔ بیوقوف۔
بے عقل۔ بے ادب۔ بزدل۔ ج عُبْمٌ۔

العِبَامُ بخت قوف۔
عِبَلٌ عِبَالٌ اور کھردرا ہونا۔

صفت عَيْنٌ و عَيْتِي مَوْنُثُ عَيْنًا

عَيْنَاتٌ۔
العقہزخس۔ چینی (والعباہر ہرے
ہوئے جسم والا۔ لب۔

عَبْهَلٌ مَاتَ کرنا۔ عِبْهَلٌ الْاِبِلُ اُونٹ کو
آزاد چھوڑ دینا۔

العباہل۔ من الابل آزاد چھوئے ہوئے
اُونٹ۔

العباہلہ بن کے بادشاہ جو اسلامی حکومت
کے زمانے میں اپنی سلطنت پر چھوڑ دیئے گئے
تھے۔ واحد عِبْهَلٌ۔

عَبَا يَعْبُو عِبْوًا پھرے کا ذک اٹھنا
المنا عِبْرٌ کرنا۔

جَارِيَةٌ عَابِيَةٌ بصورت لڑکی۔
عَبِيٌّ تَعْبِيَّةٌ الجیش لشکر کو ترتیب دینا۔
تَعْبِيٌّ تار ہونا۔

العَبِيٌّ جہنہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا عَيْبُكَ مِنْ
الجَزْوَرِ بَوْنٌ“ کے ہوئے (اُونٹ یا
بکری) سے یہ تمہارا حصہ ہے۔

رَجُلٌ عَبَاءٌ و عِبْمَارِيٌّ جسم والا کھڑ۔
العبا بچہ۔ ج عَبَايَاتٌ و عَبِيٌّ۔

عَبَانٌ عَتَا بِالْمَسْأَلِ احوال کرنے میں
اصرار کرنا۔ ہ بالکلام چڑکی دینا۔

عَاتَةٌ عَجْوٌ کرنا۔ بار بار کلام کو لانا۔
تَعَتَّتْ فِي كَلَامِهِ بار بار کلام کو دہراتا۔
العتن کلام وغیرہ میں سختی۔

عَبَلٌ (س) عُنْبًا و عُنْبَانًا و مَعْتَبًا و
مَعْتَبَةٌ و مَعْتَبَةٌ۔ عَلِيٌّ كَيْ فُلٍ پسر زرخ
کرنا۔ کھلی ظاہر کرنا۔

(عُنْبًا و عُنْبَانًا و عُنْبِيٌّ) فَلَانِ اَمَلْت
کرنا (عُنْبًا و عُنْبَانًا و تَعْتَابُ لِكَيْ پاؤں پر
کودنا (العنبتیں تین ناگوں پر چلنا (عُنْبَانًا)

البرق کبلی کا گاتار چمکانا مِنْ مَكَانٍ اِلَى
مَكَانٍ و مِنْ قَوْلٍ اِلَى قَوْلٍ لِكَيْ جگہ سے
دوسری جگہ یا ایک بات سے دوسری بات کی
طرف منتقل ہونا۔

عَتَبَ الرَّجُلُ يَرْكُرُ البابۃ بوازے

أَعْتَنَ عَلَيَّ غَرِيمِيهِ: قرض دار پر سختی کرنا۔
تکلیف پہنچانا۔

العائِنُ والعَتُونُ: قوی عتِنُ۔
العَتِنُ مِنَ الرِّجَالِ: سخت پر حملہ کرنے والا۔

عَتِيَّةٌ (س) وَ عَتِيَّةٌ وَ عَتِيَّةٌ عَتَاهَا
وَ عَتَاهَا وَ عَتَاهَةٌ وَ عَتَاهِيهِ: عتق
ہونا۔ مدہوش ہونا۔ صفت معنویہ و معنویہ و
عتاہیہ۔

فِي الْعِلْمِ: حریص ہونا۔ عَتِيَّةٌ فَلَانٌ فِي
فُلَانٍ: تکلیف پہنچانے کا خواہش مند ہونا۔

صَفَتْ عَتِيَّةٌ عَتَاهَا:
تَعَتَّى: جاہل بنا۔ پاہل بنا۔ عَتِيَّةٌ تَغَاظِلُ بَرْتَانًا:
العَتَاهِيَّةُ وَالْعَتَاهَةُ: س۔ جنون اور دہشت
سے پاہل لوگ۔ العَتَاهَتِيَّةُ: گمراہی۔ بیوقوفی۔

عَتَا يَعْتُو عَتُوًا وَ عَتِيًّا وَ عَتِيًّا:
مدہوش ہونا۔ صفت عات و عتَا و عَتِيٌّ
عَنِ الْآدَابِ: ادب قبول نہ کرنا۔

العَاتِي: فا۔ سرکش۔ لَيْلُ عَاتٍ: بہت
تاریک رات۔

العَتِيُّ: سرکش۔ عَتَا:
بمعنی عتیا یعنی
تَعَتَّى تَعَتِيًّا: نافرمانی کرنا۔ اطاعت نہ کرنا۔

عَتِيَّةٌ (ن) عَتَا: اصرار کرنا۔ عَتَّتِ الْعَتِيَّةُ
الصُّوفَ: کپڑے کا اون کو چاٹنا۔ عَتَّتِ
الْحَيَّةُ فَلَانًا: سانپ کا ڈس لینا۔ سانپ کے
پھونکنے سے بال کا گرنا۔

عَتَّتِ تَعَتِيًّا وَ عَاتَتْ عَتَانًا وَ مُعَاتَلَةً فِي
عَتَانِيهِ: سر ٹکانا۔

أَعْتَنَهُ: عرفی سوچ۔ بداصلی کا نیکی سے
روک دینا۔

العَثُ: ایک قسم کے سانپ جو خشک سالی میں
ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ عَثَاتُ:
العَثَاءُ: سانپ۔

العَثَّةُ مِنَ النِّسَاءِ: لاغر بدن کی عورت۔
گناہم حقیر عورت عَثَاتُ:
العَثَّةُ: کبیرا اون چائے والا۔ عَثُ وَ

عَتَمَ (ض) عَتَمًا اللَّيْلُ: رات کا ایک حصہ
گزرنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: کام کرنے کرتے رک جانا۔

قَرَى الضَّيْفَ: مہمانی کے کھانے میں دیر
کرنا۔

عَتَمَ عَنِ الْأَمْرِ: کام کرتے کرتے رک جانا
قَرَأَهُ: مہمانی کے کھانے میں تاخیر کرنا۔ کہا
جاتا ہے "مَاعَتَمَ أَنْ وَقَفَ بِنَا" یعنی دیر
نہیں کی۔ "حَمَلٌ عَلَيْهِمْ فَمَا عَتَمَ" یعنی
ان پر حملہ کیا لو منہ نہیں پھیرا الرَّجُلُ:
تاریکی میں چلنا الطَّائِرُ: پرندہ کا انسان کے سر
کے قریب پر پھڑ پھڑانا۔

أَعْتَمَ قَرَى الضَّيْفِ: مہمانی کے کھانے میں
دیر کرنا۔ دیر ہونا (لازم و متعدی) حَاجَتُهُ
مُوخِرٌ كَرْنَا حَاجَتُهُ: موخر ہونا اللَّيْلُ: رات کا
ایک حصہ گزرنا الرَّجُلُ: تاریکی میں چلنا یا
داخل ہونا عَنِ الْأَمْرِ: کام کرتے کرتے رک
جانا۔

عَتَمْتُ (ن ض) عَتَمًا وَاعْتَمَمْتُ وَ
تَعَتَمْتُ وَاسْتَعْتَمْتُ النَّاقَةَ: عشاء کے
وقت دوہا جانا۔ صفت عَاتِمَةٌ عَاتِمَاتُ
وَ عَوَاتِمُ اسْتَعْتَمَ الرَّجُلُ: دیر کرنا النَّعْمَ:
چوپایوں کے دوہنے میں دیر کرنا۔

العُتْمُ وَالْعَتْمُ: جنگلی زیتون کا درخت۔ واحد
عُتْمَةٌ وَ عَتْمَةٌ:
العَتْمَةُ: رات کی پہلی تہائی۔ رات کی
تاریکی۔ دیر کرنا۔

العَاتِمُ: فا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فَا ضَيْفٌ
عَاتِمٌ" ہمارے پاس مہمان دیر میں شام کے
وقت آیا۔ مؤنث عَاتِمَةٌ:
النَّجُومُ الْعَاتِمَاتُ: ستارے جو غبار وغیرہ
کی وجہ سے تاریک ہو جائیں۔

العَتُومُ: اُونٹنی عشاء کے رت دودھ دینے
والی۔ العَتُومَةُ: بہت دودھ دینے والی اُونٹنی۔

المِعْتَامُ: دیر کرنے والا۔ رَجُلٌ مِعْتَامٌ
القُرَى دیر میں مہمانی کا کھانا پیش کرنے والا۔
عَتِيَّةٌ (ض ن) عَتَا: الی السَّجْنِ: قید
خانے کی طرف زور سے دھکیلانا۔

(وَالْعَاتِيْقَهُ) پرانی سرخ کمان۔

العَتَاقُ: پرانی عمدہ شراب۔

العَتِيْقُ: پرانا۔ آزاد کردہ غلام۔ کریم۔ عمدہ
عُتْقَاءُ وَ عَتُقُ: فَرَسٌ عَتِيْقٌ: خوش منظر
گھوڑا۔ عَتَاقُ: البَيْتُ العَتِيْقُ: خانہ کعبہ۔

أَمَةٌ عَتِيْقٌ: پرانی عمدہ شراب۔ ایک قسم کا
المُعْتَقَةُ: عطر۔

عَتَكَ (ض) عَتَكَ وَ عَتُوكَا: لڑائی میں
حملہ کرنا القُرُوسُ: گھوڑے کا دانت کاٹنے کا
ارادہ کرنا۔ عَتَكَ البَلْدُ: شہر پر ظلم کرنا علی
الْأَمْرِ: کسی کام پر اقدام کرنا الی المَكَانِ:
مائل ہونا عَلِيَّةٌ بَخِيْرٌ أَوْ شَرٌّ: جھلائی یا بڑائی
سے بیش آنالین۔ دودھ کا کھنا ہونا القُرُوسُ:
کمان پرانی ہونے سے سرخ ہونا۔ صفت

عَاتِكَةَ عَاتِكَ:
العَاتِيكُ: فا۔ شریف۔ خالص۔ النِّيْدُ
العَاتِيكُ: صاف شراب۔ أَحْمَرُ عَاتِيكُ:
تیز سرخ۔

العَتِكُ: سر زمانہ۔ کہا جاتا ہے "مَضَى عَلَيْهِ
عَتِكٌ" یعنی ایک زمانہ گزر گیا۔

العَتِيكُ: پرانے ہونے سے سرخ میں
الْأَيَامِ: سخت گرمی والا۔

عَتَلَةٌ (ن ض) عَتَلًا: سختی سے کھینچنا۔ کہا
جاتا ہے "عَتَلَهُ إِلَى السَّجْنِ" قید خانے کی
طرف سختی سے کھینچنا الشُّيْ: اٹھانا۔

عَتَلُ (س) عَتَلًا إِلَى الشَّرِّ: بُرْأَى كِي
طرف جلدی کرنا۔ صفت عَتَلٌ:
إِنْعَتَلَ: کھینچنا (وَأَنْ تَعْتَلَ) جلد سے نہ ہٹنا۔
العَتَلَةُ: بڑا ڈھیلا۔ کدالہ۔ بڑی لاشی۔ ع

عَتَلُ: بہت کھانے والا۔ سرکش۔ سخت
عَتَلُ: عادت والا۔ سخت۔

العَتَالُ: بار بردار۔ قلی۔ پیش کا نام۔ العَتَالَةُ:
العَتِيْلُ: مزدور۔ خادم۔ عَتَلُ وَ عَتَلَاءُ:
داء عَتِيْلٌ صَفِيْحَةٌ فِي قَوِيٍّ وَ مَضْبُوطٌ:
المِعْتَلُ: کھینچنے میں قوی و مضبوط۔

عَتَلُ: بہت کھانے والا۔ سرکش۔ سخت
عَتَلُ: عادت والا۔ سخت۔

العَتَالُ: بار بردار۔ قلی۔ پیش کا نام۔ العَتَالَةُ:
العَتِيْلُ: مزدور۔ خادم۔ عَتَلُ وَ عَتَلَاءُ:
داء عَتِيْلٌ صَفِيْحَةٌ فِي قَوِيٍّ وَ مَضْبُوطٌ:
المِعْتَلُ: کھینچنے میں قوی و مضبوط۔

عَتَلُ: بہت کھانے والا۔ سرکش۔ سخت
عَتَلُ: عادت والا۔ سخت۔

العَتَالُ: بار بردار۔ قلی۔ پیش کا نام۔ العَتَالَةُ:
العَتِيْلُ: مزدور۔ خادم۔ عَتَلُ وَ عَتَلَاءُ:
داء عَتِيْلٌ صَفِيْحَةٌ فِي قَوِيٍّ وَ مَضْبُوطٌ:
المِعْتَلُ: کھینچنے میں قوی و مضبوط۔

عَتَلُ: بہت کھانے والا۔ سرکش۔ سخت
عَتَلُ: عادت والا۔ سخت۔

العَتَالُ: بار بردار۔ قلی۔ پیش کا نام۔ العَتَالَةُ:
العَتِيْلُ: مزدور۔ خادم۔ عَتَلُ وَ عَتَلَاءُ:
داء عَتِيْلٌ صَفِيْحَةٌ فِي قَوِيٍّ وَ مَضْبُوطٌ:
المِعْتَلُ: کھینچنے میں قوی و مضبوط۔

ڈھال۔ توبہ۔ بیل۔ بھوکا۔ تیردان۔ بڑا پیالہ۔
 بھوک۔ دوزخ۔ لڑائی۔ نیرہ۔ بخار۔ خیمہ۔
 آفتاب کا ہالہ۔ عورت کی قمیص۔ ذُنب۔ بھیڑیا۔
 جھنڈا۔ گدھ۔ رعشہ۔ گھوڑی۔ آسان۔ گھی۔
 گرم ہوا۔ سال۔ آفتاب۔ خط۔ باٹ۔ صومعہ۔
 بچو۔ گور خرابہ۔ بچھو۔ چاندی۔ قبلہ۔ مشک۔
 دیگ۔ قیمت۔ لشکر۔ کعبہ۔ عورت۔ کتا۔
 مشک۔ بادشاہ۔ دیگ کا پاپہ۔ داہنا ہاتھ۔ تلوار
 کی دھار۔ عافیت۔ پرہیزگاری۔ قبضہ۔ تلوار کی
 میخ۔ ایام العجوز جاڑے کے آخر میں
 سات دن سخت سردی کے جس کے چار دن
 فروری میں اور تین دن مارچ میں ہوتے ہیں
 اور عام لوگ ان کو ”مُستفَرِّضَاتِ کہتے ہیں
 اور ان دنوں کے نام یہ ہیں صِنٌّ صِنٌّ وینر
 آمِرٌ مومتَمَرٌ مَعْلَلٌ مُضْفِی الْجَمْرِ یَا
 مُكْفِی الظَّفَنِ۔
 (بہت سے شعراء نے اپنے قصائد میں معانی
 عجز کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے انہی
 قصیدوں میں سے ایک قصیدہ کتاب کے آخر
 میں لگایا گیا ہے۔
 الاَعْجَزُ بَرَسٌ سَرینِ وَالَا۔ کَبِیْسٌ اَعْجَزُ
 بھری ہوئی ٹھیلی۔
 العَاجِزَا۔ ج عَوَاجِزُ۔ نُؤْبٌ عَاجِزُ۔
 تنگ کپڑا۔ اِمْرَاةٌ عَاجِزٌ تَاجِرٌ عَوْرَتِ۔
 العَجْزُ اَبُو نُوْثٍ اَعْجِزِیْتِ کَاو نِجَانِیْلِہ۔
 المِعْجِزُ بَرَاہِیْلِہ۔
 المِعْجَازُ رَاہِیْلِہ۔ ہمیشہ عاجز رہنے والا۔
 المِعْجِزُ مَعَارِضُ عَادَتِ جِسْ کَاو اللّٰہِ تَعَالٰی کِسِ
 نبی کے ہاتھ سے ظاہر کردے اور دوسرے اس
 سے عاجز ہوں۔ ج مِعْجِزَاتِ۔
 المِعْجُوْزُ یَتِ۔ جس سے سوال میں اصرار کیا
 جائے۔
 العَجِیْزَةُ عَوْرَتِ کِی سَرینِ۔ کبھی مرد کیلئے
 بھی بولا جاتا ہے۔ ج عَجِیْزَاتِ۔
 عَجَسٌ (ض) عَجَسًا۔ عَنِ حَاجَتِہِ یَا
 رَکھتا۔ عَجَسَ عَلٰی الشَّیْءِ کِسِ جِیْزِ کُو
 منظوم طے سے پکڑتا۔

تَعَجَّسَ بَیْجِہِ یُنَا الْاَمْرَ کِسِ کَامِ کِے دَرپے
 ہونا۔ پیچھا کرنا بِالْقَوْمِ دِیر کرنا۔ تَعَجَّسَ
 رَاوِی کُو ضعیف سمجھنا۔ تَعَجَّسَ عَنِ
 حَاجَتِہِ کِسِ کُو اَسِ کی ضرورت سے روکنا۔
 العَجَسَةُ رَاَتِ کِی تَارِکِی۔ رَاَتِ کِی اِیکِ
 سَاعَتِ۔
 العَجُوْسُ یُو جَمَلِ بَادِلِ۔ لَکَا تَارِ بَارَشِ۔
 العَجَاسَا اَو نُوْسُ کَا بَرَاکَلِہ۔
 المِعْجَسُ کِمَانِ کَا بِنَفِہِ۔
 عَجَجِعَ عَجَجِعَةً بِرَتِ چِیْنَا۔
 العَجَجَاعُ بِرَتِ چِیْنِہِ وَالَا مِیْنِ الخِیْلِ
 اصیل گھوڑا۔ عَمْرُ سِیدِہِ گھوڑا۔
 العَجَعَجَعَةُ چِیْنِجِ عَجَاجِ۔
 عَجَفَانٌ عَجُوْفًا لَکھَانَا چھوڑ دینا۔
 عَجَفٌ (ض) عَجْفًا وَ عَجُوْفًا وَ
 عَجَفَ نَفْسَہُ عَنِ الطَّعَامِ یَا جُودِ بھوک
 کے دوسرے کو کھلانے کی غرض سے کھانے کو
 چھوڑ دینا نَفْسَہُ عَلٰی المَرِیضِ مِبر سے
 بیماری داری کرنا۔ نَفْسَہُ عَلٰی فُلَانٍ مِبر اسی
 کو برداشت کرنا اور مواخذہ نہ کرنا۔
 عَجْفَانٌ (ض) وَ اَعْجَفَ الذَّابَّةَ تَہَاوِرُ
 کُو لَا غَر کرنا۔ اَعْجَفَ القَوْمَ بِلِے جَاوِروں
 کَا مَالِکِ ہونا۔ عَجَفَ عَنِ فُلَانٍ کِسِ سے
 دُور ہونا۔ اَعْجَفَ بِنَفْسِہِ عَلٰی المَرِیضِ
 مِبر سے بیمار داری کرنا۔
 عَجْفَانٌ (س) وَ عَجْفَاکِ عَجْفًا
 کَزُورِ ہونا۔ دُیْلَا ہونا۔ صِفَتِ نَذَرِ عَجْفًا
 وَ اَعْجَفَا رَمُوْثِ عَجْفًا وَ عَجْفَاہِ
 عِجَافِ البِلَادِ بَارَشِ نہ ہونا۔ کَہَا جَا تَا ہِے
 ”نَزَلُوْا فِیْ بِلَادِ عِجَافٍ تَمِیرِ بَارَشِ شَدِہِ
 شہروں میں آئے۔
 عَجْفَ الرَّجُلِ اَسُوْدِکِ سے کَم کھانا نَفْسَہُ
 عَنِ الطَّعَامِ کَہَا نَا چھوڑ دینا۔
 العِجَافُ اَبْدَرَا سُنْ۔ زَمَانِہِ جَمْعِ عَجْفَاکِ
 خِلَافِ قِیَاسِ۔
 التَّعْجِیْفُ تَجْکِی حَالَتِ۔
 العِجْفُ اَبْغَرُ دِیْلَا۔ ج عَجْفِیْ۔

عَجَلٌ (س) عَجَلًا وَ عَجَلَةً جلدی
 کرنا۔ کَہَا جَا تَا ہِے ”عَجَلٌ بِہِ اَلِیْہِ اَسِ نِے
 اِیکِ کَامِ سے دوسرے کی طرف جلدی کی
 الْاَمْرَ دِیرِ سِجھ کر دوسرَا کَامِ کر لینا۔
 عَجَلٌ جلدی کرنا ہُ سِبْقَتِ کرنا۔ بَرَاہِیْمَتِہِ
 کَرْنَا لَہُ مِیْنِ الفَنَنِ کَذَّابِیْسِ کرنا۔ اللّٰخَمِ
 گوشت کو جلدی پکانا۔
 اَعْجَلُہُ سِبْقَتِ کرنا۔ بَرَاہِیْمَتِہِ کرنا۔ اَعْجَلُ
 الشَّیْءِ جلدی کھانا۔ اَعْجَلَتِ النَّاْفَةُ
 ناقص بچہ گرا دینا۔
 عَاجَلُہُ مَعَاجَلُہُ۔ بَذْنُہِ جلدی مواخذہ کرنا
 اور سزا دینا ہُ بَصْرَہِ بِنَاہِرَتِہِ مِیْنِ سِبْقَتِ کرنا۔
 آگے بڑھ جانا۔
 تَعَجَّلَ فِی الْاَمْرِ جلدی کرنا الْاَمْرَ جلدی
 کَامِ کرنا۔
 اِسْتَعَجَلُہُ بَرَاہِیْمَتِہِ کرنا۔ جلدی کرنے کَا حَکْمِ
 دینا۔ سِبْقَتِ کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 الْعِجَالُ مِجْزَلُ۔ مِجْزَلُ۔ عَجُوْلٌ وَ عَجَلَةٌ وَ
 عِجَالٌ
 الْعِجَلَةُ مِجْزَلُ رِہْتِ۔ ج عِجَلٌ وَ عِجَالٌ۔
 الْعِجَالُ وَ الْعِجَلَةُ وَ الْعِجَالُ جلدی کیا
 جائے۔ کھانا جو موجود ہو۔ مہمان کیلئے جو جلدی
 تیار کیا جائے۔
 الْعِجَلَةُ جلدی۔ ہلکا پن۔ گار۔ کچڑ۔ سامان
 لانے کی گاڑی۔ رِہْتِ۔ ج عِجَلٌ وَ عِجَالٌ
 وَ اِعْجَالٌ۔
 الْعَاجِلُ وَ الْعِجَلُ وَ الْعِجَالُ جلد باز۔
 الْعَاجِلَةُ یُوْثُ عَاجِلٌ دُیْلَا۔
 الْعِجُوْلُ مِجْزَلُ۔ ج عِجَالِیْلُ۔
 الْعِجَالَانُ یُوْثُ عِجَالِیْلُ عِجَالِی وَ
 عِجَالِی وَ عِجَالٌ وَ الْعِجُوْلُ عِجَلٌ
 وَ الْعِجَالِیْلُ عِجَالٌ جلد باز۔
 الْعِجُوْلُ وَ الْعِجَالُ بہت زیادہ جلد باز۔
 الْعِجُوْلُ مَوْتِ۔ تَجْکِی کھونے والی۔ مَتْمِیرِ
 عَوْرَتِ۔
 الْعِجَالُ نَاشِہُ پَانِی جُو مہمان کے سائے
 جلدی سے پیش کیا جائے۔

دودھ سے پرورش پائی ہو۔ مؤنث عُجَيْبَجْ
عُجَايَا و عُجَايَا.

العُجْوَةُ والعُجَاوَةُ عمه قسم کی کھجور۔

العُجَاوَةُ والعُجَاوَةُ والعُجْوَةُ دودھ جو

کہ یتیم کو پلائیں۔

عَجَّتْ تَعَجَّى عَجِيًّا الْمَرْأَةُ صَبِيحًا:

عورت کا بچے کو دودھ پلانا۔

العجائية والعجائية عمه قسم کی کھجور۔

جانور کے بندوبست کا پٹھان عُجْبِي و عُجْبِي

و عُجَايَا.

عَلَّانٌ (عَدَّ و تَعَدَّ الشَّيْءُ شَارِكًا۔

گناہ گمان کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَدَدْتُ زَيْدًا

صَادِقًا زَيْدٌ كَوْمِيں نے سچا گمان کیا۔

عَدَّدَ الْمَنِيَّتْ خَوِيَّيَا شَارِكًا۔ خَوِيَّيَا

بیان کرنا الشَّيْءُ شَارِكًا۔ عدد والا کر دینا

الْمَالِ زَمَانَةً لِكَيْلِي سَازِو سَامَانَ بَنَانًا۔

اَعَدَّهُ لِأَمْرِ تِيَارِكًا۔ حاضر کرنا۔

عَادَهُ عِدَادًا و مُعَادَةً لِأَيِّ مِثْلٍ مِقَابِلِهِ

كِرْنَا الشَّيْءُ الْقَوْمِ جِزْرًا قَوْمٍ بِرَبْرٍ بَرَابَرٍ

تَقْوِيمًا هَوَانًا۔

تَعَدَّدَ و تَعَادَدَ عِدَدٌ مِثْلُ زَائِدٍ هَوَانًا كَمَا جَاءَا

عَلَى "هُمَّ يَتَعَدَّدُونَ و يَتَعَادَدُونَ عَلَى

الْفَيْلِ بِعَيْنِي وَ هَزَارًا سَازِمًا هَوَانًا۔

اِعْتَدَّ شَارِكًا هَوَانًا كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا

يُعْتَدُّ بِهَ بِعَيْنِي بِهَ أَيِّ شَيْءٍ جِزْرًا جِزْرًا كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا

كَمَا جَاءَا تَارِكًا هَوَانًا كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا

"اِعْتَدَّ الْأَمْرَ تِجَارَةً بِعَيْنِي تِجَارَةً كَمَا جَاءَا

كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا "اِعْتَدَّ بِنَفْسِهِ بِعَيْنِي لِأَنَّهُ

نَفْسًا بِرَبْرٍ كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا۔

اِسْتَعَدَّ لِلْأَمْرِ تِيَارِكًا هَوَانًا۔

عَدَّ صَحَّ زَيْدٌ سَازِمًا لِي كَرْتَمًا كَتَمْتُ ثَبْتًا وَ مَنَعِي

مِثْلًا۔۔۔۔۔ ۰۱، ۰۲، ۰۳۔

الْعِدَادُ الزَّوْجُ أَوْ الْمَزْدُوجُ جِزْرًا ۲ عِلَاوَةً

پَر تَقْوِيمًا هَوَانًا جِزْرًا ۱۲، ۱۳۔ الْمَفْرُودُ جِزْرًا كَالْمِثْلِ

جِزْرًا ۵، ۳۔ الْعِدَّةُ الْأُولَى

أَوِ الْأَوَّلُ أَوِ الْأَصْلِيُّ جِزْرًا ۵، ۳۔ الْعِدَّةُ الْأُولَى

تَقْوِيمًا هَوَانًا۔

الْعِدَّةُ الْكُسْرَى أَوِ الْكُسْرَى جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔

الْعِدَّةُ الْمَوْجِبُ جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔

اِشَارَةٌ هَوَانًا۔

وَالْعِدَّةُ السَّلْبُ جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔

اِشَارَةٌ هَوَانًا۔

الْعِدَّةُ التَّخِيلِيُّ أَوِ الْوَهْمِيُّ فَرْضِي عِدَدٌ يَحْتَجُّ

عَلَى ۵۔

الْعِدَادَانِ الْمُنْتَقِبَانِ لِنُزُولِ عِدَدٍ جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔

قِيَمَتٌ ۵، ۳۔ هَوَانًا كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا

۵۔

الْعِدَادَانِ الْأَوَّلِيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا هُوَ دُورٌ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

اِيك ڈھیر ہے۔ "عِدَّةُ الْمَرْأَةِ" عَمْرُوت كَمَا

طَلَّقَ يَأْتِي بِشَوَّهِرِ كِي وَفَاتِ بِرِ سَوَّكَ كَا زَمَانَةِ جِزْرًا

عِدَّةً۔

الْعِدَّةُ تِيَارِي۔ كَمَا جَاءَا بِعَيْنِي لَا "كُنُونَا عَلَيَّ

عِدَّةً" تِيَارِي هُوَ۔ سَامَانُ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ۔ كَمَا جَاءَا

بِعَيْنِي لَا "أَخَذَ لِلْأَمْرِ عِدَّتَهُ" مَعَالِي كَيْلِي سَامَانَ

كُلِي لِيَا جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ (وَالْعِدَّةُ هَبَا سَازِمًا۔ بِعَيْنِي لَا

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

جِزْرًا ۲، ۳، ۴۔ اِلْعَادَادُ الْمُنْتَابِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ

<p>العدل. دو گونوں کی برابری۔ العدلة والعدالة. معتبر گواہان اور بقول بعض عدلہ واحدہ واعدلہ جمع۔</p>	<p>برية: شرک کرنا لظریق: ٹیڑھا ہونا۔ (عدلاً و عدولاً) اليه: رجوع کرنا۔ واپس ہونالانا: موازنہ کرنا۔ في الحمل: ساتھ سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما يعدلک عندی شیء" تمہارے مشابہ کوئی چیز نہیں (عدلاً و عدالةً و عدولةً و معدلةً و معدلةً) انصاف کرنا۔ صفت عادل ج عدول۔</p>	<p>عَادَس. الرجل: ہمیشہ سفر میں رہنا۔ العَدَس. مسور۔ واحد عَدَسَة العَدَسَة. پھنسی۔ العَدَسَة والعَدَسِيَّة عند علماء الطبيعة: ششے کے ٹکڑے جو بطور آلات نظر کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ عَدَس. خچر ہانکنے کے لیے اسم صوت۔ نام خچر۔</p>
<p>العديل. العادل. العديل. نظیر۔ مثل۔ ردیف۔ معدلاً. الاختدال. برابری۔ اتسا بالاختدال الرَبِيعِي: موسم ربیع میں رات دن کا برابر ہونا للاعتدال الخریفی: موسم خریف میں رات دن کا برابر ہونا۔</p>	<p>عدل (ك معدلةً. عادل ہونا۔ گواہی کے قابل ہونا۔ عدل (س كعدلاً. ظلم کرنا۔ عدل الشاهد: معتبر جاننا لشعر شعر درست وزن پر کہنا لمتباع: سامان کو دو حصوں میں برابر کرنا۔ دو گھڑی بنانا۔ کہا جاتا ہے "شرب حتى عدل" یعنی اس قدر پیا کہ اس کا پیٹ مانند گھڑی کے ہو گیا واعدل) الشيء: سیدھا کرنا۔ ہموار کرنا۔ عادلۃ عدلاً ومعادلةً. موازنہ کرنا۔ ه في المحمل: ساتھ ساتھ ہونا لشيء ٹیڑھا ہونا لفي الامر: بتدرج ہونا بین الشيئين: برابری کرنا۔ کہا جاتا ہے عادل بين الامرین" جب کہ دو امر پیش آئیں اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کونسا اختیار کرے قطع العدل في امره" یعنی چننے ارادہ کر لیا۔ اعدل عن الطريق: ہٹ جانا۔ اعتدل: سیدھا ہونا۔ دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔</p>	<p>عَدَف (ض) عَدْفًا و تعَدَف. تھوڑا کھانا۔ کہا جاتا ہے ما عَدَفْتُ او ما تعَدَفْتُ اليوم" یعنی آج میں نے تھوڑا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ کثیر۔ اعتداف. التوب: کپڑے کا ٹکڑا لینا۔ العذف. تھوڑا عطیہ۔ تھوڑا چارہ کہا جاتا ہے ما ذُقنا عذفاً و عذفاً و لحنفاً و عذوفاً و عذوفَةً" ہم نے کھانے پانی سے کچھ بھی نہیں چکھا۔ العذوف. تھوڑا چارہ۔ عذوف العذف. لوگوں کی جماعت۔ رات کا ایک حصہ۔ العذفة. لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا ٹکڑا اس سے پچاس ٹکڑوں (العذفة) زمین کے اندر درخت کی جڑ عذف۔ العذيف. ہر چیز کا ٹکڑا۔</p>
<p>المعدل والمعدول. پھرنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے مالةً معدل او معدول عن كذا" یعنی اس کیلئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں" أخذ معدل الباطل" یعنی اس نے باطل کا طریقہ اختیار کیا۔ معدلات البيت: گھر کے گوشے۔ عدم (س كعدماً و عذماً المال: گم کرنا۔ نیست کرنا۔ کم کرنا۔ کہا جاتا ہے ما يعد مني هذا الامر" یہ امر مجھ سے تجاوز نہیں کرتا۔ عدم (ك كعدامةً. بیوقوف ہونا۔ اعدم اعدماً. الرجل: محتاج ہونا۔ صفت معدم و عديم ه الشيء: محروم کر دینا۔ اعدمني الشيء: نہ پانا لعدم فلان: منع کرنا۔ العدم والعدم والعدم. فقدان. العدم: نیستی۔ العدم. فقیر۔ محتاج۔ العدمین. بیوقوف۔ دیوانہ۔ فقیر۔ غیر موجود کہا جاتا ہے عديم النظر" اس کے ہم مثل کوئی نہیں۔ عذماء. ارض عذماء. ویران زمین۔ المعدوم. ضد وجود۔ عدن (ض كعدنا الارض: زمین میں کھاد ڈالنا۔ الحجر: اکھیرنا۔ عدن (ن كعدنا و عدونا: بالمکان: اقامت کرنا لعدن: وطن بنا لینا۔ اسی سے ہے "جنات عدن"</p>	<p>عدل (ك كعدلاً. ظلم کرنا۔ عدل الشاهد: معتبر جاننا لشعر شعر درست وزن پر کہنا لمتباع: سامان کو دو حصوں میں برابر کرنا۔ دو گھڑی بنانا۔ کہا جاتا ہے "شرب حتى عدل" یعنی اس قدر پیا کہ اس کا پیٹ مانند گھڑی کے ہو گیا واعدل) الشيء: سیدھا کرنا۔ ہموار کرنا۔ عادلۃ عدلاً ومعادلةً. موازنہ کرنا۔ ه في المحمل: ساتھ ساتھ ہونا لشيء ٹیڑھا ہونا لفي الامر: بتدرج ہونا بین الشيئين: برابری کرنا۔ کہا جاتا ہے عادل بين الامرین" جب کہ دو امر پیش آئیں اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کونسا اختیار کرے قطع العدل في امره" یعنی چننے ارادہ کر لیا۔ اعدل عن الطريق: ہٹ جانا۔ اعتدل: سیدھا ہونا۔ دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔ العادل. فاشرک معدول۔ العدل. انصاف۔ عادل۔ کہا جاتا ہے رجل عدل وامرأة عدل و عدلة و رجال عدل" نظیر۔ مثل۔ تعادل. العدل: پیمانہ۔ بدلہ۔ امور میں توسط۔ برابری۔ امر متوسط۔ سیدھا ہونا۔ العدل. نظیر و مثل۔ قیمت۔ کہا جاتا ہے "خذ عدله كذا و كذا" یعنی اس کی اتنی قیمت لو۔ گون۔ جانور کی پیچھے پر ایک طرف کا بوجھ۔ عدول و اعدال۔</p>	<p>عَدَف (ض) عَدْفًا و تعَدَف. تھوڑا کھانا۔ کہا جاتا ہے ما عَدَفْتُ او ما تعَدَفْتُ اليوم" یعنی آج میں نے تھوڑا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ کثیر۔ اعتداف. التوب: کپڑے کا ٹکڑا لینا۔ العذف. تھوڑا عطیہ۔ تھوڑا چارہ کہا جاتا ہے ما ذُقنا عذفاً و عذفاً و لحنفاً و عذوفاً و عذوفَةً" ہم نے کھانے پانی سے کچھ بھی نہیں چکھا۔ العذوف. تھوڑا چارہ۔ عذوف العذف. لوگوں کی جماعت۔ رات کا ایک حصہ۔ العذفة. لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا ٹکڑا اس سے پچاس ٹکڑوں (العذفة) زمین کے اندر درخت کی جڑ عذف۔ العذيف. ہر چیز کا ٹکڑا۔</p>
<p>عَدَق (ض كعدقاً و عدقاً) كعدقاً وعدقاً و اعدق يدھا: حوض یا کنوئیں کے کنارے میں کسی چیز کی تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ڈالنا لظنہ: کسی کام کو اپنی غالب رائے سے کرنا کہ اس کا یقین نہ ہو۔ العقدقة: ڈول نکالنے کا سرہ شامہ کا بناج عدق. العودق والعودقة. ڈول نکالنے کا سرہ شامہ کا بناج عدق. عدك (ن كعدكاً الصوف. اُون دھننے کے لیے ڈنڈے سے مارنا۔ المعدكة. اُون دھننے کا ڈنڈا۔ عدل (ض كعدلاً السهم: تیر کو سیدھا کرنا فلان بفلان: برابری کرنا۔</p>	<p>عدل (ض كعدقاً و عدقاً) كعدقاً وعدقاً و اعدق يدھا: حوض یا کنوئیں کے کنارے میں کسی چیز کی تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ڈالنا لظنہ: کسی کام کو اپنی غالب رائے سے کرنا کہ اس کا یقین نہ ہو۔ العقدقة: ڈول نکالنے کا سرہ شامہ کا بناج عدق. العودق والعودقة. ڈول نکالنے کا سرہ شامہ کا بناج عدق. عدك (ن كعدكاً الصوف. اُون دھننے کے لیے ڈنڈے سے مارنا۔ المعدكة. اُون دھننے کا ڈنڈا۔ عدل (ض كعدلاً السهم: تیر کو سیدھا کرنا فلان بفلان: برابری کرنا۔</p>	<p>عَدَق (ض كعدقاً و عدقاً) كعدقاً وعدقاً و اعدق يدھا: حوض یا کنوئیں کے کنارے میں کسی چیز کی تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ڈالنا لظنہ: کسی کام کو اپنی غالب رائے سے کرنا کہ اس کا یقین نہ ہو۔ العقدقة: ڈول نکالنے کا سرہ شامہ کا بناج عدق. العودق والعودقة. ڈول نکالنے کا سرہ شامہ کا بناج عدق. عدك (ن كعدكاً الصوف. اُون دھننے کے لیے ڈنڈے سے مارنا۔ المعدكة. اُون دھننے کا ڈنڈا۔ عدل (ض كعدلاً السهم: تیر کو سیدھا کرنا فلان بفلان: برابری کرنا۔</p>

دور کر دیا ج عواد۔ عوادی الذھر :
گردشیں۔ موانع۔ کہا جاتا ہے ”صرفتہ عن
مکذا عواد اہس کو فلاں کام سے موانع نے
روک دیا۔
المغذی گزرگاہ۔ کہا جاتا ہے ”مالی عن
فلان مغذی میرے لیے فلاں سے گزرنے
کی جگہ نہیں ہے۔

عذب (ض) عذبا سخت پیاس کی وجہ سے
کھانا چھوڑ دیا۔ صفت عذوب و عاذب
عذبا رہنا منع کرنا۔ عذب السوط
کوڑے میں پھندنا لگانا۔

عذب (س) عذبا الماء کالی والا ہونا۔
صفت عذب

عذب (ک) عذوبۃ و اعذوب
الشراب میٹھا و خوشگوار ہونا۔
اعذب میٹھے پانی پر پہنچنا۔ کالی۔ کوڑا کرکٹ
دور کرنا القوم میٹھے پانی والا ہونا۔ اللہ
الماء میٹھا پانی کر دینا عذبا رہنا ہ عن
الامر منع کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اعذب
نفسک عن مکذا۔ اپنے نفس کو اس سے
روکو۔

عذبه عذاب دینا۔ عذبه عن الشئ منع
کرنا۔ عذب السوط کوڑے میں پھندنا
لگانا۔ الشئ روکنا۔
اعتذب مجھے سے دو شے لگانا۔

استعذب الشئ میٹھا و خوشگوار پانا۔ میٹھا
خوشگوار پانی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خرج
یستعذب الماء میٹھا پانی لانے کیلئے گیا عن
مکذا با رہنا۔

العذب بر۔ خوشگوار کھانا پانی۔ ماء عذب
میٹھا پانی۔ العذب ایک قسم کا درخت۔

العذب بر۔ کوڑا کرکٹ۔ تنکا۔ ترازو کی
زبان۔ درخت کی ٹہنیاں۔ ہر چیز کے
اطراف۔ امامہ کا شملہ۔ واحد عذبة

العذبة تنکا (و العذبة و العذبة کئی ج
عذبات

العاذب ف۔ وہ شخص کہ اس کے اور آسمان

کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔
من الذوابہ جانور جو کھڑا ہو اور کھاتا پیتا
نہ ہو۔ ج عذوب

العذوب بمعنی عاذب من الذواب
شدت پیاس کی وجہ سے چارے کو چھوڑنے
والا۔

العذاب ہر وہ جو انسان کیلئے باعث مشقت
ہو۔ تکلیف۔ سزا۔ ج اعذبة

تخذ (ض) عذجا۔ الماء پنی پنا فلانا
گالی دینا۔

المعذج غیرت مند۔ بد خلق۔ بہت
ملامت کرنے والا۔

عذرا (ض) عذرا و عذرا و عذری
و معذرة و معذرة علی او فی ما صنع
الرام سے بری کرنا۔ عذر قبول کرنا۔

عذرا (ض) عذرا و عذرا گناہ زیادہ ہونا
(عذرا) الغلام بڑے کا ختنہ کرنا۔

عذرا (ض) عذرا و عذرا الفوس
بالعذار پوزی لگانا باگ دور سے باندھنا
الصبی العادور۔ حلق کا درد لاحق ہونا اور
تکلیف پہنچانا۔

عذرا الصبی حلق کا درد لاحق ہونا۔
عذرا عذر ثابت نہ ہونا و عذر کرنے میں

مبالغہ کرنا۔ عذر الغلام بڑے کے رخسارہ
پر سبزہ اگنا۔ مسیں بھیلگنا الذار نشانات مٹانا
فی الامر کوشش کے بعد کوتاہی کرنا۔

اعذرة فی او علی ما صنع الرام سے
بری کرنا الرجل عذر ظاہر کرنا من نفسہ

بکثرت گناہ کرنا۔ انصاف کرنا فی الامر
کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود

کوشش کرنے والا سمجھنا الفوس پوزی
باندھنا باگ دور باندھنا الغلام بڑے کا

ختنہ کرنا۔ ہ فی ظہر بار کر بدھی ڈالنا۔ کہا
جاتا ہے ”ضربه حتی اعذرت منته مارا

یہاں تک کہ پیٹھ پر زخم کے نشانات ڈال دیے
یفلان زخم کا نشان چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے

”ضرب فلان فاعذرت یعنی مارتے مارتے

ہلاکت کے قریب پہنچا دیا گیا۔ اعذرت
الذار بکثرت پلیدی والا ہونا۔

عاذر معاذرة عذرنہ ثابت ہونا۔
تعذر۔ علیہ الامر دشوار ہونا۔ بازرہنا۔

عن الامر چیچے پنا الرسم ثنا الرجل
اپنے لیے حجت کرنا۔ بھاگنا الشئ پلیدی سے

لتعذرا فلان من الذنب گناہ سے بری ہونا۔
اعتذرت عن و من فعلہ عذریان کرنا عن

فلان کسی کے عذر قبول کرنے کو کہنا۔
الرجل صاحب عذر ہونا الیہ عذر پیش کرنا

الرسم نشان مٹانا۔
استعذرت الیہ عذر پیش کرنا۔

العذر حجت جس کی بنا پر عذر کیا جائے۔ ج
اعذار غلبہ۔ کامیابی۔ اور اسی سے ہے جو

جگہ کے موقع پر کہا جاتا ہے ”لین العذر“
یعنی کسی کے لیے غلبہ ہے اور کہا جاتا ہے ”هو

ابو عذر هذا الكلام“ اس کلام کا پہلا
بولنے والا ہے ”الہوی العذری پلکیزہ

تختہ۔
العذار پوزی۔ باگ دور۔ ج عذر رخسارہ۔
رخسارے پر کان کے مقابل بال۔ حیا۔ کہا جاتا

ہے ”خلع عذارہ“ و ”هو خلیع
العذار“ یعنی وہ اپنی خواہشات کا پابند ہے

اور گمراہیوں میں منہمک ہے اور اپنے قول و
فعل میں کوئی پروا نہیں کرتا گویا کہ بلا رستی کے

جانور ہے۔ ”لوی عذارہ عنہ یعنی نافرمانی
کی العذار من النصل تیر کے پھل کے

دونوں طرف کی دھار۔ العذار ختنہ کا یا تھیر
مکان کا کھانا۔

العذر و عذرت عذر۔
العذرة نکارت۔ کوئی علامت جو تیز رفتار

گھوڑے کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کی
پیشانی پر باندھا جائے۔ بالوں کا چمچا۔ گھوڑے کی

گردن کے بال۔ العذرة پیشانی۔ ختنہ کا
چوڑا ایک ستارہ کہ جب وہ لگتا ہے تو گرمی بڑھ

جاتی ہے۔ حلق کا درج عذر۔
العذرة یا ختنہ۔ زدی حصہ جو گیہوں سے

العَدَامُ. بہت کات کھانے والا۔ بہت ملامت کرنے والا۔

العَدِيْمَةُ. ملامت۔ بغیر سھلی کی کھجور کا درخت۔ ج عَدَائِم.

عَدَا يَعْدُو عَدْوًا وَعَدْيٌ يَعْدِي عَدْيًا وَعَدْوٌ يَعْدُو وَعَدَاوَةٌ الْمَكَانُ. اچھی ہوا

والا ہونا۔ پانی اور امراض و بایہ سے دور ہونا۔ اِسْتَعْدَى الْمَكَانُ. اچھی ہوا والا سمجھنا۔

ارض عَادِيَةٌ وَعَدِيَةٌ وَعَدِيَةٌ وَعَدَاةٌ. عمدہ آب و ہوا والی زمین۔

العِدْيُ. کھیت جس کی سیرابی صرف بارش سے ہو۔ ج اعداء.

عَوْرٌ (ض) عَوْرًا وَعَوْرَ الْجَمَلِ. خارشتی ہونا۔ صفت عَوْرٌ وَعَوْرٌ وَعَوْرًا وَمَعْوُورٌ.

عَوْرَةٌ (ن) عَوْرًا. ٹھنکین کرنا۔ ساکن بن کر آنا۔ عَوْرَةٌ بَشَرًا: بُرَائِي سے لوث کرنا (و

عَوْرٌ) الْأَرْضِ: زبین میں کھاد ڈالنا۔ عَوْرٌ (ض) عَوْرًا وَعَوْرًا مَعَاوَةً وَعَوْرًا

الظَّلِيمِ: بستر مرغ کا چھتلا۔ اَعْرَبَ. الدَّارُ: مکان کا گندگی والا ہونا۔

تَعَارَى: نیند سے بولتے ہوئے بیدار ہونا۔ اِعْتَوْرَهُ: اِعْتَرَبَهُ اِعْتِرَارًا. بغیر سوال کے

بجشش کے لیے آنا۔ اِسْتَعْرَهُمُ الْجَوْبُ: خارش پھیلنا۔

العَاوُورُ والعَاوُورَةُ. منوس مرد۔ قوم پر بے عزتی کرنے والا۔ بے کوہان کا اونٹ۔

العَوْرُ والعَوْرُورُ. خارش۔ العَوْرُ: خارش۔ العَوْرُ: خارش۔ العَوْرُ: خارش۔ العَوْرُ: خارش۔

العَوْرَةُ: ام مرتہ۔ مؤنث العَوْرُ: جگ کی سختی۔ بُرِي عَادَتِ: عیب۔

العَوْرُ: خارش۔ پرنڈے کی بیٹ۔ العَوْرَةُ: خارش۔ لڑکی۔ پرنڈے کی بیٹ۔

میٹھی۔ گور۔ کوہان کی چربی۔ کردہ بات پہنچنا۔ گناہ۔ جنون جو انسان کو لاحق ہو۔ کہا جاتا ہے

”بہ عَوْرَةٌ“ یعنی اس کے ساتھ جنون ہے۔ الأَعْرُ: خارش مریداؤنٹ۔ مؤنث عَوْرَاءُ ج

عَدْقٌ كَمَلٌ“ بنی فلاں میں انتہائی عزت ہے۔

العَدِيقُ. ہوشیار۔ چرب زبان۔ طَيِّبٌ عَدِيقٌ: تیز خوشبو۔

العَدَقَةُ والعَدَقَةُ. بکری کے رنگ کے خلاف اُون کا نشان۔

عَدَلَهُ (ن ض) عَدَلًا وَعَدَلَهُ. ملامت کرنا۔ صفت عَادِلٌ ج عَادِلٌ وَعَدَالٌ

وَعَدَلَةٌ وَعَادِلُونَ مَوْنُثٌ عَادِلَةٌ ج عَوَادِلٌ وَعَادِلَاتٌ.

تَعَادَلُ. القَوْمُ: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔

تَعَدَّلُ وَاِغْتَدَّلُ. اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ملامت سے متاثر ہونا۔ اِغْتَدَّلَ الْيَوْمَ: دن کا

سخت گرم ہونا۔ اِغْتَدَّلَ الرَّجُلُ عَلَيِ الشَّيْءِ: پختہ ارادہ کرنا۔ العَدْلُ والعَدْلُ

والتَعْدَالُ. ملامت کرنا۔ أَيَّامٌ عَدْلٌ وَمُعْتَدِلَاتٌ: سخت گرم دن۔

العَدْلَةُ والعَدْوَلُ والعَدَالُ والعَدَالَةُ. بہت ملامت کرنے والا۔

العَدَالَةُ مَوْنُثٌ عَدَالٌ. سرین۔ العَاذِلُ. ناد۔ رگ خون استخاضہ۔

المُعَدَّلُ. بن۔ فیاض کی وجہ سے ملامت کردہ شدہ۔

عَدَلَجَ. السَّفَاءُ: مکتبہ بھرنا الولدُ وَعَظِيْرَةٌ: لڑکے کو اچھی غذا دینا۔

عَظِيْشٌ عَدَلَا جٌ: خوشگوار زندگی۔ العَدْلُوْجُ: اچھی غذا سے تربیت یافتہ بچہ۔

المُعَدَّلَجُ: پر گوشت۔ خوبصورت جسم والا۔ مَوْنُثٌ مُعَدَّلَجَةٌ.

عَدَمٌ (ض) عَدَمًا القُرْسُ: گھوڑے کا کات کھانا الرَّجُلُ: اپنے آپ سے دفع کرنا:

ملامت کرنا۔ عَدَمًا: گالی دینا۔ اِعْدَمَهُ: عَن نَفْسِهِ بروکنا۔ منع کرنا۔

العَدْوْمُ: بہت کات کھانے والا۔ بہت ملامت کرنے والا ج عَدَمٌ.

نکلے۔ مکان کے سامنے کا صحن ج عَذِرَاتُ العَاذِرُ: نشان زخم (و العَاذِرَةُ پائخانہ۔

العَاذِرُ: وہ رگ جس سے استخاضہ کا خون آتا ہے۔

العَذِيْرُ: یعنی عَاذِرُ۔ مددگار ج عُدُوْمُثٌ عَذِيْرَةٌ. العَذِيْرُ والعَذِيْرَةُ: کسی نئی خوشی کا

کھانا۔ العَذِيْرَةُ: نشان زخم۔ العَاذِرُورُ: گلے کا درد علامت ج عَوَادِيْرُ.

الإِعْذَارُ: کسی نئی خوشی کا کھانا۔ العَدْرَاءُ: باکرہ۔ درناستہ ج عَذَارِيٌّ

وَعَذَارِيٌّ وَعَذْرَاوَاتٌ. لقب سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کا۔

العُدْرِيٌّ والمَعْدِرَةُ والمَعْدِرَةُ والمَعْدِرَةُ والعُدْرِيٌّ: عذر۔ بہانہ۔ ج مَعَادِيْرُ.

المَعْدَارُ: عذر۔ بہانہ۔ ج مَعَادِيْرُ. عَذْفٌ (ض) عَذْفًا مِّنَ الطَّعَامِ: چکھنا۔

تَعَدَّفَ: الطَّعَامُ: کھانا۔ کہا جاتا ہے ”مَا ذُقْتُ عَذْفًا وَلَا عَدْوْفًا وَلَا عَذْفًا“ یعنی

میں نے کچھ نہیں چکھا۔ العَدَاوِفُ: شیر۔ مضبوط اونٹ۔ ج عُدَاوِفَةٌ.

عَدْوُفٌ مَضْبُوْبٌ اُوْنُثٌ. عَذْقٌ (ض) عَذْقًا وَعَذْقٌ: النَخْلَةُ:

درخت خرما کی شاخ کا ٹٹا۔ عَذْقٌ فَلَانًا بَشَرًا: کسی کو تہمت لگانا۔ عَذَقَهُ اِلَى كَعْبًا: منسوب

کرنا۔ عَذْقٌ وَعَذْقٌ الشَّاةُ: بکری کے رنگ کے خلاف کسی دوسرے رنگ کے اُون

سے نشان لگانا۔ اِغْتَدَّقَ: دو شے لگانا۔ اِغْتَدَّقَهُ بِكَذَا: کسی

چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ العَاذِقُ: ناد۔ وہ شخص جو درخت خرما کی دیکھ

بھال اور خدمت کرے۔ ج عَاذِقُوْنَ وَعَدَاقُ.

العَدْقُ: پھل دار کھجور کا درخت۔ ج اَعْدَقُ وَعَدَاقُ.

العَدْقُ: انور کا گچھا مِّنَ النَخْلِ: کھجور کا خوشہ ج عَدْوُقٌ وَعَدَاقُ. العَدْقُ: شاخ دار ٹٹنی۔ عزت۔ کہا جاتا ہے ”فِي بَنِي فَلَانٍ

عَرَبُ الْعَرَاءِ: لُوكِي۔ الْعَرَارُ: ايك پھول خوشبودار جس کا نام گاؤ چشم ہے۔ جنگلی زنگس۔ واحد عَرَارَةٌ۔ الْعَرَارَةُ: قصاص۔ خون کا بدلہ۔ الْعَرَارُ: گناہ۔ قصور۔ الْعَرَارَةُ: ٹڈی۔ سختی۔ پلندی۔ بد خلقی۔ الْعَرِيرُ: اجنبی۔ الْمَعْرَةُ: گناہ۔ تکلیف۔ بدی۔ تاوان۔ قصور۔ عیب۔ امر قبیح۔ سختی۔ گالی۔ غصہ سے چہرے کے رنگ کی تبدیلی۔ ستارہ کیشال کے علاوہ۔ نام ایک شہر کا۔ مَعْرَةُ الْحَيْشِ: لشکر جو لاطینی سے قوم کی تھی کھالی۔ الْمُعْتَرُ: فقیر۔ بغیر سوال کئے ہوئے بخشش کے ذریعے ہونے والا۔ عَرَبٌ (ک) عَرُوبِيَّةٌ وَعَرُوبِيَّةٌ وَعَرَابِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ وَعَرُوبِيَّةٌ: فصیح عربی زبان بولنا۔ فصیح عربی ہونا۔ عَرَبٌ (س) عَرَبِيَّةٌ: بگڑے ہوئے معنی والا ہونا۔ المَعْدَةُ: معدہ کا فاسد ہونا۔ الجُرْحُ: سوجنا اور پیپ والا ہونا۔ البُزْرُ: کنوئیں میں پانی بہت ہونا۔ الرَّجُلُ: لکت کے بعد فصیح ہونا۔ عَرَبٌ (ض) عَرَبِيَّةٌ: الطَّعَامُ: کھانا۔ عَرَبٌ: الْمَنْطِقُ: اعرابی غلطی سے پاک کرنا الْكِتَابُ وَنَحْوَهُ: عربی میں ترجمہ کرنا۔ عَلَيْهِ فَعَلَهُ: قاجت بتانا۔ قَوْلُهُ: رد کر دینا۔ عِنْدَهُ لِسَانُهُ: فصیح ہونا۔ مُرَادٌ: ظاہر کرنا۔ عِنْدَ صَاحِبِهِ: اپنے صاحب کی طرف سے بولنا اور حجت بیان کرنا۔ الرَّجُلُ: عربی گھوڑا لینا: الْمُسْتَعْرَى: بیجانہ دینا۔ الرَّجُلُ: فصیح بات بولنا بِحُجَّتِهِ: دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا۔ الْاِسْمُ الْاَعْجَمِيَّ: عربی کر دینا۔ اَعْرَبَ الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔ عِنْدَ حَاجَتِهِ: صاف بیان کرنا۔ الْاِكْلَامَةُ: فصاحت سے بولنا اور غلطی نہ کرنا۔ بِالْاِكْلَامِ: بیان کرنا۔ بِحُجَّتِهِ عَدَمُ دَلِيلٍ لَانَا اِسْمُ الْاَعْجَمِيَّ: عربی بنا دینا الْكَلِمَةُ: اعراب لگانا۔ الْقُرْسُ: دوڑانا الْقُرْسُ الْعَرَبِيَّ: نہنہانے سے عربی گھوڑے	کو غیر عربی سے ممتاز کرنا۔ عَرَبَ الرَّجُلُ: اُونٹ اور عربی گھوڑوں کا مالک ہونا الْمُسْتَعْرَى: بیجانہ دینا۔ الرَّجُلُ: کلام میں غلطی نہ کرنا۔ فحش بات بولنا۔ تَعَرَّبَ: اخلاقی عرب کو اختیار کرنا۔ ان کی مشابہت کرنا۔ دیہات میں اقامت کرنا۔ اور اعرابی بننا۔ اِسْتَعْرَبَ: عربوں میں داخل ہو جانا۔ فصیح بات بولنا۔ العَرَبُ وَالْعَرَبُ: باشندگان ملک عرب۔ عَرَبٌ وَعَرُوبٌ: العَرَبُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْعَرَابِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ: خالص عربی لوگ۔ اور لفظ عرب اس موقع پر طائفہ کی تاویل میں مؤنث ہے۔ العَرَبُ وَالْمُنْتَعَرِبَةُ وَالْمُسْتَعْرِبَةُ: غیر ملکی لوگ جو عرب میں آکر آباد ہو گئے ہوں۔ العَرَابِيَّةُ وَالْعَرَابِيَّةُ: فحش و بد گوئی۔ العَرَبُ وَالْعَرَبُ: مِنَ الْمَاءِ: کثیر صاف پانی۔ رَجُلٌ عَرَبٌ: تیز زبان مرد۔ بِنْتُ عَرَبِيَّةٌ: بہت پالی والا کنواں۔ مَعْدَةُ عَرَبِيَّةٌ: فاسد معدہ۔ رَجُلٌ عَرَبِيَّةٌ: فصیح مرد۔ رَجُلٌ عَرَبَانِيٌّ: فصیح مرد۔ العَرَبِيَّ: خالص عرب کا باشندہ۔ اگرچہ قیام کسی دوسرے ملک میں ہو۔ العَرَبِيَّةُ: مُؤَنَّثُ الْعَرَبِيَّ: اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ: عربی زبان۔ الْاَعْرَابِيَّ: عرب کا دیہاتی۔ الْاَعْرَابُ: عرب دیہات کے باشندے۔ واحد اَعْرَابِيَّ: العَرَبِيَّةُ: تیز بے والی نہر۔ نفس۔ عَرَبٌ وَعَرَبٌ عَرَبَاتُ الْعَرَبَاتِ: وہ کشتیاں جو عہاسیوں کے دور میں دجلہ میں بندھی ہوئی رہتی تھیں جن سے پل کا کام لیا جاتا تھا۔ اعراب اس لفظ کا اطلاق لگی پر ہوتا ہے۔ الْاَعْرَابِيَّةُ: عربی دیہاتیت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ اَعْرَابِيَّةٌ اَحْسَابًا“۔ حسب کے لحاظ سے	خالص و اَعْرَابِيَّةٌ السِّنَّةُ: اور زبان کے لحاظ سے فصیح خلیل او اہل عَرَابٌ و اَعْرَابُ: خالص عربی گھوڑے یا اُونٹ۔ العَرَبَانُ: عرب۔ العَرُوبُ وَالْعَرُوبِيَّةُ مِنَ النِّسَاءِ: بہت سننے والی۔ زوج کی نافرمان۔ عَرُوبِيَّةٌ اَو رِيَوْمٌ العَرُوبِيَّةُ: جمع کا دن۔ کہا جاتا ہے مَا بِالذَّارِ مَعْرُوبٌ اَوْ عَرِيْبٌ“ یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ الْاِسْمُ الْمَعْرُوبُ: عربی بنایا ہوا اسم۔ جیسے ریشم سے اَبْرِسْم۔ عَرَبِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ: بد خلق ہونا۔ مفت عربید و مُعَرَبِدُ: العَرَبِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ: ایک سخت چیز۔ کہا جاتا ہے ”غَضِبَ غَضْبًا عَرَبِيَّةً“ یعنی سخت غضبناک ہوا۔ نَرْسَابُ: عَرَبِيَّةٌ: بیجانہ دینا۔ العَرَبِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْعَرَبَانُ: بیجانہ۔ سالی صحراہیں۔ عوام عَرَبِيَّةٌ کہتے ہیں۔ عَرَبٌ (ض ن ف) الرَّمُحُ: نیزے کا سخت ہونا۔ البُرْقُ وَنَحْوَهُ: بجلی وغیرہ کا چمکنے لپڑ اور رُمُحٌ عَرَبَاتٌ: بہت حرکت کرنے والا نیزہ یا بجلی۔ العَرَبِيَّةُ: ناک یا ناک کا نرم حصہ۔ اوپر کے ہونے کے بیچ کا گڑھا۔ العَرَبِيَّةُ: ناک کا اگلا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”فَعَلَهُ عَلَى عَرَبَتَيْهِ“ یعنی اس کے مزاج کے خلاف کیا۔ عَرَجٌ (ض ن) عَرُوجًا وَمَعْرَجًا فِي السَّلْمِ سِرْمِيٌّ پَرِجْرًا عَلَى الشَّيْءِ وَفِيهِ: چڑھنا۔ عَرَجٌ بِهِ: چڑھایا جانا۔ عَرَجٌ وَعَرَجٌ (ف س) عَرَجًا: لنگڑا ہونا۔ مفت اَعْرَجٌ رَجٌ عَرَجٌ وَعَرَجَانُ مؤنث عَرَجَاءُ: عَرَجَتْ (س) وَعَرَجَتْ (ك) عَرَجًا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونے کی طرف مائل ہونا۔ عَرَجٌ: ٹھہرنا۔ ایک جانب سے دوسرے
--	---	--

جانب چمکنا عن الشيء: چھوڑنا اور تجاوز کرنا
القوب: پیچیدہ دھاری دار بنانا البناء او
النهر: جھاؤ کے ساتھ بنانا الرجل: آفتاب
کے قریب ہونے کے وقت داخل ہونا کہا جاتا
ہے "فلان لا يعرج على قوله" یعنی فلاں
آدمی کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا (و تعرج)
چمکنا على المكان: سواری کے جانور کو
باندھنا اور اقامت کرنا۔

أعرج: آفتاب کے قریب ہونے کے وقت
داخل ہونا۔ أعرجه الله: نکلنا کر دینا۔
تعارج: بگڑنا نکلنا۔
إنعرج: الشيء: مڑنا۔ ٹیڑھا ہونا الطريق:
چمکنا عن الشيء: تجاوز کرنا چھوڑ دینا القوم
عن الطريق: بھگ جانا۔
العرج والعرجان: نکلنا، نکلنے کی
جال۔
العرجاء: مؤنث الاعرج: نکلنے والی عورت۔

بجوج: العرجة والعرجة: جس پر توقف کیا جائے۔
أمر عرج: غیر محکم کام۔
العرجاء: دوپہر۔ دن میں ایک مرتبہ

کھانا۔
المعرج والمعرج: والمعراج:
سیرمی۔ چڑھنے کی جگہ معراج
ومعارج۔

المعرج من الوادی: وادی کا موڑ۔
عرجن الثوب: کپڑے پر شاخوں کی شکل

بنانا۔
العرجون: کھجور کے گھجے کی جڑ جو ٹیڑھی
ہوتی ہے اور گھجے کو کاٹنے پر درخت پر خشک ہو
کر پاتی رہتی ہے۔ عرجاجین:
عرد (ن) عردا الحجوم: پتھر کو زور

پھینکانا۔
(عردا و عرد) النبات او الثاب:

پودے یا دانت کا پورا نکل آنا اور سخت ہونا
الشجر: درخت کا موٹا اور بڑا ہونا۔
عرد (ن) عردا و عرد: بھاگنا۔ مرض

کے بعد جسم کا قوی ہونا۔ عرد السهم فی
الرومية: تیر کا پار ہو جانا۔ عرد النجم:
ستارے کا بلند ہونا۔ آسمان کے وسط میں پہنچنے
کے بعد ڈوبنے کی طرف مائل ہونا۔ عرد
الرجل: راستہ کو چھوڑ کر مڑ جانا۔

العرد والعرد والعرد: بہت سخت۔
العرداة: مادہ ٹڈی۔ حالت اور اسی سے ہے
"هو فی عرداة خیر" وہ اچھی حالت میں

ہے۔
العرداة: پتھر پھینکنے کا آلہ عروادات:
العرد: طور طریقہ۔ عادت۔ کہا جاتا ہے
"هذا عردة" یہ اس کی عادت ہے۔
عردسه: پھیڑنا۔

العردس: بڑا سیلاب۔ بڑا شیر۔ عرد
عردس: ثابت رہنے والی عرت۔
عرد (ض) عردا: الشيء: سختی سے کھینچنا۔

الرجل: کسی کو ملامت کرنا و عرد (س)
عردا: الشيء: سخت ہونا۔ سکڑنا۔
عرد: سکڑنا۔ پوٹیدہ کرنا۔

عازرة: دشمنی کرنا۔ مخالفت کرنا۔
عازر و تعازر الشيء: سکڑنا۔
أعز: الشيء: فاسد کرنا۔ بگاڑ دینا۔

تعوز: علیہ: دشوار ہونا۔
استعوز: الشيء: سکڑنا۔ بخت
ہونا۔
العوزال: شیر کا مسکن۔ قلیز والے کا چھان۔

جنگ کے موقع پر بادشاہ کے لیے چھوٹا سا
مکان۔ سانپ کی بجی۔ ٹٹی۔ دکان۔ لوگوں کی
جماعت۔ مشیزے کا ضد قوم عوزیل:
چوروں کا گروہ۔

العوزم: پرانا سانپ۔
العوزم والعرازم والعوزام: شیر۔
عوس (ن) عوسا: خوشی میں رہنے والا:
پھر چاہو عوسا و عوسا) جمع کرنا۔

عوس (ن) عوسا: العیور: اونٹ کی
گردن کو اگلے پاؤں سے بیٹھے کی حالت میں
باندھنا۔

عوس (ن) عوسا: الرجل: آگڑنا بہ:
لازم ہونا۔ محبت کرنا منہ بے خود ہونا۔ مفت
عوس الشيء: سخت ہونا۔ الشر بینہم:
ہمیشہ رہنا عنہ: بزدل ہونا۔ بچھے ہٹنا علی ما
عندہ: باز رہنا اور بھل کرنا۔

أعوس: ولین لانا الشيء: لازم ہونا اور
محبت کرنا الرجل: بھلی کے ایک پاٹ کو
دوسرے پر پینے کیلئے رکھنا باہلہ: جماع کرنا
(وعوس) القوم: سفر میں آخرات میں
آرام کے لیے آنا۔

تعوس لامرآتہ: فریفتہ ہونا۔
اعتوس القوم عنہ: متفرق ہونا۔ جدا ہونا۔
العوس: س۔ رسی۔ خیمہ کے بچ کا کھپا

(والعوس) چھوٹا بچہ اونٹ کا۔ عوس
العوس: ولین یعوس المرأة: ڈولہا۔ ج
أعراس: ابن عوس نیولا۔ ج بنات
عوس (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے)

العوس والعوس: زفاف۔ ولیدہ کا کھانا۔ ج
أعراس و عوسات:
العراس: رسی جس سے اونٹ کو باندھا
جائے۔

العروس: دولہا۔ ولین۔ جمع کے لیے کہا جاتا
ہے "هم عروس و هن عرائس" اور
التراس کے دفع کرنے کے لیے عورت پر
عروسۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ عرائس:
العریس: عند المولدين: ولین۔

العریس والعریسۃ: شیر کی جھاڑی۔
العراس والمعوس والمعوس: اونٹ
کے چھوٹے بچوں کو بیچنے والا۔
المعوس والمعوس: آخرات میں آرام

لینے کے لیے آرتنے کی جگہ۔
عروش (ن) عروش: نکلنے کا مکان بنانا
البيت: گھر بنانا العروش: صحبت بنانا۔ سخت
بالہنر: کونیس کے نچلے حصے کو قد کے برابر

پتھر سے بنا کر بقیہ کو نکلنے سے بنا کر عروشا
وعروشا) الکرم: انگوڑی کی تیل کو ٹٹی پر
چڑھانا۔

عَرَضَ (ض) عَرُوضًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

عَرَضَ (س) عَرَضًا وَعَرَضًا: متحیر ہونا۔
بِعَرِيضَةٍ: سخت پکڑنا۔ عَنَهُ: پھرنا۔ چھوڑ دینا۔
عَرَضَ الْكُرْمَ: انگور کی تیل کا ٹی پر چڑھنا
الْكُرْمَ: انگور کی تیل کا ٹی پر چڑھانا۔

الْبَيْتِ: چھت بلند کرنا الطائِرُ: بلند ہو کر
پازوؤں سے سایہ کرنا (وَأَعْرَضَ) ٹی بنانا۔
سایہ لینے کے لیے چھولداری بنانا۔

تَعَرَّضَ وَتَعَرَّضَ بِالْأَمْرِ: چننا رہنا
بِالْمَكَانِ: ثابت رہنا۔ تَعَرَّضَ الدَّابَّةُ:
سوار ہونا۔

إِعْتَرَضَ: ٹی بنانا۔ سایہ لینے کے لیے
چھولداری بنانا۔ إِعْتَرَضَتِ الدَّوَالِي عَلَى
الْعَرَضِ: انگور کی تیل کا چڑھنا اور لگانا
(وَأَعْرَضَ) الدَّابَّةُ: سوار ہونا۔

العَرَضُ: تخت شاہی۔ العَرَضُ: کسی چیز کا
رُكْنٌ۔ کسی چیز کا قوم۔ کہا جاتا ہے "تَلَّ
عَرَضَهُ" یعنی اس کی عزت خاتی رہی اور اس کا
معاہدہ کمزور ہو گیا۔ العَرَضُ مِنَ الْبَيْتِ:
چھت۔ مِنَ الْقَوْمِ: رئیس۔ سردار۔

العَرَضُ: لکڑی جس سے کنوئیں کے اوپر کا
حصہ بنایا جائے۔ شامیانہ۔ خیمہ۔ مکان جس میں
سایہ لیا جائے۔ محل۔ قدم کی پشت پر بلند
حصہ۔ کنوئیں کا من عَرَضَ الطَّائِرُ:
گھونسلہ۔ عَرَضَ الْكُرْمَ: انگور کی ٹی ج
أَعْرَاشَ وَعَرُوضًا وَعَرُوضَةً.

العَرِيضُ: جمہور۔ جمہولداری۔ جانوروں
کو سردی سے بچانے کا باڑہ۔ انگور کی ٹی۔ ج
عَرُوضٌ (وَالْعَرِيضَةُ) لگی۔

عَرَضَ (ض) عَرَضًا وَعَرَضَ (س)
عَرَضًا الْبَرْقُ: بجلی کا پراگندہ چمکانا۔ صفت
عَرَضَ عَرَضَ الرَّجُلُ: نشاط میں ہونا۔

عَرَضَ الْبَعِيرُ: اُونٹ سداھا لینا اللحم:
گوشت کو میدان میں خشک ہونے کیلئے ڈالنا۔

أَعْرَضَ الشَّيْءُ: مضطرب ہونا۔
تَعَرَّضَ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

إِعْتَرَضَ: الغلام: کھیل کود کرنا۔ خوش ہونا
الجلد: کھال کا پھرننا الْبَرْقُ: بجلی کا پراگندہ
چمکانا الرَّجُلُ: اچھلنا۔ کودنا۔

العَرَضَةُ: گھر کا صحن۔ ہر وہ جگہ جس میں کوئی
عمارت نہ ہو۔ ج عَرَاصٍ وَأَعْرَاصٍ
وَعَرَصَاتٍ.

العَرَاصُ: بہت پراگندہ چمکنے والی بجلی۔ گرج
اور بجلی والا بادل۔ نرم تیزہ۔
المِعْرَاصُ: نیا چاند۔

عَرَضَفَهُ: عَرَضَفَهُ: بھیج کر لہا پھاڑ دینا۔
العَرُوضُوفُ وَالْعَرُوضَافُ: پالان کی بیخ۔
ج عَرَاصِيفُ: العَرُوضَافُ: پٹھے کا کوڑا۔

سوئی کی نرم بڑی۔
العَرُوضُومُ: بہت کھانے والا۔ خرم و شادان۔
العَرُوضُومُ: لاغر۔ مضبوط قوی۔ شیر
(العَرُوضَامُ وَالْعَرَاصِمُ) شیر۔

العَرُوضُومُ: بجیل۔

عَرَضَ (ض) عَرَضًا لَشَيْءٍ بِفُلَانٍ:
پیش کرنا الشَّيْءُ عَلَيْهِ: دکھانا الْمَتَاعَ لِلْبَيْعِ
سامان کو فروخت کے لیے خریداروں کے

سامنے کرنا الْجُنْدُ: فوج کا جائزہ لینا لَهُ مِنْ
حَقِّهِ ثَوْبًا: حق کے بدلے میں دینا۔ عَرَضَ
لَهُ عَارِضٌ مِنَ الْحَمَى: بخار لاحق ہونا

الْقَوْمِ عَلَى السَّيْفِ: قوم کو تلوار سے مارنا
الْحَصِيصُ: چٹائی بچھانا۔ کہا جاتا ہے "عَرَضَ
عَرَضًا أَوْ عَرَضَ فُلَانًا" وہ فلاں کی چال

چلا۔ لَا تَعَرَّضْ عَرَضَ فُلَانٍ: فلاں کو
بُرَائِي سے یاد نہ کرو۔

عَرَضَ الرَّجُلُ: بغیر کسی بیماری یا سبب کے
مرنا الْفَرَسُ: گھوڑے کا دوڑنے لگانا۔
عَرَضَ لِي عَارِضٌ: مجھے ایک مانع نے

روک دیا۔
عَرَضَ (ض) و عَرَضَ (س) عَرَضًا:
ظاہر ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا۔

عَرَضَ (ض ن) عَرَضًا الْعَوْدُ عَلَى
الإِنَاءِ: برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنا۔
عَرَضَ: مجھوں ہونا۔

عَرَضَ (ن) عَرَضًا: مکتہ مدینہ یا ان کے
اطراف میں جانا الْكِتَابُ: زبانی پڑھنا۔

عَرَضَ (ك) عَرَضًا وَعَرَضَةً: چوڑا
ہونا۔ صفت عَرِيضٌ وَعَرَاضٌ.

عَرَضَ وَلَهُ وَبِهِ: تعریف کرنا۔ کسی
دوسرے پر ڈھال کے بات کہنا الشَّيْءُ: چوڑا

کرنا الْمَتَاعُ: سامان کو دراہم و دانیز کے علاوہ
سامان کے بدلے فروخت کرنا الْكِتَابُ: مہم
لکھنا الشَّيْءُ لِلشَّيْءِ: مقابل کرنا کہا جاتا ہے

"عَرَضْتُ مَالِكَ لِلْمُهْلَاكِ" تم نے اپنے مال
کو برباد ہونے کے لیے پیش کر دیا ه مِنْ مَالِهِ
بِكَذِّبًا: بدلہ دینا فُلَانًا: عمدہ رائے والا ہونا۔

أَعْرَضَ عَنَهُ: روگردانی کرنا الشَّيْءُ: چوڑا
کرنا الْمَسْئَلَةُ: لہا چوڑا سوال کرنا۔
فِي الْمَكَارِمِ: بہت فیاض ہونا۔

الْأَمْرُ: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَرَضْتُهُ
فَاعْرَضَ" یعنی میں نے اسے ظاہر کیا پس وہ
ظاہر ہو گیا۔ الثَّوْبُ: وسیع ہونا۔ کہا جاتا ہے

"أَعْرَضَ لَكَ الْخَيْرُ" یعنی تمہیں خیر کرنے
کی قدرت ہے و "أَعْرَضَ لَكَ الظَّنُّ
قَارَمَهُ" تمہارے سامنے ہرن ظاہر ہوا پس

اسے تیرا رو۔
عَارِضَةٌ مُعَارِضَةٌ وَعَرَاضٌ: پھر جانا۔ یکسو
ہونا۔ عَارِضُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ: کتاب کا

کتاب سے مقابلہ کرنا الرَّجُلُ: کلام پر نقض
وارد کرنا۔ مقاومت کرنا۔ دوسرے کی طرح
کام کرنا ه فِي الْمَسِيرِ: چلنے میں برابری

کرنا۔ عَارِضُ الرَّجُلِ: راستہ میں ایک جانب
ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَارِضُهُ فَعَرَضُهُ" اس
نے معارضہ کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب

رہا۔
تَعَرَّضَ الْأَمْرُ وَاللَّامِرُ وَالِي الْأَمْرِ:
درپے ہونا۔ طلب کرنا الشَّيْءُ: ٹیڑھا ہونا۔

ایک جانب ظاہر کرنا۔ فاسد ہونا۔
تَعَارَضَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے
مقابلہ کرنا۔

إِعْتَرَضَ: چوڑائی میں ہونا لَهُ: منع کرنا

العبير: سرکش اُونٹ پر سوار ہونا لہہ بسنہم: سامنے آکر تیر مارنا عَرَضٌ: عیب نکالنا۔ آبرو گھٹانا ذُوْنَ الشُّيْ: حائل ہونا۔ روک بنا القَائِدُ الْجُنْدُ: ایک ایک کر کے پیش کرنا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ او فِعْلٍ: اعتراض کرنا۔ خطا کی جانب منسوب کرنا الشُّيْ: تکلف کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عَرَضَهُ فَاَعْتَرَضَ“ اس نے اس کو پیش کیا پس وہ پیش ہوا۔

اِسْتَعْرَضَ: چوڑی چیز طلب کرنا الشُّيْ: پیش کرنے کو کہنا ہ: کسی سے کہنا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دکھاؤ الْقَوْمَ: بغیر دریافت حال کے قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اِسْتَعْرَضَ يُعْطِي مَنْ اَقْبَلَ اَوْ اَذْبَرَ“ یعنی بغیر سوال کے ہر آنے جانے والے کو دیتا ہے۔ اِسْتَعْرَضَ الْعَرَبُ: عربوں میں سے جس سے چاہو دریافت کرلو۔

الْعَرَضُ: اسباب۔ سامان۔ ج عَرُوضُ پھاڑ یا پھاڑ کا پہلو۔ بڑا لشکر۔ چوڑائی۔ وسعت۔ جنون۔ وادی۔ بہت ٹڈیاں۔ بادل من اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔ ج عَرُوضٌ وَعِرَاضٌ: وَأَعْرَاضٌ جِزْأِزْا كَادِنٌ۔

الْعَرَضُ: التَّجَالُ: گزارش۔ کہا جاتا ہے الشُّيْ عَرُوضٌ غَيْبِيٌّ: یعنی چیز میری نگاہ کے سامنے ہے ”اِسْتَرَيْتُ الْمَتَاعَ بَعْرُوضٍ“ سامان کو سامان سے خریدنا و عَرُوضُ الْحَالِ عِنْدَ الْكُتَّابِ: حاکم کے پاس شکایت کے لیے یا کسی فائدہ کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے درخاست دینا اور جمع کے لیے عَرُوضٌ الْاِخْوَالُ بولا جاتا ہے اَعْرَاضُ الشَّجَرِ: درخت کی پھٹکیاں۔

الْعَرُوضُ: اِخْتِصَ عَادَتٌ۔ آبرو۔ باعث فخر و عزت۔ ج اَعْرَاضٌ: کہا جاتا ہے ”هُوَ نَقِيٌّ الْعَرُوضُ“ وہ عیب اور گالی گلوچ سے پاک ہے و ”ذُوُّ الْعَرُوضِ مِنَ الْقَوْمِ“ یعنی قوم کے اشراف و ”هُوَ عَرُوبٌ الْعَرُوضُ“ وہ کمینہ خاندان کا ہے۔ الْعَرُوضُ: نفس۔ کہا جاتا ہے ”اَكْرَمْتُ عَنْهُ عَرِضِي“ یعنی میں نے اس

سے اپنے نفس کو بچایا۔ جسم۔ جسم کی تُو۔ مسامت۔ وادی یا شہر کا کنارہ۔ وادی جس میں درخت پانی اور آبادی ہو۔ ج عَرُوضَانٌ: بہت ٹڈیاں۔ بڑا لشکر۔ بڑا بادل۔ الْعَرُوضُ مِنَ النَّاسِ: لوگوں سے بیہودگی سے پیش آنے والا۔

الْعَرُوضُ: جانب۔ کنارہ۔ دامن کوہ۔ مِنَ الْبَحْرِ اَوْ النَّهْرِ: سمندر یا دریا کا وسط۔ مِنَ الْحَدِيثِ: بہتر و بڑی بات۔

مِنَ السِّيفِ اَوْ الْعَنْقِ: تلوار یا گلے کی ایک جانب۔ کہا جاتا ہے نَظَرَ اِلَيْهِ عَنْ عَرُوضٍ وَكَلِمَةٌ عَنْ عَرُوضٍ: گوشہء چشم سے دیکھا اور ایک جانب ہو کر گفتگو کی۔ و خَرَجُوا يَضْرِبُونَ النَّاسَ عَنْ عَرُوضٍ: یعنی نکل کر مارنا شروع کر دیا اور یہ پروا نہیں کی کہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں۔ و اِضْرَابٌ بِهٖ عَرُوضُ الْحَانِطِ: یعنی دیوار کے ایک گوشہ پر پھینک دو اور اعراض کرو۔ و هُوَ مِنْ عَرُوضِ النَّاسِ: وہ معمولی لوگوں میں سے ہے۔

الْعَرُوضُ: مَتَاعٌ۔ سامان۔ عَارِضٌ: غَيْر دَائِمِيٌّ جِزْ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الْاَمْرُ عَرُوضٌ“ یعنی یہ امر زائل ہونے والا ہے۔ بَحْشٌ۔ غَنِيْمَتٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جُو قَائِمٌ بِالذَّاتِ نَهْ بَلْكَ جُو ہر کے ساتھ قائم ہو۔ ج اَعْرَاضٌ: کہا جاتا ہے ”فَعَلَهُ عَرِضًا“ یعنی بغیر سوچے سمجھے ہوئے کیا۔

الْعَرِضَةُ: پِش کرنے کی نوعیت الْعَرِضُ كَا مَوْثٌ: یعنی لوگوں سے بیہودگی سے پیش آنے والی عورت۔

الْعَرِضَةُ: هِمْتُ۔ کشتی لڑانے کا داؤ۔ ارادہ۔ نَشَانَةٌ۔ قُوْتٌ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ عَرِضَةٌ لِكَذَا“ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے ”هُوَ عَرِضَةٌ لِلنَّاسِ“ وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ ہے ”هُوَ عَرِضَةٌ لِلْكَلامِ“ وہ لوگوں کے اعتراضات کا نشانہ ہے و ”جَعَلْتَهُ عَرِضَةً“ میں نے اس کو نشانہ بنانا۔

الْعَرِضِيُّ: جُو زَيْنٌ پَر قَائِمٌ نَرَهْ كَع:

مِنَ الْاِبِلِ: سرکش اُونٹ جو ابھی ابھی طرح نہ سدھا یا گیا ہو۔

الْعَرِاضُ: جانب۔ گوشہ۔ کنارہ۔ حصہ۔ اُونٹ کی ران میں چوڑائی میں علامت یا لکیر۔ عِرَاضُ الْحَدِيثِ: بڑی اور بہتر بات ج عَرُوضٌ۔

الْعَرِاضُ وَالْعَرُوضُ: چوڑا۔ الْعَرِاضَةُ: عَرِاضٌ كَا مَوْثٌ۔ ہدیہ جو سفر سے آنے والا پیش کرے۔

الْعَرِضِيُّ: وہ جو لوگوں سے شر کے ساتھ پیش آئے۔

الْعَرُوضُ: اشعار کا وزن۔ مصرعہ اولیٰ کا جزء اخیر۔ سرکش اُونٹ جو ابھی سدھا ہی نہ گئی ہو۔ ج اَعَارِضٌ: مَلَكَةٌ اور مدینہ اور ان کے مضامفات۔ گوشہ۔ دامن کوہ میں راستہ۔ بادل۔ بہت چیز۔ چلنے میں سامنے کی جگہ مِنَ الْكَلَامِ مَضْمُونٌ: کہا جاتا ہے ”هَذِهِ الْمَسْئَلَةُ عَرُوضٌ هَذِهِ“ یعنی یہ مسئلہ اس کی نظیر ہے۔ الْعَرُوضِيُّ: علم عروض کا جاننے والا۔

الْعَارِضُ: قَادٌ رَخْسَارٌ۔ بادل۔ پھاڑ۔ عَارِضِيٌّ جِزْ۔ کہا جاتا ہے ”عَرُوضٌ عَارِضٌ“ یعنی مانع نے روک دیا۔

الْعَارِضَةُ: مَوْثٌ الْعَارِضُ: دَانَتْ جُو مَنَدُ كَع عَرِضٌ مِیْنِ یٰوَدَ دَانَتْ جُو ہنستے وقت ظاہر ہوتے ہیں پیش آنے والی چیز۔ دروازہ کے اوپر کی کلازی جس میں دروازہ گھومتا ہے۔ رَخْسَارٌ۔

گوشہ۔ حاجت۔ ج عَوَارِضٌ: الْعَوَارِضُ: مَكَانٌ كِی حِجَّتِ كِی لَكَرِیَاں جُو عَرِضٌ مِیْنِ رَكْمِیْ هُوَ كِی ہوں۔ الْعَارِضَةُ: عَمَدَةٌ رَاے اور كَلَامِ كِی تَشْفِیحٌ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَا نَ ذُوُّ عَارِضَةٍ“ فلاں صاحب بیان اور فی البدیہہ کہنے والا اور فصیح ہے۔

الْعَرِیضُ: چوڑا۔ ج عِرَاضٌ: دَعَا عَرِیضٌ: بہت زیادہ دُعا ”هُوَ عَرِیضُ الْبَطَانِ“ یعنی وہ مالدار اور غنی ہے۔ الْعَرِیضُ: خُصِي كِرَابٌ۔

الْعَرِیضَةُ: مَوْثٌ الْعَرِیضُ: كِیْفِیَّتُ كَا پِش كِرَابٌ۔

التعريض في الكلام: دوسرے پر ڈھال کے بات کہنا۔
المعراض: توریہ کرنا من الكلام: مضمون۔ بغیر یہ کا تیر جس کا درمیانی حصہ موٹا ہو۔ ج معارضض۔
المعروض: پیش کرنے کی جگہ۔ مصنوعات و مختزمات کے نمائش کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "ذکرته في معرض كذا".
المعروض: ذہن کی شب عروسی کا کپڑا الكلام المعروض: مبہم کلام ج معارضض و معارضض کہا جاتا ہے "ان في المعارض لمنذوحة عن الكذب" تعريض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔
المعروض حکام کے سامنے پیش کرنے کی عرضی۔

عَرَطَ (ن) عَرَطًا وَاغْتَرَطَ عَرَضَ فَلَانَ يَبِيتُ كَرْنَا. اِغْتَرَطَ الرَّجُلُ دُورَ جَلَا جَانَا.

عَرِطٌ وَاُمُّ عَرِيطٌ وَاُمُّ الْعَرِيطِ بَجُورِ الْعَرِيطِ نِشَاةٌ اِيكِ دَرِخْتِ كِي جِزْجِسْ كَانَا مَجُورِ مَرِيْمَ بِي۔
عَرَّ عَرَا الْقَارِوْرَةَ شِيشِي بِنْدَ كَرْنَا۔ كَاكْ لَكَانَا كَاكْ عَلِيْمِدِه كَرْنَا الْعَيْنِ اَكْهَمْ پُورِدِيَا۔
الْعَرَّ عَرَّ سِرْوَكِ مَانِدَا اِيكِ دَرِخْتِ۔ وَاوَدَ عَرَّعْرَةَ.

الْعَرَّعْرَةَ بَدَخَلْقِي۔ كَمَا جَاتَا بِي "رَكِبَ عَرَّعْرَةَ" بَعْنِي بَدَخَلْقِي هُوَا دَوْتُوں نِقْتُوں كِي بِي كَا حَاصَة۔ بِيْرُو۔

الْعَرَّعْرَةَ وَالْعَرَّعْرَةَ شِيشِي۔ بُوْتَلْ كِي وَاوَدَ عَرَّعْرَةَ الْجَبَلِ بِيَهَا كِي چُوئِي ج عَرَا عَرَّعْرَ.

الْعَرَا عَرَّعْرَ شَرِيْفِ۔ سِرْوَا رِ مِيْنِ الْاِبَلِ مَوْتَا اُوْتِ ج عَرَا عَرَّعْرَ الْعَرَا عَرَّعْرَ كُوَهَانَ كِي كِنَارِ۔

الْعَارِوْرَةَ مَجُورِ مَرْدِ كِنْدَا مَرْدِ بِي كُوَهَانَ كَا وَاوَدَ الْعَرَّعْرَةَ مَجُورِ كِي قِسْمِ كَا اِيكِ دَرِخْتِ۔

جس کے پھل کچل والے مشروبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ العرعر الكادي ناس کی ککڑی سے سیاہ تیل جلدی امراض کے لئے نکالا جاتا ہے۔

عَرَفَ (ض) عِرْفَانًا وِعِرْفَانًا وَمَعْرِفَةَ الشَّيْءِ بِيْحَانَا۔ جَانَا بِيْذَنْبِهِ اِقْرَار كَرْنَا فَهَبَدَلِه دِيَا لِلاَمْرِ مَجْرَبِر كَرْنَا۔

عَرَفَ (ن) عِرْفَانًا عَلَي الْقَوْمِ: چودھری ہونا۔ قوم کے معاملات کا انتظام کرنا۔ قوم کی سیاست کرنا (عَرَفًا) الْفَرَسُ گھوڑے کے ایل کاٹنا۔

عَرَفَ (س) عِرْفَانًا: چودھری ہونا (عَرَفًا) وَعِرْفَانًا بِيْتِ خُوْمَجُوْرَا كَانَا۔ عَمْدَه خُوْمَجُوْرَا۔

عَرَفَ (س) عَرَفًا: خُوْمَجُوْرَا كَر دِيَا۔ عَرَفَ الرَّجُلُ بِيْهَمَلِي مِيں پھوڑا ہونا۔ مَفْتِ مَعْرُوفِ۔

عَرَفَ الشَّيْءَ: خُوْمَجُوْرَا كَرْنَا۔ عَرَفَهُ الْاَمْرُ وَاوَقَفَ كَر دِيَا۔ عَرَفَهُ بِيْفَلَانِ نَامِ بِيَا دِيَا۔

عَرَفَ الصَّلَاةَ: كَشَدِه كُو دُوهُوْتُنَا الطَّعَامِ نَسَانِ زِيَادَه كَرْنَا الْاِسْمَ اِسْمُ كَمْرَه كُو مَعْرُوفِ بِيَا نَا الْحِجَا ج: حَاجِيُوں كَا عَرَفِ مِيں ظَهْرَنَا (وَاَعْرَفَ) فَلَانَا خَطَا بِيْرَ مَطْلَعِ كَرْنَا اُوْر مَعَا كَر دِيَا (وَاَعْرَفَ الْفَرَسُ مَجُورِ كَا لِي اِيْلِ وَالَا هُوَانَا۔

تَعَرَّفَ الْاِسْمَ: اِسْمُ كَمْرَه كَا مَعْرُوفِ هُوَانَا الشَّيْءَ: طَلَبِ كَرْنَا بِيَهَانَ تَكْ كِه بِيْحَانِ لِيَا الصَّلَاةَ كَشَدِه كُو تَلَا ش كَرْنَا بِيْفَلَانِ اَشْهَانَا هُوَانَا الْيَهُ وَاوَقَفَ كَرْنَا۔

تَعَارَفَ الْقَوْمِ اِيكِ دَوْرِي كُو بِيْحَانَا۔ اِغْتَرَفَ: بِالشَّيْءِ اِقْرَار كَرْنَا۔ ذَلِيْلَ هُوَانَا تَا لِعَدَا هُوَانَا الشَّيْءِ بِيْحَانَا بِيَهَرِ نِهْمَانِي كَرْنَا الرَّجُلُ دَرِيَا نَت كَرْنَا الْيَهُ نَامِ اُوْر حَالِ كِي اِطْلَاعِ دِيَا لِلاَمْرِ مَجْرَبِر كَرْنَا الصَّلَاةَ كَمْرَه كَا مَالِكِ ظَاهِرِ كَرْنَا كِي لِي اِيْوَا صَفِ بِيَا نَا۔

اِسْتَعْرَفَ الشَّيْءَ: بِيْحَانَا اِلَى فَلَانَ: وَاوَقِفَ كِي لِي نَسْبِ بِيَا ن كَرْنَا۔ اِغْرُوْرَفَ: لِلشَّرِيْبَانِي كِيْلِي اَمَادَه هُوَانَا۔

الْفَرَسُ: گھوڑے کا ایل والا ہونا البحر: سمندر کی موجوں کا بلند ہونا النخل: درخت خرما کا گنجان ہونا الدم: خون کا جھاگ والا ہونا الرائب: الفرس: سوار کا گھوڑے کے ایل پر سوار ہونا الرجل: درخت خرما پر چڑھنا۔

العرف: بو۔ اکثر خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ما أطيب عرفه" اس کی خوشبو کیسی اچھی ہے۔
العرف: جود۔ بخشش۔ بھلائی۔ عطیہ۔ اقرار۔ کہا جاتا ہے "لَه عَلَي الْفَرَسِ عَرَفًا" اُس کے میرے اوپر ہزار ہیں مجھے اقرار ہے۔ ایل۔ مرغ کی کلفتی۔ نیکی۔
العرف: موج۔ اُوچھی جگہ۔ آگے پیچھے۔ کہا جاتا ہے "جاء القوم عرفًا" یعنی قوم آگے پیچھے آئی ج عرف و اغراف۔
العرف: اصطلاح۔ تسلیم کردہ باتیں۔ عرف اللسان: اصطلاح لغوی۔ عرف الشروع: اصطلاح شرعی۔
العرف والعرف: مبر۔
العرف: ایل۔ ریت کی اُوچھی جگہ۔
العرفة: ہول۔ پھیلی کا زخم (والعرفة) دریا نیت۔ سوال۔
العرفة: دو چیزوں کے درمیان کی حد۔ ریت کی اُوچھی جگہ۔ ج عرف۔
عرفة بنتہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ نویں ذی الحجہ۔
عرفات بنتہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی جو حاجیوں کے لیے نویں تاریخ کو ذی الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے اور نسبت کے لیے عرفی۔
العرفة: نجومی کا پیشہ۔
العرف: نجومی۔ طیب۔
العرفان: سر۔ معروف۔
العرفان والعرفان: اقرار کرنے والا۔ بتانے والا۔
الإعتراف: س۔ پادری کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا۔
العرف: نفا۔ مبر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے

العرقاة کثیر بارش۔

العوارق۔ دارحیں۔

المعروق۔ چمیری وغیرہ جس سے بڑی پرے

گوشت اُتار جاتا ہے۔

رَجُلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْرُوفٌ الْعِظَامُ: ذہلا۔

عَرَقَبَ الرَّجُلُ: حیلہ کرنا الذابۃ کو نہیں

کاٹنا۔ کھرا کرنے کے لیے کو نہیں اٹھانا۔

تَعَرَّقَبَ: حیلہ کرنا۔ عروق کے مانند ہونا۔

(دیکھو لفظ عُرُقُوب) عَنِ الْأُمُورِ: باز رہنا۔

پہاڑ پر جنگ راستوں میں چلنا لِحَصْمِهِ: دشمن

کے لیے مخفی طریقہ اختیار کرنا۔

العُرُقُوبُ: کوچ۔ ایزی کے اوپر کا پھلا۔

وادئ کا موڑ۔ پہاڑی راستہ۔ حیلہ ج عَرَقِيبُ

عَرَقِيبُ الْأُمُورِ: مشکل کام۔ عُرُقُوبُ

نام ایک شخص کا جو جمعوت اور وعدہ خلافی میں

ضرب النثل تھا۔

عَرَقِصُ الْعَلَامِ: لڑکے کا ناچنا۔ عَرَقِصَتُ

الحیة: سانپ کا رنگنا۔

عَرَقَلُ: توسط سے ہٹ جانا الامور۔ دشوار کر

دینا عَلَیْهِ الْكَلَامُ: تیزھا کرنا۔

تَعَرَّقَلَ الْأُمُورُ: پیچیدہ ہونا الْكَلَامُ: تیزھا

ہونا۔

العِرْقَالُ: گمراہ۔ کج کرد۔

العِرْقَابِلُ: اٹھنے کی زردی۔

العِرْقَابِلُ: مصیبتیں۔ عَرَقَابِلُ الْأُمُورِ:

دشوار امور۔

العِرْقَالِيُّ: ناز و تنخر کی چال۔

عَرَكٌ (ن) عَرَكًا: الاذینم: چڑے کو مانا ہ

الذہن: زمانے کا کسی کو تجربہ کار بنانا الشئ:

رگڑتے رگڑتے مٹا دینا الماشیۃ النّبات

جانوروں کا ساری نباتات کو کھا جانا الماشیۃ

الأرض: چارے سے خالی کر دینا (عَرَكًا

وَعَرَاكًا وَعَرُوكًا) المَرَاةُ: عورت کا

حائضہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَرَكٌ الْأَذَى

بِحَنْبِهِ" یعنی اس نے مشقت اٹھائی۔

عَرَكٌ (س) عَرَكًا: سخت حملہ آور ہونا۔

صفت عَرَكٌ۔

عَارَكَةٌ مُعَارَكَةٌ وَعِرَاكًا: مقاتلہ کرنا۔

مزاحمت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَوْرَدَ إِبِلَهُ

عِرَاكًا" یعنی وہ سارے اونٹوں کو پانی پر لایا۔

تَعَرَّكَ الشئُ: ملجا جانا۔

تَعَارَكَ الرَّجُلَانُ: ایک دوسرے سے

مقاتلہ کرنا۔

إِعْتَرَكُوا: آپس میں جنگ کرنا۔ "إِعْتَرَكُ

النَّاسُ فِي الْمَعْرَكَةِ أَوْ الْحُصُونَةِ"

لوگوں کا میدان جنگ میں قتل و قتل کیلئے چل

پڑنا إِبِلٌ فِي الْوُؤْدِ: اونٹوں کا گھاٹ پر

اُترنے میں بھیڑ کرنا الْوُجَالُ فِي الْحَرْبِ:

ابنہ کرنا اور ایک دوسرے کو رگڑنا۔

العَرَكُ والعَرَكُ: آواز۔

العَرَبِيُّ: مچھلی کا شکاری۔ ج عَرَكٌ: ج

عُرُوكٌ۔

العَرَكَةُ: بار بار۔ کہا جاتا ہے لَقِينَهُ عَرَكَةً وَ

عَرَاكَبُ:

العَرَكَةُ: مشقت برداشت کرنے والا۔

العَرَبِيَّةُ: کوہان۔ نفس۔ طبیعت۔ عادت۔

کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَيْنٌ الْعَرَبِيَّةُ" یعنی نرم خو

ہے۔ "هُوَ شَدِيدٌ الْعَرَبِيَّةُ" یعنی وہ سخت

مزاج ہے۔ ج عَرَانِكُ:

المَعْرُوكُ والمَعْرُوكَةُ والمَعْرُوكَةُ: میدان

جنگ مَعَارِكُ:

المُعْتَرَكُ: میدان جنگ۔ مُعْتَرَكُ الْمَنَابِتِ

انسان کی عمر سے ساٹھ اور ستر سال کے

درمیان۔

المَعَارِكُ: فوج۔ سخت حملہ آور۔

المَعْرُوكُ: مٹا ہوا مَعْرُوكٌ: جس پر پانی پر

بھیڑ زیادہ ہو۔ ارض مَعْرُوكَةٌ: زمین کو

جانوروں نے چر کر صاف کر دیا ہو "زَمَلُ

مَعْرُوكٌ وَعَرِيكٌ" جمع شدہ ریت ایک

دوسرے میں داخل۔

عَرَكَسَ الشئُ: تہ تہ ہونا الشئُ: تہ تہ

کرنا۔

إِعْرَانِكَسَ: جمع ہونا اور تہ تہ ہونا الشَّعْرُ:

بالوں کا سخت کالا ہونا۔

عَرَمٌ (ن ض) عَرَمًا: العَظْمُ: ہڈی سے

گوشت اُتار لینا الصَّبِيُّ أُمَةٌ: بچے کا اپنی ماں کا

دودھ پینا إِبِلُ الشَّجَرِ: اونٹ کا درخت

سے بچے کھانا فَلَانًا: تکلیف پہنچانا۔

عَرَمٌ (ن ض) عَرَامًا وَ عَرَمٌ (س) وَ

عَرَمٌ (ك) عَرَامَةٌ: شدید سخت ہونا۔ شوخ

ہونا۔ بہت خوش ہونا۔ بد خلق ہونا۔ خراب

ہونا۔ صفت عَارِمٌ وَ عَرِمٌ:

عَرَمٌ الشئُ: خلط ملط کرنا۔

أَعْرَمٌ: ناکردہ گناہ پر تہمت لگانا۔

تَعَرَّمَ: العَظْمُ: ہڈی سے گوشت اُتار لینا۔

عَلِينًا: بہت زیادہ خوش ہونا اور اُگڑنا۔

إِعْتَرَمَ: الفرسُ: گھوڑے کا ذور زور قدم

رکھنا۔ مُذَرٌّ زور ہونا الصَّبِيُّ تُذِي أُمَّهُ: بچے کا

ماں کے پستان کو چوسنا۔

العَارِمُ: فاد۔ بد خلق۔ موزی ج عَرَمَةٌ مَوْزِيَةٌ

عَارِمَةٌ ج عَوَارِمٌ وَ عَارِمَاتٌ: یوم

عَارِمٌ: نہایت شہزاد۔

العَرَمُ: چٹان۔ ہانڈی کا بقیہ۔

العَرَمُ وَالْعَرَمَةُ: سیاہی سفیدی ملی ہوئی۔

چھوٹے چھوٹے سیاہ سفید نقطے۔ بکری کے

ہونٹ کی سفیدی۔ بکری کو (عَرَمَاءُ) اور

بکرے کو اعروم کہتے ہیں (والعَرَمَةُ) گیہوں

کا ڈھیر جو دائیں کرنے کے بعد بھوسہ نکالنے

کے لیے جمع کیا جائے۔ العَرَمَةُ: کھانے کی

بوں۔ العَرَمُ: ہانڈی کا ٹیل۔

العَرَمَةُ: پشتہ جو وادی کے عرض میں ہو۔ ج

عَرَمٌ اور یا عَرِمٌ کا لفظ جمع ہے۔ بغیر واحد کے

العَرَمُ زچہ یا۔ شہید بارش۔ وادی۔ وادی کے

پشتہ۔

المَعْرَمُ: قطا یعنی رنگ خوار پرندے کا انڈا۔

العَرَامُ: مِنَ الْجَمِيسِ فَوْجٌ كِي تَمِيزِي وَ كَثْرَتِ

مِنَ الرَّحْلِ: بد خلقی۔ کہا جاتا ہے "بِهِ شِدَّةُ

وَعَرَامٌ" اس میں تیزی و بد خلقی ہے۔ ہانڈی کا

میل۔

العَرِيمُ: مصیبت ج عَرَمَانُ:

الاعْرَامُ: رنگ برنگ۔ غیر مستقل۔ بھیڑ یا

کبری کا ریوڑ غیر مختون۔ ج عرومان ج
عروا میں۔
العروماء مؤنث۔ عروم۔ جتی دار سانپ۔
العروم۔ سخت۔ بے شمار لشکر۔
عرون (ن ض) عرونا السہم تیروں کو
ترتیب سے رکھا علی الشئی کسی چیز کا عادی
ہو یا البعیر۔ اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا۔
عرونت (س) عرونا الذابۃ عروہ کی
بیماری لاحق ہونا (دیکھو لفظ عرونة) صفت
مذکر عرون اور صفت مؤنث عرون و عرونة
(عروانا) الدار گھر کا دُور ہونا۔
عرون الریح نیزے میں تیخ لگانا۔
عرون الرجل ہمیشہ گوشت کھانا۔
العرون۔ سر پکا ہوا گوشت۔ دھواں۔
العرون والمعرون والعرونة ایک بیماری ہے
جس سے جانور کے پچھلے پیر کے بال گر جاتے
ہیں یا جانور کے پاؤں کا پھلنا۔
العوان لکڑی جو اونٹ کی ناک میں ڈالی جاتی
ہے۔ دوری۔ بچو کا بھٹ۔ نیزے کی تیخ۔
ہمسر۔ جنگ۔
العورین گھر کا صحن۔ جھاڑی۔ گوشت۔
آواز۔ شیر وغیرہ کا چھڑا ہوا۔ عزت ج عرون
(والعرونة) شیر، بچو، بھیڑیے کی جھاڑی۔
سانپ کی بٹی۔
العورین ناک۔ ناک کا تخت حصہ۔ سردار
من کل شیء ہر چیز کا پہلا حصہ۔ ج
عروائین۔
العروناس پہاڑ کا کلا ہوا حصہ۔ کبوتر کی مانند
ایک پرندہ۔ لکڑی یا لوہا جس میں کاٹنے والی زوئی
کے گالے کو پلٹ کر کاٹی ہے۔ جوڑ کا بھٹا۔
عوام (عرونوس) کہتے ہیں ج عروائیس۔
عروا یعرو عروا۔ فلانا امر۔ پیش آنا۔
فلانا عطیہ مانگنے کیلئے قصد کرنا۔ صفت فاعلی
عار اور صفت مفعولی معرو القمیص کرتے
میں کاج بنانا (وعروی) بخاری کی سردی لاحق
ہونا۔ صفت عار ج عروا اور معرو
وعروی الرجل خوف کی کچی لاحق ہونا۔

اعروی وعروی القمیص کرتے میں کاج
بنانا۔ اعروی صاحبہ۔ چھوڑ دینا۔
اعتری اغتراء۔ فلانا عطیہ مانگنے کیلئے
جانا۔ اغتراء امر۔ لاحق ہونا۔
العرو گوشت۔ وہ جو اونٹ کا اہتمام نہ کرے۔
لوگوں کی جماعت ج اغراء کہا جاتا ہے
عرو من کذا میں فلاں چیز سے خال ہوں
”وبہا اغراء من الناس“ اس کے ساتھ
جماعتیں ہیں۔
العرواء بخاری کی سردی۔
العروة من الأبریق ونحوہ: چھاگل
لوہے کا دستہ۔
العروة والعروی والعروی کاج۔
العروة۔ گھنجان درخت۔ درخت جس کے
پتے جاڑے میں نہ گریں۔ نقیب مال۔ قابل
اعتماد چیز۔ کہا جاتا ہے ”انا عروہ منہ“ میں
اس سے خالی ہوں۔
اس نے فلاں کو معاملہ سر پر کر دیا۔
عروی یعروی عروية وعرويا من ثیابہ۔
ہونا۔ صفت مذکر عار وعرویان ج عروا۔
صفت مؤنث عاربة وعروانة ج عوارب
وعاربات۔ عروی من العیب وغیرہ۔
عیب وغیرہ سے پاک صاف ہونا۔ صفت عرو
(عروی) اللیلۃ رات ٹھنڈی ہونا۔
عروا یعروہ عروبا الامر۔ پیش آنا۔
عروی تعریۃ الرجل الثوب ومن
الثوب: ج کرنا۔ من الامر علیہ کرنا۔
چھرا لینا الرجل بیکار کر دینا۔ چھوڑ دینا
الشئی دستہ لگانا۔ کہا جاتا ہے
و”ثیفة“ مضبوط دستہ لگانا۔
اعروی اعرواء الرجل الثوب ومن
الثوب: ج کرنا۔ کپڑے اتار لینا
النخلۃ کسی کو ایک سال کے لیے پھل بہہ
کرنا۔ فلانا صلیفہ دور ہونا اور مد نہ کرنا
الرجل رات کی ٹھنڈک لگنا۔ کھلے میدان
میں چلنا یا تپت کرنا۔
تعروی تعروبا من ثیابہ پھرنے اتار لینا۔ ج

ہونا۔
اعروری اغریراء۔ تپتا پھرنے کا
تنگی پینے پر سوار ہونا
عروی۔ گوشت۔ میدان۔ سردی۔
العرواء کھامیدان۔ ج اغراء۔
العروا میدان۔ مکان کا صحن۔ سردی کی
شیرت۔
فوس عروی تنگی پینے کا گھوڑا۔ بلازین کے
گھوڑا ج اغراء۔
العرواء آڑو لا پر والوگ۔ واحد عروی۔
العروية والعروية۔ ننگا پن۔
العاریۃ اُدھار لی ہوئی چیز۔
العرویان ننگا۔ عرویان الشحی جو اپنے ہمید
کو نہ چھانے۔
عرویات البروز (ن) ج سے خالی پودے
جسے صنوبر کے درخت۔
العروی ٹھنڈی ہوا۔
العروية ٹھنڈی ہوا۔ کھجور کا درخت جس کا
پھل کھا لیا گیا ہو۔ کھجور کا درخت جس کے
مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کیلئے دے دیا
ہو ج عروایا کہا جاتا ہے
یعنی ان کے درخت خرما بہہ شدہ ہیں کرم کی
وجد سے دوسروں کو پھل کھانے کیلئے دے
دیتے ہیں۔
المعروی والمعروا ننگا پن۔ بدن کا وہ حصہ
جو کپڑے سے نہ چھایا جائے جیسے ہاتھ آچہرہ
معار القماری۔ شجر مقامات۔
وغیرہ ج
بچھونے۔
عز (ض) عزاء وعزوة وعزازة۔ عزیز
ہونا۔ قوی ہونا۔ ضعیف ہونا الشئی قلیل
ہونا۔ کیاب ہونا۔ دشوار ہونا
عز علیہ عزرا کرم ہونا۔ کہا جاتا ہے
علی ان تفعل کذا میرے اوپر سخت اور
دشوار ہے کہ تم یہ لیا کرو۔
عزہ (ن) عزوا قوی کرنا۔ عزت کی کوشش
میں غالب کرنا۔

العزوبہ لکڑیاں۔ درختوں کا پھل (بغیر واحد کے جمع ہے)
العزوبہ والعزوبہ کی ہوئی گھاس کی قیمت۔
عزوفہ ہزت میں غالب آتا۔
عزفان (عزفان) عزفہ جماع کرنا۔
عزفان (عزفان) عزفا و عزوفاً۔ نفسہ و عن الشیء بے رشتہ کرنا اور ملول ہونا (عزفان) نفسہ عن سذائح کرنا (عزفا و عزفان) آواز دینا۔ گانا۔
عزف آواز دینا۔
عزف ہوئی سر سر اہٹ سننا۔
عزف ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا۔ ایک دوسرے کی جھوٹ کرنا۔

عزوفہ لکڑی کیلئے آمادہ ہونا۔
العزف آلات لہو سے کھینے والا۔ گویا۔
العزف کی آواز۔ ہوئی سر سر اہٹ۔
العزف جنگلی کبوتر۔

العزوفہ والعزوفہ جو کسی کی دوستی پر قائم نہ رہے۔ کہا جاتا ہے ”ہو عزوف عن اللہ وہ کھیل کود سے کنارہ کش ہے۔ ج عزف عزوف میں تاملتہ کی۔ بے تائید کی نہیں۔

العزوف یعنی عزف مصدر۔
العزف بہت باجا جانے والا۔ بہت گانے والا۔ مسحات عزف بہت گرنے والا۔ باول۔

العزفہ والمعزفہ گانے بجانے کے آلات ج معازف۔
عزوفہ لکڑی کے لئے تیار ہونا۔
عزفان (عزفان) عزفہ ہزت میں غالب کرنا۔
عزفان (عزفان) عزفا الارض زمین کو کھودنا۔ کھود کر پانی نکالنا۔

عزف (عزف) عزفا بچکانا۔
العزف بخلق۔ عزف۔
العزف والمعزفہ بخلق کا پست۔ ریحل

عزفان (عزفان) عزفہ و عزوفہ بے زوج کے ہونا۔ مجرور ہونا۔

عزفان (عزفان) عزوفہ دور ہونا۔ غائب ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔ صفت عازب عزفان الارض زمین کا ویران ہونا۔
عزف دیر تک غائب رہنا۔ شروع کئے ہوئے کو چھوڑ دینا۔
عزف دور ہونا۔ دور کرنا۔ بے زوج کر دینا۔

عزف مجرور رہنے کے بعد گھبرانا۔
العازب۔ دور کی چراگاہ۔
العازبہ مؤنث۔ عازب مرد کی بیوی ج عواذب۔

العزب وہ مرد یا عورت جس کے زوج نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ ”عزب مرد کیلئے اور عزبہ مؤنث کیلئے۔ ج عزاب و اعزاب۔
بالاعزب جس کے مال و عیال نہ ہوں۔ وہ شخص جو اپنے اہل و مال سے دور ہو گیا ہو۔

مؤنث عزب عازبہ۔
العزبہ باندی۔ لونڈی (والمعزبہ بیوی۔

العزب والمعزبہ وہ شخص جو اپنے جانوروں کو دور چرانے کے لیے لے جائے۔
العزبہ جس کے اہل نہ ہوں۔ جس کا کنوارا پن دیر تک رہے۔

عزفان (عزفان) عزفا الرجل دفع کرنا الارض بالمسحاح۔ پست سے زمین کو اٹھ پلٹ کرنا۔

عزفان (عزفان) عزفہ ہزت کرنا۔ اعانت کرنا۔ جماع کرنا۔ عزف سذائح کرنا۔ واپس کر دینا۔ ہ علی الامر خیر دینا۔ ہ علی الفرائض والاحکام۔ انص اور احکام سے واقف کر دینا۔

عزف ہزت کرنا۔ اعانت کرنا۔ اعانت و مدد کرنا۔
العزوف والمعزوفہ بخلق۔
العزوفہ مؤنث۔ عزوفہ بخلق۔

عزفہ دکرنا۔ تعظیم کرنا۔ معزز بنانا۔
عزفہ معزفہ حصول عزت میں مقابلہ کرنا۔
عزفہ میں غالب ہونا۔

اعزفہ اعزاز۔ اعزاز بنانا۔ محبت کرنا۔
اعزفہ البقرہ گائے کا وضع حمل دشوار ہونا۔ کہا جاتا ہے ”اعزفث بما اصابک“ جو کچھ تم پر گزرا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔
اعزفہ ہونا۔ ہ اپنے آپ کو طاقتور و قوی سمجھنا۔ فخر کرنا۔ علی فلان بزرگی جتاننا۔
غالب آتا۔

عزفہ قوی ہونا۔ یہ فخر کرنا۔ لعنہ بخت اور نفوس ہونا۔
استعزف۔ علیہ بختی کرنا۔ غالب ہونا۔

اللہ بفلان وفات دینا۔ کہا جاتا ہے ”استعزف بحق“ یعنی میرے اوپر غالب آگیا۔
”واستعزف بعلمی یعنی بیماری بڑھ گئی اور اس کی عقل پر غالب آئی۔

العزب۔ سخت بارش۔
رجل عزفہ۔ کہا جاتا ہے ”جعی بہ عزفہ“ یعنی اس کو جس طرح سے ہولے ڈوڑا۔
العزفہ ہرن کا مادہ بچہ۔

العزفہ حصول عزت کے مقابلہ میں غالب ہونا۔ حمت۔

العزفہ شریف۔ قوی۔ تاد۔ معزز۔ بادشاہ بلند کہ اس کا حصول دشوار ہو اور وہ مغلوب نہ ہو اور کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے اور اس کے مانند کوئی نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ ج عزاز و اعزاء و اعزفہ ہاکم مصر کا لقب۔

العزفہ تفصیل۔ عزیز۔
العزفہ عزیز۔ شریف۔ (اعزفہ مؤنث۔
قریش کے ایک بہت نام۔
العزفہ شدت۔ سخت سال۔ بڑی بوند کی بارش۔

العزفہ سخت مرض والا۔
العزفہ بختی۔ زمین جس پر سخت بارش ہوئی ہو۔

عزوفی: سخت مزاج بخیل و بدخو مرد۔
العزوق: من الأرض: پست زمین۔
المعزوق والمعزوفة: ہوا میں گیہوں صاف کرنے کا آلہ۔ کھودنے کے آلات جیسے پھاڑا۔
کدال۔ بیل۔ ج۔ معازق۔
المعزوق: بد خلق۔
عزلة (ض) عزلاً: عن كذا: جدا کر دینا
فلاناً عن منصبه: علیہ کر دینا۔ معزول کر دینا۔
عن عملہ: باز رکھنا۔
عزلة: ایک جانب کر دینا۔
تعزول و اعتزال: الشئ و عنه: جدا ہونا۔

جانا۔
تعازل القوم: بعض کا بعض سے جدا ہونا۔
العزل: بے تمہار و سامان ہونا۔ عزلاً
الجمان: گدھے کا پچھلا حصہ۔ العزلة:
سرین کی بڑی کاسر اجو بیٹھے میں زمین سے نکلے۔
العزل والعزال: کمزوری۔
العزلة: جدائی۔ گوشہ نشینی۔
العزائل: وہ ماہہ جو بجلی اور گرمی کے داخل ہونے

کاڑو کے۔
شکل لکڑی دونوں کو روکتی ہے۔ اور شیشہ بجلی کو روکتا ہے۔
العزل: بے ہتھیار مرد۔ اعزال۔

الاعزال: علیحدہ ریت کا ڈھیر بے بارش کا پادل۔ بے ہتھیار ج عزول و اعزال و عزول و عزلان۔ مؤنث عزلاء۔ الاعزال من الذواب: دم کو جھکا ہوا رکھے والا من الطیور: پرندہ جو اڑنے پر قادر نہ ہو۔ الاعزال: نام دو ستاروں میں سے ایک کا کہ دوسرے کا نام "زایح" ہے۔

العزلاء: الاعزال کا مؤنث۔ دیر۔ مشک کا منبرج العزالی والعزالی: کہا جاتا ہے "انزلت السماء عزالیها" یعنی آسمان نے اپنے دہانے کھول دیئے۔ اشارہ ہے شدت بارش کی جانب کہا جاتا ہے "هو عن الحق بمنعزل" یعنی وہ حق سے بچرودا گناہ ہے۔
المعزولة والعزال: قدریہ کی ایک جماعت

جو اپنے خیال سے اہل سنت والجماعت اور خوارچ دونوں کو گمراہ سمجھ کر جدا ہو گئے تھے۔
المعزال: علیحدہ چرانے والا۔ سفر میں علیحدہ اترنے والا۔ خود رائے بے ہتھیار۔ کمزور
احسن۔ ج۔ معازیل۔

عزم (ض) عزماً وعزماً ومعزفاً و معزوماً وعزیماً وعزماً وعزیمتاً وعزیمتاً وعزماً الامر و علیہ پختہ ارادہ کرنا
الرجل: کوشش کرنا الامر۔ واجب ہونا
فلان علی فلان: قسم دینا۔ کہا جاتا ہے
"عزمت علیک لتفعلن الا فعلت اولمآ فعلت" یعنی قسم دیتا ہوں (وعزم) الواقی:

متر پردہنا۔
اعتزمتہ الامر و علیہ: ارادہ کرنا الطریق بغیر ٹھہرے ہوئے گزر جانا الفرس فی عنایہ: سرکشی کرنا۔
تعزم: الامر و علی الامر: ارادہ کرنا۔
العزم: پختہ ارادہ۔
العزيمة: خاندان۔ قبیلہ۔ ج۔ عزم۔
العزيمة: حق۔ واجب۔ ج۔ عزمات۔

عزمات اللہ و عزائم اللہ: اللہ کے حقوق فراغ۔ کہا جاتا ہے "ما له عزيمة" اس کیلئے ثابت و صبر نہیں۔
العزمی: کھلی بیچنے والا۔ وفادار۔ عہد کو پورا کرنے والا۔

أم العزم والعزيمة: أم عزيمة۔ ذر۔
العزیم: تیز دوڑ۔
العزيمة: مؤکد ارادہ۔ مترج۔ عزائیم۔
العازم: قا۔ ج۔ عزيمة وعازمؤن۔
عازم: کام جس کا پختہ ارادہ ہو۔
العزوم: ہمیشہ اپنے عزم پر رہنے والا۔

بڑھیا۔ ذر۔ ج۔ عزم۔
العزام: صینہ مالغ۔ شیر۔
المعزم: قا۔ متر پردہنے والا۔
عزا یعز وعزوا: الشئ او فلاناً الی فلان: نسبت کرنا (عزاً) الرجل: صبر کرنا۔

عزا یعز وعزوا وتعزى تعزياً اعترى اغتزأ لفلان والى فلان: منسوب ہونا۔
ج یا جموت دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرنا۔
اسم (عزاً) ہے۔ اور اسی سے ہے "اعزى بعزاء الجاهلیة"۔

العزة: لوگوں کی جماعت ج۔ عزى وعزون۔
العزوة: ہتھیاب۔ صبر۔
عزى یعزى عزياً أو فلاناً الی فلان: نسبت کرنا۔
عزى یعزى عزاء: مصیبت پر صبر کرنا۔
صفت مذکر عز: صفت مؤنث عزية۔
عزى تعزياً: الرجل: تسلی دینا۔
تعزى تعزياً: الیہ: منسوب ہونا۔ صبر کرنا۔ تسلی دینا۔

تعازى تعازياً: القوم: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔
العزى: صابر۔
العزیه: ہتھیاب۔
الاغتزاء: دعوی کرنا۔ جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عس (ن) عساً وعسنا رات میں پاسپانی میں پھرنا العس: دیر سے ہنچنا۔
عس القوم: تمہارا سکاٹانا۔
اغتنس رات میں مشتبہ لوگوں پر مطلع ہونا۔
الشئ رات میں طلب کرنا یا قصد کرنا البلد: شہر میں داخل ہونا اور احوال سے مطلع ہونا۔

العسس: رات کے چوکیدار۔ یہ جمع ہے عاس کی۔
العس بڑا پیالہ۔ بڑا برتن۔ ج۔ عسس و عساسة واعماس وعسین۔
العاس: رات کا چوکیدار۔ ج۔ عسس وعسین۔
العساس: رات کا چوکیدار۔

العسوس: دودھ دوہنے کے وقت بدکنے والی اونٹنی۔ بے برکت مرد۔ شکار کو ڈھونڈنے والا۔

الطریق: راستہ کو بغیر جانے پہچانے چلنا
الأمور: بغیر سمجھے ہوئے اختیار کرنا۔ فلانا:

ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

إنعسف الشئ: مزنا۔

العسف: ظلم۔ موت۔

العابیف: قال من الابل: عساف کی بیماری
والا أوث: کہا جاتا ہے "ناقۃ عابیف" ج
عوا بیف۔

العساف: اونٹوں میں ایک بیماری۔ جس میں
سانس زیادہ لیتا ہے۔

العسوف والعساف والمعسف: بہت

ظالم۔

العسیف: مزدور ج عسفاء و عسفة۔

العسیف: بے جانے پہچانے راستہ چلنے والا۔

"أخذوا فی معاسیف الیبد و

معاسیفها" یعنی جنگل کے جمبول راستوں میں

چلنا شروع کر دیا۔

عسق (س) عسقا و تعسق بہ: چننا۔

علیہ: طلب کرنے میں اصرار کرنا۔

العسق: تیک خوی۔ لول رات کی تار کی۔

العسيفة: روٹی شراب۔

عسقل: السراب: سراب کا چمکنا۔

الراس: سر کا اور کاھتہ۔

العساقیل والعساقیل: سراب۔ متفرق

بادل۔ صحاح میں ہے کہ ان کا واحد نہیں بنا

گیا۔

عسك (س) عسكا بہ: لازم ہونا۔ چننا۔

تعسك: الرجل فی مشیہ: تپک کر چلنا۔

عسکر القوم: جمع ہونا۔ اللیل: تاریکی

زیادہ ہونا۔ الشئ: جمع کرنا۔ جمع کردہ کو

معسکر کہتے ہیں۔

العسکر: جمع لشکر ج عساکیر ہر جزاک

بہت۔ کہا جاتا ہے "انجلت عنہ عساکیر

الہم" غم کی کثرت اس سے دور ہوگی۔

العسكرة: سختی و خشک پالی۔

عسل (ن ض) عسلا و عسل الطعام

کھانے میں شہد ملانا۔ عسل و عسل القوم:

شہد کھلانا۔ شہد کا توشہ دینا۔ عسلت النحل:

کھپوں کا شہد بنانا۔ عسل الشئ: شہد جیسا

ہونا۔ عسل النام: اونگھنا۔

عسل (ض) عسلا و عسولا و عسلا ما

الرؤمخ: زیادہ حرکت کرنا۔ المرأة: جماع

کرنا۔

عسل (ن) عسلا و عسلانا الماء: ہوا

کی وجہ سے لہرانا۔

استعسل: شہد طلب کرنا۔ استعسلت

النحل: کھپوں کا شہد بنانا۔ کہا جاتا ہے عسلا

لہ بمعنی تعسلا یعنی اس کیلئے ہلاکت ہو۔

العسل: شہد (مذکر و مؤنث) ج اعسال

و عسل و عسل و عسول و عسلان۔

تھوڑے سے کو عسلة کہتے ہیں۔ العسل:

کھجور کا شیرہ۔ کہا جاتا ہے "ما فلان مضرب

عسلة" یعنی فلاں کیلئے تپ نہیں۔ "ما ترک

لہ مضرب عسلة" مراد یہ ہے کہ اس کو

گالی دی یہاں تک کہ اس کے تپ کو کالعدم کر

دیا۔

العسلی: شہد کے ریگ کا۔

العاسیل: (و العسول) تپو کار جس کی ثنا

و صفت اچھی طرح معلوم ہونے عسل

العاسیل: شہد نکالنے والا ج عسل

و عوا بیل۔ بھیڑنا۔ رمح عابیل و عسأل

و عسول نری کی وجہ سے حرکت کرنے والا۔

العسأل بمعنی العابیل

خلیۃ عابیلۃ چھتہ مع شہد کے۔

العسالة: چھتہ۔

العسالة: شہد کی مکھی۔ شہد کے نکالنے

والے۔

العسیل: عطر فروش کی جھاڑو جس سے عطر

جمع کرتا ہے۔ ہاتھی اور اونٹ کا عضو تامل ج

عسل۔

المعسلة و المعسلة: شہد کا چھتہ۔

المعسول: رجل معسول: شیریں

زبان۔ خوش آواز۔ معسول المواعید:

تپے وعدے۔

عسلج: الشجر: نرم شہدیان کا لانا۔

العسلج: نرم شہدیان۔ ج عسالج

العسلوج: نرم شہدیان۔ ج عسالج

عسلط: غیر مربوط کلام ہونا۔

کلام معسلط: غیر مربوط گفتگو۔

عسم (ض) عسما و عسوما فی الأمور:

لاج لوج کرنا۔ کوشش کرنا۔ عسمت عینہ:

آنکھ کا بہر پڑنا۔ آنکھ کا بند ہونا یا بقول بعض پلک

کا چپک جانا۔

عسیم (س) عسما القدم او الکف:

قدم یا پتیلی کا خشک ہو کر ٹیز جا ہونا۔ صفت

نہر کر اعسم: صفت مؤنث عسماء

اعسم یدہ: خشک کر دینا۔ اعسمت عینہ

آنکھ کا بہرنا یا بقول بعض بند ہونا۔

اعستم: کمانی کرنا فلانا کسی کو اس کے طمع

کی چیز دینا۔

العسوم: بال بچوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ ج

عسوم۔

العاسم: بمعنی العسوم۔

العسمة و العسوم: خشک روٹی کے ٹکڑے

العسوم: قلت۔

العسوم: طمع۔ کہا جاتا ہے "مالک

فی بنی فلان معسوم"

عسین (س) عسنا الکلا فی الذابۃ:

گھاس کا ہضم ہونا اور جانور کا مونا ہونا۔

عسنت الذابۃ: چارہ کا ہضم ہونا اور مونا

ہونا۔

تعسن الشئ: پید نشان تلاش کرنا۔ آباء:

مشابہ ہونا (و اعسن) المكان: کچھ سبزی

آگاتا۔

العسن: چربی۔ بالوں کی لمبائی و خوبصورتی مع

سپیدی۔

العسن: مش و نظیر (و العسن) چربی۔

العسوں و الاعسن: مونا۔ ج عسن۔

اعسان: الشئ نشان۔ کہا جاتا ہے "هو

علی اعسان من ابیہ" وہ اپنے باپ کے

مشابہ ہے۔

العسج زشتر مرغ۔

عَسَا يَعْسُو عَسَاءً وَعَسُوًا النَّبَاتُ: نباتات کا موٹا اور سخت ہونا۔ عَسَتْ يَدُهُ: ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا اللیل: رات کی تاریکی کا زیادہ ہونا۔ عَسَا يَعْسُو عَسُوًا وَعَسُوًا وَعَسِيًا وَعَسِيًا وَعَسَاءً وَعَسُوَةً الشَّيْخُ: بوڑھا ہونا۔

العسو۔ س۔ سوم۔

العاسی۔ ف۔ سخت مزاج۔

العسوة۔ بڑھاپا۔

عسبی یعنی عسی۔ النبات: نباتات کا سخت ہونا۔

عسی۔ افعال مقابلہ میں سے ہے اور جامد ہے۔ محبوب میں امید کے لیے اور کرمہ میں خوف کے لیے مستعمل ہے۔

العسی والعسی والمغساء بالأمور: لائق۔ مناسب۔

أعس به: فعل تعجب ہے بمعنی اخلق به: یعنی کسی قدر لائق ہے۔

العاسی۔ ف۔ درخت خراب۔ بقول ابو سعید درخت خرابا کہجا۔

المغساء۔ قریب البلوغ لڑکی۔

عَشَّ (ن) عَشَّ الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ جمع کرنا القميص: کرتے میں جو بوند لگانا المغزوف: تھوڑا سا دینا۔ عَشَّتِ النخلة: درخت خرما کی شاخوں کا کم ہونا۔ عَشَّ الطائر: پرندے کا گھونسلے بنی میں رہنا۔

عَشَّ (ن) عَشَّوْشَةً وَعَشَّاشَةً وَعَشَّاشَا الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔

عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔

عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔

عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔

عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔

عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔ عَشَّ شَيْءٌ الْبَدْنَ لِأَخْرَجُوا مِنْهُ مَفْتَّحَ عَشَّ الطَّائِرِ پرنڈے کا گھونسلے بنانا۔

میں پہنچنا۔

إِعْتَشَّ: گھونسلہ بنانا الْبَدْنَ: بدن کو لاغر کرنا۔

إِعْتَشَّ الْقَوْمُ: کپڑے کا پیوند والا ہونا۔ الْعَشَّ: س۔ عطاء قلیل۔ رَجُلٌ عَشٌّ: لاغر مرد۔

العش والعش: گھونسلہ ج عشاش و عشيئة وأعشاش وعشوش.

العشيئة: کم شاخوں والا کھجور کا درخت۔ خراب جگہ میں آکا ہوا درخت۔ کم درخت والی سرزمین۔

المعش: مطلب۔

المعشش: س۔ وہ جگہ جہاں پرندہ گھونسلہ بنائے۔

عشبت (س) عشبا خشک ہونا۔

عشيب (س) عشبا وعشيب (ك) عشابة المكان: سبز گھاس والا ہونا۔

صفت عايشب.

عشيب (ك) عشابة و عشوبنة الرجل: پست قدم صورت ہونا۔ صفت مذکر عشيب: صفت مؤنث عشبية.

أعشيب القوم: سبز گھاس پر پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "أعشيبت فأنزل" ہرے بھرے پر پہنچنے کے تو اثر پڑو۔

أعشيب وعشيب المكان: سبز گھاس آگانا۔

أعشيب وتعشيب: سبز گھاس چرنا۔ موٹا ہونا۔

أعشوبشيب: سبز گھاس پر پہنچنا المكان: بہت سبز گھاس والا ہونا۔

العشيب: سبز گھاس ج أعشاب و واحد عشبية.

العشبية: بڑھاپے کی وجہ سے خمیدہ کمر مر دیا عورت۔

العشابة: سبز گھاس کی کثرت۔

العشيب والعشيب والمعشيب والمعشيب: سبز گھاس والی (جگہ) بہت سبز

گھاس والی (جگہ) أرض عاشبية وعشبية وعشبية ومعشبية ومعشبات. بہت سبز گھاس والی زمین۔

التعاشيب: سبز گھاس کے متفرق قطعے۔

العشاب: سبز گھاس والا۔ سبزی والا۔

عشور (ض) عشرا: دس میں سے ایک لیٹا۔ نو پر ایک زائد کرنا القوم: قوم میں دسواں ہونا الناقه: اونٹنی کا دس مینے کی حاملہ ہونا۔

عشور (ن) عشرا وعشورا وعشور المال: دسواں حصہ لینا القوم: قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا۔ دسواں ہونا۔ عشور الحمار: گدھے کا دس مرتبہ رینکنا۔

عشورت الناقه: اونٹنی کا دس مینے کی حاملہ ہونا۔

أعشور العدد: دس کر دینا القوم: دس ہونا۔ أعشورت الناقه: اونٹنی کا دس مینے کی گاجھن ہونا۔

عاشرة معاشره: باہم مل جل کے رہنا۔

أعششر وتعاشر القوم: ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔

العشور دسواں حصہ۔ اونٹ کا دسویں یا نویں دن گھاٹ پر جانا۔ ج أعششار.

العشور: دسواں حصہ ج عشور وأعششار الأعرشار: پرنڈے کے گلے بڑے پڑے۔

العشور: ہر مینے کی دسویں، گیارہویں، بارہویں رات۔

العشيرة: دس اور یہ مذکر کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے "عشيرة رجال" اور مؤنث کیلئے "عشيرة نساء" اور جب دوسرے عدد کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو گیارہ اور بارہ میں موافق قیاس کے مذکر کے لیے دونوں جزء مذکر جیسے "أخذ عشر رجلا" اور مؤنث کے لیے دونوں جزء مؤنث جیسے أخذت عشر امرأة اور اس کے بعد انیس تک مذکر کی صورت میں پہلا جزء مؤنث اور دوسرا جزء مذکر جیسے خمسة عشر رجلا اور مؤنث کی حالت میں پہلا جزء مذکر اور دوسرا جزء مؤنث

جیسے خمس عشرۃ امرأة عشرات العشرؤن میں (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے)

العشرة صحبت۔ مخاطب۔

العاشر۔ ف۔ دسواں۔ دسویں دن گھاٹ پر جانے والا اونٹ عشْر مؤنث عاشرۃ۔ ج عواشر۔ العواشر۔ پرندے کے گلے پر بے پَر۔

العشورى والعاشور والعاشوراء والعاشورى۔ محرم کی دسویں تاریخ۔

العشار۔ دسواں حصہ وصول کرنے والا۔

العشراء۔ من النوق۔ آٹھ پادس مینے کی گاجھن اونٹنی ج عشار وعشراوات یا وہ اونٹنی جو بچہ جن چکی ہو۔

العشراء والعوشراء: گلی ڈنڈا۔ (بچوں کا کھیل) کہا جاتا ہے "جاؤوا عشارا ومعشر" یعنی دس دس آئے (یہ دونوں گلے وصفت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں)۔

نوب عشاری۔ دس گز لہلہ غلام عشاری دس سال کا مؤنث عشاریۃ عشارۃ۔ دسواں حصہ۔

الاعشاری۔ اعشار جمع عشر کی طرف منسوب۔

العشیر۔ قبیلہ۔ قریب۔ دوست۔ زوج۔ زوجہ عشراء۔

العشیر۔ دسواں حصہ۔ ج اعشراء۔

العشیرۃ۔ قبیلہ۔ عشیرۃ الرجل: برادران باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔ ج عشائر۔ وعشیرات۔

الاعشر۔ بیوقوف۔

المعشر۔ جماعت۔ آدمی کے اہل۔ جن۔ انسان معاشر۔

المعشار۔ دسواں حصہ۔ ناقۃ معشار: بہت دودھ والی اونٹنی۔

العشوری (ج) وہ عدد جو جزء صحیح یا صفر سے بنایا گیا ہو۔ جز عشری ۳۱، ۱۳۵۲،

الکسرا العشری: اس کی صورت صحیح عدد جس کا مخزج ۱۰ یا ۱۰۰ کے قوی میں سے کوئی ہو مثلاً: (۱۰/۱۰۰۰، ۳/۱۰) اس کو عشاری نظام سے لکھنا بھی ممکن ہے۔

العشریۃ: ایک درخت جس کے پھول کے دس اجزاء ہوتے ہیں شمالی امریکہ میں ہوتا ہے۔

العشر واحد عشرۃ: ایک درخت کی قسم جس سے گوند کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔

المعشار والمعشر۔ شیر زجل عشارب دلیر مرد۔

عشْر (ض) عشْرانا۔ کئی ہوئی ٹانگ والے کی طرح چلنا علی غصاء: لامخی پر ٹیک لگانا۔

العشور۔ دشوار گزار راست یا زمین ج عشاوز (والعشور) مضبوط۔ قوی۔ موٹا۔

عشقه (س) عشقا وعشقا ومعشقا بہت محبت کرنا۔ محبت میں حد سے بڑھ جانا۔

مفت مذکر عاشق ج عشاق و عاشقون۔ مفت مؤنث عاشقۃ وعاشقۃ ج عواشق عشق بالشئ: چٹل۔

تعشق۔ تکلف عاشق بننا۔ بہت محبت کرنا۔

العشقر۔ محبت کی زیادتی۔ پارسائی اور فتی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔

العشقة۔ عشق۔ بیجان۔ بیولو۔ ج عشق۔

العشيق۔ عاشق۔ معشوق۔ العشيق والعشوق: پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا ج عشق۔

العشاق والعشيق۔ بہت زیادہ عشق والا۔

عشيم (س) عشمًا وعشومًا وتعشم الشئ: خشک ہونا۔

العشم۔ لالچ۔ خبز عشم۔ سوکھی یا خراب روٹی۔

العشمۃ۔ لالچ۔ خشک روٹی۔ لامغزی کی وجہ سے خشک۔ پیر فروت (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "شیخ عشمۃ و عجز عشمۃ"

خبز عشم خشک یا خراب شدہ روٹی۔

الاعشم۔ دو مخلوط رنگ۔ خشک درخت۔ عمر

رسیدہ پوزھا۔ مؤنث عشماء۔

عشْن (ن) عشناً واعشن واعشن واعشن۔ رائے لگانا۔ تخمینہ کرنا۔ اغتشن فلاناً: ناحق حملہ کر دینا۔

العشان والعشانة۔ گرمی ہوئی ردی کھجوریں۔ العشانة: کھجور کی شاخ کی جڑ۔

عشا يعشؤ عشنا۔ رتوند والے کی طرح کام کرنا الابل: اونٹوں کو رات میں چرانا۔

الرجل۔ رات میں قصد کرنا۔ والیہ قصد کرنا اور بخشش طلب کرنا۔ عراض کرنا اور

دوسرے کی طرف مائل ہونا (عشنا وعشیا) الرجل: رات کا کھانا کھانا عشنا وعشنا) النار والی النار: رات کو آگ کی

طرف راست پانے یا مہمانی کی امید میں جانا (عشنا وعشی یعنی عشا) نگاہ کمزور ہونا۔ رتوندی ہونا۔ مفت عش واعشی۔

عشی العشاء: رات کا کھانا کھانا۔ مفت عشیان۔ عشی علیہ: ظلم کرنا۔ عشیت الابل: اونٹ کارات میں چرنا۔ مفت عاشرۃ ج عواش۔

عشی تعشیۃ۔ الرجل: شام کا کھانا کھانا الطیر: آگ روشن کر کے اندھا بنا کر شکار کرنا عن الشئ: نرمی برتنا۔ ملاطفت کرنا الابل:

اونٹ کورات میں چرانا۔

أعشى إغشاء الرجل: دینا۔ رات کا کھانا کھانا بالله الرجل: رتوند میں جلا کر دینا۔

تعشى: رات کا کھانا کھانا۔

تعاشی: رتوندی والا ظاہر کرنا۔

عنه: جاہل بننا۔

إغتشی إغشياً: عشا کے وقت چلنا النار: رات میں دیکھنا اور قصد کرنا۔

استغشى استغشاء نارا: آگ کی روشنی میں راست پانا الرجل: تمہیر پانا۔

العشاء: شام کا کھانا ج عاشرۃ العشا والعشاوۃ: نگاہ کی کمزوری۔

رتوندی۔

العشی: شام کا کھانا۔

العصب بھیردایم آنتوں کے بندھا ہوا اور بھنا ہوا ج غضب و اعصاب۔ یوم عصبیت سخت گرم۔

العصب سے دلیل ظاہر ہو جانے کے بعد بھی حق کو نہ قبول کرنا۔ ج تعصبات العصبی قوم کی عصیت کی بنا پر ظلم میں مدد کرنے والا۔

العصبیہ دھڑاندی۔ المصعب بن سردار۔ تاج پہننے والا۔ فقیر۔ بھوکا۔

المغضوب منع۔ باریک تلوار۔ کہا جاتا ہے ”رجل مغضوب الخلق“ یعنی مضبوط بناوٹ کا پر گوشت۔

العصبیت سخت گرم دن یا مطلقاً سخت۔ عَصَدُ (ش) عَصْدًا وَاغْصَدَ الشَّيْءُ مَوَازًا۔ گرہ دینا۔ کہا جاتا ہے ”عَصْدُهُ عَلَى الْأَمْرِ“ یعنی اس کو کام پر مجبور کیا (عَصْوًا) الرَّجُلُ مَرْنَا۔

العصیدہ گرہ لگا ہوا۔ موڑا ہوا۔ العصيدة ایک قسم کا کھانا جو گھی، آٹلا کر پکایا جاتا ہے۔

عَصْرًا (ض) عَصْرًا ۴ الْعَصَبُ أَوْ النَّوْبُ اُغْوَرِيَا كَيْرُے كَوْ نَوْجُرْنَا الدَّمْلُ بَجَوْرُے كَوْ نَوْجُرُ كَرِ بِيْب نَكَانَا الرَّشْحُضُ الْفَرْسُ بِيْبِنَا لَانَا الشَّيْءُ عَنْهُ مَضُحٌ كَرْنَا فَلَانَا كَرِيْدَا عَطِيْدَا دِيْنَا۔

عَصْرُ الشَّيْءِ بَارِبَارًا نَوْجُرْنَا الزَّرْعُ كَهْتِي فِي خَوْشِي نَكَانَا۔ عَصْرَتِ الْمَرْأَةُ عَوْرَتُهَا كَالْبَلْغِ هَوْنَا۔ حِيْضُ آتَا۔

اعصر عمر کے وقت میں داخل ہونا۔ اعصرت المرأة عورت کا بالغ ہونا۔ حائضہ ہونا۔ صفت مفعرب معاصر و معاصر۔

الرَّيْحُ هَوَا كَابُولُ لَانَا۔ اعصر القوم بارش کیا جانا۔ عاصره معاصره ایک زمانہ میں ہونا۔ تعصر بچوڑا جانا بدبناہ لینا۔

پر غبار لگ جانا القوم بہ اجتماع کرنا۔ احاطہ کرنا (عصبا وعضوئنا) الاثنان واثنتون کا میلنا ہونا الألفی: کنارہ آسمان کا سرخ ہونا (عصبا وعضبا) الشئ قبضہ کرنا۔

عصب (س) عصب اللحم: گوشت کا زیادہ پٹھے والا ہونا۔ صفت۔ عصب القوم بہ اجتماع کرنا۔ احاطہ کرنا۔

عصبة بھوکا کرنا۔ ہلاک کرنا۔ پٹی باندھنا۔ عصب فلانا سردار بنانا۔

اعصبت الابل اوتوں کا تیز چلنا۔ تعصب پٹی باندھنا۔ عصبت سے کام لینا۔ سردار ہونا لہ و معہ نائل ہو نا اور مدد کی کوشش کرنا علیہ: مقابلہ کرنا اور عصبت دکھلانا فی دینہ و مذہبہ دین و مذہب میں غیور ہونا اور سخت حفاظت کرنا بالشئ راضی ہونا۔

اعصبت القوم برودہ بنا الملک یا دشاہ کا تاج پہننا التاج علی راسہ تاج کا سر پر فٹ ہونا بالشئ قناعت کرنا اور راضی ہونا۔

انعصب الشئ سخت ہونا۔ اغصوب الشئ سخت ہونا القوم مجتمع ہونا اور گرہ گرہ ہونا۔

العصب تمامہ۔ پڑی۔ ایک قسم کی چادر (والعصب) عشق بیجان۔

العصب سے۔ پشما۔ قوم کے چیدہ لوگ۔ عشق بیجان ج اعصاب

العصبة عصب کا واحد۔ باپ کی جانب سے رشدر۔ راج عصبات

العصبة پٹی باندھنے کی ہیئت۔ العصبية من الرجال والخيل والطيور مردوں یا گھوڑوں یا پرندوں کی جماعت۔ راج عصب

العصاب جس سے باندھا جائے۔ العصابة جماعت مردوں گھوڑوں پرندوں کی پڑی۔ تمامہ۔ پٹی۔ راج عصاب

العاصب فا۔ رجل عاصب وہ شخص جس کے منہ پر ٹھوک خشک ہو جائے۔

العشاء والعشي رات کی ابتدائی تاریکی اور بقول بعض مغرب سے عشاء تک کی تاریکی۔ یان کا آخری حصہ۔

العشاء ان مغرب اور عشاء۔ بغير عشي رات کو دیر تک چرنے والا۔

العشيبة شام ج عشي وعشايها وعشييات اور نسبت کے لیے عشوي العشيبة بادل۔

العشوة تاریکی۔ رات کے اول ربع کی تاریکی۔

العشوة والعشوة آگ کا شعلہ جو رات کو دور سے دکھائی دے۔

العشوة والعشوة امر مشترک کو کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أزطاه عشوة“ یعنی اس نے اسے امر مشترک میں پھنسا دیا اور یہ اس وقت کہ جب کوئی ایسی خبر دے کہ جس کی وجہ سے حیرت و عصیت میں پڑ جائے۔

العشواء مؤنث الاغشي أو غشي جس کو سامنے نظر نہ آئے۔ کہا جاتا ہے ”هو يخط خط عشواء“ یعنی وہ امور میں بغیر کسی بصیرت کے تصرف کرتا ہے۔ ”هو اخط خط من عشواء“ و ”انهم لفي عشواء من أمرهم“ یعنی حیرانی و سرگردانی میں ہیں۔ و ”زكب العشواء“ یعنی اپنے کام کو بغیر ہدایت کے اختیار کیا۔ العشواء تاریکی گھوڑ۔ گھوڑ کا درخت۔

عص (س) عَصَا وِعَصَا سَخْت هَوْنَا۔ عَصَصَ عَلَى غَزِيْمِهِ قَرَضَ دَارَے اصرار کرنا۔

العص اصل۔ کہا جاتا ہے ”هو كزيم العَص“

العصص والعصص دم کی ہڈی۔ عَصَب (ض) عَصْبًا الشئ بِلِيْبَانَا۔

مَوَازًا بِنَا۔ باندھنا القطن بدوئی کا تاج۔ الرقيق بالقلم تھوک کا منہ پر خشک ہونا الناقاة دوسٹے کے لیے اونٹنی کی رائیں باندھنا الرجل بيته اقامت کرنا العباؤ راسہ بر

اِعْتَصَرَ الْعِنَبَ او الثُّوبَ و نَحْوَهُمَا :
انگور یا کپڑا وغیرہ نچوڑنا العَصِيرُ: شراب بنانا
العَطِيَّةُ: عطیہ واپس لینا مِنْ فُلَانٍ مَالًا :
تاوان میں یا کسی دوسرے طریقہ سے مال لینا
مِنَ الشَّيْءِ: لینا بِفُلَانٍ: پناہ لینا عَلَيْهِ: بخل
کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِعْتَصَرَ بِالْمَاءِ مَا عَصَصَ
بِهِ مِنَ الطَّعَامِ" کھانے کو حلق سے نیچے
اُتارنے کیلئے تھوڑا پانی پیا۔
اِنْعَصَرَ: نچوڑنا الْعِنَبَ و نَحْوَهُ: شیرہ نکل
جانا۔

العَاصِرُ: ج عَصْرَةٌ و عَاصِرٌ و نُونُوتٌ
عَاصِرَةٌ ج عَوَاصِر و عَاصِرَاتٌ رَجُلٌ
عَاصِرٌ: بے برکت۔ بخل۔
العَصْرُ: دن۔ رات۔ دن کا آخری حصہ۔
آفتاب کے سرخ ہونے تک۔ صبح قبلہ۔
گروہ عطیہ ج اِعْصَرَ و عَصُورٌ
العَصْرَانُ: صبح شام۔ دن۔ رات۔ کہا جاتا
ہے "جائنی عَصْرًا" وہ میرے پاس دیر میں
آیا۔

العَصْرُ و العَصْرُ و العَصْرُ: زمانہ ج
عَصُورٌ و اِعْصَرَ و عَصْرٌ و اِعْصَارٌ: اور
اِعْصَارُ کی جمع اِعْصَارٌ۔
العَصْرُ و العَصْرُ و العَصْرَةُ و المَعْصَرُ:
جائے پناہ۔
العَصْرُ: عصر۔ بسکون الصاد میں
ایک لغت ہے بمعنی زمانہ۔ غبار۔ خوشبو کی
بھڑک۔

العَصْرَةُ: خوشبو کی بھڑک عاصِر کی جمع۔
غبار۔ گولہ۔
العَصِيرُ و العَصِيرَةُ و العَصَارُ: رس۔
نچوڑ۔ العَصِيرُ: نچوڑا ہوا۔
العَصَارُ: سخت غبار۔ وقت۔

العَصَارَةُ: رس۔ نچوڑ۔ نچوڑنے کے بعد
پھوکس۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ كَرِيمٌ
العَصَارَةُ" یعنی سوال کے وقت جو ادب و
الِاعْصَارُ: گولہ ج اِعْصَرَ و اِعْصَارٌ۔
کہتے ہیں "وَعَدَهُ اِعْصَارٌ لَيْسَ بَعْدَهُ

اِعْصَارٌ" یعنی اس کے وعدہ کے لیے وفا
نہیں۔ اس قول میں پہلا اعصار بمعنی گولہ اور
دوسرا اعصار مصدر ہے۔ اِعْصَرَ القَوْمُ کا
معنی بارش ہونا۔
المَعْصَرَةُ و المَعْصَرُ: نچوڑنے کی جگہ۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ كَرِيمٌ المَعْصَرُ" یعنی سوال
کے وقت سخی ہے۔
المَعْصَرُ و المَعْصَرَةُ: انگور وغیرہ نچوڑنے
کا آلہ۔

المَعْصَرِيَّةُ: نماز عصر کے بعد اجتماع برائے
ملاقات و تہلی اور وقت گزاری کے لئے۔
المَعْصَارُ: وہ چیز جس میں کچھ نچوڑیں۔
المَعْصِرَاتُ: بادل۔
العُصْعُصُ و العُصْعُصُ: دُم کی بڑی۔ ج
عَصَاعِصُ: العُصْعُصُ: مرد کم خیر دشوار
خور۔ مضبوط توانا۔

العُصْعُصُ: دُم کی بڑی۔ ج عَصَاعِصُ۔
عَصَفْتُ (ض) عَصَفًا و عَصُوفًا الرِّيحُ:
ہوا کا تیز چلنا۔ صفت عَاصِفَةٌ و عَاصِفٌ
النَّاقَةُ: برا کیبھا: اُونٹنی کا تیز لے جانا
الرَّجُلُ: دوڑنا۔ عَصَفَ الشَّيْءُ: ناکل ہونا۔
کہا جاتا ہے "عَصَفَتِ الحَرْبُ بالقَوْمِ"
جنگ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ "عَصَفَ
الذَّهْرُ بِهَيْمٍ" زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا
(واعتصَفَ) عيَالَهُ: بال بچوں کے لیے
کمانا۔

عَصَفَ (ن) عَصْفًا: الزَّرْعُ: کھیتی تیار
ہونے سے پہلے کاٹنا۔

اعْصَفَ الزَّرْعُ: کھیتی کا کاٹنے کے لائق
ہونا۔ اعْصَفَتِ الرِّيحُ: ہوا کا تیز چلنا۔
صفت مُعْصِفَةٌ و مُعْصِفٌ ج مَعَاصِفٌ و
مَعَاصِيفُ الرَّجُلِ: ہلاک ہونا۔ راستے سے
ہٹ جانا۔ اعْصَفَتِ الحَرْبُ بِهَيْمٍ: تباہ و
برباد کر دینا۔

استعصَفَ الزَّرْعُ: تباہ ہونا۔
العَصْفُ: سر۔ کھیت کے پتے۔ عَصْفُ
الْبَيْنِ: گھاس کے ٹکڑے۔ عَصْفُ الأَثْمَدِ

وغيره اثمدا وغيره كا غبار۔

العَصْفَةُ: عَصْفٌ: کا اسم مرہ۔ شراب کی
ٹوکھتی کے ڈٹھل کے پتے۔

العَصْفِيَّةُ: سر کی مانند ایک درخت تیزی سے
بڑھنے والا خوبصورتی کے لئے بویا جاتا ہے۔

العَاصِفُ: فَد سَهْمٌ عَاصِفٌ: نشانہ سے
ٹیزھا تیز۔ يَوْمٌ عَاصِفٌ: تیز ہوا کا دن۔

العَاصِفَةُ: مؤنث عَاصِفٌ ج عَاصِفَاتٌ
و عَوَاصِفٌ۔

العَصُوفُ: تیز ہوا۔ ج عَصُوفٌ۔

العَصِيفُ: تیز ہوا۔

العَصِيفَةُ: پتے کہ جن کے درمیان میں
خوشہ ہو۔

العَصَافَةُ: ٹھکے جو خوشے سے گریں۔ کوڑا
کرکٹ جس کو ہوا اڑا کر لائے۔

عَصْفَرُ: الثُّوبُ: کپڑے کو زرد رنگ سے
رنگنا۔

تَعَصَّفَرُ: الثُّوبُ: زرد رنگ سے رنگا ہوا
ہونا۔ تَعَصَّفَرَتِ العُنُقُ: گردن ٹیزھی ہونا۔

العَصْفَرُ: زرد رنگ۔

العَصْفُورُ: چڑیا۔ کبوتر سے ہر چھوٹا پرندہ ج
عَصَافِيرُ مؤنث عَصْفُورَةٌ: العَصْفُورُ:

پیشانی۔ پیشانی کے بال کے نکلنے کی جگہ کی جز۔
کٹڑی جس سے پالان کے سرے باندھے جاتے
ہیں۔ گھوڑے کی پیشانی کی بڑی اٹھی ہوئی اور وہ
دائیں بائیں دوہوتی ہیں۔ کتاب۔ کشتی کی میخ۔

سرور۔ کہا جاتا ہے "نَقَّتْ اور صَاحَتْ
عَصَا فِير بَطْنِهِ" یعنی بھوکا ہوا۔

العَصْفُورَةُ: گل خیری کا زرد پھول۔

العَصْفُولُ: ز ٹڈی۔ ج عَصَافِيلُ۔
العَصَافِيلُ: گولہ۔

عَصَلٌ (س) عَصَلًا: الشَّيْءُ: سختی کے
ساتھ ٹیزھا ہونا۔ صفت عَصَلٌ و اِعْصَلُ
مؤنث عَصَلَةٌ و عَصَلَاءٌ ج عَصَالٌ و

عَصَلٌ (و اعْصَلُ): سخت ہونا۔
عَصَلٌ (ن) عَصَلًا العَوْدُ: کٹڑی کو ٹیزھا

کرنا۔

عَصَلَ السَّهْمُ: تیر کا ٹیز ہونا۔ دیر کرنا۔
العِضْلُ والعِضْلُ: آنت جِ اغْصَالُ.
المِغْضَلُ: قرض دیر پر سختی کرنے والا۔
المِغْضَالُ والمِغْضِيلُ: ٹیزھے سر کی
لاٹھی اور جس کو عام لوگ ”مُعْقِلَةٌ“ یا
”ہاکور“ کہتے ہیں۔ ڈنڈا جِ مِعَاصِيلُ.
عَضَلِبُ: سخت غضبناک ہونا۔ سخت ٹپھے والا
ہونا۔

العَضْلُ والعَضْلُ والعَضْلِيُّ
والعَضْلُوبُ: بڑے ڈیل ڈول کا مضبوط
مرد۔

عَصِمَ (ش) عَصِمًا الرَّجُلُ: کمانی کرنا۔
الشَّيْءُ: رُوكَ لِيْنَا اللّٰهُ فَلَانَا مِنَ الْمَكْرُوْهِ
مَحْفُوْظٌ رَكْنَا۔ بچانا۔ عَصِمَ الْقَرْبَةَ: مٹک کو
رتی سے باندھنا لِيْنَا فَلَانُ: پناہ لینا۔
عَصِمَ (س) عَصِمًا الظُّنْبِيَّ: سفید ناگوں
والا ہونا۔

أَعَصَمَ بِهِ: پکڑنا اور لازم ہونا۔
بِالْفُرْسِ: ایال پکڑنا مِنَ الشَّرِّ: باز رہنا
الْقَرْبَةَ: رتی سے باندھنا۔

إِعْتَصَمَ بِهِ: ہاتھ سے پکڑنا بصاحبہ:
لازم ہونا بِاللّٰهِ: اللہ کی مہربانی سے گناہ سے باز
رہنا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوْهِ: پناہ لینا اور باز
رہنا۔

إِعْتَصَمَ: محفوظ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”عَصَمْتُهُ
فَانَعَصَمَ“ میں نے اس کی حفاظت کی اور وہ
محفوظ ہو گیا۔

اسْتَعَصَمَ بِهِ: مضبوط پکڑنا اور لازم ہونا۔ پناہ
لینا اور باز رہنا۔ بچانے والی چیز کا قصد کرنا۔
العُضْمُ والعُضْمُ: ہر چیز کا بقیہ۔ خضاب
وغیرہ کا اثر۔

العِصَامُ: سرمہ۔ دُم کا باریک حصہ۔ مِنَ
الْقَرْبَةِ: مٹک باندھنے کی رتی۔
مِنَ الوَعَاءِ: دستہ۔ عہد۔ اور یہ باب مجاز سے
ہے جِ عَصِمَةٌ وَعُضْمٌ وَعِصَامٌ.

العِصَامِيُّ: نعمان بن منذر بادشاہ حیرہ کے
خاجہ عصام کی جانب نسبت۔ ذالی شرافت

رکھنے والا اور اسی سے مثل ہے ”سَخِنَ عِصَامِيًّا
لَا عِظَامِيًّا“ یعنی عصام کی طرح ذالی شرافت
پیدا کرو آیا و اجداد جو مردہ ہو چکے ہیں ان کی
ہڈیوں پر مت فخر کرو۔

العِضْمَةُ: بچاؤ۔ گناہوں سے بچنے کا ملکہ۔
العِضْمَةُ: گلوبند۔ پند جِ عَصَمٍ وَعِصْمٍ وَ
عِصْمَةٌ جِ اغْصَامٍ.
العِضْمَةُ: گلوبند۔ پند۔

الاعْصَمُ: اگلے ایک یادوں سفید پاؤں والا
جانور۔ مونث عِصْمَاءُ جِ عِصْمٍ.
العِصْمِيُّ: پینہ۔ ہر چیز کا بقیہ۔ خضاب وغیرہ
کا اثر۔

العِصْوَمُ والعِصْوَمُ: بہت کھانے والا
(مذکر و مونث)

العاصِمَةُ: مدینہ منورہ کا لقب۔
دار السلطنت جِ عِوَاصِمٍ.
المِعْصَمُ: کلائی جِ مِعَاصِمٍ.
المِعْتَصِمُ: پناہ لینے کی جگہ۔

عَصَا يَعْصُو عِصْوًا الرَّجُلُ: لاٹھی سے
مارنا الجُرْحُ: زخم کو باندھنا القَوْمُ يَكْتَلُ بِأَيْدِي
مَارٍ جِ عِصْمٍ۔

عَصَى يَعْصِي عِصَاً: لاٹھی لینا
(واعْتَصَى) بِالسَّيْفِ: تلوار مارنا۔
وَاعْتَصَى الشَّيْءُ: کسی چیز کو لاٹھی بنانا۔
إِعْتَصَى عَلَيْهِ: ٹیک لگانا۔

عَصَى تَعْصِيَةً فَلَانًا العِصَا: لاٹھی دینا۔
أَعْصَى إِعْصَاءً: الشَّرِّ: شائیں نکلنا اور
پھل نہ آنا۔

عَاصَاهُ مُعَاصَاةً عِصَاةً: لاٹھی سے مار
پیٹ کرنا اور غالب آنا۔
العِصَا: لاٹھی۔ سہارے کی چیز (مونث) جِ
عِصِيٍّ وَعِصِيٍّ وَعِصِيٍّ وَعِصِيٍّ: اور مٹھی
عِصْوَانُ العِصَا: پتھر۔ جماعت۔ پتھری
کی بڑی۔ زبان۔ کہا جاتا ہے ”شَقَّ العِصَا“
جماعت کی مخالفت کی۔ ”انْشَقَّتْ عِصَا
القَوْمِ“ آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ ”قَرَعَ لَهُ
العِصَا“ متنبہ کیا قَشَرَ لَهُ العِصَا“ عندیہ

ظاہر کر دیا ”قَرَعَهُ بَعْضَا المَلَامَةِ“ حد سے
زیادہ ملامت کی ”الْقِيَّ المَسَافِرُ العِصَا“
مسافر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ الْقِيَّ العِصَا
التَّرْحَالُ یعنی اس نے اقامت کی ”النَّاسُ
عَبِيدُ العِصَا“ یعنی جو تکلیف پہنچاتا ہے لوگ
اس سے ڈرتے ہیں۔

العِصِيَّةُ: عصا کی تغیر۔ چھوٹا ڈنڈا۔
عِصَى يَعْصِي عِصَاً وَمِعْصِيَّةٌ سَيِّدَةٌ:
نافرمانی کرنا۔ مخالفت کرنا۔ دشمنی کرنا۔ مفت
عاص جِ عِصَاةً وَعَاصُونَ الطَّائِفَةُ:
پرنده کا اُزنا العِزْفُ: رگ سے خون بند نہ ہونا۔
عَاصَاهُ مُعَاصَاةً وَتَعْصَى عَلَيْهِ تَعْصِيًا:
نافرمانی کرنا تَعْصَى الأَمْرُ: دشوار ہونا۔

أَعْتَصَتْ أَعْصَاءً: النِّوَاةُ: گھٹلی کا سخت
ہونا۔
اسْتَعْصَى: سَيِّدَةٌ: مالک کی نافرمانی کرنا
الشَّيْءُ عَلَيْهِ: دشوار ہونا۔ سخت ہونا۔
العِصَى: نافرمان۔ گنہگار جِ عِصِيُونَ
وَاعْصَاءُ:
العِصَاءُ: نافرمان۔ گنہگار جِ عِصَاؤُونَ.
المِعْصِيَّةُ: گناہ۔ لغزش جِ مِعَاصِيٍّ.

عِصَهُ (س) عِصَاً وَعِصِيًّا دَانَتْ سِ
پکڑنا۔ کاٹنا۔ با اور علی کے صلہ کے ساتھ
عِصٌّ بِهِ اور عِصٌّ عَلَيْهِ بھی بولا جاتا ہے ہ
الزَّمَانُ: سخت ہونا الشَّيْءُ: لازم ہونا اور
پکڑنا۔

عِصَّتُ مُعَاصَاةً وَعِصَاةً الدُّوَابُّ:
جانوروں کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔
أَعْصَتْ الشَّيْءُ: دانت سے کٹوانا۔ أَعْصَتْ
البُئْرُ: بہت پانی والا ہونا۔

تَعْصَاةً: ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا۔
العِصُّ: بد خلق۔ شہیث۔ بخیل۔ بہت قوی۔
معیبت۔ ہسر، مال کا تنظیم جِ اغْضَاضُ
وَعُضْوُوسُ العِصِّ: چھوٹا کاتنے دار درخت
جِ اغْضَاضُ:

العِصُّ: جو۔ گہوں۔ اسپت۔ سوکھی گھاس۔

عِصٌّ: جو۔ گہوں۔ اسپت۔ سوکھی گھاس۔

عِصٌّ: جو۔ گہوں۔ اسپت۔ سوکھی گھاس۔

چھوٹا کانٹے دار درخت۔

العصاض. جو چیز رات سے کالی جائے اور کھائی جائے۔ موٹا درخت۔

العصاض. رات سے کالیا کہا جاتا ہے "ہو عِصاضٌ عِيشٌ" یعنی سخت زندگی پر بڑا صابر ہے۔

العصیض. سخت کاٹ۔ ہمسر۔

العصوض والعصاض. بہت کالئے والا۔ بتر عِصُوضٌ: بہت پانی والا کتواں۔

العصاض والعصاض. ناک کا اوپر کا سخت حصہ۔

عصَب (ض) عَصَبًا قَطَعُ كَرْتًا ه المَرَضُ حَرَكْتُ سَے رَوَكْنَاهُ بِالرَّمْحِ نِيْزُهُ مَارَتَا ه بِالْعَصَا: لاشی مارنا ه عَنِ الْأَمْرِ: رَوَكُ دِيْنَا ه بِلِسَانِهِ: گالی دینا عَصَبُ عَنَّهُ: رَجُوعُ كَرْتًا (وَأَعْصَبُ)

النَّاقَةُ وَنَحْوَهَا: اَوْ ثَمَنِي كَاكَانَ يَهْأَرِيْنَا۔

عَصَب (س) عَصَبًا الْكَبِيْشُ: مِيْزِدْهُ كَا پِئْسَے ہوئے کان والا ہونا۔ ٹوٹے ہوئے سیگ والا ہونا۔

عَصَب (ك) عَصُوبًا وَعُصُوبَةٌ: حَرْبُ زِبَانٍ هُوْنَا۔

عَاصِبَةٌ مُعَاصِبَةٌ: الْقَرْنُ: سِيْگُ كَا ثَوْتُ جَانَا۔

العصْب. تیز تلوار۔ چرب زبان۔

الأعْصَبُ: پِئْسَے کان والا۔ ٹوٹے سیگ والا۔ جس کا بھائی نہ ہو۔ بے مددگار۔ مؤنث عَصَبَاءُ حُجُ عَصَبٌ۔

العصَاب. بہت کالئے والا۔ بہت گالی دینے والا۔

المَعْصُوبُ: كَرْوَرُ لِحَايٍ كَمَا جَانَا ه "أَنَّهُ لِمَعْصُوبِ اللِّسَانِ" جَب كَمَا بَوَلَّے مِيْن عَاجِزٍ هُو۔

عَصْرٌ عَصْرَةٌ الْكَلْبُ: شِيْرُ كِي مَانِدْ هُوْنَا۔

العصَابَةُ: چنگی کاپاٹ۔ دھوئی کا پتھر۔

عَصَدَه (ن) عَصَدًا: مَدَدُ كَرْنَا: بَارُو پَر مَارْنَا۔

عَصَد (ض) عَصَدًا الشَّجْرَةُ: رَوَخْتُ كُو بَنِيَا سَے كَانْنَا: اَوْ نُوْنُ كِيْلَيْے تَے جَهَارْنَا۔

عَصَد (س) عَصَدًا وَعَصَدٌ عَصَدًا: بَارُو مِيْن رَدَدٍ هُوْنَا: صَفْتُ عَصَدٌ مَوْثُ عَصَدَةٌ۔

عَصَدٌ وَعَصَدُ السَّهْمُ: تِيْرُ كَادَا مِيْن بَا مِيْن نَكَلُ جَانَا۔

عَاصِدَةٌ مُعَاصِدَةٌ: مَدَدُ كَرْنَا۔

تَعَاصَدُوا: اِيْكُ دُوْسَرِے كِي مَدَدُ كَرْنَا۔

اِعْتَصَدَهُ وَتَعَصَدَهُ: بَغْلٌ مِيْن لِيْنَا۔

اِعْتَصَدَ بِهِ: مَدَدَا كُنْنَا: مَضْبُوطٌ هُوْنَا۔

اِسْتَعَصَدَ لَشَّجْرَةٍ: رَوَخْتُ كُو بَنِيَا سَے كَانْنَا الشَّمْرَةَ: كِيْلُ جِنَانَا۔

العصْد. س. مددگار۔ گوشہ۔ ح. اغضاد.

العصْد والعصْد والعصْد. بازو ح. اغضاد و اعصد.

عَصَدٌ كُلُّ شَيْءٍ وَعَصَدَةٌ وَعَاصِدَةٌ وَه چِيزُ جَسَے عِمَارَتُ كَے اَرْدُ كَرْدُ مَضْبُوطُ كِي جَانَے۔ جِيسَے حَوْشُ كَے كَنَارَے پَتْرُ كُھڑَے كَر دِيے جَا كِيں۔ عَصَدُ الطَّرِيْقِ: رَاسَتَ كَا پِھلو۔

كَمَا جَانَا ه "فَتْ فِي عَصِدِهِ" يَعْنِي اِپْنِے اِحْوَانِ وَالْاَصْرَ سَے جَدَا هُو كِيَا۔

العصْد. کتا ہوا درخت۔ قوۃ۔ اونٹ کے بازو میں ایک مرض۔ جھارے ہوئے پتے۔

العصَاد. پستہ قدم دیا عورت۔ موٹے بازو والا۔

العصَاد. بازو بند۔ تعویذ وغیرہ جو بازو پر باندھا جائے۔ دراتی۔ بنیا۔ اونٹ کے بازو میں علامت۔

العصَادَةُ مِنَ الطَّرِيْقِ: رَاسَتَ كَا پِھلو۔

عَصَادَتَا الْبَابِ: چو کھٹ کے دونوں بازو۔

كَمَا جَانَا ه "فَلَانٌ عَصَادَةُ فَلَانٍ" فَلَانٌ فَلَانٌ كَا مَعَاوِنٌ وَمَدَدُ كَارِے۔

العصَادِيّ والعصَادِيّ: مَوْنُے بَارُو والا۔

العصِيْدُ: كُھجُوْرُ كَے رَوَخْتُوْنُ كِي نَظَارُ۔ رَوَخْتُ سَے كَانَا هُو ح. عَصْدَانُ۔

الأعْصَدُ: رُبْلَے بَارُو والا۔ جَسَے كَا اِيْكُ بَارُو چھوٹا ہوا۔

العَوَاصِدُ: رَوَخْتُ خَرْمَا جُو نَهْرُ كَے دُوْنُوْنُ جَانِبِ هُوْنُ۔

المِعْصَدُ: رَوَخْتُ كَانُے كَا بَنِيَا ح. مَعَاصِدُ۔

المِعْصَادُ: بَارُو بِنْدُ۔ بڈی کالئے کی بڑی چھری۔ بنیا۔ دراتی۔

المِعْصَدَةُ: تَهْمِيْلُ۔ بُوْه۔

العَضْرَسُ وَالْعَضَارِسُ: سَرْدِي، اَوَلِے، بَرَفٌ، مَخْضَاةٌ يَمْهَانِيِيْنَا۔ كُوْرُ خَرَجُ عَضَارِسُ۔

العَضْرُطُ: كَمَا نَے پَر مَزْدُوْرِي كَرْهَے والا۔

ح. عَضْرَاطُ وَعَضْرَاطَةٌ۔

العَضْرُطُ وَالْعَضْرُطُ: كِيْمِيْنَةُ۔

قَوْمٌ عَضْرَاطٌ: فَقِيْرٌ لُوْگُ۔

عَضَل (ن) عَضَلًا: عَلِيْهُ: تَهْكِي كَرْنَا: مَنَعُ كَرْنَا: بِه الْأَمْرُ: سَخْتُ هُوْنَا الرِّجْلُ: عَضَلُ پَر مَارْنَا۔

عَضَل (ض ن) وَعَضَل (س) عَضَلًا وَعَضَلًا وَعَضَلَانَا الْمَرْأَةُ عَنِ الزَّوْجِ: نَكَاحُ كَرْنَا سَے رَوَكْنَا: مَنَعُ كَرْنَا الرِّجْلُ: رَاثَدُ كَر دِيْنَا۔

عَضَل (س) عَضَلًا: بِهْتُ سَخْتُ گوشت والا ہونا۔ پنڈلی کا عضل کا موٹا ہونا۔ صفت عضل و عضل۔

عَضَلٌ: عَلِيْهُ: تَهْكِي كَرْنَا: كَسِي كَے حَصُوْلُ مَقْدَمِ مِيْن حَاكِلِ هُو جَانَا۔ عَضَلُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ: نَكَاحُ كَرْنَا سَے رَوَكْنَا الْمَكَانُ: تَنَكُّ هُوْنَا: كَمَا جَانَا ه "عَضَلْتُ الْأَرْضَ بَاهِلِيْهَا" لُوْگوْنُ كِي كَثْرَتُ كِي وَجْهَے سَے زَمِيْنُ تَنَكُّ هُو كِي۔

عَضَلْتُ الْمَرْأَةَ اَوْ الدَّجَاةَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْحَيَوَانِ بَوْلِدَهَا بِيْحَ جِنَا دُشَوَارِ هُو كِيَا۔ صَفْتُ مُعَضَلٌ۔

أَعْضَلُ الْأَمْرُ: سَخْتُ هُوْنَا: مُشْكَلٌ هُوْنَا۔

أَعْضَلْتُ الْمَرْأَةَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْحَيَوَانِ بَوْلِدَهَا: بِيْحَ جِنَا مُشْكَلٌ هُوْنَا: صَفْتُ مُعَضَلٌ۔

وَمُعَضَلَةٌ ح. مَعَاصِيْلُ: أَعْضَلُ بِه الْأَمْرُ: مُشْكَلٌ هُوْنَا: حِيْلُوْنُ كَا تَنَكُّ هُوْنَا الْأَمْرُ فَلَانًا: مُشْكَلٌ هُوْنَا۔

قال آتا اور عاجز کر دیا۔ اغضلتی فلان: فلان کے کام نے مجھ کو تھکا دیا۔ عاجز کر دیا (و تعضّل الذاء الأطباء: بیماری کا المیہ کو عاجز کر دیا۔
العِضْل بہت بُرا بڑا چالاک۔
العِضْل بڑا چالاک۔
العِضْل سخت گوشت۔ گوشت ٹپھے کا مجموعہ
ج عضل وعضلات. العِضْل: کثیر کے
مشابہ ایک درخت۔
العِضْلَة بمعنی عضلة ج عضائل.
العِضْلَة مصیبت۔ ج عضل وعضل.
العِضال سخت۔ ذاء عضال: عاجز کر
دینے والا مرض۔
المُعْضَل ناس بہت بُرا۔ ذاء مُعْضَل: تھکا
دینے والا یا علاج مرض۔
المُعْضَلَة مؤنث مُعْضَل. پیچیدہ مشکل
مسئلہ ج مُعْضَلات. المُعْضَلات
سختیں۔
المُعْضَلَة والمُعْضَلَة پیچیدہ مشکل
معالجہ۔
العِضْم کمان کا قبضہ ج عظام۔ گیہوں
صاف کرنے کا شاخ دار آلہ ج عِضْم
وَأَعْضَمَة۔
عِضْمَة (ف) عِضْمًا وَعِضْمًا وَعِضْمَةً
وَعِضْمِيَّةً. جھوٹ بولنا۔ چٹل خوری کرنا۔
جادو کرنا (عِضْمًا) البعير: بول کا درخت
کمانا الرَّجُل: صرغ گالی دینا۔ بہتان لگانا۔
عِضْمَة (س) عِضْمًا وَأَعْضَمَة. بہتان لگانا۔
جھوٹ بولنا۔
العِضْمَة ناس جادوگر۔ حَيَّة عِضْمَة
وَعِضْمِيَّة. سانپ جس کا ڈسا ہوا فوراً مر
جائے ج عِضْمَة۔
العِضْمَة جھوٹ۔ جادو۔ ج عِضْمُون.
العِضْمَة ہر بڑا کانٹے دار درخت۔ واحد
عِضْمَتَه وَعِضْمَةٌ: کہا جاتا ہے فلان
يَنْتَجِبُ غَيْرَ عِضْمَاهُ: جبکہ دوسرے کے
شعر کو اپنی جانب منسوب کرے۔

العِضْمِيَّة وَالْعِضْمِيَّة وَالْعِضْمِيَّة مِنَ
الابِل: کانٹے دار درخت کمانے والا۔ اُونث۔
مَكَانٌ عِضْمَةٌ: بہت کانٹے دار درختوں والی
جگہ۔
العِضْمِيَّة. مؤنث عِضْمَةٌ. جھوٹ۔ بہتان
ج عِضْمَةٌ.
عِضْمًا يَعْضُو عِضْمًا وَعِضْمِيَّةً تَعْضِيَّةً
الشئ: متفرق کرنا. الشاة: جدا جدا کرنا۔
عِضْمِيَّة القَوْم: ممبر بنانا۔
العِضْمُون والعِضْمُون: بدن کا حصہ۔ عضو۔ کسی
جماعت یا کمیٹی کا ممبر ج اَعْضَاءُ.
العِضْمَة فرقہ۔ کلاں۔ جھوٹ۔ ج عِضْمُون.
رَجُلٌ عِضْمٌ. مرد خوش عیش۔ مرفد الحال۔
عِطًا (ن) عِطًا وَعِطَطَ وَاعْتَطَّ الثَّوْبُ:
کپڑا پھاڑنا۔ صفت مفعول عِطِيظ. عِطًا
الرَّجُلُ إِلَى الْأَرْضِ: پھیلا دینا اور غالب
ہونا۔
انْعَطَّ العُودُ: کلڑی کا مڑنا (و تَعَطَّطَ)
الثَّوْبُ: کپڑے کا پھٹنا۔
العِطَاطُ: بڑا بہادر۔ شیر۔
الاعْطَاطُ: لہا۔
عِطَبٌ (س) عِطَبًا وَاعْتِطَبَ. ہلاک ہونا
الْقَرْسُ وَنَحْوُهُ: گھوڑے کا تھکانا۔ عِطَبٌ
عَلَيْهِ: سخت غمناک ہونا۔
اعْتِطَبَ النَّارُ: آگ کو چیتھڑے میں لینا۔
عِطَبٌ (ن) عِطَبًا وَعِطُونًا. الفِطْنُ
رُوئی کا نرم ہونا۔ ملائم ہونا۔
عِطَبٌ. الشَّرَابُ: خوشبو دار کرنے کی
تدبیر کرنا الكرم: خوشہ انگور کی گریں ظاہر
ہونا۔
اعْطَبَهُ. ہلاک کرنا۔
العِطْبَةُ والعِطْبَةُ: رُوئی کا ایک کلاں جیتھڑا جس میں
آگ لگائی جائے۔ کہا جاتا ہے "أَجْدُ رَيْحِ
عِطْبَةٍ" جلی ہوئی رُوئی یا جیتھڑے کی بو محسوس
کرتا ہوں۔
المُعْطَبُ فقیر۔

المُعْطَبُ ہلاکت کی جگہ ج معاطب۔
العِطْبُ وَالْعِطْبُولُ وَالْمُعْطُولَةُ.
العِطْبُولُ. جوان، خوبصورت، دراز گردن
عورت۔ ج عِطْبِيلٌ وَعِطْبِيلُ. العِطْبُ
وَالْعِطْبُولُ. دراز گردن ہرنی۔
عِطْرٌ (س) عِطْرًا. خوشبودار ہونا۔ صفت
عِطْرٌ.
عِطْرَةٌ. خوشبودار کرنا۔
تَعَطَّرَ وَاسْتَعَطَّرَ. خوشبو دار ہونا۔
تَعَطَّرَتِ البِنْتُ: بغیر نکاح کے والدین کے
پاس رہنا۔
العِطْرُ. خوشبو۔ ایک قسم کی نباتات۔ ج
عِطُورٌ.
العِطَارُ. عطر کو پسند کرنے والا۔ عطر زیادہ
لگانے والا۔ ج عِطْرٌ.
العِطَارُ. بہت خوشبو والا۔ عطر فروش۔ پیشہ
کو (العِطَارَةُ) کہتے ہیں۔
المِعْطَارُ وَالْمِعْطِيرُ. بہت خوشبو والا۔
(نور کو مؤنث)
عِطَارِدٌ. بدھ ستارہ اور اس کو فارسی میں دبیر
فلك کہتے ہیں۔ (منصرف وغیر منصرف)
عِطَسٌ (ن ض) عِطَسًا وَعِطَسًا جِئِكُنَا
الصُّبْحِ: پو پھٹنا۔ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے
عِطَسٌ فَلَانَ وَعِطَسَتْ بِهِ اللِّجْمُ: یعنی
مر گیا۔
عِطَسٌ. جھینکوانا۔
العِطَاسُ. ناس۔
صُبْحِ.
العِطَاسُ. ناس۔ عوام عطوس کہتے ہیں۔
ایک منحوس پوپایہ۔
المِعْطَسُ وَالْمِعْطَسُ. ناک۔ ج
مِعْطَاسٌ. کہا جاتا ہے "أَزْغَمَتْ
المِعْطَاسُ" یعنی دشمن مغلوب ہو گئے۔
عِطَسٌ (س) عِطَسًا. پیاسا ہونا۔ إِلَيْهِ:
مشاق ہونا۔ صفت عِطَسَانٌ ج عِطَاشٌ
وَعِطَشِيٌّ وَعِطَاشِيٌّ. مؤنث عِطَشِيٌّ
عِطَشَانَةٌ ج عِطَاشٌ.

أَعطشهُ وَاَعطشَهُ. پیاسا کرنا۔ اَعطشَ الرَّجُلُ: پیاسے جانوروں والا ہونا۔
عَاطِشُهُ فَعطشْتُهُ. پیاس لگنے میں غلبہ کرنا اور غالب ہونا۔ صفت مفعولی مَعطُوشٌ۔

تَعَطَّشَ. پیاسا ہونا۔
العَطَشُ والعَطْشُ. پیاسا۔ مؤنث عَطْشَةٌ عَطْشَةٌ۔
العَطَاشُ. بیماری کا نام جس میں سیرابی نہیں ہوتی۔

المَعطُوشُ. پیاس کا وقت مَعَطِشٌ۔
المَعطُوشَةُ. زمین جہاں پانی نہ ہو مَعَطِشٌ۔

المَعطُوشُ. بہت پیاسا (مذکر مؤنث)
عَطَطَ. القَوْمُ عَطَطُوا. لڑائی وغیرہ میں جھج پکار مچانا۔ عَطَطَ الكلامُ: کلام میں غلطی ملنا۔

عَطَفَ (ض) عَطْفًا وَعَطُوفًا إِلَيْهِ: مائل ہونا عَلَيهِ: مہربانی کرنا عَنهُ: پھر جانا هُنَّ عَنِ الْأَمْرِ: ہٹا دینا۔ عَطَفَ الْعَيْنَانِ: لگام پھیرنا۔
كَلِمَةٌ عَلَيَّ أُخْرَى: حرف عطف سے ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا الوَسَادَةُ: تکلی کو ڈوہرا کرنا الشَّىءُ: جھکانا۔ مَوْتًا: عَطَفَتِ النَّاقَةُ عَلَيَّ وَلَدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر شفقت ہونا اور اس کا دو دودھ بہنا۔ عَطَفَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَبِقَلْبِهِ: دل کو مہربان کر دینا۔

عَطَفَ (س) عَطْفًا: لمبی پگھلنے والا ہونا۔
عَطَفَ الْوَسَادَةُ: تکلی کو ڈوہرا کرنا۔ النَّاقَةُ عَلَيَّ وَلَدَهَا: مہربان کرنا الشَّىءُ: جھکانا۔
تَعَطَّفَ: جھکانا اور مائل ہونا عَلَيهِ: رحم دل ہونا اور احسان کرنا التَّوْبُ وَبِالتَّوْبِ: کپڑا اوڑھ لینا۔

اغْتَطَفَ. التَّوْبُ وَبِالتَّوْبِ: کپڑا اوڑھ لینا۔
اغْتَطَفَ: مَرْتًا۔
تَعَاطَفَ. القَوْمُ: بعض کا بعض پر مہربانی کرنا فِى مَشِيئِهِ: ناز سے سر ہلاتے ہوئے چلنا۔
اسْتَعَطَفَهُ: مہربانی طلب کرنا۔ رَحِمَ جَاهَانًا۔

العَطْفُ. کچی۔ جھکاؤ۔
العَطْفُ. بغل میں کُل شَيْءٍ: ہر چیز کا کنارہ۔ عَطْفُ القَوْسِ: کمان کا گوشہ۔
عَطْفًا الرَّجُلُ: مرد کے دونوں پہلو جہاں اَعطافٌ وَعَطَافٌ وَعَطُوفٌ. کہا جاتا ہے "نَسِي عَنِّي عَطْفَهُ" یعنی مجھ سے اعراض کیا اور زیادتی کی "هُوَ يَنْظُرُ فِى عَطْفِيهِ" یعنی وہ متکبر ہے "مَرَّتَانِي عَطْفَهُ" یعنی وہ تکبر سے چلا۔

العَطْفَةُ. انگوٹھی کی تیل کے لگے ہوئے حصے۔
العَطْفُ. پگھلنے کی درازی۔ درخت پر پلٹنے والی تیل۔ عشق پہچان۔ واحد عَطْفَةٌ۔

العَطَافُ. چادر۔ ازار۔ تلواریں عَطْفٌ وَعَاطِفَةٌ۔
العَاطِفُ. فال۔ ازار۔ گھوڑوں کا چمنا گھوڑوں ج عَطْفٌ وَعَطْفَةٌ. والعَاطِفُ عِنْدَ النِّجَاحِ: حرف عطف جیسے وَاوَقَدْتُ ثُمَّ حَتَّى وَغَيْرِهِ۔
العَاطِفَةُ. مؤنث عَاطِفٌ۔ شَفِيقَةٌ ج عَاطِفَاتٌ وَعَوَاطِفٌ۔

العَطِيفُ. مِنَ النِّسَاءِ: نازک فرمانبردار عورت۔
العَطِيفَةُ. کمان۔ ج عَطَافٌ۔
العَطُوفُ. مہربان محسن۔ اِمْرَأَةٌ عَطُوفٌ شُورًا رِيثًا سے محبت کرنے والی عورت ج عَطُوفٌ (وَالعَاطُوفُ) پھندا جس میں ٹیڑھے سرے کی لکڑی لگی ہو ج عَوَاطِيفٌ۔
قَوْسٌ عَطِيفٌ. ٹیڑھی کمان۔

المِعْطَفُ. چادر۔ تلواریں مَعَاظِفٌ۔
مُنْعَطِفٌ الوَادِي وَمُنْعَطِفَةٌ. وادی کا موڑ۔

المِعْطَفُ. گلاب مَعَاظِفٌ۔
عَطَلٌ (س) عَطَلًا الرَّجُلُ مِنَ المَالِ او الْأَدَبِ وَكَذَا القَوْسُ مِنَ البُوتَرِ وَالفَرَسُ مِنَ الرِّسَنِ: خالی ہونا۔ صفت عَاطِلٌ وَعَطَلٌ وَعَطْلٌ جِ اَعطالٌ۔
عَطَلْتُ (س) وَعَطَلْتُ (ن) عَطَلًا وَعَطُولًا. المَرَأَةُ: عورت کا بے زور ہونا۔

صفت عَاطِلٌ وَ عَاطِلَةٌ وَعَطْلٌ جِ عَاطِلَاتٌ وَ عَوَاطِلٌ وَ عَطْلٌ وَ اَعطالٌ۔
عَطَلٌ (ن) عَطَالَةٌ. الأَجِيرُ: مزدور کا بیکار ہونا۔

عَطَلُ الشَّىءِ: بے کار چھوڑ دینا المَرَأَةُ: زور اُتار لینا القَوْسُ: کمان سے تانت نکال لینا۔ عَطَلْتُ الإِبِلَ: بغیر چرواہے کے ہونا۔
عَطَلُ الإِبِلِ: بغیر چرواہے کے چھوڑ دینا البُوتَرُ: کونکس پر چلنا چھوڑ دینا۔ ہر وہ چیز جس کو شائع ذائع کر کے چھوڑ دیا جائے، اس پر عَطْلٌ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "عَطَلْتُ الحُدُودَ او التَّفُوزَ" یعنی سرحدیں بلا محافظ کے چھوڑ دی گئیں۔ و "عَطَلْتُ المَزَارِعَ" یعنی کھیتیاں جوتی ہوئی نہیں گئیں۔ "عَطَلْتُ الرِّعِيَّةَ" رعیت بغیر والی کے رہی ایسی قوم کو "مَعطُونٌ" کہیں گے۔

تَعَطَّلَ. بیکار ہونا۔ تَعَطَّلْتُ. واستَعَطَّلْتُ المَرَأَةُ: عورت کا بے زور ہونا۔
العَطَلُ. گلاب۔ فُحْصٌ۔ کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ عَطَلَهُ" یعنی اس کا تکرنا اچھا ہے۔

العَطْلَةُ. بیکاری۔
العَطِيلُ وَالعَيْطِلُ: نر گھوڑ کے خوشے کا بیٹا۔ العَيْطِلُ: خوبصورت دراز گردن۔
العَطْلَاءُ مِنَ النِّسَاءِ: بے زور عورت۔
المِنطَالُ مِنَ النِّسَاءِ: بے زور رہنے کی عادی۔

التَّعْطِيلُ. بیکار رہنا۔ مَذْهَبُ التَّعْطِيلِ. صفات باری تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا مذہب۔
المُعْطَلَةُ. مذہب تعطیل والے۔

اغْتَطَمَ. الرَّجُلُ: ہلاک ہونا۔ صفت عَاطِمٌ وَعَاطِمٌ جِ عَاطِمٌ۔
العَظْمُ. دھکی ہوئی اون۔
عَظَنَ (ن ض) عَظَنًا الجِلْدُ: کھال کو گوہر یا نمک میں ڈالنا۔ صفت مفعولی عَظِينٌ وَ مَعطُونٌ (عَطُونًا) البَعِيرُ: اونٹ کا سیراب ہو کر بیٹھنا۔ صفت عَاطِنٌ جِ عَظَانٌ وَ

عَطُونٌ وَعَطْنَةٌ مَوْثٌ عَاطِنَةٌ جَ عَاطِنَاتٌ
وَعَوَاطِنٌ وَعَطُونٌ.
عَطِنٌ (س) عَطْنًا: الْجِلْدُ: كَهَالِ كَانَمَكٍ يَأْ
كُوْرِيْشٍ مَرْتًا: صَفْتٌ عَطِنٌ.
عَطِنٌ الْجِلْدُ: كَهَالِ كُوْمَكٍ يَأْكُوْرِيْشٍ ذَالِنَا
(وَأَعَطِنَ) الْإِبِلُ: دُوْبَارَهُ يَأْنِيْ لِيْ بَانِيْ كَلِيْ
آرَامٍ دِيْنًا: عَطِنٌ لِإِبِلٍ: أُوْنْتُ كَلِيْ
بِيْضِيْ كِيْ جَلْدٍ بِنَانًا: عَطِنْتُ الْإِبِلُ: أُوْنْتُ كَا
سِيْرَابٍ هُوْكَرِيْشِنَا.

إِنْعَطِنَ الْجِلْدُ: كَهَالِ كَانَمَكٍ يَأْكُوْرِيْشٍ
مَرْتًا.
العطن والمعطن والمعطن: أُوْنْتُ كَلِيْ
بِيْضِيْ كِيْ جَلْدٍ: حَوْضُ كَلِيْ اِرْدُوْرْدِيْ كِيْ
بِيْضِيْ كِيْ جَلْدٍ: جَ مَعَاظِنُ.
العطان: كُوْرِيْشِيْ نَمَكٍ جَسْمِيْنِ كَهَالِ كُوْذَالَا
جَائِيْ تَاكِرِيْ بَالِ الْكُ هُوْجَائِيْشِيْ.

رَجُلٌ عَطِيْنٌ وَعَطِيْنَةٌ: بَدُوْدُوْرْدِيْ
عَطَا يَعْطُوْ عَطْوًا: الشَّى وَالْيَهْ لِيْزَا لِيْهْ
يَدُهُ: بَلِيْدٌ كَرْتًا.

عَطَى تَعْطِيَةُ الرَّجُلِ: جَلْدِيْ كَرْتًا: خِدْمَتُ
كَرْتًا.

أَعْطَى اِعْطَاءً: هَ الشَّى: دِيْنًا: أَعْطَى
الْبَعِيْرُ أَوْ أَعْطَى الْبَعِيْرُ بِيْدَهُ: مَطِيْحٌ هُوْنَا.
عَاطَى مَعَاظَةً وَعَطَاءُ الرَّجُلِ الشَّى:

دِيْنًا: خِدْمَتُ كَرْتًا.
تَعْطَى تَعْطَايًا: الشَّى: لِيْزَا.

الْأَمْرُ: مَشْغُوْلٌ هُوْ جَانَا الرَّجُلُ: كَسِيْ جِيْزُ كُو
كِيْزُوْنِيْ كَلِيْ لِيْ بِيْ كِيْ اَلْيُوْشِيْ بَرِيْ كُوْرِيْشِيْ هُوْنَا: كَهَا
جَاتَا هُوْ "تَعْطَايْنَا فَعَطْوْنَهُ" دَاوُوْدِيْشِيْ
أِيْكَ نِيْ دُوْرِيْ سِيْ بَرِغَلِيْهْ حَاصِلُ كَرْتَا چَاپَا مِيْنِ
غَالِبٌ هُوْ كِيْ.

تَعْطَى تَعْطِيًا: جَلْدِيْ كَرْتَا الْأَمْرُ: مَشْغُوْلٌ هُوْ
جَانَا.

تَعْطَى وَإِسْتَعْطَى: اسْتَعْطَاءً: عَطِيْهَ يَأْكُلُنَا.
العطا والعطاء: جُوْ جِيْزُ دِيْ جَائِيْ: جَ
أَعْطِيَةُ جَ اِعْطَايَاتٍ.
العطية: بِمَعْنَى عَطَا جَ عَطَايَا وَعَطِيَّاتٍ.

العطانة والعطاوة: بِمَعْنَى عَطَا.

المعطاء: بِمَعْنَى زِيَادَةٍ دِيْنِيْ وَآلَا (مَذْكُوْرٌ وَ
مَوْثٌ) جَ مَعَاظٌ وَمَعَاظِيٌّ.

عَطْلَةٌ (ن) عَطْلًا بِالْأَرْضِ: چِيْكََا دِيْنًا.
عَقْلُهُ الْحَزْبُ: تَكْلِيْفٌ بِبِيْجَانَا.

عَاطَهُ مَعَاظَةً وَعَاطَا: خَتِيْ كَرْتًا: تَكْلِيْفٌ
بِيْجَانَا: عَاطَ الْقَوْمُ: جَنَكٌ مِيْنِ اِيْكَ دُوْرِيْ سِيْ
بَرِخَتِيْ كَرْتًا.

العظة: جَنَكٌ مِيْنِ خَتِيْ.

عَظِبَ (ض) عَظْبًا الطَّائِرُ: بَرِيْدَةٌ كَاوْمٌ
كِيْ چِيْزُ كُوْرِيْشِيْ جَلْدِيْ هَلَا.

عَظِبَ (ن) عَظْبًا وَعَظْوًا جِلْدُهُ:
كَهَالِ شَنَكٍ هُوْنَا يَدُهُ: كَامُ كَرْتِيْ سِيْ هَاتَهْ كَا
مُوْنَا هُوْنَا.

عَظِبَ (س) عَظْبًا عَلَى الْعَمَلِ: مَبْرِيْ سِيْ
بَرْدَاشْتُ كَرْتًا: مُوْنَا هُوْنَا: صَفْتٌ عَظُوْبٌ.

عَظْبُهُ عَنِ بَغِيْبَتِهِ: تَاثِيْبًا: تَاخِيْرُ كَرْتَا هَ عَلَى
الشَّى: عَادِيْ اِرْدُوْرْدِيْ بِنَانًا.

العاطب والعظب: جَنَكٌ اِرْدُوْرْدِيْ مَقَامَاتٍ
مِيْنِ اُتْرِيْ وَآلَا.

عَظِيْبٌ: الْخَلْقُ: بِدَخْلِقِ.

عَظْرٌ (س) عَظْرًا: اِنْدَاءٌ: بَرْتَنُ كُوْمَرْتًا.
أَعْظَرُهُ الشَّرَابُ: مَعْدَةٌ مِيْنِ تَقِيْلٍ هُوْنَا اِرْدُوْر
اسْمُ اِسِيْ سِيْ (الْعَظَارَةُ) هُوْ.

العظور: شَرَابٌ سِيْ عَشْمِ سِيْرَجِ عَظْرٍ.
العظار: شَرَابٌ كِيْ وَجْهٌ سِيْ اِتْلَا.

عَظَعَطَ السَّهْمُ: تِيْرٌ كَا كَانِيْ هُوَا لِيْزَا جَانَا
الْحِيْبَانُ: بَرُوْلُ كَا لِرَأْيِيْ مِيْنِ بِيْشِيْ هِيْجِيْرَتَا فِي
الْحَبِيْبِيْ: پِهَازُ بَرِچِيْشِنَا.

عَظَلٌ (ن) وَعَظَلٌ (س) عَظْلًا وَ
تَعْظَلُ وَعَظَلٌ وَاعْتَظَلُ الْكَلَابُ اِرْدُوْر
الْحِرَاذُ: كَتِيْ كَا يَأْكُلِيْشِيْ كَا اِيْكَ دُوْرِيْ سِيْ
سَوَارِ هُوْنَا.

عَاطَلُ الشَّى: سَوَارِ هُوْنَا الْكَلَامُ: كَلَامٌ مِيْنِ
تَعْقِيْدِ لَانَا اِرْدُوْر كَرْتَا كَهَا الشَّاعِرُ فِي الْقَافِيَةِ:

تَضْمِيْنُ كَرْتَا بِالْكَلامِ: اِسْمِيْ هُوْ اُوْرِ پَرُوْشُ كَر
آنِيْ وَآلَا بَاتُ كَهَا.

عَظَلٌ وَتَعْظَلُ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: مَارِنِيْ كَلِيْ
لِيْ جُوْمُ كَرْتًا: تَعْظَلُ فِيْ اُتْرُوْ: تِلَاشُ كَرْتًا.
العاظِلُ وَالْعَاطِلَةُ وَالْعَظْلِيُّ مِيْنِ
الْحِرَاذِ: اِيْكَ دُوْرِيْ سِيْ بَرِچِيْشِيْ هُوْنَا نُوْرِيْ.
تَعْظَمُ اللَّيْلُ: خَتِيْ تَارِيْكَ هُوْنَا.
العظيمة: تَارِيْكَ.

عَظْمٌ (ك) عَظْمًا وَعَظَامَةٌ: بَرَا هُوْنَا.
صَفْتٌ عَظِيْمٌ جَ عَظْمًا وَعَظَامٌ وَعَظْمٌ
الْأَمْرُ عَلَيْهِ: دَشْوَارُ هُوْنَا اِرْدُوْر بَاعَثُ مَشَقَّتُ
هُوْنَا.

عَظْمٌ (ن) عَظْمًا: الْكَلْبُ: كَتِيْ كُوْبُرِيْ
كَلَابَا (عَظْمَةٌ) الرَّجُلِ: بُرِيْ بَرَارِنَا.
أَعْظَمُ الْأَمْرُ: بَرَا هُوْنَا الشَّى: بَرَا كَرْتًا: بَرَا
سَجْمَانَا: اِعْظَمُ الْكَلْبُ عَظْمًا: كَتِيْ كُوْبُرِيْ
كَلَابَا: كَهَا جَاتَا هُوْ "مَا يَعْظُمُنِيْ أَنْ أَفْعَلُ
كَذَا" جَهْ كُوَا يَأِيْزُ كَرْتِيْ سِيْ كُوْنِيْ جِيْزُ هُوْلُ مِيْنِ
ذَالِيْ وَآلَا نِيْشِيْ.

عَظْمَةٌ: تَعْظِيْمٌ كَرْتًا: تَوْقِيْرُ كَرْتًا: عَظْمٌ
الشَّى: بُرِيْ-بُرِيْ كَرْتًا.
تَعْظَمُ: تَكْبِيْرُ كَرْتًا.

تَعْظَمُ: تَكْبِيْرُ كَرْتًا: تَعْظَمُهُ الْأَمْرُ: بَرَا
هُوْنَا: كَهَا جَاتَا هُوْ "أَمْرٌ لَا يَتَعْظَمُهُ شَيْءٌ"
وَهَا يَأِيْزُ اِسْمِيْ جَسْمِيْنِ سِيْ كُوْنِيْ اِسْمِيْ كَلَاظَةٍ بَرَا
نِيْشِيْ.

اسْتَعْظَمُ: تَكْبِيْرُ كَرْتَا الْأَمْرُ: بَرَا سَجْمَانَا: اِنْكَارُ
كَرْتَا الشَّى: بَرَا صِهْ لِيْزَا.

العظم: بُرِيْ جَ اِعْظَمُ وَعَظَامٌ وَعَظَامَةٌ.
عَظْمُ الشَّى وَعَظْمُهُ جِيْزُ كَا بَرَا صِهْ: جَ
اعظام.

العظم والعظم والعظم: بَرَا نِيْ.
عَظْمُ الطَّرِيْقِ: رَاسْتَا كَا دَرْمِيَانِ.

العظام والعظام: بَرَا: مَوْثٌ عَظَامَةٌ وَ
عَظَامَةٌ.

العظيمة: بُرِيْ كَا كَلُوْرُ.
العظيمة مِنَ السَّاعِدَا وَاللِّسَانِ: كَارِيْ يَأِ
رَبَّانِ كَا مُوْنَا صِهْ جَ عَظْمَاتٍ: عَظْمَاتُ
الْقَوْمِ: سَرْدَارِنِ قَوْمِ (وَالْعَظْمُوْتُ

مَحْكَمٌ دَلَالٌ وَبَرَا مِيْنِ سِيْ مَزِيْنِ، مَتْنُوْعٌ وَمَنْفَرْدٌ مَوْضُوْعَاتٍ پَرِ مَشْتَمَلِ مَفْتِ اَنْ لَانِنِ مَكْتَبِيْ

والعظامة تكبير- نخوت- فخر-
العظامة والعظامة والعظامة و
الاعظامة: گدی جس کو عورتیں سرین پر
بڑا ظاہر ہونے کیلئے باندھتی ہیں۔
العظيمة: مؤنث عظیم: سخت مصیبت۔
ج عظامہ: عظام اللہ: اللہ کے بڑے
بڑے امور۔
العظمیٰ: سفیدی مائل کبوتر۔
مُعْظَمُ الشَّيْءِ: چیز کا بڑا حصہ ج معاطم:
کہا جاتا ہے "إِنَّ لِفَالَانَ مَعَاظِمَ وَاجِبَةَ
الْمُرَاعَاةِ" فلاں کے لیے بڑے بڑے
حقوق ہیں جن کی رعایت واجب ہے۔
المُعْظَمَةُ: سخت مصیبت۔
عَظَا يَعْظُو عَظْوًا: فَلَانًا: ٹنگین کرنا۔
غَيْتٌ كَرْنَا: بھلائی سے روکنا۔ زہر پلانا۔
عَظِي يَعْظِي عَظِيًا فَلَانًا: ٹنگین کرنا۔
العظاية والعظاية والعظانة والعظانة:
چھگی کے مشابہ ایک جانور ج عظاء و
عظاء و عظايات و عظايات:
عَفَّ (ض) عَفًا و عَفَّةً و عفافا و
عفافةً و تعفّف: حرام یا غیر مستحسن سے
رکنا۔ پاک دامن ہونا۔ صفت بزرگ عقیف
و عَفَّ ج عَفَّةً و اعفاءً و عَفْوًا: صفت
مؤنث عقیمة و عَفَّةً ج عقیفات و
عفايف و عَفَات عَفَّ عَنْ كَذَا: باز
رہنا۔ تعفّف: تکلف پاک دامن بنا۔ تھن
کے بقیہ دودھ کو پینا۔
أَعَفَّ اللَّهُ فَلَانًا: پاک دامن کرنا۔
تَعَاثُ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوسری مرتبہ
دوہنا المریض: علاج کرنا۔
اعْتَفَّ و استعفف عن الخبيث: رکنا
العيبُ اليبس: اونٹ کا مٹی کے اوپر اوپر
خسک گھاں چرنا۔
العفة: سر۔ پارسائی۔ پاکدامنی۔ طہارت
بدن۔
العفة والعفافة: تھن میں بقیہ دودھ اور
اسی سے ہے سألہ فما أعطاه إلا عفافة

یعنی تھوڑا سا دیا۔ العفاف: ڈول کہا جاتا
ہے "جاء علی عَفَانَ ذَلِك" یعنی وہ فلاں
وقت میں آیا۔
عَفَّت (ض) عَفْنَا الشَّيْءُ: موڑنا اور توڑنا
کلامہ و فی کلامہ: لکت کی وجہ سے
بولنے میں منہ نیڑھا کرنا۔ صفت عَفَات:
العفت: لکت۔
الاعفّت: بآس ہاتھ سے کام کرنے والا
بیوقوف۔
عَفَّجَهُ (ض) عَفَّجًا بِالْعَصَا: لاٹھی مارنا۔
العفج والعفج والعفج والعفج آت
ج اعفاج و عفجة:
المعفج: بیوقوف۔
المعفجة والمعفاج: لاٹھی۔ کپڑے
دھونے کی موگری۔ اور عوام (مخباط)
کہتے ہیں۔
عَفَدَ (ض) عَفْدًا و عَفْدَانًا: دوٹوں
ٹانگیں ملا کر کودنا۔
اعْتَفَدَ: بھوک کی وجہ سے مرنے کے
لیے دروازہ بند کرنا اور سوال نہ کرنا۔
عَفْرَهُ (ض) عَفْرًا فِي التَّرَابِ: مٹی میں
تھیڑا۔ زمین میں دھسا دینا الشَّيْءِ: زمین
پر پک دینا۔
عَفْرًا (س) عَفْرًا و استعفّر: خاکستری
رنگ ہونا۔ خاک آلود ہونا۔ صفت اعفّر:
عَفْرَهُ: فی التراب: مٹی میں تھیڑا۔
زمین میں دھسا دینا۔ جو شخص ذلیل کیا گیا
ہو اس کیلئے "قَدْ عَفَّرَ وَأَرْعَمَ" بولا جاتا
ہے "عَفَّرَ اللَّحْمَ" دھوپ میں ریت پر
خسک کرنا الشَّيْءِ: سفید کرنا۔ عَفَّرَتْ
المرأة في العظام: عورت کا دودھ
چھرانے کے لیے پستان پر مٹی لگانا۔
اعفّر: الشَّيْءِ: خاک آلود ہونا
الثوب في التراب: کپڑے کو مٹی میں
تھیڑا فلاں: قادر ہونا۔ قوی ہونا الرَّجُلُ:
زمین پر پک دینا۔ کودانا ہ الاسد: شیر کا
پچھاڑنا۔

تعافر: الشريد: شریک کا سفید ہونا۔
تَعَفَّرَا و انعفّر في التراب: مٹی میں لوٹ
پوٹ لگانا الشَّيْءِ: خاک آلود ہونا۔ تَعَفَّرَ
الوخش: وحشی جانور کا موٹا ہونا۔
العفر والعفر: مٹی۔ خاک۔ ج اعفّار:
العفر والعفر: زور یا مطلقا سور۔ بہادر۔
سخت موٹا۔ العفر: بعد۔ بے رونق بازار۔
مہینے کی ساتویں آٹھویں نوں رات۔ مرد
دلیر و چالاک۔ موٹا۔ ج اعفّار و عفار:
رَجُلٌ عَفْرٌ و عَفْرٌ و عَفْرِيٌّ و عَفْرَانِيَّة:
خبیث مرد۔
الاعفّر: ہرن کی ایک قسم جو کم دوڑتا
ہے۔
العفرة: خاکستری رنگ۔
العفرة والعفرة: من الديك: مرغ کے
گردن کے بال من الإنسان: وسط سر کے
بال من الاسد: شیر کے بال۔ عفرة
الحر: گرمی کی شدت۔
العفر: زمانہ۔ وقت۔ مہینہ۔
العفرة: مخلوط لوگ۔ عفرة و عفرة
الحر او البرد: گرمی یا سردی کی شدت۔
العفار: بغیر شکر وغیرہ کا ستو۔ درخت
جس سے آگ نکالنے کا کام لیا جاتا ہے
واحد عفارة:
العفارة: خباث۔ برائی۔
العفرية: بڑا سخت مکار۔ خبیث۔
العفرية والعفراة من الديك
والإنسان: بمعنی عفرة: جب کوئی
غضبناک ہو کر آئے تو کہا کرتے ہیں۔
"جاءنا فشا عفريتته"
العفیر: گوشت جو دھوپ میں ریت پر
خسک گیا جائے۔ خبز عقیف: بلا سالن کے
روٹی (والمعفور) مٹی میں تھیڑا ہوا۔
العفیر: وہ عورت جو پڑوس کو ہدیہ نہ
بھیجتی ہو۔
العفيرة: گھریلا کی گولی۔
العفار: مؤنث کھجور میں مذکر کھجور کا

پھول ڈالنے والا۔

العُقْرَاءُ: الأَعْفَرُ کا مؤنث ج عُقْرٌ سفید زمین میں لیالی القمر تیرھویں رات۔

العُقْرِيْنَ: مرد قوی کال۔ چالاک اور کاموں کو کر ڈالنے والا۔ لَيْثٌ عُقْرِيْنٌ:

شیر۔ عُقْرِيْنٌ: نام شیر کی جھاڑی کا۔

المُعَاْفِرُ: ساتھیوں کے ساتھ چلنے والا تاکہ ان کے بچے ہوئے سے کچھ حاصل کر

لے۔

تَعْفَرْتُ: دیو ہونا۔ شریر ہونا۔

العُقْرِيْتُ: سخت غیث۔ چالاک اور کاموں کو کر ڈالنے والا۔ اور یہ انسان

بجائے شیاطین سب میں سے ہوتا ہے۔ ج عُقْرَايْتُ مؤنث عُقْرِيْتِهٖ:

عُقْرَسَهٗ: پچھاڑنا اور غالب ہونا۔

العُقْرَسُ والعُقْرِيْسُ والعُقْرَاْسُ والعُقْرُوْسُ والعُقْرُنْسُ: شیر۔

العُقْرَانِيْسُ: شتر مرغ۔

عُقْرٌ (ض) عُقْرًا: اہلہ: اپنی بیوی سے کھیل کود کرنا الْجَمَالَ بَعِيْرَهٗ: ساربان کا

اُونٹ کو بٹھانا۔

العُقْرُ: س والعُقْرَا: کھایا ہوا آخروٹ۔

العُقْرَاةُ: ٹیلہ۔

عُقْرَسَهٗ (ض) عُقْرَسًا: پچھاڑنا اور لاڈلانا۔ قید کرنا عن حاجتہ: حاجت سے باز رکھنا

روکنا الماشية: جانور کو بغیر چارے کے رکھنا: زمین پر چٹا دینا۔ سختی سے زمین پر

کھینچنا ہر جملہ: چوڑے پر لٹ مارنا۔ عَاقَسَهٗ: کشتی کرنا۔ مزاولت کرنا۔ کہا جاتا

ہے "بَات يَعاْفِسُ الامُوْرَ"۔ تَعَاقَسَ وَاغْتَفَسَ القَوْمُ: آپس میں کشتی

کرنا۔

اِنْعَفَسَ فِي التُّرَابِ: خاک آلود ہونا۔ فی المَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔

العُقَاسُ: فساد۔

المُعْفُوْسُ: قیدی۔

عَقَشَ (ض) عَقَشًا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

العُقَاشَةُ: بے خیر و برکت آدمی۔

الاعْقَشُ: کزور نگاہ والا۔

عَقَصَهٗ (ض) عَقَصًا: اکھیرنا۔ موڑنا۔

الرَّجُلُ: کشتی میں غالب آنا۔ عَقَصَ حَقَهٗ مِنْهُ: حق لینا۔

عَقَصَ وَاغْصَصَ القَارُوْرَةَ: شیشی میں کاگ لگانا۔ ڈاٹ لگانا۔ اَغْصَصَ الجِرَّ:

روشنائی میں بازو ڈالنا۔

عَقَصَ القُوْبُ: کپڑے کو بازو سے رنگنا۔ عَاقَصَهٗ مُعَاقَصَةً: کشتی لڑنا۔

العُقْصُ: بازو۔ بازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

العُقْصُ: ناک کی کچی۔

العُقْصُ: کیلا۔

العُقْصَةُ: کیلا پن۔

العُقَاصُ: کاگ۔ ڈاٹ۔ شیشی کا سر بند۔ عَقَطْتُ (ض) عَقَطًا و عَقِيْطًا و عَقَطَانًا: العُنْزُ: بکری کا رتخ خارج کرنا

الصَّانُ: بھیڑ کا چھیننا (عَقَطًا) الرَّاعِي: بکری کے گوز کے مانند ہونٹوں سے آواز

نکلانا۔

بَغِيْبَهٗ: بھیڑ کی چھینک کے مانند آواز سے بھیڑ کو ڈانٹنا یا بلانا فلَانٌ فِي كَلَامِهٖ: لکنت

کرنا۔

العَاقِطُ فا (والعَقِيْطُ) بہت گوز کرنے والا۔

العَاقِطَةُ: مؤنث عاقظ۔ بھیڑ۔ اور اسی سے عرب کا قول ہے "مَالَهٗ عَاقِطَةٌ وَا

نَافِطَهٗ" یعنی اس کے پاس نہ بھیڑ ہے نہ بکری۔ مراد یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں۔

الاعْقَطُ: بیوقوف۔

العِقَاطُ العِقَاطِيُّ والعِقِطِيُّ: ہکلا۔ لکنت والا۔

عَقَقَ (ض) عَقَقًا: الرَّجُلُ: غائب ہونا۔ بلا کسی ضرورت کے آنا جانا۔ تیز جانا۔

تھوڑا سا سونے کے بعد جاگنا پھر سونا۔ عَقَقَهٗ بالسُّوْطِ: کوڑے سے بہت مارنا

عَنِ الأَمْرِ: منع کرنا العَمَلُ: کام کو ادھورا

کرنا الشَّيْءُ: جمع کرنا عَلَيْهِ الصَّيْدُ: کسی کی جانب شکار کو ہلک کر لانا الرِيْحُ الشَّيْءُ:

پراگندہ کرنا۔ عَقَقَ الحِمَارُ: گدھے کا گوز کرنا۔

عَقَقَ الغنم بعضها على بعض: بکریوں کو اکٹھا کرنا۔

عَاقَقَهٗ مُعَاقَقَةً و عِاقَاقًا: فریب دینا۔ عَاقَقَ الذَّنْبَ الغنم: بھیڑے کا بکریوں

کے آتے جاتے میں نقصان کرنا۔

أَعَقَقَ: بلا ضرورت کے اکثر آنا جانا۔

تَعَقَّقَ بِهِ: پناہ لینا۔

اِغْتَفَقَ القَوْمُ بالسُّيُوفِ: آپس میں تلوار پاری کرنا الاسدُ فَرِيْسَةٌ: شیر کا شکار پر

مائل ہونا۔

اِنْعَفَقَ فِي حَاجَتِهٖ: جلدی کرنا۔

العُقَاقَةُ: ڈبر۔

رَجُلٌ مِعْقَاقُ الرِّيَاةِ: بہت ملاقات کرنے والا۔

المُنْعَفِقُ: پانی پر سے واپس ہونے والا۔ عَفَكَ (ض) عَفْكَ الكَلَامِ: سیدھی

طرح سے بات نہ کرنا۔ بیودہ کلام کرنا۔ عَفَكَ (س) عَفْكَ و عَفْكَا: سخت

بیوقوف ہونا۔ صفت اَعْفَكَ و عَفَكَ و عَفِيكَ مؤنث عَفْكَا ج عَفْكَ: الأَعْفَكَ:

باکس ہاتھ سے کام کرنے والا۔

عَقَنَ (ض) عَقْنًا و عَقَنَ اللَحْمُ: گوشت کو بدبودار کرنا۔ عَقَنَ فِي الجَبَلِ: پہاڑ پر

چڑھنا۔

عَقَنَ (س) عَقْنًا و عَقُوْنَةً و تَعَقَنَ الشَّيْءُ: تزی کی وجہ سے خراب ہونا

اللَحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت عَقِنَ و مَعْقُوْنٌ و مُعَقِّنٌ و مُتَعَقِّنٌ:

اَلْمَعْقُوْنَةُ: موذی مرض جو کہ اعضاء تاسل سے شروع ہوتی ہے اور ان کو خراب

کر دیتی ہے یہ مرض کثرت کے ساتھ دوسری عالمی جنگ (جنگ عظیم ثانی) کے دونوں

میں ظاہر ہوئی۔ اس وجہ سے ان امراض متعدیہ کو ختم کرنے کے لئے جراثیم مار ادویات ایجاد کی گئیں۔

أَعْفَنَ الشَّيْءُ: بدبودار پانا۔

عَفَا يَعْفُو عَفْوًا عَنْهُ وَ لَهُ ذَنْبُهُ وَ عَفَاعَنَ ذَنْبَهُ: درگزر کرنا۔ معاف کرنا۔ سزا کو چھوڑ دینا اللہ عنہ: گناہوں کو معاف کرنا

عَنِ الشَّيْءِ: رکناغنی الحق: ساقط کرنا الشَّيْءِ: زیادہ کریمتہ فی العلم: بڑھ جانا

الصُّوفِ: اون کاٹنا فلاناً: کسی کے پاس طلب معروف کیلئے جانا عَفَتِ الْأَرْضُ:

زمین کا سبزی سے ڈھک جانا الشَّيْءِ: زیادہ اور لمبا ہونا عَفَتِ الرِّيحُ الْأَثَرَ أَوْ

الْمَنْزِلَ: مٹا دینا عَفَا عَفْوًا وَ عَفَا وَ عَفُوًا الْأَثَرَ أَوْ الْمَنْزِلَ: مٹا کر فلان:

ہلاک ہونا۔ مرنا۔ عَفَا يَعْفُو عَفْوًا وَ عَفِي يَعْفِي عَفِيًّا:

الشَّعْرَ: بالوں کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ لمبے اور زیادہ ہو جائیں عَفِي يَعْفِي عَفِيًّا:

بالوں کا لمبا اور زیادہ ہونا عَفَتِ الرِّيحُ الْمَنْزِلَ: مٹا دینا عَلَيَّ مَا كَانَ مِنْهُ: بگاڑ

کے بعد درست کرنا عَفَتِ الْعِلَّةُ صَاحِبَهَا: ہلاک کرنا۔

عَافَى مُعَافَاةً وَعِافَاءً وَ عَافِيَةً اللَّهُ فَلَانًا: عافیت دینا بلا اور برائی سے بچانا۔

أَعْفَى إِعْفَاءً اللَّهُ فَلَانًا: عافیت دینا الشَّعْرَ: بالوں کو بڑھنے کیلئے چھوڑ دینا

الرَّجُلُ: بہت مال دار ہونا۔ زائد مال کو خرچ کرنا مِنَ الْأَمْرِ: بری کر دینا لَنْدًا

بِحَقِّهِ: حق کو پورے طریقہ سے ادا کر دینا الرَّجُلُ: دینا المَرِيضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا۔

تَعْفَى تَعْفِيًّا: مٹا اور مصلح ہونا۔ تَعَافَى تَعَافِيًّا: عافیت پانا الشَّيْءِ: چھوڑنا۔

إِعْتَفَى إِعْتِفَاءً: کسی کے پاس طلب معروف کے لیے آنا عَفَتَتْ وَاسْتَعْفَتِ

الْإِبِلُ الْبَيْسَ: اوپر اوپر سے خشک گھاس

کو چرنا استعفى الرجلُ مكلفه: استعفى دینا۔ معافی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے

”استعفى من الخروج فاعفاه“ یعنی فلاں نے نکلنے سے معافی مانگی اور اس نے

معاف کر دیا۔ العفاء: مٹی۔ بارش۔ گھروں کی بربادی۔ ہلاکت۔ آنکھ کا پھولا۔

العفاء: زیادہ لمبے بال۔ شتر مرغ کے پر۔ اونٹ کے بال۔

العفو: عمدہ چیز۔ فضل و معروف۔ من المال: خرچ سے زائد جس کا دینا

دشوار نہ ہو۔ زمین جس میں کوئی نشان نہ ہو۔

العفا والعفو والعفو والعفو: گدھے کا بچہ۔ معفایا و عفوہ۔ العفوہ: دیت۔ گدھے کا مادہ بچہ۔ بچ

عفو۔ العفوہ والعفوہ والعفوہ: ہانڑی کا جھاگ۔ عفوہ الشئ: چیز کا خالص۔

عفوہ الطعام والشراب: عمدہ کھانا پانی۔ العفوہ والعفوہ مرد کے سر کے بال۔

العفاوة: شوربے کا اچھا حصہ جو کسی معزز کو دیا جائے۔

العفاوة: دیک کا نچلا شوربہ۔ العفاوة والعفاوة: ہانڑی کا جھاگ۔

العفو: معاف کرنے والا بہت معاف کرنے والا۔

العافی: فا۔ بخشنے والا۔ درگزر کرنے والا۔ لمبے بال والا۔ شے والا عَفِيٌّ: دیک کا نچلا شوربہ۔

گھاس پانی طلب کرنے والا۔ گھات پر اترنے والا مہمان۔ ہر طالب بخشش و رزق۔ معفایا و عفی و عافیہ:

کہا جاتا ہے ”كثرت على الكرم عافية“ کریم پر بخشش کے طلب کرنے والے بہت ہوتے۔

العافية: عافی کا مصدر یا اسم۔ کامل صحت

ہر طالب رزق معافیات و عواف۔ الْمُعْفَى: فا۔ ساتھی جو سلوک کا طالب نہ ہو۔

عَقَّ (ن) كَحَقَّ النَّوْبَ: کپڑا پھاڑنا عَقَّتِ الرِّيحُ الْمُنْزِلَ: بارش برساتا لڈو: کنوئیں

سے بھرا ہوا ڈول کھانا عَقْفُوفًا وَ مُعَفَّةً) الْوَلَدُ وَالذَّه: والد کی نافرمانی کرنا اور

شقت نہ کرنا اور استخفاف کرنا۔ صفت عَقَّ وَ عَاقَ ج عَقَقَةً وَاعِقَةً وَاعَقَّ وَ عَقَّقَ وَ عَقَّقَ:

عَقَّ (س) كَحَقَّقًا: پھٹنا۔ عَقَّتْ (ض) عَقَقًا وَ عَاقًا الْقُرْسُ: گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت عَقْفُوقٌ:

عَاقَ مُعَافَاةً أَبَاهُ: مخالفت کرنا۔ اعَقَّ الْكُرْمَ: انور کی تیل کی جڑوں سے

شاخ کھانا۔ فَلَانٌ نَافِرَانِيٌّ كَرْنَا: اعَقَّتِ الْقُرْسُ: گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت عَقْفُوقٌ:

انَعَقَّ: الوادی: وادی گہری ہونا العَبَارُ: غبار بلند ہونا العَفْدَةُ: گرہ مضبوط ہونا

الْبَرْقُ: بجلی کا بادل میں چمپ جانا (وَاعْتَقَّ) پھٹنا۔ اعْتَقَّ السَّيْفُ: تلوار

سونا معتدلاً: عذر بیان کرنے میں مبالغہ کرنا۔

العَاقُ: اسم فاعل معافون و عَقَقَهُ وَ اعَقَّتْهُ مَوْسِعًا عَاقَةً مَعْفَاقًا وَ عَاقَاتٍ:

العَقَّ وَالْعَقَّةَ: گھبرا گڑھا۔ العَقَّ وَالْعَقَاقُ: مِنَ الْمَاءِ: کڑوا پانی۔

العَقَّةُ: نوزائیدہ بچے کے بال معقفق۔ العَقْفُوقُ مِنَ الْخَيْلِ: حاملہ گھوڑی۔ غیر

حاملہ گھوڑی معقفق معقفق۔ العَقِيقُ: سرخ مہرے۔ وَاصِحَقِيقَةُ: وادی

اور ہر پانی بہنے کی جگہ جس کو سیلاب نے وسیع کر دیا ہو عَقَقَةُ: نوزائیدہ بچے کے

بال۔ عرب میں چند مقامات کے نام۔ العَقِيفَةُ: نوزائیدہ بچے کے بال۔ توشہ

دان۔ نہر۔ بکری جو پیدائش کے ساتویں دن بال موٹرتے وقت ذبح کی جائے۔ تیر جس کو زائد جاہلیت میں سہم الاعتذار کہتے تھے۔ اور خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کے لیے آسمان کی طرف پھینکتے تھے۔ اگر خون میں لت پت واپس آتا تھا تو قصاص لیتے تھے اور اگر صاف آتا تھا تو دیت پر مصالحت کر لیتے تھے۔

عُقَابُ الْكُرْمِ او النَّخِيلِ: شائیں جو انگور کی تیل یا درخت خرما کی جڑ سے نکلیں۔

عُقَب (ض ن) عُقْبًا اِزِيى مَانَا۔ عُقَبُ الْقَوْسِ او السَّهْمِ: پٹھا پٹینا (عُقْبًا و عُقْبُونًا و عَاقِبَةً) الرَّجُلِ او مَكَانِ الرَّجُلِ بِيحِبِّهِ آتَا۔ جانشین ہونا۔ کہا جاتا ہے ”عُقَبُ الشَّيْبِ“ یعنی سیاہی کے بعد سفیدی آئی۔

عُقَبُ عُقْبًا اِزِيى مِيں دَرْدُ هُونَا۔

عُقْبُهُ بِيحِبِّهِ آتَا۔ بِيحِبِّهِ لَانَا۔ عُقَبُ الصَّلَاةِ نَمَازِ پُورِي كَرِيئِنَ كَے بَعْدُ دَعَا وَاغِيْرُهُ كَيْلِيئَ بِيحِبِّشَا۔ كَمَا جَاتَا هِيءَ ”عُقَبُ الشَّيْبِ“ یعنی سیاہی كَے بَعْدُ سَفِيْدِي آئِي فِي الْاَمْرِ: كُيْ چِيْزِ كَے طَلْبِ كَرْنِ كَے لِيئَ كُو شِيْشْ كَرْنَا اور اَمْدُور دُفْتِ رَكْنَا الْحَاكِمُ عَلٰى حُكْمِ سَلْفِهِ: حَاكِمِ كَا اِجْنِ سَلْفِ كَے فَيْصَلِ كَے خِلَافِ فَيْصَلِهِ كَرْنَا۔

عَلِيْهِ بَدَنَامُ كَرْنَا اور غَلِيْطِيُوں كُو بِيَانِ كَرْنَا۔ عَاقِبَهُ مُعَاقِبَةً: بِيحِبِّهِ آتَا۔ عَاقِبَهُ فِي الرَّاحِلَةِ: نُوْبِتِ نُوْبِتِ سُوَارِ هُونَا۔

عَاقِبَهُ عَاقِبَانًا و مُعَاقِبَةً: بَدَنِيْهِ و عَلِيْ ذَنْبِيْهِ مُوَافِقُهُ كَرْنَا۔ سَزَا دِيْنَا۔ اَمَّ الْعُقُوْبِيْهِ۔

اَعْقَبَهُ جَانِشِيْنِ هُونَا۔ لِهَمَّا بَدَلُ دِيْنَا۔ عَرَبِ كَهْتِي تَهِي ”اَعْقَبْتُ الرَّجُلَ“ یعنی بَهْتَرِيْنِ بَدَلُ دِيَا اور ”عَاقِبْتُهُ“ یعنی بَرَا بَدَلُ دِيَا۔

عَاقِبَهُ اِجْتِيئَ بَدَلِ كُو اور عِقَابُ بُرْسِ بَدَلِ كُو كَهْتِي هِيں۔ اَعْقَبَهُ فِي الرَّاحِلَةِ: نُوْبِتِ نُوْبِتِ سُوَارِ هُونَا۔ اَعْقَبَ فُلَانٌ بَرْنَا اور اولاد چھوڑ جانا۔ الْاَمْرُ: لِهَمَّا اِنْجَامِ هُونَا

الرَّجُلُ: بَرَائِي سَے جَمَلَاكِي كِي طَرَفِ لُوْنَا۔ اَعْقَبَتِ الْاَرْضُ: زَمِيْنِ كَا چَرَسَ جَانِ كَے بَعْدِ پَهْرِ سَرَسِيْزِ هُونَا۔ كَمَا جَاتَا هِيءَ ”اَعْقَبَ عِزُّهُ ذُلًّا“ یعنی اِس كِي عِزْتِ ذَلْتِ سَے بَدَلِ گِي۔

تَعَقَّبَهُ: تَلَاشِ كَرْنَا۔ نَقَاصُ تَلَاشِ كَرْنَا۔ بِيْرُوِي كَرْنَا۔ جَرْمِ پَرِ گَرَفْتِ كَرْنَا۔ تَعَقَّبَ عَنِ الْخَبْرِ شَكِ كِي وَجْهِ سَے خَبْرِ كُو دُوسَرِي مَرْتَبِ پُوچھْنَا۔ تَعَقَّبَ مِنْ اَمْرِهِ: نَادِمِ هُونَا۔ تَعَاقَبَ الرَّجُلَانِ او اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ: اِيكِ دُوسَرِ كَے بِيحِبِّهِ هُونَا۔ تَعَاقَبَا عَلٰى الرَّاحِلَةِ: نُوْبِتِ نُوْبِتِ سُوَارِ هُونَا۔

الْقَوْمِ فِي الشَّيْءِ او الْاَمْرِ: بَرَا بَرَا كَرْنَا۔

تَعَاقَبُوا عَلٰى فُلَانٍ بِالضَّرْبِ كُي كُو مَارْنِ مِيں اِيكِ دُوسَرِ كِي مَدَدِ كَرْنَا۔

اِعْتَبَ الْبَايِعُ السَّلْعَةَ: قِيْمَتِ پَرِ قَبْضِ كَرْنِ كَے لِيئَ سَامَانِ كُو رُوْكِ لِيْنَا

الرَّجُلُ: قِيْدِ كَرْنَا مِں كَذَا نَدَامَةً اِنْجَامِ مِيں نَدَامَتِ اُتْهَانَا الْقَوْمِ عَلِيْهِ: مَدَدِ كَرْنَا۔

اسْتَعْقَبَهُ: عِيُوْبِ و نَقَاصُ كُو تَلَاشِ كَرْنَا۔ الْعُقَبُ: هَرِ بِيحِبِّهِ آنَے وَالِيْ چِيْزِ۔

العُقَبُ وَالْعُقَبُ: اِزِيى۔ بِيْنَا۔ پُوْتَا۔ جِ اِعْقَابُ: اَعْقَابُ الْاَمُوْرِ: اَمُوْرِ كَے اِنْجَامِ۔ كَمَا جَاتَا هِيءَ ”حَاءُ عَقِبَةٍ و بَعْقِبِهِ“

جَانِشِيْنِ هُوَا ”رَجَعِ عَنِيْ عَقِبِهِ“ وَهَ جَمَلَدِي سَے اِسي رَاَسْتِ سَے وَاپَسِ گِيَا حُرْسِ سَے اِيَا

تَهَا ”وَطِيْ عَقِبَةٍ“ وَهَ اِس كَے نِشَانِ قَدَمِ پَرِ

چَلَا ”سَافَرِ عَلٰى عَقَبِ الشَّهْرِ“ اِس نَے مِيْنِ كَے اَخْرِيں سَفَرِ كِيَا۔

العُقَبُ وَالْعُقَبُ: اِنْجَامِ۔ نَتِيْجِ۔ جِ اِعْقَابُ۔

العُقَبُ: پُتْھَا جِس سَے تَانَتِ بِنَايَا جَاتَا هِيءَ۔ جِ اِعْقَابُ۔

العُقْبَةُ: بَرَا۔ بَدَلِ۔ تَمِ كَهْتِي هُوَا ”تَمَّتْ عُقْبُكَ“ تَمْهَارِي بَرَا پُورِي هُوْگِي

”اَخَذْتُ مِنْ اَسِيْرِيْ عُقْبَةً“ مِيں نَے

اِسْپَے قِيْدِي سَے بَدَلُ لَے۔ لِيَا۔ الْعُقْبَةُ مِنْ الْجَمَالِ: حَسْنِ كَا اَثْرُ۔

العُقْبَةُ: كَهَانِ كَے بَعْدِ جُو مِيْطِيْ چِيْزِ كَهَانِي جَاے۔ شُورَبِ كَا بَقِيْہِ صَهَّ جُو ہانڈِي وَالِ كُو دِيَا جَاے۔ رَاَتِ دِنِ۔ اِس لِيئَ كَے يِہِ

بَرَا بَرَا اِتَے هِيں۔ كَمَا جَاتَا هِيءَ ”هُوَ عُقْبَةُ بَنِيْ فُلَانٍ“ وَهِيَ فُلَانِ كَا اَخْرِي هِيءَ جِ عُقَبُ اَبُوْ عُقْبَةَ: سُوْرُ۔

العُقْبَةُ: حَسْنِ كَا اَثْرُ۔ الْعُقْبَةُ: دُشُوَارِ گِزَارِ گَهَانِي۔ پَهَاڑِي وَدُشُوَارِ

رَاَسْتِ۔ جِ عِقَابُ و عُقَبَاتِ۔ الْعُقْبِي: كَامِ كَا بَدَلُ۔ هَرِ چِيْزِ كَا اَخْرِ۔

اَخْرَتِ۔ الْعُقُوْبَةُ وَالْعِقَابُ وَالْمُعَاقِبَةُ: بَدِي كَا بَدَلُ۔ سَزَا۔

العُقَابُ: اِيكِ قُوِي شَكَارِي پَرْنَدِ جِ عِقْبَانِ وَاَعْقَبَ جِ عَقَابِيْنِ: الْعُقَابُ: اِيكِ سَتَارِ كَا نَامُ۔ حَوْضِ كِي طَرَفِ پَانِي كِي

نَالِي۔ ثِيْلَ پَهْرِ جِس پَرَسَانِي كَهْرَا هُوَا تَا هِيءَ۔

العُقَيْبُ: بِيْرُو۔ بِيحِبِّهِ آنَے وَالَا۔ كَمَا جَاتَا هِيءَ ”هُوَ عُقَيْبِيْ“ وَهَ اِس كَے بِيحِبِّهِ بِيحِبِّهِ آتَا

هِيءَ۔ الْعُقُوْبُ: اَمُوْرِ خِيْرِ مِيں بِيْرُوِي كَرْنِ وَالَا۔ لِهَمَّا جَانِشِيْنِ۔

العَاقِبُ: فَا۔ نَائِبُ۔ لِهَمَّا جَانِشِيْنِ۔ الْعَاقِبَةُ: مُوْنْتِ۔ عَاقِبُ۔ نَسْلُ۔ هَرِ چِيْزِ كَا

اَخْرِ۔ لِهَمَّا بَدَلُ۔ جِ عَوَاقِبُ۔ الْعُقْبَانُ: بِمَعْنِي عَاقِبَتِ۔

العُقَيْبُ: لَمَكِ شَكَارِي پَرْنَدِ جُو چُو هِيءَ اور خُرْگُوشِ وَغِيْرِهِ كَا شَكَارِ كَرْتَا هِيءَ اور اِس كُو

”مُرْزَةٌ“ بِيحِبِّهِ كَهْتِي هِيں۔ الْمُعَقَّبُ: بَانَكْتِ مِيں مَاهِرُ۔ اُوْزْ حَسِي۔ بَالِي۔

المُعَقَّبُ: وَهَ عَوْرَتِ جِس كِي عَادَتِ هُوَا كَے اِيكِ بَارِ لُؤَا كَا جِنِے اور دُوسَرِي مَرْتَبِ لُؤَا۔ وَهَ مَكَانِ جِس مِيں شَكِ اَنگُورِ رَكْھَا

جَاے۔ الْمُعَاقِبُ: فَا۔ بَدَلُ لِيئَ وَالَا۔

المُعَقَّبَات. رات دن کے فرشتے۔
تسبیحات جو باری باری پڑھی جائیں۔
العقوف. زچپور۔ عقیقہ۔ یا زائدہ

العُقُول والعُقُولَةُ. سختی۔ بیماری یا
عداوت کا لقب۔ بخار کے بعد ہونٹوں پر کی
پھسیاں عقیقہ۔

عَقْد (ض) عَقْدًا الحَبْل: گرہ لگانا البَيْع
او البَيْعِينَ: بیع یا قسم کو پکا کرنا الحَاسِبُ:
حساب لگانا عَلَى الشَّيْءِ: معاہدہ کرنا لہ
الشَّيْءِ: ضامن ہونا الحِطْطُ: دھاگے میں

گرہ لگانا البِنَاءُ: معمار کا محراب بنانا البِنَاءُ
بِالْحِصْنِ: عمارت کو چونے سے مضبوط کرنا
الرَّهْرُ: پھول کے اجزا کا جمع ہو کر پھل
بن جانا العَسَلُ و نَحْوَهُ: شہد کا گاڑھا

ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَقْدٌ نَاصِيئَةٌ" یعنی
غُضْبَانُکَ ہوا اور برائی کیلئے تیار ہوا۔ "عَقْدٌ
عُنْقُهُ لِيَهْ" یعنی پناہ لی "عَقْدٌ لَهُ الرِّئَاسَةُ"
فِي قَوْمِهِ" یعنی اس کو اس کی قوم میں
رئیس بنا دیا "عَقْدٌ لَهُ عَلَى الحَيْشِ" یعنی

اس کو لشکر کا سردار بنا دیا۔
عَقْد (س) عَقْدًا: گرہ دار زبان والا ہونا
اللِّسَانُ: زبان کا رکنا۔ صفت عَقْدٌ و
عَقْدٌ.

عَقْدُ البَيْتِ: محراب بنانا البَيْعِينَ: قسم کو
پکا کرنا الحَبْلُ: رستی میں گرہ لگانے میں
مماثل کرنا الکَلَامُ: مبہم کلام کرنا (وَأَعْقَدُ)
الدِّبْسَ و نَحْوَهُ: شیرہ کو جوش دے کر

گاڑھا کرنا۔

عَاقِدَةُ مَعَاقِدَةٍ: معاہدہ کرنا۔

تَعَقَّدُ الدِّبْسَ: شیرہ کا گاڑھا ہونا الرَّمْلُ:

ریت کا تہ بہ تہ ہونا السَّحَابُ: بادل کا

محراب کے مانند ہونا الأَمْرُ: دُشْوَار ہونا

الإِخَاءُ: مضبوط ہونا۔

أَعْقَدُ: گرہ لگانا الأَمْرُ لِفُلَانٍ: خالص ہونا

الدِّبْسَ: شیرہ کا گاڑھا ہونا الرَّهْرُ: پھول

کے اجزا کا جمع ہو کر پھل بن جانا۔

تَعَاقَدُ القَوْمَ: ایک دوسرے کے ساتھ

معاہدہ کرنا۔

أَعْتَقَدُ المَانَ: جمع کرنا الأَمْرُ: تصدیق

کرنا۔ نہایت پختہ یقین رکھنا۔ دین بنانا

الشَّيْءِ: سخت ہونا۔ اور اسی سے ہے

"أَعْتَقَدُ النُّوْيَ" جبکہ گھٹلی سخت ہو جائے

الإِخَاءَ بَيْنَهُمَا: سچی ہونا۔ ثابت ہونا۔

باندھنا الدَّرُّ و نَحْوَهُ: موتی وغیرہ کے ہار

بنانا۔

العَقْدُ: محراب ع اعتقاد و عقود اور اعداد

کے عقود دہائیوں کو کہتے ہیں جیسے دس

بیس ا تیس ا نوے تک۔

العَقْدُ: ہار ع عقود۔

العَقْدُ و العَقْدُ: ریت کا ڈھیر واحد العَقْدَةُ

و العَقْدَةُ.

العَقْدَةُ: گرہ۔ جائیداد۔ شہر کی حکومت۔

حاکموں کی بیعت من کل شیئی: ہر چیز کی

مضبوطی۔ اتنی مقدار جو آدمی کو کافی ہو۔

بہت درختوں والی جگہ۔ جو کسی چیز کو روک

لے اور باندھ لے۔ کہا جاتا ہے "تَحَلَّلْتُ

عُقْدَهُ" یعنی اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

العَاقِدُ: فا۔ ع عقدة کہا جاتا ہے "جاء

عَاقِدًا عُنْقَهُ" تکبر سے گردن موڑتا ہوا

آیا۔

العَاقِدَةُ: مؤنث عاقِدُ ع عاقِد و

عَاقِدَاتُ العَاقِدَاتِ: جاودا گرنیاں۔

العَقْدَةُ: زبان کی جز۔

العَقَادُ: بہت عقد کرنے والا۔ دھاگہ اور

گھنڑی کا بنانے والا اور بیچنے والا۔

العَاقِدَةُ: دھاگہ گھنڑی بنانے کا پیشہ۔

العَقِيدُ: معاہدہ کرنے والا مِنَ الدِّبْسِ:

گاڑھا شیرہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عَقِيدٌ

الکَرْمِ او اللُّوْمِ" یعنی فلاں آدمی طبخا کریم

یا لیم ہے۔

العَقِيدَةُ: جس پر پختہ یقین کیا جائے۔

جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا

اعتقاد رکھے۔ ع عقاد۔

الإِعْقَادُ: وہ شخص جس کی زبان میں گرہ

ہو۔ جس میں گرہیں ہوں۔ کتابا بھیرا جس

کی دم مڑی ہوئی ہو۔ مؤنث عَقْدَاءُ ع ع

عَقْدُ: العُقُودُ و العِنَادُ مِنَ العَبِّ و نحوہ کچھا۔

ع عناقید۔

المُعَقَّدُ: گرہ بندھنے کی جگہ۔ جوڑ۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ مِثْلُ مَعْقَدِ الإِزَارِ" یعنی وہ

میرتبہ کے لحاظ سے مجھ سے قریب ہے ع ع

مَعَاقِدُ.

المَعَاقِدُ: وہ منازل جہاں ہار بار لوٹ لوٹ

کر آئیں۔

المِعْقَادُ: بچوں کے گلے میں ڈالنے کے

لیے تعویذ وغیرہ کی لڑی۔

المُعَقَّدُ: فا۔ جاودا گر۔

المُعْتَقَدُ: اعتقاد جس کا انسان اعتقاد

کرتے۔

عَقْرَهُ (ض) عَقْرًا: زخمی کرنا۔ ذبح کرنا۔

عَقْرُ الإِبِلِ: کوٹھیں کا ٹٹا۔ عَقْرُ بَدَنِ: چلنے

سے روک دینا بالصَّنْدِ: شکار کے پیچھے

لگنا۔

عَقْرَتُ (ض) عَقْرًا و عَقْرًا و عَقْرًا و

عَقْرَتُ (س) عَقْرًا و عَقْرًا و عَقْرًا و

عَقْرَتُ المَرَأَةِ او النَاقَةِ: بانجھ ہونا۔

صفت العَاقِرُ.

عَقْرُ (س) عَقْرًا: الأَمْرُ بے نتیجہ ہونا۔

عَقْرُ (س) عَقْرًا: دہشت زدہ ہونا۔ تخیر

ہونا۔ کانپنا۔

عَقْرُ الإِبِلِ: اونٹ کو بہت زخمی کرنا۔

عَاقِرٌ مَعَاقِرَةٌ: الشَّيْءُ: لازم پکڑنا۔ پھٹکی

کرنا الخَمْرُ: شراب پینے میں مداومت کرنا

ہ: گالی دینا۔ برا بھلا کہنا۔ جھو کرنا۔ اونٹ

ذبح کرنے میں فخر کرنا۔

أَعْقَرَهُ: دہشت زدہ کرنا۔ أَعْقَرَ اللّٰهَ

المَرَأَةَ: عورت کو بانجھ کر دینا۔

تَعَقَّرَ النَّبَاتُ: نباتات کا لیا ہونا شخم

النَّاقَةَ: چربی کا گٹھا ہوا ہونا الرَّجُلُ: جائیداد

زیادہ ہونا العیش: لگاتار بارش ہونا (واعققر وانعقر) ظہر الذابۃ من الریحل او السروج: کپاہ یا زین سے جانور کی پیٹھ کا زخمی ہونا۔ انعقروت قوائم البعیر: کونچیں کٹ جانا۔ تعافر الراعیان: اونٹ کے ذبح کرنے میں مقابلہ کرنا۔

العقر: گھر کا درمیانی حصہ۔ محلہ۔ قوم۔ بلند عمارت۔ اترنے کی جگہ۔ دو چیزوں کے درمیان کشادگی۔

العقر: عورت کا مہر۔ قوم کے اترنے کی جگہ۔ حوض کا پچھلا حصہ۔ گھر کا درمیانی حصہ۔ گھر میں عمدہ جگہ۔ بہترین گھاس۔ قسیدے کا بہتر شعر۔ محل۔ ج اعقار۔ بیضۃ العقر: مرغی کا پہلا انڈا۔ العقر: بانجھ (والعقر) بوی آگ۔

العقرۃ والعقرۃ والعقارۃ: باندھ پن۔ العقراء: مؤنث الاغفار۔ اونچا ٹیلہ۔ العقار: گھر کا سامان۔ جائیداد ہر غیر منقول چیز۔ سرخ رنگ ج عقارات۔ العقار: گھر کا سامان۔ عمدہ مال۔ بہترین گھاس۔ شراب۔

العقر والعقرۃ والمعقر: جانوروں کو تھکا کر زخمی کرنے والا۔ امرأۃ عقرۃ: رحم کی بیماری والی عورت۔

العقار: بہت زخمی کرنے والا۔ درخت۔ جزی بوٹی سے علاج کرنے والا۔ دوا۔ ج عقاقیر۔

العقیبر: سینہ ماخذ۔ درخت۔ العقور: کات کھانے والا جانور ج عقر۔ العقرۃ والعاقور والمعقر والمعقار والمعقر: من السروج: پیٹھ کو زخمی کرنے والی زین۔

العقیبر: زخمی۔ دہشت زدہ ج عقری زحل عقیبر: بے اولاد مرد۔ العقیبرۃ: زخمی شکار۔ کٹی ہوئی پنڈلی۔ گانے والے یا رونے والے یا پڑھنے والے

کی آواز۔ کہا جاتا ہے ”رَفَعَ عَقِیرَتَهُ“ آواز بلند کی نخلۃ عقیبرۃ کئے ہوئے سر کا درخت خرم۔

العاقِر: بانجھ عورت ج عقر و عواقِر۔ زحل عاقِر: بے اولاد مرد ج عقر۔

الأعقر: اونٹ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔ مؤنث عقراء ج عقر۔ العقری: جائیداد۔

المعقر: بہت جائیداد والا۔ أرض معقرۃ: بہت پھووس والی زمین۔ العقر: بچھو۔ زیادہ دونوں پر اطلاق

ہوتا ہے اور غالب تانیث ہے۔ أم عریط او أم ساهرة کنیت ہے اور کہا جاتا ہے کہ زکو عمریان کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مادہ کو عقریۃ کہتے ہیں۔ ج عقارب۔ العقر: آسمان کے ایک برج کا نام۔

العقارب: سختیاں۔ چغلیاں۔ کہا جاتا ہے ذبث عقاربہ۔ وذبث منه | عقارب السعایۃ وأنه لئذب عقاربہ“ یعنی وہ لوگوں کی بے آبروی کرتا ہے۔ عیش ذو عقارب: سختی و تنگی کی زندگی۔ عقارب الشتاء: ٹھنڈک کی سختی۔ عقرُب الساعۃ: گھڑی کی سوئی۔

العقرباء: مادہ بچھو۔ أرض معقرۃ: بہت پھووس والی زمین۔

المعقر: موڑا ہوا۔ ٹیڑھا۔ گٹھا ہوا مضبوط جسم۔ کامل مددگار۔

العقرطل والعقرطیل: مادہ ہاتھی۔ ہتھی۔ عقرش (ن) عقرشا۔ العود: لکڑی کو موڑنا المال۔ جمع کرنا۔

عقص (ض) عقصا۔ الشعر: بالوں کی چوٹی بنانا یا گوندھنا المرأۃ شعرها: عورت کا جوڑا باندھنا۔

عقص (س) عقصا۔ النیس: مینڈھے کا بچھے مڑے ہوئے سینگوں والا ہونا الریحل: نخیل ہونا۔ بدخلق ہونا۔ مڑی ہوئی انگلی والا ہونا۔

العقص: نخیل۔ بدخلق۔ جمع شدہ ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

العقصة: من القرون وغیرہ: سیگ وغیرہ کی گرہ ج عقص۔

العقصة: چوٹی ج عقص و عقصا۔

العقصة: چوٹی ج عقائص و عقصا۔

العقاص: موبان ج عقص۔

الأعقص: وہ شخص جس کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوں۔ جس کے دو انگلے دانت اندر کو گھے ہوئے ہوں۔ نخیل من التیوس

میںڈھا جس کے سیگ بچھے کو مڑے ہوئے ہوں۔ مؤنث عقصاء ج عقص۔

المعقص: ٹیڑھا تیر۔ ج معاقص۔

المعقاص: مڑے ہوئے سیگ کی بھیڑ بکری۔

عقق عققۃ الطائر بصوتہ: گھڑی کرنا۔

العقق: کونے کی شکل کا ایک پرندہ۔ کوا۔ عوام اسے قفق کہتے ہیں اور عرب اس سے بدقالی لیا کرتے تھے۔

عقف (ض) عقفا و عقف العود و نحوہ: فتنعقف وانعقف: کنارے سے موڑنا اور ٹیڑھا کرنا۔ پس مڑ جانا اور ٹیڑھا ہو جانا۔ صفت اعقف و معقوف۔

العقفاء: مؤنث اعقف۔ لکڑی یا لوہا جس کے کنارے پر کچی ہو مڑے ہوئے سیگ کی بکری ج عقف (والعقیفاء) ایک گھاس ہے جس سے بکریاں مر جاتی ہیں۔

العقوف: من صرّوع البقر: گائے کا تھن کہ دوپتے وقت دودھ سیدھا نہ نکلے۔

العقاف: بکریوں کا ایک مرض جس سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ایسی بکری کو عاقف کہتے ہیں اور اس کی جمع عواقف ہے۔

العقافہ: لکڑی جس کے ایک طرف کچی ہو شوکوۃ عقیفہ۔ مڑا ہوا کانا۔

المعقوف: مڑا ہوا۔ وہ جانور جس کو

عَقْفَ کی بیماری ہو۔ شیخ معقوف: خیدہ کر بڑھا۔

عَقْل (ن ض) عَقْلًا. الدَّوَاءُ بَطْنُهُ: دواء کا قبض کر دینا البعیر: ٹانگ ران ملا کر رسی سے باندھنا المَرأةُ شَعْرُهَا: بالوں میں کٹھا کرنا القَتیل: مقتول کی دیت ادا کرنا عَنْ فُلَانٍ: کسی کی جانب سے تاوان یا دیت ادا کرنا لَهْ دَمُ فُلَانٍ: دیت پر راضی ہو جانا اور قصاص کو چھوڑ دینا۔

عَقْل (ض) عَقْلًا و مَعْقُولًا العَلام: لڑکا کا سمجھدار ہونا۔ دانا ہونا فُلَانٌ بَعْدَ الصَّبَا غُلطی کو بچان لینا (عَقْلًا الشَّيْءُ: سمجھنا۔ تدبیر کرنا۔ صفت عاقل۔ ج عاقِلُونَ و عَقْلَاءٌ و عَقَالٌ. صفت مؤنث عاقِلَةٌ ج عاقِلاتٌ و عواقل۔

عَقْل (ض) عَقْلًا و عَقُولًا المَصْرَاعُ خَصْمَةٌ: ٹانگ میں ٹانگ چسنا کر گرانا الوَعْلُ: بلند پہاڑ پر چڑھ جانا اور محفوظ ہو جانا۔ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔

عَقْل (س) عَقْلًا البَعِيرُ: اونٹ کا ٹیڑھی ٹانگوں والا ہونا۔ صفت اَعْقَلُ مؤنث عَقْلًا ج عَقْلٌ۔

عَقْلُ العَلام: لڑکے کا عقل مند ہونا۔ العَلام: لڑکے کو عقل مند بنانا البَعِيرُ: اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر باندھنا الرَّجُلُ عَنْ حاجتہ: روک دینا۔

عاقِلَه مَعاقِلَةٌ: سمجھ بوجھ میں مقابلہ کرنا۔ اَعْقَلَه عقل مند پانا۔ اَعْقَلَ الرَّجُلُ سال کی زکوٰۃ واجب ہونا۔

تَعَقَّلُ العَلام: لڑکے کا سمجھ دار ہونا۔ جَعَلَتْ عقل مند بنا۔ تَعَقَّلَتْ: منع کرنا۔

روکتا تَعَقَّلُ الرَّجُلُ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا الرَّجُلُ أو السَّرَجُ: کجاہہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا۔

تَعاقَلٌ: جَعَلَتْ عَقْلًا بِنَا: تَعاقَلُوا دَم القَتِيلِ: دیت کے ادا کرنے میں شریک ہونا۔

اَعْتَقَلَ الرُّوحُ: نیزہ کو رکاب اور پٹلی کے درمیان رکھنا البَعِيرُ: اونٹ کی ٹانگ ران ملا کر باندھنا الرَّجُلُ أو السَّرَجُ: کجاہہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا مِنْ دَم فُلَانٍ: دیت لینا الدَّوَاءُ بَطْنُهُ: دوا کا قبض کرنا۔ الرَّجُلُ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔ اَعْتَقَلَهُ: روکتا۔ ٹانگ میں ٹانگ لگا کر بچھاڑنا الشَّاةُ: بکری کی ٹانگ کو اپنی ران اور پٹلی کے درمیان دبا کر دوہنا۔

اَعْتَقَلَ: لِسَانُهُ: زبان بند ہو جانا۔ العَقْلُ: روحانی نور جس سے غیر محسوس چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ دل۔ دیت ج عَقُولٌ۔

العَقْلِيُّ: عقل کی طرف نسبت۔ جس میں حس باطنی کو دخل نہ ہو۔ العَقْلَةُ: زبان کی روک۔

العَقْلَةُ: جس سے باندھا جائے ج عَقْلُ العَقَالِ: رسی جس سے اونٹ کے زانو کو باندھا جائے۔ سر پر باندھنے کی رسی۔

العَقَالُ: اونٹ یا بکری کی ایک سال کی زکوٰۃ۔ کہا جاتا ہے "أَدَيْتُ عَقَالَ سَنَةٍ" یعنی ایک سال کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی۔

عَقَالُ المَينِ: وہ شریف جو قید کیا جائے تو دو سو اونٹوں کا فدیہ ادا کرے۔

العاقِلُ: قال۔ سمجھدار ج عَقْلَاءٌ و عاقِلُونَ و عَقَالٌ اور عورت کو بھی عاقل کہا جاتا ہے العاقِلُ پہاڑی بکرا دیت ادا کرنے والا۔ ج عاقِلَه۔

العاقِلَةُ: مؤنث عاقل۔ سمجھنے کی قوت۔ عاقِلَةُ الرَّجُلِ: باپ کی طرف کے رشتہ دار۔

العَقُولُ: سمجھ دار۔ قابلِ دوا۔ العَقِيلُ: معقول۔

العاقُولُ: دریا کا بڑا حصہ۔ موج۔ وادی یا نہر کا موڑ۔ بے نشان زمین۔ مبہم اُمور۔ ج عواقِبِلُ۔

العَقَالُ: جانوروں کی ٹانگ کی بیماری۔

العَقِيلَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: شریف پردہ نشین عورت مِنَ الإِبِلِ: عمدہ قسم کے اونٹ مِنَ القَوْمِ: سردار مِنَ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ عَقِيلَةُ البحرِ: موتی ج عَقَائِلُ. المَعْقَلُ: جائے پناہ۔ اونٹ باندھنے کی جگہ۔ بلند پہاڑ ج مَعاقِلُ۔

المَعْقَلَةُ: خون بہا۔ تاوان۔ کہا جاتا ہے "صَارَ دَمُهُ مَعْقَلَةً عَلَي قَوْمِهِ" یعنی اس کا خون تاوان ہو گیا جس کو وہ ہر سال ادا کرتے ہیں۔ ج مَعاقِلُ۔

المَعْقُولُ: سمجھا ہوا عقل ج معقولات۔ علم المَعْقُولَاتِ: وہ علم جس میں عقل چیزوں سے بحث کی جائے۔

عُقِمَتْ (ن) عَقْمًا و عَقْمًا و عَقِمْتُ (ك) عَقْمًا و عَقِمْتُ (س) عَقْمًا و عَقِمْتُ عَقْمًا و عَقْمًا۔

المَرأةُ أو الرَّحْمُ: بانجھ ہونا۔ صفت عَقِيمٌ عَقِمْتُ مَفاصِلَهُ: جوڑوں کا خشک ہونا۔

عَقِمَ (س) عَقْمًا: خاموش ہونا۔ عَقِمَ (ض) عَقْمًا وَاَعْقَمَ وَاَعْقَمَ اللّٰهُ المَرأةُ: بانجھ کرنا عَقَمَهُ: خاموش کرنا۔ عَقِمَ الشَّيْءُ: جراثیم کو ہار دینا۔

عاقِمَه مَعاقِمَةٌ: جھگڑا کرنا۔ خصومت کرنا۔ گالی دینا۔

اَعْقَمَ إِلَيْهِ: آنا جانا فِي الأَمْرِ: دخل دینا۔ العقم والعقمَةُ والعقمَةُ: سرخ کپڑا۔ نقش و نگار کی ایک قسم۔

المَرأةُ العَقِيمُ: بانجھ عورت ج عَقَائِمٌ و عَقْمٌ۔ الرَّجُلُ العَقِيمُ: بے اولاد مرد ج عَقْمَاءٌ و عَقَامٌ و عَقْمِي: عقل عقیم۔ عقل جس میں کوئی حیرت نہ ہو۔

حَرَبٌ عَقِيمٌ: سخت لڑائی۔ کہا جاتا ہے "اللّٰدُنْيَا عَقِيمٌ" یعنی دنیا بے برکت ہے۔ حَرَبٌ عَقَامٌ و عَقَامٌ: سخت لڑائی۔ ذاء عَقَامٌ: لاعلاج مرض۔ يَوْمٌ عَقَامٌ: سخت

دولن۔ العقام: بے اولاد۔ بدخلق۔
العقیمۃ: من الأرحام: بائٹھ۔ ج
عقائیم
العقیمی والعقمی من الکلام: پوشیدہ
کلام۔
العقیمی: خاندانی شرافت والا۔
المعقم: بڑیوں کا جوڑ۔ ریڑھ کی ہڈی کے
مہرے ج معاقم۔ معاقم الخیل: گھوڑے
کے جوڑ۔
المعقوم: من الرجال: بے اولاد۔
عقا یعقو عقوا واعتقی اغتقاء: کنواں
کہودتا اور ایک جانب سے موت نکالنا۔ عقا
العلم: سمیڈا بلند ہونا۔ عقا الأمر: مکروہ
جاننا فلانا: روکنا اعتقی الرجل: رکنا۔
عقاہ و عاقاہ: روکنا۔
العقوة: گھر کا گرد گرد۔ میدان۔ حملہ ج
عقاہ۔
عقی یعقی عقیًا: الأمر: مکروہ جاننا
(وعقی) الولد: بچے کو گھسی پلانا۔ عقی
الطائر: اڑنے میں بلند ہونا۔
اغقی اغقاء: کڑوا ہونا الشئی: مکروہ
جاننا۔
العقی: نوزائیدہ بچے کا پانچواں ج اغقاء۔
العقیان: خالص ہونا۔
عک (ن ض) عکاً الیوم: سخت گرمی مع
گھٹن کے ہونا۔ صفت عک و عکیک
عکة الحمی: لگاتار بخار ہونا الرجل: حق
کا ٹال مٹول کرنا عکہ عن حاجتہ: باز
رکھنا ہا بالحنة: مطلوب کرنا ہا بالامر او
بالقول: بار بار بات کہہ کے تھکا دینا ہ
بالسوط: کوڑے سے مارنا ہ بشر: بار بار
کرنا الکلام: وضاحت کرنا۔
عک: گرمی سے جوش مارنا الرجل: سخت
بخار چڑھنا۔
عاکمہ: علیہ ناکل کرنا۔
العکة والعکة والعکة والعکاک و
العکیک: گھٹن کے ساتھ سخت گرمی۔

العکة والعکة: تیز بخار۔ گرم ریت۔
العکة: گھی کا ڈبہ ج عکک و عکاک۔ اور
اس سے بے سمن الصبی حتی صار
کالعکة: بچہ موٹا ہوا یہاں تک کہ مانند
ڈبے کے ہو گیا۔ لیلۃ عکة: سخت گرمی
والی رات۔ یوم عکیک: سخت گرم دن ج
عکاک۔
عکیت (ن) عکونا الیل: اونٹوں کا
بھیڑ کرنا۔
القدر: ہانڈی کا جوش مارنا۔ عکب
الرجل: پھیرنا۔
عکب (س) عکبا موٹے ہونے اور
جزبے والا ہونا۔ بیک کی قریب قریب انگلی
والا ہونا۔ صفت اغکب مؤنث عکباء ج
عکب۔
عکبت النار: دھوئیں والی آگ ہونا۔
تعکبتہ: الہموم: تھکرات اور غموں کا
جھوم کرنا۔
اعتکب الغبار: غبار اٹھنا الغبار: غبار
اڑانا المكان: غبار والا ہونا الیل: کسی جگہ
میں جمع ہونا اور غبار اڑانا۔
العکب والعکوب العاکوب
والعکاب: غبار۔ العکاب: دھواں۔
ہانڈی کی بھاپ۔
العکب: قا۔ بھیڑ۔ انہو ج عکوب۔
الاعکب والعکاب والعکب: عکبوت
بہمتی کڑی کا اسم جمع۔
العکوب: غبار۔ ایک قسم کی خار دار
سبزی کو کچی اور کچی دونوں طرح سے کھائی
جاتی ہے۔
العکبر: ایک چیز جس کو شہد کی مکھی اپنے
بازو وغیرہ پر لگا کر لاتی ہے اور اس کو شہد
کی جگہ میں رکھتی ہے۔
عکبسة مضبوط باندھنا۔
تعکبش: فیہ العض: ٹہنی کے کاٹنے
چھینا۔
عکذ (ض) عکذا و اعکذ الیہ: پناہ

لینا۔ عکذ الأمر فلانا: ممکن ہونا۔
عکذ (س) عکذا: الضب: بجو کا موٹا
ہونا۔ صفت عکذ۔
عکذبه و اعتکذہ: لازم ہونا۔
استعکذ الضب: بجو کا موٹا ہونا۔ الماء:
پانی کا جمع ہونا۔
عکذ الشئی: چیز کا درمیان۔ کہا جاتا ہے
عکذک هذا الأمر یعنی فلاں امر تمہارے
لئے غایت ہے۔
العکذہ: و مغزہ کی ہڈی قوت گوہ کا
سوراخ۔
عکذۃ اللسان: زبان کی جڑ۔
عکر (ن ض) عکرا و عکوزا علیہ:
حملہ کرنا۔ پھرنا۔ مڑنا۔ مائل ہونا۔ کہا جاتا
ہے "عکر علیہ الزمان بخیر" زمانہ اس
پر خیر و برکت کے ساتھ مائل ہوا۔
عکر (س) عکرا: الماء و نحوہ: پانی
کا گدلا ہونا۔ صفت عکر۔
عکر و اعکر الماء: پانی کو گدلا کرنا۔
واعکر اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔
اعکر الرجل: مرد کا دوبارہ حملہ کرنا۔
اعکر: علیہ: حملہ کرنا اللیل: رات کا
سخت تاریک ہونا المطر: سخت بارش ہونا۔
اعکرت الریح: ہوا کا غبار اڑانا (و
تعاکر) القوم فی الحرب: گھمسان کی
جنگ کرنا۔
العکر: تلوار کا مورچہ من کل شئی:
تھمٹ۔
العکر: اصل۔ جڑ۔ کہا جاتا ہے "ذجع
فلان الی عکرہ" یعنی فلاں اپنی اصل کی
طرف لوٹ گیا۔ عادت۔
العکرۃ والمعکر: بھانٹنے کے بعد دوبارہ
حملہ۔
العکرۃ: اونٹوں کا گلہ۔ زبان کی جڑ ج
عکر۔ اختلاط والتباس۔ کہا جاتا ہے "وقعوا
فی عکرۃ" یعنی وہ گڑبوی میں پڑ گئے۔
العکار: بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔

غلام عکرد۔ مونا تازہ لڑکا۔

العکرسۃ۔ خرگوش مادہ۔

عکرم اللیل۔ رات کی تاریکی۔ عکرمۃ

معرفۃ بحالت علم۔ اور العکرمۃ: کبوتری یا

مادہ قمری۔

عکز (ن) عکزا۔ الرّمح: نیزہ گاڑنا

بالشیء: راستہ پالو تعکز علی عکازتہ:

ڈنڈے پر سہارا لینا۔ تعکز قوسہ: کمان کو

سہارا بنانا۔

عکز (س) عکزا۔ سکرنا۔

عکز الرّمح: نیزے میں پھل لگانا۔

العکز: بخیل۔ بدخلق۔

العکاز والعکازۃ: ڈنڈا جس میں نیچے پھل

لگا ہوا ہو ج عکاکیز و عکازات۔

العکازیل۔ شیر کا بچہ۔

عکس (ض) عکسا الکلام و نحوہ:

کلام کو الٹ دینا۔ الشئی: آخر کو اول کی

طرف کر دینا۔ زمین کی طرف جھکا دے کر

کھینچنا اور پک دینا۔ البعیر: اونٹ کو تکمیل لگا

کر رتی کو ناگ سے باندھ دینا۔ أس البعیر:

اونٹ کے سر کو موڑنا۔ عن الامر: پھیر

دینا۔ ہٹا دینا علی فلان امرہ: کسی کے معاملہ

کو اسی پر لوٹا دینا الطعام: کھانے میں دودھ ملا

ہوا شور باڈانا۔

عکس (س) عکسا۔ تنگ خو ہونا۔

عاکس معاکسۃ و عکاسا الکلام:

کلام کو پلٹ دینا: ایک دوسرے کی پیشانی کو

پکڑنا اور عوام کے اشتعال میں بھتی مخالفت

کرنا۔

تعکس فی مشیتہ: ریبک کر چلنا۔

تعاکس واعتکس وانعکس۔ پلٹ

جانا۔ اعتکس: دودھ ملا ہوا شور بانانا۔

عکاس البعیر: تکمیل کی رتی جو اونٹ کے

زالو میں باندھ دیتے ہیں۔

عکس القصبۃ: دوسرا قصبہ معکوسہ

العکس: علم ہیئت میں نقات کو معکوس کرنا۔

الانعکاس: شعاع صوتی کو الٹ کر جیسے آئینہ

کے منہ کو الٹ کرنا اور ساکن پانی کی سطح کو۔

المعکوس: علم حساب میں عدد کو مقلوب

کرنا۔

العکاس: زکریٰ۔

العکیس: دودھ جو شوربے میں ملایا جاتا

ہے۔ رسی جس سے اونٹ کو روکتے ہیں۔

درخت کی شاخ جس کو زمین کے نیچے دبا دیتے

ہیں کہ اس سے دوسرا درخت نکلتا ہے۔

العکیسۃ: بہت سے اونٹ۔ تاریک رات۔

عکش (س) عکشا الشیء: بالوں کا

پیچیدہ اور تہ تہ ہونا النسب: نباتات کا بہت

ہونا اور گنجان ہونا۔

عکش (ض) عکشا الشیء: جمع کرنا۔

صفت عکش: صفت مفعولی معکوش

الرجل: مضبوط باندھنا علیہ: حملہ کرنا۔

تعکش الامر: دشوار ہونا الشیء: سکرنا

الشیء: بالوں کا پیچیدہ اور تہ تہ ہونا۔

العکش: من الشیء: پیچیدہ اور تہ تہ ہونا۔

بیکار و فضول آدمی۔ شجرۃ عکسۃ: بہت

زیادہ شاخ دار گنجان درخت۔

العکاش والعکاش: والعکاشۃ

والعکاشۃ: کڑی یا کڑی کا جالا۔

عکصہ (س) عکصا عن حاجتہ: ہٹانا۔

پھیر دینا۔

عکص (س) عکصا بدخو ہونا۔ صفت

عکص عکصت الذابۃ: سرکشی کرنا۔

تعکص بکدا علیہ: بخل کرنا۔

رملۃ عکصۃ: دشوار گزار تودہ ریت۔

عکظہ (ض) عکظا۔ مغلوب کرنا۔ فخر کو

رد کر دینا۔ روکنا الشیء: رگڑنا الودیم:

چڑے کو دباغت کیلئے رگڑنا۔ عکظ بالشیء:

فخر کرنا۔ عکظۃ و عکظۃ عن حاجتہ:

ہٹانا۔ پھیر دینا۔

عاکظۃ معاکظۃ: ٹال دینا۔

تعکظۃ: علیہ الامر: دشوار ہونا القوم:

اجتماع کرنا۔ بھڑ کرنا۔

تعاکظۃ القوم: مقابلہ کرنا۔ آپس میں فخر

کرنا۔ جھگڑا کرنا۔

العکظ والعکیظ۔ چھوٹے قد والا۔

عکاظ: عرب کے ایک بازار کا نام تھا جس

میں عرب کے قبائل جمع ہوا کرتے اور بیع و

فروخت کرتے تھے اور مفاخرت کے اشعار

پڑھا کرتے تھے (مذکورہ منٹ ہے)

عکفۃ (ن ض) عکفا عن الامر: منع

کرنا ہ علی الامر: کسی چیز پر روک رکھنا۔

(عکفا و عکفوا) القوم حولۃ و بہ:

گردا گرد چکر لگانا۔ عکف علی الامر: ہمیشہ

لازم رہنا (واعتكف و تعکف) فی

المکان: بند رہنا۔

عکف الجوہر: تہ تہ رکھنا الشیء: بالوں

کو گھنگریالا کرنا ہ عن کذا: روکنا۔ منع کرنا۔

عاکفۃ معاکفۃ: لازم رہنا۔

العکف من الشیء: گھنگریا لے بال۔

العاکف: فامقیم۔ عاکفون و عکف

و عکوف شیء معکوف: نکلی چوٹی کے

ہوئے بال۔

المعکف: بن۔ مڑا ہوا۔ مڑھا۔

عکل (ن ض) عکلا الشیء: بکھرنے

کے بعد اٹھا کرنا المتاع: سامان تہ تہ رکھنا۔

الرجل: پچھاڑنا البعیر: اونٹ کو رتی سے

بازو اور پاؤں ملا کر باندھنا۔ عکل فی الامر:

کوشش کرنا فلان: مرنا (واعکل

واعتکل) علیہ: مشکل و مشتبہ ہونا۔

اعتکل الرجل: جدا ہونا۔ النوران: بیلیوں

کا سینکوں سے لڑنا۔

العکل والعکل: لیم۔ کمینہ ج اعکال۔

العاکل: فامخیل۔ چھوٹے قد والا ج

عکل۔

العکال: اونٹ کے زانو باندھنے کی رسی۔

المعکل: چرواہے کی سوئی جس کو وہ درخت

سے بنا لیتا ہے۔ ج معاکل۔

عکم (ض) عکما المتاع: سامان کی

گھڑی باندھنا علیہ: حملہ کرنا الرجل: انتظار

کرنا عن الامر: پیچھے ہٹنا ہ عن زیارتہ: ہٹانا

البعير أوت پر باندھنا لِإَرْضٍ كَذَا قصد کرتا۔
عُكْمٌ عَنْهُ پٹایا جانا۔
عُكْمَتٌ الْإِبِلُ وَنَوْنٌ کاموٹا ہونا۔
أَعْكَمَةُ باندھنے میں مدد دینا۔ بندھوانا۔
عَاكِمَةٌ مَعَاكِمَةٌ عَلِيٌّ فَلَانٌ ذُو كِرَابٍ۔
إِعْتَكَمَ الشَّيْءُ بِرِجْلَيْهِ لَانًا۔
العُكْمُ اعكام و عكوم۔ لعكاج عِكْمٌ عُمْرِي۔
العُكْمُ بوري۔ بڈل۔ گھم۔ کونسیں کی چرئی۔ عورتوں کے سامان رکھنے کا بیگ۔ کہا جاتا ہے "مَالَةٌ عُكْمٌ عَنْ كَذَا" یعنی اس کے لئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔
المعكَمُ بگوشہ۔
تَعَكَّنَ الْبَطْنُ مَوْتَايَةَ كِي وَجْهٍ سَلُوتٍ پڑنا۔
العُكْنَةُ پھپھ کی سلوت۔ ج عُكْنٌ و اَعْكَانٌ و دِرْعٌ ذَاتُ عُكْنٍ وَسِعٌ وَكَشَادَةٌ زرد۔
العُكْنَانُ گلا۔
العُكْنَاءُ مِنَ التَّوْبِقِ اَوْ الشَّاءِ مَوْتَايَةَ تَهْنِ وَالِي اَوْ نَهْيًا يَأْكُرِي۔
العُكْنَانُ بہت اُونٹ۔ بہت شتر مرغ۔
عُكَا يَعْكُو عُكْوًا ذَنْبُ الدَّائِبَةِ قَانُورِي دَمٌ كُو اس كِي چر كِي طرف موڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ مَعْكُوٌّ" یعنی دَم مڑا ہوا گھوڑا ہے فہی الحدید: قید کرنا اور باندھنا۔ عَكَّتِ الْإِبِلُ مَوْتَايَةَ ہونا۔ عَكَا الضَّبُّ بِذَنْبِهِ گوہ کا اپنی دم کو موڑنا۔ الدُّحَانُ دھوئیں کا اوپر چڑھنا عَلِيٌّ قَوْمٌ مَهْلِكٌ ہونا بِلَا زَارِہِ اِزَارِ باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔
العُكْوَةُ وَالْعُكْوَةُ قَانُورِي دَمٌ كِي چر۔ زبان كِي چر۔ اِزَارِ بِنْدِي كِي موٹی گروہ۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ ہر چیز كِي موٹائی۔ العكوه ہنگلا۔ ج عُكَا و عكاء۔
العُكِيُّ مِنَ الْبَانِ الصَّانِ اِيكٍ دُوسَرِي پَر

دودھ دوہا ہوا اور جما ہوا۔

الْأَعْكِيُّ سخت دم کی جزوالا۔ موٹی پیشانی والا۔ موٹ غکوا۔

عُكِي يَعْكِي عُكِيًا و عُكِيٌّ وَاغْكِي مَرْنَا۔

عُكِي بِلَا زَارِہِ اِزَارِ بِنْدِي مَعْنِي كِي جگہ كو سخت کرنا بِالْمَكْمَانِ اِتْقَامَتٌ كَرْنَا۔ صفت

عَالِيَجٌ عُكَاةٌ اَعْكَاةٌ مَضْبُوطٌ بَانْدھنا۔

عُكِي الدُّحَانُ دھوئیں کا اوپر چڑھنا۔

عُلَانٌ (ض) عَلَاٌ وَّ عَلَاٌ وَّ تَعَلَّوْا وَسِرِي مَرْتَبَةٌ پِينَا ہُو دُوسَرِي مَرْتَبَةٌ پِلَانَا ہُو ضَرْبًا لَگاتا مارتا۔

عُلٌ عَلْتٌ مَرِيضٌ ہونا۔

عَلْتَةٌ بَار بَار پِلَانَا ہُو بَکْذَا مَبْشُولٌ كَرْنَا۔

كھیل کود میں ڈالنا۔ عَلَلْتُ الشَّيْءَ عَلْتٌ بِيَانٌ كَرْنَا۔ دلیل سے ثابت کرنا الْكَلِمَةُ كَلِمَةٌ كِي

تَعْلِيلٌ كِي وَجْہِ بِيَانٌ كَرْنَا۔ تَعْلِيلٌ كَرْنَا الشَّمْرَةُ بَار بَار پھل توڑنا۔ الْمَالُ بَہْتَرِيْنِ اِتْقَامٌ كَرْنَا

فَعَلَجٌ كَرْنَا۔

أَعَلَّ الرَّجُلُ كَهَوْنٌ كَهَوْنٌ پِلَانَا ہُو اللُّدُّ بِيَارٌ كَرْنَا الْكَلِمَةَ تَعْلِيلٌ كَرْنَا۔

تَعَلَّلْتُ حِجَّتَ ظَاہِرٌ كَرْنَا بَکْذَا مَبْشُولٌ رَہْنَا۔

تَعَلَّلْتُ و تَعَالَتْ الْمَرْأَةُ مِنَ نَفْسِهَا: نَفَاسٌ سَے پَاک ہو جانا۔ تَعَالَلَ الصَّبِيُّ تُذِي

أَمْبَهُ بَچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ مَرِيضٌ ہونا بِالْأَمْرِ مَبْشُولٌ رَہْنَا۔

عُذْرٌ بِيَانٌ كَرْنَا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيحُ زَمٌ ہونا ہُو بَرْتَانٌ لَگانا۔ اِعْتَلَّتِ الْكَلِمَةُ جَرَفٌ عَلْتٌ

وَالَا ہونا الرَّجُلُ دُوسَرِي مَرْتَبَةٌ پِينَا عَنْہُ اس كِي وَجْہِ سے بِيَارٌ پڑنا۔

الْعَلُّ مَوْتَايَةَ بَرَا بَرَا۔ بُزِي عَمْرًا لَاغَر۔ بِيَارِي سے سکرے ہوئے چڑے والا بے خیر و

بَرَكْتُ جِ اَعْلَالٌ۔

العَلَّةُ بَہْلَاوہ۔ سو کُن جِ عَلَاتٌ كَہَا جاتا ہے ہُو عِلَاتٌ یعنی اِيكٍ مَرْدِ سے چن دناؤں

كے بیٹے اور اس كے كَس كُو اُولَا وَاِخِيَا فِ كَہْتِي ہوں۔

عَلٌّ لِعَلِّسٍ اِيكٍ لَعْتٌ ہے۔

العَلَّةُ بِيَارِي۔ مَبْشُولٌ كُو دِينِے وَالَا وَاقَع۔ اور اسی سے ہے "لَا يَعْدُمُ مَانِعٌ عِلَّةً اِسْ

مُفْضَلٌ كے لئے مِثَالٌ بِيَانٌ كِي جَاتِي ہے جو عِذْرٌ كَرْتَا ہے اور اِسے بَانِي اَلِيَدِ كے بَچَانِے كَہْتِيے مَع كَر دِيْتَا ہے عِلَّةُ الشَّيْءِ سَبَبٌ جِ عِلَاتٌ و

عِلَلٌ جِ اَعْلَالٌ عِلَاتٌ خَالَاتٌ۔ مُخْتَفٌ اِحْوَالٌ۔ كَہَا جاتا ہے "جَرِيٌّ عَلِيٌّ عِلَاتِيہُ"

یعنی ہر حال میں۔ یا باوجود مُخْتَفِ اِحْوَالِ كے قَبُولٌ كِيَا كِيَا۔ وَالْعِلَّةُ فِي الْعُرْوِضِ وَہُو تَعْبِيرٌ

جو اشعار كے عُرُوضِ وَضَرْبِ مِثَالِ لَازِمِي طُورِ پَر لَاحِظٌ ہُو۔ سَوَائے نَادِرِ صُورَتُوں كے حُرُوفِ الْعِلْمِ تَلْفِ اَدْوَابِ۔

العِلَلُ دُوسَرِي مَرْتَبَةٌ پِينَا۔ كَہَا جاتا ہے عِلٌّ بَعْدُ نَهْلِ مَرْتَبَةٌ پِينِے كے بَعْدِ دُوسَرِي مَرْتَبَةٌ پِينَا۔

العِلَالَةُ وَالتَّعَلَّةُ بَہْلَاوہ۔ الْعِلَالَةُ پِہْلِي مَرْتَبَةٌ دُودھ دُونِے كِي مَہْلَتِ كے بَعْدِ دُودھَا ہوا

دُودھ۔ بَقِيہ دُودھَا نِيَزِہِ بَاذِي كے بَعْدِ نِيَزِہِ بَاذِي اَدُوڑِ كے بَعْدِ دُودھ۔

العَلِيلُ مَرِيضٌ جِ اَعْلَاءُ۔

المُعَلُّ وَالمُعْلُولُ مَرِيضٌ۔

العَلِيلَةُ مَوْتَايَةَ عِلَالِيَّةٌ مَوْتَايَةَ جُو بَار بَار خُوشبو لَگائے۔ جِ عِلَالِيَّاتٌ وَ عِلَالِيَّةٌ

اَلْيَعْلُولُ سَفِيذٌ حُوضٌ۔ پَانِي كَا بَلْبَلَا۔ سَفِيذٌ بَادِلٌ تہ بَتہ بَادِلٌ۔ بَارَشِ كے بَعْدِ بَارَشِ۔

كُو بَاہِنِے وَالَا اُونٹ۔ جِ يَعَالِيْلٌ يَارَانْدِہ ہے۔

عَلْبَنٌ (عَلْبَنٌ) عَلْبَانٌ وَ عَلْبُ الشَّيْءِ كَانَانٌ۔

نِشَانٌ لَگانا۔ خَرَاشٌ لَگانا۔

عَلْبَنٌ (عَلْبَنٌ) عَلْبَانٌ وَ عَلْبُ الشَّيْءِ كَانَانٌ۔

سخت ہونا۔ صفت عَلْبٌ۔

عَلْبٌ وَ عَلْبٌ وَ اسْتَعْلَبَ اللّٰحْمُ بَحْتٌ ہونے كے بَعْدِ بُو كَا بَدَلٌ جانا۔ عَلِبَ السَّيْفُ: دِنْدَانِدِہ دَار ہونا۔

العَلْبُ مَار كَا نِشَانٌ (وَالْعَلْبُ وَالْعَلْبُ) سخت زمين جس میں كچھ نہ اگے۔ سخت چيز جِ

عَلُوبٌ كَہَا جاتا ہے "رُجُلٌ عَلِبٌ" سخت

انہوں نے اسے کچھ نہیں کھلایا۔ العلس والعلاص والعلوس خوراک کھانا۔ العلس گیہوں کی ایک قسم۔ مسور۔ ایک قسم کی چوٹی۔ پیچڑی۔ المعلس تجربہ کیا ہوا۔ العلوش گیدڑ۔ بھیڑیا۔ عَلَصَتِ التَّخْمَةَ فِي مَعْدَتِهِ۔ بدہضمی کی وجہ سے معدہ میں درد ہوتا۔ عَالِصَهُ عِلَاصًا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔ اِعْتَلَصَ مِنْهُ شَيْئًا۔ تھوڑا سا لینا۔ العُلَصَةُ۔ تھوڑا سا۔ العُلُوصُ۔ بدہضمی اور یہ لفظ صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ عُلُوصٌ" بدہضمی والا مرد۔ عَلَصَةُ (ض) عَلَصًا۔ الوتد و نحوہ: کھونٹ کو اکھڑنے کے لئے ہلانا۔ عَلَطَ (ن) (ض) عَلَطًا و عَلَطَ النَّاقَةَ: اُونٹنی پر داغ لگانے بشرط: بدگوئی کرنا عَلَطَ الْبَعِيرَ: اُونٹ کی گردن سے پٹہ کو نکال دینا۔ تَعَلَطَ الْقَوْمُ: تانت چڑھانا۔ اِعْتَلَطَ الرَّجُلُ وَبِهِ جِحْرًا۔ اِعْلُوطَ الْبَعِيرَ: اُونٹ کی گردن سے لٹک کر سوار ہونا لامر: بلا سوچے سمجھے داخل ہونا۔ العُلُطُ مِنَ التُّوقِ: بے نشان و بے مہار اُونٹنی عَلَطَاطُ۔ اِعْلَاطُ الْكُوكَبِ: بے نام کے ستارے۔ العُلْطَةُ: گردن کا پٹہ۔ مَعْلَطُ العلاط: گردن کا پہلو۔ آفتاب کی شعاع۔ لِرَأْيِي وَجِحْرًا۔ اُونٹ کی گردن کی ریشمی ج اِعْلَطَةُ و عَلُطُ (والاعلیط) اُونٹ کی گردن کا نشان۔ عَلْفٌ (ض) عَلْفًا و عَلْفٌ وَاغْلَفُ الدَّابَّةِ: جانور کو چارہ دینا۔ عَلْفُ الرَّجُلِ: بہت پینا۔ اِعْلَفُ و عْلَفُ الطَّلْحِ: پھلی نکلتا۔ تَعْلَفُ: چارہ ڈھونڈنا۔	سینہ میں موج مارنے لگلا لومل: ریت کا جمع ہونا۔ اِسْتَعْلَجَ جِلْدَةً كَهَلًا كَامُونًا۔ فَلَانٌ: داڑھی نکلتا۔ العلاج: گدھا۔ جنگلی گدھا۔ گورنر۔ موٹا قوی عجمی کافر۔ اور بعض مطلقاً کافر پر اطلاق کرتے ہیں۔ مَعْلُوجٌ وَاِعْلَاجٌ وِعَلْجَةٌ: رَجُلٌ عَلَجٌ وِعَلَجٌ وِعَلَجٌ وِعَلَجٌ: مضبوط کاموں کا کرنے والا مرد۔ العلاج: دوا۔ مشق۔ دفاع۔ العلاج: چھوٹے چھوٹے بھجور کے درخت۔ العُلُوجُ: پیغام۔ پیغام۔ العُلُوجَانُ: کائے دار درخت۔ العَلْجِمُ: لہا اُونٹ یا گدھا۔ بہت پانی کا تالاب۔ العُلْجُمُ وَاَلْعُجُومُ: بہت سیاہ۔ العُلُجُومُ: بہت بھجوروں والا باغ۔ سمندر کی موج۔ رات کی تاریکی۔ زمینڈک۔ مینڈھا۔ پہاڑی بکرا۔ بوزھاتیل۔ ایک سفید پرندہ۔ نر نٹ۔ نر شتر مرغ۔ بہت پانی۔ جھاڑی۔ لوگوں کی جماعت۔ مَحْلَاجِمُ: عَلَدٌ عَلْدًا: سخت و مضبوط ہونا۔ صفت علد العلد: گردن کا پٹھا۔ مَعْلَاجِدُ: العَلْنَدِيُّ وَاَلْعَلْنَدِيُّ مِنَ كُلِّ شَيْئٍ: سخت و موٹا مَحْلَانِدُ وِعْلَادِي: العَلْنَدُ: مِنْ كُلِّ شَيْئٍ: سخت و موٹا۔ العَلْنَدَسُ: بہت سخت۔ العَلْنَدَسَةُ: موٹ العَلْدَمِيُّ: پیڑ۔ بندہ شکم۔ عَلِزٌ (س) كَحْلِزٍ وَاَعْلَزَانَا: بے چین ہونا۔ صَفْحَلِزٌ: عِزًّا إِلَى الشَّيْءِ: مائل ہونا۔ مَشَاقٌ وَهَوْنٌ كَمَا: یہ تکلف مریض بننا۔ اَعْلَزُهُ: عاجز کرنا الوَجْعُ: بے چین کر دینا۔ عَلَسَ (ض) عَلَسًا الْمَاءَ: پینا لابل اُونٹ کا کھانے کے لئے کچھ نہ پانا۔ عَلَسَ الدَّاءُ: مرض کا سخت ہونا الرَّجُلِ شور پچانا۔ کہا جاتا ہے مَا عَلَسُوهُ تَعْلِيسًا	عالم آدمی۔ العَلْبَةُ: چمڑے یا لکڑی کا بڑا برتن مَحْلَابُ وَعَلْبُ: العَلْبَةُ: درخت کی موٹی گره۔ مَحْلَبُ العَلْبَاءُ: گردن کے پہلو کا پٹھا مَحْلَابِيٌّ: کہا جاتا ہے تَبَشَّحَ عَلْبَانُهُ" وہ بوڑھا ہو گیا۔ عَلَّتْ (ض) عَلَّتًا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ کہا جاتا ہے عَلَّتِ الْبُرُ: بالشعير گیہوں کو جو میں ملا بِالرَّيْنُدُ: چھمٹان سے آگ نہ نکلتا۔ عَلَّتْ (س) عَلَّتْنَا الْقَوْمُ: آپس میں سختی سے لڑنا۔ تَعَلَّتْ لَهُ الدُّنُوبُ: جیلہ کرنا۔ مکر کرنا یہ: چمٹلشئی: اچھی طرح نہ بنانا۔ اِعْتَلَّتْ: بغیر انتخاب کے ہوئے لے لینا۔ العلت: گیہوں وغیرہ میں سے جو چیز نکال کر پھینکنے کے قابل ہو اس کو ملا دیا جائے (وَالْعَلْبَةُ) گیہوں جو سے ملا ہوا۔ العَلَانَةُ: دوسری چیز سے ملائی ہوئی چیز ادھر اُدھر سے جمع کرنے والا آدمی۔ اِعْلَاطُ الرَّادِ: جو بغیر انتخاب اور عادت کے کھایا جائے۔ العَلِثُ: جو گیہوں کے روٹی۔ العَلِثُ وَاَلْمُعْتَلِثُ: جو باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہو۔ بے باتیر۔ عَلِجًا (ن) كَحْلِجًا: معالجہ میں غالب آنا۔ عَلِجٌ (س) كَحْلِجًا: مضبوط ہونا۔ عَالِجَةٌ مُعَالِجَةٌ وِعَلَاجًا: مشق کرنا المَرِيضُ: بیمار کا علاج کرنا۔ تَعْلَجُ الرَّمْلُ: ریت کا اکٹھا ہونا۔ تَعْلَجُ: علاج کرنا الْقَوْمُ: آپس میں جنگ کرنا۔ اِعْتَلَجَ الْقَوْمُ: لڑائی کرنا۔ کشتی کرنا۔ اِعْتَلَجَتِ الْوَحْشُ: ایک دوسرے کو مارنا الْأَرْضُ: لمبے لمبے سبزہ والی ہونا لَمْوَاخُ: موجوں کا آپس میں ٹکرانا اور اسی سے ہے اِعْتَلَجَتِ الْهَيْمُودُ فِي صَدْرِهِ: غم اس کے
---	---	--

ہے "لِي فِي هَذَا الْأَمْرِ عِلَاقَةٌ" یعنی مجھ کو اس معاملہ سے تعلق ہے۔

العِلَاقَةُ: ہانڈی وغیرہ لٹکانے کی چیز۔ ج عِلَاقِيٌّ.

العُلُوقُ: مصیبت۔ موت۔ ہر وہ جس کا انسان سے تعلق ہو۔ بہت چمٹنے والا۔ دائی پلائی۔

العُوقُ: بھوت۔ چھلاوہ۔ کتیا۔ بھیریا۔ بھوک۔ ذم۔

العَلِيْقُ: جانوروں کا چارہ جیسے جو وغیرہ۔
العَائِقُ وَالْعَلِيْقِيُّ: ایک قسم کی گھاس جو درخت پر لپٹی ہے اور اس کا پھل توت کے مانند ہوتا ہے۔

التَّعْلِيْقَةُ: کتاب کا حاشیہ۔ ج تعَالِيْقُ.

المُعَلَّقَةُ: موٹ معلق، وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو گیا ہو اور کچھ پتہ نہ چلا۔

المُعَلَّقَاتُ: زمانہ جاہلیت کے سات قصائد ہیں جن کو کعبہ میں آویزاں کیا گیا تھا اسی وجہ سے ان کو تعلقات کہتے ہیں۔

المِعْلَقُ: پیالہ جس کو سوار اپنے ساتھ لٹکانے رہتا ہے۔

المِعْلَاقُ: زبان۔ ہر وہ چیز جس سے لٹکایا جائے۔ ج معَالِيْقُ وَرَجُلٌ مِعْلَاقٌ: جھڑالو۔

عوام کے نزدیک (مِعْلَاقٌ) کا اطلاق ذبیحہ کے پھیرے یا جگر ا دل پر ہوتا ہے اور نصح (مَسْحَرَةٌ) ہے۔

عَلَقَمَ الشَّيْءُ: کڑوا ہونا الطَّعَامُ: کھانے میں کڑوی چیز ڈالنا۔

العَلَقَمُ: اندرائن۔ خظل۔ ہر کڑوی چیز۔

عَلَكْتُ (نَض) عَلَاكًا: العِلْكُ وَنَحْوُهُ: چپنا نابیہ نوانت پینا۔

عَلَكْتُ الْجِلْدَ: کھال کی اچھی طرح سے دباغت کرنا يَدِيهِ عَلِيٌّ مَالِهِ: بجل کی وجہ سے ہاتھ روک لینا۔

العِلْكُ: ہر گوند جو چپنا جائے۔ ج عَلْوُكُ وَ اَعْلَاكُ: ایک کلوے کو العِلْكَةُ کہتے ہیں۔

کو لگایا جائے اس کو مَعْلُوقٌ کہتے ہیں۔

عَلَقَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ وَعَلِيَهُ وَمِنْهُ: لِيكَانَ الْأَمْرُ: چٹ جانا الباب: دروازہ بند کرنا۔ نَابَا عَلِيٌّ دَارَهُ: دروازہ لگانا۔

عَلَقَهُ: دل کا مائل ہونا۔

أَعْلَقَ الرَّجُلُ: جو تک لگانا القَوْسُ: کمان کو لٹکانے کے لئے علاقہ بنانا الصَّائِدُ: شکاری کے جال میں شکار کا پھنسا ظَفَرُهُ بِالشَّيْءِ: ناخن چھو دینا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: لٹکانا۔

تَعَلَّقَ الشَّيْءُ: لٹکانا الشُّوْكَ بِالْقَوْبِ: کانٹے کا کپڑے سے اُجھنا الصَّيْدُ بِالْحِبَالَةِ: شکار کا جال میں پھنسا (وَاعْتَلَقَ) فَلَانًا وَبِهِ: مُجْتَبِئٌ کرنا۔

العَلَقُ: س۔ اور کہا جاتا ہے "فِي ثَوْبِهِ عَلَقٌ"

یعنی اس کے کپڑے میں کسی چیز کے اُجھنے سے پھنس ہے (وَالْعَلَقُ) ہر چیز کا نفس۔ تھیلا۔ ج اَعْلَاقٌ وَ عُلُوقٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ عِلَقٌ عِلْمٌ" یعنی وہ علم کا شائق ہے۔

العَلَقُ: س۔ خون۔ ہاتھ سے چمٹنے والی مٹی لٹکائی ہوئی چیز۔ درخت کا وہ حصہ جہاں جانور پھنچ سکے۔ جو تک۔ واحد عِلَقَةٌ.

العِلَقَةُ: لٹکانے کی نوعیت۔ بغیر آستینوں کے قمیص۔ بہترین کپڑا۔

العِلَقَةُ: درخت کا وہ حصہ جہاں جانور پھنچ سکے۔ وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے دل بہلاؤ کے طور پر کھائیں۔ تھوڑی سی چیز۔ تَعْلُقُ ج عُلُقٌ: کہا جاتا ہے "لِي فِي هَذَا الْمَالِ عِلَقَةٌ" یعنی مجھ کو اس مال سے تعلق ہے "لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ عِلَقَةٌ" اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔

العُلُقُ: موت۔ جماعت کثیرہ۔ اشغال۔

العِلَاقُ: درخت کا وہ حصہ جس کو جانور پا سکے ا وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے دل بہلاوے کے طور پر کھائیں۔

العِلَاقَةُ: س۔ دوستی۔ دشمنی۔ موت۔ گزر بسر کا ذریعہ جس کا انسان سے تعلق ہو جیسے مال زوجہ اولاد۔ تعلق۔ محبت۔ ج عِلَاقٌ: کہا جاتا

إِغْتَلَقَتِ الدَّابَّةُ: چارہ کھانا۔

اسْتَعْلَقَتِ الدَّابَّةُ: نہینا کر چارہ مانگنا۔

العِلْفُ: بہت کھانے والا۔

العِلْفِيُّ: چارہ ہی کھانے والا۔ ج عِلَافٌ.

المَعْلُوفَةُ: چارہ ہی کھانے والا۔

العَلْفُ: چارہ ج عُلُوفَةٌ وَاعْلَافٌ وَعِلَافٌ.

العَلْفُ: چارہ بیچنے والا ج عِلَافَةٌ.

العِلْفِيَّةُ: چارہ ہی کھانے والا جانور ج عِلَافِيٌّ.

العُلُوفَةُ: چارہ ہی کھانے والا جانور (واحد و جمع) العُلُوفَةُ: چارہ ج عِلْفٌ.

المُعْلَفُ وَالمِعْلَفُ: تھان۔ چارہ کھانے کی جگہ مَعَالِفٌ.

عِلْفٌ: بول کی پھلی۔

عَلَفَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملا۔

عَلِقَ (ن) عَلَقًا وَ عُلُوقًا: البَعِيرُ وَ نَحْوُهُ

النَّبَاتُ وَ مِنَ النَّبَاتِ: اور اوپر سے چرنا

الصَّبِيُّ: انگلیاں چوسنا۔ (عَلَقًا) الرَّجُلُ:

گالی دینا هُ بِلِسَانِهِ: بد گوئی کر کے تکلیف پہنچانا۔

عَلِقَتْ (س) عُلُوقًا الْمَرْأَةُ وَكُلُّ انْشَى

بِالْوَلَدِ: حاملہ ہونا الوَحْشُ بِالْحِبَالَةِ:

وحشی جانور کا جال میں پھنس جانا الدَّابَّةُ: جانور

کا بانی پینا اور جو تک کا چٹ جانا الشُّوْكَ

بِالنُّوْبِ: کپڑے میں کانٹے کا لگ جانا (عَلَقًا)

الْإِبِلُ فِي الْوَادِي: چرنے کے لئے جانا۔

عَلِقَ (س) عُلُوقًا وَ عِلَقًا وَ عِلَقًا وَ

عِلَاقَةً فَلَانًا وَ عِلِقَ بِهِ: مُجْتَبِئٌ كَرْنَا: حُبَّهُ

بِقَلْبِهِ: مُجْتَبِئٌ كَرْنَا: کہا جاتا ہے "عَلِقَ مِنْهُ كُلُّ

مَعْلُقٍ" یعنی اس سے اس نے محبت کی اور مُجْتَبِئٌ

دل کے پردے میں داخل ہو گئی۔ عِلِقَ دَمٌ

فُلَانٌ: قتل کرنا۔ ہر وہ چیز جو اپنے موقع میں

واقع ہو اس کیلئے عِلِقَ مَعَالِيفَهُ بولتے ہیں

(عِلَقًا) أَمْرَهُ: جانا۔ عِلِقَ يَفْعَلُ كَذَا:

کرنے لگا۔

عَلِقَ الرَّجُلُ: گلے میں جو تک لگایا جانا۔ جس

العَلَكَةُ: وہ زمین جو پانی کے قریب ہو۔
 الْعَلِكُ: لیس دار چیز جو ہاتھوں سے چٹ جائے۔
 الْعَلَاكُ وَالْعَلَاكُ: جو چیز چبائی جائے۔
 الْعَلَاكُ: بہت چبانے والا۔ گوند پیچنے والا۔
 عَلَمَةٌ (ن ض) عَلَمًا: نشان لگانا۔ عَلَمٌ الشَّيْءِ: ہونٹ چیرنا۔
 عَلِمَ (س) عَلِمًا الرَّجُلُ: حقیقت علم کو پیا لینا۔ الشَّيْءِ: پہچانا۔ یقین کرنا الشَّيْءِ و بَدِّ جَانًا: ادراک کرنا الْأَمْرَ: مضبوط کرنا۔
 عَلِمَ (س) عَلِمًا: اور کا ہونٹ پھینا۔ صفت اَعْلَمَ: عَلِمَهُ تَعْلِيمًا و عَلَامًا الصَّنْعَةَ وَغَيْرَهَا: سکھانا۔ عَلِمَ لَهُ عَلَامَةٌ: پہچاننے کے لئے علامت مقرر کرنا۔
 اَعْلَمَهُ الْأَمْرَ و بِالْأَمْرِ: بتا دینا۔ اِطْلَاعَ دِئًا۔ اَعْلَمَ الْفَرَسَ: لڑائی میں رنکے ہوئے اون کا نشان۔ گھوڑے پر لگانا الثَّوْبَ: کپڑے پر نشان بنانا۔ نقش و نگار کرنا نَفْسَهُ: لڑائی کی علامت لگانا عَلِيٌّ كَذًا مِنَ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ: علامت لگانا۔
 عَلَامَةٌ: علم میں غلبہ کرنا۔
 تَعَلَّمَ: سیکھنا الْأَمْرَ: مضبوط کرنا۔ اور تَعَلَّمَ صِيغَةَ اِعْلَمَ کے معنی میں ہے۔
 اِعْتَلَّمَ: الْمَاءَ: پانی بہنا الشَّيْءِ: جاننا الْبُرُقَ: پہاڑ میں بجلی کا چمکانا۔
 تَعَلَّمَ الْقَوْمَ الشَّيْءَ: جاننا۔
 اِسْتَعْلَمَهُ الْخَبِيرُ: خبر دریافت کرنا۔
 الْعَلَمَ: کپڑے کا نقش۔ جھنڈا۔ قوم کا سردار۔
 جِ اَعْلَامَ: الْعَلَمَ: راستہ کا نشان۔ اونچا پہاڑ۔
 علامت نشان۔ منارہج اعلام و عِلَامَ: الْعِلْمَ: حقیقت شے کا ادراک۔ یقین و معرفت جِ عُلُومَ: عَلَامَ: علی حرف جر اور ما استفہامیہ سے مرکب ہے اور الف حذف کر دیا گیا ہے۔
 الْعَلَامَةُ: نشان۔ راستہ کا نشان۔ جِ اَعْلَامَ و اَعْلَامَاتُ: الْعَالَمَ: ساری مخلوق۔ ماسوی اللہ۔ جِ عَوَالِمَ

و اَعْلَامُونَ و اَعْلَامٌ: الْعَالِمَ: ن۔ جِ اَعْلَامَ و اَعْلَامُونَ (و الْعَالِمِينَ) موصوف بالعلم جِ اَعْلَامًا: الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمَةُ وَالْتِعْلَامَةُ: مبالغہ کے صنفے۔ بہت زیادہ جاننے والا۔
 الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ: شکرہ۔ باز۔
 الْعَالَمِيُّ: سبک روح۔ تیز فہم۔
 الْعِلْمُ: س۔ عالم۔
 الْعِلْمُ: التَّعْلِيمِيُّ: علم ریاضی (حساب) علم موسیقی، اَعْلَمَ التَّحْنِيمَ: ستاروں کے آنے جانے کا علم جس کے ذریعے بقول اصحاب علم نجوم وہ لوگوں کو مستقبل کی معلومات فواید اور نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ الْعَمَلِيُّ: قواعد کے مطابق فنون کو تجربہ گاہ میں استعمال کرنا۔ اَعْلَمَ الْفَلْکَ: اجرام فلکی کے مواقع کے بارے میں ان کے مادہ مسافت اور ان کے دورانیے کے متعلق بحث کرنا۔ اَلْعِلْمُ النَّظْرِيُّ: علم عملی کا صدیقی نظریات قائم کرنا بغیر عمل کے۔ اَلْعِلْمُ اللَّذْنِيُّ: وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی سیکھا جائے۔
 الْعُلُومُ الْمُمَارَسَةُ: وہ علوم جن کو کتابوں میں تحریر کر دیا گیا ہے۔
 الْعُلُومُ الْمُتَعَارَفَةُ: وہ ابتدائی معلوم معلومات جن کو علوم مروند میں پیش کیا گیا۔
 الْعُلُومُ الْاَلِيَّةُ: وہ علوم جن کے ذریعے دوسرے علوم حاصل ہوں جیسے منطق۔
 الْعُلُومُ الْعَرَبِيَّةُ: وہ علوم جو عربی زبان کو سمجھنے میں مدد دیں جیسے صرف نحو معانی اور بیان۔
 الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ: وہ علوم جن میں شرعی احکام ذکر کیے جاتے ہیں خواہ عملی یا اعتقادی جیسے علم الکلام و علم الفقہ۔
 الْعُلُومُ الْحَقِيقِيَّةُ: وہ علوم جو کہ شریعت کے بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتے۔ جیسے علم کلام و منطق۔
 الْعُلُومُ الْاِلَهِيَّةُ: وہ علوم جن میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور صفات کے متعلق بحث کی جائے۔
 اَعْلَمَ النَّفْسَ: سکولے جانا۔

اَعْلَمَ طَبَقَاتِ الْاَرْضِ: جو لوجیا۔
 اَعْلَمَ الْحَيَاةَ: نولوجیا۔
 اَعْلَمَ الْاِجْتِمَاعَ: علم سوسیولوجیا۔
 اَعْلَمَ وَظَائِفَ الْبَدَنِ: فیزیولوجیا۔
 اَعْلَمَ اَعْضَاءَ الْبَدَنِ: سورنولوجیا۔
 اَلْاَعْلَمُ: اسم تفضیل۔ وہ شخص جس کے اوپر کا ہونٹ پھینا ہوا ہو۔ مومنٹ اَعْلَمًا: جِ اَعْلَمًا: زرہ۔
 اَلْاَعْلَمَةُ: علامت۔ جِ اَعْلَامِ: الْعِلْمَةُ وَالْعِلْمَةُ: اوپر کے ہونٹ میں پھیننا۔
 الْعِلْمُ: سمندر۔ بہت پانی کا کٹواں۔ مینڈک مونا۔ نازک بدن (و الْعِيَالُ): نرجوج عیالیم و عیالیم۔
 الْمَعْلَمُ: راستہ کی نشانی۔ معلم الشَّيْءِ: چیز کے پائے جانے کی جگہ۔ جِ معلم: کیا جاتا ہے "خَفِيَّتْ مَعَالِمِ الطَّرِيقِ: راستہ کی نشانیاں مخفی ہو گئیں۔
 الْمَعْلُومِيَّةُ: معلوم کی طرف نسبت۔
 الْعِلْمَادُ و الْعِلْمَادَةُ: جس پر دھاگے کا گولہ بنایا جائے۔ جِ اَعْلَامَةُ و اَعْلَامِيدُ: اَعْلَنَ (ن ض) و اَعْلَنَ (ك) و اَعْلَنَ (س) اَعْلَنًا و اَعْلَانِيَّةً و اَعْلُونًا و اَعْلَنَ و اِسْتَعْلَنَ الْأَمْرَ: ظاہر ہونا۔ صفت اَعْلَانٌ و اَعْلَانٌ و اَعْلَانٌ: اَعْلَانٌ مُعَالِنَةٌ و اَعْلَانًا الْعِدَاوَةَ و بِالْعِدَاوَةِ: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔
 اَعْلَانَةٌ و اَعْلَانَةُ الْأَمْرَ و بِالْاَمْرِ: اَعْلَانًا: ظاہر کرنے کے درپے ہونا۔
 الْعِلْمَانِيَّةُ: س۔ کھلم کھلا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ اَعْلَانِيَّةٌ" یعنی اس کا امر ظاہر ہے۔ جِ اَعْلَانُونَ: اَعْلَانِيَّةً: وہ شخص جس کا معاملہ ظاہر ہو۔ جِ اَعْلَانِيَّةً: اَعْلَانِيَّةً: وہ شخص اپنے راز کو پوشیدہ نہ رکھے۔

علہ (س) غلہا منہک ہونا۔ تمیز ہونا۔
دہشت زدہ ہونا۔ بھوکا ہونا۔ قابل ملامت
ہونا۔ گھبراہٹ سے آنا جانا۔ بد فطرت ہونا۔
صفت مذکر علہان غلہ صفت مونث
غلہی غلہی جس کا نفس شرارت پسند ہو۔
غلہ وہ شخص جو تمیز ہو کر آئے جائے۔
العالہ شتر مرغ۔ عورت جو ایک راستہ پر نہ
چلے۔ مختلف قسم کے ارواے کرے۔
العلہ سے برائی۔ غم۔

غلا یعلو غلوا و علی یعلی غلاء
واعتلی الشیء او التھار: بلند ہونا۔ غلا
الرّجل: غالب ہونا۔ بالسنب: تلوار سے
مارنا۔ المکان و بہ چڑھنا۔ الدابة: جانور پر
سوار ہونا۔ غلا فی الارض: تکبر کرنا۔
غلابہ: بلند کرنا۔ امر و لیل: طاقت برکھنا۔
صفت عال بالامر: مستقل ہونا۔ قرنہ:
ہسر پر غالب آنا۔ غلت العین عن فلان:
کسی سے نگاہ کا ناموافق ہونا۔ علاو علی فی
المکارم: درجہ میں بلند ہونا۔ اغتلی الشیء:
قوی ہونا۔ غالب ہونا۔

علی و اعلی الشیء: چڑھنا۔
علی و اعلی و عالی الشیء: بلند کرنا۔
علی الكتاب عنوان لکھنا۔ علی و اعلی
المتاع عن کسی الذبابة اتارنا۔ علی اللہ
فلانا: اللہ کا کسی کو بلند کرنا اور عالی مرتبہ بنانا۔
عالی الشیء وہ: چڑھنا۔ کہا جاتا ہے عال
عنی یعنی مجھ سے دور ہو۔

تعلی الرجل: آہستہ آہستہ چڑھنا۔ تعلت
المراة من مرضها: صحت پانا۔
تعالی بلند ہونا۔ تعالت المراة: صحت
مرضها: صحت پانا۔ تعال: آجا۔ (ص)

استغلی النهار: بلند ہونا۔ غالب ہونا
(و اعلو لی) الشیء: سمجھنی فوق۔ جب معرفہ ہو تو
عل: مبنی علی الضم اور تکمرہ کی صورت
"من عل" یعنی علی الضم اور تکمرہ کی صورت

میں "من عل" کہا جاتا ہے اور "اتیتہ من
عل" بھی کہا جاتا ہے۔
العلی و العلی: بلندی۔ شرافت۔
العلی و العالیة: بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے ہم
علی القوم: یعنی وہ لوگ قوم کے سردار
ہیں۔

علو الشیء و علوة و علوة و علوة
بلندی۔ کہا جاتا ہے "احذہ علوا" یعنی اس
نے اس کو زبردستی لے لیا۔

العلوة من کل شیء ہر چیز میں سے
زیادہ بوجہ لانے کے بعد جو لاکر دیا جائے۔ سریا
گردن کا اوپر کا حصہ غلاوی و غلاوی
کہا جاتا ہے اعطینک الف دینار و دینارا
علوۃ میں نے تجھ کو ہزار دینار دیئے اور
ایک دینار زائد دیا۔

العلیة: نہائی۔ بلند اونٹنی غلوات و
غلا
العلی اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنی میں سے
ایک نام۔ بلند۔ شریف۔ سخت غلویون و
علیہ کہا جاتا ہے "ہم علیہ القوم" یعنی وہ
قوم کے سردار اور اشراف ہیں۔

العلی بلندی۔
العلوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب
نسبت۔ غلویہ
العلیة و العلیة بالاخانہ غلالی کہا جاتا
ہے۔ "ہو من علیة قومہ و علیہم و
علیہم و علیہم" یعنی وہ اپنی قوم میں
صاحب راجت و شرف ہے۔

العالی فارجل عالی الکعب: شریف۔
کہا جاتا ہے "اتیتہ من عال" یعنی میں اس
کے پاس اوپر سے آیا۔

العالیہ مونث عالی۔ نیزے کا اوپر کا حصہ یا
نیزے کا نصف اعلیٰ غالیات و غوالد
العوالی نیزے۔ العوالی مدینہ طیبہ کے
اردگرد کے گاؤں اور ان کی طرف جب نسبت
کرتے ہیں تو عالی و علوی کہتے ہیں۔
عالیة الشیء چیز کا بلند حصہ۔ عالیہ

الوادی وادی کا وہ حصہ جہاں سے پانی گری۔
الاعلی اسم تفصیل۔ زیادہ بلند۔ کہا جاتا
ہے "ہو اعلی بہم عینا" یعنی وہ لوگوں
کے احوال و کوائف کا زیادہ دیکھ بھال کرنے والا
ہے مونث غلیا غلوی
المعتلی شیر۔

العلیا و العلیا ہر بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے
شفة علیاء و علیاء العلیا: پہاڑ کی چوٹی۔
آسمان۔

العلیٰن اعلیٰ جنت کا نام اور یہ جمع علی کی
ہے وہ لوگ جو شہر کے بلند حصوں میں رہیں۔
اور تو انہم اور اہل شرافت کو "اہل علیٰن"
کہتے ہیں۔ پست درجے کے لوگوں کو
"سفلیون"

العلیان و العلیان مونا لہا۔ کہا جاتا ہے
"رجل علیان و امراة علیان" زوجہ۔
العلیان و العلیان بلند آواز۔

العلیان و العلیان کتاب کا عنوان۔
المغلا شرف و بلندی غلعل
المعلی جوئے کا ساتواں تیر۔

الخروف المستغلیہ رخ من ص ط ظ غ
ق۔

غلون علونہ و علوانا الكتاب: خط پر
چھ لکھنا۔

غلوان الكتاب: سرنامہ۔

علی یعلی علیا و علیا السطح: چڑھنا۔
العلی و العلی و العلیا و العلیاء
و العلیان و العلیان و العلیان و العلیان
و العلی و العلی مادہ عل و میں ذکر ہو چکا۔

علی حروف جزم سے ہے۔ مندرجہ ذیل
معانی میں مستعمل ہے۔

(۱) استعلاء: جیسے حمل علی الذبابة
(جالور پر لا دیا)

(۲) مصاحبت: جیسے بذل العیال علی
الفقر (مال کو باوجود فقر کے خرچ کیا)۔

(۳) مجاوزہ: یعنی عن رضی علیہ
یعنی وہ اس سے رضی ہو۔

تَعَمَّقُ فِي الْأَمْرِ: معاطے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا فی کلامہ: خوب چرب زبانی سے گفتگو کرنا۔

العَمَقُ والعَمِيقُ والعَمِيقُ: گہرائی۔ العَمَقُ والعَمِيقُ: جنگل کے اطراف سے جو بعید ہو۔ جِ اعَمَاقُ.

العَمِيقُ: حق و استحقاق۔ کہا جاتا ہے ”فِيهِ عَمَقٌ“ یعنی اس کیلئے حق و استحقاق ہے۔

العَمِيقَةُ: برتن کی تہ میں گھی کا میل۔ رَجُلٌ عَمِيقُ الْكَلَامِ: ایسا شخص جس کی بات بہت گہری ہو۔

عَمِلَ (س) عَمَلًا: کام کرنا۔ محنت کرنا لِلْأَمِيرِ عَلِيٍّ عَلِيٌّ بِلَادِهِ: عامل بننا۔ حاکم بنا علی الصَّدَقَةِ: صدقہ جمع کرنے کی کوشش کرنا

الْبِرِّقِيُّ: بجلی کا لگاتار چمکانا۔ عَمِلَتْ الْكَلِمَةُ فِي الْكَلِمَةِ: ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ میں اثر کرنا۔ اعراب دینا۔

عَمَلَهُ: عمل کی اجرت دینا۔ عَلَى الْبَلَدِ: عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ کہا جاتا ہے ”عَمِلَ فَلَانَ عَلَيْهِمْ“ یعنی فلاں شخص ان کے اوپر حاکم بنایا گیا۔

أَعْمَلَهُ: عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ أَعْمَلَ الرَّؤْمِحَ صَدْرَ نِيْزِهِ سَے مارنا الْآلَةَ أَوْ الرَّأْيَ: استعمال کرنا الْكَلِمَةَ فِي الْكَلِمَةِ: کلمے کا دوسرے کلمے پر اثر کرنا الرَّجُلَ: اجرت دینا۔

عَامِلَةٌ مُعَامَلَةٌ: عمل کی تکلیف دینا۔ معاملہ کرنا۔

تَعَمَّلَ: لگنا۔ عمل کو برداشت کرنا۔ مِنْ أَجْلِ الْإِنِّ أَوْ فِي حَاجَتِهِ كُوشِشُ كَرْنًا وَرِ بَے ہونا۔ تَعَامَلُ الْقَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ معاملہ کرنا۔

إِعْتَمَلَ: کام میں مضطرب ہونا۔ اثر قبول کرنا۔ اپنے لیے کام کرنا۔

إِسْتَعْمَلَ: عامل بنانا۔ عمل کرنے کو کہنا۔ اسْتَعْمَلَ الْآلَةَ: آلہ استعمال کرنا الثُّوبَ: کپڑا استعمال کرنا۔ اسْتَعْمَلَ فَلَانَ: شاہی

تَعَامَسَ: تفاعل کرنا۔ عَنَهُ: نہ جاننے والا ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَعَامَسَ عَلَيَّ“ یعنی اس نے مبہم رکھا اور مجھ کو شبہ میں رکھا۔

العَمَسُ والعَمَاسُ والعَمُوسُ والعَمِيسُ مشكل كام۔ يَوْمَ عَمَاسٍ: سخت دن۔ حَرْبُ عَمَاسٍ وَ عَمِيسٌ سخت لڑائی۔ لَيْلُ عَمَاسٍ: بہت تاریک رات۔

العَمَاسُ: قوی شیر۔ مصیبت جِ عَمَسٍ وَ عَمَسٍ: وہ شخص جو کاموں کو نادانوں کے مانند بے پکانہ کرے۔

أَمْرٌ مُعَمَّسٌ: سخت کام۔ عَمِشْتُ (س) عَمَشًا عَيْنَهُ: آنکھ کا کزور ہونا۔ چندھا ہونا۔ صفت مذکر

أَعْمَشَ صفت مؤنث عَمَشًا جِ عَمَشَ فِيهِ الْكَلَامُ: کلام کا اثر کرنا۔ عَمَشَهُ (ن) عَمَشًا: بلا قصد مارنا الْوَلَدَ: لڑکے کا ختنہ کرنا۔

عَمَّشَ وَ تَعَامَشَ عَنِ الشَّيْءِ: غافل ہونا عَمَّشَهُ اللَّهُ: چندھے پن کو دور کرنا۔ اسْتَعْمَشَهُ: بیوقوف جاننا۔

العَمَشُوشُ: آنکھ کا خوشہ جس میں سے کچھ دانے کھالے گئے ہوں۔ عَمَطَ (ن) عَمَطًا وَاعْتَمَطَ عِرْضَةً: عیب لگانا۔ بے آبرو کرنا۔

عَمَّقَ (ك) وَ عَمِيقَ (س) عُمُقًا الْمَكَانَ أَوْ الطَّرِيقَ: دور ہونا۔ کشادہ اور لمبا ہونا۔ صفت عَمِيقُ جِ عَمِيقٌ وَ عَمِيقٌ عَمَاقُ:

عَمَّقَتْ (ك) عُمُقًا وَ عَمَاقَةَ الْبَيْتِ وَ نَحْوَهَا: گہرا ہونا۔ صفت عَمِيقَةٌ جِ عَمَاقٍ:

أَعَمَّقَ وَ عَمَّقَ وَاعْتَمَقَ الْبَيْتُ: کونیں کو گہرا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عَمَّقَ النَّظْرَ فِي الْأُمُورِ“ اس نے امور میں گہری نظر ڈالی۔

مَكَانٌ عَمِيرٌ: آبار۔ ثُوبٌ عَمِيرٌ: گف کپڑا۔

العَامِيرُ: نا۔ گھر کا رہنے والا جِ عُمَارٌ مؤنث عَامِيرَةٌ جِ عَوَامِيرٌ: مَكَانٌ عَامِيرٌ: آبار جگہ۔ تم کہتے ہو تَرَكْتَهُمْ عَامِيرِينَ بِمَكَانٍ كَذَا: یعنی میں نے ان کو فلاں جگہ میں آبار چھوڑا۔ العَامِيرُ: بچو کا بچہ۔ اُمُ عَامِيرٌ: بچو۔ عَوَامِرُ الْبَيْتِ: سانپ وغیرہ۔ واحد عَامِيرٌ وَ عَامِيرَةٌ:

العَمِيرَةُ: شہد کا جھتہ۔ بڑا قبیلہ۔ جِ عَمَائِرُ:

العَمَارُ: صینہ مبالغہ۔ قوی الایمان۔ بردبار۔ صاحب وقار۔ موت تک امر و نہی پر قائم رہنے والا۔ اچھی تعریف والا۔

العَمَارُ: بچات جو مکاوں میں رہتے ہیں اور یہ جمع ہے عامر کی۔

المَعْمَرُ: آبار۔ خوش حال جگہ۔ الإِسْتِعْمَارُ: ایک ملک کا دوسرے ملک کے حصے یا مکمل ملک پر قبضہ کرنا۔

المُسْتَعْمَرَةُ: نوآبادی (مولدہ) الیَعْمُورُ: بکری کا بچہ۔ چھوٹی بھیر۔ جِ یَعَامِيرُ:

العَمْرُدُ: ہر چیز کا لب۔ خوش۔ قوی سخت مزاج مرد۔ شیر زہ۔ بھیریا۔

العَمْرُوسُ: مرد قوی۔ العَمْرُوسُ: بکری کا بچہ جِ عَمَارِيسُ:

العَمْرُوطُ: چور سرکش۔ جِ عَمَارِطُ وَ عَمَارِيطُ وَ عَمَارِطَةٌ:

العَمْرُطُ: جوان۔ سبک۔ دلیر۔ بلا مصیبت۔ عَمَسَ (ن) عَمَسًا الْكِتَابَ: نسا۔

الْأَمْرُ: دیدہ دانستہ چال بننا۔ عَمَسَ وَأَعْمَسَ الشَّيْءَ: چھپانا۔ عَمَسَ (س) وَ عَمَسَ (ك) عَمَسًا وَ عَمَسًا وَ عَمُوسًا وَ عَمَاسَةً: الْيَوْمَ:

سخت ہونا۔ تاریک ہونا۔ عَامَسَهُ مُعَاسَاةً: راز بنانا۔ دشمنی چھپانا۔

اعمال میں سے کسی عمل کے لیے مقرر ہونا۔

العَمَلُ: من الفعل بقصد ارادة فعل کرنا (والعَمَالِيَةُ) وہ جس پر عامل والی ہو۔ ج أعمال و أعمال البلد: ملک کے مضامفات۔

العَمَلُ: کاریگر۔ پسندیدہ کاریگر۔ بَرَقَ عَمِلًا: لگاتار چمکنے والی بجلی۔
العَمَلَةُ: مؤنث عَمِلَ: وہ جو کیا جائے۔
العَمَلَةُ: ایک مرتبہ کا عمل۔ خیانت۔ چوری۔

العَمَلَةُ: عمل کی ہیئت۔ جو عمل کیا جائے۔ (والعَمَلَةُ) عمل کی اجرت۔ اور عوام اس کو نفوذ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

العَامِلُ: فاعل کام کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی کے امور مالی وغیرہ کا متولی ہو ج عَمَّالٌ و عَامِلُونَ و عَمَلَةٌ: رئیس۔ والی۔ حاکم۔ عَامِلُ الرُّمْحِ: نیزے کے پھل کے قریب کا حصہ۔

أَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاةِ: بخویوں کے نزدیک وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ کے آخر پر اعراب واجب کر دے جیسے قَامَ الْوَلَدُ۔

أَعْمَالٌ بِالْتِمَاسِ: وہ مادہ جو قلیل مقدار میں کیمائی اجسام میں ملایا جائے اس میں جلدی اثر انداز ہو جائے اس کی مقدار میں کمی نہ آئے شروع سے لے کر آخر تک۔

العَامِلَةُ: مؤنث عامل ج عاملات و عَوَامِلُ عَامِلَةُ الرُّمْحِ: نیزے کے پھل کے قریب کا حصہ۔ العَوَامِلُ: یاؤں۔ کھینٹی اور دائیں کرنے کے تیل۔

العَمَّالُ: صیغہ مبالغہ۔ مؤنث عَمَّالَةٌ۔ العَمَّالَةُ: عامل کا پیشہ۔ العَمَّالَةُ و العَمَّالَةُ و العَمَّالَةُ: عامل کی اجرت۔ عوام کہتے ہیں العَمُولَةُ: کمیشن ایجنٹ۔

العَمُولُ: مزدور۔
العَمِيلُ عِنْدَ التُّجَّارِ: ایجنٹ۔ اڑھتی۔

شریک عمل۔ ج عملاء

المُعْمَلُ: کارخانہ۔ کام کرنے کی جگہ ج معامبل۔

المُعَامَلَاتُ: کاروباری معاملات۔ احکام شرعیہ جن کا تعلق امور دنیاوی سے ہو۔ جیسے بیع و شرا کے احکام۔

المُسْتَعْمَلُ: استعمال کیا ہوا۔
العَمَلُ و العَمَلَةُ: کام کرنے والا اُونٹ اُونْتٌ ج یَعَامِلُ و یَعْمَلُ۔

عَمِنَ (ض) و عَمِنَ (س) عَمِنًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

عَمِنَ وَاَعْمَنَ الرَّجُلُ: ملک عمان میں جانا۔ کسی جگہ میں ہمیشہ رہنا۔

العَمُونُ: اقامت کرنے والا ج عُمِنَ عَمَةً و عَمَةً (ف س) عَمَهَا و عُمُوَهَا و عُمُوْهِيَّةٌ و عَمَهَا نًا و تَعَامَةً: متحیر ہونا۔ گمراہی میں بھٹکانا۔ صفت عَمِه ج عَمِيْهُونٌ و عَامِدٌ عَمَّةٌ۔

عَمِه (س) عَمَهَا: المکان: بے نشان و بے علامت ہونا۔ صفت ذکر اَعْمَهُ: صفت مؤنث عَمَهَا ج عَمُه۔

عَمَّةٌ فِي ظَلَمِ فَلَانٍ: ناقص ظلم کرنا۔
العَمَّةُ: بے بصیرت کا فقدان۔

عَمِيٌّ يَعْمِي عَمِيٌّ: اندھا ہونا۔ دل کا اندھا ہونا اور جاہل ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ و عِنْدَهُ: ہدایت نہ پانا۔ عَلَيْهِ: مشتبه ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَمِيَّتِ الْاِخْبَارُ عَنِ فَلَانٍ": یعنی پوشیدہ ہو گئیں۔

عَمِيٌّ عَمَايَةٌ: اصرار کرنا۔ گمراہ ہونا۔
عَمِيٌّ يَعْمِي عَمِيًّا: السَّحَابُ: بہر پڑنا۔
المَوْجُ: جھاگ پھینکنا فَلَانٍ: سخت گرمی میں آنا۔

عَمِيٌّ تَعْمِيَّةٌ: المعنى: معنی پوشیدہ رکھنا (وَأَعْمَى) الرَّجُلُ: اندھا کرنا۔ اندھا پانا۔
تَعَامَى: تکلف اندھا ہونا۔
تَعَمَّى تَعَمِيًّا: اندھا ہونا۔

اِعْتَمَى اِعْتَمَانًا: الشَّيْءُ: چھنا۔ قصد کرنا۔

العَمِيَّةُ و العَمِيَّةُ و العَمَايَةُ و العَمَّانَةُ:

گمراہی۔ گمراہی پر اصرار۔

العَمِيَّةُ و العَمِيَّةُ: غرور۔ گمراہی۔

العَمْرُ: اندھا ج عَمُونٌ مؤنث عَمِيَّةٌ ج عَمِيَّاتٌ۔

العَمِيٌّ: اندھا ج عَمِيٌّ و عَمِيَّانٌ و اَعْمَاءٌ و عُمَاةٌ مؤنث عَمِيَّاءُ: الأعمى: جاہل۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ عَمِي الْقَلْبُ": یعنی جاہل آدمی۔

العَمَايَةُ: بہت گرمیہ و زلزلہ کرنے والی عورت۔

العَمَاءُ: بلند بادل۔ موسلا دھار برسنے والا بادل۔

الأَعْمِيَّانُ: سلاب و آتش زدگی۔

المَعْمِيَّةُ: بے نشان زمین۔ ج معامبی مَكَانٌ عَمِيٌّ و أَعْمَى: ایسی جگہ جس میں ہدایت نہ ملے۔

العَامِيٌّ: وہ شخص جو اپنے راستے کو نہ دیکھتا ہو۔

المُعْمَى: من الغلام: چیتان۔ پھلکا۔
عَنْ حُرُوفٍ جَرِّ مَعْنَى: جے اور معانی ذیل میں مستعمل ہے۔

(۱) مجاوزة جیسے تَرَحَّلَ عَنْ مَكَانٍ فِيهِ ضَمِيمٌ: اس جگہ سے چل دے جہاں ظلم ہو۔ (۲) بدل جیسے يَوْمٌ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا: وہ یوم جس میں کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے گا۔ (۳) تعلیل جیسے مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ اضْطِرَارٍ: اس نے اُس کو مجبور ہو کر کیا۔ (۴) بعد جیسے عَنْ قَلِيلٍ تَرَى: تھوڑی دیر کے بعد تجھے معلوم ہو جائے گا۔ (۵) استعلاء جیسے أَحَبَّبْتُ الْإِحْسَانَ إِلَى الْفُقَرَاءِ عَنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ: میں نے فقراء کے ساتھ اچھے سلوک کو کثرت نماز پر ترجیح دی اور کبھی اسم ہو کر جانب کے معنی میں آتا ہے اور اس وقت اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے

جیسے "جَلَسَ مِنْ عَنِ يَسَارِ الْحَلِيفَةِ"

خلیفہ کی بائیں جانب بیٹھا۔
 عَنْ (ن ض) عَنَّا وَعُنُونَا وَعَتْنُ
 لَهُ الشَّيْءُ: سامنے ظاہر ہونا۔ پیش آنا۔
 عَنْ عَنِ الشَّيْءِ: اعراض کرنا۔ عَنْ فَلَانًا:
 گالی دینا۔ عَنْ وَعَتْنُ الْكِتَابِ: عنوان
 لکھنا۔ وَعَتْنْتُ الْكِتَابِ: ایک نون کو یا
 سے بدل کر بھی کہتے ہیں۔
 عَنْ وَعَتْنُ وَأَعْنُ اللَّجَامِ: لگام میں
 ڈوری لگانا۔
 عَنْ وَأَعْنُ الْفَرَسِ: گھوڑے کو لگام سے
 روکنا۔

عَانَةٌ مَعَانَةٌ وَعِنَانٌ: مقابلہ کرنا۔

الْعَانُ: فاس۔ لیس۔ رسی۔ پھیلا ہوا بادل۔

الْعَانَةُ: مؤنث۔ الْعَانُ: بادل۔

الْعُنَّةُ: رسی۔ اُونٹ یا گھوڑے کے لیے
 لکڑی کا بازو۔ ہانڈی رکھنے کا چوبلا۔

الْعِنَانُ: بادل۔ وَالْعِنَانَةُ: بادل کا ایک

ٹکڑا۔ عِنَانُ السَّمَاءِ: آسمان کی بلندی۔

عِنَانُ الدَّارِ: گھر کا کنارہ۔ گھر کا گردا گرد۔

الْعِنَانُ: سر۔ لگام کی رسی۔ جِ اعْتَنُ و

عُنُنُ: کہا جاتا ہے ”هُوَ قَصِيرُ الْعِنَانِ“

یعنی وہ بے خیر آدمی ہے۔ ”وَرَجُلٌ طَوِيلُ

الْعِنَانِ“ شریف آدمی و ”أَبِيُّ الْعِنَانِ“

خوددار و ”إِمْتَلَاءُ عِنَانِهِ“ جبکہ اپنی

کوشش کو پہنچ جائے۔ ”وَذَلَّ عِنَانَهُ“ یعنی

تابع و فرمانبردار ہو گیا۔ و ”هُمَا يَجْرِيَانِ

فِي عِنَانٍ“ جبکہ دونوں نفیلت وغیرہ میں

برابر ہوں۔ ”وَجَرَى الْفَرَسِ عِنَانًا“

یعنی ایک چکر دوڑا۔ ”وَكَيْفَا فِي عِنَانِهِ“ یعنی

اپنے چکر میں ٹھوکر کھا گیا۔ ”وَأَرْخَ مِنْ

عِنَانِهِ“ یعنی اس کو ڈھیل دے دو۔

وَشْرَكَةُ الْعِنَانِ: دو آدمیوں کا مخصوص

مال میں شرکت کرنا۔ الْعِنَانُ: سامنے آنے

والی چیز۔

الْعِنْسُ: سامنے آنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے

”عِنَانَاكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا: انتہائی یہ ہے کہ

تم ایسا کرو۔

الْأَعْنَانُ: درخت کے اطراف۔ أَعْنَانُ

السَّمَاءِ: آسمان کے اطراف۔ أَعْنُ:

العِنَانُ: بہت سبقت لے جانے والا۔

المَعْنُ: لایعنی امور میں دخل دینے والا۔

خَطِيبٌ: مؤنث معنثة۔

المَعْنُونُ: مجنون۔ پاگل۔

عَنْبُ الكُرْمِ: انگور کی تیل میں انگور آنا۔

العَنْبُ: انگور۔ جِ اعْتَابُ: ایک دانے کو

عِنْبَةً کہتے ہیں۔

العَنْابُ: انگور بیچنے والا۔ عنب الثعلب

مکوی۔

عَنْبُ الثَّعْلَبِ: سفید پتوں والی سفید

پھولوں والی دوائی کا نام۔

عَنْبُ الذُّبِّ: چمڑے کو رنگنے کے لئے

ایک پودا جس کو طب میں اسہال کے ضد

سمجھا جاتا ہے۔

الْعَنْبِيَّةُ: انگور جیسا ایک پھل۔

العَنْبَابُ وَالْأَعْنَبُ: بڑی ٹاک والا۔

العَنْبَابُ: عُنَابُ: ایک دوا کا نام۔ واحد

عُنَابَةٌ.

عَنْبِرُ الشَّيْءِ: عُنْبِرُ سے خوشبودار کرنا۔

العَنْبِرُ: ایک قسم کی خوشبو۔ زعفران۔

ایک قسم کی بڑی مچھلی۔ ڈھال جو عُنْبِرُ مچھلی

کی کھال سے بنائی جاتی ہے۔ جِ عُنْبِيرُ:

عَنْبِرُ الشَّيْءِ: عُنْبِرُ سے سردی کی شدت

عَنْبِرَةُ الْقَدْرِ: پیاز۔

العَنْبِرِيُّ: عُنْبِرُ سے معطر کی ہوئی شراب۔

عَنْبُ (س) عُنْبَا: دشواری میں پڑنا۔

مصیبت سے ہلاک ہونا۔ گناہ کرنا الشَّيْءُ:

خراب و فاسد ہونا الْعَظْمُ: درستی کے بعد

ٹوٹ جانا۔ صفت عُنْبُ:

عُنْبَةٌ: سختی کرنا۔ ایسی چیز لازم کرنا جس کا

ادا کرنا دشوار ہو۔ عُنْتُ الشَّيْءُ الْعَظْمُ

المَحْبُوبُ: درست شدہ ہڈی کو توڑ دینا۔

عُنْتُ فِي الْحَبْلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔

أَعْنَتُ الْجَابِرُ الْكَمِينُ: جڑے ہوئے کو

پھر توڑنا۔ نوٹے ہوئے کی دیکھ بھال نہ

کرنے کی وجہ سے فساد زیادہ ہونا الرَّأْسُ

الدَّابَّةُ: جانور پر سختی سے زیادہ لاڈنا

الرَّجُلُ: ہلاکت میں ڈالنا۔

تَعَنَّتْهُ: تکلیف پہنچانا۔ کسی کی لغزش کو

دُھونڈنا۔ تَعَنَّتْ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فِي

السُّوَالِ: بطریق تلمیس سوال کرنا۔

العُنُوتُ: دشوار گزار ٹیلہ۔

عَنْتَرَةٌ: لڑائی میں بہادری کرنا۔

عَنْتَرَةٌ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔ عُنْتَرُ الْعَنْتَرِ:

کھسی کا بھنسانا۔

العَنْتَرُ وَالْعَنْتَرُ وَالْعَنْتَرُ: کھسی۔ نیلی کھسی۔

واحد عَنْتَرَةٌ.

الْعَنْتَرَةُ: سبعہ معلقات کے شاعروں میں

سے ایک شاعر کا لقب جس کی بہادری کی

وجہ سے لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گیا۔

عَنْتَلُ الشَّيْءِ: کھڑے کھڑے کرنا۔

العَنْتَلُ: سخت۔ ضَبَاعُ عُنَاتِلُ: شکار کو

کھڑے کھڑے کر دینے والے بچو۔

العَنْثَةُ وَالْعَنْثَةُ وَالْعَنْثَةُ: جلی نام۔ ایک

مخصوص گھاس جبکہ وہ خشک اور سیاہ ہو

جائے۔ جِ عُنَاتُ:

العَنْثَةُ وَالْعَنْثَةُ: بمعنی عَنْثَةُ عُنَاتُ:

العَنْثَةُ: ٹھوڑی کے بال۔

عُنْجُ (ن ض) عُنْجَا: واعْنَجُ الشَّيْءُ:

کھینچنا۔ الدَّلْوُ: ڈول کو رسی سے باندھنا۔

العُنْجَا: پیٹھ کا درد۔ رسی جس کو بڑے

ڈول کے نیچے باندھتے ہیں۔ جِ اعْنَجَةٌ و

عُنْجُ:

عَنْجَةٌ: الهُوْدُجُ: ہودے کے دروازے کا

بازو۔

العُنْجُجُ: بڑا۔

العُنْجُجُ: جنگی ریحان۔

العُنْجُوجُ: عمدہ گھوڑا۔ عمدہ اُونٹ۔ اَوَّلُ

جَوَانِي جِ عُنْجَاجِيحُ:

عَنْجَرُ عُنْجَرَةٌ: ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔

العُنْجُورَةُ: شیشی کا غلاف۔

العُنْجُجَةُ: بڑی موٹی سیٹی۔ اکھڑ مرد۔

عند طرف مکان و طرف زمان۔ جیسے
وقفت عند الباب و سافرت عند معین
الشمس اور من کے داخل ہونے سے
مجرور ہوتا ہے جیسے آتت من عنده۔

عند (ن ض) و عند (س) و عند (ک)
عنداً عن الطريق او القصد: تجاوز
کرنا۔ ہٹ جانا۔ مائل ہونا الرجل: دیدہ
وانتہ حق کی مخالفت کرنا۔ صفت عنیدج
عند (و عند) العرق: رگ سے خون
لگاتا رہنا۔ عند فلاناً: مقابلہ کرنا۔
عند (ن) عنداً عن أصحابہ: سفر میں
علیحدہ ہو جانا۔

عاندہ معاندة و عناداً علیحدہ ہونا۔
مقابلہ کرنا الشئ: لازم ہونا الرجل: کسی
کے جیسا کام کرنا۔

تعاند القوم: بعض کا بعض کے ساتھ
مخالفت کرنا۔
استعند القوس: گھوڑے کا سرکشی کرنا۔
منہ زور ہونا القبی: غائب ہونا فلاناً:
قصد کرنا۔

العائد: ميانہ روی سے ہٹنے والا۔ ج
عند۔ عواند۔ کہا جاتا ہے "طعنة طعناً
عائداً" اس نے اس کو واپس واپس سے
نیزہ مارا۔ دم عائد: ایک جانب سے پہنچنے
والا خون۔

العنادی: عنادی مذہب کو ماننے والا۔
العنادیة: وہ لوگ جو چیزوں کو حقیقت
ماننے سے انکاری ہیں۔

العند۔ دل۔ معقول۔
العند۔ جانب۔ کہا جاتا ہے "هو يمشي
وسطاً لا عنداً" وہ وسط میں چلتا ہے کنارہ
میں نہیں۔

العند والعند والعند گوشہ۔
العنود۔ ميانہ روی سے ہٹنے والا ج۔ عند
کہا جاتا ہے "سحابه عنود" موسلا دھار
برسنے والا بادل۔ عقیبة عنود: دشوار گزار
کھائی۔ رجل عنود: کسی کے ساتھ نہیں

بلکہ تمہا اترنے والا مرد۔

عندر المطر: سخت بارش ہونا۔
عندل عندلة. الهزار: بلبل کا چھپانا۔

العندليب: بلبل۔ ج عنادل۔
العندم (دم الاخرین)۔

عنزہ (ن) عنزاً۔ نیزہ مارنا۔ عنز و اعننز
و استعننز عنہ: علیحدہ ہونا اور ایک گوشہ
میں اترنا۔

اعنز الشئ: جھکانا۔
تعنز: لوگوں سے علیحدہ ہونا۔

العنز: سر۔ بکری۔ مادہ چکور۔ مادہ شکرہ۔
ہرنی۔ مادہ گدھ ج عناز و اعنز و عنوز۔
العنزۃ: بکری۔

العنزۃ: وڈا جس کے نیچے پھل لگا ہو۔
عنزۃ الفاس پھاوڑے کی دھار ج عنز و
عنزات۔

القزوفة: جھولا۔ اس سے فعل مشتق
عزق نکالا گیا ہے۔

العنوز والعنیز: مصیبت میں مبتلا۔
عنس (ض) عنسا العود: لکڑی کو
جھکانا۔ موڑنا۔

عنست (ن ض) و عنست (س)
عنوساً و عناساً و عنست و عنست
و اعنست الجارية: لڑکی کا بالغ ہونے
کے بعد دیر تک بلاشادی کے رہنا۔ صفت

عانس ج عوانس و عنس و عنس و
عنوس عنس الرجل: بغیر نکاح کے بڑی
عمر تک رہنا۔ صفت عانس۔ اعنس
الشئ: متغیر کرنا۔ اعنس الشئ

وجهة: بڑھاپے کا چہرے کو بدل دینا۔ کہا
جاتا ہے "فلان لم تعنس او لم تعنس
السن وجهه: یعنی فلاں کی عمر نے
بڑھاپے کی طرف رخ نہیں کیا۔ و عنس
الجارية أهلها: لڑکی کو اس کے گھر والوں
نے نکاح کرنے سے روکے رکھا۔ صفت

معتسة ج معتسات و معانس
عنس (س) عنسا۔ ہر وقت آئینہ میں
دیکھنا۔
العنس: سر۔ عقاب۔ قوی اونٹنی ج۔
عناس و عنوس۔
العناس: آئینہ ج عنس۔
عنش (ن ض) عنشاً۔ العود: لکڑی کو
موڑنا۔ جھکانا۔ الرجل: تکلیف پہنچانا۔
غضبناک کرنا۔
عانشہ معانسة و عناشاً: لڑائی میں ایک
دوسرے سے لپٹ جانا۔ مفاخرت کرنا۔
اعتنشه: لڑائی میں ایک دوسرے سے
لپٹ جانا۔ ظلم کرنا۔
تعانشاً: ایک دوسرے سے معاف کرنا۔
تعنش المال: ہر طریقہ سے مال جمع
کرنا۔
الأعنش: جھانکنا والا۔ جھینکا۔
العنصر العنصر: اصل۔ کہا جاتا ہے
"انه لکريم العنصر" وہ اصلاً شریف ہے۔
حسب ہمت۔ حاجت۔ مصیبت۔ ہوئی۔
مادہ جسم بیٹھ۔ ج عناصر اور قدماء کے
نزدیک عناصر چار تھے۔ آگ پانی ہوا اور
مٹی۔
عید العنصرة: لہرائوں کی ایک عید ہے
جو عید فصح کے پچاس دن کے بعد ہوتی
ہے۔ اور یہودیوں کے نزدیک طور سینا پر
احکام شریعت کے نزول کی یادگار میں عید
ہے۔
العنصل والعنصل والعنصلاء
والعنصلاء: جنگی پیار۔ جس کو بھل الفار
بھی کہتے ہیں۔
العنصوة والعنصوة والعنصوة
والعنصية والعنصاة: متفرق تھوڑے
سے بال یا گھاس وغیرہ ج عناص۔
العنظ والعنظان والعنظوب: ایک
قسم کی مٹی۔ مؤنث عنظوبة۔
عنظی بہ: ٹھٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی
دینا۔
العنظوان والعنظیان: فحش کئے والا۔

العَنْظُوان: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العَنْظُوانَةُ: واحد ہے عَنْظُوان کی۔ مادہ۔
بڑی عَنْظُوانات۔

عَنْعَنْ عَنْعَنْةً: ہمزہ کو تین کی طرح پڑھنا
الروای: روایت کو عَنْ فُلان عَنْ فُلان
سے بیان کرنا۔

عَنْف (ک) عَنْفًا و عَنَافَةً: بالرجل و
عَلَيْهِ خَتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ
عَنْفًا و عَنَفَةً: خَتِي سے معاملہ کرنا۔

و عَنَفَةً خَتِي سے بھڑکانا۔ عتاب کرنا۔
أَعْنَفُ الْأَمْرِ: خَتِي سے لینا۔

أَعْتَفَ الْأَمْرُ: خَتِي سے لینا۔ الشُّي:
شروع کرنا اجلاس سے پھر جانا۔

العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: خَتِي۔ سخت
و لی۔

العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
الأَعْنَفُ: خَتِي سے پیش آنے والا۔

عَنْفُوان السُّبَابِ و عَنْفُوةً: ابتدائی
جوانی۔ عَنْفُوانُ الحَمْرِ: شراب کی تیزی۔

المَعْنَفَةُ: خَتِي کا سبب۔
تَعْنَفُصٌ: ڈیک مارنا۔ مٹھی بھارنا۔

العَنْفَقَةُ: والہی بچہ۔ عِج عِنَاقِ:
عَنْقِ (س) عَنْقًا: لمبی گردن والا ہونا۔

صفت أَعْنَقُ:
عَنْقُ: طلع النخل: کھجور کے ٹھونڈ کا لبا

ہونا۔ عَنْقَہ: گردن پکڑنا۔ عَنْقُ عَلَیْہ: چلنا
اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔

عَانَقَہ مَعَانَقَہ و عِنَاقًا: بغل گیر ہونا۔
گلے لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔

أَعْنَقُ: الزُّرْعُ: کھیتی کا لبا ہونا۔ خوش
لگنا۔

الکَلْبُ: کتے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔
النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ

الْبِلَادُ: دور دور ہونا الدَّابَّةُ: جانور کا
چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا الرِّيحُ: ہوا کا

مٹی کو اڑانا۔
تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

تَعَنَّقَ الرَّجُلَانِ: ایک کا دوسرے سے
گلے ملنا۔

أَعْتَقَ الشُّي: لازم ہونا۔ سختی سے
پکڑنا۔

أَعْتَقَ الرَّجُلَانِ: لڑائی وغیرہ میں ایک کا
دوسرے کے گلے کو پکڑنا۔

العَنْقُ والعَنْقُ (م) کر کے اور مؤنث بھی
استعمل ہے) عِج عِنَاقِ: و عِنَقُ كُلِّ شَيْ:
ہر چیز کا اول۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ فُلَانٌ

فِي عِنَقِ الصَّيْفِ" وہ گرمی کی ابتدا میں مر
گیا "فَلَمَّا أَخَذَ بَعْنَ السَّيْفِ" وہ ساٹھ سال

کی ابتدا میں پہنچ گیا۔ "وَكَانَ ذَلِكَ عَلَي
عَنْقِ الذَّهْرِ" وہ زمانہ قدیم سے تھا۔ "وَلَمَّا

عَنْقُ فِي الخَيْرِ" اس کیلئے پہلی ہی نیکی میں
سبقت ہے۔ "وَهُمْ عِنَقُ الْبَلْکِ" وہ لوگ

تیزی طرف مائل ہیں۔ تیرے منتظر ہیں۔
والعَنْقُ: رئیس لوگ۔ جماعت۔

العَنْاقِيَّةُ: سفید پھولوں والی زمین پر ایک
ویل۔

العَنْقُ: سر۔ جانور کی تیز چال۔
العِنَاقُ: بکری کا بچہ سال پورا ہونے سے

پہلے۔ عِج أَعْنَقُ و عِنُوقُ: عِنَاقُ الْأَرْضِ:
بلی کی قسم کا ایک ڈکاری جانور۔ العِنَاقُ:

مصیبت (والعِنَاقَةُ) خَتِي و محرومی۔
الأَعْنَقُ: لمبی گردن والا۔

العِنَقَاءُ: أَعْنَقُ کا مؤنث۔ عِج عِنَقُ: عِنَقَاءُ
مَغْرِبُ و العِنَقَاءُ المَغْرِبُ و المَغْرِبَةُ:

ایک فرضی پرندہ کا نام۔ مصیبت۔ ٹیلہ کی
چوٹی۔ کسی چیز کی ہلاکت و بربادی کی خبر

دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں حَلَقَتْ بِہِ فِي
الجَوِّ عِنَقَاءُ مَغْرِبُ: یعنی عِنَقَاءُ مَغْرِبُ

اس کو فضاء آسمانی میں لے کر اڑا۔ هَضْبَةُ
عِنَقَاءُ: بلند ٹیلہ۔

العَانِقَاءُ: جنگلی چوہے کا سوراخ۔
العِنِيقُ: گردن۔ بغل گیر ہونے والا۔

المَعْنِقُ: تیز دوڑنے والا۔ زمین کا سخت و

بلند حصہ۔ لمبی گردن والا۔ عِج عِنَاقِ:
صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْعَنْ عَنْعَنْةً: ہمزہ کو تین کی طرح پڑھنا
الروای: روایت کو عَنْ فُلان عَنْ فُلان

سے بیان کرنا۔
عَنْف (ک) عَنْفًا و عَنَافَةً: بالرجل و
عَلَيْهِ خَتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْفًا و عَنَفَةً: خَتِي سے معاملہ کرنا۔
و عَنَفَةً خَتِي سے بھڑکانا۔ عتاب کرنا۔
أَعْنَفُ الْأَمْرِ: خَتِي سے لینا۔

أَعْتَفَ الْأَمْرُ: خَتِي سے لینا۔ الشُّي:
شروع کرنا اجلاس سے پھر جانا۔
العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: خَتِي۔ سخت
و لی۔
العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
الأَعْنَفُ: خَتِي سے پیش آنے والا۔
عَنْفُوان السُّبَابِ و عَنْفُوةً: ابتدائی
جوانی۔ عَنْفُوانُ الحَمْرِ: شراب کی تیزی۔
المَعْنَفَةُ: خَتِي کا سبب۔
تَعْنَفُصٌ: ڈیک مارنا۔ مٹھی بھارنا۔
العَنْفَقَةُ: والہی بچہ۔ عِج عِنَاقِ:
عَنْقِ (س) عَنْقًا: لمبی گردن والا ہونا۔
صفت أَعْنَقُ:
عَنْقُ: طلع النخل: کھجور کے ٹھونڈ کا لبا
ہونا۔ عَنْقَہ: گردن پکڑنا۔ عَنْقُ عَلَیْہ: چلنا
اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔
عَانَقَہ مَعَانَقَہ و عِنَاقًا: بغل گیر ہونا۔
گلے لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
أَعْنَقُ: الزُّرْعُ: کھیتی کا لبا ہونا۔ خوش
لگنا۔
الکَلْبُ: کتے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔
النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ
الْبِلَادُ: دور دور ہونا الدَّابَّةُ: جانور کا
چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا الرِّيحُ: ہوا کا
مٹی کو اڑانا۔
تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

بلند حصہ۔ لمبی گردن والا۔ عِج عِنَاقِ:
صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْعَنْ عَنْعَنْةً: ہمزہ کو تین کی طرح پڑھنا
الروای: روایت کو عَنْ فُلان عَنْ فُلان

سے بیان کرنا۔
عَنْف (ک) عَنْفًا و عَنَافَةً: بالرجل و
عَلَيْهِ خَتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْفًا و عَنَفَةً: خَتِي سے معاملہ کرنا۔
و عَنَفَةً خَتِي سے بھڑکانا۔ عتاب کرنا۔
أَعْنَفُ الْأَمْرِ: خَتِي سے لینا۔

أَعْتَفَ الْأَمْرُ: خَتِي سے لینا۔ الشُّي:
شروع کرنا اجلاس سے پھر جانا۔
العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: خَتِي۔ سخت
و لی۔

العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
الأَعْنَفُ: خَتِي سے پیش آنے والا۔
عَنْفُوان السُّبَابِ و عَنْفُوةً: ابتدائی
جوانی۔ عَنْفُوانُ الحَمْرِ: شراب کی تیزی۔
المَعْنَفَةُ: خَتِي کا سبب۔
تَعْنَفُصٌ: ڈیک مارنا۔ مٹھی بھارنا۔
العَنْفَقَةُ: والہی بچہ۔ عِج عِنَاقِ:
عَنْقِ (س) عَنْقًا: لمبی گردن والا ہونا۔
صفت أَعْنَقُ:
عَنْقُ: طلع النخل: کھجور کے ٹھونڈ کا لبا
ہونا۔ عَنْقَہ: گردن پکڑنا۔ عَنْقُ عَلَیْہ: چلنا
اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔
عَانَقَہ مَعَانَقَہ و عِنَاقًا: بغل گیر ہونا۔
گلے لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
أَعْنَقُ: الزُّرْعُ: کھیتی کا لبا ہونا۔ خوش
لگنا۔
الکَلْبُ: کتے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔
النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ
الْبِلَادُ: دور دور ہونا الدَّابَّةُ: جانور کا
چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا الرِّيحُ: ہوا کا
مٹی کو اڑانا۔
تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

عَنْعَنْ عَنْعَنْةً: ہمزہ کو تین کی طرح پڑھنا
الروای: روایت کو عَنْ فُلان عَنْ فُلان

سے بیان کرنا۔
عَنْف (ک) عَنْفًا و عَنَافَةً: بالرجل و
عَلَيْهِ خَتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْفًا و عَنَفَةً: خَتِي سے معاملہ کرنا۔
و عَنَفَةً خَتِي سے بھڑکانا۔ عتاب کرنا۔
أَعْنَفُ الْأَمْرِ: خَتِي سے لینا۔

أَعْتَفَ الْأَمْرُ: خَتِي سے لینا۔ الشُّي:
شروع کرنا اجلاس سے پھر جانا۔
العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: خَتِي۔ سخت
و لی۔

العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
الأَعْنَفُ: خَتِي سے پیش آنے والا۔
عَنْفُوان السُّبَابِ و عَنْفُوةً: ابتدائی
جوانی۔ عَنْفُوانُ الحَمْرِ: شراب کی تیزی۔
المَعْنَفَةُ: خَتِي کا سبب۔
تَعْنَفُصٌ: ڈیک مارنا۔ مٹھی بھارنا۔
العَنْفَقَةُ: والہی بچہ۔ عِج عِنَاقِ:
عَنْقِ (س) عَنْقًا: لمبی گردن والا ہونا۔
صفت أَعْنَقُ:
عَنْقُ: طلع النخل: کھجور کے ٹھونڈ کا لبا
ہونا۔ عَنْقَہ: گردن پکڑنا۔ عَنْقُ عَلَیْہ: چلنا
اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔
عَانَقَہ مَعَانَقَہ و عِنَاقًا: بغل گیر ہونا۔
گلے لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
أَعْنَقُ: الزُّرْعُ: کھیتی کا لبا ہونا۔ خوش
لگنا۔
الکَلْبُ: کتے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔
النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ
الْبِلَادُ: دور دور ہونا الدَّابَّةُ: جانور کا
چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا الرِّيحُ: ہوا کا
مٹی کو اڑانا۔
تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

عَنْعَنْ عَنْعَنْةً: ہمزہ کو تین کی طرح پڑھنا
الروای: روایت کو عَنْ فُلان عَنْ فُلان

سے بیان کرنا۔
عَنْف (ک) عَنْفًا و عَنَافَةً: بالرجل و
عَلَيْهِ خَتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْفًا و عَنَفَةً: خَتِي سے معاملہ کرنا۔
و عَنَفَةً خَتِي سے بھڑکانا۔ عتاب کرنا۔
أَعْنَفُ الْأَمْرِ: خَتِي سے لینا۔

أَعْتَفَ الْأَمْرُ: خَتِي سے لینا۔ الشُّي:
شروع کرنا اجلاس سے پھر جانا۔
العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: خَتِي۔ سخت
و لی۔

العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
الأَعْنَفُ: خَتِي سے پیش آنے والا۔
عَنْفُوان السُّبَابِ و عَنْفُوةً: ابتدائی
جوانی۔ عَنْفُوانُ الحَمْرِ: شراب کی تیزی۔
المَعْنَفَةُ: خَتِي کا سبب۔
تَعْنَفُصٌ: ڈیک مارنا۔ مٹھی بھارنا۔
العَنْفَقَةُ: والہی بچہ۔ عِج عِنَاقِ:
عَنْقِ (س) عَنْقًا: لمبی گردن والا ہونا۔
صفت أَعْنَقُ:
عَنْقُ: طلع النخل: کھجور کے ٹھونڈ کا لبا
ہونا۔ عَنْقَہ: گردن پکڑنا۔ عَنْقُ عَلَیْہ: چلنا
اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔
عَانَقَہ مَعَانَقَہ و عِنَاقًا: بغل گیر ہونا۔
گلے لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
أَعْنَقُ: الزُّرْعُ: کھیتی کا لبا ہونا۔ خوش
لگنا۔
الکَلْبُ: کتے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔
النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ
الْبِلَادُ: دور دور ہونا الدَّابَّةُ: جانور کا
چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا الرِّيحُ: ہوا کا
مٹی کو اڑانا۔
تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

عَنْعَنْ عَنْعَنْةً: ہمزہ کو تین کی طرح پڑھنا
الروای: روایت کو عَنْ فُلان عَنْ فُلان

سے بیان کرنا۔
عَنْف (ک) عَنْفًا و عَنَافَةً: بالرجل و
عَلَيْهِ خَتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ عَنِيفٌ

عَنْفًا و عَنَفَةً: خَتِي سے معاملہ کرنا۔
و عَنَفَةً خَتِي سے بھڑکانا۔ عتاب کرنا۔
أَعْنَفُ الْأَمْرِ: خَتِي سے لینا۔

أَعْتَفَ الْأَمْرُ: خَتِي سے لینا۔ الشُّي:
شروع کرنا اجلاس سے پھر جانا۔
العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: خَتِي۔ سخت
و لی۔

العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
الأَعْنَفُ: خَتِي سے پیش آنے والا۔
عَنْفُوان السُّبَابِ و عَنْفُوةً: ابتدائی
جوانی۔ عَنْفُوانُ الحَمْرِ: شراب کی تیزی۔
المَعْنَفَةُ: خَتِي کا سبب۔
تَعْنَفُصٌ: ڈیک مارنا۔ مٹھی بھارنا۔
العَنْفَقَةُ: والہی بچہ۔ عِج عِنَاقِ:
عَنْقِ (س) عَنْقًا: لمبی گردن والا ہونا۔
صفت أَعْنَقُ:
عَنْقُ: طلع النخل: کھجور کے ٹھونڈ کا لبا
ہونا۔ عَنْقَہ: گردن پکڑنا۔ عَنْقُ عَلَیْہ: چلنا
اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔
عَانَقَہ مَعَانَقَہ و عِنَاقًا: بغل گیر ہونا۔
گلے لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
أَعْنَقُ: الزُّرْعُ: کھیتی کا لبا ہونا۔ خوش
لگنا۔
الکَلْبُ: کتے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔
النَّجْمُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ
الْبِلَادُ: دور دور ہونا الدَّابَّةُ: جانور کا
چوڑے قدم ڈال کر تیز چلنا الرِّيحُ: ہوا کا
مٹی کو اڑانا۔
تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

تَعَنَّقَ الیَزْبُوعُ: جنگلی چوہے کا بل بیل

غان و عنی مؤنث غانیة و عنیة الشئی: ظاہر کرنا۔ غنبت الأرض بالنبات اگانا۔ غناه الامر: تم میں ڈال دینا۔ غنا الامر علیہ دشوار ہونا۔ غنبت الامر بفلان نازل ہونا۔ (غنوا) الكتاب بعنوان لکھنا۔ حظ پر پتہ لکھنا۔

عنا یعنو عنوة زبردستی لے لینا۔ صلحا لینا۔

عنا یعنو و عنی یعنی عننا۔ فی القوم قیدی ہونا۔ صفت غانج عناء مؤنث غانیة غایات و عوان۔

عنی تعنیة الرجل قید کرنا۔ اعنی اعناء الرجل۔ فرمانبردار کرنا۔ ذلیل کرنا۔ اعنت الأرض النبات اگانا۔ العانی بہتا ہوا خون یا پانی۔

العنو والعنا گوشہ کنارہ۔ ج اعناء کہا جاتا ہے "جاءنا اعناء من الناس" ہمارے پاس مختلف قبائل کے لوگ آئے۔ عنون عنونة دیباچہ لکھنا۔

عنوان الكتاب و عنوانہ و عنیانہ و عنیانہ: دیباچہ کتاب۔ "وعنوان کل شئی" وہ جس کے ظاہر سے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہا جاتا ہے "الظاہر عنوان الباطن"۔

عنی یعنی عنیا الامر لفلان واقع ہونا۔ نازل ہونا فیہ الاکل مفید ہونا الأرض بالنبات اگانا (عنی و عنیة) بما قالہ کذا بمراد لینا۔

عنی اللہ بہ عنایة حفاظت کرنا۔ عنی یعنی عنایة و عنایة و عنیا الامر فلانا مشغول کرنا۔ فکر مند کرنا۔ عنی بالامر و عنی بہ یعنی عنی مشغول ہونا۔ فکر مند ہونا۔ مشقت لاحق ہونا۔

صفت غان و عن: عنی یعنی عنی الاکل فیہ مفید ہونا۔ عنی یعنی اعناء لکھنا۔

عنی تعنیة و اعنی اعناء الرجل تکلیف

پہنچانا۔ امر دشوار کی تکلیف دینا۔ الكتاب دیباچہ لکھنا۔ کہا جاتا ہے "ما اعنی شینا" یعنی کسی چیز کو فائدہ نہیں دیا۔

عانی معاناة الشئی مشقت برداشت کرنا الرجل مالة مال کی حفاظت کرنا۔ مدارات کرنا۔ الهنوم فلانا: تفرقات کا آنا۔

تعنی تعنیاً برداشت کرنا۔ تھکنا الامر برداشت کرنا۔ تکلیف اٹھانا فی الامر قصد کرنا الحمی فلانا بخار کا بار بار آنا۔

اعنتی اعتناء بالامر اہتمام کرنا۔ پروا کرنا الامر واقع ہونا۔ نازل ہونا۔ کہا جاتا ہے ہو بہ اعنی یعنی زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔

العنی اہتمام کرنے والا۔ مؤنث عنیة العنیان عنوان۔ العیة والعناء والعنا تھکن۔

المعنی مقصود۔ معنی (الكلمة) کلمہ کا مدلول۔ معنی الکلام کلام کا مضمون ج معان معانی سے انسان کے صفات محمودہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "فلان حسن المعانی"۔ فلاں اچھی صفات والا ہے۔

المعنوی معنی کی طرف منسوب۔ معنی الکلام و معناتہ و معنیہ مدلول کلام۔

عہد (س) عہدا الامر پہنچانا الشئی: حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرتے رہنا فلان وعدة حفاظت کرنا اور پورا کرنا۔ عہد اللہ توحید بیان کرنا فلانا بمکان کذا: ملاقات کرنا۔ کہا جاتا ہے "عہدی بہ قریب" میری ملاقات اس سے قریب ہے۔ عہد الی فلان وصیت کرنا اور شرط لگانا الیہ فی کذا وصیت کرنا اور ذمہ دار بنانا۔

عہد المکان موسم ریح کی پہلی بارش کا

ہونا۔

عاہدہ معاہدہ کرنا۔ حلیف بننا۔ اعہد فلانا من کذا: امین بنانا۔ بری کرنا۔ کفالت کرنا۔

تعاهد القوم: ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا۔ حلیف بننا۔

تعاهد و تعہد و اعتمد الشئی: حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ عہد کی تجدید کرنا۔ تعہد و اعتمد املاکہ: اپنے الملاک کی حفاظت و اصلاح کرنا۔ (تعاهد) کا لفظ بھی اس کے لیے مستعمل ہے۔

استعہد فلان من صاحبہ عہد لینا فلانا من نفسه: اپنے حواث نفس کا ذمہ دار ٹھہرانا۔

العہد سر۔ وفا۔ ضامن۔ امان۔ ذمہ۔ دوستی۔ وصیت۔ بیٹاق۔ قسم۔ شاہی فرمان۔ ج غنود: وہ مکان جس میں کسی چیز کا عہد کیا گیا ہو۔ ولی العہد: بادشاہ کا جانشین۔ کہا جاتا ہے "کان ذلک فی او علی عہد فلان" یعنی یہ فلاں کے زمانہ میں تھا "و عہدی بہ انہ لکریم" یعنی میرے علم میں وہ کریم ہے و "ہو قریب العہد بکذا" وہ فلاں کے قریب الرال ہے "و علی عہد اللہ لافعلن کذا" میرے اوپر اللہ کی قسم ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ کہا جاتا ہے "منی عہدک بفلان" تم نے اسے کب دیکھا۔ العہد القدریم: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح سے پہلے لکھی گئیں۔ العہد الحدید: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح کے بعد لکھی گئیں۔

العہد والعہدہ والعہدہ موسم ریح کی پہلی بارش۔ ج عہاد۔ العہادہ موسم ریح کی پہلی بارش۔ العہدۃ ضامن۔ کفالت۔ اصلاح کے لیے واپس۔ کہا جاتا ہے "لنی فی الامر عہدۃ" یعنی میں اصلاح کیلئے معذریہ لوگوں گا۔ حظ یا عقل کا نقص۔ کہا جاتا ہے

”فی خطہ عہدۃ“ اس کا خط ردی ہے۔

العہد عہدے کو پسند کرنے والا۔ معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔

العہدان ضمان و کفالت۔

العہید معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ کیا ہوا۔ پرانا۔

المعہذ وہ جگہ جس میں کوئی چیز معہود ہو۔ لوگوں کی واپسی کی جگہ۔ معاہدہ۔

المعہوذ مث۔ معروف۔ مشہور۔

عہر (ف) عہرًا و عہرًا و عہرًا و عہرًا

عہارۃ و عہورۃ و عہر (س) عہرًا

الیہا: زنا کرنے کے لیے جانا۔ صفت مذکر

عہر نج عہرًا صفت مؤنث عاہر و عاہرۃ نجواہر

عاہرہا عہارًا زنا کرنے کے لیے جانا۔

العہر زنا کرنے کیلئے جانے والا۔ زنا کار۔

العاہل شہنشاہ۔ بڑا بادشاہ۔ بے خاوند

عورت۔ نجواہل

عہن (ن) عہنًا بالمکان: اقامت

کرتلہ من المکان: لگنائی العمل:

کوشش کرنا لی فلان: عہد لینا فلان

مرادہ: جلدی پورا کرنا لشیخہ ہمیشہ ہونا

اور ثابت ہونا۔

عہنت (ن) ض لکھوٹنا۔ جرائد النخل:

درخت خرما کی شاخوں کا خشک ہونا۔

عہن (ض) عہنًا القضب: شاخ کا

چکنا اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔

عہن (س) عہنًا لہ کذا: جلدی کرنا

الشئی حاضر ہونا۔

العہن اون یا رنگی ہوئی اون لکھوٹنا

کہا جاتا ہے، ہو عہن مال یعنی وہ مال کا

بہتر انتظام کرنے والا ہے۔

العہنتہ شاخ کی لچک جو ٹوٹنے کے قریب

ہو۔

العہنتہ اون یا رنگی ہوئی اون کا ایک ٹکڑا۔

ایک درخت ہے جس کا پھول سرخ رنگ کا

ہوتا ہے۔

العاهن فا فقیر حاضر۔ ثابت۔ جلدی کرنے والا۔ ڈھیلا۔ کال۔

العواہن درخت خرما کی خشک شدہ

شاخیں۔ عاہنہ کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے

”زَمی الکلام علی عواہنہ“ جو کچھ منہ

میں آیا کہہ دیا۔ بغیر سوچے ہوئے کہ صحیح

ہے یا غلط۔

عَاثٌ یُعُوْثُ عَوَاثًا وَّ عَوَاثٌ فَلَانًا عَن

کَذَا: بتا دینا یہاں تک کہ متحیر ہو جائے۔

عَوَاثٌ: دیر کر دینا۔

تَعَوَّثٌ: متحیر ہونا۔

المعاث: مذہب۔ مسلک۔ گنجائش۔ کہا

جاتا ہے ”اِنَّ لِيْ عَنْ هَذَا الْاَمْرِ لِمَعَاثًا“

یعنی میرے لئے اس معاملے میں گنجائش

ہے اس لیے اس کا چھوڑنا میرے لیے ممکن

ہے۔

عَاجٌ یُعَوِّجُ عَوَاجًا وَّ مَعَاجًا بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا فلانا بالمکان: مہیم کرنا

السائِر: ٹھہرنا۔ الی او علی المکان:

ماکل ہونا۔ متوجہ ہونا۔ فلان عَمَّا عَزَمَ

عَلَيْهِ: پختہ ارادہ سے ہٹ جانا۔

البعیر: اونٹ کو لگام سے پھیرنا۔ کہا جاتا

ہے سچا عوج بکلامہ: میں اس کے کلام

کی پروا نہیں کرتا عیاجا و عوجا) الیہ:

ماکل ہونا۔

عوج یعوج عوجا۔ العود و نحوہ:

لکڑی وغیرہ کا ٹیڑھا ہونا لانسان: بد خلق

ہونا۔ صفت عوج

عوج تعویجا العود و نحوہ: لکڑی

وغیرہ کا ٹیڑھا کرنا لعصا و نحوہ: لاشخی

وغیرہ پر ہاتھی دانت جڑنا۔ صفت مفعولی

مفعولہ تسکین عین کے ساتھ ہے لنافیہ:

اونٹنی کو پھیرنا عوجہ عن الشئی: باز

رکھنا۔

تعوج تعوجا و اعوج اعوجا عوجا العود:

لکڑی کا ٹیڑھا ہونا۔

انعاج انعیاجا علیہ: مڑنا۔

العاج ہاتھی دانت۔ العاجہ: ہاتھی دانت کا ایک ٹکڑا۔

العواج ہاتھی دانت کا بیچنے والا۔

العوج: کچی۔ پیچیدگی۔

العوجاء: مؤنث اعوج کمان۔ ذیلی

اونٹنی نخوج

المعاج: سر ٹھہرنے کی جگہ۔

عَادَةٌ یُعَوِّدُ عَوْدًا: ہناسعاد السائل:

واپس کرنا عَادَ فَلَانًا بِالْمَعْرُوفِ: احسان

و بھلائی کرنا۔

عَادَ یُعَوِّدُ عَوْدًا وَّ عَوْدَةً وَّ مَعَادًا لِكَذَا

و الی کذا: کسی کی طرف ہونا۔ اعراض

کے بعد واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے ”عَادَ

عَلَى مِنْ فَلَانٍ مَّكْرُوۡةٌ“ فلاں کی جانب

سے مجھے تکلیف پہنچی۔

عَادَ یُعَوِّدُ عَوْدًا وَّ عِبَادًا: الشئی دوبارہ

کرنا۔ اسی سے مثل ہے ”العود احمدہ“

عَادَ الْاَمْرُ کَذَا: بہتصلی اور یہ افعال

ناقص میں سے ہے اور بھی ایک حالت

سے دوسری حالت کی طرف انتقال کے

لیے آتا ہے جیسے ”عَادَ فَلَانٌ شَيْخًا“ یعنی

فلاں جوان سے بوڑھا ہو گیا۔

عَادَهُ عَوْدًا: عادت بنا لینا۔

عَادَ یُعَوِّدُ عَوْدًا وَّ عِبَادًا وَّ عِبَادَةً وَّ

عَوَادَةً المریض: بیمار پرسی کرنا۔ صفت

مذکر عَادَ نَعُوۡدًا وَّ عَوۡدًا وَّ عَوۡدًا: اور

صفت مؤنث عَادَتُهُ مَعُوۡدًا اور صفت

مفعولی عَوۡدًا اور مفعولہ

عَوۡدٌ فَلَانًا کَذَا: عادی بنا دینا البعیر:

اونٹ کا بوڑھا ہونا الرجیل: عمر رسیدہ ہونا۔

عیۃ تفتیۃ: عید میں حاضر ہونا۔

عَاوَدُهُ مَعَاوَدَةً وَّ عَوَادًا: الرجیل: امر

اول کی طرف واپس الی الشئی: عادت بنا

لینا۔ کہا جاتا ہے ”عَاوَدَتُهُ الحَمٰی“ بار بار

بخار آیا ”عَاوَدَهُ بِالْمَسْأَلَةِ“ بار بار سوال

کیا۔

عَادَ اِعَادَةً الْاَمْرًا وَّ الْکَلَامَ: لوٹانا۔

دہراتا الشیء عادت بنا لیا۔ طاقث رکھنا الشیء
إلی مکانہ: اس کی جگہ پر واپس کرنا۔ کہا جاتا
ہے ”فَلَانٌ مَا یُعِیدُ وَمَا یُبْدِئُ“ جبکہ کوئی
حیلہ نہ ہو۔ ”زَانِثٌ فَلَانًا مَا یُبْدِئُ وَمَا
یُعِیدُ“ یعنی کچھ بھی گفتگو نہیں کرتا نہ ابتدا و نہ
عادۃ۔

تَعَوَّدَ تَعَوَّدًا الْمَرِیضُ: بیمار پر سی کرنا
الشیء عادی ہونا۔
إِعْتَادَ إِعْتَادًا: شیء خورگ ہونا۔ عادی
ہونا۔

تَعَاوَدَ الْقَوْمُ فِی الْحَرْبِ: ہر فریق کا اپنے
ساتھیوں کو پاس واپس جانا۔
إِسْتِعَادَ اسْتِعَادَةً: لوٹنے کو کہنا الشیء
فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ: لوٹانے کو کہنا السیء
عادی ہونا۔ خورگ ہونا۔

عَادَ: عرب اولیٰ کا ایک شخص۔ ایک پرانا قبیلہ
جو اسی شخص کے نام سے موسوم تھا۔ کہا جاتا
ہے ”مَا أَذْرَىٰ أَىٰ عَادَ هُوَ“ مجھے نہیں
محسوس کہ وہ کون ہے۔

العادی: وہ امر جس کی عادت جاری ہو۔
پرانی چیز۔ اقوام قدیمہ کے کھنڈرات۔ ع
عادیات۔

العَوْدُ: سر۔ بوڑھا اونٹ۔ بوڑھی بکری۔ ع
عَوْدٌ: پرانا راستہ۔ کہا جاتے ”رَجَعَ عَوْدًا
عَلَىٰ بَدِئِهِ“ او ”رَجَعَ عَوْدُهُ عَلَیٰ بَدِئِهِ“
یعنی اس کا سفر ختم نہیں ہوا اور واپس آ گیا۔

العَوْدُ: لکڑی۔ کٹی ہوئی ٹہنی۔ ایک قسم کی
خوشبو جس کو بطور بخور استعمال کیا جاتا ہے۔
زبان کی جڑ کی ہڈی۔ سارنگی ج عیندان و
اغواد و اعوڈ۔

عَوْدُ الصَّلِیبِ و عَوْدُ الْقَرْحِ و عَوْدُ
الْأَنْجَبَارِ: دواؤں کے نام۔

العینید: عید۔ ہر وہ دن جس میں کسی صاحب
فضل یا کسی بڑے واقعہ کی یادگار مناتے ہوں۔
کہا گیا ہے کہ اس کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ
ہر سال لوٹ کر وہ دن آتا ہے اور اصل اس کی
(عَوْد) ہے۔ اور اس کی جمع قاعدہ کے مطابق

(اغواد) ہونی چاہئے تھی مگر (عَوْد) بمعنی
لکڑی کی جمع سے فرق کیلئے اس کی جمع (اعیاد)
آتی ہے۔ العینید: بار بار آنے والی بیماری یا غم
وغیرہ۔

العَادَةُ: عادت۔ خوج عادات و عاد و
عید و عَوَاب۔ (عَوَابٌ: عوامند گویا عائدہ کی جمع ہے۔)
العَوَادُ: سارنگی بجانے والا۔

الْأَعْوَادُ: نافع تر۔ زیادہ مفید۔ کہا جاتا ہے
”هَذَا عَوْدٌ عَلَیْكَ“ یعنی یہ تمہارے لیے
زیادہ نافع ہے۔

العَائِدَةُ: مَوْتٌ عَائِدَةٌ: عَوْدٌ و عَوَائِدُ
و عَائِدَاتٌ: بھلائی۔ صلہ۔ مہربانی۔ منفعت۔
عِوَالِدٌ: العوائد۔ محصول۔

نَعَوَادٌ: مہربانی۔ بھلائی کا کام۔ کہا جاتا ہے
”أَنْ لِّكَ عِنْدَنَا عَوَادًا حَسَنًا“ یعنی
تمہارے لیے ہمارے پاس وہ ہے جو تم پسند کرو۔
عَوَاوِثٌ: عین کے ساتھ ہے۔

العَوَادَةُ: سر۔ کھانا جو ایک مرتبہ کھالینے کے
بعد نئے مہمان کیلئے دوبارہ لایا جائے۔ کہا جاتا
ہے ”لِکَ الْعَوَادَةُ وَلِکَ الْعَوْدُ وَالْعَوْدَةُ“
تیرے لیے واپسی کا حق ہے۔

المعاد: سر۔ لوٹنے کی جگہ۔ آخرت۔
جنت۔ عِج (والمعادة) رونے کی جگہ نوحہ
کرنے کی جگہ۔ معاود۔

المُعِیدُ: فا۔ حاذق۔ تجربہ کار۔ عالم بالا مور۔
بار بار جہاد کرنے والا۔ کہا جاتا ہے ”فَرَسٌ
مُعِیدٌ مُعِیدٌ“ سدھایا ہوا گھوڑا۔

المعَاوِدُ: فا۔ بھینگی کرنے والا۔ اپنے عمل
میں ماہر۔ جوان مرد۔

المُعِیدُ: غضبناک۔ سخت ظالم۔
عَادٌ یَعُوذُ عَوْدًا و عِبَادًا و مَعَادًا و
مَعَادَةٌ تَعَوَّدُ و اسْتِعَادَ بِفَلَانٍ مِنْ کَذَا:
پناہ لینا۔ عَادٌ بِالْشَیْءِ: لازم ہونا۔

عَوْدٌ تَعَوَّدًا و اَعَادَ اِعَادَةً و اَعُوذُ
اِعْوَادًا: الرَّجُلُ: حفاظت کی دُعا کرنا اور
اَعِیْذُکَ بِاللّٰهِ: مَتر کرنا۔ عَوْدُ الرَّجُلِ:
کسی پر تعویذ لگانا۔

تَعَاوَدَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی پناہ لینا۔ ایک
دوسرے پر بھروسہ کرنا۔

العَوْدُ: پناہ۔ کہا جاتا ہے ”عَوْدٌ بِاللّٰهِ مِنْکَ“
یعنی میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔

العِیَادُ: سر۔ پناہ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”العِیَادُ
بِاللّٰهِ مِنْکَ“ یعنی میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا
ہوں۔

العَوْدُ: پناہ کی جگہ۔ کراہت۔ درختوں سے
گرے ہوئے تھے۔ ناکس و فرودا یہ لوگ۔

العَوْدَةُ: عَوْدٌ و التَّعْوِیدُ: عَوْدٌ و التَّعْوِیدُ:
المُعَادَةُ: مَعَادَاتٌ تعویذ۔ اسماہ آیات
قرآنی جو لکھ کر آدمی کے گلے وغیرہ میں دفع
بیماری وغیرہ کیلئے لکھایا جائے۔

العَوَادُ: کراہت۔ کہا جاتا ہے ”مَا تَرَکْتُ
فَلَانًا إِلَّا عَوَادًا مِیْنًا“ میں نے فلاں کو
صرف کراہت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔

العَائِدَةُ: عَوْدٌ عِنْدَیْ جِنِّی: عَوْدٌ عِنْدَیْ جِنِّی
گھوڑا ج عَوْدٌ و عَوْدٌ اَنْجَعُ عَوْدَاتٌ۔

العَائِدَةُ: مَوْتٌ عَائِدَةٌ: عَوَائِدُ و عَوَائِدُ
عَائِدَاتٌ: العوائد: چاند ستارے جن کے
وسط میں ایک ستارہ ہے جس کا نام ریح ہے۔

المعاد: سر۔ جانے پناہ۔ متر۔ کہا جاتا ہے
”مَعَادَ اللّٰهِ و مَعَادَ وَجْهِ اللّٰهِ“ و ”مَعَادَةُ
اللّٰهِ و مَعَادَةُ وَجْهِ اللّٰهِ“ یعنی اللہ کی پناہ لیتا
ہوں۔

المُعَوَّدُ: پکاؤالنے کی جگہ۔ تعویذ لگانے کی
جگہ۔ گھروں کے ارد گرد اونٹوں کی چراگاہ۔

المُعَوَّدُ و المَعُوذُ و العَوْدُ: کانٹوں یا
درختوں کی جڑیں یا پتھر کے نیچے کی نباتات۔

عَارَهُ یَعُوذُهُ عَوْرًا: کانا کر دینا۔ عَارَ
الشیء لے جانا اور تلف کرنا (وَأَعَارَ عَیْنَ
المَاءِ او الرِّکْبَةِ: پانی کے چشمہ یا کنوئیں کو بند
کر دینا۔ عَارَتْ عَیْنَ المَاءِ او الرِّکْبَةِ:
پانی کے چشمہ یا کنوئیں کا بند ہونا۔

عَوْرٌ یَعُوْرُ عَوْرًا و اِعْوَرٌ: کانا ہونا۔
صفت مذکر۔ اِعْوَرٌ صفت مؤنث۔ عَوْرٌ اِعْوَرٌ
عَوْرٌ و عَوْرَانٌ۔

عَاَزٌ يُّعَوِّزُ عَوْرًا الشَّيْءَ فَلَانًا: محتاج ہونا۔

اور کامیاب نہ ہونا۔

عَوْرٌ يُّعَوِّزُ عَوْرًا: الشَّيْءُ: دُشوار ہونا۔

باوجود حاجت کے کامیاب ہونا۔

الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔ صفت عَوْرٌ و عَانِزٌ و اَعْوَزٌ۔

اَعْوَزٌ اِعْوَاژًا: الرَّجُلُ: محتاج و بدحال

ہونا۔ صفت مُعَوِّزٌ و مُعَوَّزٌ: اَعْوَزَهُ

المُضْطَلَبُ: مطلوب کا عاجز کر دینا اور اس کا

حصول دُشوار ہونا۔ اَعْوَزَنِي الشَّيْءُ: محتاج

ہونا اور قادر نہ ہونا۔ اَعْوَزَ الشَّيْءُ: دُشوار ہونا

الدَّهْرُ فَلَانًا: زمانہ کا کسی کو محتاج کر دینا۔

اِعْوَزَ اِعْوَاژًا: حیلہ کرنا۔ حالت کا گڑبڑ

ہونا۔

العَوْرُ: س۔ دانہ اُحْمَرٌ واحد عَوْرَةٌ: العَوْرُ

حاجت۔ مٹتی۔

المِعْوَزُ و المِعْوِزَةُ: پُرَانَا بوسیدہ کپڑا۔ ہر وہ

کپڑا جس سے دوسرے کپڑے کی حفاظت ہو۔

ج معَاوِزٌ و مَعَاوِزَةٌ۔

عَاسٌ يُّعَوِّسُ عَوْسًا و عَوْسَانًا: رات

میں چکر لگانا علی عیالہ: آل اولاد کے لیے

محت سے کمانا عیالہ: خوراک دینا (عَوْسًا و

عِيَاسَةً) الذَّنْبُ: بھیڑنے کا رات میں

خوراک دُشوار ہونا (عَوْسًا) الشَّيْءُ: تعریف

کرنا مَعِيَشْتَهُ: درست کرنا۔

عَوْسٌ يُّعَوِّسُ عَوْسًا: ہنسنے میں رخساروں

میں گڑھا پڑنا۔ صفت اَعْوَسٌ۔

العَوْسُ: سپید مینڈھے اور نسبت کیلئے

عَوْسِيٌّ: کہا جاتا ہے۔ کَبِشٌ عَوْسِيٌّ۔

العَوَّاسُ: صیغہء مبالغہ۔

عَاصٌ يُّعَاصُ و عَوَّاصٌ يُّعَوِّصُ عِيَاصًا

و عَوَّاصًا: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ دُشوار ہونا

الكَلَامُ: جس کا کھنا دُشوار ہو۔

اِغْتَاصٌ اِغْتِيَاصًا: الأَمْرُ عَلَيْهِ: سخت

ہونا؛ دُشوار ہونا۔ پیچیدہ ہونا جس کی وجہ سے

صواب کو نہ پانا۔

عَوَّصٌ: نفل یا قول میں راہ راست پر نہ ہونا۔

عَوْرَاتٌ عَوْرَاتٌ۔

العَانِي: ف۔ وہ شخص جس کی آنکھ میں تنکا ہو۔

آشوبِ چشم۔ تنکا۔ ہر وہ چیز جو آنکھ کو تکلیف

پہنچائے۔ العَانِي مِنَ السَّهَامِ: او

الحجَارَةِ: وہ تیر یا پتھر جس کا پھینکنے والا معلوم

نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَهُ سَهْمٌ او حَجْرٌ

عَانِيٌّ" اس کو ایسا تیر یا پتھر آکر لگا جس کے

پھینکنے والا معلوم نہیں۔

العَانِيَةُ: مؤنث عَايزٌ۔ کثرت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ

مِنَ الْمَالِ عَانِيَةٌ عَيْنِيْنِ" اس کے پاس اتنا

مال ہے جو دونوں آنکھوں کو بھر دیتی ہے۔ عَيْنٌ

عَانِيَةٌ: تنکے والی آنکھ ج عَوَائِرُ: العَوَائِرُ مِنَ

الْجِرَادِ: ٹڈیوں کی متفرق ڈار۔

العَاوِرَةُ و العَارِيَةُ و العَارِيَةُ: مٹتی۔ مٹتی

دینا۔ وہ چیز جس کو لوگ آپس میں لیں دیں۔ ج

عَوَارٌ و عَوَارِيٌّ۔

العَوَارُ و العَوَارُ و العَوَارُ: عیب۔ کپڑے

کا پھین۔

الأَعْوَرُ: کانا۔ مؤنث عَوْرَاءٌ ج عَوْرٌ و

عَوْرَانٌ و عَوْرَانٌ: المَعَانِي العَوْرُ:

معانی مشکل۔ فَلَآءُ عَوْرَاءٌ بے پانی کا جنگل۔

كَلِمَةُ عَوْرَاءٌ: كلمهء قبيحہ۔ الأَعْوَرُ: کوا۔

ردی۔ ضعیف ا بزدل۔ بری رہنمائی کرنے

والا۔ مچھنی ہوئی کتاب وہ شخص جس کا حقیقی

بھائی نہ ہو۔ وہ راستہ جس میں کوئی علامت نہ

ہو۔ ج اَعَاوِرُ۔

العَوْرُ: ردی۔ سیرت۔ شَيْءٌ عَوْرٌ: وہ چیز

جس کا نگہبان کوئی نہ ہو۔ مؤنث عَوْرَةٌ۔

العَوِيْرُ: کوا۔

العَوِيْرَانُ: ٹڈیوں کی متفرق ڈار۔

العَوَارُ: تنکا۔ لباہیل۔ راستہ سے ناواقف۔

كَمْرُورٌ: بزدل۔ ج عَوَاوِيرُ۔

المُعَارُ: ڈبلا کیا ہوا گھوڑا اور بقول بعض دم

نچا ہوا گھوڑا۔

المُعَوَّرُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ: دہشت ناک۔

رَجُلٌ مُعَوَّرٌ: بری عادت والا۔ شَيْءٌ مُعَوَّرٌ:

جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔

عَوْرَةٌ: کانا کرناہ عَنِ الأَمْرِ: باز کرنا۔

عَوْرٌ عَلَيْهِ أَمْرٌ: قباحت ظاہر کرنا۔ عَوْرٌ

المَكَايِلُ: بیابان کا اندازہ کرنا عَيْنَ البِيْر:

کنوئیں کو مٹی سے بھر دینا۔ عَنِ فَلَانٍ:

دوسرے کی جانب سے جھوٹ بولنا۔ فَلَانًا:

رد کر دینا اور حاجت پوری نہ کرنا۔

أَعْوَرَهُ اِعْوَارًا: کانا کر دینا۔ اَعْوَزَ الشَّيْءُ:

ظاہر ہونا۔ اعضاء مستورہ کا کھل جانا۔ اَعْوَرُ

الفَارِسُ: سوار میں نیزہ لگنے کی جگہ ظاہر ہونا

الرَّجُلُ: شک کرنا۔

اِعَارَةٌ اِعَارَةٌ: الشَّيْءُ وَمِنَ الشَّيْءِ: مٹتی

دینا۔

عَاوَرَهُ الشَّيْءُ مَعَاوِرَةً: مٹتی دینا۔ عَاوَرَ

الشَّمْسُ: انتظار کرنا۔ عَارَهُ الشَّيْءُ: جیسا

کسی نے کچھ کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا۔

عَاوَرَ و عَاوِرٌ: المَكَايِلُ: بیابان کا اندازہ

کرنا۔

اِعْوَرَ: کانا ہونا۔ اِعْوَرَتْ و اِعْوَارَتْ

العَيْنُ: آنکھ کا کانی ہوجانا۔

تَعَوَّرَ العَارِيَةُ: مٹتی ماٹنا (و تَعَاوَرَ

وَ اِعْتَوَرَ) القَوْمُ الشَّيْءُ: باری باری لینا۔

دست بدست لینا۔ کہا جاتا ہے "تَعَاوَرَتِ

الرِّيَاحُ رَسْمَ الدَّارِ" مکان کے نشانات و

کھنڈرات پر مختلف ہوائیں۔ کبھی جنوبی کبھی

شمالی کبھی غربی کبھی شرقی چلیں۔

اِسْتَعْوَرَ الرَّجُلُ: منفرد ہونا۔ اکیلا ہونا۔

اِسْتَعَارَ الشَّيْءُ مِنْ فَلَانٍ و اِسْتَعَارَ فَلَانًا

الشَّيْءُ مٹتی دینے کو کہا اور اسی سے ہے "أَرَى

الدَّهْرُ يَسْتَعِيرُ فِي نِيَابِي" میں زمانہ کو دیکھتا

ہوں کہ وہ میرے کپڑوں کو عاریت دینے کو کہتا

ہے اور یہ آدمی اس وقت کہتا ہے جبکہ وہ بوڑھا

ہو جاتا ہے اور اسے موت کا خوف ہوتا ہے۔

العَوْرَةُ: خَلَّلٌ جو سر حد میں ہو اور جس سے

خوف کیا جائے۔ العَوْرَةُ مِنَ الْجِبَالِ:

شکاف مِنَ الشَّمْسِ: جائے طلوع و غروب۔

العَوْرَةُ: ہر امر جس سے شرم کی جائے۔

انسان کے اعضاء جن کو حیا سے چھپایا جاتا ہے ج

الشاعر أو الخطيب: ایا شعر یا کلام کہا جس کا سمجھنا دشوار ہو۔

اغوص عوصا و عیاضا. والقیاس اغواصا: بخصمه و علی خصمه: دلائل سے حیران کر دینا فی الکلام: باریک بات کہنا۔

عاصه معاوضة: کشتی لڑنا۔ چھاڑنا۔ الاعوص: باریک بات۔ مؤنث عوصاء۔ العوصاء: مؤنث اغوص۔ سختی۔ حاجت کلمة عوصاء: کلمہ بناوہ۔ العوص: دشواری۔

العائص والعوص والعیضاء: سختی۔ حاجت۔ العوص: نفس قوت۔ حرکت۔ العویص: من الأمور: دشوار من الکلام جس کا سمجھنا دشوار ہو من الذواہی: سخت مصیبتیں۔ مؤنث عویصة۔ العویص: سختی۔ نفس۔ قوت۔ حرکت۔

عاص یعوض عوصا و عوصا و عیاضا و عواض و اعاض اعاضة فلانا من کذا: بدلہ دینا۔

تعوض واعتاض: منہ بدلہ لینا۔ اعتاض: واستعاض فلانا: بدلہ مانگنا۔

عوض: یہ کلمہ معنی ہے اور تینوں حرکتوں کے ساتھ مستعمل ہے اور اسم طرف ہے۔

استفراق مستقبل کا کام دیتا ہے جیسے "لا افارقت عوض" یعنی میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا یا استفراق ماضی کے کام میں آتا ہے جیسے "ما رأیت مثله عوض" یعنی میں نے اس کے مانند کبھی نہیں دیکھا اور نفی کے ساتھ مختص ہے اور اضافت کی حالت میں معرب ہوتا ہے جیسے "لا افعله عوض العائضین" یعنی میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔

العوض: ع اغواص... العائض: المعاوضة بدلہ۔ تعوط المرأة أو الناقة: عورت یا اونٹنی کا کئی سال بغیر بانجھ پن کے حاملہ ہونا العنق:

گردن لمبی ہونا۔

اغتاطت المرأة أو الناقة: عورت یا اونٹنی کا کئی سال تک بغیر بانجھ پن کے حاملہ نہ ہونا۔ ج عوط و عوانط و عیظ و عیظات و عیظات۔

عاف یعوف عوفا الطائر: پرندہ کا منڈلانا۔

تعوف الأسد: شیر کا رات میں شکار کو ڈھونڈنا اور پھاڑنا۔

العاف: نرم۔ العوف: من حال۔ حصہ۔ مہمان۔ مرغ۔ شیر۔ بھڑیا۔ اہل و عیال کیلئے مشقت برداشت کرنے والا۔ پرندہ۔ ایک خوشبودار نباتات۔ ابو عوف زبیدی۔ ام عوف: مادہ مذی۔ العواف والعوافة: شکار جس کو شیر رات میں پھاڑے۔ غنیمت۔

عاقه یعوفه عوفا و عوفه و عاقفه اعاقه و اعنافة اعتیافا عن کذا: روکنا۔ باز رکھنا۔ ہٹا دینا۔ کہا جاتا ہے "اعوق بی الزاد او الذابئة اغواقا" یعنی مجھ کو سفر سے توشیا سواری نے باز رکھا۔

تعوق: پیچھے ہٹنا۔ تعوق فلانا: باز رکھنا۔ روک دینا۔

العوق والعوق: روکنے والا۔ بے فیض آدمی۔ لوگوں کو ناپیچھے کاموں سے روکنے والا۔ وادی کا موڑ۔ ج اغواق۔ العوق والعوق والعوق والعوق: بزدل۔ روکنے والا۔

رجل عوفه و عوفه و عوق و عیق و عیق: لوگوں کو اعمال خیر سے روکنے والا۔

العوق: بھوک۔ العائق: پھولوں کی ایک قسم۔

العائق: قاب۔ ہر روکنے والی چیز۔ ج عوانق و عوق: عوانق الذہر: زمانے کے مشاغل۔

العائقة: مؤنث عائق: عمل سے روکنے والی چیز۔ ج عوانق۔

العیوق: نام ایک ستارے کا جو ثریا کے پیچھے

ہوتا ہے۔

العواق والعوق: چلتے ہوئے جانور کے پیٹ کی آواز۔

عاک یعوک عوکا و معاکا علیہ: حملہ کرنا۔ متوجہ ہونا بہ: پناہ لینا معاشرہ: کمائی کرنا۔ صفت عائک:

تعاوک القوم: باہم لڑنا۔ اعتوک القوم: ہجوم کرنا۔

العوک: من کہا جاتا ہے "ما بہ عوک" یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں۔

العویکة والمعوكة: لڑائی۔ المعاک: جائے پناہ۔ راستہ۔ برداشت۔

عال یعول عولا فی حکمہ: ظلم کرنا۔ راہ حق سے ہٹ جانا (یعول عولا و عال یعیل عیلا) فی المیزان: خیانت کرنا المیزان: گھٹنا امر القوم: مضرب ہونا الشی فلانا: بھاری ہونا۔ غالب الناقه ذنبها: اونٹنی کا زام اٹھانا۔

عال یعول عولا و عیالہ: کثیر العیال ہونا۔

عال یعول عولا و عیالہ و عؤولا الرجُل عیالہ: اہل و عیال کے معاش کی کفالت کرنا الیتیم: کفالت کرنا کہا جاتا ہے "عال عؤلہ و عیل عؤلہ" یعنی اس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔

عال و عیل صبرہ: صبر جاتا رہنا۔ الرجُل: محتاج ہونا۔ صفت۔ معول۔

اعال لخالہ و اعول اغوالا و اعیل اعیالا الرجُل: بہت اولاد والا ہونا۔ اعال الرجُل: محتاج ہونا۔ اعال و اعیل: حریص ہونا۔ صفت معول و معیل اعال عیالہ: اہل و عیال کے معاش کیلئے کافی ہونا۔

اعول: حج کرنا۔ اعولت القوس: کمان کا آواز کرنا۔ اعول الرجُل: حرص کرنا علی فلان: ناز کرنا۔ بھروسہ کرنا۔

عول حج کرنا علی فلان و بہ: مدد مانگنا۔ بھروسہ کرنا۔ اعتماد کرنا۔ کہا جاتا ہے

المُعَوَّن. بہتر مددگار۔ بہت مددگار۔ ج معاویین۔

التَّعَاوُنِيَّةُ: کھانے پینے اور لباس وغیرہ اشیاء کا سستا شور جس کو یونٹیلیٹی شور بولا جاتا ہے۔

الْمُعِينُ: چار برابر اضلاع والی شکل قائم زاویہ کے علاوہ۔ شکل معین بنانا۔

الْمُتَعَاوِنَةُ: بوڑھی عورت۔

غَاةٌ يَغُوهُ غُوُوْهَا وَعِيْنَةُ الزَّرْعِ: کھیتی کا آفت رسیدہ ہونا الرَّجُلُ: آفت رسیدہ کھیت

یا جانوروں کا مالک ہونا۔ صفت غَائِنَةٌ وَعَاةٌ وَ غَاةٌ وَأَعُوهُ.

عَوَةُ الرَّجُلِ: آفت پہنچانا وَأَعَاةٌ وَأَعُوهُ إِعَاةَةٌ وَإِعْوَاهَا وَتَعَوَةُ تَعُوْهَا) آفت

رسیدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا۔ عَوَةُ الْقَوْمِ: کچھ دیر سونے کیلئے سفر میں ٹھہر جانا۔

عَوَةُ عَلَيْهِمْ: ٹھہرنا۔ اقامت کرنا۔

الْعَاةَةُ: آفت۔ أَهْلُ الْعَاهَاتِ: آفت رسیدہ لوگ۔

الْمَعِيُوهُ وَالْمَعُوَّةُ وَالْمَعِيَهُ مِنَ

الْمَوَاشِي وَغَيْرِهَا: آفت رسیدہ۔

عَوَى يَعْوَى عَوَاءً وَعِيًّا وَعَوَةً وَعَوِيَّةً الْكَلْبُ أَوْ الذَّنْبُ وَابْنُ أَوْى: بھونکتا۔

کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَا يَعْوَى وَمَا يَنْجُ" جبکہ کسی کو ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ الْقَوْمُ إِلَى الْفِتْنَةِ: بلانا (عَوَاهُ يَعْوِيهِ عِيًّا: عَنِ الشَّيْءِ): باز رکھنا (وَعَوَى الْقَوْسُ وَ نَحْوُهَا: کمان کو جھکانا الْجَبَلُ أَوْ الشَّعْرُ:

رستی یا پال کو موڑنا عَنِ الرَّجُلِ: جواب دینا اور غیبت کرنے والے کی تکذیب کرنا۔

إِعْتَوَى إِعْتَوَاءَ الشَّيْءِ: موڑنا الْكَلْبُ کتے کا بھونکتا۔

عَاوَى: الْكَلَابُ مُعَاوَاةٌ بھونک کر کتے کو آسانا۔

تَعَاوَى تَعَاوِيًا الْقَوْمُ عَلَى فَلَانٍ: کسی پر جوم کرنا۔

إِنْعَوَى إِنْعَوَاءً: مڑنا۔

إِسْتَعْوَى إِسْتِعْوَاءَ الْقَوْمِ: فریاد کرنا۔ تَتَدَّ

أَعْوَمَ إِعْوَامًا. ایک سال کا ہونا۔ سال کے اول میں ہونا۔

الْعَامُ: جمع عَامَةٌ کی۔ دن | سال۔ ج أَعْوَامٌ تَقْبِيرٌ عَوِيْمٌ. نسبت کے لیے عامی۔

الْعَامَةُ: عامہ کا بیچ۔ سوار کاسر جو میدان میں دور سے نظر آئے۔ کھٹی۔ العامۃ: کئی ہونٹی

کھیتی کے جمع کئے ہوئے گٹھے ج عام۔ العومۃ: پانی میں تیرنے والا ایک کیزر۔ ایک قسم کا سانپ ج عوم۔

العوام: عالم کا ہالغ۔ تیز رفتار گھوڑا۔ العومۃ: پھنسی کی ڈوری کی وہ لکڑی وغیرہ جو

پانی پر تیری رہتی ہے اور جس کی حرکت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھجلی پھنسی ہے۔

العوام: سوار کاسر جو میدان میں دور سے نظر آئے۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتَهُ ذَاتَ الْعَوِيْمِ"

یعنی میں سالوں میں کسی سال ملا۔ الْمُسْتَعَامُ: جہاز کشی۔

عَاثَتْ تَعُوْنَ عَوْنًا الْمَرْأَةُ: عورت اُدھیر عمر کی ہونا۔

عَوْنَةٌ تَعُوْنِيْنَا وَعَاوَنَةٌ مُعَاوَنَةٌ وَعَوَانًا وَ أَعَانَهُ أَعَانَةً عَلَيَّ الشَّيْءُ مدد کرنا عَوْنَتْ الْمَرْأَةُ: ادھیر عمر کی ہونا۔ اغانہ مِنْهُ: اس نے اس کو اس سے خلاصی دی۔

تَعَاوَنَ وَإِعْتَوَى الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

إِسْتَعَانَ: فَلَانًا بِفَلَانٍ: مدد طلب کرنا۔ العون: س۔ مدد کرنا۔ مددگار۔ خادم (واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے مستعمل ہے) ج

أَعْوَانٌ. العانة: گدھی۔ گور خر کا ریوڑ۔ پیڑو۔ ج عُونٌ وَعَانَاتٌ

العوان: بارش شدہ زمین جگہ جس میں بار بار لڑائی ہو۔ الْحَرْبُ الْعَوَانُ: سخت جنگ

العوان: ادھیر عمر کا۔ نَحْوَانٌ. العوانة: کھجور کا لہبا درخت۔ ریت کا ایک

کیزر۔ ایک جانور جو سیدھ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ الْمَعَانَةُ وَالْمَعُوَّةُ وَالْمَعُوْنُ: مدد۔

"عَوَّلَ عَلَيَّ بِمَا شِئْتُ" یعنی جو تم چاہو مجھ سے مدد لو۔ اور عَوَّلَ عَلَيْهِ مَعُوْلًا کہا جاتا ہے اور تَعْوِيْلًا نہیں کہا جاتا اور اسم العول ہے اور کہا جاتا ہے "عَوَّلْنَا إِلَى فُلَانٍ فِى حَاجَتِنَا فَوَجَدْنَاهُ نِعْمَ الْمَعُوْلُ" یعنی ہم نے فلاں کی اپنی حاجت میں پناہ لی اور ہم نے اس کو بہتر جائے پناہ پایا۔

عَيْلٌ تَعْيِيْلًا عَيْالَةً: اہل و عیال کے معاش کے لیے کافی ہونا۔

إِعْتَوَلَ إِعْتَوَالًا: چیخ کر رونا۔ کہا جاتا ہے "مَالُهُ عَالٌ وَلَا مَالٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

العول والعولة والعوييل: چیخ کے ساتھ گریہ و زاری۔ العول: ہر تکلیف دہ کام۔ اہل و عیال کی خوراک مدد طلب کیا ہوا۔

العول: بھروسہ۔ اعتماد۔ مدد طلب کرنا۔ عمدہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عَوِيْلِيٌّ مِنَ النَّاسِ"

یعنی لوگوں میں فلاں آدمی میرے لیے قابل اعتماد ہے۔

العالة: شتر مرغ۔ بارش سے بچنے کے لیے لکڑی وغیرہ کی چھوٹی پڑی۔

عَيْلُ الرَّجُلِ: گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ واجب ہو مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے ج عیال و عیائل و عالة۔

البيعول: کدال ج معاول۔

المعول: جس سے فریاد کی جائے۔ جس پر بھروسہ کیا جائے۔

عَامٌ يَعْوَمُ عَوْمًا فِي الْمَاءِ: تیرنا۔ صفت عامٌ. عَامَتِ السَّفِيْنَةُ فِي الْمَاءِ: کشتی کا چلنا۔ عَامٌ الزَّمَامُ: لگام کا ہلنا۔ عامت النجوم: ستاروں کا چلنا۔

عَوْمٌ: کئی ہوئی کھیتی کا دستہ دستہ رکھنا۔ عَوْمٌ السَّفِيْنَةُ: کشتی چلانا۔ کھینا الْكُرْمُ: درخت

خرما کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔ عَوْمَتٌ وَعَاوَمَتُ النَّخْلَةِ: درخت خرما کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔ عَاوَمٌ فَلَانٌ فَلَانًا اِكْبَ سَالٍ كَيْلَيْهِ كَرِيْمٌ پرمعاملہ کرنا۔

العيار. جمع غير. عيارُ الشئ: هر چيز کا اندازہ۔ ج عيارات عيارُ الدرّاهم او الدنانير: دراهم اور دنانير کا ٹھيپہ۔ العيار: بہت پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔ فرس عيار: تيز رفتار گھوڑا۔ المعيار: کسوٹی۔ ج معايير۔ المعمار: من الخيل: گھوڑا جو مع سوار کے راستہ سے ایک طرف ہو جائے۔ المعايير: عيوب۔ المستعير: جو گدھے کے مشابہ ہو۔ موٹا گھوڑا۔

أعيس إعياساً الزرع: کھیتی کا مرجھانا۔ خشک ہونا۔

تعيست الابل: بھورے رنگ کا ہونا۔ العيس والعيسة: بھورے رنگ کا اونٹ۔ العيس: بھورے رنگ کا اونٹ۔ واحد مذکر أعيس واحد مؤنث عيساء. العيس: عمدہ قسم کے اونٹ۔ العيساء: مادہ ٹڑی۔

عيسى: عبرانی لفظ ہے نام ایک نبی کا ہے نسبت کے لیے عيسوی اور عیسیٰ۔

عاش يعيش عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة ومعيشة وعيشوشة. زنده رہنا۔ عيشة وأعاشة وأعاشة. زنده رکھنا۔ عايشة: ساتھ زندگی بسر کرنا۔

تعيش: اسباب زندگی کے لیے کوشش کرنا۔ تعاشوا بالآلفة والمودة: محبت و پیار سے ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔

العائش: فا۔ کہا جاتا ہے ”هو رجل عائش“ اس کی حالت اچھی ہے۔

العيش: سن زندگی۔ کھانا۔ روٹی (و العيشة) زندگی کی حالت۔

العياش: روٹی پینچنے والا۔ کھانے پینچنے والا۔ عائش کا ماہنامہ۔

المعاش والمعيشة: کھانے پینے کی جس چیز سے زندگی بسر ہو سکے۔ زندگی کا ذریعہ۔ المعاش: زندگی کے گزرنے کے ڈھونڈنے کا وقت یا زمانہ معاش۔

گفتگو کی پروا نہیں کرتا۔ وما عجت بالشئ: یعنی میں اس پر راضی نہیں۔ ”وشربت الدواء فما عجت به“ یعنی میں نے دوا پی اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا (یہ کلمہ ہمیشہ منفی ہی مستعمل ہوتا ہے)۔

عار يعير عيرا: حیرانی کے ساتھ آنا جانا الفرس: گھوڑے کا ناک کی سیدھ پر بھاگنا کہ کوئی چیز اس کو پھیر نہ سکے۔ اسم العيار فلاناً: عیب لگانا۔ عارت القصيدة: قصیدہ کا مشہور ہونا۔

عير فلاناً: عار کی طرف نسبت کرنا۔ فعل کی برائی بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عيرة كذا وعيرة بكذا عير الماء“ کالی والا ہونا۔

عابر و معايرة و عيار المكيال او الميزان: اندازہ کرنا۔ جانتنا۔ عابر فلاناً: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

أعاز إعازة الفرس: چرنے کے لیے چھوڑنا۔ مونا کرنا۔

تعابر القوم: ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا۔ ایک دوسرے کو شرم دلانا۔

العار: عیب۔ ہر وہ قول یا فعل جس سے انسان کو شرم آئے۔ ج اعيار۔

العير: سن گدھایا گورخر۔ اور گورخر کے معنی میں زیادہ مستعمل ہے۔ ج اعيار و عيار و عيور و عيورة و عيارات مؤنث عيرة العير: ہری بھری چیز۔ آنکھ کی پتلی یا پلک کھوٹی۔ ککڑی جو ہودج کے آگے لگی ہوتی ہے۔ پہاڑ۔ سردار۔ بادشاہ۔ ڈھول۔ عير القدم: قدم کے وسط میں ابھرا ہوا حصہ۔ عير النصل: تیر کے پھل کا درمیان حصہ۔ عير الورقة: پتے کے درمیان کا خط۔

العير: قبیلہ حمیر کا قافلہ۔ پھر سارے قافلوں پر بولا جانے لگا۔ ج عيرات و عيرات العابر: فا۔ حیران۔ مزدور۔ چکر لگانے والا سہم عار جس تیر کا چلانے والے معلوم نہ ہو۔ شاة عابرة: بکری جو دو گھوں کے درمیان پریشان ہو کہ کدھر جائے۔

پر ابھارنا: بھوکوانا۔

العواء: بہت بھونکنے والا کتا۔ العوة: سن۔ آواز۔ شور (العوة) چوڑ۔ المعاوية: کتا۔ لومڑی کا بچہ۔

عاب يعيب عيباً الشئ: عیب دار بنانا۔ صفت فا علی غائب اور صفت مفعولی معيب و معيوب۔

فلاناً: عیب کی طرف منسوب کرنا۔ غاب الشئ: عیب ناک ہونا۔ صفت غائب۔ عيب و تعيب الرجل: عیب کی نسبت کرنا الشئ: عیب دار بنانا۔

تعاب القوم: ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا۔

العيب: سن۔ برائی۔ ج عيوب۔

العيبة: ایک مرتبہ عیب جوئی۔ العيب: چڑے کی زنبیل۔ کپڑوں کے محفوظ رکھنے کا صندوق۔ ج عيب و عياب و عينات والعيبة من الرجل: بھید کی جگہ۔

العاب: عیب۔ برائی۔

العياب والعيابة والعيبة: بڑا عیب جو۔

المعاب والمعابة: عیب۔ برائی۔ ج معائب۔

المعيب والمعيوب: عیب دار۔

المعيب: زنبیل بنانے والا۔

عاب يعيب عيباً و عيوباً و عيباناً الشئ: فاسد کرنا فی مالہ۔ فضول خرچی کرنا اور خرچ کرنے میں جلدی کرنا۔ صفت مذکر عيبان صفت مؤنث عيبی۔

عيب: اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولنا۔ اور کہا جاتا ہے عيب يفعل كذا۔ یعنی وہ ایسا کرنے لگا۔

تعيبت الابل: بیرابی سے کم پینا۔

العيوث والعيث: بہت زیادہ فساد کرنے والا (والعائث) شیر۔

العيشة: ایک مرتبہ فساد انگیزی۔ نرم زمین۔

عاج يعيج عياجاً بالشئ: پروا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”لا أعيج بكلامه“ جتنی میں اس کی

الْمُتَعِيشِ. فَـ. جس کے پاس کچھ گزر بسر کے قابل ہو۔
العَيْصُ. گنجان درخت۔ اچھے درختوں کے اگنے کی جگہ۔ اصل۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مِنْ عَيْصٍ كَرِيمٍ“ یعنی شریف اصل سے ہے۔
جِ اعْيَاصٍ وَ عَيْصَانَ.
الْمُعَيْصُ. درخت کے اگنے کی جگہ۔
عَاطَتْ تَعَيْطُ عَيْطًا. العُنُقُ. گردن لمبی ہونا۔

عَيْطٌ يَعْيَطُ عَيْطًا الرَّجُلُ. لمبی گردن کا ہونا۔ صفت مذکر اعْيَطُ اور صفت مؤنث عَيْطَاءُ جِ عَيْطُ.

عَيْطٌ تَعْيِطًا. چیخا۔ چلانا۔
تَعَيْطٌ. غضبناک ہونا القَوْمُ. چیخا۔ شور مچانا۔
تَعَيْطَتِ الْعُنُقُ. گردن لمبی ہونا۔ تَعَيْطٌ الْعُوْدُ. لکڑی میں سے پانی جیسا بہہ کر گوند بن جانا۔

العِيَاطُ. چیخ۔ شور۔
العَايِطُ. فَـ. چیخنے والا جِ عُوْطٌ وَ عَيْطٌ وَ عَيْطٌ وَ عُوْطٌ وَ عَيْطَاتٌ. اور مبالغہ کے لیے کہا جاتا ہے عَائِطٌ عَيْطٌ وَ عُوْطٌ وَ عُوْطٌ.
هَضْبَةُ عَيْطَاءٍ. اونچا پل۔

عَافٌ يَعْفُفُ وَ يَعْافُ عَيْفًا وَ عَيْافًا وَ عَيْفَانًا. الطَّعَامُ وَ غَيْرُهُ. کراہت کی وجہ سے چھوڑ دینا۔

عَافٌ يَعْفِفُ عَيْفَةً. الطَّيْرُ. پرندہ اڑا کر گھون لینا۔
عَافَتْ تَعْفِفُ عَيْفًا الطَّيْرُ. منڈلانا اور اسم عَيْفَةٌ.

أَعَافَ إِعَافَةً. القَوْمُ. پانی ناپسند کرنے والے جانوروں کا مالک ہونا۔

إِعْتِافٌ إِعْتِافًا. سفر کیلئے توشہ لینا الطَّعَامُ وَ غَيْرُهُ. ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دینا۔

العَائِفُ. فَـ. گھون لینے والا۔
العَيْفَةُ. ایک مرتبہ مکروہ جانا۔ عَيْفَةٌ الطَّائِرُ. منڈلانا۔ پرندہ کا چکر۔

العَيْفَةُ. کراہت کی نوعیت۔ عمدہ مال۔
العَيْفَانُ وَ العَيْفُفُ. گھون لینے والا۔
نَسُورٌ عَوَائِفٌ مَقْتُولِينَ. پر منڈلانے والے گدھے۔

العَيْفَانُ. نفرت کرنے کا عادی۔
المُعَيْفُ. مکروہ۔

الْمُتَعَيْفُ. گھون لینے والا۔ فال نکالنے والا۔
عَاقٌ يَعْيقُ عَيْفًا. بمعنی عَاقٌ يَعْوقُ عَوْقًا.
عَاكٌ يَعْيَكُ عَيْكَانًا. موٹھے کو ہلاتے ہوئے چلانا۔

عَالُهُ يَعْيلُهُ عَيْلًا وَ مَعْيَلًا. الشَّيْءُ. عاجز کرنا۔ محتاج کرنا۔ عَالٌ فِي مَشْيِهِ. ناز و انداز سے چلانا۔

عَالٌ يَعْيلُ عَيْلًا وَ عَيْوَلًا وَ عَيْوَلًا فِي الْأَرْضِ. جانا اور پھرنا۔

عَالٌ يَعْيلُ عَيْلًا وَ عَيْلَةً وَ عَيْوَلًا وَ مَعْيَلًا. محتاج ہونا۔ صفت عَائِلٌ مَوْثٌ عَائِلَةٌ

اسم عَيْلَةٌ. عال الرَّجُلُ. کثیر العیال ہونا۔
عَيْلٌ. کثیر العیال ہونا عَيْالُهُ. معاش کی

کفالت کرنا القَوْمُ. عیال بنا لینا۔ بیکار چھوڑ دینا فَرَسَةٌ. مہمل کر دینا۔ بیکار چھوڑ دینا۔

أَعْيَلُ أَعْيَالًا. کثیر العیال ہونا۔ صفت مذکر مُعْيِلٌ. صفت مؤنث مُعْيِلَةٌ.

تَعْيِيلٌ فِي الْمَشْيِ. ناز و انداز سے چلانا۔
العَائِلُ. فَـ. محتاج عالیہ عَائِلٌ وَ عَيْلٌ وَ عَيْلٌ وَ عَيْلِيٌّ.

العَيْلَانُ. نر و بیوہ۔
عَيْلٌ الرَّجُلُ. گھر کے لوگ جِ عَيْالٌ.
عَيْلَةُ الرَّجُلِ وَ عَائِلَتُهُ. گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ واجب ہو۔ کہا جاتا ہے ”أَمْسَيْتُ أَحْسَاعِيَّةً“ یعنی فقیر و محتاج ہو گیا۔

العَالَةُ. فاتحہ۔
العَيْالُ. ناز سے چلنے والا۔

العَيْالَةُ وَ الْمَعَالَةُ. لِلْبُرْذَوْنِ وَ غَيْرِهِ. چارہ۔

رَجُلٌ مُعْيَلٌ صَاحِبُ عَيْالٍ. اہل و عیال والا۔
عَامٌ يَعْامُ وَ يَعْيمُ عَيْمًا وَ عَيْمَةً. دودھ کا

خواہش مند ہونا۔

أَعَامَهُ إِعَامَةً. اللّٰهُ. بغیر دودھ کے چھوڑنا۔
أَعَامَ الرَّجُلُ. بغیر دودھ کے رہنا۔ القَوْمُ.

دودھ کم ہونا۔

إِعْتَامٌ إِعْتِيَامًا. عمدہ مال چھانٹ لینا۔

العَيْمَةُ. دودھ کی بہت زیادہ خواہش۔

العَيْمَةُ. عمدہ مال۔

العِيَامُ. دن۔ کہا جاتا ہے ”سَبَرْنَا الْعِيَامَ كَلَّةً“ یعنی سارے دن چلارہا۔

العِيَامَانُ. دودھ کا خواہش مند۔ مَوْثٌ عَيْمِيٌّ جِ عَيْمِيٌّ.

عَانَ يَعْينُ عَيْنًا. الرَّجُلُ. نظر رکھنا۔ صفت عَائِنٌ. صفت مفعول مَعِينٌ وَ مَعْيُونٌ (عَيْنًا وَ عَيْنَانًا وَ عَيْنَانًا) الْمَاءُ او الدَّمْعُ. پانی یا

آنسو جاری ہونا۔ عَانَتِ الْبُشْرُ. کونوں کا بہت پانی والا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”حَضَرَتْ حَتَّى عَيْتٌ“ یعنی میں نے کھو دیا یہاں تک کہ

پانی کے چشمہ تک پہنچ گیا۔
(عَيْانَةً) القَوْمُ. خبر لانا عَلَى القَوْمِ.

جاسوس بننا۔

عَيْنٌ يَعْينُ عَيْنًا وَ عَيْنَةً. آنکھ کی بڑی چوڑی تیلی والا ہونا۔

عَيْنٌ تَعْيِينًا. الشَّجَرُ. سرسبز ہونا۔ گھونہ دار ہونا التَّاجِرُ. سامان کو ایک مدت کے

وعدے پر بیچنا اور پھر پہلے ٹمن سے کم میں دوبارہ خرید لینا العَيْنُ. عین کو لکھنا اللؤلؤة.

بیندھنا۔

القَرْبَةُ. منک میں پانی ڈالنا تاکہ سلائی کے سوراخ بند ہو جائیں الْحَرْبُ بَيْنَنَا. لڑائی جاری کر دینا الشَّيْءُ. خاص کرنا۔ علیحدہ کرنا

فَلَانًا. برائیوں کو رو رو کر کہہ دینا علی فلان: جاسوسی کرنا عَلَى السَّارِقِ: متہمین

میں سے چور کو متعین کرنا الشَّيْءُ فَلَانًا: کسی کے لیے مخصوص کر دینا۔ کہا جاتا ہے ”مَا عَيْنَ لِي بَشِيٌّ وَمَا عَيْتِي شَيْئًا“ یعنی مجھ کو کچھ

نہیں دیا۔

أَعَانَ إِعَانَةً. دیکھو ماہِ عَمُونَ۔ کہا جاتا ہے

”حَصْرَتْ حَتَّىٰ اَعْيَتْ“ یعنی میں نے کھودا یہاں تک کہ میں پانی کے چشموں تک پہنچ گیا۔ ”وَمَا اَعْيَتْ“ وہ کتابہ نظر ہے۔

عَايَنَةُ عِيَانًا وَّ مُعَايَنَةً. خود دیکھنا۔ معائنہ کرنا۔

تَعَيَّنَهُ. نظر بد لگنا۔ تَعَيَّنَ الرَّجُلُ: یقینی طور پر دیکھنا۔ تَعَيَّنَ الشَّيْءُ: دیکھنا الجلد: کھال کا آبلہ دار ہونا الرَّجُلُ: کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے توقف کرنا۔ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ: معین چیز لازم ہونا السَّفَاءُ: کہنگی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دائرے پڑ جانا۔

اِغْتَانَ. الشَّيْءُ: عمدہ لے لینا۔ اُدْهَارٌ خَرِيدَاتٌ الْقَوْمِ: خبر لاٹھلان منزلًا: تلاش کرنا۔

العَانِ. فا۔ کہا جاتا ہے ”مَا بِالْأَدَارِ عَانِ“ یعنی کوئی نہیں ”و شَرِبَ مِنْ عَانِ“ یعنی بہتے ہوئے پانی سے پیا۔

العَائِنَةُ. مَوْشَعَانِ. کہا جاتا ہے ”لَقَيْتُهُ أَوَّلَ عَائِنَةٍ وَأَذْنِي عَائِنَةٍ“ یعنی ہر چیز سے پہلے عَائِنَةُ بَنِي فُلَانٍ: مال و محافظین مال۔

العَيْنُ. سر۔ آنکھ۔ آنکھ کے ڈھیلے پر بولا جاتا ہے یا پلک وغیرہ سمیت سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ کلمہ مؤنث ہے عِاَعَيْنٌ و عِيُونٌ و عِيُونٌ وَاَعْيَانٌ و جِاَعْيِنَاتٌ اور تصغیر عَيْنَةٌ۔

العَيْنُ. اہل شہر۔ اہل مکان۔ بد نظری۔ کہا جاتا ہے ”بِه عَيْنٍ“ یعنی بد نظر ہے۔ انسان اور اسی سے ہے ”مَا بِالْأَدَارِ عَيْنٍ“ یعنی کوئی نہیں۔ خالص۔ واضح۔ کہا جاتا ہے ”ذَكَرَ الْحَقُّ بَعِيْنَهُ“ یعنی حق کو خالص اور واضح طریقہ سے بیان کیا۔ نیس۔ عزت۔ جھنڈا۔

عَيْنُ الْاِبْرَةِ: سوئی کا ناکہ۔ دیدبان۔ جاسوس۔ جماعت۔ ہر موجودہ چیز۔ کہا جاتا ہے ”بَعْنَهُ عَيْنًا بَعِيْنٌ“ یعنی موجود کو موجود سے بیجا۔ عمدہ چیز۔ کھال کے چھوٹے چھوٹے حلقے۔

دینار۔ نقد موجود۔ ذات شی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ عَيْنًا اَوْ بَعِيْنَهُ“ سود۔ سردار۔ شریف قوم۔ کمانڈر۔ فوج کا ہر اول۔ آفتاب یا شعاع۔

مال۔ تیار مال۔ نالی کے پانی کے گرنے کی جگہ۔ کونوں کے پانی چھوٹنے کی جگہ۔ پانی کا چشمہ۔ جِاَعْيِنٌ و عِيُونٌ. ترازو کا بھکاؤ۔ گوشہ۔ نظر۔ دیکھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ عَيْنٌ عَلِي فُلَانٍ“ یعنی فلاں فلاں کے اوپر نگہبان ہے

”هُوَ عَبْدٌ عَيْنٍ اَوْ صَدِيقٌ عَيْنٍ“ وہ دکھاوے کا خادم یا دوست ہے لَقَيْتُهُ عَيْنٌ عَيْنَةً میں اس کو ایسی حالت میں ملا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا ”لَقَيْتُهُ أَوَّلَ عَيْنٍ“ میں نے اس سے سب سے پہلے ملاقات کی ”لَا تَطْلُبْ أَثَرَ اَبَعَدَ عَيْنٍ“ یعنی بعد معائنہ کے اثر کو مت طلب کرو اور یہ ضرب المثل ہے اس شخص کیلئے جو کسی چیز کو دیکھے اور چھوڑے اور اس چیز کے مفقود ہونے کے بعد اس کے نشان کے پیچھے پڑ جائے۔ ”صَارَ خَيْرًا بَعْدَ عَيْنٍ“ و ”اَنْتَ عَلِيٌّ عَيْنِي“ تم میری حفاظت میں ہو تمہارا

اکرام میری نگاہ میں ہے ”هَآ هُوَ عَرَضٌ عَيْنٍ“ یعنی وہ قریب ہے فَعَلًا۔ عَلِيٌّ عَيْنٍ و عَلِيٌّ عَيْنَتَيْنِ و عَمْدٌ عَيْنٍ و عَمْدًا عَلِيٌّ عَيْنٍ“ یعنی یقین کے ساتھ کوشش کی۔ و فِقَاعِيْنَةُ یعنی اسے طمانچہ مارا اور سخت ست کہاؤ نَعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا“ اللہ تمہاری آنکھ کو بخند کرے۔

العَيْنُ. نیل گائے۔ العَيْنُ. سر۔ اہل شہر۔ جماعت۔ العِيَانُ. سر۔ شخص۔ کہا جاتا ہے لَقَيْتُهُ اَوْرَاهُ عِيَانًا“ یعنی اس نے اس سے ملاقات کی یا اس کو دیکھا اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں۔

العِيَانُ ہل کا پھل تَحْيِيْنٌ وَاَعْيِنَةٌ۔ العَيْنَةُ. عمدہ مال عَيْنَةُ النَحْلِ: عمدہ گھوڑے۔ العَيْنَةُ مِنَ النَّعْجَةِ: بکری کی آنکھ کا گردا گرد عَيْنَةُ الْحَرْبِ: مادہ جنگ۔ کہا جاتا ہے حَتُّوبٌ عَيْنَةٌ: خوش نما کپڑا تَبَعُ عَيْنَةٍ: کسی چیز کو اس کی اصلی قیمت سے زیادہ قیمت پر ادھار چھینا۔

العِيَانِيُّ مِنَ الشَّهَادَةِ: یعنی گواہ۔ العَيْنِيَّةُ: عین کی طرف منسوب۔

العِيُونُ. بہت نظر لگانے والا۔ جِاَعْيِنٌ و عَيْنٌ۔

الْاَعْيِنُ. وہ شخص جس کی پتلی بڑی اور چوڑی ہو۔ مَوْشَعَانُ جِاَعْيِنٌ. الاَعْيِنُ: جنگلی تیل۔ العِيَانَةُ: خوبصورت آنکھ والی۔ بہترین کلمہ۔ کہا جاتا ہے ”اَرْضٌ عَيْنَاءُ“ یعنی سرسبز زمین۔

المُعَايِنَةُ. سر۔ برادری۔ المَعَانُ منزل۔ کہا جاتا ہے ”هَمٌّ مِنْكَ بِمَعَانٍ“ یعنی وہ لوگ ایسی جگہ میں ہیں کہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔

العِيَانُ و المَعِيَانُ. بہت نظر لگانے والا۔ المَاءُ المَعِيْنُ و المَعِيُونُ. جاری پانی۔ عَيْنٌ مَعِيُونَةٌ: بہت پانی والا چشمہ۔

المَعِيْنُ فا ”فِي الْهِنْدِسَةِ“ شکل مسطح مساوی الاضلاع۔

المَعِيْنُ. تیل۔ آنکھ کی شکل کا نقش کِرَائِيْنَةٌ مَعِيْنَةٌ و مَعِيْنَةٌ یعنی نیت ظاہرہ۔ المَعْتَانُ گھاس پانی تلاش کرنے والا۔

عَاةٌ يَعِيْنُهُ عِيْنًا. آفت پہنچنا۔ العَاةِيَّةُ. شور۔ جیج۔

العَاةِيَّةُ. آفت۔ اَرْضٌ مَعِيُوْهَةٌ. آفت رسیدہ زمین۔

عِيٌّ يَعِيٌّ و عِيٌّ يَعِيٌّ عِيًّا و عِيَاءٌ بِأَمْرِهِ و عَنِ أَمْرِهِ: عاجز ہونا۔ ناقابل ہونا۔ لاأَمْرٍ: جاہل ہونا۔

عِيٌّ يَعِيٌّ عِيًّا. فِي الْمُنْطَقِ: کلام میں رک جانا۔ عاجز ہونا۔ مَفْتَحِيٌّ و عِيٌّ عِيًّا تَعْيِيَةً و عَايَا مُعَايَاةَ الرَّجُلِ: غیر مفہوم کلام کہنا۔ عَايَا صَاِحِبَهُ بِيْحِيْدِهِ گفتگو کرنا۔

أَعْيَا اِعْيَاةَ الْمَاشِي: چلنے والے کا تھکانا۔ أَعْيَاةُ: تھکانا عِيَاةُ الدَّاءِ الطَّيِّبِ: مرض کا طیب کو عاجز کر دینا أَمْرٌ عَلَيْهِ: عاجز بنا دینا۔

تَعَايَا أَمْرٌ عَلَيْهِ و تَعَايَا عَلَيْهِ و تَعَايَاهُ. عاجز کرنا۔

عی

عی


عی

۵۹۷

تعایا و تعیا واستعیا بالامر: ناقابل
ہونا۔ طاقت نہ رکھنا۔
العیاء۔ سر۔ عاجزی۔ واء عیاء: ناقابل
علاج مرض۔

العی۔ تھکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔ اج عیاء۔
العی۔ تھکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔ اج عیاء
واعیاء۔
العیان۔ تھکا ہوا۔ عاجز۔

الاعیاء۔ پیچیدہ کلام۔
المعی۔ تھکا ہوا۔ عاجز۔



غ : الْغَيْنُ انیسواں حرف بنیادی حروف میں ہے۔ یہ حروف حلقی (حلق سے نکلنے والے حروف) سے ہے بحساب جمل اس کا عدد (۱۰۰۰) ہے۔

غَبَّ (ن) غَبًّا و غَبًّا چند دن کے بعد ملاقات کرنا۔ غَبَّةً ایک دن نامہ دے کر آنا۔ غَبَّتْ عَلَيْهِ الْحُمَّى: بخار کا ایک دن نامہ دے کر آنا۔ غَبَّ عِنْدَهُ: رات بسر کرنا۔ الرَّأْيُ: رائے اختیار کرنے میں توقف کرنا۔

غَبًّا و غَبًّا و غُبُونًا و غُبُونَةً: الطَّعَامُ کھانے کا باسی ہونا۔ بدبودار ہونا۔ غَبَّتِ الْأُمُورُ: کاموں کا انتہا کو پہنچنا۔

غَبَّتْ (ض) غَبًّا و غَبًّا و غُبُونًا الْمَاشِيَّةُ: جانوروں کا ایک دن نامہ دے کر پانی پینا۔ صفت غَابَتْ جِ غَوَابٌ و غَابَاتٌ

أَعَبَ: الْمَاشِيَّةُ: جانوروں کا ایک دن نامہ دے کر پانی پلانا الْقَوْمُ: ایک دن نامہ دے کر ملاقات کو آنا۔ أَعَبْتَهُ الْحُمَّى وَاغْبَتْ عَلَيْهِ: تیسرے دن بخار آنا۔ أَعَبَ الطَّعَامُ: کھانے کا بدبودار ہونا عِنْدَهُ: رات بسر کرنا۔

غَبَّبَ: الشَّيْءُ: فاسد ہونا فِي الْأُمُورِ: مبالغہ نہ کرنا عَنْهُمْ: دفع کرنا الذَّنْبُ: بھیڑیے کا بکری وغیرہ کے گلے کو پکڑ لینا۔

الغَابُ: فَا: باسی گوشت۔ نَجَمَ غَابٌ: ثابت ستارہ۔

الغَبُّ: مں: نتیجہ انجام۔ بمعنی بعد حَمَى الغَبِّ: تیسرے دن کا بخار اور صفت موصوف

کی صورت میں حُمَى غَبٌّ بھی بولا جاتا ہے۔ ماءً غَبًّا: دور کا پانی جِ اغْبَابُ

الغَبُّ: لہر جو کنارے سے ٹکرائے۔ پست زمین۔ جِ اغْبَابٌ و غُبُوبٌ و غَبَّانُ: العُقَّةُ: زندگی کے گزر بسر کا تھوڑا سامان۔

الغَيْبُ: مرغ اور تیل وغیرہ کے حلق کے نیچے لگنے والا گوشت۔ جِ اغْبَابُ: الغَيْبُ: باسی گوشت۔ چھوٹی ندی پہاڑی یا زمینی۔

الغَيْبِيَّةُ: صبح کا دودھ کہ اسی پر شام کو دوبا جائے۔ اور پھر اگلے دن بلویا جائے۔

التَّغْيَةُ: جھوٹی شہادت۔

المَغْبُ: شیر۔

المَغْعَةُ: انجام۔

الْمُتَغَيَّبُ: انجام کا انتظار کرنے والا۔

غَبَّتْ (ن) غَبًّا: الجَيْنُ بِالشَّمَنِ: بخیر کو گھی سے لت کرنا۔

اغْبَتْ: مِثْلًا رَنُوكَ كَاهِنًا: صفت "اغْبَتْ" الغَيْبَةُ: مِثْلًا رَنُوكَ۔

غَبِجَ (س) غَبِجًا: المَاءُ: لگاتار گھونٹ گھونٹ پینا۔

الغَبِجَةُ: گھونٹ۔

غَبْرَ (ن) غُبُورًا: گزرنے۔ ٹھہرنا۔ گرد آلود ہونا۔

غَبْرَ (س) غَبْرًا: الجُرْحُ: زخم کا خراب ہو کر مندمل ہونا۔ اور پھر ٹوٹ جانا۔ صفت "غَبْرٌ": غبار لگانا۔

غَبْرٌ: غبار اُزَانَا الشَّيْءِ: غبار میں لتھیرنا۔ الرَّجُلُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔ یا قرأت وغیرہ میں آواز کو لوٹانا اور کہا جاتا ہے "غَبْرٌ فِي وَجْهِ فُلَانٍ" اس نے فلاں کے چہرہ میں غبار ڈال دیا یعنی بڑھ گیا۔

اغْبِرَ: غبار اُزَانَا: گرد آلود ہونا۔ فِي الْأُمُورِ: متوجہ ہونا اور کوشش کرنا۔ اغْبِرَتِ السَّمَاءُ: زور سے برسنا۔ اغْبِرَ: گرد آلود ہونا الْيَوْمُ: بہت غبار والا ہونا۔

الغَبْرُ: چیز کا بقیہ۔ جِ اغْبَارُ

الغَبْرُ: چیز کا بقیہ۔ جِ اغْبَارَاتُ: کہا جاتا ہے "غَبْرُ الْمَرَضِ" یعنی مرض کا بھایا۔

الغَبْرَةُ: خاستری رنگ۔

وَالغَبْرَةُ وَالغَبَارُ: مٹی۔ خاک۔

الغَبْرُ: بقاء۔ ذَاهِيَةُ الغَبْرِ: منقطع نہ ہونے والی بڑی مصیبت۔ مٹی۔

الغَبْرَةُ: گرد۔ غبار۔

الغَبْرُ: گرد غبار۔ ناسور۔ جُرْحٌ غَبْرٌ: خراب شدہ زخم۔

الْأَغْبَرُ: خاستری رنگ والا۔ بھیڑا۔ جانے والا۔ کہا جاتا ہے "لَا يَغْرُنُكَ عِزُّ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ" اغْبِرَ: دنیا کی عزت تم کو دھوکا نہ دے اس لیے

کہ وہ جانے والی ہے۔ جِ غَمْرٌ: سخت جھوک کی صفت میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے

"الجُرْحُ الْاَغْبَرُ وَالْمَوْتُ الْاَحْمَرُ" الغَبْرَاءُ: مَوْتٌ اغْبِرَ: مادہ چھوڑ۔ زمین۔ کہا

جاتا ہے ”ما اظلت الحضرَاء ولا اقلت الغبراء مثل فلان“، مثل فلاں پر نہ تو آسان نے سایہ ڈالا اور نہ زمین نے اٹھایا۔ بنو غبراء و بنو الغبراء فقراء۔ سب سے غبراء خشک سال۔

الغبراء چینی کی شراب۔ ایک قسم کا پودہ۔
الغبران ایک غلاف میں دو مچھور۔

الغابر۔ فا۔ گزرا ہوا۔ باقی۔ کہا جاتا ہے ”وهو غابر بنی فلان“ وہ بنی فلاں کا بقیہ ہے۔ ج غبر و غابرون۔ غبر الشی چیز کا بقیہ۔ غبر اللیل رات کا آخری حصہ۔ غبر الناس رتبہ کے لحاظ سے آخری۔

المغبار۔ من النخل وغیرہا: گرد آلود درخت خرما وغیرہ۔

المغبرۃ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہیں۔

غیس (ن) غیسا و اغیس و اغیس و اغیاس۔ اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (اغیس) ج غیس۔ اغیس الشی: خاکستری رنگ کا ہونا۔

الغیسة والغیس: خاکستری رنگ۔ رات کی ابتدائی تاریکی۔

غیش (س) غیشا و اغیش۔ اللیل: رات کی تاریکی کا صبح کی سفیدی سے مخلوط ہونا۔ تغیشہ: دھوکا دینا۔ ظلم کرنا۔ جھوٹا دعویٰ کرنا۔

الغایش: دھوکا باز۔ فریبی۔ اظالم۔
الغیش: رات کا بقیہ۔ آخری رات کی تاریکی ج اغیاش۔

الغیسة: رات کا بقیہ۔ لیل غیش و اغیش: تاریک رات۔ و لیلة غیشاء ج غیش۔

غیصت (س) غیصا۔ العین: ہمیشہ رونے کی وجہ سے بہت کچھ زوالی ہونا۔

الغیص: آنکھ کی کچھڑ۔ کہا جاتا ہے ”فی عینیہ غیص“ اس کی آنکھ میں کچھڑ ہے۔

غبط (ض) غبطا۔ الکبش: مینڈھے کا موٹا معلوم کرنے کیلئے ہاتھ سے ٹٹولنا۔

غبطہ (ض) و غبط (ف) غبطا و غبطۃ کی نعمت کو دیکھ کر ویسا ہی اپنے لیے بھی تمنا کرنا۔ صفت (غابط) ج غبط۔ غبطۃ رشک دلانا۔

أغبط۔ السحاب: لگا تار بارش ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أغبط علينا المطر“ الثبات: زمین کو ڈھانپ لینا۔ اغبطت الحمی علیہ بخار کا لگا تار رہنا۔

اغبط و اغبط: خوشی اور اچھی حالت میں رہنا۔

الغبط والغبط: کئی ہوئی کھیتی کے مٹھے ج غبوط۔

الغبطۃ: حسن حال خوش ارشک اپاری کا لقب۔

الغبطۃ: کجاوہ۔ پست زمین جس کے دونوں طرف بلندی ہو۔ پانی کی لہر جو زمین کی بلندی کو کاٹ دے۔ ج غبط۔

الغبوط: من التوق: اونٹنی جس کی چربی بغیر ہاتھ سے ٹٹولے ہوئے معلوم نہ ہو۔

سبماء (غبطی) لگا تار بننے والا بادل۔

أرض (مغبطۃ) نباتات سے گھری ہوئی زمین۔

الغیظ: گائے یا مرغ کے گلے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔

عقبۃ (ن ض) عقباً و عقبۃ: شام کو پینے کی چیز بلانا۔ عقب الغنم: بکری کو شام کو پلانا دوہنا۔

أعقب: شام کو پینے کی چیز پینا الخمر: شام کے وقت شراب پینا (و تعقب: الناقۃ: شام کے وقت دوہنا۔ الغبوق: شام کو پینے کی چیز اور یہ صبح کے خلاف ہے۔ وہ جو شام کو دوہا جائے (الغبوق والغبوقۃ) اونٹنی جو شام کو دوہی جائے۔ ج غبابق: تم کہتے ہو ”لقیئته ذا صبوح و ذا غبوق“ یعنی میں نے صبح اور شام میں ملاقات کی۔

العقبۃ: وہ رسی جو مال چلاتے وقت تیل کے کوہان والی لکڑی کے سرے پر باندھتے ہیں۔

العقبان: شام کے وقت پینے والا۔ کہا جاتا ہے ”رجل عقبان امرأة عقبی“ ج غبابق۔ غبن (ن) غبنا۔ الثوب: کپڑے کو تنگ یا چھوٹا کرنے کیلئے موڑ کر سینا الرجل: کسی کے سامنے اس طرح گزر جانا کہ نہ وہ دیکھے نہ اسے علم ہو الطعام: کھانے کو حاجت کے وقت کے لیے چھپانا۔

غبنة (ن) غبنا و غبنا۔ فی البیع او الشراء: دھوکا دینا فلاناً: قیمت وغیرہ میں نقصان پہنچانا۔ صفت (غبان) صفت مفعولی (مغبون)

غبین (س) غبنا و غبنا۔ الشی و فیہ: بھولنا۔ غلطی کرنا۔ (غبنا و غبانۃ زایہ): کم سمجھ ہونا۔ کند ذہن ہونا۔

تغبان: بعض کا بعض کو نقصان پہنچانا۔

اغبن: الشی: بغل میں چھپانا۔

الغبین و الغبن: سر۔ خرید و فروخت میں دھوکا و الغبانۃ: کند ذہنی۔ بھول چوک۔

الغبین: کپڑے کی کترن۔

الغابین: فا۔ کام سے سستی کرنے والا۔ کام چور۔

الغبین و المغبون: کم سمجھ۔

الغبین و الغبن و الغبانۃ: کمزور رائے۔ بھول جاتا۔

الغبینۃ: دھوکا۔

المغبانۃ: خرید و فروخت میں نقصان۔

المغبین: بغل۔ جسم کی لوٹ ج مغبان۔

غبی یغبی غباً و غباًوۃ: الشی و عنہ: نا سمجھ ہونا۔ کند ذہن ہونا الشی علیہ: مخفی رہنا عنہ الخبر: چال چل ہونا۔ عامل ہونا۔ منہ الشی: مخفی ہونا۔

تغابی عنہ تغابیا و تغابیا: غفلت برتنا۔ تغابہ و استغابہ: غمی جاننا۔ غمی سمجھنا۔

الغباء: زمین کی پوشیدگی من التراب: بلند غبار۔

الغبوة و الغبوة: غفلت۔

الغبوة و الغبی: جہالت۔ نا سمجھی۔ غفلت۔

الغثی۔ کم سمجھ جال ج اغبیاء و اغباء۔
 غبی تغبیۃ الشئی: چھپانا الشعور: بال کو
 چھوننا کرنا یا جڑ سے اکھیرنا۔
 اغثنی۔ السحاب: کم بارش یا پوچار ہارسانا۔
 الغباء۔ من التراب: بلند غبار۔
 الغبیۃ۔ کم بارش یا پوچار۔
 من التراب: بلند غبار۔ کہا جاتا ہے "جاء
 علی غبیۃ من الشمس" یعنی آفتاب کے
 غائب ہونے کے وقت آیا۔
 الاغثنی من الاغصان: گنجان ٹہنی۔ مؤث
 غبیاء ج غبی شجرة غبیاء: گنجان
 درخت۔
 المغبۃ۔ درندہ جانوروں کے شکار کا گڑھا۔
 ج مغاب۔
 غث (ن) غثا۔ الطعام او الکلام:
 خراب ہونا الشئی فی الماء: پانی میں ڈبونا
 فلانا۔ غمگین کرنا: گلا گھونٹنا فلانا بالامر:
 تھکانا اور غمگین کرنا ہ بالکلام: سرزنش
 کرنا۔ غث الضحک: ہاتھ یا کپڑا رکھ کر ہنسی
 روکنا الماء: برتن کے منہ سے بغیر علیحدہ کئے
 ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی پینا۔
 غثت و اغثت۔ الطعام: کھانے کو خراب
 کرنا۔ بگاڑنا۔
 غثیل (س) غثلا۔ المکان: بہت درخت
 والا ہونا۔ صفت (غثیل)
 اغثم۔ الزیارة: زیادہ ملاقات کر کے ملول
 کرنا۔
 الغثم۔ سخت گرمی جس سے دم گھٹے۔
 الغتمۃ۔ گتنگو میں رکاوٹ۔
 الاغثم والغتمی۔ جو اچھی طرح گتنگو نہ کر
 سکے۔ کہا جاتا ہے "زجل اغثم و قوم غثم
 و اغنام و امرأة غتماء"
 غثت (ض۔س) غثاثة و غثوثة الشاة:
 بکری کا دبلا ہونا۔ کزور ہونا۔ صفت (غثتہ)
 اللحم: لاغر ہونا حدیث القوم روی ہونا۔
 فاسد ہونا۔
 غث (ض) غثا و غثیثا۔ علیہ المکان:

ناموافق ہونا الجرح: زخم سے پیپ وغیرہ
 بہنا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا یعت علیہ شئی"
 یعنی کسی چیز کے متعلق نہیں کہتا کہ وہ روی ہے
 تاکہ اس کو چھوڑے۔
 اغث۔ ذبل ہونا۔ فاسد ہونا۔ فی الکلام:
 بیکار گتنگو کرنا اللحم: ذبلا گوشت خریدنا۔
 اغثت۔ الخیل: موسم بہار کی گھاس پر
 پہنچنا۔
 تغثت۔ الشئی: کم سمجھنا۔
 استغث۔ الجرح: علاج کر کے پیپ وغیرہ
 نکالنا۔
 الغث۔ ذبل۔ من الکلام: روی کلام۔
 الغیث۔ ذبلا۔
 غیث الجرح و غیث: پیپ خون
 وغیرہ۔
 الغیثۃ۔ بے فائدہ چیز۔ عقل کا فتور۔
 غثر (ن) غثرا۔ المکان بالنبات:
 سبزی سے لہلہانا۔
 اغثر۔ الشجر: درخت سے گوند بہنا۔
 اغثار۔ الثوب: زیادہ رواں والا ہونا۔ صفت
 (اغثر)
 الغثر۔ کپڑے کا رواں والا ہونا۔
 الغثر و الغثرۃ و الغثراء و الغیثرۃ۔ کینے
 لوگ۔
 الغثرۃ۔ ارزانی ورتو تازگی۔
 الغثرۃ۔ سبزی مائل بھورا یا سرخ رنگ۔
 الاغثر۔ سبزی مائل بھورا یا سرخ رنگ والا۔
 مؤث (غثراء) ج غثفر۔ زیادہ اون کا کھیل۔
 شیر یا بھیڑیا۔ کچڑ۔ جال۔
 المغثر و المغثار و المغثور۔ بعض
 درختوں کا گوند جھاگیا۔
 أرض (مغثریۃ) سبز سے لہلہانے والی
 زمین۔
 غثم (ن) غثمالة: یکبارگی عمدہ مال دینا۔
 الغیثمۃ۔ اوجھ کا وہ حصہ۔ جس میں بہت سے
 پرت ہوتے ہیں۔
 الغتمۃ۔ سیاہی مائل سفید رنگ۔

الاغثم۔ سیاہی مائل سفید رنگ والا۔
 المغنوم۔ مخلوط۔
 الغیثمۃ۔ ایک قسم کا کھانا جس میں ٹڈی پڑتی
 ہے۔
 غثا یغثو غثوا و غثوا و اغثنی۔ الوادی:
 زیادہ کوڑے کرکٹ والی ہونا۔
 السبل المرتع: سیلاب کا چراگاہ کو بد مزہ بنا
 دینا۔
 الغناء و الغناء۔ جھاگ۔ کوڑا کرکٹ جو
 سیلاب کی جھاگ سے ملا ہو اور۔
 غثنی یغثنی غثنا۔ الوادی: زیادہ کوڑے
 کرکٹ والی ہونا الکلام: مخلوط کرنا۔
 غثت تغثی غثنا و غثینا و تغثت
 النفس: مثلی آنا غثت السماء
 بالسحاب: آسمان پر ابدل چھا جانا۔
 غثنی یغثنی غثنا۔ الکلام: مخلوط کرنا۔
 غث (س) غثا و غثا و غثا۔ البعیر: اونٹ کا
 نرود والا ہونا۔
 غث و غث و غث و غث و غث و غث۔ نرود والا ہونا۔
 صفت (مغث)
 غثد نصیبۃ۔ حصہ لینا۔
 اغث نرود والا ہونا۔ علیہ: غصہ سے
 پھولنا۔
 الغد۔ اونٹوں کا طاعون۔ ج غداد۔
 الغدۃ۔ مال کا ایک حصہ۔ سامان ج غدا اید۔
 (والغدۃ) اونٹوں کا طاعون گوشت کا سخت
 ٹکڑا جو مرض کی وجہ سے کھال اور گوشت کے
 درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ ج غثد و غثا اید۔
 المغداد۔ بہت غضبناک (مذکر و مؤنث)
 غدر (ن ض س) غدرأ و غدرانا۔ خیانت
 کرنا۔ عہد توڑنا۔
 غدر (س) غدرأ المکان: بہت پتھر والا
 ہونا عن أصحابہ: اپنے ساتھیوں سے پیچھے
 رہ جانا الرجل: تالاب کا پانی پینا اللیل:
 اغذره۔ پیچھے چھوڑنا۔ آگے بڑھ جانا۔ ہائی
 رکھنا۔ کچڑ میں جھینکا۔ اغذر اللیل: رات کا
 تاریک ہونا۔

کھانا۔ غَاذِي مُغَاذَاةٌ الرَّجُلُ صُحُّهُ كَقَوْلِهِمْ الغَدَاةُ آتَمَدَهُ كُلٌّ دَوْرُكَادَانِ جَسَدِ كَالنَّظَارِ هُوَ نَسَبُ كَالْيَوْمِ (غَدِيٌّ وَغَدِيٌّ) الغُدُوَّةُ صُحُّ النَّجْرِ أَوْ طُلُوعِ آفَاقِ كَادَرِ مِيَانِ دِنِ كَالْبِتْرَانِيِّ صَهْرُ غَدُوٍّ وَغَدُوٍّ الغَدَاةُ صُحُّ النَّجْرِ أَوْ طُلُوعِ آفَاقِ كَادَرِ مِيَانِ دِنِ كَالْبِتْرَانِيِّ صَهْرُ غَدُوٍّ وَغَدُوٍّ إِنِّ غَدَاتَيْنِ "یعنی وہ دو دن کا ہے۔ الغَدِيَّةُ بِمَعْنَى غُدُوَّةٍ وَغَدَاةٍ جَ غَدَايَا وَغَدِيَّاتٍ الغُدِيَّةُ غَدَاةٌ كِي تَغْيِيرِ الغَدَاءِ صُحُّ كَالْمَاةِ أَوْ رَسِّ كَالْمَقَابِلِ عَشَاءِ هِيَ جَ غَدِيَّةٌ الغَادِيُّ فَاشِيرِ الغَادِيَّةُ مَوْنُثُ غَادِيٍّ بَادِلُ جَوْصُحُّ كَالْوَقْتِ أُحْمِ صُحُّ كِي بَارَشِ جَ غَادِيَّاتٍ الغَادِيَّانِ صُحُّ كَالْمَاةِ كَالْمَاةِ وَاللَّامِ مَوْنُثُ غَدِيَّانِ الْمَغْدِيَّةُ وَالْمَغْدَاةُ صُحُّ كُوَجَانِ كِي جَدِ غَدَّ (ن ض) غَدَاً الشَّيْءُ كَمُ كَرْنَا كَهَاتَا الْجُرْحُ خُونِ بَيْبِ وَغَيْرِهِ جَارِي هُونَا أَعْدَّ إِغْدَاذًا السَّيْرُ وَفِي السَّيْرِ: طَلْعُ مِيَانِ جَلْدِي كَرْنَا الْجُرْحُ: خُونِ بَيْبِ وَغَيْرِهِ جَارِي هُونَا الغَادُ فَالْكَهْمُ كِي رُغْ جُو بِيْشَ جَارِي رَهْتِي هِيَ حَسْ الغَدِيَّةُ زَحْمُ كَاخُونِ بَيْبِ وَغَيْرِهِ غَدَمٌ (ن م) غَدَمًا لَهُ مِنَ الْمَالِ: كِي بَارِغِي عَمْرَهُ مَالِ دِيْنَا وَغَدِمٌ (س) غَدَمًا وَتَغَدَمٌ وَاعْتَدَمٌ الشَّيْءُ بِمَعْنَى حَرَصٍ سَعْمَانِ أَعْدَمٌ وَتَغَدَمٌ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ أَوْ نَفْسِي كِي بِيْجِ كَاتَهْنِ سَبِ دُوْدِهِي لِيْنَا الغَدْمَةُ مَالِ كَا إِكِي صَهْرُ جَ غَدَمٌ وَاعْدَمَةٌ بِمَعْنَى دُوْدِهِي تَغَدَمٌ بِتْرُ غَدِيْمَةٌ: دَسِيْخُ كُنُوَالِ	ہونا۔ الغَادِفُ مَلَا حِ الغَادِفُ لِمَا كَالْبَالِ سِيَاهُ بَارُو بَرَاكُوَالِ بَرَا كِدِهْ جَ غَدِفَانِ الغَدْفُ نَعْمَتٌ أَرَزَانِي تَرُو تَارِغِي كَمَا جَاتَا هِيَ "هُمُ فِي غَدْفٍ" وَهِيَ لَوُغٌ خَوْشُ حَالِي مِيَانِ هِيَ الْمَغْدُوفُ وَالْمَغْدُوفُ جِيو الْمَغْدُفُ كَالْمَلْبِ بَرِي دُوْلِ دُوْلِ كَاوْنُثِ جَ غَدَاْفِلِ غَدِقٌ (س) غَدَقًا وَاعْدَقٌ وَاعْدُوْدَقٌ الْمَطْرُ: كَبَثْرُتُ بَارَشِ هُونَا عَيْنُ الْمَاءِ: كَثِيْرُ هُونَا أَوْ رُوْغُوْشُوْرُ هُونَا صَفْتُ (غَدَقَةٌ) أَعْدَقُ الْعَيْشُ: آسُوْدُهُ هُونَا أَعْدَقْتِ الْأَرْضُ: زَمِيْنُ كَا سَرِيْبِزِ هُونَا غَدَقٌ (ض) غَدَقًا الْمَكَانُ: بَارَشِ سَعْمَانِ هُونَا أَوْ سَرِيْبِزِ هُونَا صَفْتُ (غَدَقٌ) تَغَدَّنَ الْغَضْنَ: نَهْنِي كَا جَمَلْنَا إِغْدُوْدَنَ النَّبْتُ: سَبِزِ هُونَا أَوْ زِيَادِي وَ شَادِي كِي وَجْهٍ سَيَاهِي كِي طَرَفِ مَالِ هُونَا الرَّجُلُ: دُوْهِلَا هُونَا أَوْ رَغْمَا الشَّعْرُ: لِمَا هُونَا أَوْ لِيْطَا هُونَا صَفْتُ (غَدُوْدَنَ) الغَدَنُ نِيْدُ أَوْ كَهْمُ دُوْهِلَا پِنِ سَسْتِي وَاعْدَنَةُ نَزِي نَزَاكْتِ الغَدَانُ شَاخُ جَسَدِي پَرِ كِي بَرِي لَكَائِي جَائِي الغَدَانِي نَاكُ بَدَنِ جَوَانِ غَدَا يَغْدُو وَغَدُوًّا صُحُّ كَالْوَقْتِ جَانَا جَانَا أَوْ صَارُ كَالْمَعْنَى مِيَانِ مَسْتَمَلِ هِيَ مَبْتَدَا كُوْرَفِ أَوْ خِيْرُ كُو نَسْبِ دِيْنَا هِيَ غَدَا يَغْدُو غَدُوًّا وَغَدُوَّةٌ وَاعْتَدِي عَلَيْهِ: سُوْرِي آتَا غَدِي يَغْدِي غَدَا وَتَغْدِي صُحُّ كَالْمَاةِ كَمَا جَاتَا هِيَ "هَلْ لَكَ أَنْ تَغْدِي بِهِي قَبْلَ أَنْ تَغْدِي بِنَا" يَعْنِي كِي تِيْرِي لِيْجِي إِمْكَانِ هِيَ كَرِهْمُ كُو بِلَاكُ كَرْنِي سَعْمَانِ بِلَاكُ كَرِي غَدِي الرَّجُلُ: دِنِ كَالْبِتْرَانِيِّ صَهْرُ مِيَانِ	غَادِرَةٌ غِدَارًا وَمُغَادِرَةٌ جِيو دِيْنَا بَاتِي رَكْنَا تَغْدَرُ بِجِيْجِي رَه جَانَا إِعْتَدَرُ الرَّجُلُ جِيوِي بِنَانَا إِسْتَعْدَرُ الْمَكَانُ: تَالَابُوْنِ وَاللَّامِ هُونَا الغَدْرُ سَرِيْبِزِ وَوَالِي جَدِ دَرِخْتِ وَوَالِي بِيْجِي جُو تَالَابِ مِيَانِ پَانِي خَشْكُ هُونَا كِي بَعْرُهُ جَائِي الغَدْرُ وَالغَدْرَةُ وَالْمَغَادِرَةُ جِيو جِيوْرَا جَائِي الغَدِيْرُ نَهْرُ تَالَابِ پَانِي جَسَدِي كُو سِيْلَابِ جِيو جِيوْرَا جَائِي سَبِيْرِي كَالْمَلْبِ جَ غَدْرُ وَغَدْرُ وَغَدْرَانُ وَاعْدِرُ الغَدِيْرَةُ جِيوِي جَ غَدَائِرُ الْغَدِيْرَةُ سَبِيْرِي كَالْمَلْبِ جَ غَدْرَانِ الغَادِرُ فَالْخِيَانُ كَرْنِي وَوَالِي غَادِرُوْنِ وَغَدْرَةٌ وَغَدَارٌ مَوْنُثُ غَادِرَةٍ جَ غَادِرَاتٍ وَغَوَادِرُ الغَدْرَاءُ تَارِيْكِي لَيْلَةٌ (غَدْرَاءُ وَغَدْرَةٌ وَمَغْدِرَةٌ) تَارِيْكِي رَاتِ الغَدْرُ وَالْمَغْدِرَةُ وَالْمَغْدِيْرُ وَالْمَغْدَارُ وَاعْدُرُ بِمَعْنَى غَدْرُ كَرْنِي وَوَالِي كَمَا جَاتَا هِيَ "رَجُلٌ غَدْرٌ وَامْرَأَةٌ غَدْرٌ" جَ غَدْرُ أَوْ رَمْدُ كِي كَالِي مِيَانِ يَأْغُدُرُ بِمَعْنَى يَأْغَادِرُ أَوْ جَمْعُ مِيَانِ يَأْلُ غَدْرُ مَسْتَمَلِ هِيَ يَأْغَادِرُ مَبْنِي عَلِي الْكِسْرَةِ عَمْرُتُ كِي كَالِي مِيَانِ مَسْتَمَلِ هِيَ غَدَفٌ (ن) غَدَفًا وَغَدَفٌ لَهُ فِي الْعَطَاءِ: بِمَعْنَى دِيْنَا أَعْدَفُ اللَّيْلُ: رَاتِ كَا بِمَعْنَى تَارِيْكِي هُونَا الشَّبَكَةُ عَلِي الصَّيْدِ: شَكَاْرُ پَرِ جَالِ ذَالِنَا الْبَحْرُ: سَمْنَرُ كَا بِمَعْنَى لِهْرُوْنِ وَوَالِي هُونَا الْمَرْأَةُ فَقَاعَهَا عَلِي وَجْهِيهَا: عَمْرُتُ كَا چِيْرُهُ پَرِ نَقَابِ ذَالِنَا إِعْدَفُ مِنْهُ: زِيَادُهُ لِيْنَا الشُّوبُ: كِيْزَا كَائِنَا إِعْدُوْدَفُ اللَّيْلُ: رَاتِ كَا آتَا تَارِيْكِي
---	--	--

حصہ۔ میں القوم شریف من الرجل
چہرہ۔ روشنی یا رخ ظاہر ہو تو کہا جاتا ہے قد

بَدَتْ عُرْوَتَهُ غلام۔ باندی۔ ج غرور
الغرور: مہینہ کی ابتدائی تین راتیں یعنی پہلی
دوسری تیسری رات۔ عرب۔ مہینے کی تقسیم
تین تین راتوں سے کرتے تھے کہ پہلی تین
راتوں کو غرور دوسری تین راتوں کو نعل اور اس

کے بعد نسع پھر غشیر پھر بیض پھر
ذرع پھر ظلم پھر حنادس پھر وادی پھر
محاق کہتے ہیں۔

الغرور: نا تجربہ کار جوان۔ مؤنث غرور وغرور ج
اغرار۔

الغروری: اپنے قبیلہ میں سردار عورت۔
الغرور: غفلت۔ نا تجربہ کاروں کی
جماعت۔ ج غرور۔

الغرور: مہینے کا پہلا دن۔ ایک کالے رنگ کا
آبی پرندہ۔

الغرور: ہلاکت کے درپے۔ کہا جاتا ہے "انا
غرور منک" میں تم سے دھوکے میں ہوں۔

الغرور: دھوکا دینا اور یہ دنیا کی صفت میں
بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے "الذی نعور
غرغره کی دوامیں۔

الغرور: سی بیہودہ باتیں۔
الغار: فاقہ۔ غافل۔ کتوں کھودنے والا۔ مؤنث
غارۃ۔

الغرار: بہت دھوکہ دینے والا۔
الغریب: اچھی عادت اور اسی سے مثل ہے

الغریب: "اذ بر غریز فوا قبل ہریزہ
اچھی عادت جاتی رہی اور تری عادت آگئی۔
اچھی زندگی۔ ج غران۔ ضامن۔ دھوکا زدہ۔

نا تجربہ کار جوان۔ ج اغرورۃ۔ مؤنث
غرورۃ ج غریزات وغرور۔

الغریب: کتے اور بلی کے درمیان چھوٹی ناگوں
کا بھروسے رنگ کا ایک جانور اور عرب کے
امثال میں ہے "اسمن من غریب" اور اس کا

نام یغور اور غرور ہے۔
الاعر: خوبصورت۔ ہر چیز کا سفید۔ فیاض۔

عُرَّ (س) غُرًّا وَغُرَّةً وَغَرَّاةً الْوَجْهَ:
خوبصورت سفید رنگ والا ہونا۔ الشی: سفید
ہونا۔

عُرَّ تَغْرِیْرًا وَتَغْرِیْرَةً بِالْشَّیِّ: ہلاکت کیلئے
پہیں لانا الطائر: پرندہ کا اڑنے کیلئے پڑھیلانا
القربیۃ: ملک بھرتا۔ عُرَّتْ نَسِیۃ الْعِلَامِ:
بچے کے گلے دانت لگانا۔

عَارَتْ غِرَارًا وَمُعَارَۃً السُّوْفِ: بازار کا
ماند پڑ جانا۔ عَارَ التَّحِیۃَ: کم کرنا۔ عَارَتْ
النَّاقۃَ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔

تَعَرَّرَ الْفَرَسُ: گھوڑے کی پیشانی سفید
ہونا۔

اِعْتَرَّ وَاسْتَعَرَّ: بکڑا۔ دھوکا کھانا۔
اِعْتَرَّهْ وَاسْتَعَرَّهْ: بے خبری میں آنا۔
وَاعْتَرَّهْ: بے خبری کا طالب ہونا۔

الغیر: سر زمین میں شگاف۔ کپڑے یا کھال
کی ٹھن۔ کہا جاتا ہے "طوبت الشوب علی
غره" یعنی میں نے کپڑے کو اس کی پہلی تہ پر
پھیلا چھوٹی ندی ج غرور۔

الغیر: تلوار کی دھار۔ العوار: نیند
وغیرہ کی کمی۔ کساد بازاری۔ اونٹنی کے دودھ
کی کمی ج اغرورۃ کہا جاتا ہے "اتانا علی غرار"
یعنی وہ ہمارے پاس جلدی آیا۔ العراز: تیر

بنانے کا نمونہ اور اسی سے ہے "ہم علی
غرور واحد" یعنی وہ ایک جیسے ہیں۔ کہا جاتا
ہے "ولدت ثلاثۃ بنین علی غرار" یعنی

اس نے تین بچے پے درپے جنے جن کے
درمیان کوئی لڑکی نہیں۔

"لَبَّ الْقَوْمِ غِرَارٌ شَہْرٌ" قوم ایک مہینہ
کی مدت گھبرائی رہی۔

الغرورۃ: غفلت۔ نوعری۔ کہا جاتا ہے
"سکان ذلک علی غراتی" یعنی یہ میری
نوعری کے زمانہ میں تھا۔

الغرورۃ: ایک آبی پرندہ جو گہرے جوہڑ میں
زندگی گزارتا ہے۔

الغرورۃ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔
من کل شی: ہر چیز کا ابتدائی اور معظم

الغدَمُ وَالْمُتَعَدَّمُ: بہت زیادہ کھانے والا۔
عَدَمَرٌ عَدَمَرَةٌ: غضبناک ہونا۔
الشی: جدا جدا کرنا۔ بعض کو بعض سے ملانا۔
انکل سے بچنا۔

تَعَدَّمَرٌ: فی المجلس: غصے سے چلانا۔
العَدَمَرۃ: س۔ شور۔ ڈانٹ۔ گفتگو اور حج کا
خلو ہونا۔ ج غدامیر۔

عَدَا یَعْدُو وَعَدُوًا الرَّجُلُ بِالطَّعَامِ:
خوراک دینا الطَّعَامُ الصَّیِّ: بچہ کو فائدہ دینا
اور کافی ہونا العرث: خون بہانا الرَّجُلُ:
جلدی کرنا الفرس: تیز ترنا۔

عَدَى تُعْدِیۃ الرَّجُلِ: خدایا۔ پرورش
کرنا۔ عَدَى العرث: خون بہانا۔

تَعَدَّى تَعَدَّیًا وَاعْتَدَى اعْتَدَاءً: خوراک
کھانا۔

اسْتَعَدَّى اسْتَعْدَاءً الرَّجُلُ: سخت
پچھڑانا۔

العذاء: خوراک۔ ج اغذیۃ۔
العآذی: فا۔ عآذی المال: مال کا منتظم۔

ج عآذۃ و عآذون مؤنث عآذیۃ ج عآوذ
الاعذی: اسم تفصیل۔
العذی: رحم کا بچہ (کبری کیلئے خاص ہے) ج
عآذۃ: جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے۔

العذوی: رحم کا بچہ۔
العذوان: بزرگان۔ تیز رفتار گھوڑا۔

عَرَّه (ن) عَرًّا وَغُرَّةً وَغُرْرًا: دھوکا
دینا۔ بیہودہ امید دلانا۔ کہا جاتا ہے "یا عَرَّک
بفلان" یعنی تو نے اس پر دلیری کیو کر کی؟

عَرَّ الْمَاءَ: پانی گرانہ۔

عَرًّا وَغِرَارًا: الطائر فرخہ: پرندہ کا اپنے
بچے کو چوکا دینا الرَّجُلُ: عمر پرندہ کھانا
الرعی: اونٹ کو چرانا الماء پانی کا نایاب
ہونا۔

عَرَّ (ن) عَرًّا وَغِرَارًا وَغُرَّ (س)
عَرَّاقٌ: شریف ہونا۔ نا تجربہ کار ہونا۔

عَرَّ (س) عَرًّا وَغِرَارًا: تجربہ کے باوجود
بچوں جیسا کام کرنا۔

سردار شریف من الآیام: سخت گرم دن۔
من الخیل: پیشانی پر سفیدی والا۔ مؤنث
غراء ج غر و غرآن۔

الغرارة: بورا تھیلان جغرائر۔
الغرآن: پانی کے بلبلے کہا جاتا ہے "القبل
الماء بغرآبه" پانی بلبلے کے ساتھ آیا۔
المغارة: کم رودہ والی اونٹنی ج مغارة: کہا
جاتا ہے "فلائن مغارة الكف" یعنی بخیل
سے۔

المغورور: من فریب خوردہ۔
غوب (ن) غرآبا: جانا فلائن غنا: جدا
ہونا۔ علیحدہ ہونا فی سفرہ: طویل سفر کرانا
(غر و بنا) الرجل: دور ہونا النجم: ستارہ کا
غائب ہونا۔ ڈوبنا۔

غوب (ن) غرآبا و غرآبا و غرآبا:
پردہ کی ہونا۔ وطن سے علیحدہ ہونا۔
غوب (ک) غرآبا: الکلام: مخفی ہونا۔
پوشیدہ ہونا الشی: غیر مانوس ہونا۔

غوب (س) غرآبا: لو سے چہرہ کالا ہونا۔
غوب: دور ہونا۔ وطن سے علیحدہ ہونا۔ بچشم
میں پہنچانا: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ مسافرت پر
براہینہ کرنا۔ جلا وطن کرنا فی الارض: دور
تک لے جانا۔

أغرب: مغرب میں جانا۔ شہروں میں دور
تک جانا۔ اچھی حالت ہونا۔ عجیب چیزانا۔ فصیح
ہونا اور نوادرات بیان کرنا فی الضحک و
نحوہ: مبالغہ کرنا الحوض: حوض کو بھرنا
الفرس فی جزیه: گھوڑے کا بہت دوڑنا
الفرس: گھوڑے کو دوڑانا۔ یہاں تک کہ مر
جائے: علیحدہ کرنا أغرب وأغرب
المربض: تکلیف زیادہ ہونا۔ أغرب علیه
وبہ: برا سلوک کرنا۔

تغرب: وطن سے علیحدہ ہونا۔ بچشم سے آنا۔
اغترب: وطن سے علیحدہ ہونا۔ غیر اقارب
میں شادی کرنا۔
استغرب: الشی: نادر پانا یا سمجھنا۔
الدمع: آنسو بہانا۔

واستغرب: فی الضحک: ہنسنے میں
مبالغہ کرنا۔

الغوب: من بچشم۔ ہر چیز کا اول۔ دھار۔
نشاط: تیزی۔ کہا جاتا ہے "الئی أخاف
علیک غوب النساب" یعنی جوانی کی تیزی
اور نشاط کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے۔ بڑا
ڈول۔ آنکھ کی وہ رگ جو ہمیشہ جاری رہے۔
آنسو۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ آنکھ کا اگلا حصہ۔ آنکھ
کا پچھلا حصہ۔ دوری۔ آنکھ کی پھنسی۔ گوشہ
چشم کا درم۔ تھوک کی کثرت۔ تیز دوڑنے والا
گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "سہم غوب" اضافت
سے اور "سہم غوب" وصف سے یعنی وہ تیر
جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ ج غروب
الغرآبا: دوری۔

الغوب: سر سونا۔ چاندی یا پالہ شراب پانی
جو کونئیں اور حوض کے درمیان ڈول سے
ٹپکے کہا جاتا ہے "سہم غوب و سہم
غوب" وہ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ و
"بعینہ غوب" جبکہ آنسو تھمتانہ ہو۔

الغراب: کواں۔ مختلف قسمیں ہیں۔ غراب
اسود: ابقع۔ زار ج اعراب و غروب و
غربان و اعرابہ ج غرابین۔ کہا جاتا ہے
"طار غرابہ" یعنی بوڑھا ہو گیا اس کے بال
سفید ہو گئے۔ وأرض لا یطیر غرابہا یعنی
سر سبز ہے۔ الغراب اولہ و برف۔ سر کا پچھلا
حصہ۔ من کل شی: ہر چیز کی ابتداء۔ اور
دھار۔ جیسے غراب الفاس۔ اور کوٹے کی
مثال سیاہی اور بعد اور صبح سویرے اٹھنے اور
چوکنے رہنے میں دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے
"بکرت بکورا الغراب" کونے کی مانند صبح
سویرے اٹھا۔ "فلائن أخذ من الغراب"
فلاں کوٹے سے زیادہ چوکنے ہے۔ و "ذون
هذا شیب الغراب" اس سے کم کوٹے کی
سیاہی ہے اعرابہ العرب: عرب کے سیاہ
لوگ۔ الغراب پرانی قسم کی ایک شمش۔
الغرابان: دونوں سرین کے نچلے حصے جو ران
سے ملے ہوئے ہوں۔

الغراب: فا۔ کندھا۔ پیٹھ اور گردن یا کوبان
اور گردن کے درمیان کے حصہ۔ ہر چیز کا اعلیٰ
حصہ۔ ج غوارب اور اسی سے ہے۔ غوارب
الماء بلند موجیں۔

الغریب: مسافر۔ وطن سے دور۔ اجنبی ج
غرآبا عجیب و غیر مانوس من الکلام: جس
کا سمجھنا دشوار ہو۔ مؤنث غرآبا ج غراب۔
الغوب: بمعنی غریب۔

المغرب: صبح۔ ہر سفید چیز یا جس کے
کنارے سفید ہوں۔ غنقاء (مغرب و
مغربیہ) دیکھنے لفظ "غنقاء"۔

المغرب: بچشم۔ آفتاب غروب ہونے کی
جگہ۔ ممالک افریقیہ اور یزبان حال ممالک
یورپ۔

مغربان: الشمس: آفتاب کے طلوع و
غروب کی جگہ۔

المغربی: ممالک مغرب کی طرف
منسوب۔ ج مغربہ۔

الغریب: سخت سیاہ اور اکثر بطور تاکید
مستعمل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "اسود
غریب"۔

غرآبا غرآبا ج غرآبا: گھیبوں جھاننا۔
البلد: ملک کے رہنے والوں کا حال کھولنا۔

فی الارض: جانا الشی: کھلے کھلے
کرنا۔ جدا جدا کرنا القوم: قوم کو قتل کرنا اور
کچل دینا۔

الغریبال: چھلی۔ ذف۔ چغل خور ج
غرآبا۔

المغربیل: من گھٹیا۔ پھولا ہوا۔ مقتول۔ زوال
پزیر ملک۔

الغریبیل: چھلی۔ ذف۔ چغل خور۔
غرآبا (س) غرآبا: بھوکا ہونا۔

صفت (غرآن) ج غرآبا و غرآبا و
غرآبا مؤنث (غرآبی) ج غرآبا۔

غرآبا: الکلب: کتے کو بھوکا کھنا۔
الغرآبا و الغارث: بھوکا۔

غرآبا (س) غرآبا و غرآبا و غرآبا و

تغرد: الطائر: پرندہ کا گانے میں آواز بلند کرنا اور گنگری کرنا۔ اغرودہ الطائر: چاکر خوش

کرتا۔ استغرودہ: گانے پر پراپیچنے کرنا۔ الاغرود والاعرودہ: پرندہ کی سریلی آوازیں۔ اغارید: الغرد والغرد والغرید: گانے والا۔

غرزة (ض) غرزا بالابرة ونحوها: سوئی وغیرہ جیوتا۔ غرزا الابرة فی الشئی: داخل کرنا۔

الراکب رجله فی الغرزة: راکب میں پاؤں ڈالنا۔ عودا بالارض: زمین میں کھڑی گاڑنا۔ غرزت الجرادہ (غارزا و غارزة) زمین میں زم چھونا۔ مفت (غارزا و غارزة) غرزة: الابرة فی الشئی: داخل کرنا۔ غرزت الجرادہ: اندر دینے کے لیے زمین میں زم چھونا۔

الغتم: بکری کو موٹی ہونے کے لیے دوھنے سے چھوڑ دینا۔ اغرزة: الابرة: بمعنی غرزة الوادی: غر زبانی پرندہ گانا فی الشئی: داخل ہونا۔ اغرزة السیر: رواگی قریب ہونا فلان السیر: رواگی کے قریب ہونا۔ سوار ہونا الراکب رجله فی الغرزة: سوار کاراکب میں پاؤں رکھنا۔

الغرزة: سہ راکب۔ زمین میں گاڑی ہوئی کڑی۔ ج غرور: کہا جاتا ہے "الزم غرزة فلان" یعنی اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو۔ "اشدذ یدیک بغرزة" مطلب یہ ہے کہ

اسے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ الغرزة: ایک چھوٹی قسم کا پودہ۔

الغریرة: طبیعت ج غراریز۔ الغارذ: فا۔ اوئی جنس کا دودھ کم ہو گیا ہو۔

عیون (عوارز) نہ بینے والے چشمے۔ التفریز: سبجور کا پودا جو ایک جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ لگایا جائے۔ ج تغاریز:

المغور: گانے کی جگہ۔ ج مغارز: غرس (ض) غرسا وغراسة الشجر:

درخت کا پودہ لگانا۔ انغرس: پودہ لگانا۔

الغرس: س۔ پودہ لگایا ہوا ج غراس و اغراس۔

الغرس: پودہ۔ پانی جو رجم سے نکلے۔ چھوٹا کوبرج اغراس۔

الغریس: پودا لگایا ہوا۔ بیض۔ الغریسة: سبجور کا پودا جو ابھی اگا ہو۔ گھٹلی جو

ہوتی جائے۔ انگور کی تیل جو ابھی پھٹی گئی ہو۔ پودہ پھانے سے پھلدار ہونے تک۔ ج

غراس وغراس۔ الغراس: پودہ۔ پودہ لگانے کا وقت۔ کہا جاتا

ہے "هذا زمن الغراس" جس طرح کہا جاتا ہے "هذا زمن الحصاد"۔

المغرس: پودہ لگانے کی جگہ۔ ج مغارس۔ الغرض: من المسکوکات: ایک سکہ

ہے جو دو آنے کے مساوی ہوتا ہے۔ ج غروش۔

غرض (س) غرضا: الیہ: مشتاق ہونا۔ مفت (غرض) مند: تنگ دل ہونا۔ ملول ہونا۔ خوف کرنا۔

غرض (ض) غرضا: الاناء: برتن بھرنا۔ کم بھرنا الشئی: تازہ چننا۔ وقت سے

جلدی کرنا۔ روکنا۔ توڑنا اس طرح کہ جدانہ ہو جائے (غرضاً) لہ: تازہ دودھ پلانا۔

غرض (ک) غرضا: اللحم: گوشت تازہ ہونا۔ مفت (غرض) ج اغاريض۔

غرض: مزاج کرنا۔ تازہ گوشت کھانا۔ الشئی: تازہ چننا فی سقانیہ: مشک میں نہ

بھرنا۔ کہا جاتا ہے "فلان بخر لا یغرض" یعنی فلاں آدمی سمندر کی مانند ہے جو خالی نہیں

کیا جاسکتا۔ غرض فلانا: نشانہ بنانا۔ اغرض: فلانا: تنگ دل کرنا۔ الغرض:

نشانہ پر ٹھیک مارنا الاناء: برتن بھرنا۔ غارض: الابل: اونٹوں کو تڑکے گھاٹ پر

لے جانا۔ تغرض وانغرض: الغرض: شاخ کا مڑنا

اور ٹوٹا مگر جدانہ ہونا۔ اعترض: الشئی: کسی چیز کو اپنی غرض بنانا۔

اعتروض فلان: جوان مرنا۔ الغارض: فا۔ تڑکے پانی پر جانے والا۔ لمبی

ناک۔ کہا جاتا ہے "أقیته غارضا" یعنی دن کے ابتدا میں۔

الغرض: سہ۔ وادی کی ناقص شاخ ج غرضان وغرضان و اغرض کجاہہ کا تنگ

ج اغراض وغروض۔ الغرضة: کجاہہ کا تنگ ج غرض وغرض۔

الغرض: س۔ مطلوب۔ حاجت۔ قصد۔ کہا جاتا ہے "فهمت غرضک" میں

نے تیرے قصد کو سمجھ لیا۔ نشانہ جس پر گولی ماری جائے۔ ج اغراض۔

الغریض: طرب انگیز گیت۔ بہترین گویا۔ ہر سفید تازہ بارش کا پانی۔ پانی جس پر تڑکے آیا

جائے۔ تازہ گوشت۔ الاغریض: شگوفہ۔ ہر سفید ترو تازہ۔ ج

اغاریض۔ المغرض: اونٹ کا تنگ۔ ج مغارض۔

المغروض: سہ بارش کا پانی۔ المغروض: بزم بڑی جیسے کان ناک کی ج

غراضیف: الغرضوفان: دو کولڑیاں جو کجاہہ کے دائیں بائیں باندھی جاتی ہیں۔

غرض غرغرة: غرغرة کرنا۔ غرغرة القدر: ہانڈی کا جوش کے وقت آواز دینا۔

غرغرة: زنج کرنا۔ غرغرة بالرمح: حلق میں نیزہ مارنا الرجل: آواز گولہ کرنا۔

موت کے وقت خرخر کرنا اللحم: گوشت میں بھوننے کے وقت آواز ہونا۔

تغرض: بالماء او الدواء: پانی یا دوا ہے غرغرة کرنا اور اسی سے ہے "تغرضت العین

بالدمع" آنکھ آنسوؤں سے ڈبڈبائی۔ الغرض: ایک قسم کی مرغی جس کو چینی مرغی

کہتے ہیں۔ واحد (غرضة) الغرغور: بمعنی الغریز (دیکھئے الغریز)

الغرغرة: پونا۔ پیشانی کی سفیدی۔ کہا جاتا

لازم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”غُرم السحاب“ یعنی بارش ہوئی۔
 اُغُرم۔ بالشیء: بہت خواہش مند ہونا۔
 تَعْرَم۔ تاوان برداشت کرنا۔
 اِغْتَرَم۔ تاوان کو اپنے اوپر لازم کرنا۔
 العرامة والغرم۔ تاوان۔ مال جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ ضرر۔ مشقت۔
 العرَام۔ اشتیاق۔ محبت جو دل کو جتلائے عذاب کرنے والا ہو۔ ہلاکت۔ عذاب۔
 العریم۔ قرض خواہ۔ قرض دار۔ مخالف۔ ج۔
 عُرْماء و عُرَام۔
 العُرَامَاتِیْقُ أَو العُرَامَاتِیْقُ: وہ علم جو بولنے اور لکھنے میں غلطی سے بچائے یعنی علم صرف علم نحو اور علم عروض۔ اس لفظ کا اطلاق اس کتاب پر بھی ہوتا ہے جس میں یہ علم پایا جائے۔
 المغرم۔ تاوان۔ معفارم۔
 غَرْن (س) غَرْنَا العَجِینَ: گندھے ہوئے آٹے کا خشک ہونا۔
 الغرن۔ کمزور۔
 الغرین والغریزین۔ تریا خشک مٹی جو سیلاب میں بہہ کر آئے اور زمین پر رہ جائے۔ بیوقوفی۔
 الغرینق والغرینق والغرنوق والغرائق۔
 ایک قسم کا آبی پرندہ جو سارس کے مشابہ ہوتا ہے سفید خوبصورت جوان کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”شاب غرائق و صبیبہ غرائق و غرائقہ“ ج غرائق و غرائق و غرائقہ غرائقہ۔
 غَرَا یَغْرُ و غُرُوا۔ الرَّحْلُ: تعجب کرنا الجلد: سریش سے جوڑنا الشحم قلبہ: چربی کا دل پر چھانا۔
 العُرْنُوقِ: ایک افریقی پھول کا نام غری یغری غرأ و غرأ و غری و غری و اُغری۔ بگذا: بہت خواہش مند ہونا۔ بہت رغبت رکھنا۔ غری الغدیئ: تالاب کا پانی ٹھنڈا ہونا فُلَانٌ: بہت زیادہ غضبناک ہونا (غرأ) بہ: چٹنا۔ لازم ہونا۔

فِي الْقَوْسِ: کمان کو بہت زیادہ کھینچنا غُرُق و غُرُق اللَّيْحَاءِ بِالْفِضَّةِ: لگام کو چاندی سے مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اغْرُق اَعْمَالَهُ بِالْمَعَاصِي“ یعنی اپنے اعمالِ صالحہ کو معاصی کی وجہ سے ضائع کر دیا۔
 اقَه۔ قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”غارقتنی لَمِينَةٌ“ یعنی موت مجھ سے قریب ہوئی۔
 اغترق۔ التفسیر بہت ہانپنا۔
 لَبْعِيرُ التَّصْدِیْرِ اُونْتُ كَ پَيْتِ كَ مَوْتِی ہوجانے کی وجہ سے تنگ کا تنگ ہوجانا۔
 الفرس الخیل: گھوڑوں کی جماعت میں داخل ہونا اور آگے بڑھ جانا۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ یَفْتَرِقُ العَیْنَ یعنی فلاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نظر کو اپنی طرف کھینچتا ہے دوسری طرف نہیں ڈالنے دیتا۔
 اسْتَعْرَقَ النِّسْیَ: کل لے لینا الغایة: مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا فی النوم: گہری نیند سونا فی العسحک: کھلکھلا کر ہنسنا۔
 اغرورقت۔ لغین: ڈبڈبانا۔
 الغرقة۔ دودھ وغیرہ ایک مرتبہ پینے کی مقدار ج غرق۔
 غَرَقَاتِ۔ الدجاجة یُصْتَهَا: مرغی کا کچا انڈا دینا البیضاء: کچا انڈا کرنا۔
 الغرقی۔ انڈے کے سفیدی کی جھلی۔ انڈے کی سفیدی۔
 غَرُول (س) غرلا۔ الصبیء: بچے کا غیر محتون ہونا۔ صفت (اغرل) مؤنث غرلاء ج غرول۔
 الغرول۔ ڈھیلا ڈھالا آدمی۔ بہت ہی زیادہ لمبا تیز۔
 الاغرول۔ ارزانی کا سال۔ خوش عیش زندگی۔
 الغرلة۔ چڑا جس کو نختے کے وقت کاٹتے ہیں۔
 غرم (س) غرما و غرامہ و مغرما الدین و نحوہ: قرض وغیرہ ادا کرنا۔
 فی التجارة: تجارت میں نقصان اٹھانا۔
 اغرمة و غرمة الدین: قرض کی ادائیگی کو

ہے ”فُلَانٌ غُرُوعٌ“ یعنی فلاں شریف ہے۔
 غَرَف (ض) غرفا۔ الشئی: کائنا صیتہ: پیشانی کے بال کترنا۔
 واغترف الماء بیدہ پانی کا چلو لینا۔
 تَعْرَفَهُ: کسی چیز کے ساتھ جتنی چیزیں ہوں سب لے لینا۔
 اِنْعَرَفَ الشئی: کٹنا۔ مرنا اور ٹوٹنا العظم: ہڈی کا ٹوٹنا فُلَانٌ: مرنا۔
 الغرف۔ سر (والغرف) پودہ جس سے چمڑے کو دباغت دیا جائے۔
 الغرقة۔ چلو لینے کی ہیئت۔ جوتی۔ ج حروف۔
 الغرقة۔ چلو ج غراف کو شہری کے اندر کو شہری بالاخانہ بالوں کا گچھا۔ ج غرغ و غرقات و غرقات و غرقات۔
 الغارفة۔ مؤنث غارف اسم فاعل من النوق: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔ ج غوارف۔
 الغراف۔ ایک قسم کا بڑا پیمانہ۔
 الغراف۔ بہت چلو لینے والا۔ نھر غراف: بہت پانی کی نہر۔ غیث غراف: بہت بارش۔
 الغرؤف۔ من الآبار: وہ کنوئیں جن سے پانی چلو سے لیا جائے۔
 الغریف۔ من الشجر: گھنا درخت۔ ہاس ا نرکل وغیرہ کی جھاڑی۔
 الغریفقة۔ گھنا درخت۔ جوتی۔ تلوار کے پرتلے کے نچلے حصہ کا چمڑا۔
 المغرف۔ تیز رفتار گھوڑا اور ”فارس مغرف“ بھی کہا جاتا ہے۔ ج معارف۔
 المغرقة۔ چمچ۔ ڈوٹی۔ ج معارف۔
 غرق (س) غرقا۔ فی الماء: ڈوبنا۔ صفت (غرق و غارق و غریق) ج غرقی غرق فُلَانٌ: دودھ وغیرہ کا گھونٹ لینا۔ مستغنی ہونا۔
 غرق (ن) غرقا۔ من اللین: دودھ وغیرہ کا گھونٹ لینا۔
 اغرق۔ فی الامر: مبالغہ کرنا۔
 اغرقه و غرقه۔ ڈوب دینا۔ اغرق و غرق

غزلی تغزویۃ الشیء سریش سے جوڑنا۔
 أغزى الرجل بكذا: براہیئتہ کرنا۔
 أغزى العداوة بينهم: دشمنی ڈالنا اور فساد
 پیدا کرنا۔
 غازی غزاء ومغارة: فلاناً سخت جھگڑا
 کرنا بین الشیئین ایک کے بعد دوسرے کا
 لگا کر کرنا۔
 الغراء والغراء: ہر وہ چیز جس کا طلا کیا
 جائے۔ جس سے ورق یا کھال کو جوڑیں جیسے
 سریش پالینی۔ الغراء: خوبصورتی۔
 الغراء والغزوی: خواہش مندی کہا جاتا
 ہے "لاغزو ولاغزوی من کذا" یعنی
 اس سے تعجب نہیں۔
 الغری: خوبصورت۔ عمدہ عمارت۔
 الممغرة: سریش پھلانے کا آلہ۔
 غز(ن) غزراً واعتز: بفلان: خاص کرنا
 الابل او الصبی: اونٹ یا بچہ پر نظر بد سے
 حفاظت کیلئے رکھی ہوئی اون لگانا۔
 غارة مغارة: سبقت کرنا۔ جھگڑنا۔
 اغز الشجر: درخت میں بہت اور سخت
 کاٹنے ہونا۔ اغزت البقرة: گائے پر وضع
 حمل کا دھوا ہونا۔
 تغاز القوم الشیء آپس میں جھگڑا کرنا۔
 الغز: جزا۔ ترکوں کی ایک قوم۔ واحد
 (غزلی)۔
 غزراً (ک) غزراً وغزارة وغزراً:
 الماء وغیرہ: پانی وغیرہ کثیر ہونا۔ غزرت
 الناقة: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔
 تغز الرجل: زیادہ گوشت والا اور موٹا
 ہونا۔
 غازر واستغز: زیادہ لینے کے لیے تھوڑا
 دینا۔
 الغز: سب کھجور کے پتوں کی بکری۔
 والغزارة: کثرت۔
 الغزاز: باریک کانوں کا پودا جس سے تحریر کے
 لئے قلمیں بنائی جاتی ہیں۔
 الغزیر: ہر چیز کا بہت۔ ج غزار۔

الغزيرة: مؤنث غزیر من النوق: بہت
 دودھ والی اونٹنی من العیون: بہت آنسوؤں
 والی آنکھ من الآبار والینایع: بہت پانی
 والے کنوئیں اور چشمے ج غزار
 الممغزار: من الابل: بہت دودھ والی
 اونٹنی۔ مکان (مغزور) کثیر بارش سے
 سیراب شدہ۔
 غزل (ض) غزلاً واعتزل: الصوف:
 اون کا تانا۔
 غزل (س) غزلاً بالنساء: عورتوں سے
 باتیں کرنا۔ عشق بازی کرنا۔ عورتوں کے حسن
 وجمال کی تعریف کرنا۔
 غزال: المرأة: عورت سے بات کرنا اور
 پھسلانا۔ کہا جاتا ہے "غزال فلان الازبعین
 من العمر" یعنی فلاں چالیس سال کے
 قریب ہو گیا وہ "هو یغازل رعداً من
 العیش" یعنی وہ نہایت آسودگی کی زندگی بسر
 کرتا ہے۔
 اغزلت: الطیبة: ہرنی کا بچہ والی ہونا
 المرأة: عورت کا نکل گھمانا۔
 تغزل: فلان: تکلف عشق بازی کرنا۔
 تغازل القوم: بعض کا بعض سے عشق بازی
 کرنا۔
 الغزل: س۔ کا تانا ہوا۔
 الغزل: س۔ عورتوں کے ساتھ کھیل کود۔
 الغزال: ہرن کا بچہ۔ ج غزلة و غزلاق۔
 دم الغزال: نام ایک نباتات کا۔
 الغزالة: غزال کا مؤنث۔ چڑھتے وقت کا
 سورج غزالۃ الصحنی وغزالاتہ: چاشت
 کی ابتداء۔
 الغزل: عورتوں سے بات کرنے والا۔ عشق
 بازی کرنے والا وہ شخص جو ہر چیز میں کمزور ہو۔
 الغزالة: کاٹنے والی۔ ج غزل و غوازل۔
 الغزیل: عورتوں سے باتیں کرنے والا۔
 الغزال: بہت کاٹنے والا۔
 الاغزل: غزل کا اسم تفضیل۔
 من الحمی: بار بار آنے والا بخار۔

المغزل والممغزل والمغزل: تکلیج
 معازل۔
 غزاه یغزوه غزواً: طلب کرنا۔ قصد کرنا۔
 کہا جاتا ہے "عرفت ما یغزی من هذا
 الکلام" یعنی اس کلام کے مقصود کو میں نے
 جان لیا۔
 غزواً وغزوة وغزواناً: القوم: کسی قوم
 سے جنگ کیلئے چلنا۔ جہاد کیلئے لگانا۔
 غزى واغزى: فلاناً: جہاد کیلئے بھیجا جانا۔
 سامان دینا براہیئتہ کرنا: مہلت دینا۔ مطالبہ
 کو موخر کر دینا۔
 اغزى اغزاء: فلاناً: قصد کرنا بہ:
 مخصوص کرنا۔
 الغزوة غزاکم مرة: ج غزوات۔
 الغازی: فا ج غزاة وغزى وغزى
 وغزاء مؤنث غازیة ج غواز و
 غازیات۔
 الغزاة: اسم ہے غزوکاج غزوات۔
 الغزوة: جس کا قصد کیا جائے۔ جس کو طلب
 کیا جائے۔
 المغزى: جنگ کرنا۔ جنگ کرنے کی جگہ۔
 مغزى الکلام: مقصد کلام۔ ج مغاز۔
 المغازی: غازیوں کے مناقب۔ غازیوں
 کے افعال۔
 امرأة مغزیة: عورت جس کا شوہر جہاد میں
 ہو۔ اتان اوناقاة مغزیة: دیر سے جتنے والی
 گدھی یا اونٹنی۔
 غس (ن) غساً: فی البلاد: داخل ہونا
 الکلام: کلام میں عیب لگانا وہی الماء: پانی
 میں غوطہ دینا الہرة: ملی کو ڈالنا۔ اور غس
 کہنا۔
 انغس فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔
 العس کزورنالق۔
 غس (ن) غسراً: علی الغریم: قرض
 دار پر سختی کرنا۔
 تغس الغزل: کتے ہوئے سوت کا لپٹ جانا۔
 ألجھا ہوا ہونا الامر: ملتبس ہونا۔ خلط ہونا۔

صفت (غسِر) العسِر. جس چیز کو ہوا اڑا کاتالاب میں ڈال دے۔
 اغسِف. تاریکی میں داخل ہونا۔
 الغسِف. تاریکی۔
 عَسَقَ (ض) عَسَقًا و عَسَقًا و عَسَقَانًا وَاغَسَقَ. اللیل: رات کا تاریک ہونا۔
 اغَسَقَ الرَّجُلُ: تاریکی میں داخل ہونا۔
 المؤذَنُ: مؤذن کا دیر میں مغرب کی اذان کہنا۔
 عَسَقَ (ض) عَسَقًا و عَسَقًا و عَسِقَ (س) عَسَقَانًا. الماء: پانی کرنا الغیم: بارش ہونا العین: آنکھ کا ڈبڈبانا۔ اور تاریک ہونا۔
 العسَق. اول شب کی تاریکی۔
 الغاسِق. فاجاند۔ رات جبکہ تاریکی بڑھ جائے۔ گیموں کی ایک قسم۔ العساق و العساق. ٹھنڈا۔ بدبودار۔
 غَسَلَ (ض) غَسَلًا و غَسَلًا الشیء: پانی سے میل پچیل دور کرنا: تکلیف دہ طریقہ سے مارنا۔ بہت جماع کرنا۔
 غَسَلَ الشیء: دھونے میں مبالغہ کرنا۔ بہت جماع کرنا۔
 اغسَلَ. دھلنا الشیء: بہنا۔
 اغتَسَلَ. نہانا بالطیب: خوشبو لگانا۔
 الفرس: گھوڑے کو پینہ آنا۔
 الغسل و الغسل. اسم ہے غسل سے۔
 الغسل و الغسل: ہاتھ منہ دھونے کی چیز جیسے صابن وغیرہ ج اغسال۔
 الغسلة و الغسول و الغسول: ہاتھ منہ دھونے کی چیز۔
 الغسالة: من الشیء: پانی جس سے دھویا جائے ادھونے سے جو پانی گرے۔ کپڑا جو دھویا جائے۔
 الغسیل. نہلایا ہوا۔ ج غسلی و غسلاء۔
 مؤنث غسيلة ج غسالی۔
 الغاسول. صابون۔ اور ہر وہ چیز جس سے

عمودا دھویا جائے۔ ایک پودہ کا نام ہے جس سے دھوتے ہیں۔
 الغسال. اسم مبالغہ مؤنث غسالة۔
 المَغْسَلُ و المَغْسَلُ. غسل خانہ۔ ج مَغَابِیِلُ۔
 المَغْتَسَلُ. غسل خانہ۔ ج مَغْتَسَلَاتُ۔
 المَغْتَسَلُ وہ پانی جس سے نہایا جائے۔
 المَغْسَلُ وہ چیز جس سے دھویا جائے۔
 المَغْسِلَةُ وہ برتن جس میں کپڑے دھوتے جائیں۔
 الغسلین: دو چیزوں کے جسموں سے نکلنے والی پتھ۔
 غَسَلَبَ الشیء A من فلان: کسی سے کسی چیز کو چھین لینا۔
 غَسَمَ (ن) غَسَمًا وَاغَسَمَ. اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاسِم)۔
 الغَسَم. سیاہی۔ تاریکی۔ خاکستری۔
 الغَسَم و الاغسام. آسمان میں بادل کے ٹکڑے۔
 غَسَنَ (ن) غَسَنًا. الشیء: چبانا۔
 غَسَانُ القَلْبِ و غَسَانُهُ. دل کے انتہائی گوشے کہا جاتا ہے "عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ □ من غَسَانِ قَلْبِكَ" میں نے جان لیا کہ یہ تمہارے دل کی گہرائی سے ہے۔
 الغَسَان و الغیسان. جوانی کی تیزی اور کہا جاتا ہے "مَا اَنْتَ مِنْ غَسَانِهِ" تم اس کے مردوں میں سے نہیں ہو۔
 الغَسَانِي. بہت خوبصورت۔
 الغَسْنَةُ و الغسناة. بالوں کا گچھا۔ ج غَسْنٌ: غَسْنَاتُ و غَسْنَاتُ۔
 الاغسان. لوگوں کے اخلاق و عادات۔
 پرانے کپڑے۔
 الغیسانة. نرم و نازک عورت۔
 غَسَا یَغْسُو غَسْوًا و غَسِي یَغْسِي غَسِيًا وَاغَسَى. اللیل: رات کا تاریک ہونا۔
 اغسَاه اللیل: تاریکی ڈالنا۔
 الغساة. پتھی بھجوریں۔ ج غَسَوَاتُ

و غَسَى شیخ (عاس) پیر فانی۔
 غَسَدَ (ن) غَسَدًا و غَسَدًا. خلاف ضمیر ظاہر کرنا اور خلاف مصلحت کو مزین کرنا۔ دھوکا دینا۔
 اغَسَدَ. دھوکے میں ڈالنا اغسدة عن حاجتہ: جلدی کرنا اور حاجت سے باز رکھنا۔
 اغتَسَشَ و استغشش. الرجل: خیانت کا گمان کرنا۔ خائن سمجھنا۔
 الغش. دھوکا۔ فریب۔ کینہ۔ خیانت۔ دل کی سیاہی۔ ترش روئی۔ ہر چیز کی کدورت۔
 الغش. دھوکا باز۔ ج غشون۔
 العاش. دھوکا باز۔ ج غششة و غشاش۔
 الغشش. گدلپانی۔
 العشاش و العشاش. تاریکی کا اول و آخر۔
 قَوْمٌ غَشَاشَةٌ. دھوکہ باز لوگ۔
 المغشوش. ت۔ غیر خالص۔ کہا جاتا ہے "لین مغشوش" غیر خالص پانی ملا ہوا۔
 دودھ۔
 غَشَمَهُ (ن ض) غَشَمًا و تَغَشَمَهُ. ظلم کرنا۔
 غَشَمَ (ض) غَشَمًا الحاطب لکڑی چنے والے کارات کو لکڑی چننا اور بغیر سوچے بوجھے جو ہاتھ لگے اس کو کاٹنا۔
 الغاشم و العشوم و العشام. ظالم۔
 غاصب۔
 المِغْشَم. خود رائے ڈیر کہ جو چاہئے کرے۔ ظالم۔
 الغشمشم. بمعنی مغشَم۔ بہت ظلم کرنے والا۔
 الغشمشمة و الغشمشية. ڈیری۔
 جرات۔
 غَشْمَرُ عَشْمَرَةَ. السیل: سیلاب کا آنا۔
 الرجل: حق یا باطل میں خود رانی کرنا اور کوئی پروا نہ کرنا لامر: بے سوچے سمجھے کام کرنا۔
 فلان: ظلم کرنا۔
 تغشمر. علیہ: غضبناک ہونا۔ فلان: زبردستی لے لینا اور ظلم کرنا۔ شمر

السبل او الحیش: سیلاب یا فکر کا آنا۔

العشْمُورَةُ: سر آواز۔ ج غشامیر۔

العشْمُورِيَّةُ: ظلم۔

العشْمِيرُ: سختی۔ زبردستی۔ کہا جاتا ہے

”أَخَذَهُ بِالْعَشْمِيرِ“ یعنی اس کو سختی سے لیا۔

عَشَا يَعْشُو عَشْوًا: فلانا: کسی کے پاس

آنا۔

عَشِي (س) عَشَاوَةٌ: الأمرُ فلانًا: جتلا

کر دینا۔

عَشَا: الفرس وغيره: سفید سر والا ہونا۔

عَشِي (س) عَشِيَانَا: فلانا: کسی کے پاس

آنا ہاں بسوٹ۔ کوڑے سے مارنا۔

اسْتَعَشَى: توبہ و بتوبہ: ڈھانپ لینا تاکہ

ندکھائی دے نہ سائی دے۔

العشْوَةُ والعشَاوَةُ: دونوں میں عین کی

تثبیت ہے۔ پردہ۔ العشْوَةُ: عشا کا اسم مرہ۔

الأعْشَى: مِنَ الخَيْلِ وَغَيْرِهَا: سارے

جسم کے خلاف سفید سر والا گھوڑا۔ مؤنث

عَشْوَاءُ۔

عَشِي يَعْشَى عَشِيًا وَعَشَايَةَ الأمرُ

و فلانًا: نازل ہونا۔ ڈھانکنا۔ عَشِي المَرْأَةِ:

جماع کرنا مکان: آنا اللیل: رات کا

تاریک ہونا۔

عَشِي عَلَيْهِ عَشِيًا وَعَشِيًا وَعَشِيَانَا:

بیہوشی طاری ہونا۔ صفت مفعول مَعْشِيٌّ

عَلَيْهِ۔

أَعَشَى: الأمرُ فلانًا: نازل کرنا۔ ڈھکوانا

اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا اللہ علی

بَصْرِهِ: نگاہ پر پردہ ڈال دینا۔ اَعَشَانِي فلانًا

فلاں کے پاس آنے کیلئے برا بھنجتے کرنا۔

عَشَى: الشَّى و عَلَى الشَّى: ڈھانکنا۔

عَشِيَّتِهِ الأمرُ میں نے اس کو کام سے ڈھانک

دیا۔

تَعَشَى: بتوبہ: اپنے آپ کو ڈھانکنا۔

تَعَشَى المَرْأَةُ: جماع کرنا۔ تَعَشَاهُ الأمرُ:

کام نے اس کو ڈھانک لیا۔

اسْتَعَشَى: توبہ و بتوبہ: اپنے آپ کو

ڈھانک لینا۔

العِشَاءُ: پردہ۔ جِ اعْشِيَةٌ۔

العِشَايَةُ والعِشَايَةُ والعِشَايَةُ: پردہ۔

العِشْيَةُ والعِشْيَةُ والعِشْيَةُ: پردہ۔

بیہوشی۔ عشی۔

عِشَانِيَاتُ الأَجْنِحَةِ: پروں کے چار حصے

والے کیڑے جن میں سے پھونڈ اور بعض

چھوٹی کی اقسام ہیں۔

العِشَايَةُ: مؤنث غاشی۔ پردہ۔ ول کا پردہ۔

جِ عَوَاشٍ: مصیبت۔ قیامت۔ اندرونی بیماری

کا نام۔ غَاشِيَةٌ فلان: خدام۔ ملاقاتی دوست

احباب جو بار بار آئیں۔

العِشْيَانُ: آنا۔

عَصَّ (س) (ن) عَصَصًا: بِالطَّعَامِ

والمَاءِ: کھانے پینے سے پھندا لگنا۔ اچھو لگنا۔

صفت (عَصَّ و عَصَّان) المَكَانُ بِهِمْ:

بھرجانا اور تنگ ہونا۔

عَصَّ (ن) عَصَاً: الشَّى: قطع کرنا۔

أَعَصَّهُ: اچھو لگوانا۔ کسی کے گلے میں پھندا

لگوانا۔ کہا جاتا ہے ”اعص علينا الارض“

اس نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی۔

اِعْتَصَّ: المَكَانُ بِهِمْ: تنگ ہونا۔

العِصَّةُ: جس کا پھندا لگے۔ غم۔ اندوہ۔ جِ

عِصَصٌ۔

عِصْبَةٌ (ض) عِصْبًا عَلَى لَشَى: مجبور

ہونا الشَّى: زبردستی لے لینا المَرْأَةُ: زنا

بالجبر کرنا الجِلْدُ: کھال سے بال اور اُون وُور

کرنا۔ صفت (عاصب) جِ عَاصِبُونَ

و عِصَابٌ اور اس کا تعدیہ دو مفعول کی طرف

ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے عِصْبَةٌ مَالُهُ اور کبھی

مفعول اول میں من کی زیادتی ہوتی ہے۔ کہا

جاتا ہے ”عَصِبْتُ مِنْهُ مَالَهُ“

اِعْتَصَبَ: الشَّى: ظلم و زبردستی سے لینا

المَرْأَةُ: زنا یا بھجرت کرنا۔

عَاصِبَةٌ: ہر ایک کا دوسرے سے چھیننا۔

العِصْبُ: سر۔ چھیننی ہوئی چیز۔

عِصْنٌ (ض) عِصْنًا: العِصْنُ: ٹہنی کو

کاننا: ٹہنی کو چھیننا الشَّى: لینا ہ عَنِ حَاجَتِهِ:

بھیرنا یا مع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا عَصَنْكَ

عِشْيٌ“ کسی چیز نے تم کو مجھ سے باز رکھا۔

أَعَصَنَ وَعَصَنَ: العِصْفُ: بڑے دانوں

والا ہونا۔ اِعْصَنَتِ الشَّجَرَةُ: درخت کا

شاخ دار ہونا۔

العِصْفُ: شاخ جِ عِصْفُونَ و اِعْصَانٌ و

عِصْفَةٌ۔

العِصْفَةُ: شاخ میں نگی ہوئی چھوٹی ٹہنی۔

نُورٌ (أَعَصَنَ) سفید دم کا تیل۔

عِصْفٌ (ن) عِصَا و عِصَاصًا و عِصَاصًا

و عِصَاصَةً: طَرْفُهُ و مِنْ طَرْفِهِ او

صَوْتُهُ: و مِنْ صَوْتِهِ: نگاہ یا آواز پست کرنا۔

روکنا العِصْفُ: شاخ کو بغیر جدا کیے ہوئے توڑنا

الشَّى: کم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”لَا اِعْصَكَ

دَرْهَمًا“ میں ایک درہم کو نہیں کروں گا مِنْ

فلان: کسی کا مرتبہ گھٹانا۔ کہا جاتا ہے ”عَصَّ

بِصْرَهُ“ یعنی جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس

سے منع کیا۔ ”عِصْفُ طَرْفُهُ لِفُلَانٍ“ فلاں کی

وجہ سے مکروہ بات برداشت کر لی ”و عِصَّ

لِي سَاعَةً“ یعنی اپنی سواری کو تھوڑی دیر کے

لیے روک لو اور بھجرت جاؤ۔

عِصْفٌ (س ض) عِصَاصَةً و عِصْوَصَةً

النَّبَاتُ و غیرہ: نباتات کا تروتازہ ہونا۔

صفت (عِصْفٌ) جِ عِصَاصٌ۔

عِصْفٌ: تروتازہ کو کھانا۔ تروتازہ و نرم و

نازک ہونا۔ ذلت و خواری لاحق ہونا۔

اِنْعَصَّ: الطَّرْفُ: نگاہ کا بند ہونا۔

تِعَاصُصٌ: عَنَهُ: غفلت برتنا۔

العِصَاصُ و العِصَاصُ: سر کا اگلا حصہ یا

چہرے یا اوپر کا حصہ۔

العِصَّةُ: ذلت و نقصان جِ عِصْفُصٌ۔

العِصْفِيَّةُ و العِصَاصَةُ: جِ عِصَايِصٌ:

ذلت و نقصان۔

المِعْصَفَةُ: جِ مِعْصَاصٌ: ذلت و نقصان۔

العِصْفُ: سر۔ تروتازہ۔ نازک بدن۔ کہا جاتا

ہے ”شَبَابٌ عِصْفٌ“ یعنی تروتازہ نبی جوانی جِ

غضاض

الغضاض. تروتازہ ناقص۔ ذلیل۔
طَرَفٌ غَضِيضٌ: پت لگا۔ جِ اغْضَاءُ
وَاعْضَاءُ مَوْتٌ غَضِيضَةٌ جِ غَضَائِضٌ.
غضب (س) غَضْبًا وَ مَغْضَبَةً عَلَيْهِ:
غضبناک ہونا۔ صفت (غَضِبَ وَ غَضِبَ
وَ غَضِبَانًا) مَوْتٌ غَضِيضٌ وَ غَضُوبٌ
وَ غَضْبَانَةٌ. جِ غَضِيضٌ وَ غَضَابٌ وَ
غَضَابِيٌّ وَ غَضَابِيٌّ. اور کہا جاتا ہے
"غَضِبَ لِفُلَانٍ" یعنی فلاں کے لیے
غضبناک ہو گیا۔ "وَ غَضِبَ مِنْ لَأْ شَيْءٍ"
یعنی بغیر کسی سبب کے غضبناک ہوا۔

أَغْضَبَهُ وَ غَضَبَهُ مَغْضَبَةً. غضب پر
برا بھینچ کرنا۔ وَ غَضَبْتُهُ. ایک کا دوسرے کو
غصہ دلانا۔ غَضَبْتُ فُلَانًا: ناراض کرنا۔
ایک دوسرے کو ناراض کرنا۔ أَغْضَبْتِ
الْعَيْنَ: آنکھ کا تیکاد غیرہ نکال دینا۔
تَغَضَّبَ وَ اسْتَغْضَبَ عَلَيْهِ: غضبناک
ہونا۔

الغضبة. غضب کا اسم مرتہ۔ مچھلی کی کھال۔
سر کی کھال۔
الغضاب والغضاب. آنکھ کا تیکاد۔
الغضابى. مکر زندگی بسر کرنے والا۔
الغضب والغضبة والغضبة والغضبة.
غضبناک۔

غَضْرَةٌ (ن ض) غَضْرًا. اللُّهُ: خوشحال
کرنا۔ آسودہ حال بنانا۔ غَضِرَ الرَّجُلُ: کسی کو
روکنا۔ مَنَعَ كَرْنَا الشَّيْءَ: کانا۔

غَضِرَ (س) غَضْرًا وَ غَضَارَةً. آسودہ
حال ہونا۔ بہت مال دار ہونا۔ اچھی زندگی والا
ہونا۔ صفت (غَضِرَ)

غَضِرَ (ض) غَضْرًا وَ تَغَضَّرَ. عَنَهُ: تجاوز
کرنا۔ پھر جانا۔ غَضِرَ عَلَيْهِ: نائل ہونا
لِفُلَانٍ مِنْ مَالِهِ: مال میں سے کچھ دینا۔
أَغْضِرَ. جوان مرنا۔

الغضار. خالص چپکنے والی مٹی۔ چپکنے والی
مٹی کا بنا ہوا پیالہ۔ سبز رنگ کی چمبیری جو نظر بد

سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں۔

الغضارة. نعمت۔ آسودہ زندگی۔
وسعت و آسودہ حالی۔ سبز رنگ کی چمبیری جو
نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
خالص مٹی۔ ہر پیالہ۔ جِ غَضَائِرُ.

الغضراء. مِنَ الْأَرْضِ: پانی کے قریب کی
عمدہ زمین۔ وہ زمین جس میں خالص مٹی ہو اور
تظاۃ ایک پرندہ ہے اس کو بھی غَضْرَاءُ کہتے
ہیں۔ جِ غَضَارِيٌّ. کہا جاتا ہے "هَمُّ فِي
غَضْرًا مِنَ الْعَيْشِ" وہ لوگ آسودہ حالی اور
خیر میں ہیں۔

الغاضر. قال۔ مانع۔ کھال جس کی دباغت
اچھی ہوئی ہو۔ اپنی ضروریات کے لیے تڑکے
جانے والا۔ مَوْتٌ (غَاضِرَةٌ)

الغضير. نرم و نازک۔ سبز رنگ والا۔
ارض غضيرة: خالص مٹی والی زمین۔

المغضير. صاحب نعمت و آسودہ حال۔ جِ
مَغْضِرُونَ.

المغضور. صاحب نعمت و آسودہ حال۔ جِ
مَغْضُورُونَ وَ مَغَاضِيرٌ.

الغضروف. بمعنی غُرُضُوفُ.
غَضُضُ. الماء: پانی کم کر دینا۔

و تَغَضُّضُ. الماء: پانی کم ہونا۔ یلیاب
ہونا۔

غَضَفَ (ض) غَضْفًا. الْغُودُ: کزلی توڑنا
الْكَلْبُ أَدْنُهُ: کتے کا اپنے کان کو ڈھیلا کرنا
الْوَسَادَةُ: تکیہ کو موڑنا۔ دوہرا کرنا
(غَضُوفًا) آسودہ حال ہونا۔

غَضَفَ (س) غَضْفًا. اللَّيْلُ: رات کا
تاریک ہونا۔ غَضِفَتِ الْأَدُنُ: خِلْفَةٌ:
ڈھیلا ہونا۔ صفت (غَضَفَاءُ) جِ غَضْفٌ.
غَضِفَ الْعَيْشُ: آسودہ ہونا۔ صفت
(أَغْضَفُ وَ غَاضِفٌ)

أَغْضَفَ. اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
السَّحَابُ: بادل کا چھاجانا اور آمادہ بارش
ہونا۔

غَضَفَ الشَّيْءَ: لڑکانا۔

تَغَضَّفَتِ الْجَارِيَةُ: چکنا۔ ناز و انداز سے

چلنا الْعَيْتَةُ: کزلی مارنا۔ اور کہا جاتا ہے
"تَغَضَّفَتِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ" دنیا اس کی طرف
متوجہ اور نائل ہے۔ تَغَضَّفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ:
رات کا آنا۔ الْبُيْرُ: کنوئیں کا منہدم ہونا۔

انغضفت البئر: کنوئیں کا گرنا انغضفت
أذنة: کان کا ٹوٹنا الصَّبَابُ: کھر کا تہہ ہونا
الْقَوْمُ فِي الْغُبَارِ: قوم کا غبار میں داخل ہونا۔
الغاضف. فاج خوش حال۔ خوش پیش۔ کتا
جس کا کان آگے کو لٹکا ہوا ہو۔

الغضف. درخت خرما کے مانند ایک درخت۔
واحد (غَضْفَةٌ)

الغضنفر: شیر سخت جسم والا مرد۔
الغضفة. سنگ خوار کے مانند ایک پرندہ۔

الأغضف. لکے ہوئے کان کا کتا۔ موٹے
پیروں کا تیر۔ تاریک رات۔ عَيْشٌ

أَغْضَفَ: خوش حال زندگی۔
غَضْنَهُ (ن ض) غَضْنًا. عَنِ كَذَا: منع

کرنا۔ رُو كْنَا النَّاقَةَ: اونٹنی کا ناتمام بچہ گرانا اور
اسم (الغضان) ہے۔

أَغْضَنَ. السَّحَابُ: لگاتار بارش ہونا۔
أَغْضَنَتِ عَلَيْهِ السَّمِيُّ: تیز بخار آنا اور

بیش رہنا عَلَيْهِ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
غَاضِنٌ مَغَاضِنَةٌ. عَيْنُهُ: آنکھ کا چھچھکانا

الْمَرْأَةُ: آنکھ چھپکا کر عورت سے بات چیت
کرنا۔

غَضَنَ. الشَّيْءُ: موڑنا۔ شُكِنَ ذَالِنًا.
غَضِنَتِ السَّمَاءُ: لگاتار برسنا النَّاقَةَ:

اونٹنی کا ناتمام بچہ گرانا۔
تَغَضَّنَ. مَرْنَا۔ شُكِنَ پَرْنَا۔

الغضن والغضن. کپڑے یا کھال کی شکن۔
شُكِنَ۔ مشقت۔ غَضِنَ الْعَيْنَ: آنکھ کی

ظاہری کھال جِ غَضُونٌ. غَضُونُ الْأَدُنُ:
کان کی سلوٹ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذُو

غَضُونٍ" پیشانی پر شکن والا آدمی "وَسَكَانَ
الْأَمْرَ فِي غَضُونٍ ذَلِكَ" یعنی اس کے

درمیان میں۔

الماء: پانی میں ڈوبنا وغوط دینا۔ غَطَّ (ن) غَطًّا: سخت چھوڑنا۔ غَطَّ (ض) غَطِيظًا: النائم: سونے والے کا خراسے لیٹا۔ البعير: اُونٹ کا بلبلانا۔ تَغَاطَّ: الرجلان في الماء: ایک دوسرے کو پانی میں ڈوبنا۔ الغَطَّ: في الماء: پانی میں ڈوبنا۔ الغَطَّاط: سنگ خوار پرندے کی ایک قسم۔ والغَطَّاط: صبح کی ابتداء۔ الغَطِيظَةُ: تیز تلوار۔ غَطَّرَسَ غَطَّرَسَةً: على فلان: تکبر کرنا الرجل: اپنے ہم عمروں پر دست درازی کرنا بالشئ: خود پسند ہونا: غضبناک کرنا۔ تَغَطَّرَسَ: ناز کرنا۔ تکبر کرنا غضبناک ہونا۔ بجَلَّ کرنا۔ الغَطَّرَس: تکبر۔ خود پسند۔ ج غَطَّارِس. الغَطَّرِس: تکبر۔ خود پسند۔ ج غَطَّارِس. غَطَّارِس: غَطَّارِس. غَطَّرَشَ: اللیل بصره: رات کا نگاہ کو تاریک کرنا بصره: نگاہ تاریک ہونا۔ الرجل: بڑائی ظاہر کرنا۔ تَغَطَّرَفَ: ناز و انداز سے چلنا۔ تکبر کرنا۔ الغَطَّرَفَة: تکبر۔ الغَطَّرَاف والِغَطَّرِيف: غی۔ سردار۔ خوش طبع جوان۔ خوبصورت ج غَطَّارِفَة و غَطَّارِيف. الغَطَّرِيف: باز کا بچہ۔ کھی۔ الغَطَّرُوف والِغَطَّرُوف: خوبصورت خوش طبع جوان۔ غَطَّسَ (ض) غَطَّسًا: في الماء: پانی میں غوط کھانا في الماء: غوط دینا في الإناء: برتن میں منہ لگا کے پینا۔ غَطَّسَهُ: في الماء: پانی میں غوط دینا۔ تَغَاطَّسُوا: في الماء: پانی میں ایک دوسرے کو غوط دینا۔ تَغَاطَّسَ الرجلُ: غفلت برتنا۔ الغَاطَّسُ: فَا لَيْلٌ غَاطَّسَ: تاریک رات۔	الغَضَّة الغَضَّة: باریک چمکا جو چمک والے کی جلد پر ہوتا ہے۔ الغَضِيْن: اُونٹنی کا تمام بچہ۔ الْاَغْضَن: خلتا تکبر یا عداوت کی وجہ سے آگے سینے والا۔ غَضًا يَغْضُو غَضْوًا: اللیل: تاریک ہونا البعير: اُونٹ کا درخت غصا چرنا۔ صفت (غاض) نعت اور آسودہ حالت میں ہونا۔ غَضْوًا: صفت (غاض) مؤنث (غاضية) ج غَوَاض. غَضِي يَغْضِي غَضِيًّا: البعير: درخت غصا کے کھانے سے اُونٹ کے پیٹ میں درد ہوتا۔ صفت (غض) مؤنث غَضِيَّة ج غَضَايَا غَضِيَّتِ الْاَرْضُ: بہت درخت والی ہونا۔ اغْضَى اِغْضَاءً: اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاض) ثلثه: قیاس۔ اغْضَى عَيْنَهُ: آنکھ بند کرنا۔ على الامر: خاموش رہنا۔ صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے "اغْضَى عَنْهُ طَرْفَةً" اس سے اُس نے نگاہ پھیر لی۔ و "اغْضَى عَلَى الْقَدَى" اس نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔ تَغَاضَى: آنکھیں بند کر لینا عَنْهُ: غفلت برتنا۔ الغَضَا: جھاڑو کا درخت جس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی چنگاری دیر تک نہیں بجھتی۔ واحد (غَضَاة) جھاڑی۔ اَهْلُ الْغَضَا: نجد کے رہنے والے۔ الغَاضِيَّة: غاضی کا مؤنث۔ تاریک۔ روشن۔ کہا جاتا ہے لیلۃ غاضیة یعنی تاریک رات "نَارٌ غَاضِيَّةٌ" یعنی روشن آگ۔ آگ ج غَوَاض. الغَضِيَاءُ: غصا کے اگلے کی جگہ۔ اَرْضُ غَضِيَاءُ: بہت درخت غصا والی زمین۔ غَطَّ (ن ض) غَطًّا وَاغْطَّ الشئُ فِي
الغَطَّاس: عِنْدَ النَّصَارَى: نصرائیوں کی ایک عید۔ الغَطَّاس: قعر دریا تک غوط لگانے والا۔ ایک پردہ جس کو غَوَاصُ بھی کہتے ہیں۔ الغَطُّوس: لڑائیوں میں پیش قدمی کرنے والا۔ المَغْطَس: غوط لگانے کی جگہ۔ المِغْطَس: بڑا برتن جس میں غوط لگائیں۔ ج مِغْطَس. غَطَّشَ (ض) غَطَّشًا: اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاطش و اغطش) التَّغَطُّس: عیسائیوں کے چہرہ کا دن۔ غَطَّشَ (ض) غَطَّشًا وَاغْطَّشًا: مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا۔ غَطَّشَ (س) غَطَّشًا: کمزور نظر والا ہونا۔ صفت (اغطش و غطش) مؤنث (غطشاء و غطشنة) ج غَطَّش وَاغْطَّشَات. اغْطَّشَ: اللیل: رات تاریک ہونا۔ الْبَلَّةُ اللیل: رات کو تاریک کرنا۔ تَغَطَّشَتْ: عینہ: نگاہ کمزور ہونا۔ تَغَاطَّشَ: عَنْهُ: اندھا بننا وغفلت برتنا۔ اغْطَّاشَ: کمزور نظر والا ہونا۔ الغَطَّاش: رات کی تاریکی۔ الغَطَّشُ: فِي الْعَيْنِ: سیلان اشک کے ساتھ نظر کی کمزوری۔ قَلَاةٌ (غَطَّشَاءُ وَاغْطَّشُ وَاغْطَّشِي) چمیل میدان جس میں راستہ کا پتہ نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "قَلَاةٌ غَطَّشِي وَنَحْنُ كَرِمَالِهَا غَطَّشِي" چمیل میدان تھا اور ہم اس میں اسی میدان کی ریت کے ماتہ پیاسے تھے۔ لیلۃ غطشاء: تاریک رات۔ غَطَّعَطَّ غَطَّعَطَّةً: القِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا النَوْمُ على فلان: نیند کا غالب آنا وَتَغَطَّعَطَّ البَحْرُ: سمندر میں موجوں کا بلند ہونا۔ تَغَطَّعَطَّ الشئُ: بکھرتا۔ متفرق ہونا۔ الغَطَّاعِطُ: بکری کے مادہ بچہ واحد (غَطَّعَطَّ)	

الشَّيْءِ بِغُفْرَتِهِ، اس نے مناسب طریقہ سے اصلاح کر دی۔

الغَفَّارَةُ: خود جس کو فوجی ٹوپی کے نیچے پہنتا ہے کھرا کہ جس سے کمان کے گوشے کو لپیٹتے ہیں۔ چیترا جس سے عورتیں اوزھنی کو میل یا تیل وغیرہ سے بچاتی ہیں۔ اور وہ چیز جس سے کسی چیز کو چھپائیں۔

الغَفَّارَةُ: لمبی چوڑی چادر جس کو علمائے یہود اوزھتے تھے۔

الغَافِرُ: فاجع غافرون و غفرة الغفور: بہت بخشنے والا۔ مؤنث و مذکر دونوں کے لیے استعمال ہے۔

الغَفَّارُ: بہت بخشنے والا۔ مؤنث غَفَّارَةٌ الغفیر: سب رواں۔ کہا جاتا ہے "جَاوَزُوا جَمًّا غَفِيرًا وَجَمًّا غَفِيرًا" یعنی جماعت آگے جس میں شریف و زویل بھی قسم کے لوگ ہیں۔

المَغْفِرَةُ: پہاڑی بکری بچے والی ج مغفیرات۔

المَغْفِرَةُ والمَغْفَرَةُ: خود جس کو فوجی ٹوپی کے نیچے پہنتا ہے۔ ج مغفیر۔

المَغْفِرُ والمَغْفَرُ والمَغْفُورُ: ایک قسم کا گوند جو بعض درختوں سے لگتا ہے۔ ج مغفیر ومغفیر۔ اَرْضٌ (مَغْفُورٌ) وہ زمین جس میں یہ گوند بہت لگتا ہے۔

الغَفْشُ: آنکھ کا کچھڑ۔ غَافِصَةُ غَفَاصًا وَمَغَافِصَةٌ اچانک آ جانا۔ اچانک پڑ لیا۔

الغَافِصَةُ: مصیبت زمانہ ج غوافص۔ غَفَقَهُ (ض) غَفَقًا بالسُّوطِ: کوزے سے بہت مارنا۔ غَفَقَ عَلَيْهِ کسی پر اچانک آ جانا۔ الرَّجُلُ اِجَانِكُ وَاهِسُ اِجَانًا۔

غَفَقَهُ: کچھ تھوڑا سا سونا۔ غَفَقَ: اس طرح سونا کہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہو۔

تَغَفَّقُ الخُبْرَابُ: تمام دن شراب پینا یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پینا۔

تَغَفَّقَ: الاناء أو الضرع: برتن یا تھن کے بقیہ کو لینا۔

العَفْفُ: خشک شدہ پتے۔ العَفَّةُ: چارہ جس کو اونٹ منہ سے جلدی لے سکے۔ گزارہ۔ عَفَّةُ: الاناء أو الضرع: برتن یا تھن کا بقیہ۔ العَفَّةُ: چوہا۔

عَفْرٌ (ض) عَفْرٌ الشَّيْءُ: ڈھانکنا۔ الشَّيْبُ بِالْحِضَابِ: سفید بالوں کو حضاب سے چھپانا۔

عَفْرًا وَعَفِيرًا وَعَفِيرَةً وَعَفْرَانًا وَمَغْفِرَةً وَعَفُورًا: لہ الذنوب: چھپانا اور معاف کر دینا الامر: درست کرنا۔

عَفْرٌ (ض) وَعَفْرٌ (س) عَفْرًا وَعَفِيرٌ المَرِيضُ: سر میں کادوبارہ بیاہ ہونا۔ عَفْرٌ وَعَفِيرٌ الجِرْحُ: زخم کا تازہ ہونا۔ عَفْرٌ الثَّوْبُ: کپڑے کا روئیں دار ہونا۔

عَفْرٌ الشَّيْءُ: چھپانا ڈھانکنا الرَّجُلُ: غفر اللہ لہ: کہنا۔

أَغْفَرُ: چھپانا۔ أَغْفَرُ الرَّمْثُ: گوند نکالنا۔ تَغْفَرُ: گوند چھپنا۔

تَغْفَرُوا: ہر ایک کا دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔

اِغْتَفَرَ: اللہ ذنبا: بخش دینا۔ اِغْفَارُ الثَّوْبِ: روئیں دار ہونا۔

اِسْتَغْفَرَ: اللہ الذنوب وَمِنَ الذَّنْبِ: بخشش طلب کرنا۔

الغفر والغفر: رواں کپڑے کا۔ الغفر: چھوٹی چھوٹی تھاس (الغفر والغفر والغفار) گردن وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے بال۔

الغفر والغفر: پہاڑی بکری کا بچہ۔ ج غفرة وَاغْفَارٌ وَعُفُورٌ الغفر: گائے کا بچہ۔

الغفر: گردن وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے بال والا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ غَفْرٌ الْقَفَا وَإِمْرَأَةٌ غَفْرَةٌ الْوَجْهَ: رخسارہ پر نشان۔

الغفار: ڈھلکا۔ سر پوش۔ کہا جاتا ہے "غفر الغفرة":

الغَفَّطَةُ: سبک خوار کی آواز کے مانند نقل کرنا۔

عَطَفَ (س) عَطْفًا: پلوں کا طویل ہونا اور مڑ جانا۔ مَفْتُ (أَعَطَفَ) مَوْنُثُ (عَطْفَاءُ) ج عَطْفُ: سب وسعت عیش۔

الاعطف: من العیش: آسودہ زندگی۔ العظم: بڑا سمندر۔ وسیع الاخلاق آدمی۔ جماعت کثیر۔

عَظَمَطُ: البحر: سمندر کا بلند موجوں والا ہونا القُدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ النسیب: آواز دینا۔

تَعَطَّمَطُ: البحر: سمندر کا جوش مارنا اور موجوں کا بلند ہونا الصوت: آواز کا گھوگھر ہونا۔

بَحْرٌ (عَطَامَط) بڑی موجوں والا سمندر۔ العظمت: بڑا سمندر۔

عَطَا يَعْطُو عَطْوًا وَعُطْوًا: الشَّيْءُ: چھپانا الماء وغیره: بلند ہونا الليل: رات کی تاریکی کا سب چیزوں کو چھپا لینا۔

عَطَى تَعَطِيَةً وَأَعْطَى اِعْطَاءً: الشَّيْءُ: چھپانا۔ اَعْطَى الكرم: پانی جاری ہونا اور تیل کا چھپانا۔

تَعَطَى وَاِعْطَى: چھپنا۔ العطاء: پردہ۔ سر پوش۔ ج اعطية: عورت کی کرتی۔

عَطَى يَعْطِي عَطِيًّا وَعَطِيًّا اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا الشَّيْبُ: جوانی کا بھر پور ہونا الماء پانی کا بہت ہونا۔ مَفْتُ (عَاطِ) الشَّيْءُ وعلی الشَّيْءِ: چھپانا۔

وَأَعْطَى الشجر: درخت میں لمبی لمبی شاخوں کا ہونا۔ اعطاه: چھپانا۔

العاطية: مؤنث عَاطِي: انور کی تیل۔ عَفَّ الطائر: پرندے کا لڑنا۔

اِعْتَفَّتْ وَتَعَفَّقَتْ: الدابة: جانور کا موسم بہار کے چارہ پر بچھنا۔ اِعْتَفَّتْ الدابة: چوپایہ کا چارہ پانا۔ اِعْتَفَّ فَلَانًا: تھوڑا دینا۔

اغْتَفَقَ بِهِ: احاطہ کرنا۔

الغفق: سن۔ ہلکی بارش۔

المَغْفِقُ: مرجح۔ لوٹنے کی جگہ۔

المُتَغْفِقُ: واپس ہونے اور مڑنے کی جگہ۔

غَفَلَ (ن) غُفُولًا وَغَفْلَةً وَغَفْلًا عَنْهُ:

غافل ہونا۔ بھول جانا۔ چھوڑ دینا الشئی:

چھپانا۔

غَفْلَةٌ: غافل بنانا۔ غافل سمجھنا۔ غَفَلَ

الشئی: چھپانا۔

أَغْفَلَ الشئی: چھوڑ دینا: غافل نام رکھنا۔

غافل سمجھنا الكتاب: نقطہ نہ رکھنا: کام

کے وقت کو بوجھنا اور فرصت کا انتظار کرنا۔

غَافِلَةٌ وَتَغَفَّلَ وَاغْتَفَلَهُ وَاسْتَفَفَلَهُ غفلت

کے وقت کا انتظار کرنا۔ اغْتَفَلَهُ: غافل

سمجھنا۔

تَغَافَلَ: تکلف غافل بنا۔ تَغَافَلَ: غفلت

کے وقت کا انتظار کرنا۔ تَغَافَلَ عَنِ الْأَمْرِ:

غافل ہونا۔ بھول جانا۔

الغفل: سہ فراموشی۔ کہا جاتا ہے 'هُوَ فِي

غَفْلٍ مِنْ عَيْشِهِ' وہ فراموشی میں ہے۔

الغفل: بے علامت۔ بے حسب آدمی من

الشعر: جس کا قائل معلوم نہ ہو من

الأرض: غیر آباد زمین من الرجال: ایسا

آدمی جس سے نہ خیر کی توقع ہو نہ شر کا اندیشہ۔

من الكتب: جس کا مصنف معلوم نہ ہو۔ من

الشعراء: بھول شاعر ج اغْفَالَ: نعم

(اغْفَالَ) بے علامت چوپائے۔

الغافل: فا- تَغَافَلُونَ وَغُفُولٌ وَغُفْلٌ.

الغفلان: غافل۔

الغفلان: غافل۔ غفلت ورزی وبے خبری۔

المغفلة: ڈالھی پتھر۔

المغفل: بے خبر آدمی۔ سادہ لوح۔

غَفَا يَغْفُو غُفُولًا وَغُفْوًا وَغَفَى يَغْفِي

غَفِيَةً وَأَغْفَى: ادا کھنا۔ ہلکی نیند سونا۔ کہا جاتا

سے غَفِيْتُ أَوْ غَفَيْتُ کم بولا جاتا ہے غَفَا

الشئی: پالی پر تیرنا۔

الغفوة: غفا کا اسم مرہ۔ ہلکی نیند۔

غَفَى يَغْفِي غَفِيًا وَأَغْفَى: الطعام: غلہ کو

صاف کرنا۔ وَأَغْفَى الطعام: بہت کوزا

کرکٹ والا ہونا۔ اغْفَى الرَّجُلُ: کھلیان میں

بھوسہ پر سوجانا۔

انْغَفَى: الشئی: ٹوٹنا۔

الْغَفَى: گیہوں کا پھٹکنا۔

الغفاء: گیہوں کا پھٹکنا۔ درخت خرما کیلئے

آفت جو غبار کے مانند ہوتا ہے اور میوؤں کو

کپٹنے نہیں دیتا۔

الغفية: بلند نلہ جس پر پانی نہ چڑھے۔

الغفائة: آنکھ کی سفیدی۔

غَفَى (ض) غَفَاً وَغَفِيًّا: الفار: قاز کا

جوش مارنا اور اس کی آواز سنانی دینا (دیکھ صفا)

الصقر: شکرہ کا آواز کرنا۔

غَفَى المَاءِ وَغَفِيَّهُ: تپک جگہ میں پانی کے

داخل ہونے کی آواز۔

الغفاق: اسم مبالغہ۔

غَلَّه (ن) غَلًّا: فِي الشئی: داخل کرنا۔

غَلَّ المَفَارَ: بیابان میں داخل ہونا الشئی:

چپکے سے لینا اور اپنے سامان میں ملا دینا المَاءِ

بَيْنَ الْأَشْجَارِ: پانی کا درختوں کے درمیان

جاری ہونا۔ نگاہ کار اور است سے بھٹک جانا۔

غَلُّوْا: خیانت کرنا الشئی: داخل ہونا

فِي الْبِلَادِ: گھٹتے ہوئے چلے جانا۔

غَلَّ (ن) غَلًّا وَغَلَّلَ: الغلالة: غلالہ

پہننا۔ (دیکھئے غلالہ) غَلَّه وَغَلَّلَه: ہاتھ میں

بھٹھڑی یا گلے میں طوق ڈالنا۔

غَلَّ (ض) غَلًّا وَغَلِيًّا: صَدْرُهُ: کینہ والا

ہونا۔ دھوکے فریب والا ہونا۔

غَلَّ غَلًّا وَغَلَّةً: سخت پیاسا ہونا۔ صفت

(غَلِيلٌ وَمَغْلُولٌ وَمُغْتَلٌّ)

أَغْلَى الرَّجُلُ: خیانت کرنا۔ أَغْلَى

الْأَرْضَ غَلَّه: والی ہونا۔ غَلَّه بَعْدَ كَرْمِ غَلَّ

الْبَصْرِ: تیز نظر کرنا۔ غَلَّه: خیانت کی طرف

نسبت کرنا الشئی: بائیس کیلئے غَلَّه لانا

الْحَطِيْبُ: خطیب کا اپنے کلام میں صواب کو

نہ پہنچنا الجارزُ فِي الْجِلْدِ: قصائی کا کچھ

گوشت اور چربی کے ساتھ کھال کو کھینچنا۔

انْغَلَّ وَتَغَلَّلَ: فِي الشئی: داخل ہونا۔

انْغَلَّ الصَّيْغَةُ: جائیداد سے غلہ کو لینا۔

الثوب: کپڑے کو کپڑوں کے نیچے پہننا۔

انْغَلَّ وَتَغَلَّلَ: بِالْغَالِيَةِ: عالیہ لگانا۔

اسْتَعْلَى الْأَرْضَ: زمین سے غلہ لینا۔

عَبْدَهُ: غلام کو غلہ لانے پر مجبور کرنا۔

الغُلُّ: کینہ دھوکا فریب۔

الغُلُّ: پیاس۔ بھٹھڑی یا طوق ج اغْلال و

غلول کہا جاتا ہے "هَذِهِ غُلٌّ فِي غُنْفِكَ"

یعنی یہ تیرے لئے لازم ہے اور مجھے اس پر سزا

ملے گی۔

الغَلَّة: مکان کا کرایہ یا زمین کا ماحصل ج

غَلَات و غَلَال.

الغَلَّة: سخت پیاس۔ کپڑے کے نیچے پہننے کا

کپڑا۔ گدی جس کو عورتیں سرین پر بڑا معلوم

ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ ج غُلِّل.

الغَلِّل: پیاس۔ درختوں کے درمیان بننے والا

پانی۔ بھٹھنا (چائے وغیرہ چھانکے) کا گوشت جو

کھال پر رہ جائے۔ ج اغْلال.

الغلاله: ہر وہ کپڑا جو کپڑے کے یا زرہ کے

نیچے پہنا جائے مثلاً بنیان یا شلو کا وغیرہ۔

زرہ کے دو حلقوں کو ملانے والی میخ۔ ج

غَلَالِن. گدی جس کو عورتیں سرین پر بڑا

معلوم ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔

الغالية: ایک قسم کی مرکب خوشبو۔

الغليل: سخت پیاسا۔ سخت کینہ۔

سوزش سخت یا سوزش غم۔

الغليلة: مؤنث غلیل۔ زرہ یا زرہ کے نیچے پہننے

کا کپڑا۔ ج اغْلال.

المغلال: بہت غلہ والا۔

المغتل: پیاسا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا مُغْتَلٌّ إِلَيْهِ"

یعنی میں اس کا مشتاق ہوں۔

المُغَلَّاتِ وَالْمُسْتَعْلَاتِ: زمین کا زائدہ

(بصورت کرایہ یا غلہ)

غَلَبَ الرَّجُلُ وَغَلَبَ عَلَيْهِ (ض) غَلَبًا

و غَلَبًا وَغَلَبَةً وَمَغْلَبًا وَمَغْلَبَةً وَغَلَبِي

غَالِظَةٌ غَلِظًا وَمُغَالِظَةٌ وَأَغْلَظَةٌ غَلِظِي

میں ڈالنا۔

تَغَالِظُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو غلظی میں

ڈالنا۔

المَغْلَظَةُ: وہ مسائل مبہمہ جس سے آدمی

کو غلظی میں ڈالا جائے۔ وہ چیز جس میں

غلظی کی جائے یا کثرت سے جس میں غلظی

واقع ہوج مغالیظ۔

الأغْلُوْطَةُ: بمعنی مُغْلَظَةٌ جِ اغْلُوْطَاتٍ

وَأَغَالِیْظُ۔

المَغْلُوْطَةُ: بمعنی مَغْلَظَةٌ: کہا جاتا ہے ہذہ

مَسْأَلَةٌ غَلُوْطَةٌ: یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس

میں کثرت غلظی ہوتی ہے۔

المِغْلَاطُ: بہت غلظی کرنے والا۔

غَلِظَ (ن ض) و غَلِظَ (ک) غَلِظًا

و غَلِظَةً و غَلِظَةً و غَلِظَةً و غَلِظَةً: مونا

ہونا۔ گاڑھا ہونا۔ سخت ہونا۔ صفت

(غَلِیْظًا) جِ غَلِاطٍ و (غَالِظًا) جِ غَلِظَةٍ:

غَلِظَتِ السُّبُلَةُ: خوش میں دانہ نکلنا

الرَّجُلُ: سخت و تند خو ہونا۔

غَلِظَهُ: گاڑھا کرنا۔ غَلِظَ الیَمِیْنُ: قسم کو

موکد کرنا عَلَیْهِ فِ الیَمِیْنِ: قسم میں سختی

کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ مِنْهُ مِیْثَاقًا

غَلِیْظًا" اس سے پختہ عہد لیا۔

أَغْلَظُ: المُسَافِرُ: مسافر کا سخت زمین پر

أَثَرَا الشَّيْءِ: غلیظ پانالہ فی القَوْلِ: درشت

کلامی کرنا۔ سختی سے جھڑکنا۔

غَالِظُ مُغَالِظَةً: دشمنی کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

إِسْتَعْلَظُ: گاڑھا ہونا۔ مونا ہونا۔ سخت ہونا

الشَّيْءِ: مونا پانا۔

المَغْلَاطُ: گاڑھا۔ مونا۔ سخت۔

المَغْلَظُ: سخت زمین۔

المِغْلَظَةُ: سر سختی۔ گندگی۔ مونا پنا۔ بد خلقی۔

کہا جاتا ہے "بَیْنَهُمْ غَلِظَةٌ" یعنی ان کے

درمیان عداوت ہے۔

عَلَفَ (ن) عَلَافًا: الشَّيْءِ: ڈھانکنا۔ غلاف

میں ڈالنا۔

تَغْلَثُهُ وَاغْتَلَثَهُ: چاک پکڑ لینا۔ غفلت

میں پکڑ لینا۔

العَلَثَةُ: رات کا ابتدائی۔

غَلِثَ (س) غَلِثًا: القَوْمُ: سختی سے مقابلہ

کرنا۔

وَاغْتَلَثَ: الزُّنْدُ: چھماق سے آگ نہ

لگانا۔

غَلِثَ (ض) غَلِثًا: الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ایک

چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔

العَلِثُ: سر۔ غلث کے ساتھ ملا ہوا کوڑا

کرت۔

العَلِثُ: مجنون۔ والمِغَالِثُ: سخت جنگ

کرنے والا۔

العَلِثُ وَالغَلِیْثُ وَالْمَغْلُوْثُ مِنَ البُرِّ:

وہ گیہوں جس میں کوڑا کرت ملا ہوا ہو۔

غَلِجَ (ض) غَلِجًا و غَلِجَانًا: القُرْسُ:

برابر ایک رفتار پر چلنا۔

تَغَلَجَ: عَلَیْهِ: ظلم کرنا۔

الغُلُجُ: عمدہ جوانی۔

الأغْلُوْجُ: نرم و نازک شام۔ جِ

أَغَالِیْجُ:

أَغْلَادٌ بِدِیْنِیَا: بڑے کانٹوں والا ایک درخت۔

غَلَسَ فِ الْعَمَلِ: آخر رات کی تاریکی

میں کام کرنا۔ المَاءُ: آخر رات کی تاریکی

میں پانی پر پہنچنا۔

إِنْغَلَسَ: آخر رات کی تاریکی جِ أَغْلَاسُ:

غَلِصَهُ (ن) غَلِصًا و غَلِصَمَهُ غَلِصَمَةً:

حلق کٹانا۔ حلق پکڑنا۔

الغَلِصَمَةُ: سر اور گلے کے درمیان کا

گوشت۔ جماعت۔ قوم۔ سرداران قوم۔ جِ

غَلِصِمُ: کہا جاتا ہے "هُوَ فِی غَلِصِمَةٍ

مِن قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم میں شریف و معزز

ہے۔

غَلِظَ (س) غَلِظًا: فِی الْأَمْرِ: غلظی کرنا۔

صفت (غَالِظُ)

اور صفت مفعول (مَغْلُوْطٌ) فِیْهِ:

غلظی کی نسبت کرنا۔

وِغْلَبِي و غَلَبَةٌ و غَلَابِيَّةٌ وِإِغْلَابُهُ غَالِبٌ

ہونا۔ کہا جاتا ہے "غَلَبَ عَلَیْهِ الْكُرْمُ"

کرم کا اس کے اوپر غلبہ ہو گیا گویا کہ وہ

اس کی عادت تانبہ ہے۔

غَلِبَ (س) غَلَبًا: مَوْتٌ كَرْدُونَ وَاللَا هَوَا۔

صفت (أَغْلَبُ) مَوْتٌ غَلِبَاءُ جِ غَلِبٌ:

غَلَبَةٌ: غالب بنانا۔

غَالِبَةٌ غَالِبًا و مُغَالِبَةٌ: ایک دوسرے پر

غلبہ کی کوشش کرنا۔

تَغَلَّبَ: عَلَى الْبَلَدِ: شہر پر زبردستی تسلط

جما لینا۔

تَغَالَبُوا عَلَی الْبَلَدِ: شہر پر قابض ہونے

کے لئے ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش

کرنا۔

إِغْلُوْبُ الشَّعْبِ: گھنا ہونا الْقَوْمُ: بہت

ہونا۔

إِسْتَعْلَبَ: عَلَیْهِ الضَّحْكَ: تیز ہونا۔

غالب ہونا۔

الغَلَابُ: بہت غالب ہونے والا۔ جِ

غَلَابُونَ:

الغَالِبُ: قَاجِ غَالِبُونَ و غَلَبَةٌ: کہا جاتا

ہے "هَذَا مَا يُحَدِّثُ غَالِبًا و فِی

الغَالِبِ" یہ اکثر احوال میں واقع ہوتا ہے۔

الأغْلَبُ: اسم تفضیل۔ اسی سے ہے

"عَلَى الْأَغْلَبِ و فِی الْأَغْلَبِ" یعنی

عَلَى الْاَكْثَرِ و فِی الْاَكْثَرِ: الْأَغْلَبُ:

شہر۔

الغَلْبَاءُ: مَوْتٌ اِغْلَبَ: گھنے درختوں کا

بارش بڑا اونچا ٹیلہ۔ بہت عزیز خاندان۔

العَلَبَةُ: سر من الرجال: جلد غالب آنے

والا۔

المُغْلَبُ: سر۔ بار بار مغلوب کیا ہوا۔

المَغْلَبَةُ: سر غلبہ۔ غلبہ کی جگہ۔

غَلَّتْ (ن) غَلَّتًا: البَيْعُ او الشِّرَاءُ: فسخ

کرنا۔

غَلِثَ (س) غَلِثًا: غلظی کرنا۔ حسابی غلظی

کے لئے اکثر استعمال ہوتا ہے۔

<p>النَّبْتُ : نباتات کا گنجان اور بڑا ہونا بالدین : دین میں جو شیلا و پختہ ہونا۔ غَلَا غَلَاءً : السعور : بھاؤ بڑھ جانا۔ صفت (غَالٌ وَغَلِيٌّ) غَلَا يَغْلُو غَلْوًا وَغَلْوًا : السهم و بالسهم : تیر کو انتہائی دُور تک پھینکانا۔</p>	<p>بجوریتہ“ فلاں اپنے جرم کی وجہ سے حوالہ کیا گیا اور اس (الغالی) ہے۔ غَالِقَهُ مُغَالِقَةً : شرط لگانا۔ تَغَالِقُ : القوم : ایک دوسرے سے شرط لگانا۔</p>	<p>غَلَفَ (س) غَلْفًا : غیر مختون ہونا۔ غَلَفَ : الشئ : غلاف میں ڈالنا۔ ڈھانکنا۔ چھپانا۔ أَغْلَفَ : الشئ : غلاف بنانا۔ غلاف میں ڈالنا۔</p>
<p>غَالِي غَلَاءً وَمُغَالَاةً : السهم و بالسهم : تیر کو انتہائی دُور تک پھینکانا فی الامر : مبالغہ کرنا بالشئ قیمت بڑھانا۔ گراں قیمت پر خریدنا وغالی الرجل : مقابلہ کرنا۔ اَغْلَى الشئ : گراں قیمت پر خریدنا السعور : بھاؤ گراں کرنا الكرم : انکور سے بچے آثار دینا۔</p>	<p>استغلق : الباب : دروازہ کا کھلنا دشوار ہونا۔ الكلام غلا فلان : گفتگو کا بند ہو جانا۔ الغلق : قفل۔ تالا۔ بڑا دروازہ عند البنائين : معماروں کی اصطلاح میں غلق اس پتھر کو کہتے ہیں جو محراب یا قبة کے بیچ میں لگایا جاتا ہے جن اغلاق نج غالیق كلام (غلق و مغلق) مشکل کلام جس کا سمجھنا دشوار ہو۔</p>	<p>تَغَلَّفَ وَاعْتَلَفَ : غلاف میں ہونا۔ تَغَلَّفَ الرجل : دائی میں غالیہ۔ یعنی مرکب خوشبو لگانا۔ اَعْتَلَفَ بِالغالية : غالیہ خوشبو لگانا۔ الغلف : س ایک درخت ہے دباغت کے کام میں آتا ہے۔ الغلفة : خندہ کا چڑا جس کو خندہ کرنے والا کاتا ہے تَغَلَّفَ الغلقتان : مونچھوں کے دونوں کنارے۔</p>
<p>أغلى وتغالى وأغلولي : الشجر : درخت کا گنجان ہونا اور بڑا ہونا۔ أغلى البعير : اونٹ کا تیز چلنا۔ استغلى : الشئ : گراں پانا۔ الغالي : فاء : غلاة مؤنث غالية ج غاليات و غوال : الغالی : موٹا گوشت۔ کہا جاتا ہے بغت بالغالی و بالغلی یعنی میں نے گراں بیجا۔</p>	<p>باب (غلق) بند دروازہ۔ المغلق : جوئے کے فائدہ بخش تیروں میں سے ایک تیر تَغَالِقُ : قفل۔ المغلق والمغلق والمغلق : قفل۔ تالا جس سے دروازہ بند کیا جائے۔ ج مغاليق۔</p>	<p>المغلف : غلاف شدہ کتاب۔ الاغلف : غیر مختون۔ کہا جاتا ہے قلب اغلف یعنی ایسا دل جو نہ محفوظ رکھے نہ سجھے ”عام اغلف“ ارزانی کا سال۔ الغلاف : وہ چیز جس میں کوئی چیز داخل کی جائے اور چھپائی جائے جیسے میان جز دان تَغَلَّفَ و غَلَفَ و غَلَّفَ : الغلفاء : اغلف کا مؤنث تَغَلَّفَ أرض غلفاء : بغیر چری ہوئی زمین سنۃ غلفاء : ارزانی کا سال۔</p>
<p>الغلاء : س۔ قیمت کی زیادتی۔ ایک قسم کی چھوٹی چھل۔ تَغَالِيَةٌ : الغلاء والغلواء : (والغلوان) آغاز جوانی و نشاط جوانی۔ کہا جاتا ہے ”حَفْضٌ مِنْ غَلْوَانِكَ“ یعنی اپنی سرکشی اور حد سے زرنے کو پست کر و ”فعله في غلواء شبابه“ اس نے اس کو اپنے آغاز جوانی میں کیا۔</p>	<p>غلم (س) غلما و غلماة و اغلتم۔ شہوت پرست ہونا۔ صفت (غلم و غلیم و مغلتم) مؤنث غلمہ و غلیم و غلیمہ و معلمة اغلتم الشراب : جوش مارنا۔ اغلتم الامواج : تیز ہونا۔ الغلام : سبز خط۔ نوجوان۔ غلام۔ مزدور تَغَلَمَان و غلماة و اغلسة۔ الغلامة : غلام کا مؤنث۔ ہانڈی۔ لوٹری۔ الغلوامة والغلاصية والعلومية : نوجوانی۔ الغيليم : مذکر۔ پھول۔ مینڈک کنوئیں میں پالی کا سوت۔ بہت بالوں والا نوجوان۔ کہا جاتا ہے ”ما في الدار غلیم“ یعنی گھر میں کوئی نہیں۔</p>	<p>غلق (س) غلقًا : تنگ دل ہونا۔ زوج ہونا۔ غضبناک ہونا۔ بدخلق ہونا۔ صفت (غلق) الزهن في يد المرتهاين : حق مرہن ہونا اور یہ اس وقت جبکہ راہن رہن چھرانے سے عاجز ہو جائے۔ أغلق و غلق : الباب : دروازہ بند کرنا اور نادر طریقہ پر بولا جاتا ہے۔ غلق (ض) غلقًا اور یہ اغلق میں ایک زوی لغت ہے۔</p>
<p>الغلاة : ایک تیر پر تاب ج غلوات وغلاء۔ المغلى والمغلاة : تیر جو انتہا تک پھینکا جائے۔ تَغَالِ : غلی یعنی غلیا و غلیانا۔ جوش مارنا۔ غلی تغلیة و اَغْلَى اغلاء القدر : ہانڈی کو جوش دینا۔ الرجل : دُور سے اشارہ سے سلام کرنا۔</p>	<p>غلق (ض) غلقًا : جوش پر ہونا۔ غُلُوَان : الشباب اور امر : جوانی کی نشاط اور ابتدا۔ غَلَا يَغْلُو غَلْوًا : زیادہ ہونا بلند ہونا</p>	<p>أغلق : عليه الأمر : معاملہ کا مبہم ہونا۔ أغلق القاتل في يد والي : قاتل کو والی کے قبضہ میں دیا جاتا تاکہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ کہا جاتا ہے ”أغلق فلان“</p>

ہیں اور نیچے پردہ ہوتا ہے۔
بِنْر (غَامِدٌ وَغَامِدَةٌ) مٹی سے ڈھکا ہوا
کنواں۔

مَغْمَدٌ السَّيْفِ: تلوار کی میان ج
مَغَامِدٌ۔

غَمْرَةٌ (ن) غَمْرًا. المَاءُ: پانی کا بلند ہو
کر ڈھانکنا۔ کہا جاتا ہے ”غَمْرٌ فَلَانًا
بِفَضْلِهِ“ اس نے فلاں کو اپنے فضل و
احسان سے ڈھانپ لیا۔

غَمِرَ (س) غَمْرًا وَغَمْرًا. صَدْرُهُ عَلِيٌّ:
کینہ سے پھر جانا۔ غَمِرَتْ يَدُهُ: گوشت کی
چکنائٹ لگنا۔

غَمْرَ (ك) غَمْرًا وَغَمُورَةً. المَاءُ:
بہت ہونا الرَّجُلُ: جاہل ہونا۔

غَمِرَ عَلَيْهِ: بیہوشی طاری ہو جانا۔

غَمِرَ. وَجْهَهُ: منہ پر زعفران ملنا بِاللَّشِيِّ:
پھینکنا یا دغ کرنا۔

أَغْمَرَهُ الحَرُّ: گرمی کم ہو جانے کی وجہ
سے سفر پر جرات دلانا۔

غَامِرَةٌ مَغَامِرَةٌ: مقاتلہ کرنا اور موت کی
پروانہ کرنا۔

إِغْتَمَرَ وَتَغَمَّرَ: منہ پر زعفران ملنا۔

إِغْتَمَرَ وَإِنْتَمَرَ: پانی میں ڈوبنا۔ إِغْتَمَرَ
المَاءُ الشَّيْءُ: ڈوبنا۔

الغَمْرُ: س۔ بہت پانی۔ سمندر کا بڑا حصہ۔
کامل کپڑا۔ کریم و سبج الاخلاق ج غَمَارٌ

وَعُغْمُورٌ کہا جاتا ہے ”قُبُوبٌ غَمْرٌ“ کشادہ
کپڑا ”وَلَيْلٌ غَمْرٌ“ بہت تاریک رات و

”غَمْرُ النَّاسِ“ لوگوں کی جماعت ”هُوَ
غَمْرُ الرِّدَاءِ“ وہ بہت بھلائی کرنے والا
حی ہے۔

الغَمْرُ وَالغَمْرُ وَالغَمْرُ: نا تجربہ کار
جال۔ ج غَمْرًا الغَمْرُ: کینہ۔ پیاس۔

الغَمْرُ: زعفران منہ وغیرہ پر لگانے کی
ایک چیز ہے جس کو درس سے بناتے ہیں۔

الغَمْرُ: س۔ نا تجربہ کار۔ جال۔ کینہ۔
گوشت کی چکنائٹ۔ ج غَمُورٌ. غَمْرٌ

الغِمَامَةُ: منہ پر کا پھینکا۔ اور کبھی اس کے
لئے بھی بولتے ہیں جو گھوڑے کی دونوں
آنکھوں کے ادھر ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ
سوائے سامنے نہ دیکھ سکے ج غَمَائِمٌ۔

الغَمَاءُ وَالفَسَى: غم۔ حزن۔ مصیبت کہا
جاتا ہے ”مَثَلُكَ يَكْشِفُ الغَمَاءَ“ تمہیں
جیسا آدمی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔

الغَمِيمُ: گرم کیا ہوا گاڑھا دودھ۔
الغَمُومُ: جمع غم۔ چھوٹے مخفی ستارے۔

غَمِيمٌ (مُغَمِّمٌ) بہت پانی والا بادل۔
أَرْضٌ (مُغَمَّمَةٌ) بہت پیداوار والی زمین۔

غَمَمَتَهُ (ض) غَمَمًا. الطَّعَامُ: کھانے کا دل
پر نقل ہونا اور مدہوش کر دینا هُ فِي
المَاءِ: پانی میں ڈوبانا الشَّيْءُ: ڈھانکنا۔

غَمِمَتْ (س) غَمَمًا. کھانا دل پر نقل
ہونے سے مدہوش سا ہونا۔

غَمَجَ (ض) غَمَجًا وَغَمَجَ (س)
غَمَجًا. المَاءُ: لگاتار گھونٹ سے پانی پینا۔

الغَمَجَةُ وَالفُغْمَجَةُ: گھونٹ ج غَمَجَ.
غَمَدَ (ن ض) غَمَدًا. السَّيْفُ: تلوار کو
میان میں کرنا الشَّيْءُ: چھپانا الأَمْرُ: درست
کرنا۔

غَمَدَتِ (س) غَمَدًا. البِنْرُ: کنوئیں کا
زیادہ پانی والا ہونا۔ کم پانی والا ہونا۔ غَمَدٌ
الذَّلِيلُ: رات کا تاریک ہونا۔

أَغَمَدَ. السَّيْفِ: تلوار کو میان میں کرنا۔
الأَشْيَاءُ: بعض کو بعض میں داخل کرنا۔

غَمَدَهُ وَتَغَمَدَهُ: عیوب چھپا لینا۔
تَغَمَدَهُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ: رحمت میں چھپا
لینا۔ رحمت کے سایہ میں رکھنا۔ تَغَمَدَ
الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔

إِغْتَمَدَ. اللَّيْلُ: رات میں داخل ہونا۔
الغَمْدُ: تلوار کی نیام نَعْمُودٌ وَأَغْمَادٌ۔

سَفِينَةٌ (غَامِدٌ وَغَامِدَةٌ) بھری ہوئی کشتی
ج غَوَامِدٌ۔

مُغَمَّدَاتُ الأَجْنِحَةِ: کیڑوں کی بڑی قسم
جن کے جسم اوپر والے حصے چار پر ہوتے

تَغَلَى. غَالِيَةً (مرکب خوشبو) لگانا۔

الغَالِيَةُ: مرکب خوشبو۔ ج غَوَالٌ
الغَلْبِيُّونَ: ٹوٹی والا چھوٹا برتن جس میں
شراب گرم کی جاتی ہے۔

غَمَّةُ (ن) غَمًّا. ذُحَانٌ لِيْنَا۔ غَمَلِكُنْ کرنا۔
غَمُّ البِیُومِ: تیز گرمی والا ہونا القَمْرِ
النَّجُومِ: ستاروں کی روشنی کو ماند کر دینا

الشَّيْءِ الشَّيْءِ غَالِبٌ ہونا۔
غَمٌّ. عَلَيْهِ الأَمْرُ: پوشیدہ ہونا۔ مشتبه ہونا۔

غَمٌّ (س) غَمَمًا. لَبِے بَالٌ والا ہونا۔
صَفْتُ (أَغَمُّ) مَوْنُثٌ غَمَمًا ج غَمٌّ۔

أَغَمَّتْ. غَمَلِكُنْ کرنا۔ أَعَمَّ البِیُومِ: سخت گرمی
والا ہونا۔ أَعَمَّتِ السَّمَاءُ: بادل والا ہونا

اور کہا جاتا ہے ”بِمَا أَعَمَّتْ لَيْلٌ وَ عَلَى
وَاللَّيْلِ“ کس چیز نے تم کو میرے لئے
غَمَلِكُنْ کیا۔

غَامَةٌ مَغَامَةٌ: ایک دوسرے کو غمگین کیا۔
تَغَامٌ: جھکنا غم ظاہر کرنا۔

إِنْعَمَ. ذُھُکٌ جَانَا (وَإِنْعَمَ) غَمَلِكُنْ ہونا۔
إِنْعَمَ النَّبَاتُ: نباتات کا لمبا ہونا اور بہت
ہونا۔ إِنْغَمَ الرَّجُلُ: پوشیدہ ہو جانا۔

الغَامُ. فَالبِیُومِ غَامٌ: گرم دن۔ غم کا دن۔
الغَمُّ. غم۔ حزن۔ اندوہ۔ کرب۔ ج
غَمُومٌ بِیُومِ غَمٍّ: گرم دن۔ غم کا دن۔

الغَمَّةُ. غم۔ حزن۔ ملال۔ حیرت۔ ج
غَمَمٌ کہا جاتا ہے ”هُوَ فِي غَمَّةٍ“ یعنی وہ
حیرت میں ہے۔

لَيْلَةٌ (غَمٌّ وَغَمَّةٌ) گرم رات۔ غم کی
رات۔

الأَغَمُّ. مِنَ السَّحَابِ: گھرا ہوا بادل۔
لَيْلَةٌ غَمَمَاءُ: بادل والی رات۔

الغَمِيُّ: سخت تاریکی۔ گرد آلودگی۔
الغَمَامُ: بادل۔ ایک ٹکڑے کو (غَمَامَةٌ)

کہتے ہیں ج غَمَائِمٌ کہا جاتا ہے موئیتر عن
مُشْلِ حَبِ الغَمَامِ وہ اولے جیسے دانوں
سے بنتا ہے۔ الغَمَامُ: زکام۔

المَغْمُومُ: زکام زدہ۔

النَّاسِ. لوگوں کی جماعت۔
 الغَمْرُ. چھوٹا پیلہ ج غَمَار وَاغْمَار.
 الغَمِيرُ. بہت چڑی والا۔ چکن۔
 غَمْرَةٌ. الشَّيْءُ: تختی۔ ج غَمَرَات و
 غَمَار و غَمَر. غَمَرَاتِ الْمَوْتِ: موت
 کی سختیاں۔
 الغَمْرَةُ. زعفران۔
 الغَمَارَةُ. جہالت و بے خبری۔
 وَالغَمَارُ وَالغَمَارُ وَالغَمَارَةُ. لوگوں کی
 جماعت۔ مختلف لوگوں کی جماعت۔
 الْغَامِرُ. فَا. اَجَارَ زَيْنَ. الْمَالِ الْغَامِرِ.
 بہت مال۔
 الْغَمِيرُ. بہت پانی۔
 الْمُغْمَرُ. مدہوش۔
 الْمُغْمُورُ. مین گنام غیر مشہور و مقہور۔
 الْغَمَارِيْدُ. سانپ کی چھتری۔
 غَمَزَ (ض) غَمَزًا. نُوْنُ الْقِنَاةِ: نیزہ کو
 آزرش کیلئے دانتوں سے چننا۔
 ه بِالْعَيْنِ اَوْ الْجَفْنِ اَوْ الْحَاجِبِ. آنکھ یا
 لپک یا ابرو سے اشارہ کرنا۔ غَمَزَ عَيْنَهُ
 اَوْ ذَاؤُهُ: عیب یا مرض کا ظاہر ہونا۔
 غَمَزَتِ الدَّابَّةُ: جانور کا لنگڑا ہونا۔ غَمَزَ
 بِالرَّجْلِ وَعَلَيْهِ: طعنہ دینا اور بُرائی کی
 کوشش کرنا۔
 غَامَزَهُ مُغَامَزَةً. ایک دوسرے کو عیب
 لگانا۔
 اَعْمَزَ. فِيهِ: عیب لگانا۔ حقیر ثابت کرنا۔
 گھٹیا مال جمع کرنا۔
 تَغَامَزَ الْقَوْمُ: آنکھوں سے ایک دوسرے
 کو اشارہ کرنا۔
 اِغْمَزَ. طعنہ دینا۔ الْكَلِمَةُ: کزور سمجھنا۔
 الْغَمَزُ. گھٹیا مال۔ دُبلے پتلے جانور۔ کزور
 مرد ج غَمَزَ وَاغْمَازَ کہا جاتا ہے "هُوَ
 رَجُلٌ غَمَزَ مِنْ قَوْمِ غَمَزَ اَوْ اَغْمَازَ."
 الْغَامِيزُ. فَا. نِيزَةِ كِي اَرْمَازِشِ كَرْنِي وَالا۔
 الْغَمَازُ. اِسْمُ مَبَاغِدٍ. مَوْنُ غَمَازَةَ.
 الْغَمِيزُ. کھلا ہوا عیب۔

المَغْمَزُ: عیب طعنہ یا طبع کی جگہ۔ ج
 مَغَامِيزُ.
 الْغَمِيزَةُ. بمعنی مَغْمَزُ. عقل یا عمل کی
 کزوری۔ کہا جاتا ہے "مَا فِيهِ غَمِيزَةٌ اَوْ
 مَغْمَزٌ" اس میں کوئی نمایاں عیب نہیں۔
 الْمُغْمُوزُ. مین مغم الغموز: اونٹنی جب
 تک اس کے کوبان پر ہاتھ نہ ڈالیں۔
 مَوْنَانِي وَدُبْلَايِنِ سَعِ ظَاهِرِنَه بَو۔
 غَمَسَ (ض) غَمَسًا. الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ:
 پانی میں ڈوبنا غوطہ دینا۔ السِّنَانُ فِي
 صَدْرِهِ بَهَالِے كُو سِينِے مِيں دَاخِلِ كَرِنَا۔
 گھسانا۔
 غُمُوسًا. النَّجْمُ: ستارے کا ڈوبنا۔ غروب
 ہونا۔
 غَمَسَهُ. تختی سے ڈوبنا۔ غَمَسَ الشَّرْبُ:
 کم پینا لابلیل: اُونٹ كُو پِلَانَا پِھر واپس جانا۔
 غَامَسَ مُغَامَسَةً. خطرات میں کود پڑنا۔
 فَلَانًا: اِيك دوسرے كُو پَانِي مِيں غُوْط دِينَا۔
 فِي الْأَمْرِ: جلد بازی کرنا۔
 اِنْقَمَسَ وَاغْتَمَسَ. فِي الْمَاءِ: غوطہ
 لگانا۔
 فِي الشَّيْءِ: دَاخِلِ هَوْنَا۔ گھسا۔
 الْغَمُوسُ. مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ۔
 مِنَ الرِّجَالِ: بہادر۔ کہا جاتا ہے "طَعْنَةٌ
 غَمُوسٌ" پار ہو جانے والی نیزہ کی مار
 "الْبِمِينِ الْغَمُوسُ" جان بوجھ کر جھوٹی
 قسم غَمَسُ.
 الْغَمِيسُ. تاریکی لیلِ غَمِيسُ: تاریک
 رات۔
 وَالْغَمِيسَةُ. جھازی۔ درختوں کا جھنڈ۔ ہر
 وہ گنجان چیز جس میں چھپا جاسکے۔
 الْغَمَاسَةُ. مرغابی جس کی بہت قسمیں
 ہوتی ہیں۔ ج غَمَاسُ. طعنہ غَمَاسَةُ:
 کشادہ زخم۔
 غَمَشَ (س) اَغْمَشَا. چندھا ہونا۔ کزور
 نظر ہونا۔ سِلَانِ اِشْكِ كِي دَجِ سَعِ چندھا
 ہونا۔ صَفْتِ اَغْمَشَ)

إِنَّمَضَ طَرْفُهُ: آنکھ کا بند ہونا۔

أَغْمَضَ: البَرْقُ: بجلی کی چمک بند ہونا۔

الرَّجُلُ عَنِ الْأَسَانَةِ: چشم پوشی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَغْمَضَتْ عَيْنَاهُ“ یعنی اس کی آنکھیں نہیں سوئیں۔

الغَمَضُ: سر۔ پست زمین ج غموض و اغماض کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ ذُو غَمَضٍ“ فلاں ذلیل و گنماف ہے۔

الغَمَضُ وَالغَمَاضُ وَالغَمَاضُ وَالغَمَاضُ: آنکھ کا بند ہونا۔ نیند۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَكْتَحَلْتُ عَيْنِي غَمَضًا أَوْ غَمَاضًا أَوْ اغْمَاضًا أَوْ تَغْمَاضًا أَوْ تَغْمِيضًا“ یعنی میں نہیں سویا۔

الغَامِضُ: فَا۔ پست زمین تَغْوَامِضُ گنماف۔ ذلیل لَمَرٌ غَامِضٌ: مبہم معاملہ۔

الْحَلْخَالُ الْغَامِضُ: پازیب جو پڈلی کو بھر دے۔ الْغَامِضُ مِنَ الْكُغُوبِ وَالسُّوقِ: مونا ٹخنہ یا موٹی پڈلی۔ غَوَامِضُ الْإِبِلِ: چھوٹے اونٹ۔

الغَامِضَةُ: مَوْشِغَامِضُ شَامِضَاتُ وَغَوَامِضُ: الدَّارُ الْغَامِضَةُ: مکان جو سڑک سے علیحدہ ہو۔

الغَمِيضَةُ: عیب۔

الغَمُوضَةُ: ”مَا فِي هَذَا الْأَمْرِ غَمُوضَةٌ“ یعنی اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔

المُغْمِضَاتُ: گناہ جو جان بوجھ کر آدمی کرے۔ مغمضات اللیل: رات کی تاریکیاں۔

عَمَطَةُ (ض) عَمَطَةُ (س) كَهَمَطًا: حنارت کرنا۔ حنارت جانا عَمَطَ النِّعْمَةُ: نعت کی ناشکری کرنا۔ نادر کی كَهَمَطًا: حق کا انکار كَرَمَاءُ: پالی کا زور سے

گھونٹ بھالڈیئحہ: ذبح کرنا۔

أَغْمَطَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ: ہمیشہ ہونا۔ غَامَطٌ مُغَامَطَةٌ فِي الشَّرْبِ: لگاتار گھونٹ لگانا۔

تَغَمَطَ عَلَيْهِ التُّرَابُ: مٹی سے ڈھانکنا یہاں تک کہ مار ڈالنا۔

إِغْمَطَ: دوڑ میں ہارنے کے بعد آگے بڑھ جانا بِالْكَلامِ: غالب ہونا إِغْمَطَ الشَّيْءُ: نکل جانا اور پھر کوئی نشان نہ ملنا۔

الغَمَطُ: سر۔ پست زمین۔ غَمَمَ غَمَمَةً: تیل کا خوف کے وقت ڈکارنا لِابْطَالٍ: بہادروں کا مقابلہ کے وقت شور مچانا بِالْكَلامِ: غیر واضح کلام بولنا

الصَّبِيُّ: بچے کا دودھ کیلئے پستان پر رونا۔ تَغَمَمَ الرَّجُلُ: غیر واضح بولنا لَعَرِيْقٌ تَحْتَ الْمَاءِ: ڈوبے ہوئے کا پانی کے نیچے بولنا۔

الغَمَمَةُ: سر خوف کے وقت کی آواز۔ مقابلہ کے وقت کی آواز۔ غیر واضح کلام تَغَمَغِمُ: گنماف۔

عَمِقٌ (س) ن) كَوْعَمِقٌ (ك) كَهَمَقًا الْمَكَانُ: نمناک ہونا۔ سِلن والا ہونا النَّبَاتُ: نمناک کی وجہ سے خراب ہونا۔

صفت عَمِقٌ: مَوْشِغَمَقَةٌ عَمِقُ الْبَعِيْرِ: اونٹ کا ٹھنکہ کی بیماری میں مبتلا ہونا۔

العَمَقَةُ: ایک بیماری جو پیٹھ میں ہوتی ہے۔ المغموق: پیٹھ کی بیماری والا۔

عَمَلٌ (ن) كَهَمَلًا الشَّيْءُ: چھپالانا: پسینہ کیلئے ڈھانکنا لَيْسَرٌ: گدرد بھجور کی پال دبانالعبع فِي الرَّبِيْبِلِ: انگور کو زنبیل میں تہ تہ رکھنا لَيْسَرٌ: درست کرنا۔

وَتَعَمَلُ النَّبَاتُ: ایک دوسرے پر چڑھنا الشَّيْءُ: وسیع ہونا۔ عَمِلٌ (ض) كَهَمَلًا: پیچیدہ ہو کر خراب و بدبودار ہونا لَجُوحٌ: پٹی کی وجہ سے خراب ہونا۔ صفت تَعَمَلٌ

أَعْمَلُ: الاھاب: بچے چڑے کا چھوڑ دینا۔ یہاں تک کہ وہ بگڑ جائے۔

الانفمَلُ: الاونيم: چڑے کا خراب ہونا۔

صفت (عَمِيلٌ)

الغَمِيلُ: مِنَ النَّصِي (ایک قسم کی گھاس) پیچیدہ آگی ہو لهن الارض: پست زمین ج غَمَلِي.

المغمول: گنماف۔ الغمول: درختوں سے ڈھکی ہوئی وادی

تَعَمَلِيْلُ الغَمَلَجُ وَالغَمَلَجُ وَالغَمَلَجُ وَالغَمَلَجُ: غیر مستقل جو ایک حالت پر نہ رہے۔ مَوْشِغَمَلَجُ

وَعَمَلَجُ عُمَلُوجَةٌ وَعَمَلِيَجَةٌ الغَمَلَجُ وَالغَمَلِيَجُ: مونا لسا المغمولج: سایہ میں آگی ہوئی شاخ تَعَمَلِيَجُ.

عَمَنَ (ن) كَهَمَنًا الشَّيْءُ: چھپالائسَرُ: گدرد بھجور کی پال دبانالاننا: پسینہ لانے کے لئے ڈھانکنا۔

عَمِنَ وَانْعَمَنَ فِي الْأَرْضِ: غائب کیا جانا۔ غائب ہونا۔

الغَمَّةُ: ایک قسم کا اٹھنا۔ عَمَا يَغْمُو عَمَوًا: البَيْتُ: لکڑی اور مٹی سے چھت پانٹا۔

الغَمَاءُ: مکان کی چھت یا چھت کی لکڑی مٹی وغیرہ۔ اس کا تَشْمَعْمُوَانُ لِقَمِيَّةٍ وَأَعْمَاءُ.

عَمِي (ض) كَهَمِيًا وَعَمِي الْبَيْتُ: بمعنی تَعَمَا يَغْمُو.

عَمِي وَأَعْمِي: اليوم: تمام دن ابر رہنا۔ عَمِي وَأَعْمِي عَلَي الْمَرِيضِ: عشی طاری ہونا۔ صفت (مَغْمِي و مَغْمِي)

عَمِيَّةٌ: گھوڑے کو پسینہ لانے والی پوش۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ عَمِيٌّ یعنی بے ہوش مرد اور جمع کے لئے کہا جاتا ہے

”رَجَالٌ عَمِيٌّ وَأَعْمَاءُ“

وَالغَمَاءُ: مکان کی چھت تَعَمَاءُ و انغمية.

عَنْ (س) كَهَمًا: درخت خرما کا

ثم فنوا. اپنے ممالک میں اقامت کی پھر فنا ہو گئے۔ فلان زندہ رہنا۔ زندگی بسر کرنا۔
 غنی. غناء و غنیاناً. مالدار ہونا۔ بالشئی عن غیرہ: اکتفا کرنا۔
 غنی تغنیة. آواز کرنا بالشعر و بالشعر: گانا بالمرأة. عشق بازی کرنا۔ الشاعر بفلان: کسی کی مدح کرنا یا بھج کرنا۔ غناه الله: مال دار کر دینا۔
 أغنی اغناء. الرجل: مالدار کر دینا۔ عنه: کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "أغنی عنه غناء فلان ومغناه ومغناه ومغناه" یعنی قائم مقام ہوا۔ اغنی عنه کذا: دور کر دینا۔ اور کہا جاتا ہے "ما یغنی عنک هذا وما أغنی شیئاً" یعنی نایب نہیں ہے۔
 تغنی تغنیاً. مالدار ہونا بالمرأة: عورت سے عشق بازی کرنا بالشعر: شعر گانا بالفلان: کسی کی مدح یا بھج کرنا۔ تغنت المرأة: عورت کا نکاح کرنا۔
 استغنی. بے نیاز ہونے کا۔ اکتفا کرنا. الله: اللہ سے بے نیاز ہونے کی دعا کرنا۔
 الغنی والغنیة والغنیة والغنیان. اکتفا تو انگریزی۔ مالدار۔ کہا جاتا ہے ماله عنه غنی وغنیة وغنیان" یعنی اس کے لئے اس سے چارہ نہیں۔
 الغنی والغناء. اکتفا تو انگریزی۔ کہا جاتا ہے "لا غنی عنه" یعنی ضروری ہے۔
 الغناء عن الصوت: گیت۔ سر۔
 الاغنیة والاغنیة والاغنیة والاغنیة. گیت۔ سر۔ راگ۔ ناغائی و آغان۔
 الغنی اکتفا کرنے والا۔ تو انگریزی۔ مالدار۔ کہا جاتا ہے "هو غنی عنه" یعنی وہ اس سے بے نیاز ہے ناغنیاء۔
 الغانی. فا۔ غنی۔ کہا جاتا ہے رجل غان عن کذا" یعنی فلاں چیز سے بے نیاز۔
 الغانیة. مؤنث سخانی۔ وہ عورت جو حسن و جمال کی وجہ سے آرائش سے بے نیاز

غائظہ. ایک دوسرے کو مشت میں جلا کر دینا۔
 الغظ والغظ والغناظ والعناظ. لازمی رنج و غم۔
 المغنوظ. من۔ غزودہ۔
 غیم (س) غنماً. الشئی: مفت حاصل کرنا۔
 غنماً و غنماً و غنماً و غنماً و غنماً. غنیمت حاصل کرنا۔
 غنمہ کذا: حصہ سے زائد دینا۔
 اغنمہ الشئی: غنیمت حاصل کرنا۔
 تغنم و اغنم و استغنم. الشئی: غنیمت سمجھنا۔ تغنم فلان: بکریاں جمع کرنا جیسے تابل: اونت جمع کرنا۔
 الغنیمۃ. مال جو جنگ میں حاصل ہو۔ کائی۔ تغنم کہا جاتا ہے۔ "الغنیمۃ باردة" یعنی پاک کائی یا بلا مشقت کی کائی۔
 الغنم. بمعنی غنیمت۔ غنوم۔
 الغنیم. بمعنی غنیمت۔
 الغنم. سر۔ بکریاں اور اس کیلئے اس لفظ سے واحد نہیں واحد کیلئے لفظ شاة) ہے ج آغنام و غنوم و آغانم. کہا جاتا ہے غنم (مغنمۃ و مغنمۃ) یعنی بہت بکریاں۔
 الغنم. بہت بکریوں والا۔ بکریوں کا چرواہا۔ بہت مال غنیمت حاصل کرنے والا۔
 المغنم. غنیمت۔ مغانم. کہا جاتا ہے مغنم بارد یعنی پاک غنیمت۔ کہا جاتا ہے (غنماک) ان تفعل کذا. تمہاری کوشش کی انتہا یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔
 الغنوة. بے نیازی۔ کہا جاتا ہے لہ عنه غنوة) اس کو اس سے بے نیازی ہے۔
 غنی (س) الحنی. الرجل: نکاح کرنا۔
 غنیت المرأة: حسن و جمال کی وجہ سے آرائش سے بے نیاز ہونا۔
 غنی و مغنی. بالمکان: اقامت کرنا۔
 مغنی (غان) کہا جاتا ہے یاربہم

چلنا۔
 الوادی: وادی کا زیادہ درخت والی ہونا۔
 و غنا و غنۃ: گنگنائی۔
 غنن. الروض: زیادہ درخت والا بنانا۔
 اغن. الشجر: درخت کا پکنا الوادی: وادی کا زیادہ درخت والی ہونا۔
 باغ کا سرسبز کرنا۔
 الرجل: نرم آواز نکالنا۔
 الغنان. کسی کی بھینسا ہونا۔
 الغنۃ: گنگنائی۔
 الاغن. گنگنائی والا۔ حرف اغن: غنم کا حرف۔ الوادی الاغن: زیادہ گھاس اور درختوں والی وادی۔ مؤنث غنۃ۔
 القرۃ الغنۃ: آباد گاؤں۔
 غن (س) الحنۃ. الرجل: سانس لے کر پیانا۔ غنۃ نفسہ: مثلاً۔
 تغنۃ. الشئی: جو میل ہونا۔ بھاری ہونا۔ چٹنا۔
 الغنۃ. بیوقوف۔
 غنج (س) غنجا و تغنج. ناز کرنا۔ صفت (غنج و مغنجا) مؤنث غنجۃ (مغنجا)
 الغنج و الغنج و الغنجا و الغنجا ناز خرو۔
 الغنجا. کاجل جس کو عورتیں گوندنے میں استعمال کرتی ہیں۔
 الاغنجۃ: ناز و خرو کرنے کی چیز۔ ج آغانیج۔
 الغندر و الغندر. من العلمان: موٹا تازہ لڑکا۔
 تغندرۃ المرأة: کبیر سے چلا۔
 الغانۃ. زخرو۔
 غنص (س) غنصاً. تنگ دل ہونا۔
 الغنقلیون: زرد اور سفید پھول اس کو ہاد بنا کر قبروں پر ڈالتے ہیں۔
 غنظ (س) غنظاً. قریب ہلاکت ہونا۔
 الامر فلان: دشوار ہو غنظہ و اغنظہ) غیظ و غضب سے بھر دینا۔

ہو۔ نکاح کرنے والی۔ بَجَ غَائِيَاتِ
وَعَوَانِ
الْمَعْنَى: منزل۔ بَجَ مَعَانِ کہا جاتا ہے
”حَرِيَتْ مَبَانِيهِمْ وَخَلَّتْ مَعَانِيَهُمْ“ یعنی
ان کا شرف جاتا رہا اور ان کے مکان خالی
ہو گئے۔ ”وَمَا لَهُ عَنْهُ مَعْنَى“ یعنی اس کیلئے
اس سے چارہ نہیں۔

غَهَبَ (س) غَهَبًا وَغَهَبَ عَنْهُ غَافِلٌ
ہونا۔ بھولنا۔
اغْتَهَبَ تَارِكِي فِي جِلْتَانِ
الغَهَبُ: س۔ کہا جاتا ہے ”أَصَابَ الصَّيْدَ
غَهَبًا“ یعنی شکار پر غفلت میں بلا قصد کے
پہنچ گیا۔ ”فَعَلَهُ غَهَبًا“ اس کو بلا قصد کیا۔
الغَيْهَبُ تَارِكِي۔ بہت تاریکی۔ بہت تاریک رات۔
بہت سیاہ گھوڑا۔ غَافِلٌ يَبُوقُفُ اور کمزور بچ
غِيَاهِبٌ۔

الغَيْهَانُ تَارِكِي۔ پیٹ۔
الغَيْهَةُ: مؤنث غَيْهَتٌ لِرَأْيِ كَالشُّورِ
غَاثَةٌ يَغُوْنُهُ غَوْثًا وَأَغَاثَةٌ إِغَاثَةٌ وَمَغْوُوْنَةٌ
اغاثت کرنا۔ مدد کرنا۔
غَوْتُ الرَّجُلِ: داغوثا کہا۔
اسْتَعَاثَ الرَّجُلُ وَبِهِ: مدد طلب کرنا۔
الغَوْتُ وَالغَوَاثُ وَالغَوَاثُ: مدد۔
الغَوْتُ وَالغِيَاثُ وَالغَوِيْتُ: کھانے
وغیرہ کی مدد۔

الْمَغَاوُثُ: پانی۔ کہا گیا ہے کہ اس کیلئے
مفرد نہیں۔

غَاخٌ يَغْوُجُ غَوْجًا وَتَغْوُجُ الْغُصْنُ:
شبی کا جھلنا مڑنا۔ تَغْوُجُ الرَّجُلُ فِي
مَشِيَّتِهِ: چال میں لگیانا۔
غَارٌ يَغْوَرُ غَوْرًا: پستی کی طرف آنا۔
الْمَاءُ: گہرائی میں جانا۔ صفت (غائبر)
النَّهَارُ: سخت گرمی والا ہونا۔ الرَّجُلُ: دوپہر
میں سونا۔ الشَّيْءُ أَوْ الْقَوْمُ: طلب کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”غَرَّتْ فِي غَيْرِ مَغَارٍ“ بغیر
مطلب کے میں نے طلب کیا۔
غَارَتْ تَغْوَرُ غَوْرًا وَغَوْرًا: عَيْنُهُ: آنکھ

کا دھنس جانا۔

غَوْرًا وَغَوْرًا وَغِيَارًا: فِي الْأَمْرِ:
معاملہ میں باریک نظر سے دیکھنا۔ الشَّيْءُ:
داخل ہونا۔

غَارَتْ غِيَارًا وَغَوْرًا: الشَّمْسُ:
آفتاب کا غروب ہونا۔

غَارَلَهُمُ اللَّهُ غِيَارًا وَغَارَهُمْ: رِزْقٌ وَغَيْرُهُ
سے اعانت کرنا۔

غَوْرٌ: پستی کی طرف آنا۔ الْمَاءُ: زمین میں
اُتْرَا الرَّجُلُ: دوپہر میں چلنا یا نازل ہونا یا
سونا۔ الْقَوْمُ: قوم کو شکست دینا۔ غَوْرَتْ
الشَّمْسُ أَوْ التَّحْوُمُ: غروب ہونا۔ دُوبِنَا:
کہا جاتا ہے غَوْرُ النَّهَارِ: جبکہ دن ڈھل
جائے۔

أَغَارَ إِغَارَةً: چلنے میں جلدی کرنا۔ پستی
کی طرف آنا۔ سَرَ كَرْنَا الْحَبْلَ: رستی کو
مضبوط بنا۔

أَغَارَ إِغَارَةً وَغَارَةً وَمَغَارًا: عَلَيْهِمْ:
لُوثٌ ذَالِنَا الْفَرَسَ: تیز دوڑنا۔ بِيَهُمْ وَالنَّيْهَمُ:
مدد دینے کے لیے آنا۔

غَاوَرٌ مُعَاوَرَةٌ الْعَدُوِّ: دشمن پر لُوث
ذَالِنَا بَعْضُ كَالْبَعْضِ: لُوثٌ ذَالِنَا۔

تَعَوَّرَ: پستی کی طرف آنا۔ ظَاهِرُ الْعَيْنِ
دھنس جانا۔

تَعَاوَرُ الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر لُوث
ذَالِنَا۔

اغْتَارَ إِعْتِيَارًا: نفع اٹھانا۔ غَلَّةٌ حَاصِلٌ
کرنا۔

اسْتَعَارَ عَلَيْهِمْ: لُوثٌ ذَالِنَا الرَّجُلِ:
پست زمین میں اُترنے کا ارادہ کرنا۔ مَوْنَا:
ہونا۔ الحَرْجُ: زخم کا سوجنا۔

اسْتَعْوَرَهُ اسْتَعْوَارًا: غَلَّةٌ مَا لَكْنَا:
الغَارُ: غار۔ اَعْوَارٌ وَغَيْرَانِ: ایک قسم کا
درخت و احد (غَارَةٌ) غبار۔ بَرَا لِقَرْحِ: انور
کے پتے۔ غَيْرَتِ: ٹھوڑی کا گڑھا۔

الغَارَانُ: بڑیاں جن میں آنکھیں ہیں اوپر
نیچے کے تالو۔

الغَارَةُ: س۔ لُوث۔ اسم ہے اغَارَةٌ كَالج
غَارَاتِ: تیز رفتار غارت ڈالنے والا گھوڑا۔
کہا جاتا ہے حَبْلٌ شَدِيدٌ الْغَارَةُ مَضْبُوطٌ
ہوئی رستی و ”شَنَّ الْغَارَةَ عَلَيْهِمْ“ گھوڑوں
کو متفرق کر دیا اور ہر طرف سے ان پر
لُوث پڑا۔

الغَوْرُ: س۔ پست زمین۔ نیچے اُترا ہوا پانی۔
گُرْهًا: غار۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَبِيدُ
الغَوْرَ“ فلاں نہایت باریک میں ہے۔

و”غَرَفْتُ غَوْرَ الْمَسْأَلَةِ“ مسئلہ کی
حقیقت میں نے جان لی۔

الغَائِرَةُ: مؤنث غَائِرٌ: دوپہر۔ دوپہر کا
سونا۔

الغَوْرَةُ: آفتاب۔ قیلو۔

الغَوْرُ: خون بہا۔

الغَوْرِيُّ: ہر چیز کا گڑھا۔

المَغَارُ وَالمَغَارُ وَالمَغَارَةُ وَالمَغَارَةُ:
غَارٌ لُوثٌ تَغَاوَرُ وَمَغَارَاتُ
المَغَارِ: لُوثٌ كَالجِدِّ۔

المَغَاوَرُ وَالمَغَاوَرُ: مِنَ الرَّجَالِ: بہت
لُوث ڈالنے والا۔ فَرَسٌ مَغَاوَرٌ: تیز رفتار
گھوڑا۔

غَارَةٌ يَغْوَرُ غَوْرًا: قصد کرنا۔
الغَارُ: کس۔ تَغَارَاتُ

غَاصٌ يَغْوُصُ غَوْصًا وَغِيَاصًا
وَغِيَاصَةً وَمَغَاصًا: فِي الْمَاءِ: پانی میں
غوطہ لگانا۔ صفت (غاصص) تَغَاوُصٌ وَ
غَاصَةٌ: غَاصٌ عَلَى الشَّيْءِ: اچانک
جاننا۔ عَلَى الْمَعَانِي: معانی کی حقیقت تک
پہنچنا۔

غَوَّصَهُ: غوطہ لگوانا۔
الغَوَّاصُ: بہت غوطہ لگانے والا۔ وہ شخص
جو موبی وغیرہ کیلئے غوطہ خوری کرتا ہے اور
اس فن کا نام ”الغِيَاصَةُ“ ہے۔ ایک پرندہ
جو غوطہ لگاتا رہتا ہے۔

الغَوَّاصَةُ: غواص کا مؤنث۔ اَبْدُو كَشِي:
س۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔ پَنْزَلِي
المَغَاصُ:

الْأَعْوَابِ. مَصِيبَتِ. هَلَاكَتِ. دَرْدُونَ كَيْ
شَكَرَ كَيْ بَعْدَ كَرَّهَا. كَمَا جَاتَا هَيْ وَقَعِ
النَّاسِ فِي أَعْوَابِ. جِ أَعْوَابِي.
الْمُعْوَاةُ. كَمَا هِيَ كِي جَدَّ. جِ مَعَاوِي.
الْمُعْوَاةُ. كَمَا هِيَ كِي جَدَّ. جِ مَعَاوِي.
غَابَ يَغِيبُ غَيْبًا وَغَيْبَةً وَغَيْبًا وَغَيْبًا
وَمَغِيبًا. عَنْهُ: غَائِبٌ هُوَانَا دُورَ هُوَانَا. جَدَا
هُوَانَا.
غَابَتِ الشَّمْسُ غَيْبًا وَغَيْبَةً. آقَابِ
كَأَرْوَبِ هُوَانَا الشَّيْءُ عَنِ فُلَانٍ. پُوشِيدَه
هُوَانَا عَنِ بِلَادِهِ: سَفَرُ كَرَانَا.
غَابَ يَغِيبُ غَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبَةً وَغَيْبَةً
وَغَيْبَةً الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: حِجِبَ جَانَا.
غَابَهُ غَيْبَةً وَغَيْبَةً وَغَيْبَةً. نَيْبَتِ
كَرَانَا. پِیْجِه پِیْجِه بَدِ گُونِی كَرَانَا.
غَيْبَهُ. دُورَ كَرَانَا. كَمَا جَاتَا هَيْ غَيْبَهُ غَيْبَةً
لِئَنِي وَهِيَ قَبْرٍ مِیْنِ دَفْنِ كَمَا كَرَانَا.
أَغَابَتِ الْمَرْأَةُ: غَائِبٌ شُؤْرُهَا وَهِيَ
صَفَتْ (مَغِيبٌ وَمَغِيبَةٌ وَمَغِيبٌ)
غَائِبَةٌ مَغَائِبَةً. پِیْجِه پِیْجِه بَاتِ كَرَانَا. تَمَّ كَبْتِه
هُوَ "أَنَا مَعَكُمْ لَا أَغَائِبُكُمْ" مِیْنِ تَهَارَه
سَاتَه هُوَانَا تَهَارِي پِیْجِه پِیْجِه بَاتِ نَمِیْسِ
كِرُونِ گَا.
تَغَيَّبَ عَنْهُ: غَائِبٌ هُوَانَا.
تَغَائِبٌ الْقَوْمِ: غَائِبٌ هُوَانَا.
الغَيْبُ. سِ. شَكَّ. هَرُ وَهِيَ جِزْ جُو تَمَّ سِ
غَائِبٌ هُوَانَا. هَمِيدُ. پَسْتِ زَمِیْنِ. جِ غَائِبٌ
وَغَيْبٌ. كَمَا جَاتَا هَيْ "سَمِعْتُ صَوْتًا
مِنْ وَرَاءِ الْغَيْبِ" لِئَنِي مِیْنِ نِ آوَاذِ اِیْسِ
جَلِه سِ سَنِي جِس كُو مِیْنِ دِیْكَتَا نَمِیْسِ.
الغَيْبَةُ وَالغَيْبَانَةُ. پَسْتِ زَمِیْنِ. قَبْرُ.
الغَيْبَانَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: پَرْدَمِ الْوَادِي أَوْ
الْحُبِّ: وَادِي اِبْكُونِیْسِ كِي گَهْرَانِي.
الغَيْبَةُ. پِیْجِه پِیْجِه كِي بَدِ گُونِی.
الغَائِبُ. نَا. جِ غَائِبٌ وَغَائِبٌ وَغَائِبٌ
غَائِبُونَ. غَائِبُكَ: جُو جِزْ تَمَّ سِ غَائِبُ
هُوَ.

الارض بِلَانِ: هَلَاكُ كَرِ دِيْنَا
اور بے رَاہ كَرِ دِيْنَا.
الغَوْلُ. سِ. دَرْدَسِرْ. مَدْهُوشِي. جَنْگَلِ كِي
دُورِي. مَشَقَّتِ. پَسْتِ زَمِیْنِ. بَهْتِ مَمِي.
الغَوْلُ. مَصِيبَتِ. هَلَاكَتِ. بَحْلَادَه. جِ
أَعْوَالِ وَغَيْلَانِ. سَانِپْ. هَرُ وَهِيَ جِزْ جِسْ
سِ مَحْتَلِ زَاكَلِ هُو جَانِي. جَادُوگَرِ اَوْرِ جِنِ
جُو مَخْتَلِفِ رَنگِ بَدَلِیْسِ. مَوْتِ. جِ أَعْوَالِ.
الغَيْلَةُ. اِسْمُ جِ اِغْتِيَالِ كَا.
الغَائِلَةُ. مَوْنِثُ غَائِلِ. مَصِيبَتِ. فَسَادِ.
بِلَاكَتِ. بَرَانِي جِ اِغْوَالِ.
الْأَعْوَالُ. مِیْنِ الْعَيْشِ: آسُودَه زَنْدِگِي.
المِغْوَالُ. هَلَاكُ كَرْنِ كَا اَلَدِ. لَمَّا پِیْكَارِ.
كَبْتِي.
المُعَاةُ. بِلَاكَتِ.
غَوَى يَغْوِي غَيْبًا وَغَوَى يَغْوِي غَوَايَةً.
گَهْرَاهِ هُوَانَا. مَحْرُومَ هُوَانَا. هَلَاكُ هُوَانَا.
وَغَوَى وَغَوَى. الرَّجُلُ: گَهْرَاهِ كَرَانَا.
غَوَى يَغْوِي وَغَوَى يَغْوِي غَوَى
الْقَصِيصِ. اَوْنَتِ كَيْ سَنَجِ كُو بَدِ جِضِي هُوَانَا
اَوْرِ لَاغَرِ هُو كَرِ قَرِيبِ هَلَاكَتِ هُوَانَا. صَفْتِ
(غَوِ)
تَغَاوَى. تَكْلِيفِ گَهْرَاهِ بِنَاؤِ تَشَكُّفِ جَاهِلِ
بِنَا الْقَوْمِ عَلَيْهِ: قَتْلُ كَرْنِ كَيْ لِي اِيكِ
دُورِ سِ كِي بَدِ كَرَانَا.
اِنْعَوَى. الرَّجُلُ: گَهْرَاهِ اَوْرِ جَهْلَانِ.
اِسْتَعْوَى. الرَّجُلُ: گَهْرَاهِ كَرَانَا. كَمَا جَاتَا هَيْ
بِئْ (غَوَى وَغَوَى وَغَوَى وَغَوَى وَغَوَى
وَمَغْوَى) لِئَنِي مِیْنِ نِي تَهَارَاتِ بَرِ كِي
الغَيْبَةُ وَالغَيْبَانَةُ. گَهْرَاهِي. كَمَا جَاتَا هَيْ "اِنَّهُ
وَلَدُ غَيْبَةٍ" لِئَنِي وَهِيَ وَهِيَ اَلزَّانَةُ.
الغَاوَى. فَاجِ غَاوَوْنَ وَغَوَاةُ. رَاسُ
غَاوِي. جَهْوَانَا سَرِ اَبَهْتِ پَهْرِنِي وَالاَسِرِ.
وَالغَوَى وَالغَوَى وَالغَيَانُ. گَهْرَاهِ.
خَوَابِشَاتِ كَا غَلَامِ.
الغَاوِيَةُ. مَوْنِثُ غَاوِي. مَشَكَّ جِسْ مِیْنِ
پَانِي هُوَانَا.

كَهْلَاكَ يَغْوِي غَوَاةً. الْحَفْرَةُ: كَرَّهَا
كُهُونَا.
فِيهِ: دَاخِلٌ هُوَانَا. كَمَا جَاتَا هَيْ
رَمَلٌ تَغْوِي فِيهِ الْاَفْدَامُ. يِ اِيكِي رَيْتِ هَيْ
جِسْ مِیْنِ پَاؤُنِ كَمْسِ جَانِي. فِي الْمَاءِ:
پَانِي مِیْنِ غُوَطِ لَكَانَا. غُوَطٌ: الْبِنْرُ: كِنُوَانِ
گَهْرَاهِي كُهُونَا.
الْقَاعَامُ: بَرِي بَرِي لَقِي لَكَانَا. هَذَا
تَغْوِي. پَانْخَانَه كَرَانَا. كَمَا جَاتَا هَيْ
وَبَالَ. پِشَابِ اِبَاخْتَانَه كَرَانَا.
تَغَاوَا. فِي الْمَاءِ: اِيكِ دُورِ سِ كُو غُوَطِ
دِيْنَا.
اِنْعَاطُ. الْغُوْدُ: كَرِي كَا مَرْنَا.
الغَائِطُ. نَا. پَانْخَانَه. پَانْخَانَه كَرْنِ كِي جَدَّ.
بَسْتِ زَمِیْنِ الْغُوَطَةُ وَالغُوَطَةُ.
الغُوَطُ وَالغَاوُطُ وَالغِيَاطُ وَالغِيَاطُ.
جِ غُوَطُ وَالغَاوُطُ وَالغِيَاطُ وَالغِيَاطُ.
الغَاطُ. جَمَاعَتِ.
الغُوَطَةُ. شَامِ مِیْنِ اِيكِ جَدَّ كَا نَامِ هَيْ
جِهَانِ پَانِي اَوْرِ دَرْدَسِرِ بَهْتِ هِي. اِسْ كُو
غُوَطُ وَبَسْتِ بِي كَبْتِه هِي.
بِئْرُ (غُوَيْطُ) بَهْتِ گَهْرَاهِي كَرَانَا.
الغَاغُ. پُورِينَا. وَاحِدُ (غَاغَةٌ)
الغَاغَةُ. بَهْتِ سِ مَخْتَلِفِ لُوكِ.
لِلْغَوَاةِ: اِمْرِي كِي عِلَاةُ كَا اِيكِ دَرْدَسِرِ.
الغَوَاةُ. نِزِي جُو اُوْنِي كِيلِي تِيَارِ هُو اِي
جِسْ كَيْ پَرِ نَكَلِ آتِي هُوَانَا. بَهْتِ سِ
مَخْتَلِفِ لُوكِ. نِچِي طَبَقِي كَيْ لُوكِ. فَسَادِي
لُوكِ.
غَالَةُ يَغْوُلُهُ غَوْلًا وَغَائِلَةً. هَلَاكُ كَرَانَا.
اِبَاكِي پَزَلِيْنَا. غَائِلَةُ الْخَمْرُ: شَرَابِ كَا
مَسْتِ كَرِ دِيْنَا.
غَاوَلٌ مَغَاوَلَةٌ. جَدِي جَلْنَا.
تَغَاوَلَا. اِيكِ دُورِ سِ رَسِيْقَتِ كَرَانَا.
تَغْوَلُ. الْاَمْرُ: اَبَرِ هُوَانَا يَغْوَلُتِ الْمَرْأَةُ:
رَنگِ بَرَنگِ هُوَانَا. تَغْوَلْتَهُمُ الْغَيْلَانُ: بِي

حالت کے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے "قَمَن" اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ" بمعنی لا باغیا اور الا کے معنی میں بھی۔ پس اسم لازم الاضافہ ہوتا ہے لفظوں میں مقطوع عن الاضافة بھی ہوتا ہے اگر معنی سمجھ میں آئے اور اس سے پہلے لیس آیا ہو اور اضافت کے وقت رفع اور نصب جائز ہے اور حذف مضاف الیہ کے وقت رفع اور ضمہ نصب اور فتح بھی جائز ہے۔ کہو گے "قَبَضْتُ عَشْرَةَ لَيْسَ غَيْرَهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا وَلَيْسَ غَيْرٌ وَلَيْسَ غَيْرٌ" بمعنی لیس الا اور کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ" یعنی ایک سے زائد مرتبہ کیا۔

الغیرۃ: خون بہا۔ غلہ کا ذخیرہ۔ نخوت اسم سحار کا تَغْيِيرُ۔

غیر الدھر: زمانے کا حادث۔ الغیریۃ: عینیت کے خلاف۔ ہر روش میں سے ایک کا دوسرے کے خلاف ہونا۔

المغیر والمغیور: سیراب شدہ مقامات۔ کہا جاتا ہے مکان مغیر ومغیور وأرض مغیرة ومغیورة۔

غاص بغيض غيضا ومغاضا وتغيض وانغاض پانی کا کم ہونا۔ نیچے اتر جانا الثمن: قیمت گھٹنا۔

غاص وغیض وأغاض الماء او الثمن: پانی یا قیمت کم کرنا۔ ومعناه اسو روکنا۔

س۔ ناتمام نیچے۔ قلیل۔ الغیض: الغیضہ: ایک مرتبہ کم کرنا۔ جھاڑی۔ پانی کی جگہ میں بہت درخت۔ نجیاض

وأغیاض وغیضات: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ ج المغیض: کہا جاتا ہے ماء مغیض، یعنی مغایض جو جمع ہونے کی جگہ تک جاری ہو۔ غاط يغيط غيطا: فيه: داخل ہونا۔

المغایطة: حصوت۔ کہا جاتا ہے یسئروہ

غید غید: مکرر مستعمل ہے اور نبی علی اکسر ہے اور اسم فعل بمعنی امر ہے یعنی جلدی کرو جلدی کرو۔

غیدق: المطر: بارش کا بہت ہونا۔ الغدق: س۔ بہت پانی۔

الغیداق: سرسبز۔ فیاض۔ والغیدق والغیدقان: نرم و نازک۔ غار يغار غیرة وغیرا وغارا: الرجل علی امرأته من فلان وهي علیه من فلانة: غیرت کھانا۔ صفت (غیران وغیور و مغیار) مؤنث (غیور وغیری) وغیاری وغیاری وغیر وغیر ومغایر اور اسم الغیرة۔

غارة يغیور غیارا: نفع دینا۔ کہا جاتا ہے "غارة بخیر" یعنی اس کو خیر کا نفع دیا۔ و "غارهم الله بمطر" یعنی اللہ نے ان کو بارش سے سیراب کیا۔

غارة يغیور غیارا وغیرة: خون بہا دینا۔ غیور الشی: بدل دینا۔ غیر کر دینا۔ غایره غیارا ومغایرة: تبادلہ کرنا۔ مخالفت کرنا۔ خرید و فروخت میں مقابلہ کرنا۔ غیر ہونا۔ مغایرت برتنا۔

أغارہ إغارة: غیرت پر برا بھلا کرنا۔ الرجل امرأة: مرد کا دوسرا نکاح کر کے یہی بیوی کو غیرت میں ڈالنا۔

تغیور: بدل جانعلی امرأته: بیوی پر غیرت آنا۔

تغایور: الزوجان: ایک دوسرے پر غیرت کرنا۔ تغایور الاشیاء: چیزوں کا مختلف ہونا۔

أختار إختیارا: الرجل: غلہ مہیا کرنا۔ الغیر: س۔ اسم سحیر سے کہا جاتا ہے "من یكفر بالله یلقی الغیر" یعنی جو شخص کفر باللہ کرے گا وہ سحیر الحال ہوگا کہ صلاح سے فساد کی جانب پہنچ جائے گا۔

تغایور: حصوت اور باطل باتیں اور (غیر) کا لفظ سوی کے معنی میں آتا ہے ج غیار اور لا کے معنی میں بھی اور بوجہ

الغابة: بانس کی جھاڑی۔ پست زمین۔ لوگوں کی جماعت، لمبا نیزہ۔ ج غاب وغابات غابة البحر: سمندری کیڑوں کا پتھر درخت۔

الغیاب: س۔ قبر۔ غیاب الشجر وغیابہ: درخت کی جڑیں۔ الغیوب والغیاب: غائب کا اسم مبالغہ۔ الغیوبۃ: غروب۔ کہا جاتا ہے "لَقِیْتُهُ عِنْدَ غُیُوبَةِ الشَّمْسِ" میں نے اس سے آفتاب کے غروب کے وقت ملاقات کی۔

عانت یعیث غیثا: اللہ البلاد: برسانا۔ غاث الغیث الارض: بارش کا زمین پر برسا۔

غیثت: الارض: زمین کا سیراب ہونا۔ صفت (مغیثۃ ومغیوثۃ) غاث النور: روشن ہونا۔

تغیث: البعیر: اونٹ کا مونا ہونا۔ الغیث: بارش۔ گھاس جو بارش کی وجہ سے اُگے۔ کہا جاتا ہے "رعیثنا الغیث" اور بسا اوقات بادل کو بھی غیث کہتے ہیں۔

ج غیوث وأغیاث اور کہا جاتا ہے غیث مغیث عام بارش۔ سحاب (غیث) موسلا دھار بارش کا بادل اور کہا جاتا ہے "بتو ذات غیث" بہت پانی والا کواں۔

غید یغید غیدا: الغلام: لڑکے کا جھکی ہوئی گردن والا ہونا۔ نرم کندھوں والا ہونا۔ صفت مذکر (غید) صفت مؤنث (غیداء) نچھند۔

تغاید: فی مشیبه: نزاکت کی وجہ سے چلنے میں جھٹلانا۔

الغید: س۔ نزاکت۔ الاغید: نرم و نازک پودہ: مکان اغید بہت پودہ والی جگہ۔

الغاذة: نرم و نازک بدن عورت۔ تروتازہ شاخ۔ سخادات۔

غیدان الشبَاب: اول جوانی۔

<p>المُعْيَا. جس کیلئے عایت مقرر کی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے ”الغَايَةُ لَا تَدْخُلُ فِي الْمُعْيَا“ یعنی حد محدود میں داخل نہیں۔</p>	<p>ہو۔ جیسے بادل۔ گرد و غبار ج غَايَات. الغَيْبَةُ. غوی کا مادہ دیکھئے۔ الغیبر دیا: چوڑے پھولوں والا مائٹارنگ کے پتے والا پودا۔</p>	<p>کی لے۔ کہا جاتا ہے ”أَنْتَ بَعِيدُ الْغَايَةِ“ یعنی تمہاری رائے درست ہے۔ الغَايَةُ. آفتاب کی شعاع کی روشنی کنوئیں کی گہرائی۔ ہر وہ چیز جو انسان پر سایہ انداز</p>
--	--	---

تَفَأَى. الْقَذْحُ: پالہ کا پھنکا۔

إِنْفَأَى. كَلَمَاتُ الشَّيْءِ: پھنکا۔

الْفَأْوُ: س۔ دو پہاڑوں کے درمیان شکاف۔

ولای میں تک جگہ۔ چنی جگہ۔ ریت کا تودہ۔

رات۔ آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔ پہاڑوں

کے درمیان عمدہ زمین۔

الْفَيْفَةُ: جماعت۔ گرودھ ففات و ففون۔

فَتْ (ن) فَتْأَ وَفَتَّتْ: الشَّيْءُ: انگلیوں سے

چھوئے چھوئے کلے کرنا۔ کہا جاتا ہے ”فَتْ“

فِي سَاعِدِهِ“ یعنی اس نے اس کو کمزور کر دیا۔

”فَتْ فِي عَضِدِهِ“ یعنی اس کی قوت توڑ دی

اور اس کے اعوان و انصار کو متفرق کر دیا۔

إِنْفَتْ وَفَتَّتْ: ٹوٹا۔

الْفَتْ: س۔ پتھر میں پھینا۔ کہا جاتا ہے ”هَمْ

أَهْلُ نَيْبِ فَتْ وَفَتْ“ یعنی وہ لوگ

منتشر ہیں۔

الْفَيْفَةُ الْفَيْفَةُ: خشک بیگنیاں جو توڑی جائیں اور

چمراق کے نیچے رکھ کر آگ روشن کی جائے۔

کہا جاتا ہے ”هَذَا لَا يَسَاوِي فَيْفَةً“ یعنی یہ

مٹی کے برابر نہیں۔ کجوروں کا ڈھیر۔

الْفَيْفَاتُ: چورا۔

الْفَيْفِيَّةُ: ریزہ ریزہ شدہ چیز کا ایک ٹکڑا۔

فَتَاتٌ: چوراکیا

الْفَيْفِيَّةُ وَالْفَيْفَاتُ وَالْمَفْتُوتُ: چوراکیا

ہوں۔

فَتَأَ (ن) فَتَأَى النَّارَ: آگ بجھانا۔ فَتَأَهُ عَنِ

الْأَمْرِ: کسی کام سے روک دینا۔

فَتَى (ن) فَتَأَى: عَنَتُ: رکتا۔ بھولنا۔ کہا جاتا

ہے ”مَفَاتًا (ف س) وَمَفَاتَى (س) يَفْعَلُ

ذَلِكَ“ یعنی ہمیشہ یہ کرتا رہا۔ اور یہ افعال ناقصہ

میں سے ہے اور سوائے ماضی و مضارع کے

دوسرے افعال کا استعمال نہیں۔

فَتَحَ (ف) فَتَحَا: الْبَابُ: دروازہ کھولنا۔

الْقِنَاءَةُ: پانی بہنے کے لئے نالی نکالنا۔

الْبِلَادُ: مُلْكٌ بِرِغَابٍ هَوَانًا: مالک ہونا۔ فتح

کرنا الْحَاكِمُ بَيْنَ النَّاسِ: حاکم کا فیصلہ کرنا

اللَّهُ عَلَيْهِ: سکھلا دینا۔ پھپھار دینا سزہ علی

فَلَانٌ: کسی پر بھید ظاہر کر دینا۔

فَتَحًا وَفَتَاخَةً: اللَّهُ عَلَى فَلَانٍ: مدد کرنا۔

فَتَحَ: بمعنی فتح تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔

تَفْتَحُ: كَلَمَاتُ فِي الْكَلَامِ: بِالْمَالِ عَلَى

فَلَانٍ: اظہار کرنا اور فخر کرنا۔ تَضَتَّحَتْ

الْأَكْمَةُ عَنِ الشَّيْءِ: کھل جانا۔ النُّورُ:

کلیوں کا کھلنا۔ انْفَتَحَ كَلِمَاتُ: انْفَتَحَ عَنِ

الشَّيْءِ: کھل جانا۔

فَاتِحَةٌ: فَيْلَةٌ: کے لئے لے جانا۔ فَاتِحَةٌ

بِالْأَمْرِ: پہلے مخاطب کرنا۔ فَاتِحٌ فَلَانًا: بھاد

کرنا اور کچھ نہ دینا۔ فَاتِحُ الْبَيْعِ: بیچ میں

آسانی کرنا الْمَرْأَةُ: عورت سے جماع کرنا۔

تَفَاتِحُ الْقَوْمِ كَلَامًا بَيْنَهُمْ: آپس میں

چیکے چیکے باتیں کرنا۔

إِفْتِاحُ الْبِلَادِ: مُلْكٌ فَتَحَ (وَأَسْتَفْتَحُ)

الْأَبْوَابَ: دروازے کھولنا الْأَمْرَ بِكَلْمَةٍ:

شروع کرنا۔ اسْتَفْتَحَ الرَّجُلُ: مدد طلب

کرنا۔

الْفَاتِحُ: فَاتِحَةُ وَفَاتِحُونَ.

الْفَتْحُ: س۔ مدد۔ روزی۔ دریاؤں کا جاری

پانی۔ بہار کی پہلی بارش ج فَتُوحُ: يَوْمُ

الْفَتْحِ: قِيَامَتُ كَلَدٍ: الْفَتْحُ: زَبْرُ-

الْإِفْتِاحِيَّةُ: ادارہ اخبار

الْمَفْتُوحَاتُ: لڑائی سے جو ممالک فتح ہوں۔

الْفَتْحَةُ: ایک مرتبہ کھولنا۔ زَبْرُ-

الْفَاتِحَةُ: س۔ مدد۔

الْفَاتِحَةُ وَالْفَاتِحَةُ: دو دشمنوں کے

درمیان فیصلہ۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمَا

فَاتِحَاتٌ“ یعنی ان دو کے درمیان خصوصیتیں

ہیں۔

الْفَتْحُ: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الْفَتْحِيُّ: ہوا۔

الْفَتْحَةُ: کشادگی۔ مال یا علم و ادب پر ناز۔ ج

فَتْحُ.

الْفَاتِحَةُ: مِنَ الشَّيْءِ: ابتدا اور اسی سے ہے

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ج فَوَاتِحُ-

الْفَتْوَحُ: بہار کی پہلی بارش ج فَتْحُ

الْفَتْحِ وَالْفَتْحِ وَالْمَفْتُوحَةُ: حکومت۔

الْفَتْحُ اس مبالغہ۔ حاکم۔ قاضی۔

الْإِسْتِفْتَاخُ: س۔ اور حرف استفتاح۔ نحو یوں

کے نزدیک الّا ہے۔

الْمَفْتَحُ: خزانہ و درویش۔ ج مَفَاتِيحُ.

الْمَفْتَحُ: کتب۔ ج مَفَاتِيحُ. الْمَفْتَحُ: پانی

کی نالی۔

الْمَفْتَاخُ: کتب۔ ج مَفَاتِيحُ.

فَتْحُ (س) فَتَحًا: ڈھیلے نرم و کمزور جوڑوں

والا ہونا۔ صفت (الْفَتْحُ) فَتْحُ (ف). فَتْحًا

وَفَتْحًا: أَصَابِعُهُ: انگلیوں کو مروڑنا اور نرم

کرنا۔

الْفَتْحُ: الرَّجُلُ: تھکنا اور سانس پھولنا۔

تَفْتَحُ: چھلا پھینا۔

الْفَتْحَةُ وَالْفَتْحَةُ: چھلا۔ بغیر گینے کے

انگوٹھی۔ گھینڈ والی انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں۔

ج فَتْحُ (فَتْحَاتُ وَفَتْوَحُ وَفَتْوَحُ: فَتْوَحُ

الْأَسَدِ) شیر کے بچے۔

الْأَفْتَحُ: نرم کمزور ڈھیلے جوڑوں والا۔ مؤنث

۔ فَتْوَحُ ج فَتْحُ: أَمْسَدَ الْفَتْحُ: چوڑے ہاتھ

پاؤں والا شیر۔ رَجُلٌ أَفْتَحَ الطَّرْفُ: کمزور

نگاہ والا مرد۔

الْفَتْحُ وَالْفَتْحَةُ: گھٹنے سے باز تک کا باطنی

حصہ۔

فَتْرٌ (ن ض) فُتْرًا وَفُتْرًا: وَفُتْرًا تَمِيْرِي

کے بعد ساکن ہونا اور حتی کے بعد نرم پڑنا

الْمَاءِ: حرارت کم ہونا عَنِ الْعَمَلِ: کوتاہی

کرنا۔

فُتْرًا وَفُتْرًا جِسْمُهُ: کمزور نرم جوڑوں والا

ہونا۔

فُتْرَةٌ وَفُتْرًا: الْحَرُّ: کم ہونا۔

فُتْرَةٌ (ن ض) فُتْرًا: انگوٹھا اور انگشت

شہادت کے درمیان ناپنا۔

فُتْرٌ: تَمِيْرِي کے بعد ساکن ہونا اور حتی کے بعد

نرم پڑنا السَّحَابُ: ٹھہرنا اور آمادہ بارش ہ

ہونا۔ فُتْرَةٌ: سكون و نرمی پر اچھت کرنا۔ فَتْرٌ

الماء: گرم پانی کی حرارت کو کم کرنا۔

أَفْتَر: کمزور پکوں والا ہونا الشَّرَابُ: شراب کا مست کر دینا الذَّاءُ أو السُّكْرُ: پیاری یا نشہ کا کسی کو ضعیف و کمزور کر دینا۔

إِسْتَفْتَرَ: الفرس: سواری چھوڑ دینے جانے کی وجہ سے تمھیں ڈور ہو کر آرا مپانا۔

أَلْعَاوُزُ: فَنَسَامان خیر و فروخت کا تفصیلی بل جس میں قیمت سامان اور حساب لکھا ہوتا ہے۔

الْفَتْرُ: کمزوری۔ فتور۔

الْفِتْرُ: اگھت شہادت اور اگھوٹا کے درمیان کھلی ہوئی حالت میں۔

الْفِتْرُ: آنا چھاننے کیلئے کھجور کی چٹائی۔

الْفِتْرَةُ: سستی و کمزوری۔ صلح۔ بخار کے

دوباری کے درمیان کا زمانہ۔ دو نیبوں کے

درمیان کا زمانہ۔ رج فترات۔

والْفِتْرُ: ایک قسم کی مچھلی جس کے پلڑے

سے کچھ پیدا ہوتی ہے۔

الْفِتَارُ: سر۔ بیہوشی کی ابتدا (ماء۔ فاتوز)

نیم گرم پانی۔

فَتْرَصَةٌ: فِتْرَصَةٌ: کاٹنا۔

فَتَشَ: (ض) فَتَشًا وَفَتَشَ: الشَّيْءُ:

ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔ فَنَشَ وَفَتَشَ: عنده

سوال کرنا اور بحث کرنا۔

الْمَفْتَشُ: بَفْتِيش (اکواڑی) افسر۔

الْفَتْوَشُ: وہ کھانا جو روٹی کے ٹکڑوں 'پیاز'

اجھور اور کھیر وغیرہ سے تیار کر کے اس پر کھائی

گائی جاتی ہے۔

الْفَتِيشُ: ناکٹ

الْفَتَاشُ: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔

فَتَعَ (ف) فَتَعًا الشَّيْءُ: روند کر ریزہ ریزہ

کرنا۔

تَفَتَعَ: ریزہ ریزہ ہونا۔

فَتَفَتَ إِلَيْهِ فَتَفَتَةً: چپکے چپکے بات کہنا۔ کہا جاتا

ہے "مَا هَذِهِ الْفَتَفَتَةُ وَالذَّنْدَانَةُ"

الْفَتَافِتُ: پوشیدہ اقوال۔

فَتَقَ (ن ض) فَتَقًا وَفَتَقَ: الشَّيْءُ: پھاڑنا

القَوْبُ: کپڑے کی سیون توڑنا۔ اُدْخِرْنَا

المِسْكَ: مکک کی خوشبو نکالنا۔

العَجَبِينَ: کندھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈالنا۔

بَيْنَ الْقَوْمِ: اختلاف پیدا کرنا۔

الكَلَامُ: واضح کہنا۔

فَتَقَ (س) فَتَقًا: المكان: سرسبز ہونا۔

أَفْتَقَ: القَوْمُ: کھلے بادل پر جانا۔ قَرْنُ

السَّمْسِ: آفتاب کا بادلوں میں ظاہر ہونا۔

السَّحَابُ: بادل کا کھل جانا الرَّجُلُ: محقق

مصائب و آفات والا ہونا۔

تَفَتَّقَ وَانْفَتَّقَ: پھنسا و انفتقت الماشية:

موش کا موٹا ہونا۔ تَفَتَّقَ فَلَانٌ بِالْكَلَامِ:

زبان کارواں ہونا۔

الْفَتَقُ: سر۔ کشادہ جگہ۔ کہا جاتا ہے "خَوَجَ

فَلَانٌ إِلَى فَتَقٍ" فلاں ایسے مقام کی طرف نکلا

جہاں بارش نہیں اور ارد گرد میں بارش ہے۔ ج

فَتَوَقَّ: کہا جاتا ہے "عام ذُو فَتَوَقَّ" کم

بارش کا بنال۔ سرسبزی۔ قحط سالی۔ زندگی میں

اللَّهُ الْفَتَقُ وَالْفَتَقُ: صلح۔

الْفِتَاقُ: خمیر کا بڑا پیڑا۔ آفتاب۔ آفتاب کی

شعاع۔ درخت خرما کی سفید جڑ۔ دو ایموں کا

مرکب۔

الْفَتَوَقُ: آفات جیسے مرض بھوک فقیری

تھوڑی بارش۔

الْفَتِيقُ: موٹائی سے پھٹ پڑنے والا۔

الصُّبْحُ الْفَتِيقُ: پچکنے والی صلح۔ رَجُلٌ فَيَتَقُّ

اللسان تیز زبان مرد۔

إِمْرَأَةٌ فَتَقٌ وَمُفْتَقَةٌ: تیز زبان۔ جلد جواب

دینے والی عورت۔

الْمَفْتَوَقُ: صلح کی بیماری والا۔

الْفَتِيقُ: دربان۔ بڑھی۔ لوہار۔ پادشاہ۔

مَفْتَقُ: القميص: قمیص کا گریبان۔

الْفَتَقَاءُ: کشادہ شرمگاہ والی عورت۔

فَتَكَ (ن ض) فَتَكَ وَفَتَكَ وَفَتَكَ وَ

فَتَوَكَّا: الرَّجُلُ: ذلیر ہونا۔ بہادر ہونا۔ نڈر

ہونا۔

بِفَلَانٍ: غفلت میں پکڑنا یا قتل کرنا۔

فِي الْأَمْرِ: کسی کام میں اصرار کرنا۔ مبالغہ

کرنا۔

فَتَكَ (ن ض) فَتَوَكَّا: فِي صِنَاعَةٍ: اپنے

پیشہ میں ماہر ہونا فِي الْغَيْبِ: خیانت میں

مبالغہ کرنا۔

فَتَكَ: القَطْنُ: زوئی و حننا۔

أَفْتَكَ: الرَّجُلُ: بمعنی فَتَكَ

فَاتَكَهُ مُفَاتَكَةً: کھلم کھلا قتل کرنا فَاتَكَ

الشَّيْءُ وَ الْأَمْرُ: کسی کام کو سختی سے کرنا ہ:

بهر مندی سے مقابلہ کرنا۔ مانگی ہوئی قیمت

دینا۔

تَفَتَكَ: بامرہ: خود رائی سے کام کرنا اور کسی

سے مشورہ نہ کرنا۔

الْفَاتِكُ: فَا۔ ذلیر۔ بہادر۔ ج فَتَاكَ کہا جاتا

ہے "هُوَ فَاتِكُ الْقَلْبِ" یعنی وہ کہ گزرنے

والا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَفْتَكُهُ" یعنی کس قدر

جھگڑا ہو۔

فَتَلَ (ض) فَتَلًا وَفَتَّلَ: الحَبْلُ: رستی

بٹنا۔ کہا جاتا ہے "فَتَلَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ" یعنی

ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیا "وَ فَتَلَ ذُوَابَةَ

فَلَانٍ" یعنی اس کو رائے سے ہٹا دیا۔ فَتَلَ

البَيْتُ: چھپانا۔ اور مثال ہے "مَا زَالَ يَفْتَلُ

مِنْ فَلَانٍ فِي الْمَذْرُوقَةِ وَالْعَارِبِ" یعنی وہ

فلاں کے فریب دہی کیلئے چکر لگاتا ہے۔

فَتِيلٌ (س) فَتَلًا: بید پہلوں والا ہونا۔

صفت (افتل) مؤنث (فتلاء)۔

تَفَتَّلَ وَانْفَتَّلَ: رستی وغیرہ کاٹ جانا۔

الْفَتَّلَةُ: قتل کا اہم مرہ۔ ہاتھ کے پٹھے کی

تختی۔ بیری اور بول کے دانہ رکھنے کا برتن۔ رج

فَتَّلٌ

الْفَتَّلَةُ: سورخت عُرْفُط اور عضاء کا دانہ رج

فتل۔ کہا جاتا ہے "مَا أَعْنَى عَنكَ فَتَّلَةٌ أَوْ

فَتَّلَةٌ" یعنی میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دوں

گا۔

الْفَتِيلُ: بٹا ہوا۔ مؤنث فَتِيلَةٌ: کھجور کی سمھلی

کے شگاف کی پارک بتی (والفیتلہ) بدن کے

میل کی بتی جو بدن کے ملنے سے بتی ہے۔ کہا

جاتا ہے "مَا أَعْنَى عَنكَ فَتِيلًا" یعنی میں تم

کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ الفتنۃ:
تجارت فتنائل وفتنایلات۔

الفتنائل بہت بڑے والا بلبل۔
المفتنل بٹنے کا آلہ۔

المفتنول م مفعول الخلق: مضبوط اور
گٹھا ہوا جسم والا۔

فتنہ (ض) فتننا وفتنونا وفتنہ وافتنہ
تعب میں ڈالنا۔ مائل کرنا۔ فریفتہ کرنا۔ فتنہ
میں ڈالنا۔ فتن الرجل: فتنہ میں پڑنا۔ (لازم
و متعدي) صفت (فتانین) ج فتنان۔

فتن (ض) فتنونا وفتنن۔ اِلَى النِّسَاءِ:
عورتوں سے بدکاری کا ارادہ کرنا۔

فتن (ض) فتننا وفتنونا فلانا: گمراہ
کرنا۔ آزمائش کرنا۔

فتننا الشیء: جلانا فلانا عن رأیه: روک
دینا۔ پھیر دینا۔

فتنۃ الصانع الذهب: سار کا سونے کو
پھلا کر کھوٹا کر معلوم کرنا۔

فتن وافتن: مصیبت زدہ ہو کر مال یا عقل
جانی رہنا فی دینہ: اعراض کرنا۔

افتنن: فتنہ میں پڑنا۔ الفتنة: فتنہ میں ڈالنا۔
تفتنه: فتنہ میں ڈالنے کیلئے تکلف کرنا۔

الفتانین: فاجور شیطان: حق سے گمراہ
کرنے والا۔

الفتن: م۔ حال۔ قسم اور اسی سے ہے
"العمر فتنان" یعنی عمر کی دو قسمیں ہیں۔

الفتنة: م۔ آزمائش۔ گمراہی و کفر رسوائی۔
رنج دیا لگی۔ عبرت۔ عذاب۔ مرض۔ مال و

اولاد۔ اختلاف آراء و توقیر جنگ و جدال ج
فتن۔

الفتان: بہت فتنہ انگیز۔ چور۔ شیطان۔

سار۔ الفتانان: چاندی و سونا۔
الفتانة مؤنث۔ فتنان کسولی۔

الفتین: پتھر لی زمین کہ جس کے پتھر چلے
ہوئے جیسے ہوں ج فتنن۔ ذهب فینین: جلا

ہوا سونا۔

الفتین: بڑھی۔

المفتون: م۔ م۔ دیوانہ۔ پاگل۔

فتنا یفتنوا الرجل: سخاوت و جوانمردی
میں غالب ہوتا۔

فتی (س) فتی وفتتی تفتیا: جوان ہونا۔
فتی تفتیہ وفتتی تفتیا: فطیت البنت و

تفتت: پردہ نشینی کرنا۔ لڑکوں کے ساتھ
کھیلنے سے لڑکنا۔ تفتی الرجل: صاحب
سخاوت ہونا۔ جوانمرد بننا۔ کہا جاتا ہے "أبرو
من شیخ یفتی"۔

أفتی أفتاء: فلانا فی المسألة: فتویٰ
دینا۔

فتی الرجل: جوانمردی میں غالب ہونا۔
فتویٰ پوچھنا۔

تفتاتی: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر
کرنا۔ تفتاتوا الی العالم: فتویٰ دریافت
کرنے کے لئے جانا۔

استفتی استفتاء: العالم فی مسألة:
فتویٰ طلب کرنا۔

الفتاء و الفتوة: جوانی۔ الفتوة: سخاوت
کرم۔ مروت۔

الفتویٰ و الفتویٰ: شرعی مسائل
میں ماہر شریعت کا فیصلہ ج الفتاویٰ
والفتاویٰ۔

الفتی: نوجوان۔ حتی۔ غلام۔ اس کا شی
فتوان وفتیان اور ج فتیان وفتیة وفتوة
وفتو وفتی وفتی۔

الفتیان دن رات۔
الفتاة: نوجوان عورت۔ باندی۔ ج فتیات
و فتوات۔

الفتی: ہر ایک جوان سال ج فتاء و أفتاء
مؤنث فیتیة۔

الفتیة: سفید پھول کی ایک قسم۔
المفتی: ماہر علم فقہ جو مسائل کا جواب
دے۔

فت (ن) فتنا الفقة: نوکری سے بکھیر
دینا۔ الحار بالبارد: ٹھنڈا کر دینا۔ جوش کم

کر دینا۔
انفت: الغود: ککڑی کا ٹوٹا الرجل شکستہ
دل ہوتا۔

نمر (فت) متفرق مجبور۔
المفتة: زیادتی کثرت۔
فتا (ف) فتنا وفتنوا: القدر: ہانڈی کا
جوش ٹھنڈا کرنا الغضب: غصہ کی تیزی کم
کرنا الشیء عنه: روکنا۔

افتا: اکتفا: است ہونا بالمکان: اقامت
کرنا (وانفتا) الحار: گرمی کا کم ہونا۔
فتح (ن) فتحا الشیء: کم کرنا الماء
الحار بالبارد: گرمی کم کرنا (و فتح وفتح
وافتح) بوجھل ہونا۔ کہا جاتا ہے "فلان
بخر لا یفتح" فلان بخر نا پید کرتا ہے۔
الفتح: فاحلہ او ٹٹی کا فواجیح
الفائز: سگ۔ رخام کی میز۔ آفتاب کی ٹکیہ۔
فرض۔ بڑا پیالہ۔ شربا کا برتن۔ جاسوس۔
فتح (ف) فتعا: راسہ۔ پھوڑنا۔
فتح (ن) فتجا القوس: کمان کو کھینچنا۔
ما بین رجلیہ: کشادہ و بعید کرنا۔ فتح
الناقۃ للحلب: اونٹنی کا دوڑنے میں ٹانگیں
پھیلاتا۔
فتح (س) فتحجا: چلنے میں ٹانگوں کے
درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (فتح) مؤنث
(فتحاء) ج فتح۔
فتح: مابین رجلیہ: کشادہ اور بعید کرنا۔
صفت (مفتح) فی الممشی: جلدی چلنا۔ درہ
میں چلنا فتح الأرض بالمخراوات: بل
چلانا۔
فتح: ٹانگیں پھیلا کر چلنا۔
انفتحت: القوس: کمان کا کھینچ جانا۔
افتح الرجل: درے میں چلنا۔
الفتح: درہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ
راستہ۔ ج فتحاج۔
الفتحاج: درہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ
راستہ۔
الفتح والفتحاج: جن الفواکہ وغیرہا:

کامیاب ہو وغیرہ۔

الفَجْرَةُ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ يَمْشِي (مُفَاجِئًا) یعنی غلان ٹانگیں پھیلائے ہوئے چلتا ہے۔

الافْجِجِج: کشادہ واوی۔ تنگ و گہرا۔

الفَجْحُج: کابل و سُسْت لوگ۔ ایسے لوگ

جن کی صحبت کو ناپسند کیا جائے۔

فَجْأً (ب) وَفَجْئِي (س) فَجْأً وَفَجْأَةً وَفَجْأَانَةً وَفَاجِئًا مُفَاجِئَةً وَفَتَجِئًا فَتَجِئَانًا.

الرُّجُلُ: اچانک آجانا۔ جلدی کرنا۔

الفَجْأَانَةُ: س۔ اچانک۔

حَرْفٌ (المُفَاجِئَةُ) لفظ اذا ہے جیسے

خَرَجْتُ فَأَذَا الْأَمْسَدَ بِالْبَابِ اور اس کو

الفَجْأَانِيہ بھی کہا جاتا ہے۔

فَجْرٌ (ن) فَجْرًا. المَاءُ: پانی بہانا۔ جاری

کرنا الفَنَاءَةُ: نالی نکالنا۔

اللَّهُ الفَجْرُ: فجر طلوع کرنا فَلَانًا: مجھلانا۔

نا فرمائی کرنا۔ مخالفت کرنا۔

فَجْرٌ (ن) فُجُورًا. عَنِ الْحَقِّ: تجاوز

کرنا۔

عَنِ سِرِّجِهِ: زین سے ایک طرف کو جھک

جانا۔

فَجْرٌ (ن) فَجْرًا وَفُجُورًا. جھوٹ بولنا۔

زنا کرنا۔ گناہ کرنا۔ کمزور نگاہ والا ہونا مَرْمُومٌ:

گبڑانا۔ خراب ہونا۔

مِنْ مَرْمُومِهِ: صحیح و تندرست ہونا۔

فَجْرٌ (س) فَجْرًا. فِاضِي کرنا۔

فَجْرٌ. المَاءُ: پانی بہانا جاری کرنا۔ تشدید

مہالہ کے لئے ہے۔ الرُّجُلُ: بدکاری کی

طرف نسبت کرنا۔

فَاجِرٌ فَجْرًا وَمُفَاجِرَةٌ. المَرْأَةُ: زنا

کرنا۔

أَفْجَرٌ. جھوٹ بولنا۔ زنا کرنا۔ کفر کرنا۔ حق

سے تجاوز کرنا۔ فجر میں داخل ہونا۔ مالی کثیر لانا

الْيَسْوَعُ: چشمہ جاری کرنا۔

فَلَانًا: فاجر بنانا۔

إفْجَرٌ عَلَيْهِمُ العَدُوُّ: دشمنوں کی طرف

سے بکثرت آجانا۔

وَتَفَجَّرَ المَاءُ: پانی کا جاری ہونا۔

الصَّبْحُ: صبح کا روشن ہونا بالعطاء فِاضِي

کرنا۔ إفْجَرٌ عَنْهُ اللَّيْلُ: رات کا ختم ہونا۔

إفْتَجَّرَ. فِي الكَلَامِ: گھڑنا۔ بناؤنی بات

کہنا۔

تَفَاجَرُوا القَوْمُ: گناہوں میں منہمک ہونا۔

الفَجْرُ: بخشش۔ عطیہ۔ بھلائی۔ مال و کثرت

مال۔ الفَجْرُ: س۔ صبح کی روشنی۔ کہا جاتا ہے

”طَرِيقُ فَجْرٍ“ یعنی نکلا ہوا صاف راستہ۔

الفَجْرَةُ: □ جُر کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے

”زَكَبَ فَجْرَةٌ“ وہ جھوٹ پر سوار ہوا یعنی

جھوٹی بات بنائی اور یہ کلمہ تائید اور علیت کی

وجہ سے غیر منصرف ہے۔

الفَجْرَةُ: مِنَ الوَادِي: وادی کا وسیع حصہ

جس میں پانی بہ رہا ہو۔ فَجْرٌ:

الفَجْرَةُ وَالمَفْجَرَةُ وَالمَنْفَجْرُ: پانی بہنے

کی جگہ۔ مَنْفَجْرُ الرَّمْلِ: ریگستان میں راستہ۔

فَجَارٌ. الفُجُورُ کا اسم ہے اور معرکہ ہے جیسے

”فَحَمَلْتُ بَرَّةً وَاحْتَمَلْتُ فَجَارًا“ اور

عورت کیلئے بھی فَجَارٌ بمعنی فاجرہ آتا ہے اور

صرف ندائی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔

الفَجَارُ: کشادہ راستے جو دو پہاڑوں کے

درمیان ہوں۔

الفَاجِرُ: فا۔ زانی۔ گناہوں کا تابعدار۔

جلاد گر ٹھاجرُون وَفَجْرَةٌ وَفَجَارٌ.

الفَاجِرَةُ: مؤنث فاجر۔ کہا جاتا ہے يَمِينٌ

فَاجِرَةٌ“ یعنی جھوٹی قسم۔

الفُجُورُ: زانیہ۔ زانی۔ گناہوں میں منہمک

ن فَجْرٌ.

الفَاجِرُ: زنا کار۔ گناہوں میں منہمک۔

فَجْرٌ (ن) فَجْرًا. تکبر کرنا۔

فَجَسٌ (س) فَجْسًا. تکبر کرنا۔ شرارت

گھڑ فلانا: غالب آنا۔

أَفْجَسَ: باطل پر فخر کرنا۔

تَفَجَّسَ عَلَيْهِ: تکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔

فَجَسٌ (ن) فَجْسًا. سر توڑنا۔ چوڑا بنانا۔

فَجَعَةٌ (ب) فَجْجَعًا وَفَجْجَعَةً. درد مند کرنا۔

مصیبت زدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے ”فَجِيعٌ فِي مَالِهِ

وَيَمَالِهِ“ اس کو مال کی وجہ سے مصیبت لاحق

ہوئی۔

أَفْجَعَتُهُ المُصِيبَةُ: مصیبت زدہ کرنا۔

تَفَجَّعَ: درد مند ہونا۔ صلہ اس کا لام ہے۔

الفَاجِعُ: فا۔ بڑا غم جو انسان کو لاحق ہو۔

جدائی کا کول۔ کہا جاتا ہے ”مَرْأَةٌ فَاجِعٌ“ درد

مند عورت۔ رَجُلٌ فَاجِعٌ وَ مُتَفَجِّعٌ

درد مند مصیبت زدہ مرد۔ حسرت و افسوس

کرنے والا مرد۔

مَوْتُ فَاجِعٌ وَفَجُوعٌ. مصیبت لانے والی

موت۔

الفَاجِعَةُ: مصیبت و گھوا جع.

الفَجِيعَةُ: مصیبت و گھوا جع.

فَجَلٌ (ن) فَجْلًا وَفَجَلٌ (س) فَجْلًا.

الشَّيْءُ: ذھیلا اور موٹا ہونا۔

فَجَلٌ الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔

إفْتَجَلَ. الأَمْرُ: ایجاد کرنا۔

الفَاجِلُ: فا۔ جواری۔

الفَجْلُ وَالفَجْلُ: مولیٰ و احد فَجْلَةٌ.

الفَجَالُ: مولیٰ بیچنے والا۔

الأَفْجَلُ: وہ شخص جس کے دونوں قدموں

کے درمیان زوری ہو۔

فَجَمٌ (س) فَجْمًا. موٹے جڑے والا ہونا۔

صَفْتٌ أَفْجَمٌ

تَفَجَّمَ وَانْفَجَّمَ. الوَادِي: وادی کا کشادہ

ہونا۔ فَجْمَةٌ. الوَادِي وَفَجْمَتُهُ: وادی کی

کشادہ جگہ۔

أَفْجَنٌ. سداب کھلنے کی مداومت کرنا۔

الفَيْجِنُ: سداب (ایک قسم کی گھاس)

فَجَا يَفْجُو فَجْوًا. البَابُ: دروازہ کھولنا

القَوْسُ: کمان کھینچنا۔

فَجِي يَفْجِي فَجًا. پنڈلیوں یا پیروں کے

درمیان زوری کرنا۔ صَفْتٌ (أَفْجِي) مَوْتٌ

فجواء فجیت القوس: کمان کا کھینچا ہوا

ہونا۔ النَّاقَةُ: اُونٹنی کا بڑے پیٹ والی ہونا۔

تفاحی کشادہ جگہ ہونا۔
 أَنْفَجَى الْبَابُ: دروازہ کھلانا الْقَوْمُ عَنْ
 فُلَانٍ: علیحدہ ہونا۔ ہٹ جانا۔ الْقَوْمُ سَمَانَ
 کھنچ جانا۔
 الصَّوْفَةُ: دو چیزوں کے درمیان کشادگی ہو
 مکان کا میدان۔ سخن۔ کشادہ جگہ ج
 وفجاء۔
 الْفَجْوَاءُ: مؤنث۔ اَفْجَى: کشادہ زمین۔
 فَجَى يَفْجَى فَجَى بِمَعْنَى فَجَى الْوَادِي
 فَجَى تَفْجِيَةً الشَّيْءُ ظَاهِرٌ كَرْنَا نَكَرْنَا
 الشَّيْءُ عَنْهُ وَوَرَّرْنَا عَلَيْهِ كَرْنَا
 أَفْجَى إِفْجَاءً الرَّجُلُ يَأْتِي بِخُصٍّ بِرُخْرَجٍ
 میں وسعت کرنا۔ فَعَا وَفَجِيحًا وَتَفْجِيحًا
 فَح (ن ض) فَعَا وَفَجِيحًا وَتَفْجِيحًا
 النَّائِمُ سَوْنَةَ وَالْكَرْمُ لَيْتَا الْإَفْجَى
 سانپ کا بھگانا۔
 فَحَّةٌ: الْفَلْفَلُ نَرْجُوحٍ كَيْ تَبْرِي
 الفصح پھلانے والے ہرانب۔
 الْفَجِيحُ نَسْرٌ فَجِيحٌ الْإَفْجَى نَسْرٍ كَيْ
 مٹی کی آواز۔
 فَحَج (ف) فَحَجًا وَفَحِجَةً وَفَحَجَ فِي
 فَحَج (س) فَحَجًا وَفَحِجَةً وَفَحَجَ فِي
 مَشِيئَةٍ: قَدَمُ كَيْ اَلْجِهَةِ كُو قَرِيبٍ اُوْر
 ابرویوں کو دُور کرنا۔ مَفْت (اَفْحَج) فَحَج
 رُجْلِيهِ: نَائِمًا كُو پھیلانا۔
 اَفْحَجَ: عَنِ الْاَمْرِ: كَرْنَا: ہٹ جانا۔
 تَفْحَجَ: الرَّجُلُ نَائِمًا كُو پھیلانا۔
 اِنْفَحَجَتْ: سَاقَاهُ: كَشَادَةٌ: اُوْر پھیلنا۔
 فَحَس (ف) فَحَسًا: الشَّيْءُ مِنْ الْمَاءِ
 وغیرہ ہاتھ میں لے کر زبان سے چائنا۔
 جوں کو ہاتھ سے ملنا۔
 تَفْحَسَ: فِي مَشِيئَةٍ: نَائِمًا: چلنا۔
 فَحَش (س) فَحَشًا وَفَحِشًا: الْاَمْرُ نَبْرًا
 فَحَشَتِ الْمَرْأَةُ: تَبِيعَ هُوْنَا اُوْر بُوْر حِي
 ہونا۔
 ہونا۔
 فَحَشَ: بِه: طَعْنٌ وَتَفْحَجَ كَرْنَا
 اَفْحَشَ وَتَفْحَشَ: بُرِي بَاتِ كَبْرًا: بُرِي

يَاتِ كَرْنَا۔ اَفْحَشَ الرَّجُلُ يَجْلُ كَرْنَا۔
 تَفْحَشَ الْاَمْرُ: تَحَاتٌ فِيْهِ زِيَادَةٌ هُوْنَا۔
 تَفْحَشَ: عَلَيْهِمُ بِلِسَانِهِ: بِدِكَلَايِ كَرْنَا۔
 گالی بنانا۔
 الْاَفْحَشُ: تَبِيعَ: بِدِخْلِقٍ: بِهْت: بِجَلِيْلٍ: هِرُوْر
 چيز جو ہد سے بڑھ جائے۔ کہا جاتا ہے
 فَحَشٌ: كَيْ كَرْنَا: اِنَّا زِيَادَةٌ لِقَصَانٍ هُوَ جَائِعٌ جُو عَادَا
 برداشت نہ کیا جاسکتا ہو۔ رَجُلٌ فَحَشٌ: عِنِي
 قول یا جواب میں حد سے گزرنے والا مؤنث
 فَاحِشَةٌ
 الْفَاحِشَةُ: زَنَا: بِهْت: تَحْتِ: تَبِيعَ: كِنَاهُ ج
 فَوَاحِشٌ
 الْفَحِشَاءُ: زَنَا: بِهْت: تَحْتِ: تَبِيعَ: كِنَاهُ
 الْفَحَّاشُ: فَاحِشٌ كَا اِسْمِ مَبَالِغَةِ مَوْثِ
 فَحَّاشَةٌ
 الْفَحَّاشُ: نَسْرٌ: تَبِيعَ: قَوْلٍ يَأْتِي
 الْمُتَفَحِّشُ: بِدِرْيَانٍ اِبْرِي: جِيَابِ
 فَحَص (ف) فَحَصًا: عَنْهُ: تَفْتِيْشُ كَرْنَا۔
 کھود کرید کرنا الْمَطِيْرُ: التَّرَابُ: بَارِشٌ كَامِي كُو
 اَلْثَلْثُ: دِيْنَا: التَّرَابُ: كَهُوْنَا: يُوْجِلُهُ: يَأُوْسُ
 سے کھودنا۔ الطَّيْبِيُّ: بَرْنٌ كَا تَبِيعَ: دُوْرْنَا
 لِلْحَجْرَةِ: رُوْنِي كَيْ اَلْجِيَابِ: جِيَابِ: بِنَائِنَا۔
 فَاحِصَةٌ: فَحَاصًا وَفَحَاصَةً: اِيْكَ
 دوسرے کے عیب اور بھیدوں کی تلاش و جستجو
 کرنا۔
 فَحِصَةٌ: اَفْحِصَهُ: عَنْهُ: دُوْر كَرْنَا۔
 تَفْحِصٌ: اَفْحِصَ: عَنْهُ: كَهُوْدُ كَرِيدِ كَرْنَا۔
 الْفَحِصُ: نَسْرٌ: اِمْتِحَانٌ: هِرُورِنِي كَيْ جَلَدٌ: رَج
 فَحُوصٌ
 الْفَحِصَةُ: خَصٌّ كَا اِسْمِ مَرَّةٍ: چَاهُ: نَخْدَانٌ۔
 الْفَحِيصُ: سَاخِي كَيْ عِيْبٍ اُوْر بَهِيْدِي كَيْ ثُوْءِ
 میں رہنے والا۔
 الْفَحَاصُ: بِهْت: تَلَاْشٌ وَجِيْتُو كَرْنِي: وَالَا۔
 الْمَفْحِصُ: كَرُوْجَا: جُوْرَنُغٌ: خَوَارِنِي: اِنْدِي
 رہنے کیلئے بنایا ہوا۔ مَفْحِصٌ: كَمَا جَاتَا: هِي
 لیس لگے مَفْحِصُ: قَطَاةٌ۔
 الْاَفْحُوصُ: بِمَعْنَى مَفْحِصٍ: اَفْحِصِيصٌ

فَحَص (ف) فَحَصًا: تُوْرْنَا: اَكْثَرًا: سَا
 استہلال تہیز کیلئے آتا ہے جیسے گزری وغیرہ۔
 فَحْفَحٌ: خُرَاةٌ: لِيْنَا: اُوْر بَزَجَانَا۔
 الْفَحْفَاحُ: وَهٌ: فَحْفَحٌ: جِيَابِ كِي اُوْر بَزَهٌ: كِي هُو۔
 بہت بولنے والا۔ مؤنث۔
 اَرْضٌ (فِيْحَقِ) كَشَادَةٌ: زَمِيْنٌ۔ اِبْلَهُ: فَحْلًا
 فَحْل (ف) فَحْلًا وَفَحْلًا: اِبْلَهُ: فَحْلًا
 كَرِيْمًا: سَاخِي: جِيَابِ: كَيْلِي: وَهُوْرْنَا۔
 تَفْحَلٌ: سَاخِي كَيْ مَشَابِهٌ: هُوْنَا: الشَّجَرُ:
 درخت کا بے پھل ہونا۔
 اِسْتَفْحَلُ: الْاَمْرُ: يَزَا: هُوْنَا۔ اِسْتَفْحَلَتِ
 النَّخْلَةُ: ذُرْحَتُ: خَرْمَا: زَكُوْر: جِيَابِ: هُوْنَا۔
 الْفَحْلُ: سَاخِي: زَبْر: جِيَابِ: كَا: بَرَجٌ: فَحْوَلٌ
 وَاَفْحَلٌ وَفِحَالٌ وَفِحَالَةٌ وَفَحْوَلَةٌ
 فَحْوَلُ الشَّعْرَاءِ: فَعِيْلَتٌ: رَكْنِي: وَالِي
 شعراء۔ جیو کرنے میں غالب ہونے والے
 شعراء۔
 الْفَحْلُ وَالفِحَالُ: زَكُوْر: فَحَاخِيْلُ
 الْفَحْلَةُ: مِنَ: النِّسَاءِ: تَبِيعَ: زَبَانِ: عَمُوْرَتِ۔
 ایسے اخلاق والی جو جس عورت کے لائق نہ ہو۔
 الْاَفْحَالَةُ وَالفَحْوَلَةُ وَالفِحَالَةُ: مَرُوْمَا: كِي
 الْفَحِيْلُ: بِمَعْنَى: فَحْلٌ: صَاخِبِ: مَرُوْمِي۔ فَحَلٌ
 فَحِيْلٌ: شَرِيْفٌ۔
 فَحَم (ف) فَحَمًا: جُوَابٌ: سَاكِتٌ
 ہونا۔
 فَحَمْت (ن) فَحَوْمًا: الْبِنْرُ: پَانِي: شَهْرٌ
 چاہا۔
 فَحَم (س) وَ فَحَمٌ فَحَمًا وَفَحَامًا: وَ
 فَحَوْمًا وَاَفْحَمَ: الصَّبِي: بِنِي: كَا: رُوْتِي
 روٹے آواز بند ہونا۔
 فَحَم (ك) فَحَوْمًا وَفَحَوْمَةً: كَالَا: هُوْنَا۔
 فَحَمَ: الشَّيْءُ: كَالَا: كَرْنَا۔
 اَفْحَمَهُ: وَبَلَدِي: دِي: كَرَامُوشُ: كَرِيْنَا: كَمَا
 "هَاجَاهُ: فَاحْمَهُ" وَ "وَجِدَهُ
 جاتا ہے
 مَفْحَمًا" یعنی اس کی بھوک اور خاموش کر دیا
 خاموش پایا یعنی وہ شعر کہنے پر قادر نہیں تھا
 اَفْحَمَ الرَّجُلُ: عَشَاءَ: كَيْ: وَتَقِي كِي تَارِي كِي فِي

واغل ہوتا الھم الشاعر: غم نے شعر کہنے

سے منع کر دیا۔

الفحوم والفحم والفحيم: کوئلہ۔

الفحمة: کوئلے کا کھور۔ فحمة الليل:

سخت تاریکی ج فحاح و فحوم۔

الفحومة: سیاہی۔

الفحاح: کوئلہ بیچنے والا۔ ج فحامة۔

الفحوم: جو اب نہ دے سکے والا۔

الفاحم: فاحم: ماء فاحم: ضمیر اہول پانی۔

الفاحم والفحيم: کالا۔

المفحوم: فاحم: جو اب ٹھم: خاموش کر دینے

والاجواب۔

المفحوم: ۷۷۰ اجواب: شعر نہ کہہ سکے

والا۔

المفحمة: کوئلہ کی جگہ۔

فحا يفحون فحوا و فحى: بگلامہ الی

کذا: اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف

اشارہ کرنا۔

الفحا والفحى: سالہ یا خشک سالہ ج

أفحاء۔

الفحوى والفحواء والفحواء: من

الکلام: مضمون کلام ج فحاور۔

فَحَّتْ (ض) فَحًا وَفَحَّةً وَفَحْنًا

رَجُلًا: جاگوں کا کزور ہونا۔ مفت (أَفَحَّ)

مَوْتٌ فَحَاءٌ ج فَحٍ۔

فَعَّ (ن) فَعًا وَفَعِينًا أَفْتَحَ النَّائِمَ

خَرَأْتِ لَيْتًا فَحَتِ الْإِغْمَى: ساپ کا

پھنکارنا۔

الرَّايحة: خوشبو کا پھڑکنا۔

الفَحَّ: جال۔ ج فَحَاخ وَفَحُوخ كَمَا جاتا

ہے "وَبَّ فَلَانٌ مِّنْ فَحِّ الشَّيْطَانِ" یعنی

تو یہ کر لیا۔

الفَحَّة: خرائے لینے والے کی نیند۔ گندی

عورت۔

فَحَّتْ (ف) فَحْنَا السَّقْفُ: چھت میں

سوراج کرنا اسے بالسيف: سر پر گھوڑا مارنا

الشَّى: کائنات الاناء: برتن کھولنا۔ فَحَّتْ

الرجل: جھوٹ بولنا۔

فَحَّتْ: الفاحشة: فاختہ کا کوکرنا۔

تَفَحَّتْ: فاختہ کی چال چلانا۔ تجب کرنا۔

انْفَحَّتْ: السقف: چھت کا سوراج دار

ہونا۔

الفحنت: س۔ جال۔ چھت میں گول سوراج

چاند کی روشنی یا اس کا سایہ۔

الفاحشة: فاختہ ج فواخت

فَحَجَّ (ر) فَحَجًا: الرجل: تکبر کرنا۔

فَلَانًا وَبِهِ: ذبیح مارنا اور بڑائی ظاہر کرنا۔

فَفَحَجَّ (س) فَفَحَجًا: جدا جدا راتوں والا

ہونا۔ مفت (أَفَحَجَّ)

فَحَذَهُ (ف) فَحَذًا: ران پر رانا۔ ران کو

توڑنا۔ فَحَذًا: اس کی ران توڑ گئی۔

فَحَذَ: قَوْمًا: قبیلے قبیلے کو پکارنا۔ بِنْتُهُمْ: جدا

جدا کرنا القوم عَنْ فَلَانٍ: مدد نہ دینا فلانا:

قبیلے سے بھاگنا۔

تَفَحَذَ: معاملہ سے ہٹ جانا۔ نَفَحَذَهُ: کسی

کی ران پر ران رکھنا۔

اِسْتَفَحَذَ: جگ جانا۔ مطبوع ہو جانا۔

الفَحْذُ والفَحْذُ والفَحْذُ: ران کلمہ

مؤنث ہے ج أفحاذ۔

الفَحْذُ: قبیلہ ج أفحاذ۔ یہ کلمہ مذکر ہے۔

فَحَرَّ (ف) فَحْرًا وَفَحْرًا وَفَحَارًا

وَفَحَارَةً وَفَحِيرًا وَفَحِيرًا وَفَحِيرًا:

فَحَرَّ کرنا۔ فَحْرَةً: فخر کرنے میں غالب ہونا۔

فَحْرَةً (ف) وَفَحْرَةً وَفَحْرَةً: علی

فَلَانٍ فَحْرًا کرنے میں فضیلت دینا۔

فَحْرَمْنَهُ (س) فَحْرًا وَتَفَحَّرَ: تک

سمجھنا۔ تاک چڑھانا۔ تکبر کرنا۔

فَاخْرَهُ فَحَارًا وَمُفَاخْرَهُ: فخر کرنے میں

غالب ہونا۔

تَفَاخَرُ القَوْمِ: بعض کا بعض پر فخر کرنا۔ ہر

ایک کا دوسرے کے منافخ پر فخر کرنا۔

اِسْتَفَخَرَ الشَّى: قابل فخر سمجھنا۔ قابل فخر

بنانا۔

الفَخْرُ والفَخْرُ: سرفیضت۔ بڑائی۔

الفخورة: فخر۔

الفَاخِرُ: ہر چیز میں کا عمدہ۔

الفَخِيرُ والفَخِيرَةُ: بہت فخر کرنے والا تا

مبالغہ کے لیے ہے۔

الفُخُورُ والفَخِيرُ: فخر کرنے والا الفَخِيرُ:

فخر کرنے میں مغلوب۔

الفَخَارُ: ٹھیکری۔ کچی ہوئی مٹی۔ واحد

(فَخَّارَةٌ)

الفَخَّارِيُّ: ٹھیکری بیچنے والا کھپار۔

الفَاخُورُ: ایک قسم کا پھول ج قِيَاخِيرُ:

المفخورة والمفخورة: افعال حمیدہ۔ وہ چیز

جن پر فخر کیا جائے۔ ج مفاخير۔

فَفَحَّرَ (ف) وَفَحَّرَ (س) فَفَحَّرًا وَفَحَّرًا

وَتَفَحَّرَ: تکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔

الفَحْرُ: سرفیضت۔

فَحَشَّ (ف) فَحَشًا: الأمر: ضائع کرنا۔

فَفَحَّخَ فَحْفَخَةً: الرجل: لغو باطل کرنا۔

الفَحْفَخَةُ: س۔ کاغذ یا نئے کپڑے کی

کڑکھڑاہٹ۔

تَفَحَّلَ: علم و وقار ظاہر کرنا۔ عمدہ کپڑے

پہننا۔

فَحَمَّ (ك) فَحَامَةً: مونا ہونا۔ عظیم المرتبہ

ہونا۔

فَحَمَّهُ: تقسیم کرنا۔ فَحَمَّ الحُرُوفِ فِي

اللفظ: حروف کو پڑھنا۔

الفَحَمُّ: عظیم المرتبہ من المنطق: درست

بات۔

الفُحْمِيَّةُ: بڑائی۔ برتری۔ الافحَمُ:

اعظم۔ بڑے مرتبہ والا۔

فَدَّ (ض) فَدِيدًا: الرجل: آواز بلند کرنا۔

دوڑنا الطائر: پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔ فدت

الابل: اونٹ کا زمین کو کھروں سے روندنا۔

فَدَّدَ: خرید و فروخت میں چلانا۔ تکبر و غرور

سے چلانا۔

الفَدَّادُ: تکبر۔ بہت چلانے والا۔ بہت

روندنے والا۔ سیکڑوں سے ہزار تک اونٹوں کا

مالک ج فَدَّادُونَ. الفَدَّادُونَ چرواہے۔

اُونٹ والے۔ گائے تیل والے کا شکار اور ان کے علاوہ جن کی آواز کھیتی باڑی اور مویشی میں بلند ہوتی ہو۔

الفدّاءة مؤنث۔ فداد۔ میٹرک ہر ذول۔ فذحہ (ف) فذحاً۔ الأمر أو الحمل أو الذین کسی معاملہ کا یا حمل کا یا قرض کا

گر انبار بنا دیا۔ الفدح واستفدح الأمر۔ جو جمل پانا۔ الفادح۔ مشکل جو بوجھل کرنے والا ہو۔ کہا جاتا ہے ”نزل به أمر فادح و ركب ذین فادح“ اس پر امر گرا بنا آپڑا۔ اس پر قرض

گر انبار ہو گیا۔ الفادحة مصیبت ج فوادح۔ فوادح الذہر۔ مصائب زمانہ۔ فذخ (ن) فذخاً۔ الشئ۔ توڑنا۔ العود۔ تازہ لکڑی توڑنا۔ فدر (ض) فدرًا وفدورًا۔ اللحم المطبوخ۔ کچے ہوئے گوشت کا ٹھنڈا ہونا۔ فدر۔ الحجازة۔ چھوٹے بڑے پتھر توڑنا۔ تفدر۔ الحجر۔ پتھر کا ٹوٹنا۔ الفدر۔ پہاڑی بکرا ج فذور۔ القدور۔ پہاڑی بکرا ج فدر۔ الفدر۔ بیوقوف۔ جلدی ٹوٹنے والی لکڑی۔ الفدر۔ کچے ہوئے گوشت کا سرد نکلا۔ پہاڑ کا ایک حصہ۔ رات کا ایک ٹکڑا ج فدر۔ الفدر۔ قوم سے علیحدہ رہنے والا۔ تنہا چلنے والا۔ الفدر۔ چاندی۔ مونا لٹکا۔ الفادیر۔ پکا ہوا ٹھنڈا گوشت۔ پہاڑی بکرا۔ علیحدہ رہنے والی اونٹنی ج فدر و فوادح و فذور۔ الفادرة۔ مؤنث فاور۔ پہاڑی چوٹی پر بڑی چٹان۔

الفیدس۔ مٹکا بڑا گھڑا۔ فذش (ن) فذشاً۔ راسہ۔ سر چھوڑنا۔ فذشہ (ض) فذشاً۔ دفع کرنا۔ الفذش۔ مادہ لکڑی۔ فذع (س) فذعاً۔ ٹیڑھے جوڑوں والا ہونا۔ صفت (افذع) مؤنث (فدعاء) ج فذع۔ فذعہ (ف) فذعاً۔ پکنا یا تھوڑا پھارنا۔ فذعہ۔ ٹیڑھے جوڑوں والا کر دینا۔ الفذع۔ ہاتھ یا پیر کے جوڑے میں کچی جوڑوں کی کچی۔ الفذاعة۔ جوڑوں کی کچی کی جگہ۔ فذعہ (ن) فذعاً۔ توڑنا۔ انفذع۔ ٹوٹا۔ الشئ الیاس۔ نرم ہونا۔ المفذع۔ توڑنے کا آلہ ج مفادع۔ فذ فذ فذ فذ۔ آواز بلند کرنا۔ بھاگتے ہوئے دوڑنا۔ الفذ۔ سخت آواز والا۔ بلند آواز والا۔ بہت زیادہ روندنے والا۔ الفذ۔ جما ہوا دودھ۔ فذک۔ القطن۔ زروئی و ضنا۔ فذکھ القطن۔ زروئی و ضونا۔

فقدن۔ الابل۔ اونٹ کو مونا کرنا البناء۔ عمارت کو بلند کرنا القوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفذن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افذان۔ الفذان والفذان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فذن والقدنة وفذانین۔ الفذان۔ کھین۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔ الفادن۔ فی اصطلاح البنائین ساحل۔ ج فوادن۔

الفقدوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔ فدی بقدی فدی وفدی وفداء الرجل من الأسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت فاعلی (فاد) اور صفت مفعولی (مفدی) کہتے ہیں ”فقدت المرأة نفسها من زوجها“ یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ فدی وفدی تفدیة۔ فلانا بنفسہ اپنے متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر نرا کیا جاؤں۔ فادی فداء ومفاداة۔ الرجل۔ چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا۔ جھڑانا۔ افدی افداء۔ فلانا الانسیر۔ کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا الرجل۔ مونا ہونا۔ تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نرا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔ الرجل من کذا۔ پر ہیڑ کرنا اور کیو ہونا۔ انفادی افداء۔ فدیہ دیا جانا۔ افندی۔ بہ۔ فدیہ دینا منہ بگذا۔ پر ہیڑ کرنا۔ کہتے ہیں افدت المرأة نفسها من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ الفادی۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ ہے۔ الفدائی۔ خطرناک مقامات و مہمات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔

فقدن۔ الابل۔ اونٹ کو مونا کرنا البناء۔ عمارت کو بلند کرنا القوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفذن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افذان۔ الفذان والفذان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فذن والقدنة وفذانین۔ الفذان۔ کھین۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔ الفادن۔ فی اصطلاح البنائین ساحل۔ ج فوادن۔

الفقدوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔ فدی بقدی فدی وفدی وفداء الرجل من الأسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت فاعلی (فاد) اور صفت مفعولی (مفدی) کہتے ہیں ”فقدت المرأة نفسها من زوجها“ یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ فدی وفدی تفدیة۔ فلانا بنفسہ اپنے متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر نرا کیا جاؤں۔ فادی فداء ومفاداة۔ الرجل۔ چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا۔ جھڑانا۔ افدی افداء۔ فلانا الانسیر۔ کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا الرجل۔ مونا ہونا۔ تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نرا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔ الرجل من کذا۔ پر ہیڑ کرنا اور کیو ہونا۔ انفادی افداء۔ فدیہ دیا جانا۔ افندی۔ بہ۔ فدیہ دینا منہ بگذا۔ پر ہیڑ کرنا۔ کہتے ہیں افدت المرأة نفسها من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ الفادی۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ ہے۔ الفدائی۔ خطرناک مقامات و مہمات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔

فقدن۔ الابل۔ اونٹ کو مونا کرنا البناء۔ عمارت کو بلند کرنا القوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفذن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افذان۔ الفذان والفذان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فذن والقدنة وفذانین۔ الفذان۔ کھین۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔ الفادن۔ فی اصطلاح البنائین ساحل۔ ج فوادن۔

الفقدوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔ فدی بقدی فدی وفدی وفداء الرجل من الأسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت فاعلی (فاد) اور صفت مفعولی (مفدی) کہتے ہیں ”فقدت المرأة نفسها من زوجها“ یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ فدی وفدی تفدیة۔ فلانا بنفسہ اپنے متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر نرا کیا جاؤں۔ فادی فداء ومفاداة۔ الرجل۔ چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا۔ جھڑانا۔ افدی افداء۔ فلانا الانسیر۔ کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا الرجل۔ مونا ہونا۔ تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نرا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔ الرجل من کذا۔ پر ہیڑ کرنا اور کیو ہونا۔ انفادی افداء۔ فدیہ دیا جانا۔ افندی۔ بہ۔ فدیہ دینا منہ بگذا۔ پر ہیڑ کرنا۔ کہتے ہیں افدت المرأة نفسها من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ الفادی۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ ہے۔ الفدائی۔ خطرناک مقامات و مہمات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔

فقدن۔ الابل۔ اونٹ کو مونا کرنا البناء۔ عمارت کو بلند کرنا القوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفذن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افذان۔ الفذان والفذان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فذن والقدنة وفذانین۔ الفذان۔ کھین۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔ الفادن۔ فی اصطلاح البنائین ساحل۔ ج فوادن۔

الفقدوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔ فدی بقدی فدی وفدی وفداء الرجل من الأسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت فاعلی (فاد) اور صفت مفعولی (مفدی) کہتے ہیں ”فقدت المرأة نفسها من زوجها“ یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ فدی وفدی تفدیة۔ فلانا بنفسہ اپنے متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر نرا کیا جاؤں۔ فادی فداء ومفاداة۔ الرجل۔ چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا۔ جھڑانا۔ افدی افداء۔ فلانا الانسیر۔ کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا الرجل۔ مونا ہونا۔ تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نرا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔ الرجل من کذا۔ پر ہیڑ کرنا اور کیو ہونا۔ انفادی افداء۔ فدیہ دیا جانا۔ افندی۔ بہ۔ فدیہ دینا منہ بگذا۔ پر ہیڑ کرنا۔ کہتے ہیں افدت المرأة نفسها من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ الفادی۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ ہے۔ الفدائی۔ خطرناک مقامات و مہمات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔

فقدن۔ الابل۔ اونٹ کو مونا کرنا البناء۔ عمارت کو بلند کرنا القوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفذن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افذان۔ الفذان والفذان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فذن والقدنة وفذانین۔ الفذان۔ کھین۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔ الفادن۔ فی اصطلاح البنائین ساحل۔ ج فوادن۔

الفقدوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔ فدی بقدی فدی وفدی وفداء الرجل من الأسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت فاعلی (فاد) اور صفت مفعولی (مفدی) کہتے ہیں ”فقدت المرأة نفسها من زوجها“ یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ فدی وفدی تفدیة۔ فلانا بنفسہ اپنے متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر نرا کیا جاؤں۔ فادی فداء ومفاداة۔ الرجل۔ چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا۔ جھڑانا۔ افدی افداء۔ فلانا الانسیر۔ کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا الرجل۔ مونا ہونا۔ تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نرا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔ الرجل من کذا۔ پر ہیڑ کرنا اور کیو ہونا۔ انفادی افداء۔ فدیہ دیا جانا۔ افندی۔ بہ۔ فدیہ دینا منہ بگذا۔ پر ہیڑ کرنا۔ کہتے ہیں افدت المرأة نفسها من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ الفادی۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ ہے۔ الفدائی۔ خطرناک مقامات و مہمات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔

فقدن۔ الابل۔ اونٹ کو مونا کرنا البناء۔ عمارت کو بلند کرنا القوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔ الفذن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افذان۔ الفذان والفذان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فذن والقدنة وفذانین۔ الفذان۔ کھین۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔ الفادن۔ فی اصطلاح البنائین ساحل۔ ج فوادن۔

الفقدوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔ فدی بقدی فدی وفدی وفداء الرجل من الأسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت فاعلی (فاد) اور صفت مفعولی (مفدی) کہتے ہیں ”فقدت المرأة نفسها من زوجها“ یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ فدی وفدی تفدیة۔ فلانا بنفسہ اپنے متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر نرا کیا جاؤں۔ فادی فداء ومفاداة۔ الرجل۔ چھوڑ دینا اور فدیہ لے لینا۔ جھڑانا۔ افدی افداء۔ فلانا الانسیر۔ کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا الرجل۔ مونا ہونا۔ تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نرا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔ الرجل من کذا۔ پر ہیڑ کرنا اور کیو ہونا۔ انفادی افداء۔ فدیہ دیا جانا۔ افندی۔ بہ۔ فدیہ دینا منہ بگذا۔ پر ہیڑ کرنا۔ کہتے ہیں افدت المرأة نفسها من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھڑکارا حاصل کر لیا۔ الفادی۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ ہے۔ الفدائی۔ خطرناک مقامات و مہمات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔

المفاداة مرفقار قیدی کے بدلے قیدی کا تبادلہ کرنا۔
 الفداء: حرم، موٹاپا، ڈھیر۔ انبار جو گھوڑوں، کھجور وغیرہ رکھنے کا برتن۔ تاجر کے سامان و غلے وغیرہ کی جگہ۔ ج الفدیة۔
 الفداء والفدی والفدی: نمر۔ مال جو چھڑانے کے لیے دیا جائے کہا جاتا ہے "فدی لک ابی وفدائک ابی" یعنی میں تمہارے اوپر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں اور اس جملہ سے دعا اور اظہار محبت اور تعریف و توصیف کا ارادہ کرتے ہیں اور کبھی فصل محذوف ہوتا ہے اور صرف حرف با کو باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں "بابی التلمیذ المحتهد" یعنی میں اس پر اسے باپ کو فدا کرتا ہوں۔

الفدیة: مال جو چھڑانے کیلئے دیا جائے ج فدی وفدیات۔
 فذہن (ن) فذا: سختی سے دھکارنا۔
 أفذت: الشاة: ایک بچہ جننا۔ صفت (مفذ) و مفذة اور اگر یہی عادت ہو جائے تو اس کو (مفذاذ) کہتے ہیں۔
 تفذذ واستفذ: بالامر خورائی کرنا۔

الفذس: اکیلا۔ جو بچے کے تیروں سے پہلا تیرج افذاذ وفذوذ و کلمة (فدة) وفاداة) کلمہ شاذ۔
 الافذ: بے پر کا تیر۔ کہا جاتا ہے "اکلنا فذادی وفذادی وفذاذا وفذاذا" یعنی ہم نے جدا جدا ہو کر کھایا۔
 فذ فذ فذ فذ فذ: اچانک کودنے کے لیے

سننا۔
 فذذک فذذکة: الحساب: فارغ ہونا۔
 الفذلیکة: سر۔ میز اکل: مفصل کا خلاصہ۔

حساب کا ہوا کسی اور چیز کا (مولد)
 فوذ (ض) فوا و فوارا و مفوا و مفوا۔
 بھاگنا۔ پوہ دوڑنا۔
 فوذ (ن) فوا و فوارا و فوارا و فوارا۔
 الدابة: جانور کی عمر معلوم کرنے کیلئے دانتوں کو دیکھنا الی الشی جانا عن الامر کھجور کی

کرنا۔ کہا جاتا ہے "قر الامر جدعا" معاملہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔
 فارذتہ: میں نے اس کے حال کی اور اس نے میرے حال کی تحقیق کی۔
 أقر أقرارا: رأسه بالسيف: تلوار سے سر بھیز دینا۔
 أقرت الخیل او الابل: اونت یا گھوڑے کا دودھ کے دانت گرنا۔
 أقره: بھگانا۔
 تغار: القوم: ایک دوسرے سے بھاگنا۔
 تقور: بالشی: ہنسا۔
 إقر: البزق: بجلی کا چمکنا آہستہ آہستہ ہنسا الشی سو گھنا۔

القرس: بھاگنے والا۔ (واحد جمع مذکر مؤنث) القر: جمع ہے (فار) کی جیسے رکت۔ جمع (راکت) کی۔ کہا جاتا ہے (هو قرقوبه وقرنهم) وہ اپنی قوم کا بہترین آدمی ہے۔
 القررة والقررة والقررة: اختلاط۔ شدت من الحر و نحوه: گرمی کی شدت اور اس کی ابتدا۔
 القررة: مسکراہٹ۔
 الأقر: خوبصورت طریقہ سے ہنسنے اور مسکرانے والا۔

القرار والقرور والقررة والقرورة: تیز بھاگنے والا۔
 القرار: الفراء: پارہ۔
 القرور والقریر والقرار: بھیز اور بکری کا بچہ۔
 القریر: نمد۔
 المقور: بھاگنے کی جگہ۔
 المقور: من الخیل: تیز گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو بھاگنے کے کام میں آئے۔

القریبون: ایک کثیر پیدائش پودا جس کے پتوں سے زہریلا دودھ نکلتا ہے اور آنکھوں کے لئے اگر لگ جائے تو خطرناک ہوتا ہے۔
 القراء والقراء: جنگلی گدھاج افراء و فواء اور عرب کا قول "کحل الصيد فی جوف القرا" بغیر ہمزہ کے مثل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جس کی بہت سی حاجتیں ہوں اور ان میں سے بڑی حاجت پوری ہو جائے اور اس مقصد کیلئے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ باقی حاجتوں کے

فوت ہونے کی پروا نہیں کرتا۔
 أمر (فیری) گھڑا ہوا۔ بڑا۔
 فوت (ن) فرتا: بدکار ہونا۔
 فوت (ک) فرتوة: الماء پانی کا خوشگوار ہونا۔ بیٹھا ہونا۔

فوت (س) فرتا: ضعیف العقل ہونا۔
 الفرات: ایک بڑا دریا ہے جو بحر فارس میں گرتا ہے۔ بہت بیٹھا پانی۔ کہا جاتا ہے "ماء فوات و مياة فوات" الفرات: سمندر۔
 الفراتان: فرات و دجلہ۔
 فرتک فرتکة: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا الشی: ریزہ ریزہ ہونا العمل: فاسد کرنا۔

بکازنا۔
 الفربیکہ: کھانے کے لئے ایک کاٹنا۔
 فرتن فرتنة: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔
 فرتنی: امت۔ القرونه: سمندر کا جوش۔

الفرثنی: بچو کا بچہ۔ زانیہ۔
 فرتت (ن) فرتا و انفرتت: الخبلی: حاملہ عورت کا بی ستلانا۔
 فرت (ض) فرتا: کبڈہ: جگر پر پارنا۔
 فرت (س) فرتا: شکم سیر ہونا۔ القوم: متفرق ہونا۔

أفرت و فرتت: الکوش: اوچھ کو چیر کر گور نکالنا الحب کبڈہ: محبت کا جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 تفرتت: القوم: حفرق ہونا تفرتت الخبلی: حاملہ عورت کا بی ستلانا۔
 الفرتت: گور جب تک اوچھ میں رہے ج فوذت۔
 الفرافة: اوچھ کا گور۔

قرند فرتندة: وجہ: چہرہ پر گوشت ہونا۔
 فرج (ض) فرجا و فرج: الشی: بھولنا۔
 کشادہ کرنا۔
 اللہ القم عنہ: غم کو دور کرنا۔
 زائل کرنا۔

أفرج: الغبار: غبار کا دور ہونا۔ چھٹ جانل۔
 القوم عن المسکان: علیحدہ ہو جانا۔ ہمت

یعنی مفرد ہے اور مؤنث فردی کہا جاتا ہے
لقب: یعنی ہمارے ساتھ کوئی نہیں

تھا۔
الفرد: تمہا جانے والا۔ کہا جاتا ہے جاء وا
(فردا و فردا) یعنی فردا اور فردا (فردا و فردا)

یعنی اکیلے اکیلے آئے۔ واحد (فرد و فرد و فرد و فرد)

الفريد: ایک نیک۔ چھوٹا موتی جو سونے اور
بڑے موتیوں کے بیچ میں ہو۔ موتی۔ نفیس
جوہر فراند

الفريضة: مؤنث۔ نفیس جوہر۔

ريضة کی بڑی کا وہ مہرہ جو دم کی بڑی سے ملا ہوا
ہے۔ ج فراند کہا جاتا ہے نفی بالفرائد

یعنی ایسے الفاظ جو فصاحت و بلاغت اور عربی
الاصل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

الفَرَاد: موتیوں کا بیچنے والا۔

المفرد: سن۔ واحد اور اس کے مقابلہ میں جمع
ہے۔ جنگی تیل۔

المفرد: من الذهب: موتی لگا کر جدا کیا
ہوا۔

المفرد: فا۔ کہا جاتا ہے "راكب مفرد"
سوار جس کے پاس اپنے اونٹ یا گھوڑے کے

سوانہ ہو۔

فردسة فردسة: پچھا دینا۔ زمین پر پلک
دینا۔

الفردوس: باغ۔ جنت۔ سرسبز وادی (مذکر
و مؤنث) ج فرادینس۔ فردوس النعیم:

ایک جنت کا نام ہے۔
الفردسة: سرسبز باغ۔

المفردس: فا۔ کشادہ سینہ والا۔ صدر
(مفردس) کشادہ سینہ۔

كرم مفردس: الٹی لگی ہوئی انگوٹھی تیل۔
فرد (ض) فردا و فردا۔ الشئ من

غیره: جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا و الفرد الصيد
الصائد: شکار کا شکاری کو فریب سے مارنے کا

موقع دینا۔ افروز فلانا بشئ: خاص کرنا اور
کسی کو شریک نہ کرنا۔

فرد تفرزة: علیٰ براہ: قتل حکم لگانا۔

فارد: شریکہ: الگ کرنا۔

افترز: الامن: اپنے لوگوں کے مشورہ کے
بغیر فیصلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "افترز امره

ذون اهل بيته" اس نے اپنے معاملہ میں
اپنے گھروالوں سے مشورہ کے بغیر فیصلہ کر لیا۔

تفازر: الشريكان الشركه: شرکت کو
منح کرنا۔

الفرد: س دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی دو
ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔

الفردة: سخت زمین میں شگاف۔

الفرد: نبلہ کاراستہ۔ ساتھی کیلئے علیحدہ کیا ہوا
حصہ۔ ج افراز و فرورز۔

الفردة: جدا کی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔

الفردة: باری۔ فرصت۔ نبلہ کاراستہ۔
الفارز: فا۔ کلام فارز: صاحب واضح

کلام۔ لسان فارز: فیصلہ کن زبان۔
الافروز: من الحائط: کارنس ج افاريز

(دخیل)
الفرد ذق: روٹی جو تور میں گر پڑے۔ روٹی

کے ٹکڑے۔ گوندھے ہوئے آٹے کے
پڑے۔ واحد (فرد ذقة) اور اس کی تغیر

فروزق یا فریزد ج فرازق اور قیاس کے
لحاظ سے فرازة الفردوزق: لقب ایک مشہور

شاعر کا۔
تفروزع: الکلا: گٹھا گٹھا ہونا۔

الفروزع: بولہ۔
الفروزعة: فروع کا واحد۔ گھاس کا گٹھا ج

فراوع۔
فردله فردلة: قید کرنا۔

الفروزل: قید۔ چھڑی لگانا۔ لہا کاٹنے کی
چینی۔

الفروزل: موٹا آدمی۔
تفروزن: البیدق: شطرنج میں پیادہ کا ملکہ بنتا۔

الفروزان: شطرنج کی ملکہ ج فروزان
(دخیل)

فروس (ض) فرسا و افترس: الاسب

فروسة: گردن توڑ دینا۔ شکار کرنا۔ فروس
الذبيحة رگ گلوکٹ دینا۔ گردن جدا کرنا

الشئ جدا جدا کرنا۔
فروس (ض) فراسة: بالعين: ظاہر نظر

سے باطن کو معلوم کرنا۔
فروس (ض) فراسة و فروسة و

فروسة شہسوار میں ماہر ہونا۔
فروسة الشئ: پھانسنے کیلئے پیش کرنا۔

افروس: عن بقیته مال: مال لینا اور کچھ باقی
چھوڑ دینا الراعی: گلے کی حفاظت سے غافل

ہونا فلان الاسب حماره: اپنی نجات کیلئے
گدھے کو پھانسنے کیلئے شیر کے سامنے کر دینا۔

تفروس: فيه: نظر جھا کر دیکھنا۔ فيه الخیر:
کسی کے اندر علامت سے خیر پہچاننا الرجل:

جگتف شہسوار ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے فلان
ليس بفارس و لكنه يتفروس فلان

شہسوار نہیں ہے لیکن وہ شہسوار بنتا ہے۔
الفروس و فارس: مملکت فارس کے

باشندے ان کے ملک کو (فارس) اور ان کی
زبان کو (الفارسیہ) کہتے ہیں۔

الفارسی: فارس کی طرف نسبت۔ فروس
کا واحد۔

الفروس: ایک قسم کی گھاس۔
الفروس: گھوڑا۔ گھوڑی۔ مذکر کو حصان اور

مؤنث کو حصح کہتے ہیں اور باوقات مؤنث
کے لیے (فرسة) بھی استعمال کرتے ہیں اور

فروس کی جمع غیر لفظ سے خیال آتی ہے اور اسی
سے افراس ہے۔ تین گھوڑوں کیلئے ثلاثہ

افراس اور تین گھوڑیوں کیلئے ثلاث افراس
کہیں گے اور جمع ثروت فروس آتی ہے۔ اور

عرب کا قول "هما كفروسي رهان" مثل
ہے ان دو شخصوں کیلئے جو کسی ایک مقصد کی

طرف مسابقت کریں اور کوشش اور فضل میں
برابر ہوں۔ فروس البحر: ایک دریائی جانور

ہے جو بڑے جسم اور بڑے سر کا ہوتا ہے اور اس
کی ٹانگیں اور دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی ہر

ٹانگ میں چار کھر ہوتے ہیں اور اس کو فروس
ٹانگ میں چار کھر ہوتے ہیں اور اس کو فروس

النہر اور جاموس النحر بھی کہتے ہیں۔
 الفُرْسَةُ: تصفیر فروش کی مؤنث کیلئے۔
 الفُرْسَان: تصفیر فروش کی مذکر کیلئے۔
 الفُرْسَةُ: فرس کا اسم مرؤ (والفُرْسَةُ)
 چھوڑا جو گردن میں ہوتا ہے۔
 الفارس: فا۔ گھڑ سوار۔ گوڑے والا ج
 فُرسَان و فُورِاس اور کہا جاتا ہے "هُوَ
 فَارِسٌ بِالْأَمْرِ" وہ معاملہ کا جاننے والا ہے۔
 الأفرس: شہسواری کا ماہر۔ زیادہ سمجھدار۔
 أبو فراس و الفُراس: شیر۔ الفُراس:
 ذکی۔
 الفُرْسَان: مقبول۔ کہا جاتا ہے نُورُ فُرْسَانٍ
 و بَقْرَةٌ فُرْسَانٍ ج فُرْسَانِي. حلقہ جو رتھی کے
 سرے پر باندھا جاتا ہے۔
 الفُرْسَانِيَّة: فریس کا مؤنث۔ جس کو شیر وغیرہ
 پھاڑیں۔
 الفُراس و الفُورِاس: شیر۔ موٹی گردن
 والا۔ الفُورِاس: بہت زیادہ بہادر۔ دیہاتوں
 کا چودہری۔ ج فُورِاسِيَّة.
 المَفْرُوس: گردن کے چھوڑنے والا۔
 الفُرُوس: شیر۔
 فُورَسَخُ فُورَسَخِيَّة: الشئی: کشادہ ہونا۔
 (و تَفْرَسَخُ و اِفْرَسَخُ، البَرْدُ او
 المَرَضُ: سردی یا بیماری کی تیزی کا کم ہونا۔
 تَفْرَسَخُ و اِفْرَسَخُ الهم عنہ: غم کا دور
 ہونا۔ نازل ہونا۔
 الفُورَسَخُ: راحت۔ سکون۔ مدت طویل۔
 ہمیشہ رہنے والی چیز۔ شگاف۔ فُورَسَخُ الطَّرِيقِ
 تین میل ہاشی۔ اور بقول بعض بارہ ہزار گزار اور
 یہ تقریباً آٹھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے ج
 فُورِاسِخ (کلمہ فارسیہ ہے) سراویل
 (مَطْرَسَخَةٌ) کشادہ ٹھلور۔
 الفُورِسَان: اُونٹ کے کمر کا کنارہ (مؤنث) ج
 فُورِاسِين.
 رَجُلٌ (مَفْرَسَانُ) الوجہ: پُر گوشت چہرہ
 والا مرد۔
 فُورَشُ (ن ض) فُورَشَا و فُورِاشَا: الشئی:

بچھانا فَلَانًا أَمْرًا: کشادہ کرنا الرَّجُلُ: جموت
 یوں الاَمْرُ: پھیلائے۔ ارادہ کرنا۔ تیار ہونا۔
 فُورَشَا: النَّبَاتُ: نباتات کا زمین پر پھیلانا۔
 فُورَشُ: فَلَانًا بِسَاطًا: کسی کیلئے بچھونا۔ بچھانا۔
 فُورَشُ الدَّارِ: فرش لگانا۔ اینٹ اور پتھر بچھانا
 الزُورُعُ: پھیلانا اور پتوں کا بڑھنا المَطَانُو: پرندہ
 کا پھڑ پھڑانا۔
 أفرشہ: بِسَاطًا: کسی کیلئے بچھونا۔ بچھانا۔
 أفرش السیف: تلوار کی دھار کا پتلا کرنا۔ تیز
 کرنا۔ الشجرُ: درخت کا بگی ٹہنی والا ہونا۔
 عنہ: علیحدہ ہونا زور ہونا الرَّجُلُ: غیبت کرنا
 اور بُر ی بات کہنا المَمْكَانُ: زیادہ بڑنے والا
 ہونا الشَّاةُ لذبح: زمین پر زور کرنے کیلئے لانا
 الرَّجُلُ: بچھونے والا ہونا۔
 تَفْرَشُ: الطائرُ: پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔
 اِفْرَشُ: ذِرَاعِيَّة: بازو پھیلانا الشئی:
 رو دنیا الطَّرِيقِ: چلنے الرَّجُلُ: پچھاڑنا اَنْرُ
 فَلَانٍ: پچھا کرنا عَرْضَةً: بے عزتی کرنا
 الشَّجَّةُ الدِّمَاغُ: بغیر ٹوٹنے کے پھٹنا
 المَالُ: غضب کرنا الشئی: پھیلانا۔
 الفُروش: سر۔ بچھونا۔ کشادہ زمین چھونے
 چھونے درخت چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ چھونے
 چھونے اُونٹ (اور اس معنی کے لحاظ سے حج
 نہیں) جموت۔ کھیتی۔ جبکہ اس کے تین پتے
 نکل آئیں۔ وہ جگہ جہاں بکثرت نباتات ہوں۔
 گائے بکری جوڑنے کے قابل نہ ہوں۔
 الفُروشَةُ: فُورَشُ کا اسم مرؤ عِنْدَ العامَّةِ:
 بچھونا۔
 الفُروشَةُ: بچھانے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے هُوَ
 حَسَنُ الفُروشَةِ یعنی وہ اچھی حالت میں بچھا
 ہوا ہے۔
 الفُروش: زمین پر خشک شدہ کچھڑ میں
 البیضاء: شراب کے بلبلے۔ زبان کے چمپے دو
 سرخ رنگیں اڈولوے جس سے لگام کو باندھتے
 ہیں الفُروش من الرجال: بہت ہلکا چمکا
 مرد۔
 الفُروش: بچھونا۔ گھونسل۔ مُر کی جڑ میں

زبان کی جگہ اَفْرَشَةٌ و فُورُوش.

الفُروش: بہت بچھانے والا۔

الفُروشَةُ: تکی ہڈی یا پتلا لوہا۔ تھوڑا پانی من

القفل: تالے کا جھڑ۔ کندھوں کا اٹھا ہوا حصہ

اور (فُروش الدماغ) کا واحد ہے اور فُروش

الدماغ ان تکی تکی ہڈیوں کو کہتے ہیں کہ جو

کھوپڑی تک پہنچتی ہیں۔ الفُروشَةُ: پروانچا

او چھی طبیعت کا مرد۔ کہا جاتا ہے "مَا هُوَ إِلَّا

فُروشَةٌ" اور یہ حقارت اور حسرت کے لیے

مثل ہے ج فُورَشُ.

الفُرْسَانُ: مِنَ النَّبَاتِ: زمین پر پھیلی ہوئی

تیل۔ گھوڑی جس نے حال ہی میں سچے دیا ہو۔ ج

فُورِاش.

المَجْفُوش: بچھونا۔

المَجْفُوشَةُ: کجاوہ پر بچھانے کا چھوناسا بچھونا۔

ج مَفْرَاش.

المَقْفُوشُ: بنے کہا جاتا ہے "جَمَلٌ مَقْفُوشٌ"

بغیر کوبان کے اُونٹ۔

فُورَشُ فُورَشِيَّة و فُورَشِيَّة: نا نکلیں کشادہ

کرنا ڈھیلے طریقہ سے رانوں کو زمین سے ملا کر

بیٹھنا۔ قریب قریب کودنا۔

الفُورِشاح: بے بارش کا ہول۔ بے ڈول بلند

عورت۔ چوڑا کمر۔ کشادہ زمین (الفُورِشِيح)

عضو تاسل۔

فُورَصُ (ن) فُورَصَا: الشئی: کاٹنا۔

الجلدُ: چیرنا۔ پھاڑنا الفُورَصَةُ: فرمت پانا۔

فُورَصُ (ض) فُورَصَا: الرَّجُلُ: رگ گلو پر

مارنا۔ شانہ کے گوشت پر مارنا۔

فُورِصُ فُورِصَا و فُورِصَا: شانہ کے گوشت

میں درد ہونا۔

فُورِصُ: النعلُ: جوتے پر لوہے کی نوک سے

مقش کرنا۔

فَارِصَةٌ مَفَارِصَةٌ: فِي الشئی: نوبت

ہو بت کرنا۔

الفُورِصَةُ الفُورِصَةُ: فرمت ملنا۔ اَفْرِصُ

و تَفْرِصُ الفُورِصَةُ: مہلت پانا۔

تَفَارِصُ: القَوْمُ البَنُو: قوم کا کنوئیں پر

باری باری آتا۔

افترض الفُرصة. موقع پاتا۔ فرصت کو
نعمت جانا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ لَا يَفْتَرِضُ
إِحْسَانَهُ وَبِرَهُ" یعنی فوت ہونے کا خوف
نہیں کیا جاتا ہے۔

الفُرصة۔ باری اور یہ اسم ہے۔ تَفَارِصُ
القَوْمِ البتر کا۔ کہا جاتا ہے جَاءَتْ
فُرُصَتَكَ مِنَ السَّقِيِّ یعنی تمہاری باری
آئی۔ وقت مناسب انتہز الفُرصة۔ فرصت
کو نعمت جانا۔ ج فرض

الفُرصة والفُرصة والفُرصة۔ اُونِ يَا
رُؤْيَى كَالكَلْبِ

الفَرِيضِ۔ پانی کا شریک کہتے ہو "هُوَ
فَرِيضِي" گلے کی رگیں۔ واحد۔ (فَرِيضَةٌ)

الفَرِيضَةُ۔ باری۔ پہلو اور موٹھے یا پستان
اور موٹھے کے درمیان کا گوشت جو خوف
کے وقت اچھلنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارتعدت
فَرِيضَةً یعنی بہت گھبرایا "هُوَ ضَخْمُ
الفَرِيضَتِهِ" یعنی وہ جری و بہادر ہے۔ ج
فَرِيضٌ وَفَرَايِضٌ

المَفْرُوضِ۔ لوہا یا چاندی کاٹنے کی چھینی ج
مَقَارِصِ

المَفْرُوضِ۔ لوہا یا چاندی کاٹنے کی چھینی ج
مَقَارِصِ

الفَرِصَادِ۔ سرخ رنگ۔ قوت یا قوت کا

درخش۔
وَالْفَرِصِدُ وَالْفَرِصِيدُ۔ گھوڑا ج۔ فَرِضٌ
(ض) فَرِضًا۔ الخَشْبَةُ وَفِيهَا: لَكْرِي كَالْمَاءِ

جھینا الامر۔ فرض کرنا۔ معین کرنا۔
لَمْ يَكْذِبْ فِي الدِّيْوَانِ: عطیہ دینا۔ تنخواہ مقرر

کرنا لَفْلَانَ كَذَا: فرض مقرر کرنا لہ: وقت
معین کرنا اللَّهُ الْإِحْكَامُ عَلَى عِبَادِهِ:

واجب ٹھہرانا۔
فَرُوضَتُ (ض) وَفَرُوضَتُ (س) فَرُوضًا
وَفَرَاوضَةً: البقرة: کاتے کا عمر رسیدہ ہونا۔

صفت (فَارِضٌ)

فَرْضٌ (س) فَرَاوضَةً: عِلْمٌ فَرَايِضٌ كَالجَنَّةِ
والا ہوتا۔

فَرْضٌ الخَشْبَةُ لَكْرِي فِي سَوْرَجٍ كَرْنَا۔
الْأَمْرُ وَاجِبٌ كَرْنَا۔

أَفْرَضُ: فَلَانًا شَيْئًا: دِينًا لِفْلَانٍ كَذَا:
فرض قرار دینا۔ أَفْرَضْتُ الْمَاثِيَةَ: نَصَابٌ

کو پہنچانا۔ زکوٰۃ کے قابل ہونا۔
أَفْرَضُ: اللَّهُ الْإِحْكَامُ عَلَى عِبَادِهِ:

واجب ٹھہرانا القَوْمِ: قوم کا ختم ہوجانا الخَشْبَةُ:
فَرْجٌ كَالْمَرْحَلِ

الفَرْضِ: سِ مِنْ الْقَوْسِ: چلہ کمان کی
جگہ۔ ج فِرَاضٌ: الفَرْضُ: اللَّهُ كَابِنْدُولٍ پَر

مقرر کیا ہوا قانون۔ اپنے پر لازم کی ہوئی چیز
عَلَيْهِ: تنخواہ۔ تنخواہ دار فَوْجِ ج فَرُوضٌ

وَفِرَاضٌ
الفَرْضِ: كَاتٌ۔

الْإِفْرَاضُ: مَنْطِقِيّوْنَ كَعِ نَزْدِكِ: قَضَايَا كَعِ
بِرْعَاسِ طَرِيقٍ فِي سَعِ اِيكِ طَرِيقٍ۔

الفُرُوضَةُ: مِنْ النُّهْرِ: دَرِيَا كَادِهَانَ: لَكْرِي
جس میں دروازہ کی چول ہو مِنْ النُّهْرِ:
بَنْدَرِگَاهِ مِنْ الْقَوْسِ: كَمَا سِرَاجِ تَانَتِ

لِگانے کیلئے کاٹا جائے مِنْ الدَّرَاةِ: دَوَاتِ فِي
سَیَاہِ كِي جگہ۔ فَرُوضَتُهُ الجبلِ: پھاڑ کے وسط

کی پست جگہ ج فَرُوضٌ وَفِرَاضٌ:
الفَرَاضِ: كِبْرًا: دَرِيَا كَادِهَانَ۔

الفَارِضِ: قَادِ: مَوَانِ: پَرَانَجِ فَرُوضٌ مَوْنِثٌ
فَارِضَةٌ ج فَارِضَاتٌ وَفَوَارِضٌ:

وَالْفَرُوضِيُّ وَالْفَرِيضُ وَالْفَرَاوضُ عِلْمٌ
فَرَايِضٌ كَالجَانِئِ وَاللَا۔

الفَرِيضَةُ: فَرْضٌ: زَكُوٰةٌ: مَقْرَرٌ كَرُوْدَةٌ: صَدَقَةٌ
ج فَرَايِضٌ عِلْمُ الْفَرَايِضِ: وَهُوَ عِلْمٌ فِي جَسْمِ

وَارِثِيْنَ كَعِ حَصَصِ يَمَانِ كَعِ جَائِيْنَ۔
أَصْحَابُ الْفَرَايِضِ: وَهُوَ وَرِثَةُ جِن كَعِ حَصَصِ

مقرر ہیں۔
المَفْرُوضِ: وَالْمَفْرُوضِ: كَاتِئِ كَعِ اَوْزَارِ۔
المَفْرُوضِ: سِ اللّٰهُ كَالْحَكْمِ جُوْبِنْدُولٍ پَرِ وَاوَجِبِ

ہو۔ کانا ہول۔ محدود۔

الفَرِضُ: مَوْضِعٌ يَوْمِيٌّ يَكْرِي۔

فَرُوطٌ (ن) فَرُوطًا: آگے بڑھنا۔ مَقْدَمٌ
هُوَ فَرُوطًا فِي الْأَمْرِ كَوَاتِي كَرْنَا: فَرُوطٌ مِنْهُ

الْقَوْلُ بِغَيْرِ سَمْعٍ يَوْمِيٌّ كَمَا مِنْهُ شَيْءٌ يَأْتِي
رَهْنَا عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ: يَمِيْشُ كَرْنَا: وَرُحْدُ كَرْنَا: وَرُحْدُ

سَعِ مَزْرَا فَرُوطٌ عَلَى فُلَانٍ جَلْدِي كَرْنَا: اَوْرُ
تَكْلِيفٌ دِيْنَا: فَرُوطٌ غَابَ: هُوْنَا: فَرُوطٌ اَلِيْهِ

رَسُوْلًا: تَقَاوَدَ بِيْحِيْنَا: اَوْرُ جَلْدِي كَرْنَا: وَلَدْنَا:
جَمُوْنَا: يَمِيْشُ مَرْنَا۔

فَرُوطٌ (ن ض) فَرُوطًا وَفَرَاوَةً الْقَوْمِ:
گھاس پانی کی طرف قوم سے بیلے جانا۔ صفت

(فَارِطٌ) جَمْعُ فَارِطُوْنَ وَفَرَاوَةٌ
فَرُوطٌ: الشَّيْءُ وَفِي الشَّيْءِ ضَالِعٌ كَرْنَا:

مَتَرَقٌ كَرْنَا فِي الشَّيْءِ كَوَاتِي كَرْنَا: عَاجِزِي
كَرْنَا: فَرُوطُهُ: جَمُوْرُو دِيْنَا: اَوْرُ آگے بڑھ جانا۔

مَرَجٌ يَأْتِي جَمُوْرُو دِيْنَا: اَوْرُ حَصَصِ نَهَلَتْ
دِيْنَا۔

اَلِيْهِ رَسُوْلًا: تَقَاوَدَ بِيْحِيْنَا: اللّٰهُ عَنْهُ مَا
يَكْرَهُ: دَوْرٌ كَرْنَا: بَنَانَا: دَفْعٌ كَرْنَا۔

أَفْرَطٌ: جَانِبٌ زِيَادِيٌّ اَوْرُ حَصَصِ بَرَهْ جَانِبِ
جَلْدِي كَرْنَا رَسُوْلًا: تَقَاوَدَ بِيْحِيْنَا: الْأَمْرُ:

بَجُوْلَانِ اَوْرُ جَمُوْرُوْنَا: الْإِنَاءُ: بَرْتَنٌ لِرِوَابِ يَمْرُنَا
بِيْدِهِ: اِلَى السَّهْفِ لِيَسْتَلَهُ: تَلَوْرٌ كَمِيْشِيْنَ فِي

جَلْدِي كَرْنَا عَلَى الرَّجْلِ: طَاقَتِ سَعِ زِيَادَهُ
بُوْجُوْرَانِ فُلَانٌ وَلَدْنَا: نَابِلُجٌ كَعِ كَادَفَاتِ يَأْتِي:

الشَّيْءِ بَجُوْلَانِ: جَمُوْرُوْنَا: كَمَا جَاتَا سَعِ "مَا
أَفْرَطُ مِنْهُمْ أَحَدًا" یعنی کسی کو نہیں چھوڑا۔

فَارِطُهُ فَرَاوَةٌ وَمَفَارِطَةٌ: سَبِيْقَتِ لَعِ جَانِبِ:
پَالِيْنَا۔

تَفَرَطٌ: الشَّيْءُ نَوْتِ مَزْرَا جَانِبِ الْفَرَسِ
الْحَيْلِ: مَجْمُوْرَةٌ كَالسَّابِقِ: هُوْنَا: آگے بڑھ

جانا۔
تَفَارِطٌ: آگے بڑھنا الْقَوْمِ: آگے بڑھنے

کی کوشش کرنا الشَّيْءِ نَوْتِ كَاجَاتَا: بَنَانَا: كَمَا
جَاتَا سَعِ "تَفَارَطَتِ الصَّلَاةُ عَنْ رَقِيْبَتِهَا"

یعنی نماز اپنے وقت سے منحور ہو گئی تَفَارَطَتِ
الْهَمُوْمُ: عَمُوْرٌ كَاللَّاحِظِ: هُوْنَا۔

إفترط. كملنا.
 إفترط. ولذا: جھوٹے سچے کا مرنا۔
 إليه في الأمر: آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔
 کہا جاتا ہے "فلان لا يفترط إحسانه"
 یعنی فلاں کے احسان کے فوت ہونے کا خوف
 نہیں کیا جاتا۔
 الفرط. من افراطه اسم ہے۔ نیلہ کا سر۔
 پہاڑی کی چوٹی۔ راستہ کا نشان۔ ج افراط
 وأفراط الفرط: وقت اور کہا جاتا ہے آنتہ
 فرطاً: میں اس کے پاس چند دن کے بعد آیا
 اور یہ پندرہ دن سے زائد اور تین دن سے کم
 نہیں ہوتا۔ آتیک فرط يوم أو يومين
 یعنی ایک یا دو دن کے بعد آؤں گا "ولا القاه
 إلا في الفرط" یعنی چند ایام میں ایک مرتبہ
 ملوں گا۔
 الفرط. دامن کوہ۔
 أفراط الصباح: صبح کی پہلی شعاعیں۔
 الفرط. پانی کی طرف قوم سے آگے بڑھنے
 والا۔ اس میں واحد جمع برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے
 رجل فرط قوم فرط اور اسی سے ہے "أنا
 فرطكم على الحوض" الفرط: پہلا
 پہنچا ہوا اجر۔ جلد بازی۔ وہ کام جس میں کوتاہی
 کی جائے۔ تاباغ سچے۔ کہا جاتا ہے "سبقه
 فرط كثير" تاباغ سچے مر گئے اور مردہ سچے
 کے جنازہ کی دعائیں۔ کہتے ہیں ((اللهم
 اجعله لنا فرطاً)) یعنی اے اللہ اس کو
 ہمارے لیے اجر بنا دے جو ہم سے پہلے پہنچ
 جائے۔
 الفرط. چھوڑا ہوا کام۔ حد سے گزرا ہوا، حد
 سے تجاوز، ظلم و زیادتی۔ تیز گھوڑا جو سارے
 گھوڑوں سے بڑھ جائے۔
 الفرط والفرط. ٹکنا اور آگے بڑھنا کہا
 جاتا ہے "هو ذو فرط في البلاد" یعنی
 بہت سفر والا ہے۔
 الفرط والماء الفرط. پانی جو چند
 قبیلوں کے درمیان مشترک ہو اور جو پہلے پہنچ
 جائے اسی کا ہو جائے۔ بشر فرطاً: بھی کہا

جاتا ہے یعنی مشترک کنواں تکلم فرطاً:
 بے کلمے بولنے والا۔
 مفراط البلاد: اطراف بلاد۔
 فرطح فرطحة الشئ: چوڑا کرنا۔
 رأس فرطاح ومفراطح: چوڑا سر۔
 فرطس الخنزير: ناک لمبی کرنا۔
 فرطوسة وفرطيسة: سور کی ناک۔
 الفرطيسة: ناک کا ہانسہ۔ من فرطاطيس:
 الفرطاس: چوڑا۔
 فرع (ف) فرعاً وفرعاً: الجبل: پہاڑ
 پر چرھنا الوادي: وادی میں اترنا الارض:
 زمین میں چکر لگانا القوم: قوم سے شرافت اور
 جمال میں فاتح ہونا الفرس باللحم:
 گھوڑے کو گام کھینچ کر سر پر اوسمہ بالعضا:
 سر پر لاٹھی مارنا بین القوم: روک بن جانا یا
 اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا أَوْلُ صَيْدِ
 فِرْعَانَ" پہلا شکار ہے جس کا خون گرایا گیا ہے۔
 فرع (س) فرعاً: کثرت سے ہالوں والا
 ہونا۔ صفت (افرع) مؤنث فرعاء ج
 فرع.
 فرع في الجبل: پہاڑ پر چرھنا۔
 من الجبل: پہاڑ سے اترنا بينهم تقریب کرنا
 المسائل من هذا الاصل: فروغ کا استنباط
 کر لینا الارض: زمین میں چکر لگانا۔
 أفرع من الجبل: پہاڑ سے اترنا بالقوم:
 قوم کے پاس نازل ہونا الشئ: طویل و بلند ہونا
 الأمر: شروع کرنا اللحم الفرس: گام کا
 گھوڑے کو لبو لہان کرنا۔ أفرعت الصنع:
 الغنم او فحی الغنم: جو گا بکریوں میں چاہی
 ڈالنا اور خون آلود کرنا۔ أفرعت الابل:
 اونٹنی کا پہلا سچے جنا القوم من سفرهم:
 وقت سے پہلے سفر سے واپس آنا۔
 الارض: زمین میں چکر لگانا الفرعة: پہلا
 سچے بیج کرنا اھلہ: نکیل ہونا۔
 حاجتہ او سفرة: شروع کرنا (افرع)
 بفلان: پکڑا جانا اور قتل کیا جانا۔
 فرعة: کفایت کرنا اور تکبیر کرنا۔

افترع البکر: بکارت زائل کرنا۔
 تفرع القوم: گالی دینا۔ فاتح ہونا۔
 الشئ: بلند ہونا۔ تفرعت الاغصان:
 ٹہنیوں کا بہت ہونا المسائل: اصول سے
 متفرع ہونا الشئ علی الشئ: مترتب
 ہونا۔ منی ہونا۔
 استفرع الشئ: شروع کرنا الرجل:
 پہلے سچے کو بیج کرنا۔
 الفرع: سر میں کھل شئ: اوپر کا حصہ جو
 اصل سے نکلا ہو جیسے فرع الشجرة:
 منفعت بخش مال۔ الفرع في المسائل:
 العنسية: مسائل مطبوعہ جو کسی اصل سے نکلے
 ہوں۔ فرع المرأة: عورت کے بال فرع
 القوم: سردار رئیس فرع الأذن: کان کا
 اوپر کا حصہ فرع الفروع: جو کئی واحد
 (فرعة) اور کہا جاتا ہے "صربه علی
 فرع عنتی" چوڑے کے اس حصے پر جو بیٹھے
 میں زمین پر لگتا ہے۔ الفرع: گھاٹی کی طرف
 پانی بہنے کی جگہ فرع.
 الفرع اونٹ یا بکری کا پہلا سچے۔ جو کئی واحد
 (فرعة) تقسیم کہا جاتا ہے تراصو
 بالفرع یعنی تقسیم پر راضی ہو گئے۔
 الفرعة: راستہ کی بلندی۔ پہاڑ کی چوٹی ج
 فراع.
 الفراع: فاع خوبصورت۔ بلند۔ پست۔
 الفارعة: مؤنث فارع. فارعة الجبل:
 پہاڑ کا بلند حصہ۔ ج فوارع (فارعة)
 الطريق وفرعاه: راستہ کی بلندی۔
 الجفرع: لوگوں کے درمیان صلح کرانے
 والا ج صقارع.
 المفروع: ہر چیز کا طویل۔ کہا جاتا ہے
 فلان مفروع الكسف" یعنی فلاں چوڑے اور
 بلند موٹھے کا ہے۔
 فرعن فرعنة الرجل: تکبیر کرنا۔ چالاک
 ہونا۔
 تفرعن النبات: لمبی اور قوی ہونا۔ فلان
 علینا: سرکشی اور ظلم کرنا۔ فراعة کے اخلاق

الشعر: بال میں مانگ نکالنا الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

فرق (ن) فروقاً: لہ الطریق: راستہ کا واضح ہونا الأمر لفلان: روشن ہونا۔

فرقت الناقة: اونٹنی کا دروزہ والی ہونا۔ لہ عن الشی: ظاہر کرنا۔

فرق (س) فروقاً: منہ: گھبرانا۔ کہا جاتا ہے ”فرق خیر من حب“ خوف محبت سے بہتر ہے۔

یعنی تم سے لوگوں کا خائف رہنا تمہارے ساتھ محبت کرنے سے بہتر ہے۔

فرق الرجل: موع میں داخل ہونا۔

أفرق: الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

الطائر: پرندہ سے بیٹ کرنا المریض من مرضه: مریض کا صحت یاب ہونا۔

عنه: بکریوں کو ضاع کر دینا۔ کھودینا۔

فرق تفریقاً وتفرقة: الشی: جدا جدا کرنا الرجل: خوف دلانا شعرة بالمشط:

کنکھے سے مانگ نکالنا۔

فارقةً فرافاً ومفارقةً: جدا ہونا۔

فرق تفرقاً وتفرقاً: الفروق وتفرق: ضد ہے تجمع اور اجتماع کی کہا جاتا ہے ”تفرقت بهم الطرق“ یعنی ہر ایک ایک راستہ کو ہولیا۔

أفرق: عنهم: جدا ہونا لہ الطریق: راستہ کا واضح ہونا۔

الفروق: مانگ۔ کتان۔

الفروق: لڑکوں کا گروہ۔ قسم۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔

بکری وغیرہ کا گلہ۔

الفروق: صبح یا ابتداء صبح افرقاً وأفرقاً: الفروق دودانتوں کا فاصلہ فی الخیل بھوڑے کی ایک سرین سے دوسرے کی بلندی اور یہ غیر محبوب ہے۔

الفرقان: سر۔ ہر وہ چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو۔ دلیل۔ مدد صبح (یوم الفرقان) جنگ بدر کا دن۔

والفروق: توراہ۔ قرآن۔ الفروق: ناپنے کا ایک برتن۔

طریق فرنیغ: کشارہ راستہ۔ صرنة فرنیغ: فرنیغ: تلوار کا کشارہ زخم جس سے خون بہے۔

الفرنیغ: مؤنث فرنیغ: زیادہ بانی کا چھال۔

الأفرغ: فارغ۔ مؤنث فرغاً طعنة فرغاً کشارہ زخم۔

الفرغان: کشارہ برتن۔

یزهم (مفرغ و مفروغ) سانچے میں ڈھلا ہوا جس پر ٹیپہ نہ ہو۔

فرس (مستفرغ) بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

انفراغ: بجلی والا جسم۔ نہ بات۔ جسم بجلی کی لہر کا ہلکی گیس میں گزرتا۔

الفرغ: نرم و چکنی زمین۔

الفرغین: ایک سبزی کا نام جو کھائی جاتی ہے۔

الفرغ: لے پر والا۔ گیہوں کا پھکن۔

الفرافص والفرافصة: مضبوطی۔

فر فو فر فو: تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا البعیر: بدن کو جھانٹنا الرجل فی کلامہ: خلط ملط کرنا اور بڑھانا الشی:

جھانٹنا اور حرکت دینا۔ توترا الذنب الشاة: گلے گلے کرنا الرجل نیت کرنا ہے عزت کرنا فلاناً: زیادہ کرنا۔ فر فو الفرس اللجام: نر سے علیحدہ کرنے کے لیے حرکت دینا۔

الفرفر والفرفر: چڑا۔

الفرفر والفرفر والفرافر والفرافر شیر جو اپنے مقابل کو پھاڑ دے۔ بھیر یا بکری یا چنگلی گائے کا چچہ۔ جوان لڑکا۔ الفرافو: بیوقوف۔

بہت بکواس کرنے والا۔

الفرس: بھوڑا اپنے منہ میں لگام کو حرکت دینے والا۔

الفرقار: ایک درخت ہے جس سے پیالے بنائے جاتے ہیں اور جو آگ سے کم جلتا ہے۔

الفرقار: شیر جو اپنے مقابل کو پھاڑ دے۔

فرق (ن ض) فرقاً و فرقانا: بینہما: جدا کرنا البحر: سمندر کو پھاڑنا (فرقاً):

کو اختیار کرنا۔

فرعون و فرعون و فرعون: مصر کے بادشاہ کا لقب۔ شری۔ سرکش۔ ج فراغہ۔

فرغ (ف ن) و فرغ (س) فرغاً و فرغاً: من العمل: کام سے خالی ہونا۔ لہ

و إليه: قصد کرنا الرجل فرغاً: مرنا۔ فرغ ذمہ: رازیاں جانا، مطالبہ نہ کیا جانا من الشی: پورا کرنا۔ تمام کرنا الظرف: برتن کا خالی ہونا (فرغاً) علیہ الماء: برتا۔

فرغ (ک) فراغاً: رنجیدہ ہونا۔ گھبرانا۔ فرغت الطعنة: وسیع ہونا۔ صفت (فرنیغ)

فرغ (س) فراغاً: الماء: پانی کا گرنا۔

أفرغ و فرغ: الماء: پانی گرنا الإناء: برتن خالی کرنا الدماء: خون بہانا۔ کہا جاتا ہے

”فرغ اللہ علیہ الصبر“ یعنی اللہ اس کو صبر دے۔ افرغ الذهب و نحوه: سانچے میں ڈھالنا۔

تفرغ: کام سے خالی ہونا الأمر: کوشش کرنا۔

إفرغ: الماء: اپنے اوپر پانی گرنا۔

استفرغ: تے کرنا مجهوداً لکذا: طاقت صرف کرنا۔

الفرغ: برتن کا کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”هذه طعنة ذات فرغ“ یہ نیزے کا زخم چوڑا ہے۔ خط زدہ زمین۔ ج فروغ۔

الفرغ: فراغت۔ کہا جاتا ہے ”ذهب ذمہ فرغاً او فرغاً“ یعنی اس کا خون رازیاں ملیا۔

الفرغ: فارغ۔

الفرغ: ڈول کا کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ برتن۔ بڑا پیالہ۔ جانور کے ایک طرف کا بوجھ۔ چوڑا نیزہ۔ کشارہ رفتار کا جانور۔ ج افرغہ: کہا جاتا ہے ”رجل فرغ“ یعنی تیز رفتار وسیع القدم مرد۔

الفرنیغ: چوڑا۔ ہوا زمین۔ کشارہ رفتار جانور۔ ج فرغ: رجل فرنیغ: تیز زبان مرد۔

الْفَرْقَةُ لَوُكُوسٍ كِي اِيك جَمَاعَتِجِ فِرْقٍ
 الشَّرْفَةُ وَالْفِرَاقُ جَدَائِلُ
 الْفَرْقُ وَالْفِرْقُ وَالْفَارِقُ وَالْفَارِقُ
 وَالْفَرْقُ بَهْت گھبرانے والا۔ مَوْتِ فَرْقَةٌ
 وَفَرْقَةٌ نَبَتْ فِرْقٌ مَتَفَرِّقُ نَبَاتَاتٍ يَأْ
 جَمُوْنُ جَمُوْنُ جَوْزِيْنِ كُوْنُوْهُنَّ
 الْفَرْوَةُ وَالْفَرْوَةُ وَالْفَارُوَةُ (بِذِكْرِ
 مَوْتِ) بَهْت گھبرانے والا۔ يَزِدُ
 الْفَرِيْقُ رِيُوْزٌ فِرْقَةٌ سَيِّدِيْ جَمَاعَتِجِ
 فَرِيْقُ الْخَيْلِ آغِي بُوْذِيْ وَالْاَكُوْزُجِ
 اَفْرِقَاءُ وَافْرِقَةٌ وَفُرُوْقٌ
 الْفَرِيْقَةُ كَبْرِيُوْ كَارِيُوْزٌ اِيك قِسْمِ كَاكْهَانَا جُو
 زِيُوْ كُو دِيَا جَاتِيْ
 الْاَفْرِقُ مَانِكُ وَالْاَجْسِ كِي دَاوِيْ كِي بَالِي يَأْ
 پِيْشَانِيْ كِي بَالِي مِيْنِ مَانِكُ هُو۔ جِسْ كِي دَانْتِ
 جِدَا جِدَا هُو۔ دِيْنِكُ اَفْرِقُ نَمْرُغِ جِسْ كِي
 كَلْفِيْ شَاخِ شَاخِ هُو۔ تَيْسُ اَفْرِقُ مِيْمِيْذَا كِي
 جِسْ كِي سِيْكُوْ مِيْنِ دُوْرِيْ هُو۔ مَوْتِ
 فَرْقَاءُ
 الْفَارِقُ فَـ مَوْتِجِـ فَاوْفَقَةٌ جِ فَوَارِقُ وَ
 فَاوْرَقَاتِجِ اَبْرَا كَا كَلْبَا جُو بَرَسِ سِي جِدَا هُو۔ دَرُو
 زِيْ مِيْنِ جِتْلَا اُوْتُنِيْجِ فَوَارِقُ وَفِرْقُ وَفُرْقُ
 وَفَرَّاقُ
 الْفَارِقُ هَرُو جِيْزِ جُو حَقِ اُوْرِ بَاغْلِ كِي
 دَرْمِيَانِ فِرْقِ كَرْنِيْ وَالِي هُو۔
 الْفَارُوْقُ هُو فَخْصُ جُو اَمُوْرِ مِيْنِ فَيْصَلِيْ كَرِيْ
 لَقْبُ خَلِيْفِيْ دُوْمِ (بِ) كَا كِيَا جَاتِيْ هِيْ "صَسْمُ
 (تَفَارِيْقُ) مَتَاعِيْجِيْ بَعِيْنِيْ اِسْ نِيْ مَتَفَرِّقُ
 سَامَانِ كُو كَاكْهَانِيْ" "وَاحْذُ حَقْلَهُ بِالْفَتَاوِيْقِ"
 يِعْنِيْ اِسْ نِيْ اِبْنَانِ قِيْمُوْرَا تَقْوُوْرَا كَرِيْ لِيَا۔
 الْمَفْرُوقُ وَالْمَفْرُوقُ مِيْنِ الطَّرِيْقِ رَاَسْتَا كَا
 هُو حَصَّةٌ جِهَانِ سِيْ مَخْتَلَفِ رَاَسْتِيْ كَلْمِيْنِ
 مِيْنِ الشَّعْرِ مَانِكُ جِ مَفَارِقُ كِيَا جَاتِيْ
 وَقَفَّهُ عَلٰى مَفَارِقِ الْحَدِيْثِ يِعْنِيْ اِسْ نِيْ
 بَاتِ كِي وَجُوْهُ اَضْحَرِيْ سِيْ وَاقْفُ كِيَا۔
 الْفَرْقُدُ قَطْبُ شِمَالِيْ كِي قَرِيْبِيْ اِيك رُوْشِنِ
 سِتَارِيْ كَا نَامِ اُوْرِ اِسِيْ كِي بِيْلُوْ مِيْنِ اِيك دُوْسَرِيْ هِيْ

جُو اِسْ سِيْ كَم رُوْشِنِ هُو تَا هِيْ اُوْرِيْ دُوْنُوْ
 فَرْقُدَانِ كِيَا تِيْ
 مِيْنِ الْاَرْضِ نَخْتِ هُو اَرْضِيْ
 الْفَرْقُدُ نِيْلُ كَا كِي كِي جِيْجِ فَرْقُدُ
 فَرْقِعُ فَرْقِعَةٌ وَفَرْقَاعًا تِيْزِ دُوْرَانِ كُوْزِ كَرَانِ
 مَفْتِ (فَرْقَاعِ) الْاَصَابِعِ اَكْطِيَانِ جِيْحَانَا
 فُلَانًا مَرُوْرَانِ
 تَفَرَّقَ اَكْطِيُوْ كَا جِيْحَانِ
 اِفْرَفَقَ اَكْطِيُوْ كَا جِيْحَانِ عَنَّهُ دُوْرِ هُو تَا يَكُو
 هُو
 الْفَرْقَةُ دُوْرِ
 فِرْكُ (ن) فِرْكَا النُّوْبِ بِيْرِيْ كُوْمَانِ
 الشَّيْءُ عَنِ النَّوْبِ كَهَرِيْجَتَا الْجُوْزِ
 وَنَحْوَهُ اَخْرُوْثُ وَغِيْرِهِ كُوْلُ دِلِ كَرِجَمَلَا
 اَتَارَانِ
 فِرْكَةٌ (س) فِرْكَا وَفِرْوَكَا وَفِرْوَكَا وَ
 فِرْكَانَا بَغْضِ رَكْهَانِ اُوْرِ كِيَا گِيَا هِيْ كِي دُوْجِيْنِ
 كِي سَاتْهِيْ مَخْصُوْصِ هِيْ
 فِرْكَتُ (س) فِرْكَا الْاُدُنُ كَانِ كِي جِرَا
 دُحِيْلَا هُو مَفْتِ (فِرْكَةٌ وَفِرْكَاءُ)
 فِرْكَةٌ مَلِيْ مِيْنِ مَبَالِغِ كَرَانِ
 فَاوْرَكَةٌ مَفَارِكَةٌ جَمُوْرَانِ
 اَفْرَكُ السُّنْبُلِ مَلِيْ كِي قَاتِلِ هُو تَا
 تَفْرَكُ جَالِيْ يَكْتَلُوْ مِيْنِ اَكْمَانِ
 (وَإِنْفَرَكُ) مَلَا جَانَا كِيَا جَاتِيْ هِيْ "اِنْفَرَكُ
 مَنَكْبُ فُلَانٍ" يِعْنِيْ فُلَانِ كَا مَوْطَرَا اَكْطَرُ گِيَا
 اِسْتَفْرَكُ الْحَبُّ فِي السُّنْبُلَةِ وَانِيْ كَا
 خُوْشِيْ مِيْنِ نَخْتِ اُوْرِ مَلَا هُو تَا
 الْفِرْكُ بَغْضُ بَغْضِ رُوْجِيْنِ
 الْفِرْكُ جَمَلَا اَتَارَا هُو كِيَا جَاتِيْ هِيْ لُوْزُ
 فِرْكُ
 الْفَارِكُ فَـ اِمْرَاةٌ فَارِكُ شُوْهَرِيْ سِيْ بَغْضِ
 رَكْهِيْ وَالِي جِ فَوَارِكُ
 الْمَفْرُوكُ بَغْضُ رَكْهِيْ وَالِي شُوْهَرِيْ سِيْ بَغْضِ
 رَكْهِيْ وَالِي عُوْرَتِ
 الْفَرِيْكُ مَلَا هُو اِدَانِيْ عَلَيْهِ جُو مَلَا جَانِيْ اُوْرِ گِي
 مَلَا كَرِيَا جَانِيْ

الْمَفْرُوكُ مِيْنِ الْاِبَالِ هُو اُوْنْتِ جِسْ
 كِي مَوْطَرِيْ كِي بِيْزِيْ اِبْنِيْ جِيْجِيْ سِيْ هِيْ گِيْ هُو
 اُوْرِ مَوْطَرَا جَمَلَا گِيَا هُو مِيْنِ الشِّيْبِ بَهْت گِيَا
 رَكَا هُو اَكْطَرُ
 الْفَرِيْكِيَّةُ هُو كِهَانَا جُو جَمَلَا اَسْتَارِيْ هُو نِيْ دَانُوْ
 سِيْ بِنَا يَا جَانِيْ (دَلِيَا)
 الْمَفْرُوكُ مِيْنِ جَمُوْرَا هُو مَبْغُوْضُ
 الْمَفْرُوكَةُ هُو حُلْمِيْ جُو مِيْدِيْ گِيْ اُوْرِ جِيْجِيْ سِيْ
 بِنَا يَا جَانِيْ اُوْرِ اِسْ پَرِ جَلْفُوْرِيْ اُوْرِ بَادَامِ كَبِيْرِ
 دِيْجِيْ جَانِيْ
 اَفْرُمُ الْاِنَاءِ بَرْتِنِ كُو بِيْجَرَانِ
 الْاَفْرُمُ گِرِيْ هُو نِيْ دَانْتِ وَالِي
 فَرْمُ يَفْرُمُ بَرْمُوْثِ كَانِيْ فَرْمُ الْوَلْدِ بِيْجُوْ
 كِي دَانْتِ تَبْدِيْلِيْ هُو تَا الْفَرْمَةُ كُوْشْتِ يَاتِيْ هُو
 كَا كَلْبَا
 الْفَرْمَانُ پَرُوْدِ شَاهِيْ جِ فَرَامِيْنِ
 الْفَرْنُ تُوْرِيْجِ اَفْرَانِ
 الْفَرَانُ تُوْرِيْجِ مَالِكِ رُوْثِيْ پَكَانِيْ وَالِي
 الْفَارَانِيْ رُوْثِيْ پَكَانِيْ وَالِي
 الْفَرُوْنِيْ گُوْلُ مُوْثِيْ رُوْثِيْ وَاحِدِ (فُرُوْنِيَّةٌ) نَخْتِ
 بَرْدِ كَا اَدْمِيْ
 الْفَرْنِكُ جِ فَرْنِكَاتِجِ فَرْنِكُ نَامِيْ مَعْرُوْفِ
 مَلِكِ فَرَانْسِ كَا سَكِيْ
 الْفَرُوْدِ اِتَارَانِيْ تُوْرِيْجِ جُوْهَرِ تُوْرِيْجِ تُوْرِيْجِ
 تَقْشِ وَنِگَارِ كِيَا جَاتِيْ هِيْ "سِيْفُ فَرُوْدِيْ" بِيْ
 مَشِ تُوْرِيْجِ فَرُوْدِيْ الْفَرُوْدِ اِيك قِسْمِ كَا
 كِيْرَا
 الْاِفْرُوْدِ جُوْهَرِ تُوْرِيْجِ تَقْشِ وَنِگَارِ تُوْرِيْجِ
 اِفْرُوْدَاتِ
 فِرُوْ (س) فِرُوْهَا خُوْشِ هُو تَا اَكْرِيْ مَفْتِ
 (فِرُوْ)
 فِرُوْ (ك) فِرَاهَةٌ وَفِرُوْهَةٌ وَفِرَاهِيَّةُ
 مَاهِرِ هُو تَا حَاقِظِ هُو تَا خُوْشِ هُو تَا سَبِكِ هُو تَا
 مَفْتِ (فَارِيَّةٌ) اَفْرُوْ الرُّجُلِ
 جِيْسْتِ وَجَالَاكِ غَلَامِ لِيْ
 اِسْتَفْرُوْ الدَّوَابِ عَمْرُوْ جَانُوْرِ جَمَاهَانِ
 الْفَارِيْ جَا اِكِيْ خُوْبِ كِهَانِيْ وَالِي كِيَا جَاتِيْ

ہے ”رَجُلٌ فَارَةٌ وَجَارِيَةٌ فَارَةٌ“ ج فرّۃ و فرّۃ و فرّۃ و فرّۃ و فرّۃ و فرّۃ الفارۃ۔ مؤنث فارة۔ خوبصورت جوان لڑکی ج فَوَارَةٌ وَفَرَّةٌ۔

الافرة۔ چالاک۔ فرّھد۔ پھولنا۔ فرّھدت نفسه: تکلم ہونا۔

تَفَرَّهَدَ الْغُلَامُ: لڑکے کا موٹا ہونا۔ الفَرَّهْدُ وَالْفَرَّهْدُ وَالْفَرَّهْدُ: موٹا تازہ لڑکا۔

الْفَرَّهْدُ: بکری یا پہاڑی بکری کا بچہ ج فرّہد۔

فَرَّی تَفَرَّیةَ الْحَبَّةِ: جبہ پر پوشین لگانا۔ الْفَرَّی: الفَرَّو: پوشین پہننا۔

الْفَرَّوۃ: مع ہالوں کے سر کی کھال۔ عورت کا سر بند۔ تاج۔ تو اگری۔ مالدار۔ کہا جاتا ہے ”ضربہ علی امّ فرّویہ“ اس کی چندیا پر مار۔ ساکل حاصل۔ اونٹ کا بالوں کا کیل۔

الْفَرَّو: پوشین جو بعض حیوانات کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے۔ ج فرّاء۔ الْفَرَّاء: پوشین کا بنانے والا۔

فَرَّوَزٌ فَرَّوَزَةٌ: مرنا۔ فَرَّی یَفْرِی فَرَّیاً: عَلَیہ الْکَذِبُ: کسی پر جھوٹ باندھنا۔ الْأَرْضُ تَرْمِنُ: زمین میں چلنا۔

الْمَرَادَةُ: توشہ دان بنانا۔ التَّرْفُ: بھل چمکانا۔ فَرَّی وَفَرَّی الشَّیْءَ: کاتنا اور پھاڑنا۔ فَرَّی یَفْرِی فَرَّیاً: مدہوش ہونا۔ تمحیر ہونا۔

أَفْرِی الشَّیْءَ: کاتنا اور پھاڑنا۔ درست کرنا۔ فَلَانًا مَلَامًا: کرنا۔

تَفَرَّی تَفَرَّیاً وَانْفَرَّی انْفَرَّاً: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے ”تَفَرَّتِ الْأَرْضُ بِالْعَبْوَنِ“ زمین میں چشمے پھوٹ پڑے۔

انْفَرَّی انْفَرَّاً: عَلَیہ الْکَذِبُ: کسی پر تہمت لگانا۔ جھوٹ باندھنا۔ الْفَرَّیة: فرّی کا اسم مرہ۔ شور۔ الْفَرَّیة: جھوٹ۔ تہمت۔ ج فرّی۔

الْفَرَّی: پھٹنا ہوا۔ گھڑی ہوئی بات۔ عجیب۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ یَفْرِی الْفَرَّی“ فلاں تعجب انگیز کام کرتا ہے اور اسی سے قرآن میں ہے (لَقَدْ جَنَّتْ سَیْنًا فَرَّیًا) یعنی تم نے ایسا کام کیا جس سے حیرت و تعجب ہے۔ مؤنث فَرَّیة اور کہتے ہیں ”الْفَرَّیة الْفَرَّیة“ یعنی جلدی جلدی۔

الْفَرَّی وَالْفَرَّیة: کشادہ دل۔ الْفَرَّاء: تعجب۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا (أَفْرِی) الْفَرَّی“ یعنی جھوٹوں کا جھوٹ۔

فَرَّ (ن) فَرَّاً: اکیلا ہونا۔ جدا ہونا۔ الطَّیْبُ: بہن کا گھبرا نا۔ ڈھوکا دینا اور غالب آنا۔ ہوش اُڑا دینا۔ عین مکانہ گھبرا دینا اور جگہ سے ہٹا دینا۔

فَرَّ (ض) فَرَّیضاً: التَّحْرُجُ: زخم سے خون پھینکنا۔ فَرَّیضاً: زخم سے خون پھینکنا۔ فَرَّیضاً: مضطرب ہونا اور بھڑک اُٹھنا۔

أَفَرَّ: گھبرا دینا۔ انْفَرَّ: عَلَیہ انْقَاب: ہونا۔ تَفَارَّ: الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

انْمَقَرَّ: ہلکا جانا۔ ذلیل سمجھنا۔ مضطرب کر دینا۔ گھر سے نکال دینا۔ قتل کرنا۔ مِنَ الشَّیْءِ: نکالنا۔ الْفَرَّاء: سر۔ ہلکا پھلکا آدمی۔ نیل گائے کا بچہ ج افَرَّاء۔

الْفَرَّوۃ: خوف و دہشت کی چھلانگ۔ کہا جاتا ہے قَعَدَ (مُسْتَقَرًّا) یعنی غیر مطمئن بیٹھنا۔ فَرَّوَزَانِ (فَرَّوَزاً): پھاڑنا۔ ح کرنا۔ تَرَّوَزاً: بالعصا: لاشع سے پیٹھ پر مارنا۔ الشَّیْءِ مِنْ الشَّیْءِ: ایک چیز کو ایک چیز سے جدا کرنا۔ فَرَّوَزَانِ (فَرَّوَزاً): پھٹنا۔

فَرَّوَزَانِ (فَرَّوَزاً): پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ جانا۔ صفت (أَفَرَّ): فَرَّ وَأَفَرَّ: الشَّیْءُ رِیْزٌ رِیْزٌ: کرنا۔ تَفَرَّرَ وَانْفَرَّرَ: پھٹنا۔ التَّوْبُ: کپڑے کا

بوسیدہ ہونا۔

الْفَرَّوۃ: بکریوں کا چھوٹا سا رپوڑ۔ اور کہا گیا ہے کہ دس اور چالیس بکریوں کے درمیان بکری کا بچہ۔ شیر بہر کا بچہ۔ جز۔ غدود جو ران کے اوپر کے حصے میں نکلے۔

الْفَرَّوۃ: پھٹنا۔ شکاف۔ گویا کہ یہ فرّوۃ کی جمع ہے۔ الْفَرَّوَزُ: پھٹنا۔ شکاف۔

الْفَرَّوۃ: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ۔ کشادہ راستہ۔ ج فرّوۃ۔ الْفَارَّوۃ: ف۔ کالی چوٹی جس میں سرخی ہو۔

کشدادہ طویل راستہ۔ الْفَارَّوۃ: مؤنث فَارَّوۃ۔ ریگستان کا راستہ۔ الْفَرَّوۃ: مؤنث الْفَرَّوۃ۔ بڑا گوشت عورت۔

قَرِيبُ الْبَلُوغِ لڑکی۔ الْفَرَّوۃ: چپٹا کی بادہ۔ الْمَفَّرُورُ: بڑا کبڑا۔ پیٹھ یا سینے میں گانٹھ والا۔

فَرَّعَ (ف) فَرَّعًا وَفَرَّعًا: مُنَّه: خوف کرنا۔ فَرَّعَ (س) فَرَّعًا: دہشت زدہ ہونا۔ خائف ہونا۔ إِلَیْہ: فریاد چاہنا۔ پناہ لینا۔ الرَّجُلُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

مِنْ نَوْمٍ: بیدار ہونا (فَرَّعًا) لِمَخْجِی فَلَانٌ: کسی کے آنے کی وجہ سے تیار کرنا۔ الْفَرَّعُ: خوف دلانا۔ گھبراہٹ ڈور کرنا۔ الْفَرَّعُ الْقَوْمِ: فریاد رسی کرنا۔ مِنَ النُّومِ: بیدار کرنا۔ الْفَرَّعُ: گھبراہٹ ڈور کرنا۔

فَرَّعَهُ: خوف دلانا۔ الْفَرَّعُ: گھبراہٹ ڈور کرنا۔ الْفَرَّعُ: وہ شخص جس سے لوگ گھبرا آئیں۔ الْفَرَّعُ: لوگوں سے بہت گھبرانے والا۔ الْفَارَّعُ: خائف۔ فریاد۔ ج فرّوۃ۔ الْفَرَّعُ وَالْمَفَّارِعُ: خائف۔ فریاد۔ الْفَرَّاعَةُ: بہت گھبرانے والا۔ وہ شخص جو لوگوں کو بہت گھراوے۔ اچکا (کھیت کا) الْمَفَّرِعُ وَالْمَفَّرِعَةُ: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مَفَّرِعٌ أَوْ مَفَّرِعَةٌ لِلنَّاسِ“

فلاں لوگوں کیلئے جائے پناہ ہے یعنی جب ان کو اہم معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی پناہ لیتے ہیں۔ دونوں صیغے واحد جمع مذکر مؤنث کے لیے مستعمل ہیں۔

المَفْرُوعُ بزدل۔ بہادر۔

فَسَاةٌ (ف) فَسَاٌ لاشی سے مارنا ہ غن کذا. روکنا (و) فَسَاٌ تَفْسِينًا وَتَفْسِينَةً (النبؤ) بکڑا پھڑانا۔

فَسِيٌّ (س) فَسَاٌ ابھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ ابھرے ہوئے بیڑو والا ہونا۔ صفت (أَفْسَاءٌ) مؤنث فَسَاءٌ. تَفْسَاءَةٌ.

لاشی سے مارنا۔ تَفَسَّأَ النَّوْبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ بوسیدہ ہونا الْمَرَضُ فِيهِمْ: بیماری پھیل جانا۔

تَفَسَّأَ تَفَسَّأُوا. الرَّجُلُ: پیٹھ اور چوتڑو کا ظاہر کرنا۔

الْفُسْتَقُ وَالْفُسْتَقِيَّةُ پتہ۔

الْفُسْتَقِيُّ پستی رنگ کا۔

الْفُسْتَانُ عورتوں کا ایک لباس بمنزلہ قباء کے کج فساتین۔

فَسَّجَ بيشاب کرنے کیلئے ٹائلیں پھیلانا۔

أَفْسَحَ. غنہ: چھوڑنا۔

فَسَّحَ (ف) فَسَّحًا کشادہ قدم رکھنا۔

لَهُ فِي السَّفَرِ يِرْوَانَهُ رَاهِدَارِي دينا۔

(فَسَّحًا وَفُسُوحًا) لَهُ فِي الْمَجْلِسِ کشادگی کرنا۔

فَسَّحَ (ك) فَسَّحَةً: الْمَكَانَ وَسَّحَ ہونا۔ صفت (فَسَّيْحٌ وَفَسَّاحٌ وَفُسَّحٌ وَفُسَّحُمٌ) مبالغہ کے لیے ميم کی زيادتی کے ساتھ۔

أَفْسَحَ الْمَكَانَ وَسَّحَ ہونا۔

تَفَسَّحَ کشادہ ہونا لہ کشادگی کرنا۔

تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ (و) تَفَسَّحُوا) کشادگی کرو۔

فَسَّحَ الْمَكَانَ: کشادہ کرنا لہ فی المجلس کشادگی کرنا۔

أَفْسَحَ الْمَكَانَ: کشادہ کرنا صَدْرُهُ: کشادہ دل ہونا۔

الْفَسَّحُ ہن۔ پروانہء راہداری۔

الْفَسَّحَةُ: گنجائش۔ مکالموں کے درمیان کشادگی فَسَّحَ.

الْفَيْسَحِيُّ قدم کی چوڑائی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْسِي الْفَيْسَحِيَّ" وہ کشادہ کشادہ قدم رکھ کر چلتا ہے۔

فَسَّحَ (ف) فَسَّحًا جاہل ہونا۔ ضعیف العقل ہونا رای فِلاں فاسد کردینا۔ بگاڑ دینا الْأَمْرُ او الْعَقْدُ: تُوڑ دینا الشی جدا جدا کرنا الْعُقُودُ او الْمَفْصَلُ بکڑی یا جوڑو جوگہ سے ہٹا دینا النَّوْبُ غنہ: کپڑے کو اتار دینا۔

فَسَّحَ (ف) فَسَّحًا وَفَسَّحَ (س) فَسَّحًا الرَّأْيُ: خراب ہونا۔

فَسَّحَهُ فُحٌّ میں مبالغہ کرنا۔

فَسَّحَهُ الْعُقُودَ وَالْبَيْعَ (و) تَفَسَّحًا (الْعَقْدُ او الْبَيْعُ) عقد یا بیع کے توڑنے پر متفق ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَفَسَّحَتْ الْأَقَاوِيلُ" یعنی اقوال متناقض ہو گئے۔

أَفْسَحَ الْكِتَابَ: بھولنا۔

تَفَسَّحَ كَلْرے كَلْرے ہونا الشَّعْرُ عَنِ الْجِلْدِ: بال کا کھال سے جھڑ جانا (اور یہ میت کے لیے خاص ہے)

أَفْسَحَ الْعَرْمَ او الْعَقْدَ: ٹوٹنا۔

الْفَسَّحَةُ: ح کا اسم مرہ۔ کلاں کہا جاتا ہے "رَجُلٌ فَسَّحَةٌ" یعنی کمزور بدن یا ضعیف العقل مرد۔

الْفَسَّحُ وَالْفَسَّيْحُ وہ شخص جو اپنی حاجات میں کامیاب نہ ہو اور اپنے امور کا انتظام نہ کر سکے۔ کمزور بدن یا عقل والا۔ کمزور جس کا ارادہ خنقی یا مصیبت کے وقت ٹوٹ جائے۔

الْفَسَّحُ: میت کے بعد روح جانوروں یا جمادات میں منتقل ہو جاتی ہے جس کو نظریہ آدگوں بھی بولتے ہیں۔ (ہندو عقیدہ کے مطابق)

الْفَسَّيْحُ نَمک لگائی مچھلی۔

فَسَدًا (ض) وَفَسَدٌ (ك) فَسَادًا وَفُسُودًا. خراب ہونا۔ بگڑ جانا۔ صفت

(فَسِيدٌ فَسَدٌ) وَ (فَاسِدٌ)

أَفْسَدَهُ وَفَسَدَهُ. خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

فَاسِدٌ الْقَوْمُ: قوم کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ تَفَاسَدَ الْقَوْمُ: قطع رحمی کرنا۔ آپس میں مخالف ہونا۔

اسْتَفْسَدَ تباہی چاہنا الْقَوْمُ بدسلوکی کرنا۔ الْفَسَادُ ہن۔ کھیل کود۔ ظلماتاللبا۔

الْمَفْسَدَةُ: مصدر فساد یا سبب فساد مَقْاسِدُ.

فَسَّرَ (ض) فَسَّرًا. الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا الْمَعْطِيُّ: ڈھکے ہوئے کو کھول دینا۔

فَسَّرَ (ض) فَسَّرًا وَتَفْسِيرَةً. الطَّبِيبُ طیب کا قارورہ دیکھنا۔

فَسَّرَهُ وَاحٍ ظاہر کرنا۔

تَفَسَّرَ وَاسْتَفْسَرَ. فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ وَاسْتَفْسَرَهُ الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ واضح کرنے کو کہنا۔

التفسير ہن۔ تاویل۔ کشف۔ وضاحت۔ بیان شرح۔ تفاسیر۔ و حرفا التفسیر۔

آنے اور ان میں اے سے مبہم کی تفسیر کی جاتی ہے جیسے "هَذَا عَسْجَدٌ أَيْ ذَهَبٌ" اور ان سے معنی قول کی تفسیر کی جاتی ہے جیسے

"نَادَيْتُكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا"

التفسير ہن۔ مریض کا پیشاب۔ ہر چیز جس سے دوحے پر استدلال کریں۔

الْفَسَّاطُ وَالْفُسَّاطُ وَالْفُسْطَاطُ خیمہ۔ اُون کا خیمہ فَسَّاطِيٌّ وَالْفُسَّاطُ بِالضَّمِّ: ممر قدیم کا علم ہے۔ ایک لغت اس میں فُسْتَاتٌ وَفَسَّاتٌ بھی ہے۔

الْفَيْسَطُ ناخن کا تراشہ واحد (فَيْسِطَةٌ)

الْفُسْطَانُ دیکھئے فُسْتَانُ.

الْفُسْفُسُ وَالْفُسْفَاسُ: بیوقوف۔ ایک بدبودار نباتات فَسْفَاسٌ وَفَسْفَاسٌ.

الْفُسْفَاسُ: چھمر۔

الْفَيْسِفَاسُ: نچے کاری۔ رنگ برنگ کے

رائے والا۔ باطل پر فخر کرنے والا۔ مونا کبیل۔
درخت خروپ۔ پانی رسنے کی جگہیں۔
الفشوش: پانی ٹپکنے والی مشک۔
الفشاش: صینہ مبالغہ۔
الفشیش: آواز اور اسی سے ہے "فشیش
الافعی" سانپ کے کھال کی آواز چلنے میں۔
الفاشوش: ضعیف رائے اور کمزور ارادہ
والا۔
رَجُلٌ مَنفُشٌ (مَنفُشٌ) المنخونین: چھوٹے بانہ
کے ساتھ چھوٹے ہوئے تختوں والا۔
فَشَا (ف) فَشَاً: ناز کرنا۔
أَفْشَاً: بزرگی جتان۔ گردن کشی کرنا۔
تَفَشَاً: المَرَضُ بالقَوْمِ: قوم میں بیماری
پھیل جانا۔
فَشَح (ض) فَشَحًا وَفَشَحًا وَتَفَشَحَ
وَأَفْشَحَ: الرَّجُلُ أَوْ الْبَعِيرُ: مرد یا اونٹ کا
پیشاب کرنے کیلئے ٹانگیں پھیلاتا۔
فَشَحَهُ (ف) فَشَحًا: ظلم کرنا۔ بچوں کے
کھیل میں طمانچہ مارنا۔ فَشَحَ فِي اللَّعَبِ:
کھیل کو دوسری جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا۔
فَشَحَ الرَّجُلُ: جوڑوں کو ڈھیل کرنا۔
أَفْشَطَ الْعُودُ: ترکازی کا ٹوٹ جانا۔
فَشَعَتْ (ف) فَشَعًا: الذَّرَّةُ: چینا کے
اطراف کا سوکھنا۔
أَفْشَاعٌ وَالْفَشَاعُ: امریکی علاقہ کا پودا جس
کی ادویات بھی بنتی ہیں۔
فَشَعَهُ (ف) فَشَعًا: بلند ہو کر ڈھانپ لینا۔
هُ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔ صفت
(فَاشِعٌ) مَوْتٌ فَاشِعَةٌ الشَّيْءُ: وسیع ہونا۔
منتشر ہونا۔
أَفْشَعَهُ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔
فَشَعٌ بِمَعْنَى فَشَعٌ هِ النَّوْمِ: نیند غالب
آنا۔
تَفَشَعُ الشَّيْبُ فِيهِ وَتَفَشَعُهُ: بڑھاپا ظاہر
ہونا البیوت: گھروں میں داخل ہونا۔
الرَّجُلُ: مرنے کھردرے کپڑے پہننا۔
تَفَشَعَتِ الْعُرَّةُ: پیشانی کی سفیدی کا پھیل کر

افْتَسَلَ: كَجُورٍ كَ يَجُورُ كَ يَجُورُ كَ يَجُورُ
كِرْدُورِي جَدَّ لَكَ نَا۔
الْفَسَالَةُ مِنَ الْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ: لوہے
کے ذرات جو کوٹے وقت گریں۔
الْفَسَلُ: سر اگور کا قلم۔ کمینہ بے مورت،
ہر ردی چیز اَفْسَلُ وَفَسُولٌ وَفَسَالٌ
وَفَسَلٌ وَفَسُولَةٌ وَفَسَالٌ وَأَفْسَالٌ کہا
جاتا ہے "ذَرَاهِمُ فَسَلٌ وَذَرَاهِمُ فَسُولٌ"
الْفَسَلُ: بیوقوف۔
الْفَسِيلَةُ: کججور کا پودہ جو ایک جگہ سے اُکھیر
کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ درخت کا قلم۔
رَجُ فَسِيلٌ وَفَسَائِلٌ رَجُ فَسِيلَانِ
الْفَسُولَةُ: سر۔ فتور۔
الْمَفْسُولُ: رذیل۔ بے مروت۔
فَسَاً يَفْسُو فَسُوًا وَفَسَاءً: بلا آواز کے گوز
کرنا۔
تَفَاسَى: گوز کرنے کے لیے چوڑا ٹھکانا۔
الْفَسَاءُ: سر۔ بلا آواز کے گوز۔ پھسکی۔
الْفَسْوَةُ: ایک مرتبہ کی پھسکی رَجُ فَسَوَاتِ
فَسَوَاتِ الصَّبَاغِ: سانپ کی چھتری۔
الْفَاسِيَّةُ وَالْفَاسِيَاءُ: گمبیر یا رَجُ فَوَاسِ
الْفَسُوُ وَالْفَسَاءُ: بہت گوز کرنے والا۔
الْمَفْسِيُّ: ڈیر۔
الْفَيْسُوْلُوْجِيَا أَوْ الْفَيْزُوْجِيَا: اعضاء کے
کاموں کا علم۔
فَشَن (ن) فَشَنًا: ڈکار لینا۔ آہستہ آہستہ
پھونکنا الوَطْبُ: سر بند کھول کر ہوا نکال دینا۔
کھن نکالنا النَّاقَةُ: اونٹنی کو جلدی سے دوھنا
البَابُ: دروازہ کو جیلہ سے بغیر کنجی کے کھولنا
بَيْنَ الْقَوْمِ: چغل خوری کرنا۔
فَشَنُ السَّقَاءِ: ہوا نکال دیا جانا۔
أَفْشَنُ الْجُرْحُ: زخم کی سوجن ڈھل جانا
اللَّبَنُ: دودھ جاری ہونا الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ:
کامل ہونا أَفْشَنَ الرِّيحُ: دبانے سے ہوا کا
مشک وغیرہ سے ٹکنا عِلَّةُ فَلَانٍ: بیماری کا
زائل ہونا۔
الْفَشَنُ: سر (والْفَشُوْشُ) بیوقوف۔ کمزور

چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں کو جوڑ کر
مختلف اشکال و صورتیں بنانا۔
الْفَسْفَسَةُ: ایک قسم کا گھاس جس کو جانور
کھاتے ہیں۔ اس میں دوسری لفت الْفِصْفَصَةُ
ہے۔ الْفَسْفُوسَةُ: پھسی
فَسَقٌ (ن ض) فَسَقٌ (ك) فَسَقًا وَ
فُسُوًا: حق و صلاح کے راستے سے ہٹ جانا۔
مذکار ہونا۔ صفت (فَاسِقٌ) رَجُ فَسَقَةٌ وَ
فُسَاقٌ وَ فَاسِقُونَ مَوْتٌ فَاسِقَةٌ رَجُ
فَاسِقَاتٌ وَ فَوَاسِقٌ (وَأَفْسَقُ) الرُّطْبُ
عَنِ قِشْرِهِ: پھلکے سے علیحدہ ہونا۔
فَسَقَةُ: فتن کی طرف نبت کرنا۔
الْفِسْقِيَّةُ: حوض۔ وضو کرنے کی جگہ رَجُ
فَسَاقِيٌّ (دخيل)
الْفَسَقُ وَالْفَسَاقُ وَالْفَسِيْقُ: بڑا مذکار۔
اور کہا جاتا ہے "يَا فَسَقُ" یعنی أَيُّهَا الْفَاسِقُ
اور یہ ندا ہی کے لیے مخصوص ہے جیسے یا
خَبِيْثُ
الْفَاسِقِيَّةُ: گزری باندھنے کا ایک مخصوص
طریقہ۔ کہا جاتا ہے "تَعَمَّمَ فَلَانٌ
الْفَاسِقِيَّةُ"
فَسَاقٌ: بروزن نظام عورت کیلئے گال ہے اور
ندا ہی کی صورت میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے
"يَا فَسَاقُ" بمعنی يَا فَاسِقَةَ"
الْفَوَيْسِقَةُ: فاسقہ کی تصویر۔ چوبیلا۔
الْفَاسِقِيَّةُ: اندھی گرائی۔ ضَرْبُ الْمَثَلِ -
تَعَمَّمَ فَلَانٌ بِالْفَاسِقِيَّةِ: فلان اندھی گرائی
میں داخل ہوا۔
رَجُلٌ فُسَيْكٌ: مرد کمینہ۔ کمال۔
فَيْسَلٌ (س) كُوفَسَلٌ (ك) فَسَالَةٌ وَ
فُسُوْلَةٌ وَ فَيْسَلٌ: فرومایہ ہونا، کمینہ ہونا، بے
مروت ہونا۔
فَسَلٌ (ن) فَسَلًا: الصَّبِيُّ: بچے کا دودھ
چھڑانا۔
أَفْسَلُ: الْفَسِيلَةُ: کججور کے پودے کو اُکھیر
کر دوسری جگہ لگانا۔ قلم لگانا۔ أَفْسَلُ وَفَسَلٌ
(ذَرَاهِمَةٌ وَمَنَاعَةٌ) کھونا کر دینا۔

عورت کا پائل کا پردہ بنانا۔ تَفَشَل المَاءُ: پانی بہنا الرَّجُلُ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ: نکاح کرنا۔
 الفِشَل: پائل کا پردہ۔ ہودج کا پردہ۔ ہودہ کے اندر بچانے کا چیز۔ ج فشنول۔
 المِفْشَل: ہودہ کا پردہ۔ ہودہ کے اندر بچانے کی چیز ج مفاشل۔ المِفْشَل: وہ شخص جو غیر قوم میں شادی کرے تاکہ اولاد لاغز نہ ہو۔
 التَفْشِيل: سن۔ تھن میں بقیہ دودھ۔ ج تَفَاشِيل۔
 الأَفْشِينُ ج افاشين: رومی لوگوں کی نماز کا ایک حصہ۔
 فُشَا يَفْشُرُ فُشُوًا وَفُشُوًا وَفُشِيًا خَبْرُهُ او فَضْلُهُ او سِرُّهُ: خبر یا فضیلت یا بھید ظاہر ہونا۔ پھیل جانا۔ فَشَت الماشية چراگاہ میں جانا اُمُورُهُمْ: امور کا متفرق ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَشَت عَلَيْهِ ضِعْتُهُ" اس کی جائیداد کا انتظام بکھر گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو سنبھالے۔
 أَفْشَى اَفْشَاءَ الشَّيْءُ: پھیلا۔ سِرَّة لِفَالَانٍ: ظاہر کرنا الرَّجُلُ: بہت جانوروں والا ہونا۔
 تَفَشَى تَفَشِيًا: المرَضُ القَرْمُ وَبِهِمْ: بیماری پھیلنا۔ تَفَشَت القَرْحَةُ: زخم کا چوڑا ہونا۔
 الفُشَاءُ مويشيوں کی پیداوار اور زیادتی۔
 الفُشِيَانُ: غشی۔
 الفُشُوَّةُ: عورت کی خوشبو کی ڈھیا۔
 الفَاشِيَةُ: فار۔ مَوْنَتُ فَاشِيَّةٌ ج فَوَاشٍ: الفَوَاشِيَةُ: پھیلے ہوئے مویں۔
 التَفْشِيُّ: سن۔ عِنْدَ اَهْلِ العَرَبِيَّةِ: حرف کا پڑھنا۔
 فَصٌّ (ض) فَصًّا وَفُتْصَ: كَذَا مِنْ كَذَا: جدا کرنا۔
 فَصٌّ (ض) فَصِيصًا: الجَوْحُ: زخم کا بہنا العَرَقُ: پسینہ نیکنا الولْدُ: سچے کا آہستہ آہستہ رونا الجُنْدُبُ: نمڑی کا آواز نکالنا۔

آکھ کو گھیر لینا۔
 انْفَشَعَ الشَّيْءُ: کشادہ ہونا۔ بہت ہونا۔ ظاہر ہونا۔
 الفِشْعَةُ: اسم مرء۔ عشق بچان۔ زکھل کا گودا۔ نَاصِيَةٌ (فَاشِعَةٌ وَفُشْعَاءٌ) پیشانی کے پھیلے ہوئے بال جو آکھ کو ڈھانپ لیں۔
 الفُشَاغُ وَالفُشَاغُ: آکاس تیل۔
 الفُشَاغُ: کابل۔
 الأَفْشَعُ: میڈھا جس کی بیگیں دائیں بائیں نکل گئی ہوں۔ رَجُلٌ أَفْشَعُ الأَسْنَانُ: مرد جس کے دانت پر آگندہ ہوں۔ مَوْنَتُ فُشْعَاءَ ج فُشْعُ: جو اپنے ساتھی کا بُرائی سے مقابلہ کرے۔
 المُفْشِعُ: بے خیر۔ بے فیض۔
 فُشْفَشُ: کمزور رائے والا ہونا۔ خوب جھوٹ بولنا۔ غیر کی چیز کو اپنی طرف نسبت کرنا۔
 صَفْتُ فُشْفَاشٍ: ببولہ: پیشاب کرنا۔
 الفُشْفَاشُ: مِنَ التَّوَقُّ: اَوْثَقِي كَمَا جَس دودھ دہونے کے وقت پر آگندہ نکلے۔
 الفُشْفَاشَةُ: نرم چیز۔ کہا جاتا ہے "تَخْرُجُ الرُّبْدَةُ فُشْفَاشَةً"۔
 فُشِقُ (س) فُشْقًا: آدمی کو چھوڑ کر ساری کو دوڑنا۔ آدمی رہے نہ ساری پاناہ: اچانک آنا الطَّبِيُّ: ہرن کا دُور دُور سینگوں والا ہونا۔
 صَفْتُ (أَفْشِقُ) مَوْنَتُ فُشْقَاءَ: فُشِقُ (ض) فُشْقًا: الشَّيْءُ: تُوْرُنَا۔
 فَاشِقَةُ: اچانک آنا۔
 تَفَشَّقُ: بنبوب: کپڑے کو بدھی جیسا بنانا۔
 الفُشِقُ: سن۔ دوڑ۔ بھاگ۔ چپتی۔
 الفُشِكُ: کارتوس۔ واحد (فُشِكَةٌ) دخیل۔
 فُشِلَ (س) فُشْلًا: کمزور و بزدل ہونا۔
 صَفْتُ (فُشَلٌ وَفُشِيلٌ وَفُشِيلٌ) ج فُشْلٌ وَفُشَالٌ: فُشَلٌ (ن) ض) فُشْلًا: لِحِيَّتِهِ: داڑھی پھیکا کرنا۔
 فَشَلْتُ وَتَفَشَلْتُ وَافْتَشَلْتُ: المَرْأَةُ:

ہونا۔

افْتَصَلَ الْوَالِدُ عَنِ الرِّضَاعِ: بچہ سے دودھ چھڑانا النخلة عن موضعها: بچہ کے پودہ کو اٹھیز کر دوسری جگہ لگانا۔

استفصا تفصیل طلب کرنا۔

الفضل سم۔ دو چیزوں کے درمیان روک۔

زمین کے درمیان حد بین الحدین۔ ہر دو

ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔ جوڑی جگہ۔ فرع۔ کہا

جاتا ہے "لِلنَّسَبِ أَصُولٌ وَفُضُولٌ" یعنی

فروع من الكتاب کتاب کا ایک مستقل

کلمہ سال کے چار حصوں میں سے ایک حصہ۔

اور وہ چار حصے یہ ہیں۔ بہار۔ گرمی۔ خریف۔

سردی۔ ج فضل فضل حق و باطل

کے درمیان فیصلہ۔ قول فضل قول حق

یوم الفتح قیامت کا دن اور فضل

الخطاب سے مراد وہ خطاب ہے جو حق اور

باطل کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ اور فصل

الخطاب خطیب کا قول انا بعد بھی ہے۔

الفصلة فصل کا اسم مرث۔ سبھور کا پودہ جو

ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا گیا ہو۔

الفصل شہر بنیاد کے سامنے چھوٹی دیوار

اوتنی یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو

ج فصا و فضلا و فضلا

الفصل تفصیل کا مؤنث۔ ران یا اعضاء جسم

کے گوشت کا ٹکڑا۔ کنبہ۔ ج فصا ل۔ کہا جاتا

ہے "جاءوا يفصلناہم" یعنی تمام آئے۔

الانفصال وہ شخص جو کہ اپنے دین اور ملک

سے الگ ہونے کی طرف میلان رکھتا ہے۔ وہ

فخص جس ہدف جماعت سے اختلاف اور اس

سے خارج ہو جانا ہے۔

الانفصالية دین و ملک سے الگ ہونا۔ الگ

ہونے کی طرف میلان رکھنا۔

الفصال انعام حاصل کرنے کے لیے مدح

کرنے والا۔ سفی فضل تلوار طاع۔

الفصال دودھ چھڑانا۔

الفواصل فا حکم فاصل حکم نافذ۔

الفاصلة مؤنث فاصل۔ ہار کے دو مہروں

افْتَصَحَ. حَقَّةٌ مِنْهُ الْبَنَّاكِلُ حَقٌّ زَرْدَسْتِي لِيْنَا۔

الفصعان ہمیشہ سر کھار کھنے والا۔

الفصحاء چوبہیا۔

الفصفور فاسفورس: اس کی دو اقسام ایک

سفید اور دوسری سرخ۔ یہ زندگی کے لئے

ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں جوڑی جاتی

ہیں۔ اس کے ساتھ کھاد بنائی جاتی ہے۔

فَصْفَصُ فَصْفَصَةٌ الْكَلَامُ جَلْدِي بُولَانَا

الذَّابَّةُ بِفَصْفَصَةٍ كَلَامًا۔

تَفْصُصُ الْقَوْمَ عَنْ فُلَانٍ مَتَفَرِّقْ

ہونا۔

الفصْفَصَةُ ایک قسم کی گھاس ہے جس کو

جانور کھاتے ہیں اور جب تک تر ہو اس وقت

تک یہ نام ہے ج فصافص عوام "فصه"

کہتے ہیں۔

الفصافص قوی اور مضبوط ارادہ والا۔

الفصعل بچھو یا بچھو کا بچہ۔ نالائق۔

فصل (ص) فصلا الشیء جدا کرنا۔

علیحدہ کرنا اور اسی سے ہے "فصل

الخصومات" یعنی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا

بیتھما فاصلا ہونا الولد عن الرضاع بیچے

کا دودھ چھڑانا۔

فصل (ن) فصولا الکرہ انگریزی تیل

میں دانہ بیٹھنا الرجل عن البلد شہر سے

نکل جانا۔

فصل الکلام تفصیل کرنا الشیء فصل

فصل کرنا۔ تمیز۔ ٹکڑے کرنا۔

النؤب سینے کے لیے قطع کرنا۔

القصاب الشاة ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

العقد ہار کے دو مہروں کے درمیان ایک

دوسرے رنگ کا مہرہ ڈالنا۔

فاصل شریکہ جدا کرنا۔

الفصل المولود دودھ چھڑانے کے

قابل ہونا۔

انفصل جدا ہونا عند جدا کرنا۔

تفصل عضو عضو کا ٹکڑا۔

تفصلت الاشياء بعض کا بعض سے جدا۔

الْفُضْحُ. عِنْدَ النَّصَارَى الْبِشْرُ۔ فَضْحُ

الْيَهُودِ يَهُودِيُونَ كَيْ مَسْرٍ نَكْتِي كِي يَادَاغَار

میں عمید۔ کہا جاتا ہے "يَوْمَ فَضْحِ بَابِلَ"

کادن۔

المُفْضِحُ وَضَحٌ۔ يَوْمَ مُفْضِحِ بَابِلَ

کادن۔

فَضْحٌ (ف) فَضْحًا. عَنِ الْأَمْرِ جَانِ

بُوجْهِ كَرَعَلْتِ كَرْنَا. الْعُودُ أَوْ الْمُفْضَلُ:

کڑی یا جوڑ کو اٹھیزنا۔

فَضْحٌ. فُلَانٌ خَرِيدٌ وَفِرْوَحْتِ مِثْلُ نِصَانِ

أَهْمَانَا۔

الْفَضِيحُ وَالْفَضِيحَةُ وَالْفَاصِحَةُ كَبُرُور

عَقْلٍ تَامِبَالِغَةٍ لِيَعِي هِي۔

فَضْدٌ (ض) فَضْدًا وَفِضَادًا. الْمَرِيضُ:

رگ کھولنا لَهُ عَطَاءٌ جَائِرٌ دِيْنَا۔

(و) اِفْتَصَدْتُ رِجْلِي كَهَوْلَانَا۔

فَضْدُ الشَّيْءِ تَهْوِزُهُ سِي بَانِي مِثْلُ بَهْوَانَا۔

أَفْضَدْتُ الشَّجَرَةَ دِرْحَتِ كِي كَوَيْلِ

لِكَلْنَا۔

تَفْضُدُ الدَّمُ خُونٌ بِيْنَا۔ كَمَا جَاتَا بِي "جَاءَ"

بِيَفْضُدُ عَرَفًا أَيَا اس حَالِ مِثْلُ كِي بِيْسِيْنِ بِي رِبَا

تَهَا۔

أَنْفَضَدْتُ الشَّجَرَةَ دِرْحَتِ كِي كَوَيْلِ

لِكَلْنَا. أَنْفَضَدُ الدَّمُ خُونٌ بِيْنَا۔

الْفُضْدَةُ وَالْفَضِيْدَةُ سَبْجُورِ خُونِ كِي سَاتَهَا

مَحْلُوطٌ كَمَا هُوَا۔

الْفَضِيْدُ نَشْرٌ لَگَا هُوَا۔ آتَتْ أَوْ خُونِ مَلَا كَر

بِهَوَانَا هُوَا۔

المِفْضِدُ نَشْرٌ۔

فَضْعٌ (ف) فَضْعًا. التَّمْرَةُ دُو الْكَلْبِيُونِ

سِي دِبَا كَرِ جَمَلَا عَلِيْحِدِهَا كَرْنَا عَمَامَتِهَا عَن

رَاسِهَا بِيْرٍ سِي عَمَامَةٍ أَتَارْنَا الشَّيْءِ نَبْرَمِ

كَرْنَا كِي لِيَعِي الْكَلْبِيُونِ سِي مَلْنَا (و) فَضْعٌ لَهُ

بِكَدَا بِيْنَا۔ فَضْعُ الشَّيْءِ مِثْلُ كَدَا لِكَلْنَا۔

وَفَضْعُ الرُّطْبَةِ دُو الْكَلْبِيُونِ سِي مَلِ كَرِ جَمَلَا

عَلِيْحِدِهَا كَرْنَا۔

أَنْفَعُ الشَّيْءِ مِثْلُ كَدَا لِكَلْنَا۔

کے درمیان ایک دوسرے رنگ کا مہرہ۔
الفاصِلَةُ الصَّغْرَى فِي عِلْمِ الْعُرُوضِ:

علم عروض کی اصطلاح میں تین حروف متحرک اور چوتھا ساکن جیسے صرست اور فاصلہ کبریٰ: چار حروف متحرک اور پانچواں ساکن جیسے ضربکم اور فاصلہ جج میں ایسا ہی ہے جیسے تافیر شعر میں ج فواصل۔

الفَيْضُ حاکم۔ قاضی حق و باطل کے درمیان فیصلہ۔ جو چیز امور میں فیصلہ کرے۔ تلوار قاطع ج فیاض۔ حکم فیصل: حکم نافذ۔ ضربتہ فیصل۔ وہ مار جو دو ہمس اور مقابل کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ الفَيْضِيُّ حاکم۔ ج۔

المِفْصَلُ جوڑ۔ مفاصل۔ المعاصِل جمع شدہ پتھر۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین جس میں ٹھکریزے اور ریت وغیرہ جمع ہو گئے ہوں جس کا پانی صاف اور ٹھنڈا ہوتا ہے ذاء المفاصل۔ وجع مفاصل۔ ایک بیماری جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔

المِفْصَلُ رُبَان۔ جس کی عادت ہی فیصلہ کی ہو۔ المِفْصَلَةُ فِي إِصْطِلَاحِ التَّجَارِينِ۔

دروازے وغیرہ کا قبضہ۔
الْفَاصُولِيَّةُ أَوْ الْفُصُولِيَّةُ: لُوبِيَا زَرْعِي سَبْزِي أَمْرِيكِي فِي زَيْدَةٍ تَرْتَوِي فِي سَوَالِيحِ صَبْزِي فِي أَسْ كِي إِتْرَانِي زَرْعِي تَرْتَوِي فِي قَصْمِ (ض) قَصْمَا، الذَّمْلَجُ وَنَحْوَهُ: بَارُو بِنْدُ وَغَيْرِهِ كُو بَغِيرِ حِدَاكِي هُوَ تَوْتَا الشَّيْءُ كَانَا۔

فَصْمُ الْبَيْتِ: مَكَانُ كَاغْرَانَا۔
أَفْصَمَ عَنْهُ الْمَطَرُ أَوْ الْحَمَى: بَارَشَ يَا بَخَارَ كَا مَنْقَطِعَ هُونَا۔
تَفْصَمَ وَانْفَصَمَ: مَنْقَطِعَ هُونَا۔ بَغِيرِ حِدَاكِي

کے ٹوٹنا۔ پھٹنا۔
الْفَصِيمُ وَالْأَفْصَمُ: تَوْتَا هُونَا۔ كَمَا هُونَا۔ پھٹا ہوا۔

فَصِي يَفْصِي فَضًا: الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ وَعَنْهُ: جِدَا كَرْنَا۔ زَاكِلَ كَرْنَا۔
فَصِي تَفْصِي: اللَّحْمُ مِنَ الْعَظْمِ أَوْ عَنِ الْعَظْمِ: غُوشَتُ كُو بَدِي سَ عَلِيْجِهِ كَرْنَا۔ جِدَا كَرْنَا۔ جَهْرَانَا۔
فَاصَاهُ مَفَاصَاهُ: جِدَا هُونَا۔

أَفْصَى أَفْصًا: خَيْرٌ يَأْشُرُ سَ نَكَلِ جَانَا۔
أَفْصَى عَنَّا السُّطْرُ: مَنْقَطِعَ هُونَا الصَّابِنَا۔
شَكَرِي كِي جَالِ فِي كَبْحَ نَهْ پَھَنَا۔
تَفْصِي تَفْصِي وَانْفَصِي انْفِصَاءً مِنْ أَوْ عَنِ الشَّدَّةِ أَوْ غَيْرِهَا: رِبَانِي پَانَا۔ كَمَا جَانَا هُوَ "تَفْصِي مِنَ الذُّبُونِ" قَرَضَ سَ نَجَاتِ پَانِي الرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ وَعَنْهُ: جِدَا هُونَا تَفْصِي الشَّيْءُ: پُورَا لَ لِيْنَا۔

الفَصِي خُتْكَ اَكُورَ كَا دَانَا وَاحِدًا (فَصَاءَةً) الْفَصِيَّةُ وَالنَّصِيَّةُ: خَيْرٌ سَ مَحْمُودِي شَرِّ سَ رِبَانِي۔ الْفَنَسِيَّةُ مَا بَيْنَ الْحَوِّ وَالْبُرُودِ: اِعْتِرَالِ مَوْسِمٍ۔ كَمَا جَانَا سَ "يَوْمَ فَصِيَّةٍ وَفَصِيَّةٍ وَيَوْمَ مَفْضٍ وَثَلَاةُ فَصِيَّةٍ وَفَصِيَّةٍ وَثَلَاةُ فَصِيَّةٍ" مَعْتَدَلِ دِنِ رَاتِ نَهْ

گرم نہ سرد۔
فَضْ (ن) فَنَسَا الشَّيْءُ: تَوَزَّرَ كَرْمَلَا سَ كَلَا سَ كَرْنَا فَتَسَ خَتَمَ الْكِتَابَ وَالخَتَمَ عَنِ الْكِتَابِ: مَهْرُ تَوْتَا لَوْلُوَّةُ: مَوْتِي بَانَدِهَا الْقَوْمُ: تَوْمُ كُو مَتْرَقَ كَرْنَا۔ تَمَ كَتِبَ هُوَ "فَضَّ اللَّهُ جَسْمَهُمْ" اَللَّهُ اِنِ كِي جَمْعِي كُو مَتْرَقَ كَر دَا۔ وَفَضَّضَتْ حَلْقَةَ الْقَوْمِ: فِي نَ تَوْمَ كَ حَلْقَتَا كُو تَوَزَّرَا دَا مَوْتُوغ: آسُو بَانَا۔
الشَّيْءُ عَلَيَّ الْقَوْمِ: تَقْسِيمَ كَرْنَا۔ مَا بَيْنَهُمَا: كَاكُ دِيْنَا اللّٰهُ فَا: دَانَتُو كُو غَرَا دِيْنَا اُو اَمِي سَ هُوَ "لَا فَضَّ فَوْكُ" اِسْ فَضَّضَ كِيَلِي جُو بَهْتَرِي نَ تَنَكَلُو كَرِي دَا هُوَ كَ تَمَهَارَ دَانَتَا نَهْ كَرَا لَ جَاكِي۔

فَضَّضَ الشَّيْءَ: كَسِي كَبْحَ پَرِ چَانَدِي كَا مَلَعُ كَرْنَا۔ چَانَدِي كَا جَمُولُ چَرَهَانَا۔

أَفْضَ الْعَطَاءُ: بَهْتُ دِيْنَا۔
انْفَضَّ: تَوْتَا انْفَضَّتِ الذَّمُوعُ: آسُو سَبْحَا (تَفْضُّضُ) مَتْرَقَ هُونَا۔

انْفَضَّ الْمَاءُ: پَانِي آسُو آسُو گَرَانَا۔
الْفَضُّ: سِي بَكْهَرِي هُوَ لُوگ۔ كَمَا جَانَا هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَضٌ يَعْنِي شَهْرٌ فِي مَتْرَقَ لُوگِ هُوَ تَمَرُ فَضٌ مَتْرَقَ كَبْجُورِي۔
الْفَضَاضُ وَالْفَضَاضُ وَالْفَضَاضَةُ رِيْزِي۔ كَلَا سَ۔ كَمَا جَانَا هُوَ "طَارُوا فَضَاضًا" مَتْرَقَ هُوَ كَرَا كَرَا۔

الْفَضِيضُ وَالْفَضُضُ: نَهَاتَا وَتِ وَتِ پَانِي جُو اِدْهَرُ اِدْهَرُ بَكْهَرُ جَا سَ۔ ہر مَتْرَقَ وَ مَتْرَقَ كَبْحَ۔ كَمَا جَانَا هُوَ "خَرَجَ فَضُّضٌ مِنَ النَّاسِ" مَتْرَقَ فَرَقَ نَكَلُ الْفَضِيضُ: تَوْتَا هُوَا خُوْشْكَوَارِ پَانِي يَا بَهْتَا هُوَا پَانِي۔

الْفِضَّةُ: چَانَدِي (وَالْفِضَّةُ) زَمِيْنِ جِهَانِ پَتْرَ اِيكِ دُوسَرَا كَ اُو پَرِ بَكْهَرَا هُوَا هُو۔
الْفَاضَةُ: مَوْنَتُ فَاضٍ۔ مَصِيْبَتُ جِ فَوَاضٍ۔

المِفْضَاضُ وَالْمِفْضُ وَالْمِفْضَةُ يَكَا۔
مُوغْرِي۔
الْفَضْفَضَةُ: كَشَادَا۔
الْفَضْفَاضُ: كَشَادَا۔

تَفْضَّحَ الرَّجُلُ عَرْفًا وَبِالْعَرَقِ: پَالِي كِي جَزُوں فِي سَبِيْنِ آتَا اُو تَرَنَ هُونَا الشَّيْءُ وَسَبَّحَ هُونَا جَسَدَهُ بِالشَّحْمِ: مَوْنَا پَا سَ سَبْحَا پَرْنَا۔
انْفَضَّحَ الرَّجُلُ عَرْفًا وَبِالْعَرَقِ: بِمَعْنِي تَفْضَّحَ الْأَمْرُ: وَهِيَ اُو كَرُوْرَ هُونَا الْبَدَنُ: بَدَنُ كَا بَهْتُ مَوْنَا هُونَا الْفَرْحَةُ: زَحْمُ كَا كَشَادَا هُونَا لَافَقُ: ظَاهِرُ هُونَا۔

الْفَضِيضُ: پَسِيْنَا۔
فَضْحَةُ: (ف) فَضْحًا: بُرَايَا ظَاهِرُ

کرنا۔ فَضْحُ الْمُعْمَى: معمر حل کرنا
القَمَرُ النُّجُومُ: چاند کا ستاروں پر غالب
آنا الضُّحُ: صبح طلوع ہونا الضُّحُ فَلَانًا:
روشنی کا غالب ہونا۔

فَضْحُ (س) فَضْحًا: تھوڑا سفید ہونا۔
صَفْتٌ (أَفْضَحُ) مَوْتٌ فَضْحًا: فَضْحُ
فَضْحٌ وَأَفْضَحُ: الضُّحُ: صبح طلوع ہونا۔
أَفْضَحُ النُّخْلُ: درخت خرما کا سرخ یا زرد
پھل والا ہونا۔

فَاضِحًا وَتَفَاضِحًا: ایک دوسرے کو
زسوا کرنا۔ ایک دوسرے کی بُرائیوں کو
ظاہر کرنا۔

أَفْضَحَ الْأَمْرُ: مشہور ہونا الرَّجُلُ زَسَوًا
ہونا۔ بُرائیاں ظاہر ہونا۔

الْفَاضِحُ: فَا - صَح -
الْفَضْحُ: صِينَةُ مَبَاغِدِ -

الْفَضُوحُ وَالْفَضَاخَةُ وَالْفَضُوحَةُ
وَالْفَضَاخُ: زَسَوًا بُرَائِيًا كَمَا ظَاهِرٌ هُوَا -
الْفَضُوحُ: زَسَوًا كَرْنَةً وَاللَّاحِقُ زَسَا شَدِيدًا -
الْفَضِيحُ: مَالٌ يَأْمُوشِي فِي بَدَنِ النَّاسِ -

الْفَضِيحَةُ: مَوْتٌ فَضِيحٌ عِيبٌ - زَسَوًا
جَ فَضَاخِ -

الْمَفْضُوحَةُ: سَبُّ زَسَوًا جَ مَفَاضِحِ -
فَضْحٌ (ف) فَضْحًا: الشَّيْءُ كَهَوِّ كَلِمَةٍ
كَمَا تَوَزَّنَا الرَّاسُ: سِرٌّ كَلِمَاتُ الْعَيْنِ: آكَمٌ
پھوڑنا۔

أَفْضَحَ: الْعَنْقُودُ: اَعْمُورُ كَيْ هَجَمَ كَمَا
نَجَّوْرَةً جَانِي كَيْ قَابِلٌ هُوَا -

الْأَفْضَحُ: ثَوْبٌ كَشَادَةٌ هُوَا - اِنْفَضَحَتِ
الْقَرْحَةُ: بَرْمٌ كَشَادَةٌ هُوَا اَوْ نَجْرًا جَانِي زَيْدًا:
بہت رونا الدلو ڈول کا چھلکانا۔

الْفَضْحُ: الْبُسْرُ: بَنِي كَهْمُورُ كِي نِيذِي بَانَانَا -
فَضْحُ: الْمَاءُ يَأْنِي كِي يَحْتَلِكُ -

الْفَضُوحُ: شَرَابٌ جُو پِيْنِي وَالِي كُو مَسْتِ
بِنَادِي -

الْفَضِيحُ: شِيرَةٌ اَعْمُورُ - كَهْمُورُ كِي شَرَابِ -
بہت پانی ملا ہوا دودھ۔

فَضْفَضَ فَضْفَضَةً: التَّوْبُ اَوْ الْعَيْشُ:
كشادہ ہونا وَفَضْفَضَ: كشادہ کرنا۔

الْفَضْفَاضُ: كَشَادَةٌ كَيْزَارٌ خَوْشٌ عَيْشٍ -
فِيَاضٌ - اَرْضٌ فَضْفَاضٌ: زَمِيْنٌ جَسِمْ پَرِ
بَارِشٌ كَا پَانِي بَہْتِ مَجْمَعٌ هُوَا - دِرْعٌ
(فَضْفَاضَةٌ وَفَضْفَاضَةٌ) كَشَادَةٌ زَرَّةٌ -
سَحَابَةٌ فَضْفَاضَةٌ وَفَضْفَاضَةٌ: بَہْتِ پَانِي
وَالِي بَدَلِي - جَارِيَةٌ فَضْفَاضَةٌ: بَرْدٌ كُوْشْتِ
طَوِيْلٌ اَبْجَمٌ لَوْكِي -

فَضْلٌ (ن) وَفَضْلٌ (س) فَضْلًا: بَاقِي
رہنا۔ زائد ہونا۔ فَضْلَةٌ: فَضْلٌ فِيْ غَايِبِ
ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَضْلٌ فَلَانٌ عَلٰی
غَيْرِهِ" جبکہ فَضْلٌ فِيْ غَايِبِ ہُوَا جَائِزٌ -

فَضِيْلٌ وَفَضْلٌ (ك) فَضْلًا: صَاحِبُ فَضْلٍ
ہونا۔ صَاحِبُ فَضِيْلَتٍ ہُوَا -

فَضْلَةٌ: عَلٰی غَيْرِهِ: فَضْلٌ كَا حَكْمٌ لِكَاكَا -
رَجِيْحٌ دِيْنًا (فَاضِلُّهُ فِضَالًا وَ مَفَاضِلُهُ)

فَضْلٌ فِيْ فِخْرِ كَرْنَا - فَاضِلُّ بَيْنَ الشَّيْئِيْنِ:
دو چیزوں کے درمیان فَضْلٌ كَا مَقَابِلَةٌ كَرْنَا -

أَفْضَلُ: عَلَيَّ: بَرَّهْنَا - مَبْلَغًا كَرْنَا: مَبْرَانِي
كَرْنَا - أَفْضَلُ عَلَيَّ فِي الْحَسَبِ: حَسَبٌ
مِيْ بَرَّهْنَا جَانِي عَلَيَّ بَرَّهْنَا ہُوَا - کہا جاتا ہے

"رَأَيْتُ صَفْهَمَ قَدْ أَفْضَلَ عَلٰی صَفْنَا"
ان کی صف کو دیکھا کہ ہماري صف سے

بڑھ گئی ہے (وَاسْتَفْضَلُ) مِنْ الشَّيْءِ: بَقِيَّةٌ
چھوڑ دینا۔

تَفَضَّلَ: عَلَيَّ: مَبْرَانِي كَرْنَا - فَضْلٌ كَا دَعْوِي
كَرْنَا - تَفَضَّلَ الرَّجُلُ: شَبَّ خَوَابِي كَا لِبَاسِ

پہنایا۔ کام کاج کے لیے لباس پہننا۔
تَفَاضَّلَ الرَّجُلَانِ: اِيْكٌ كَا دَوْبَرِيْ پَرِ

فَضْلٌ كَا دَعْوِي كَرْنَا -
اِسْتَفْضَلَ مِنَ الشَّيْءِ: بَقِيَّةٌ پھوڑنا۔

الْفَضْلُ: سِرٌّ - اِحْسَانٌ - زِيَادَةٌ - بَقِيَّةٌ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنِ

دِيْنَارٍ" فلاں دَرْهَمٌ كَا مَالِكٌ نَمِيْئِيْ چَ جَانِيْكِي
دِيْنَارِ - گویا یوں کہا گیا کہ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا
فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِيْنَارًا اِيْمِيْنٌ دَرْهَمٌ كَا مَالِكٌ

نہیں تو دینار کا مالک کیسے ہو سکتا ہے اور
کہا جاتا ہے "فِيْ يَدِهِ فَضْلُ الزَّمَانِ" اس
کے ہاتھ میں لگام کا کنارہ ہے۔ جَ فَضُولٌ
الْفَضُولُ: حَاجَتٌ سِيْ زَائِدٌ مَالٌ فَضُولٌ
الْبَدْنُ جُو طَبِيْعِيْ طَوْرٌ پَرِ بَدَنِ كِي مَنَافِدُ سِيْ
لُكَلِ جِيْسِيْ پِيْنِي - تھوک۔

الْفَضْلَةُ: فَضْلٌ كَا اِسْمٌ مَرَّةٌ - بَقِيَّةٌ - شَرَابٌ
جَ فَضْلَاتٌ وَفَضَالٌ -

الْفَضْلَةُ وَالْفَضْلُ وَالْفَضَالُ: دَهْ كَيْزَارٌ جُو
كَامٌ كِي وَتِيْ يَانِيْدِي كِي وَتِيْ پِيْنِي اِيْ جَسِمْ

كُو گھر میں استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ فَضْلٌ" اِيْمِيْنٌ اِيْكٌ كَيْزَارٌ پِيْنِي ہُوَا

ہے اسی طرح "اِمْرَاةٌ فَضْلٌ"
الْفَضَالَةُ: بَقِيَّةٌ - جَ فَضَالَاتٌ -

الْفَضَالُ: بَہْتِ فَضْلٌ وَاللَّاحِقُ
الْفَضِيْلَةُ: خَوْبِيٌّ - زِيَادَةٌ - فَضْلٌ فِيْ بَلَدِ

مَرْتَبَةٍ جَ فَضَائِلِ -
الْفَاضِلُ: فَا - صَاحِبُ فَضْلٍ - صَاحِبُ

فَضِيْلَتِ جَ فَاضِلُوْنَ وَفَضْلَاءٌ مَوْتٌ
فَاضِلَةٌ فَاضِلَاتٌ وَفَوَاضِلٌ -

الْفَاضِلَةُ: فَضْلٌ فِيْ بَلَدِ مَرْتَبَةٍ - ہبہ
نَعْمَتٌ - فَوَاضِلُ الْمَالِ: نَالٌ كَا نَفْعٌ -

الْفَضُولُ: بَہْتِ فَضْلٌ كَرْنَةً وَاللَّاحِقُ
الْفَضُولُ: غَنِيْمَتٌ فِيْ جُو تَقْسِيْمِ سِيْ جَ

رہے۔
الْفَضُولِيُّ: لَا اِيْمِيْنٌ چيزوں میں مشغول

ہونے والا۔
الْفَضِيْلُ: صَاحِبُ فَضْلٍ - صَاحِبُ فَضِيْلَتِ

جَ فَضْلَاءٌ -
الْأَفْضَلُ: فَضْلٌ فِيْ بَرَّهْنَا هُوَا جَ فَضْلُوْنَ

وَأَفْضَلُ مَوْتٌ فَضْلِيٌّ جَ فَضْلِيَّاتٌ -
فَضْلٌ -

الْمِفْضَلُ وَالْمُفْضَلُ: بَہْتِ فَضْلٌ وَاللَّاحِقُ
الْمُفْضَلُ: جَسِمْ كِي مَتَلَقٌ فَضْلٌ كَا حَكْمٌ لِكَاكَا

گیا ہو۔
الْمِفْضَلُ وَالْمُفْضَلَةُ: كَيْزَارٌ جُو كَامٌ كِي

وَتِيْ يَا سَوْتِيْ وَتِيْ پَہْنَا جَانِيْ اِيْ گھر میں

پینے کا کپڑا ج مفاضل بہت فضل والا۔ مؤنث
مفضلاً۔
فَصًّا يَفْضُو فِضَاءً او فُضُوًا الْمَكَانَ
جگہ کشادہ ہونا۔ خالی ہونا۔ صفت فاض
(فُضُوًا الشَّجَرُ بِالْمَكَانِ) درخت بہت
ہونا۔
أَفْضَى أَفْضَاءً الْمَكَانَ جگہ وسیع ہونا۔
الْمَكَانَ جگہ وسیع کرنا اَلَيْهِ يَهْتَجَا
اَلَيْهِ بَسْرَةً: عہد کو جتنا بہ الی کذا پہنچانا
بِفُلَانٍ: کشادہ میدان کی طرف لے جانا
الرَّجُلُ محتاج ہونا۔
الْفَاضِي فَاضٍ: کہا جاتا ہے "مقام
فاض" کشادہ مقام۔ کھلا ہوا۔ خالی۔
الْفِضَاءُ وسیع زمین۔ میدان ج افضاء
کہا جاتا ہے "مکان فضاء" یعنی کشادہ
جگہ۔
الْفِضَاءُ زمین پر جاری پانی۔ بسا اوقات
پانخانہ کے لیے کنایہ کرتے ہیں۔
الْفِضَاءُ خشک انگور کا دانہ۔ سَنَمٌ فِضَاءٌ
اکیلا تیر۔ طَعَامٌ فِضَاءٌ بلا جلا کھانا کہا جاتا
ہے "اِنَّ اَمْرَهُمْ فِضَاءٌ عَلَيْهِمْ" یعنی ان کا
کوئی امیر نہیں۔
فَطَاءٌ (ف) فَطًا تَوْرًا۔ فَطًا بِهٖ الْاَرْضُ
زمین پر پلک دینا فَطًا بِهٖ عَنْ رَايَةٍ رَايَ
سے ہٹا دینا القَوْمُ غیر پسندیدہ چیز لانا فَطًا
الْمَرْءُ: جماع کرنا۔ فَطَايَتِ الْقِدْرُ
بِزَبْدِهَا باندی کا جھاگ لانا۔
فَطِي (س) فَطًا مُضِي ہوئی پیٹھ اور
اُبھرے ہوئے سینہ والا ہونا۔ صفت اَفَطًا
مؤنث فَطَائِحٌ فُطَاءٌ۔
فَطًا مَفَطَاءَةً بِهٖ الْاَرْضُ زمین پر پلک
دینا۔
اِفَطًا اِفْطَاءً فَرَاخٌ حَالٌ ہونا۔ بدخلق
ہونا۔
فَلَانًا كَهَلَانًا بہت جماع کرنا۔
تَفَطًا سِينَهُ اُبْهَارًا اور پیٹھ دھسانا۔

عَنَهُ يَجْعَى بُنَا عَنِ الْقَوْمِ: شکست کھانا اور
حملہ کے بعد لوٹنا۔
الْفَطَاءَةُ سِينَهُ كَ اُبْهَارٍ اور پیٹھ کا دھسنا۔
فَطَحَ (ف) فَطَحًا و فَطَحَ الشَّيْءُ: چوڑا
کرنا۔
الْعَوْدُ: لکڑی کو چھیلنا اور چوڑا کرنا۔
فَطَحَهُ بِالْعَصَا: لاکھی سے مارنا۔
فَطَحَ (س) فَطَحًا رَاسَهُ او انْفَهُ: سر یا
ناک چوڑی ہونا۔ صفت اَفْطَحَ الْاَفْطَحُ
گرگت۔
رَاسٌ مُفَطَّحٌ: چوڑا سر۔
الْفِطْحَلُ: بڑا سیلاب جَمَلٌ فِطْحَلٌ: موٹا
اُونٹ ج فَطَاحِلٌ. وَعِنْدَ الْمَوْلِدَيْنِ
فَطَاحِلُ الْعُلَمَاءِ: بڑے علماء وَزَمَنُ
الْفِطْحَلِ: بہت پُرانا زمانہ اور لوگوں نے
کہا کہ وہ زمانہ جس میں آدمی ابھی پیدا
نہیں ہوئے تھے۔
فَطَذَانٌ (ف) فَطَذًا: باز رکھنا۔ منع کرنا۔
فَطَرُ (ن ض) فَطَرًا الشَّيْءُ: پھاڑنا
الْاَمْرَ پيدا کرنا۔ شروع کرنا الْعَجِينُ: خمیر
ہونے سے پہلے روٹی پکانا۔ فَطَرُ نَابِ
الْعَجِينِ: اُونٹ کے دانت ظاہر ہونا الرَّجُلُ
الشَّابَّةُ اَهْلِيوں کے اطراف سے دوہنا۔
فَطَرًا و فَطَرٌ و فَطُورًا الْمَصَانِمُ: روزہ دار
کا اظہار کرنا۔
اَفَطَرُ الْمَصَانِمِ: کھانا اور پینا۔ اظہار کا وقت
قریب ہونا۔ صفت مُفَطَّرٌ مَفَاطِيرٌ: کہا
جاتا ہے "قَوْمٌ مَفَاطِيرٌ و فَطَرُ الْمَصَانِمِ:
اظہار کرنا۔ ناشتہ دینا۔ فَطَرُ الشَّيْءِ: پھاڑنا۔
تَفَطَّرَ و اِنْفَطَّرَ: پھٹنا۔ تَفَطَّرَتْ
وَ اِنْفَطَّرَتْ الْاَرْضُ بِالنبَاتِ: زمین کا
پھٹنا اور نباتات کا ٹکنا الْقَضِيبُ: شاخ کے
پتوں کا ٹکنا شروع ہونا۔
اِفْطَرَّ الْاَمْرَ: ایجاد کرنا۔
الْفَطْرُ: پھٹنا۔ ج فَطُورٌ۔
الْفَطْرُ: بی۔ انگور جب کہ اس کا سرا ظاہر
ہو الْفِطْرُ وَعِنْدَ الْفِطْرِ: ماہ رمضان

الْمَبَارِكِ كَعَدِيدِ
الْفَطْرُ: نباتات جو زمین سے اُگے۔ سانپ
کی چھتری کی ایک قسم۔ واحد فَطْرَةٌ۔
الْفِطْرَةُ: وہ صفت کہ ہر موجود اپنی ابتداء کی
پیدائش میں اس پر ہو۔ طبعی حالت۔ دین۔
سنت۔ طریقہ۔ پیدائش۔ ج فَطْرٌ۔
الْفَطُورُ وَالْفَطُورِيُّ: اطاری۔ ناشتہ۔
الْفِطِيرُ: برہہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی
کی جائے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَأْيُ فِطِيرٍ"
یعنی بدیہی بے سمجھے ہوئے "عَجِينٌ
فِطِيرٌ" بے خمیر کا گندھا ہوا آٹا۔ خَبِزْ
فِطِيرًا: تازہ روٹی۔ الْفِطِيرُ: تازہ دودھ۔
عِيدُ الْفِطْرِ: یہودیوں کی ایک عید سَيِّفٌ
فَطَارٌ: کھٹل تلوار۔
الْفِطَارِيُّ: بے نفع مرد۔
الْاَفْطُورُ: ناک اور چہرہ میں پھین ج
اَفَاطِرٌ۔
النَّفْطُورَةُ: متفرق گھاس۔ موسم بہار کی
پہلی گھاس ج نَفَاطِيرٌ۔
الْفِطْرِيُّ: بے خمیر کی روٹی۔
الْقَاطِرُ: فاجس کے دانت نکل آئے
ہوں۔
فِطْسٌ (س) فِطْسًا: چھٹی ناک والا ہونا۔
صفت اَفْطَسٌ اور چھٹی ناک کو بھی اَفْطَسٌ
کہتے ہیں۔ مؤنث فِطْسَاءٌ ج فِطْسٌ۔
فِطْسٌ (ض) فِطُوسًا: صفت فِطْسٌ
(فِطْسًا) الْحَدِيدُ: لوہے کو چوڑا کرنا ہ
بِالْكَلِمَةِ: زور در زور کہنا۔
الْفِطْسُ: حب آٹاس واحد فِطْسَةٌ۔
الْفِطْسَةُ: جہرہ جس کا تعویذ بنایا جائے۔
الْفِطْسَةُ: ناک کا چپٹا پن۔
الْفِطْسِيُّ: بڑا تھوڑا ج فِطَاطِسٌ۔
الْفِطْسِيَّةُ: سور کی تھوٹھی۔ انسان کا
ہونٹ۔ درندہ کا سونڈ۔
فِطْمٌ (ض) فِطْمًا: الحبل رسی کا ٹاٹا۔
الْوَلَدُ: بچے سے دودھ چھڑانا ہ عَنِ الْعَادَةِ:
روکنا۔ منع کرنا۔ چھڑانا کہا جاتا ہے "لَا

فَطَمَنَكَ عَمَّا انت عليه یعنی تمہاری

اُمید کو منقطع کر دوں گا۔

أَفْطَمَ الرضيع: دودھ پیتے بچے کا دودھ

چھڑانے کے وقت پر پینچنا۔ دودھ چھڑانے

کے قریب ہونا۔

انْفَطَمَ: دودھ چھڑا لینا۔ رکتا۔ باز رہنا۔

تَفَاطَمَ: القوم: ایسے جانوروں کے بچوں

والا ہونا جو دودھ چھڑانے کے بعد اپنی ماں

کے ساتھ لپٹے رہیں۔

الْفِطَام: دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کا

زبان۔

الفطيم: دودھ چھڑایا ہوا۔ فِطْمَ

نَاقَةَ (فَاطِمَ و فَاطِمَةَ) اونٹنی جس کا بچہ

دودھ سے چھڑا دیا گیا ہو۔ فاطمة الازهر Al

رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی

کا اسم گرامی۔

الفطيمة: بکری جس کا بچہ دودھ سے چھڑا

دیا گیا ہو۔

فَطَنَ (ن) وَ فَضَنَ (س) وَ فَطِنَ (س)

فَطَنًا وَ فِطْنًا وَ فُطِنًا وَ فُطِنًا وَ فِطْنَةً

وَ فِطَانَةً وَ فِطَانَةً وَ فُطُونَةً وَ فِطَانِيَةً

وَ فِطَانِيَةً لِلْأَمْرِ وَ بِهِ وَالْيَهُ: اور اک کرتا۔

سمجھنا۔ ماہر ہونا۔

فَطَنَهُ بِالْأَمْرِ وَ لَهُ وَالْيَهُ: سمجھانا۔ فَطَنَ

التلميذ: شاگرد کو سمجھ دانا۔

فَاطَنَهُ مَفَاطِنَةَ بِالْكَلَامِ: سمجھانے کے

لیے کلام کو لوٹانا۔

تَفَطَّنَ: لکلامہ: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے

”تَفَطَّنَ لِمَا أَقُولُ لَكَ“ جو کچھ میں تم سے

کہتا ہوں اس کو سمجھو۔

الفِطْنَةُ: مہارت۔ سمجھ۔ فِطِنَ

الْفَاطِنَ وَالْفِطْنَ وَالْفِطِينِ وَالْفِطُونِ

وَالْفِطْنَ وَالْفِطْنَ: زیرک۔ سمجھ دار۔ ج

فُطِنَ وَ فُطِنَ:

الفِطُونَةُ: زیرک۔ سمجھ دار۔

فِطَةٌ (س) فِطْطَهَا: کشادہ پشت ہونا۔ صفت

أَفْطَةُ: مؤنث فِطْطَاءُ فِطْطَةً

فَطَا يَفْطُو فِطْوًا: الدابة: جانور کو تیز

یا تکتا۔

فَطَّ (س) فِطَاطَةً وَ فِطَاطًا وَ فِطْطًا: سخت

کلام اور بد خلق ہونا۔

فَطَّ (ن) فِطًا وَ افِطَّ: جنگلوں میں اوجھ کا

پانی نچوڑنا اور پینا اور یہ اس طریقہ پر کہ

اونٹوں کو سیراب کر دیتے ہیں اور پھر ان

کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جگال نہ

کرنے پائیں۔ پھر جب پیاس لگتی ہے تو

پیش چاک کر کے اوجھ کو نچوڑتے ہیں اور

پیتے ہیں۔

الْفَطَّ: سب بہت بد خلق اور سخت کلام۔ ج

افطاط اوجھ کا پانی جو جنگلوں میں نچوڑ کر پیا

جاتا ہے۔ فِطْطًا وَ فِطْطُوطًا

الْفِطَّ: بُرِي شِكل وَ صِوَرَتِ كَا اِيكِ اَبِي

دِرندہ اور اس کے مذکر کے اوپر کے

جڑے میں دو لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں۔

الفِطَاطَةُ: تکرار۔

فَطَّعَ (س) فِطَاعَةً الْاَمْرَ: قباحت بڑھ

جانا۔ قباحت میں حد سے گزر جانا۔ صفت

فِطَّعَ وَ فِطَّيْعَ

فَطَّعَ (س) فِطَّعًا الْاِنَاءَ: برتن کا بھر جانا۔

فَلَانٌ بِالْاَمْرِ وَ مِنَ الْاَمْرِ: کام کو بڑا سمجھنا

اور اس کے انجام دینے کا اعتقاد نہ کرنا۔

أَفْطَعُ الْاَمْرَ: قباحت بڑھ جانا۔ أَفْطَعُهُ:

أَمْرٌ تَبَّعَ فِيهِ ذَالِ الْاَفْطَعِ الْاَمْرَ: تَبَّعَ يَتَّبِعُ

أَفْطَعُ: امر تَبَّعَ نَازِلٌ هُوَ

فَطَّعَ الْاَمْرَ: تَبَّعَ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ مَبَاحَثَةً كَرَانًا

تَفَطَّعَ وَ اسْتَفْطَعَ الْاَمْرَ: تَبَّعَ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ

الْفِطَّيْعَ: خَوْفًا يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ

أَفْطَى اِفْطَاءً: الرَّجُلُ: بد خلق ہونا۔

الفطى: بچے والی۔

فَفَعَّعَ فَفَعَّعَةً بِالْغَنَمِ: بکریوں کو فَعَّعَ فَعَّعَ

کے ہانکنا اور اس آواز کو فَعَّعَ يَأْفَعْفَعُ

کہتے ہیں۔

تَفَعَّعَ الرَّجُلُ فِي اَمْرِهِ: جلدی کرنا۔

فَعَّلَ (ف) فَعَّلًا: کرنا۔ بنانا اور اسم اس

الفعل

فَعَّلَ الْبَيْتَ الشَّعْرِيَّ: تَطْلُوعٌ كَرَانَا

وَرْنَ تَطْلُوعٌ كَا اِيَسَ الْاِزْلَامَ سَ هَ جَس كَا مَادَه

فِ بَعْلَ هَ

انْفَعَلَ هُوَ جَانًا مَثَارًا هُوَانَا

اِفْعَلَ الشَّيْءَ: اِيْمَادُ كَرَانَا الْخَطَّ: جَعَلَ

سَاوِي كَرَانَا كَمَا جَاتَا هَ ”اِفْعَلَ عَلَيْهِ

زُورًا وَ كَذَبًا“ اس نے اس پر جھوٹ و

بہتان باندھا۔

الفعل کام: فَعَالٌ وَ اَفْعَالٌ جَ فَا فَا عَيْلٌ

الافاعيل والتفاعيل عند

العروضيين: علم عروض کی اصطلاح میں

اشعار کے اوزان اور وہ چار ہیں فَعُولُنَّ

مَفَاعِيلُنَّ مَفَاعِلُنَّ وَ فَا عِلَاتُنَّ اور بقیہ

اوزان انہی سے ماخوذ ہیں۔

الفعلية: فعل کا اسم مرہ۔

الفعلية: عادت۔

التفاعيل الكمأوى: دو یا دو سے زیادہ

مادوں کا باہمی اثر کرنا۔ اس سے کیمیائی

اجسام کی طبیعت میں تبدیلی کا نتیجہ سامنے

آتا ہے۔ جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن کی

تاثیر میں۔

الفعال: اجماع فعل۔ کرم۔ اور کبھی شر میں

استعمال کیا جاتا ہے۔

الفعل جمیع فعل: جس کو بہت سے آدمی

کریں۔ فعال الفاس: کلبائے کا دستہ ج

فعل

الفاعل: فاعل فاعلون وفعله مؤنث

فاعلة فاعلات وفواعل

المُفْعَلُ: سب ہر وہ چیز جو بغیر مثال سابق

کے بنائی جائے۔ کہا جاتا ہے ”جاء فلان

بالمُفْعَلِ“ یعنی اس نے بڑا کام کیا۔ شِعْرٌ

مُفْعَلٌ: عجیب و غریب شعر۔

فَعَمَ (ف) فَعَمًا وَ فَعَمًا وَ فَعَمَ الْاِنَاءَ:

برتن بھرنا۔ اَفْعَمَ الْمِسْكَ الْبَيْتَ: مہربان۔

خوشبو سے بھر دینا۔ اَرْفَعَمَ الرَّجُلُ: خوشی

سے بھر دینا۔ خوش کرنا۔

یعنی جب سے میں نے اُسے گم کیا تلاش نہیں کیا۔

تَفَاقَدَ الْقَوْمَ: بعض کا بعض کو ہونا۔

الْفَاقِدُ: فا۔ وہ عورت جس کا شوہر یا لڑکا مر گیا ہو۔

الْفَقِيدُ: گم شدہ۔ کہا جاتا ہے ”مَاتَ غَيْرَ فَعِيدٍ“ یعنی وہ مر گیا اور اس کے مرنے کی کوئی پروا نہیں۔

فَقْرٌ (ن ض) فَقْرًا وَفَقْرًا: کھودنا الخَزَرَ: پرونے کے لیے بندھنا الشَّيْءُ: کٹانا۔ اور

اِثْرُ كَرْنًا: کہا جاتا ہے ”فَقْرَتُهُ وَفَقْرَتُهُ الدَّاهِيَةُ“ اس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی ریزہ کی ہڈی کو توڑ دیا۔

فَقَّرَ الْفَسِيلَةَ: پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودنا۔

فَقَّرَ (س) فَقْرًا: ریزہ کی ہڈی میں مرض یا شکستگی کی وجہ سے درد ہونا۔ صفت فَعِيرٌ

وَفَعِيرٌ وَمَفْقُورٌ۔

فَقَّرَ (ك) فَقَارَةً وَافْتَقَرَ: مفلس ہونا۔

اِفْتَقَرَ إِلَيْهِ: محتاج ہونا۔ صفت فَعِيرٌ وَفَقْرًا مَوْتٌ فَعِيرَةٌ ج فَعِيرَاتٌ وَفَقَائِرٌ وَفُقَرَاءٌ۔

أَفْقَرُهُ: مفلس بنانا ه الصَّيْدُ: شکار کا اپنی جانب سے موقع دینا ه الْأَرْضُ: زراعت کے لیے عاریت پر دینا۔ أَفْقَرُهُ ظَهَرَ

مُهْرُهُ: سواری کے لیے بچھیرا عاریتاً دینا۔ أَفْقَرُ ظَهَرَ الْمُهْرُ: بچھیرے کا سواری کے قابل ہونا۔

تَفَاقَرَ: فقیری ظاہر کرنا۔

الْفَقْرُ: سر مفلس۔ غم۔ ج فُقُورٌ وَ مَفَاقِيرٌ بَحْمَنٌ۔ کات۔ ج أَفْقُرُ۔

الْفَقْرُ: مفلسی۔ جانب ج فَقْرٌ۔

الفقرۃ: ریزہ کی ہڈی ج فقر وفقرات وفقرات۔

الفقارة: ریزہ کی ہڈی ج فقار۔ ذُو الْفِقَارِ: سیدنا علیؑ کی تلوار کا لقب۔ فقار: الجوزاء برج جوزا کے ستارے۔

الفقرۃ: فقر کا اسم نوع۔ نشان پہاڑ کا ہویا کسی اور چیز کا۔ کلام یا جملہ کا لطیف نکتہ۔

قصیدہ کا عمدہ شعر ج فقر۔

الفقرۃ: قرب۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مِنْكَ فقرۃ“ یعنی تم سے قریب ہے۔ گڑھا۔

گریبان۔ امر عظیم ج فُقْرٌ وَفُقَرَاءٌ۔

الفقاری: ریزہ کی طرف منسوب۔

الفقارة: سخت مصیبت جو گویا ریزہ کی ہڈی کو توڑ دے۔ ج فَوَاقِرُ۔

الفقیر: مفلس۔ محتاج ج فقراء مؤنث فقیرۃ ج فقیرات و فقائق و فقراء۔

حوض کی نالی۔ گڑھا جس میں ہجور کا پودا لگایا جائے۔ عوام اسے بیش کہتے ہیں۔ ج فُقْرٌ۔ الفُقْرُ: ترتیب وار کنوئیں۔ جن کا پانی ایک دوسرے میں جاتا ہو۔ رَكِيَّةٌ فَعِيرَةٌ:

کھدا ہوا کنواں۔

الفقیر: مصیبت۔

المفقير: قوی مرد۔ سواری کے قابل بچھیرا۔

المفاقير: اسباب فقر اور اس کیلئے کوئی واحد نہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ فقر کی جمع خلاف قیاس ہے جیسے حسن کی جمع محاسن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مُفْقَرَةٌ بمعنی فقر کی جمع ہے۔

المفقّر: مضبوط ریزہ والا۔ کہا جاتا ہے ”سَيِّئٌ مُفْقَرٌ“ تلوار کہ جس کی پشت پر ہموار خراشے ہوں۔ رَجُلٌ مُفْقَرٌ: بالکل فرمانبردار مرد۔

فَقَسٌ (ض) فَقْسًا: البیضة: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا الطائِرُ بَيْضَتُهُ:

پرندہ کا انڈے کو توڑنا اور بچہ نکالنا۔

الْحَيَوَانُ: قتل کرنا الرَّجُلُ: بالوں کو پکڑ کر نیچے گھسیٹنا ه عن الامر: زبردستی بنانا۔

عن الشَّيْءِ: چھین لینا۔

فُقُوسًا: اچانک مرنا۔ کودنا۔

تَفَقَّسَ وَانْفَقَّسَ الشَّيْءُ: اُلْتُ جاتا۔ تَفَاقَسَ الرَّجُلَانُ: ایک دوسرے کے

بالوں کو پکڑ کر نیچے گھسیٹنا۔

الفُقَّاسُ: جوڑوں کا مرض۔

الفُقُوسُ: خربوزہ کی ایک قسم واحد فُقُوسَةٌ۔

المفقاس: جال کی لکڑی جو پرند پر اُلْتُ پڑتی ہے۔

فَقَّشَ (ن) فَقَّشًا الْبَيْضَةَ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔

فَقَّصَ (ض) فَقَّصًا وَفَقَّصَ الْبَيْضَةَ وَنَحْوَهَا: انڈا وغیرہ کو ہاتھ سے توڑنا۔

پھاڑنا۔ مَفْتٌ مَفْعُولٌ فَعِيضَةٌ وَمَفْقُوسَةٌ۔

الْفَرَجُ: انڈے کا ٹوٹنا اور بچہ کا ظاہر ہونا۔

الفُقُوسُ: کچرا خربوزہ۔

الفقیص بل کے لوہے کا چمچلہ۔

المفقاص: گرز کے سرے کا گول حصہ۔

فَقَّطَ: کلمہ ہے جو فا اور قط سے مرکب ہے اور اس کے معنی لاغیر کے ہیں۔ یعنی صرف۔ بس۔

فَقَّطَ الْحَسَابَ: تعین مقدار کے بعد لفظ لکھنا تاکہ کوئی کچھ بڑھانہ سکے۔

فَقَّعَ (ف ن) فَقَّعًا وَفَقُّوعًا: لُونُهُ: رنگ کا صاف و خالص ہونا یا گہرا زرد ہونا الرَّجُلُ: سخت گرمی سے مر جانا الغلامُ:

لڑکے کا بڑھنا (فَقَّعًا) الشَّيْءُ: چرانا۔ کہا جاتا ہے ”فَقَّعْتَهُ الْفَوَاقِعُ“ مصائب نے اسے ہلاک کر دیا۔

فَقَّعَ (س) فَقَّعًا: سرخ رنگ ہونا۔ گہرا رنگ ہونا اور اکثر اس کا استعمال زرد رنگ کے لیے ہے۔

فَقَّعَ بے معنی گفتگو کرنا أَصَابِعُهُ: انگلیاں شِجَانًا الْوَرْدَةَ: گلاب کی پتی کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مار کر پھاڑنا اور

آواز نکالنا۔

الْأَدِيمُ: جہڑے کو سرخ رنگنا۔

أَفْقَعُ: محتاج ہونا۔ بُرَاحًا: ہونا۔ تَفَاقَعَتْ عَيْنَاهُ: آنکھوں کا سفید ہونا۔

فَكَ (ن) فَكَ. الشَّىءُ: جدا جدا کرنا
العُقْدَةُ: بگڑھ کھولنا العَظْمُ: ہڈی کو جگہ سے
ہٹا دینا الخَمْتُ: مہر کو توڑنا۔
فَكَ (ن) فَكَ وَ فَكَكًا وَ فَكَكًا
الاسْبِرُ: قیدی کو چھڑانا يَدُهُ: ہاتھ کھولنا
الادْعَامُ: ادغام نہ کرنا جیسے لاتمد
ولاتمدّ میں۔
فَكَ (ن) فَكَ وَ فَكَوْنَا الرَّجُلُ: بہت
بوڑھا ہونا۔
فَكَ (س) فَكَ وَ فَكَوْنَا وَ افْتَكَّ
الرهن رہن چھڑانا۔
فَكَ (س) فَكَكًا وَ الفَكَ العَظْمُ: ہڈی کا
جگہ سے ہٹ جانا۔
فَكَ (س ن) فَكَ وَ فَكَكَةً: سُسْت و
بیوقوف ہونا۔
أَفَكَ الظَّنُّ مِنَ الحِبَالَةِ: ہرن کا جال
میں بڑ کر نکل بھاگنا۔
فَكَكًا: الگ الگ کرنا۔ چھڑانا۔
تَفَكَكًا: الگ الگ ہونا۔ چھٹنا۔
المُخَنَّتُ خَيفَ الحَرَكَاتِ كِي جَالٍ جَلَانًا۔
انْفَكَ: جدا ہونا۔ کھلنا العِيدُ: آزاد کیا
جانا۔ کہا جاتا ہے ”مَا انْفَكَ يَفْعَلُ كَذَا“
ہمیشہ ایسا کرتا رہا اور یہ افعال ناقصہ میں
سے ہے اور نفی اس کے لیے لازم ہے۔
اسْتَفَكَهُ: رہائی طلب کرنا۔
الفَكَ: س۔ جزاء۔ ج فَكُوْنَا
الفِكَكَ وَ الفِكَكَكُ جس سے رہن وغیرہ
کو چھڑایا جائے۔
الفَاكُ: ف۔ بہت بوڑھا۔ بہت بیوقوف ج
فَكَكَةً وَ فَكَكًا
فَكَوْنَا يَا مَلِكِيَّةَ: بڑے پتوں والے ایک
پودے کا نام بعض دفعہ اس کے پتے کا قطر
دو میٹر ہو جاتا ہے۔
الفَكَكُ مِينَهُ مَبَالِغُ
الافَكَ: وہ شخص جس کی ہڈی جوڑے
ہٹ گئی ہو۔ مؤنث فَكَا وَ فَكًا
فَكَرَ (ض) فَكَرًا وَ فَكَرًا وَ فَكَرًا وَ فَكَرًا

ہے ”اَكَلَ الرَّجُلُ حَتَّى فَقِمَ“ مروئے
کھایا یہاں تک کہ تخرم ہو گیا۔ (فَقِمًا
وَقَمًا) الرَّجُلُ سَانِيَةً كَالْبَابِ
تکنا۔ صفت أَقْمَمُ مؤنث فَقَمَاءُ ج فقم
الرَّجُلُ: آکرنا۔
فَقِمَ (س) فَقِمًا وَ فَقَمًا وَ فَقُومًا وَ فَقَمَ
(ك) فَقَامَةً وَ فَنَاقَمَ. الأمرُ: عظیم ہونا
اور ناموسار ہونا۔ صفت أَقْمَمُ فَقِمَ الشَّىءُ:
وسیع ہونا۔
الفَقْمُ وَ الفَقْمُ تھو تھنی کا کنارہ۔ جزاء۔
الفَقِيمُ: سبھ دار آدمی جو مقابل پر غالب
آئے۔
الفَقِيمُ: مُنْذ۔
الفَقِيمَةُ وَ الفَقِيمَةُ: ایک قسم کی مچھلی۔ اور
یہ مچھلی دودھ دینے والے جانوروں میں
سے ہے۔
فَقِهَ (س) فَقَّهًا وَ فقهَ (ك) فِقَاهَةً جَانًا۔
فقیہ ہونا۔
فَقِهَ (س) فَقَّهًا وَ تَفَقَّهَ الشَّىءُ أَوْ الكَلَامُ:
سبھنا۔ کہا جاتا ہے ”فَقِهَ عَنهُ الكَلَامُ“ اس
نے اُس کی گفتگو کو سبھ لیا۔ وَ تَفَقَّهَ
الرَّجُلُ: عِلْمٌ نَفَهُ سَيَكُنَا أَوْ جَانِلًا كَرْنَا۔
فَقِهَ (ك) فَقَّهًا: الرَّجُلُ: عِلْمٌ مِيں غَالِب
ہونا۔
فَقَّهَ وَ أَفَقَّهُ فَلَانًا: سبھانا۔
فَاقَهُ فَلَانًا: فقہ میں غالب ہونا۔
الفَقِهُ: کسی شے کا جاننا اور سبھنا۔ احکام
شرعیہ کا علم اِدْلہ تفصیلیہ کے ساتھ
حداقت زیرکی۔
الفَقْهُ وَ الفَقْهُ وَ الفَقِيْهُ: بہت سبھدار کی
عالم۔ عِلْمٌ نَفَهُ کا جاننے والا۔ ج فَقَّهَاءُ
مؤنث فَقَّهَةٌ وَ فِقْهَةٌ ج فَقَّهَاءُ وَ فِقَّانِيَةٌ
المُسْتَفْقِهُةُ نوحہ کرنے والی کا ساتھ
دینے والی عورت۔
فَقَّاهًا يَفْقَهُوْا فَقْوًا: اَثْرَةً: نشان قدم پر جانا۔
چھپے جانا۔ فِقْرَةٌ السَّهْمُ: سوار۔ تیر۔ ج
فَقِيٌّ

اِنْفَقَّ: چھٹنا۔
الفَقْعُ وَ الفِقْعُ: ساپ کی چھتری جو نرم
اور سفید ہوتی ہے۔ ج أَفْعُجٌ وَ فُقُوعٌ
وَ فِقْعَةُ الفَقْعِ: مٹائی۔
الفَاعِجُ: ف۔ خالص صاف رنگ اور مشہور
یہ ہے کہ یہ زرد رنگ کیلئے صفت کے طور
پر مشتمل ہے۔
الفَاعِجَةُ: مؤنث فَاعِجٌ: مصیبت ج فَوَاقِعُ:
الافقع بہت زیادہ سفید مؤنث فُقْعَاءُ ج
فُقْعُجٌ۔
الفَقِيعُ مرد سرخ فام۔ کبوتر کی ایک قسم۔
واحد فَقِيعَةٌ۔
الفَقْعُ: سخت سپیدی۔
لَوْنٌ (فَقَاعِيٌّ) گہرا رنگ۔ کہا جاتا ہے
أَبْيَضُ فُقَاعِيٌّ: بہت سفید۔
الفُقَاعُ: بڑا سخت خبیث۔
الفُقَاعُ: جو کی شراب۔
الفُقَاعِيُّ: جو کی شراب پیچنے والا۔
الفُقَاعَةُ: بلبل ج فُقَاعِيْعٌ:
المُفَقِّعُ: نوکدار موزہ۔
المُفَقِّعَةُ: ایک کالے رنگ کا پرندہ ہے
جس کے ذم کی جڑ سفید ہوتی ہے۔
فُقْفُقٌ فُقْفُقَةٌ: سخت محتاج ہونا۔
الکَلْبُ: کتے کا ذر سے بھونکنا۔
(وَ تَفَقَّقُ) الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ: حلق سے
نکالنا۔
الفُقْفَاقُ وَ الفُقْفَاقَةُ: بیوقوف۔ کبواس
کرنے والا۔
فَقَلَّ (ن) فَقَلًا: البَيْدَرُ: کھلیان میں غلہ
بکھیرنا۔
أَفَقَلَّ: المَكَانُ: سرسبز ہونا۔
الفَقْلُ: سرسبز۔
المِبْقَلَةُ: غلہ بکھیرنے کا آلہ۔ ج
مَقَائِلُ
فَقَمَ (ن) فَقَمًا وَ تَفَقَّمِ الرَّجُلُ أَوْ
الکَلْبُ تَاكُ كُو يَلَانَا المَرْأَةُ: جماع کرنا۔
فَقَمَ (س) فَقَمًا اِلْنَاءُ: بڑھنا۔ کہا جاتا

وتفكر في الامر: سوچنا۔ غور کرنا۔ تامل

الفكر: سوچ، بچار، غور و فکر، تفکر، افکار
کہا جاتا ہے "خالق في الامر فكراً"
و فکر مجھے معاملہ میں کوئی حاجت نہیں۔
"ولي في الامر فكر" میرے لیے معاملہ

میں غور و فکر ہے۔
الفكرة والفكر: سوچ، بچار، غور و فکر، تفکر، افکار
الفاكرة والفكر: سوچ، بچار، غور و فکر، تفکر، افکار
بہت سوچ بچار کرنے

والا: فکھ (س) فکعاً وفکوعاً الرجل: غم یا
غمضہ کی وجہ سے سر جھکانا۔
فکھ (ف) فکعاً وفکوعاً: جانا، کہا جاتا
ہے "ذهب فما بذری آین فکع" گیا اور
نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔
الفکع: کھانسی۔
افتکل في فعله: اچھی طرح سر انجام

دینا۔
الافتکل لوگوں کی جماعت۔ کچی۔ کہا جاتا
ہے اخذه افکل جبکہ خوف یا سردی سے
کا پٹنے لگے اور یہ تینوں کے ساتھ مستعمل
ہے "وجاء القوم بافکلیہم و
بافاکیلہم" یعنی تمام قوم آئی۔
المفکول: کچی والا۔
فکن (ن) فکنا فی الکذب: جھوٹ

بولنے میں اصرار کرنا۔
تفکن: تعجب کرنا۔ فکر کرنا۔ افسوس
کرنا۔ پشیمان ہونا۔
فکھ (س) فکھا وفکاهة: خوش طبع
بننے ہانے والا ہونا۔ صفت فاکہ وفکة
وفیکھان منه: تعجب کرنا فکھ للنشی:
متعجب ہونا۔ کہا جاتا ہے "لو سمعت
حدیث فلان لما فکھت له" اگر تم فلاں
کی بات سنو تو متعجب نہیں ہو گے۔

فکھ الرجل: میوہ کھانا۔ کلام شیریں کر

کے خوش کرنا۔
تفکھ: میوہ کھانا۔ بالشی لذت حاصل
کرنا۔ فائدہ اٹھانا۔ منہ: تعجب کرنا۔ پشیمان
ہونا۔ فلان: غیبت کرنا۔ کہا جاتا ہے
تبرکت القوم یتفکھون بعرض فلان

یعنی میں نے لوگوں کو ایسی حالت میں
چھوڑا کہ وہ فلاں کی غیبت سے لذت
حاصل کر رہے تھے۔
فاکھ مفاکھة الرجل: مزاح کرنا۔
تفاکھ القوم: آپس میں مزاح کرنا۔
الفکاهة والفکیهة: خوش طبع۔
الأفکوهة: خوش طبع۔ تعجب انگیز۔

الفکھ: خوش طبع۔ ہنسوز خود پسند۔ اگڑ
باز۔ میوہ خور مؤنث فکھة ج فکھات۔
الفاکھ: فاکھ۔ میوہ والا۔ خوش طبع
الفاکھة: مؤنث فاکھ۔ ہر قسم کا پھل
جس کو کھا کر لذت حاصل کی جائے ج
فواکھ فاکھة الشتاء۔ آگ۔
الافکھ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فلان
من افکھ الناس" فلاں بہت مزاح کرنے

والا ہے۔
الفاکھانی: میوہ فروش۔
فل (ن) فلا وفل السیف: تلوار کو
دندانہ دار کرنا القوم: قوم کو شکست دینا۔
فل (ض) فلا عن فلان عقله: عقل
زائل ہونے کے بعد لوٹ آنا۔
افل: الرجل: مال ضائع ہونا القوم: قوم

کا بجز زمین پر پہنچانا۔
تفکل وانفل: القوم: قوم کا شکست کھانا۔
تفکل وانفل وانفل: السیف: تلوار کا
دندانہ دار ہونا۔
استفکل: السیف: تلوار کو دندانہ دار کرنا
الشی: کسی چیز کا ادنیٰ حصہ لینا۔ رجل فل
وقوم فل شکست خوردہ واحد جمع برابر اور
کبھی اقلال وقلول جمع آتی ہے۔
الفل: تلوار کی دھار میں ٹوٹ یا دندانہ

ج فلول جو کسی چیز سے گرے جیسے لوہے
کا۔ براہ۔ آگ کی چنگاری۔ جماعت ج
فلول وقلال۔

الفل: خشک زمین جس میں کچھ نہ آگے۔ کہا
جاتا ہے "هو فل من الخیر" وہ خیر سے
چلے جاتے۔ فل وافل۔

الفل والقلیة: خشک زمین جس میں کچھ نہ
آگے جاتے۔
الفل: پھول جو چینیلی کے مشابہ ہوتا ہے
اور خوشبو تیز ہوتی ہے۔

الفلل: تلوار کی دھار کا کند ہونا۔
الفلة: تلوار کی دھار کا دندانہ۔
سیف فلیل وافل ومقلول ومنفل: کند
تلوار۔ دندانہ دار تلوار۔

کیسیہ فسی شکست خوردہ فوج۔
القلیل: جماعت (والقلیلة) مجتمع بال۔
فلته (ض) فلانا وافلته رہا کرنا۔ چھوڑنا۔
فلت و فلت و تفلت و افلت رہا ہونا۔

چھوڑنا۔ افلت و تفلت۔ الی شی: جھگڑا
کرنا۔ تفلت علیہ: کودنا۔ حملہ کرنا۔
فالته فلانا ومفالتہ: اچانک آنا۔ پانا۔
افلت الکلام: فی البدیہہ کہنا۔

الامر: بغیر توقف کے کام کرنا۔ افلت
علیہ: بغیر کسی دوسرے کے کام کو پورا کر
دینا الشی: جلدی سے لینا۔
افلت اچانک مرنا بامر کذا: تیار ہی سے

پہلے اچانک مشغول کیا جانا۔ افلت الشی
اچانک لیا جانا۔ استفلت: الشی من یدہ: چھین لینا۔
الفلت: رہائی۔ کہا جاتا ہے "ما لك منه
فلت" تمہیں اس سے رہائی نہیں۔

فوس فلان: تیز گھوڑا ج فلان ورجل
فلان: چست دلیر قوی دل شری طرف
جانے والا۔

القلبی: وہ شخص جو اپنے آپ کو برائیوں
سے محفوظ نہ رکھے۔ القالیة: وہ جانور مومی
جو بانڈھانہ گیا ہو۔ (عالی لفظ) اپنی ہوس پر

چلنے والا نوجوان - الْفَالْتَةُ مَوْنَتُ الْفَالْتِ: برائی سے غیر محفوظ خاتون - الْفَلْمَةُ الْفَالْتَةُ گانا جو مرد موسیقی آوازوں کے مطابق نہ ہو - الْإِنْفَالَاتُ مجتھر وقت کے لئے گیس کی تیزی سے پڑ جانا - جیسے انجن میں ہوتا ہے - فَرَسٌ فَلْتٌ وَفَلْتٌ تَبْرَهْمُوزَا الْفَلْتَةُ: فَلْتٌ کا اسم مرہ - بغیر غور و فکر کے کام - مہینہ کی آخری رات ج فلنات - فَلْنَاتُ الْكَلَامِ بِلَامٍ كَالْفَرَشِمْ - غلطیاں - کہا جاتا ہے "خَرَجَ الرَّجُلُ فَلْتَةً مُرِدًا اِجَابَكَ نَكْلًا كَمَا وَحَدَّثَ الْأَمْرُ فَلْتَةً اِجَابَكَ وَاقِعٌ هُوَ كَمَا وَهُوَ فِي بَرْدَةٍ لَهُ فَلْتَةٌ وَهِيَ اِجَابَةُ جَهْوَتِي اَوْرِ نَكْلٍ جَادِرٍ فِي جَسِّهِ كَيْفَ دُونَ كِتَابِهِ لَمْ يَكُنْ يَكْتَبُ كَسَاءَ فَلُوْتٍ جَهْوَتِي نَكْلٍ جَادِرٍ: فَلَجٌ (ن ض) فَلَجًا وَفَلُوْحًا السُّي: پھاڑنا دو ٹکڑے کرنا الْحَوَاثُ الْاَرْضِ كَاشْتَاكَ زَمِيْنًا كَوْجُوْتَا الْوَالِي الْجَزِيْدَ سِيْنَهُمْ وَعَلَيْهِمْ: والی کا جزیہ کو تقسیم کرنا مقرر کرنا فَلَجًا وَفَلَجًا الْقَوْمُ وَعَلَى النَّوْمِ: کامیاب ہونا سہمہ غالب آنا الرَّجُلُ: مطلوب پر فتح مند ہونا لہ: موافق فیصلہ کرنا - فَلَجٌ بِحَاجَتِهِ ثَابِتٌ كَرْنَا: فَلَجٌ (س) فَلَجًا وَفَلَجَةٌ قَدَمُوْنَ يَ ہاتھوں یا دانتوں کے درمیان فاصلہ والا ہونا - صفت أَفْلَجٌ مَوْنَتٌ فَلَجَاءُ جَ فَلَجٌ فَالَجٌ زده ہونا - فَلَجٌ فَالَجٌ زده ہونا - فَلَجَةٌ كَامِيَا فِيْ مِيْنٍ غَالِبٌ آنا - فَلَجٌ الشُّي: تقسیم کرنا الْأَمْرُ: غور کرنا تدبیر کرنا - أَفْلَجٌ: مطلوب پر فتح مند ہونا عَلِي حَصْمِهِ: غالب آنا اور کامیاب ہونا اللَّهُ فَلَانًا عَلِي فَلَانٌ: غالب کرنا بَرَهْمُوزَا: دلیل ظاہر کرنا اور پیش کرنا لہ: موافق فیصلہ کرنا - تَفْلَجٌ پھٹنا - اِنْفَلَجُ الصُّبْحُ: صبح کا روشن ہونا -

الْفَلَجُ بس آدھا - چاند - ج فَلُوْجٌ وَالْفَلَجُ وَالْفَلَجَةُ كَامِيَا - فَجٌ مَدِي - الْفَلَجُ آدھا وَالْفَالَجُ اِيْكَ قَسْمٌ كَامِيَا جَ فَوَالَجٌ: الفلج بس دونوں قدم یا دانتوں کے درمیان فاصلہ - ج - ندی - الْفَالَجُ فَا - اِيْكَ مَرَضٌ هُوَ جَسٌّ سَ پُوْرَ بَدَنِ كَا آدْهَاصَةٌ بِالْكُلِّ بِيْكَارٌ هُوَ جَاتَا - دُو كُوْبَانٌ وَالْاَوْنَتُ مِنَ السِّيْمَاءِ كَامِيَا تَبْرَهْمُوزَا الْفَالِيْجَةُ خِيْمَةٌ كَا اِيْكَ تَحْتَهُ الْمَفْلَجَةُ: مِنَ الْاَسْنَانِ: عَلَيْهِ عِلْمُهُ دَانَتُ - الْمَفْلُوْجُ: فَالَجٌ زِدْهُ جَ مَفَالِيْجٌ الْفَلُوْجُ: لِكْتَفِيْهِ وَالْا - الْفَلُوْجَةُ: كَاشْتُ كَ قَابِلُ زَمِيْنٍ جَ فَلَايِلَجٌ: فَلَجٌ (ف) فَلَجًا الْاَرْضُ زَمِيْنًا جُوْتَا: فَلَانًا: تَكْرُرًا فَلَاحَةٌ: لِلْقَوْمِ وَالْقَوْمُ: تَرْيِدٌ وَفُرُوْحٌ فِيْ دَهْوِكَ دِيْنَا - فَلَجٌ (س) فَلَجًا نِيْجِيْ كَ هُوْنَتُ كَا پِشْمَا - صفت أَفْلَجٌ اَوْرِ هُوْنَتُ كُوْفُلْحَاءُ كَتَبِيْ فِيْ جَ فَلَجٌ: فَلَجٌ بِه: مِشْمَا كَرْنَا - اسْتَبْرَاهُ كَرْنَا - تَكْرُرًا أَفْلَجُ الرَّجُلُ: مَطْلُوْبٌ پَرِ كَامِيَا وَفَتْحٌ مَدِي هُوْنَا - كُوْشَشٌ فِيْ كَامِيَا هُوْنَا بِالشُّي: زِنْدُگِيْ گَزَارْنَا - اسْتَفْلَجُ بِه: كَامِيَا وَفَتْحٌ مَدِي هُوْنَا - الْفَلَجُ س: پِشْمَا - جَ فَلُوْجٌ - الْفَلَجُ وَالْفَلَجَةُ نِيْجِيْ كَ هُوْنَتُ كَا پِشْمَا - الْفَلَجَةُ: زَمِيْنٌ قَابِلٌ كَاشْتُ - الْفَلَجُ وَالْفَلَاحُ: كَامِيَا - دَرَسِي - حَالٌ - بَقَا: نَجَاتٌ - كَمَا جَاتَا هُوَ "حَتَّى عَلِي الْفَلَاحُ" اِيْضًا كَامِيَا اَوْرِ نَجَاتُ كَ رَاَسْتِيْ كِيْ طَرَفٌ اَوْ - الْفَلَاحُ: سَحْرِي - الْفَلَاحَةُ وَالْفَلَاحَةُ: كَيْفِيْ بَاژِي - الْفَلَاحُ: كَاشْتَاكَ - مَلَاخٌ: كَرَايِيْ پَرِ جَانُوْرِيْ دِيْنِيْ وَالْاَجُ فَالَاحَةُ وَفَالَاخُوْنُ

الْمَفْلَحَةُ: بَاعَثُ كَامِيَا - مُتَفَلَّحٌ الشُّفَةُ اَوْ الْيَدِيْنِ اَوْ الْقَدَمِيْنِ: سَرْدِيْ كِيْ وَجْهِيْ سَ پِشْمَا هُوْنَتُ يَابَا تَهْمَا يَا قَدَمُ وَالْا - تَفْلَجُ حَسْبُ: بِيْ بَلَاءِيْ مِهْمَانٌ هُوْنَا - الْفَلَجُ حَسْبُ: حَرِيْصٌ - لَاطِي - كَتَا: پُوْژْهَا رِيْجِيْ - وَهٌ فَخْصٌ جُو لُوْگُوْ كَ كَهَاتِيْ كَ اِنْتِظَارٌ فِيْ سَرِيْ - الْفَلَجُ حَسْبُ: لَاطِرٌ سَرِيْنٌ كِيْ بِدِصُوْرَتُ عُوْرَتُ - الْفَلَجُ حَسْبُ: قَبِيْجٌ بِدِصُوْرَتُ - فَلَجٌ (ف) فَلَجًا الشُّي: پھاڑنا - الْأَمْرُ: وَاضِحٌ كَرْنَا - فَلَجَهُ: مَارْنَا - الْفَلَجُ حَسْبُ: تَهْمَا كِيْ پِشْمَا جَ فَيَالَجُ: غَلَامٌ أَفْلُوْدٌ: مَوْنَا تَاژَهُ لَازَا - فَلَجٌ (ض) فَلَجًا لَهُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا حَصَةً جَدَا كَرْنَا - فَلَجٌ: مَكْرُوْمٌ مَكْرُوْمٌ كَرْنَا - أَفْلَجُهُ الْمَالُ: كِيْجُ حَصَةً لِيْنَا - أَفْلَجُ مِنْ فَلَانٍ حَقَّةٌ: كَسِيْ سَ اِيْطَانُ قِيْنَا - الْفَلَجُ: اَوْنَتُ كَا كِيْجِيْ جَ اِفْلَاذُ - اِفْلَاذُ الْاَرْضُ: زَمِيْنُ كَ خَزَانِيْ - الْفَلَجَةُ: جَلِيْگَرِيْ گوشتِ يَاسُوْنِيْ وَغِيْرَهُ كَا مَكْرُوْبُ جَ فَلَجٌ وَفَلَجٌ وَفَالَاذُ - الْفَالُوْدُ وَالْفَالُوْدُ جَ وَالْفَالُوْدُ ق: قَالُوْدُ جَ فَوَالِيْدُ - الْفَالُوْدُ: فُوْلَادُ لُوْبَاجُ فَوَالِيْدُ - الْمَفْلُوْدُ مِنَ السِّيُوْفِ: فُوْلَادُ كِيْ بِيْ هُوْتِيْ تَلُوَارُ - الْفَلَجُ وَالْفَلَجَةُ وَالْفَلَجَةُ: سِيْدِيْ تَانَبَا - لُوْهِيْ كَا مِيْلُ - زَمِيْنُ كِيْ سَارِيْ دِهَاتُوْں پَرِ اِطْلَاقٌ هُوْتَا هُوَ - بُوَا سَحْتُ اَدْمِي - تَحْمِيْلُ - جَسٌّ پَرِ تَلُوَارُ كُو اَزْمَانِيْ - فَلَسُ الْقَاضِي: فَلَانًا: كَسِيْ كَ دِيْوَالِيْهِ هُوْنَتُ كَا حَكْمٌ لَكَانَا - اِفْلَسُ: بَالُ بَاقِيْ نَهْمَا اَوْرِ اسَ سَ يَهُ اِرَادَه

فلک (ن) فلکا نڈی الجاریة: لڑکی کی

پستان کا گول ہونا۔

فلکت و فلکت الجاریة: گول پستان والی ہونا۔ صفت فالتک بن فلو اللک:

فلک و الفلک النڈی: پستان کا گول ہونا

الرجل فی الامر: کسی معاملہ میں اصرار

کرنے۔

تفلک و استفلک نڈی الجاریة: لڑکی

کے پستان کا گول ہونا۔

الفلک: آسمان میں فلک و فلک و افلاک

والفلک من کل شیء: گول اور بڑا من

البحر: موج۔ ریت کا ٹیلہ جس کے ارد گرد

کھلامیدان ہو۔ زمین کے گول ٹکڑے جو ارد گرد

کی زمین سے بلند ہوں۔ واحد فلکة و فلکة

بن فلک:

الفلک: اُبھری ہوئی ہڈیوں والا۔ سخت

جوڑوں والا۔ جس کے زانو کی چھنی میں درد ہو۔

رجل فلک: بڑے سرین والا۔

الفلکی: فلک کی جانب منسوب۔ علم نجوم کا

ماہر۔

الفلکة: فلک کا واحد۔ ہر وہ چیز جو بلند اور

گول ہو۔ بن فلک و فلک فلکة المغزل:

چرنے کا مڑکا بن فلک:

الافلک: گول زمین کے گرد گھومنے والا۔

الافلیکان: حلق کے کوئے کے ارد گرد

گوشت کے دو ٹکڑے۔

المفکک و المفکک: من النساء: گول

پستان والی عورت۔

الفلکسرة: انگوٹے کے تانے کو چوسنے والا کپڑا۔

افتلک: اٹفک: ناک کا ٹٹا۔

الفلمج افلام: کیست۔ فونوگرافی میں استعمال

والی نیکی۔ قصہ کہانی

علم الفلک: آسمان کے برجوں کا علم۔ یہ بات

رکھی ضروری ہے کہ ہر ماہ ستاروں کے طلوع

ہونے میں دو گھنٹیوں (گھنٹوں) کا فرق ضروری

ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ستارہ آٹھ بجے

حریران (جون) کے شروع میں طلوع ہوتا ہے

وہی ستارہ دس بجے یار (مئی) کے شروع میں

طلوع ہوگا۔

اس کے برعکس یہ ستارہ چھ بجے (تومز) جولائی

کے شروع میں طلوع ہوگا۔۔۔۔۔

القیلم: بڑے جش کا مرد۔ چوڑا کنواں۔

کنگھی۔ بزدل۔ بڑی زلفوں والا۔ بہت لشکر۔

دستر خوان کے نیچے بچھانے کا چڑا۔

فلان و فلانة ذوی العقول کے علم کا

کنایہ کیا جاتا ہے اور اس صورت میں ان پر الف

لام داخل نہیں ہوتا اور فلانة غیر منصرف

ہے۔ کہا جاتا ہے جاء فلان فلان کے ساتھ

اور جاء فلانة بغیر تینوں کے اور کبھی غیر

ذوی العقول کے علم سے بھی کنایہ کیا جاتا ہے

اس صورت میں الف لام داخل ہوتا ہے جیسے

رکبت فلان و حلبت الفلانة۔

فلا یفلو فلوا و فلاء: سفر کرنا۔

ہ بالسیف: تلوار سے مارنا القوم: درمیان

میں آنا۔

موبفلی و افتلی الصبی او المہر: بچہ یا

بچھیرے سے دودھ چھڑانا الغلام: لڑکے کی

پرورش کرنا۔ افلاہ لنفسہ: اپنے لیے لینا۔

افلی الرجل: جنگل میں داخل ہونا۔ اقلبت

الفرس: بچھیرے والی ہونا۔ دودھ چھڑانے

کے قابل بچھیرے والی ہونا۔ صفت مقل و

مقلیة۔

الفلو: بچھیرا یا گدھے کا بچہ جو دودھ چھڑانے

کے قابل ہو یا جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ ج

افلاء و فلاء۔

الفلو و الفلو: بمعنی فلو ج افلاء و

وفلاوی مونت فلوة و فلوة۔

الفلاة: وسیع بیابان ج فلوات و فلا و

فلی و فلی اور فلا کی جمع افلاء۔

ثوبہ: سر یا کپڑے سے جوئیں نکالنا۔

فلی یفلی فلی الشی: کٹنا۔

فلی و افلی و افلتی القوم: درمیان میں

آنا۔ افلی القوم بعینہ: قوم کو غور سے

دیکھنا۔

تفلے: سر یا کپڑے میں سے جوئیں نکالنا۔

الطائر: پرندہ کا چونچ سے ہڈوں کو کھجھلانا۔

تفالی و استفلی: کسی سے جوئیں نکالنے کی

خواہش کرنا۔ تفالت النساء: ایک دوسرے

کی جوئیں نکالنا الحمر: گدھوں کا ایک

دوسرے کو کھجھانا۔ استفلاء: تلوار سے سر

بھاڑنے کے درپے ہونا۔

القالیة: جوئیں نکالنا۔

القالیة: چھری۔ داغ دار گریلا سانپوں کے

بلوں کے قریب رہا کرتا ہے اور اسی وجہ سے

اس کو قالیة الافاعی بھی کہتے ہیں۔ قالیة

الافاعی: شہر کا پیش خیمہ۔

الفم و الفم و الفم من الانسان: منہ

اصل وضع کے لحاظ سے (فہ) ہے۔ اس کا تشبیہ

فمان فموان و فمیان اور جمع افواہ

(باتنار اصل وضع کے) اور افمام اور نسبت

کے لیے فموی و فمی۔

فن (ن) فنا الشیء: جزین کرنا الرجل:

مشقت میں ڈالنا فی البیع: نقصان دینا۔

فن الذین: قرض کو ناپا ادا کرنا۔ اونت کو دفع

کرنا۔ ہانکنا۔

فتن: الشیء بالشیء: ملانا الناس: جدا جدا

کرنا۔ جماعت و ار کرنا رایة: رنگ برنگ رائے

پر لینا۔

تفتن: الشیء: قسم یہ قسم ہونا۔ مضطرب ہونا

وافتن فی الحدیث: اچھے اسلوب سے بیان

کرنا۔ افتن فی خصومتہ: قسم قسم کی باتیں

کہنا۔

استفتن: فرسہ: گھوڑے کو گونا گوں چال

چلانا۔

الفن: سر۔ قسم چال۔ ج افنان و فتون

جج۔ افانین۔ افانین الکلام: کلام کے

مختلف اسلوب۔ کہا جاتا ہے ”لَقِيَتْ مِنْهُ فَنًا“ یعنی اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فِنٌ عَلَيْهِ“ وہ علم کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے والا ہے۔

الفن سے مراد وہ عمل جس کو کرنے والا اعلیٰ جمال و کمال میں پیش کرے۔ فَنُونُ الشَّعْرِ: شعروں کی انواع و اقسام۔ الفَنُونُ الجَمِيلَةُ فنون جو خوبصورتی کو اجاگر کریں جیسے موسیقی، نوٹوگرافی، شعر، بلاغ، ڈیزائن سازی، تعمیر اور ناچ۔ الفَنُونُ اللَّذِيذَهَبُ جَنِّ كَرْنِي سے لذت (اگرچہ گناہ والی) محسوس ہو جیسے ناچ، گانا اور گھوڑ سواری، الفَنُونُ الحُرَّةُ فَنُونُ جن میں ہاتھ کے بجائے ذہن زیادہ کام کرے۔ الفَنُونُ البَدْوِيَّةُ فنون جن میں ہاتھ زیادہ مؤثر ہو عقل سے جیسے پتھر تراشی۔

الفن سیدھی شاخ افنانج افاہین۔ الفَنَةُ بِنِ كَامِ مَرَّةٍ مَدَت۔ الفَنَةُ بہت گھاس۔ شَجَرَةٌ فَنَاءٌ وَفَنَوَاءٌ بہت شاخ والا درخت۔

الفَنَانُ لَبَّ بَالٍ وَاللَّاءُ شَعْرٌ فَنَانٌ لَبَّ لَبَّ اِجْتَمَعَ بَالٍ۔ الأَفَنُونُ قَبْزٌ۔ گنجان ٹہنی۔ ابتداء جوانی۔ ابتداء بادل۔ مضطرب کلام۔ سانپ۔ ج

افانین۔ المَفْنُ عَجِيبٌ عَجِيبٌ أُمُورٍ كَرْنِي وَاللَّاءُ مَفْنَةٌ۔ المَفْنَةُ بِدَخْلٍ بُوْضِي عَمُورَت۔ المَفْنُونُ فَا۔ گونا گوں حالات والا۔ گونا گوں صنعت والا۔

الفن جماعت۔ الفناء کثرت۔ فَنَجْرٌ عَيْبِيَّةٌ اَبْكَيْتِيں پھاڑ پھاڑ کر تیز نگاہ سے دیکھنا۔

الفناجر ذباہرین شسواری۔ الفَنَجَانُ چائے پینے کی پیالی جمع فناجین۔ الفَنَجَانُ سُونِي تَابِي كَامِ پَرِ گُولِ زِيُوْر۔

فَنَحْلَانِ (فَنَحْلَانِ) فَنَحَا وَفَنَحَا غَالِبٌ هُوَان۔ ذَلِيلٌ كَرْنَا۔ فَنَحْ عَظْمُهُ بِغَيْرِ خُونٍ لَكَلِي هُوِي بِدِي كُوچُوْرہ كَرْنَا۔ فَنَحَا فَنَحَا وَفَنُوْحَا خُوبٌ اِجْتَمِي طَرَحٌ قَتَلٌ كَرْنَا۔

أَفْنَحُ رَأْسُهُ يَكْنَانَا۔ تَفْنَحُهُ مَقْمُورٌ كَرْنَا۔ بِهت بُرِي طَرَحٌ سِي ذَلِيلٌ كَرْنَا۔ الفَنِيخُ بَرْمٌ وَكَمَزُورٌ بِدَحَا۔ المَفْنِيخُ دَشْمُونُ كُو بِهت ذَلِيلٌ كَرْنِي وَاللَّاءُ اِن كِي سَرُونِ كُو بِهت تُوْرُنِي وَاللَّاءُ فَنَحْرٌ فَنَحْرَةٌ تَهْتِي پَهْلَانَا۔

الفَنَاحُ بَرِي نَاكٌ وَاللَّاءُ (وَالْفَنُحُ) بَرِي ذَلِيلٌ ذُولُ وَاللَّاءُ نُوْتٌ فَنَاحِرَةٌ وَفَنُحْرَةٌ۔ الفَنِيخِيَّةُ بِهت فَنَحْرٌ كَرْنِي وَاللَّاءُ فَنِدَا (س) فَنِدَا وَافْنِدٌ كُھُوسُ هُوَانَا۔ بَرِضَاپِي كِي وَجِي سِي ضَعِيْفٌ اِعْقَلٌ هُوَانَا۔ جھوٹ بولنا فِي الرَايِ اَوِ النُّوْلِ خَطَا كَرْنَا۔

أَفْنَدُهُ خَطَا كَارِ ظَهْرَانَا۔ اَفْنَدُهُ الكِبْرُ بَرِضَاپِي كَا كُوسِي كُو ضَعِيْفٌ اِعْقَلٌ كَرْدِيَانَا۔ فَنَدُهُ جَهْلَانَا۔ مَلَامَتٌ كَرْنَا۔ خَطَا كَارِ ظَهْرَانَا۔ ضَعِيْفٌ اِعْقَلٌ بَنَانَا۔ فَنَدٌ فِي الشَّرَابِ مَدَاوِمَتٌ كَرْنَا۔ الفَرَسُ گھوڑے كُو دَبْلَا كَرْنَا۔ چھیرا بنانا۔

وَفَانَدٌ وَتَفْنَدُ فَلَانَا عَلِي اَلْأَمْرِ طَلَبٌ كَرْنَا۔ تَفْنَدُ مَن كَذَابًا مَدِ وِشِيمَانِ هُوَانَا۔ الفَنَدِيں عَاجِزِي۔ كَفَرَانِ نَعْمَتٌ جِ اَفْنَادُ الفَنَدُ بَرِضَاپِي۔

الفَنَدُ بَرِضَاپِي۔ ثَنِيں نُوْحٌ۔ جَعِ شَدِي قَوْمٌ زَمِيْنٌ جَسِ پَرِ بَارَشِ نِي هُوِي هُوِي۔ جِ فَنُونُ وَاَفْنَادُ كُھَا جَاتَا هِي۔ اَفْنَا وَاَفْنَادُ اِلْعِيْنِي گِرُوھِ گِرُوھِ آئی۔ وَاَفْنَادُ اللُّبْلُبَاتِ كِي هِي۔

الفَنَدِيُقُ بَرِضَاپِي جِ فَنَادِقُ بَنَدُوقٌ۔ الفَنَدَاقُ حَسَابُ كَارِ جِزْرِ جِ فَنَادِيُقُ الفَنَارُ مَشْطَلٌ۔ رُوشِي كَامِنَارُھِ جِ فَنَارَاتُ الفَانُوْسُ جِغَلُ خُورٌ۔ مَشْطَلٌ۔ لَالِيْنِ جِ فَوَانِيْسُ

فَنَشٌ فِي اَلْأَمْرِ سُبُسْتُ هُوَانَا۔ عَن اَلْأَمْرِ مَرَكٌ جَانَا۔

الفَنَاطِسُ جِهَازٌ مِيں مِيٹھِي پَانِي كَا حَوْضٌ۔ مِيٹھِي پَانِي كِي تَقْسِيْمُ كَرْنِي كَا مِيَالُ نِ فَنَاطِيْسُ اَنْفُ فَنَاطِسُ چُوڑِي نَاكٌ۔

الفَنَاطِيْسُ كَمِيْنَا۔ چُوڑِي نَاكٌ وَاللَّاءُ نَاكٌ جِس كِي تَهْتِي چُوڑِي هُونِ اُوْر بَانَسَا پِيْتِ هُوِي جِ فَنَاطِيْسُ الفَنَاطِيْسَةُ سُوْرِي تَهُو تَهْتِي۔

فَنِيْعٌ (س) فَنَعَا بِالْمَدَارِ هُوَانَا۔ صَفْتٌ فَنِيْعٌ وَفَنِيْعٌ الفَنِيْعُ سِ۔ بِهت بَشَشٌ۔ فَيَاضِي۔ مَكْكِي كِي مَبْرُكٌ۔

المَفْنَعُ اِجْتَمِي شَهْرَتٌ وَاللَّاءُ نِيكٌ نَامٌ۔ فَنَقٌ وَفَانِقٌ نَارُ نَعْمَتٍ سِي پَالَانَا۔ اَفْنَسُ نَحِي كِي بَعْدِ صَاحِبِ نَعْمَتِ هُوَانَا۔ تَفْنَقُ الْعُلَامُ نَارُ نَعْمَتِ سِي زَمْدُگِي بَسْرُ كَرْنَا فِي اَلْأَمْرِ مَبَالِغٌ كَرْنَا۔

جَارِيَةٌ فَنَقٌ وَمِفْنَاقٌ نَارُ نَعْمَتِ مِيں پَلِي هُوِي لُزِي۔

الفَنِيْقُ زَاوْنَتٌ كِي جِس كُو بُوْجِي اِس كِي شَرَافَتِ كِي نِي تُو سُوَارِي كِي كَامِ مِيں لَآئِيں اُوْر نِي اِس كُو تَكْلِيْفِ بِنِچَانِيں جِ فَنُوْنَجُ اَفْنَاقُ العِنَقِيْلُ رُوْرِي نَارُ نَعْمَتِ مِيں پَلِي هُوِي عَمُورَتِ جِ فَنَاقِيُقُ عَيْشُ مَفَانِيُقُ خُوشِ عَيْشِ زَمْدُگِي۔

الفَنَقُ مَوْتٌ۔ فَنَلَانِ (س) فَنُوْحَا بِالْمَكَانِ اِقَامَتٌ كَرْنَا۔ وَاَفْنَكٌ عَلِي اَلْأَمْرِ مَدَاوِمَتٌ كَرْنَا۔ فِي اَلْأَمْرِ اِصْرَارٌ كَرْنَا۔ جھوٹ بولنا۔ فَانَاكٌ مَفَانِكَةٌ فِي اَلْأَمْرِ دَخْلٌ دِيَانَا۔

دَفْنَكٌ تَفْنِيْگَا۔ فِي الشَّرَا وَالْجَدَابِ اِصْرَارٌ كَرْنَا۔ الفَنَلُ وَالْفَنَلُ تَعَجِبٌ۔ الفَنَلُ رَاتِ كَا مَكْلُوْرٌ لُوْمَزِي كِي جِنْسِ سِي اِيكُ جَانُوْرُ هِي جُو لُوْمَزِي سِي جَهُوْنَا هُو تَا هِي اُوْر جِس كِي كَهَالِ كِي پُوْسْتِيْنِ بِهت اِجْتَمِي هُوِي هِي۔

الفنک دروازہ (والفنکات کاکڑا۔
الفنک انسان کے جیزوں کے لئے کی جگہ۔
الفینک تیش کاربالک۔ (فرائسی لفظ)
والافینک پندہ کلامغزہ۔
المعقنکہ ہوتوف عورت۔
الفناتہ یعنی ج فنوات بکوسے ج فنا
شجرہ فنوا بہت شاخوں والا سایہ دار
درخت۔

فنی و فنی یعنی فنا معدوم ہونا۔
الرجل بہت بوزھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "سار
شینھا فانیاً"
فانی مضانہ الرجل مدارت کرنا۔
تسکین دینا۔ کہا جاتا ہے "کان بغانی الامام
لاہیا یعنی وہ زمانے کو کھیل کود میں بسر کرتا
ہے۔

المنال بال کا ہتھا نظام کرنا۔
افنی الفناء السی معدوم کرنا۔ ہلاک کرنا۔
تفانی بعض کا بعض کو ہلاک کرنا۔
الفانی با۔ پیر فانی۔ کھوسٹ بڑھا۔
الفناء میں معدومی۔ ہلاکت۔
الفناء گھر کے سامنے کا میدان ج الفنیہ
ولفی کہا جاتا ہے "هو من افناء الناس وہ
غیر معروف النسب ہے۔

فلان (وفہلس) فہاہة بول چال میں
درماندہ عاجز ہونا۔ صفت فہ و فہیہ
فلس (فہا الشی و عن الشی بھولانا۔
فہہ و افہ اللہ الرجل عاجز کرنا۔ افہہ
الشی بھولانا۔

الفہہ مؤنث فہ عاجزی۔ غفلت۔
فہلس (فہذا تیندوے جیسا ہونا۔ صفت
فہڈ و فہڈ۔ فہڈ عنہ غافل ہونا۔
فہڈ (ف) فہڈا فلان کسی کے کام کو اس
کی غیر موجودگی میں اچھا کرنا۔

الفہڈ تیندوے فہوڈ و افہڈ۔
الفہڈہ بادہ تیندوے فہڈات ڈبر۔
الفہڈ تیندوے والا۔ تیندوے کو شکار
کھانے والا۔

الفوہڈ مونا تازہ قریب البلوغ لڑکا۔ مؤنث
فوہڈہ۔

الافوہڈ سخی فوہڈج الفاہید۔
فہر الفرس او الرجل تھک جانا۔
الفہر یہودیوں کی عید میں شریک ہونا۔
زیڈ موناٹی کی وجہ سے سلوٹ والا ہونا۔
تفہر فی المال و الکلام وسعت ہونا۔
الفہر عند اطباء دوا پینے کا پتھر۔ ج
فہار و فہور۔

الفہرۃ یعنی الفہر۔
الفہرس و الفہرست کتاب جس میں
کتابوں کے نام جمع کئے جائیں۔ کتاب کے اول
یا آخر میں چند اوراق جس میں کتاب کے ابواب
و فصول بیان کر دیئے جائیں۔ ج فہارس۔
فہضڈ (ف) فہضڈا توڑنا۔ کچلنا۔
فہق (ف) فہقنا الرجل چنبر گردن پر
مارنا۔

فہق (س) فہقنا و فہقنا الاناء برتن کا
لبریز ہو کر چھلنا۔

افہق الاناء برتن کو بھرنا۔ البرقی
و غیرہ بجلی وغیرہ کا چمیل کر چھلنا۔
تفہق و انفہق الحوض بالماء جوش کا
پانی سے چھلنا البرقی و غیرہ بجلی وغیرہ کا
چمیل کر چھلنا۔

الفقہہ گردن کے جڑ کی بڑی۔ ج فہاق
الفاہقہ زخم جس سے خون جاری ہو۔ بینی
مفہاق بہت پانی والا کتواں۔

المنفہق کشادہ۔
الفہق کشادہ۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔

فہم (س) فہما و فہما و فہامۃ و
فہامۃ و فہامیۃ۔ بھنا۔

فہمۃ و افہمۃ سمجھانا۔
تفہم الکلام تھوڑا تھوڑا سمجھنا۔

تفہم القوم بعض کا بعض سے سمجھنا۔
استفہمہ الامر دریافت کرنا۔ سمجھانے
کے لئے کہنا۔

الفہم سمجھ۔ کسی چیز کا تصور۔

الفہم تیز سمجھ دار۔

الفہامۃ بہت سمجھنے والا۔ مبالغہ کیلئے ہے۔

الفہم سمجھ دار۔ ج فہماء۔ فہا

(ن) فہوا عن الامر بھولنا۔

الافہاء بیوقوف لوگ۔

فوف دہ کا مادہ دیکھئے۔

فوات یفوت فواتا و فواتا الامر بگزرنہ۔

وقت جاتا رہنا۔ الامر حاصل کرنے میں

ناکام رہنا۔ فلان فی کذا آگے بڑھ جانا

الشی تجاوز کرنا۔

افاتۃ الامر بگزرنے دینا۔

تفوت علیہ فی مالہ غلبہ کرنا۔

تفاوت تفاوتا و تفاوتا و تفاوتا

الشیان مختلف ہونا۔ دور دور ہونا۔

تفاوتا فی الفضل فضل و کمال میں مختلف

ہونا۔

الفات الکلام یعنی گفتگو کرنا بڑا یہ خود

رائی کرنا ہا امرہ کر گزرنے اور مشورہ نہ کرنا۔

علی فلان فی الامر حکم کرنا۔ فیملہ کرنا۔

الامر بوت ہونا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا

یفتات علیہ فلان کی اجازت کے بغیر کوئی

کام نہیں کیا جاتا۔

الفوت بس دوائیوں کے درمیان کشادگی

ج افوات کہا جاتا ہے "جعل اللہ رزقہ

فوت فہ یعنی اللہ نے اس کے رزق کو ایسا

بنا یا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور اس تک پہنچتا نہیں۔

الفوات بس موت افوات۔ اچانک

موت۔

الفوت خود رائے جو کسی سے مشورہ نہ

کرے۔ (مذکر و مؤنث)

فاج یفوج فوجا۔ المسک ملک کی

خوشبو کا پتھر کرنا النهار دن کا ٹھنڈا ہونا۔

فوج عن نفسه ٹھنڈا کرنا۔

افاج الرجل جلدی کرنا الفرس

گھوڑے کا دوڑنا۔

استفیح لکا سمجھا جانا۔ ذلیل سمجھا جانا۔

الفوج جماعت۔ گردہ۔ ج افواج و

فَوْجُ وَجِ افَاوَجِ وَالْفَاوِجِ وَالْفَاوِجِ.

الفَاوِجَةُ: جماعت۔ ریت یا سخت زمین کے دو ٹیلوں کے درمیان کشادگی۔

فَاخَتْ تَفْوُحًا فَوْحًا وَفُؤُوحًا وَفُؤُوحَانَا
الْقِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا الشَّحَّةُ: زخم کا
خون پھینکانا۔ فَاخَ وَتَفَاوَحَ الزُّهُرُ: پھول کا
مہکتا۔ خوشبو بھڑکتا۔ فَاخَ الْمِسْكُ او
الطِّيبُ: مہکتا یا خوشبو کا بھڑکتا۔

أَفَاخَ الدَّمُ: خون گرنا الْقِدْرُ: ہانڈی کو
جوش دینا۔

فُؤُوحُ الْحَرِّ: گرمی کی شدت۔

فَاخَتْ تَفْوُحًا فَوْحَانَا. الرِّيحُ: ہوا کا چلنا
اور آواز لگانا۔

فَاخَ وَالْفَاخُ. الرَّجُلُ: گمراہ کرنا۔ أَفَاخَ
الرِّقُّ: مہکتا کاندہ کھول کر ہونا نکالنا۔

فَادَ يَقْفُذُ فَوْذًا. مَرْنَا الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: ملانا
الْمَالُ لِفُلَانٍ: ثابت ہونا۔ اور اسم اس سے

الْقَائِدَةُ ہے۔

أَفَادَ إِفَادَةَ الرَّجُلِ: نارنا۔ ہلاک کرنا۔ أَفَادَ
وَفَلَانٌ الْمَالَ: جمع کرنا۔ کمائی کرنا فَلَانًا مَالًا

او عَلِمْنَا: زینا یا نفع پہنچانا۔

تَفَوَّذَ الرَّجُلُ فَوْقَ الْجَبَلِ: پہاڑی بکری
کا پہاڑ پر چڑھنا۔

اسْتَفَادَ: حاصل کرنا۔

الْفَوْذُ: جھ۔ کپٹی۔ کپٹی کے بال۔ کہا جاتا ہے
”بَدَا الشَّيْبُ بِفَوْذَيْهِ“ یعنی اس کی دونوں

کپٹیاں سفید ہو گئیں۔ الْفَوْذُ: بڑا تھمیا۔
پوری۔ فوج۔ کنارہ۔ فَوْذُ الْخَبَاءِ او الْوَادِي:

خیمہ یا وادی کا کنارہ جِ الْفَوَادِ:

المَفْوَادُ: تلف کرنے والا۔

الْفَوْذُ ج. ہو دج۔ ڈہن کی پالکی۔

فَارَتْ تَفَوَّرَ فَوْرًا وَفُورًا وَفُورًا.

الْقِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ أَبْلَنَا: فَارَ الْمَاءُ:
پانی کا زمین سے نکلنا اور بہنا الْعَوْفُ: رگ کا

مضطرب ہونا (فُورًا او فُورًا اِنَا الْمِسْكُ):
خوشبو کا بھڑکتا۔ فُورًا وَ الْفَارُ: الْقِدْرُ:
ہانڈی کو جوش دینا۔

فَارَ الْمِيزَانُ: ترازو کے ڈبان کے ادھر ادھر
کے لوہے بنانا۔

الْفَارُ: چوہا۔ واحد فَارَةٌ. فَارَةٌ الْإِبِلُ: کھال
کے تر ہو جانے کے بعد کی بو۔

الْفُؤْرُ: جس۔ جلدی۔ کہا جاتا ہے ”رَجَعَ مِنْ
فُؤْرِهِ“ جلدی واپس ہوا۔ فُؤْرٌ كَمَلُ شَيْءٍ: ہر

چیز کا اٹل۔

الْفُؤْرُ: ہر نیاں۔ واحد فُؤْرٌ۔ کہا جاتا ہے ”لَا
أَعْلَهُ مَا لَا لَاتِ الْفُؤْرُ“ میں اس کو نہیں

کروں گا جب تک ہر نیاں اپنی ذم ہلائی رہیں گی
یعنی کبھی نہیں کروں گا۔

الْفُؤْرَةُ مِنَ الْحَرِّ او الْغَضَبِ: گرمی یا
غصہ کی تیزی۔ فُؤْرَةُ النَّهَارِ: دن کی ابتدا۔

فُؤْرَةُ النَّاسِ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
فُؤْرَةُ الْعِشَاءِ: عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔

کہا جاتا ہے ”أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِفُؤْرَتِهِ“ میں
نے چیز کو اس کی ابتدا ہی میں لے لیا۔

الْفِيَارُ: ترازو کے ڈبان کے ادھر ادھر
کے لوہے۔

الْفَائِرُ: فَا۔ کہا جاتا ہے ”فَارَ الْفَائِرُ“ اس کا
غصہ بھڑکتا۔

الْفُؤْرَةُ: ہانڈی کا اُبال۔

الْفُؤَارُ: اسم مبالغہ۔

الْفَيْؤُورُ: بہت جلدی غضبناک ہونے والا۔
الْفُؤَارَةُ: مؤنث فُؤَارٌ: ہانی کا چشمہ۔ فُؤَارِهِ:

فَارَ يَقْفُذُ فَوْزًا. بِالْأَمْرِ: کامیاب ہونا من
المَكْرُوهِ: نجات پانا الرَّجُلُ: ہلاک ہونا۔

مرنا۔

فُؤْرٌ تَفَوَّرَ الرَّجُلُ: گزرنے مارنا الطَّرِيقُ:
ظاہر ہونا الوَاعِي: بابیلہ۔ چرواہے کا اُونٹوں

کے ساتھ جنگل طے کرنا۔

وَتَفَوَّرَ أَيْكَ مَلِكٌ سِ دُوسرے مَلِكٌ مِیں
جانا۔

أَفَارَ فَلَانًا بَكْدًا: کامیاب کرنا۔

الْفَارُ: قہر و کھمبوں والا خیمہ۔ کہا جاتا ہے

”صَرَبَ الْفَارَةَ بِالْمَفَاوِرَةِ“ اس نے بیابان
میں خیمہ لگایا۔

المَفَاوِرَةُ: نجات۔ کامیابی۔ ہلاکت۔ بیابان
جس میں پانی نہ ہو جِ مَفَاوِرَاتٍ وَمَفَاوِرَ:

فُؤُوسٌ تَفَوَّرَ نِضًا. إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سپرد کر دینا۔
الْفُؤُوسِيَّةُ: خوبصورت پھولوں کا پودا۔

الْمَرْأَةُ: بغیر مہر کے نکاح کر دینا۔

فَاوَضَهُ مَفَاوِصَةً فِي الْأَمْرِ: برابر ہونا۔
شریک ہونا۔ اہم بات چیت کرنا۔

تَفَاوَضَ الْقَوْمُ فِي كَذَا: بعض کا بعض کے
ساتھ شریک ہونا الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ:

شریک ہونا اور برابر ہونا تَفَاوَضُوا فِي
الْحَدِيثِ: بات چیت میں مشغول ہونا۔ کہا

جاتا ہے قَوْمٌ فُؤُوسِيٌّ أَيْ قَوْمٌ جِسْ مِیں سب
برابر ہوں اور ان کا کوئی رئیس نہ ہو ”وَأَمْرُهُ

فُؤُوسِيٌّ بَيْنَهُمْ وَفُؤُوسِيٌّ:
وَفُؤُوسِيَّةٌ“ ان کا معاملہ مخلط ہے۔ ہر ایک

تصرف کا حق رکھتا ہے ”أَمْوَالُهُمْ فُؤُوسِيٌّ
بَيْنَهُمْ وَفُؤُوسِيٌّ وَفُؤُوسِيَّةٌ“ وہ

سب مال میں برابر کے شریک ہیں کوئی فرق
نہیں۔ کہا جاتا ہے شِرْكَةٌ مَفَاوِصَةٌ وَ

شِرْكَةٌ مَفَاوِصَةٌ وَ شِرْكَةٌ جِسْ مِیں شِرْكَاءُ
مال اور تصرف اور دین کے لحاظ سے برابر ہوں

اور اس کے مقابلہ میں شِرْكَةٌ عَمَانٌ ہے وَ
مَفَاوِصَةُ الْمَعْلَمَاءِ: علمی مسائل کا مذاکرہ۔

الْمَفُؤُوسِيَّةُ: وہ دائرہ جس کو ذمہ دار افر لگائے۔
منصب ذمہ دار افر۔

الْفُؤُوسِيَّةُ: وہ غیر منظم سیاسی نظام حکومت
جس میں عوام پر حکام کا حکم غیر موثر یا معطل

تصور کے کیا جائے۔
الْفُؤُوسِيٌّ: غیر منظم حکومت کا ساتھ دینے

والا۔ لا قانونیت برتنے والا۔
فُؤُوسَةٌ: ازار پہنانا۔

الْفُؤُوسَةُ: ازار جس کو خدام استعمال کرتے ہیں
جِ فُؤُوسٌ اور عوام کے نزدیک رومال کو کہتے

ہیں۔
فَاظٌ فُؤُوسٌ فُؤُوسًا وَفُؤُوسًا: کہا جاتا

ہے ”حَانَ فُؤُوسُهُ“ یعنی اس کی موت کا وقت
آ گیا۔

الفوعة من الطيب خوشبو۔
من السهم زہر کی تیزی من الشباب جوانی
کی ابتداء۔

فاق يفوق فوفا الطيب خوشبو بھڑکانا۔
مہکانا۔

الفوعة من الطيب خوشبو کی بھڑک۔
الفانعة تیز خوشبو جو ناک کو بھر دے۔
الفوع منہ کی موٹائی۔

الافوع موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے فم
افوع موٹا منہ "ورجل افوع" موٹے منہ
والامرد۔

فاق يفوق فوفا۔ انگوٹھے اور شہادت کی
انگلی کے ناخنوں کو ملا کر سائل کو کچھ نہ دینے کا
اشارہ کرنا۔

الفوف والفوف۔ گائے تیل کا مٹانہ۔
جوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ واحد فوفة
وفوفة ج افواف۔

الفوف والفوفة دانہ کا چھلکا۔

ثوب افواف وثوب مفوف باریک کپڑا۔
سفید دھاری دار کپڑا۔
فاق يفوق فوفا وفوفا الشئ بلند ہونا۔
اصحابہ بالفضل او العلم بڑھ جانا۔

سہقت لے جانا۔
فوافا یعنی آنا (فوافا و فوفا) الرجل
قریب الہرگ ہونا یا مرنا (فوقا السهم)
سوفار تیر کو توڑنا الشئ توڑنا۔

فاق يفوق وفوق يفوق فاقا وفوفا
وفوقا السهم سوفار میں کچی ہونا۔
فوقه على قومه فضیلت دینا۔ فوق
السهم سوفار لگانا الفصیل مہلت دے

دے کے دودھ پلانا۔
افاق افاقہ من مرضہ صحت یاب ہونا۔
الحالب دودھ دے کے دہنے کے بیچ میں
آرام لینا۔ افاق الناقة تھن میں دودھ جمع
ہونا۔ صفت مفيق ومفيقة ج مفاويق و
فيق السكران من سكره ہوش میں آنا۔
من النوم بیدار ہونا المجنون من

جذوبه ہوشیار ہونا الزمان تنگی کے بعد
فراخي آنا عنه النعاس نیند کا اٹھ جانا من
غفلته چونکا ہونا (الفوق الفوقا و افوق
ايفاقا) السهم تانت پر سوفار رکھنا۔

تفوق الشراب تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔
على قومه بلند ہونا الناقة دہنے کے بعد
مہلت دے کر دہنا الفصیل مہلت دے کر
دودھ پینا ما لہ: ظہر ظہر کے خرچ کرنا۔

افاق ايفاقا السهم سوفار ٹوٹا۔
الجمل اونٹ کالاغر ہونا اور ہلاک ہونا۔
الفاق الرجل محتاج ہونا۔ فقير ہونا۔

استفاق الرجل من نومه او مرضه او
غفلته بمعنی افاق الناقة اونٹنی کو دہنے کے
بعد مہلت دے کر دہنا۔

الفاق کھانے سے بھرا ہوا بڑا پیالہ۔ جنگل۔
کتکھال لیے قد کا مرد۔ لمبی گردن کا ایک دریائی
جانور۔

الفاقہ حاجت۔ فقر۔ محتاجی۔
فوق سر۔ اوپر۔ اور یہ طرف مکان ہے اور
کبھی زمانہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے
اقمت فوق شہر اور کبھی زیادتی اور فضل پر
دلالت کرتا ہے جیسے العشرة فوق التسعة
و "هذا فوق ذلك" اور کبھی بطور اسم کے
استعمال ہوتا ہے۔ كقولہ. وَاذَا ذُكِرَتْ
فَكُلُّ فَوْقِ ذُوْنِ.

الفوقانی او پر والا۔ اعلیٰ۔ تفضیل۔ تھانی۔
الفوق سوفار ج فوق افواق زبان کا
کنارہ۔ پہلا رستہ۔ کہا جاتا ہے "ما ارتد على
فوقه" یعنی گیا اور لوٹا نہیں ولہ من کذا
سہم ذوفوق یعنی وہ ان میں سے اکثر حصے
والا ہے۔

الفوق سوفار میں کچی۔
الفوقة سوفار ج فوق و فقا
الفیقة۔

دودھ جو دودھ دہنے کے درمیان میں تھن
میں جمع ہو جائے۔ الفیقة من اللیل رات کا
اکثر حصہ۔ فیقة الضحیٰ چاشت کی ابتداء

دودھ جو دودھ دہنے کے درمیان میں تھن
میں جمع ہو جائے۔ الفیقة من اللیل رات کا
اکثر حصہ۔ فیقة الضحیٰ چاشت کی ابتداء

دودھ جو دودھ دہنے کے درمیان میں تھن
میں جمع ہو جائے۔ الفیقة من اللیل رات کا
اکثر حصہ۔ فیقة الضحیٰ چاشت کی ابتداء

دودھ جو دودھ دہنے کے درمیان میں تھن
میں جمع ہو جائے۔ الفیقة من اللیل رات کا
اکثر حصہ۔ فیقة الضحیٰ چاشت کی ابتداء

فینی وفیق وفیقات و الفواق و الفاقیق
تم کہتے ہو "ارضعنی افادینی برہ" اس نے
میرے ساتھ بہترین احسانات کئے الافاویق
پانی جو بادل میں جمع ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا
برے۔

الفواق و الفواق اس دودھ دہنے کے
درمیان کا وقت۔ دہنے والے کے ہاتھ کے
بند کرنے اور کھولنے کے درمیان کا وقت۔ اور
اسی سے ان کا قول ہے۔ امهلنی قدر

فواق حالب یعنی مجھے ذرا سی مہلت دو
"وله من کذا سهم ذو فواق" اس کیلئے
فلاں چیز سے حصہ کال ہے۔ الفواق جاگتی
کے وقت کی بچی ج. الفوقة و الفیقة وج
الفوقات. الفواق: اسم ہے افاق
واستفاق العلیل سے جبکہ وہ لاغر ہو
جائے۔

الفائق فاف۔ برگزیدہ۔ عمدہ خالص ہر چیز کا ج
فائقون و فوقة. الفائق: سر اور گردن کی
جوڑی جگہ۔

السهم الافوق وہ تیر جس کا سوفار ٹوٹ گیا
ہو۔ شاعر مفيق شاعر بلخ۔
طعام مفوق کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا جائے۔
الفول لوبیا۔

الفوال لوبیا بیچنے والا۔ لوبیا پکانے والا۔
قوم روٹی پکانا۔
الفوم لہسن۔ گیہوں۔ چنا۔ روٹی۔ بڑا قلم۔
کل وہ نکلے جن کی روٹی پک کے ج فومان۔
الفومة قوم کا واحد خوشہ چنگلی جو دو
انگلیوں کے درمیان لی جائے۔ ج قوم۔
الفامی سبزی فروش۔

الفوفل و الفوفل ہندوستان میں ایک
انگور کی پھل جس کو کزوری دور کرنے کے
لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی طاقت صندل
کی طرح ہوتی ہے۔

الفواوایا اس کا دوسرا نام حمود الکلب ہے۔
ایک دوائی کا نام۔
فاه يفوه فوهها و تفوهه بگذا: بولنا۔

فاه يفوه فوهها و تفوهه بگذا: بولنا۔

فاه يفوه فوهها و تفوهه بگذا: بولنا۔

فاه يفوه فوهها و تفوهه بگذا: بولنا۔

فاه يفوه فوهها و تفوهه بگذا: بولنا۔

دوسری قوم سے مالِ غنیمت حاصل کر کے دینا۔

تَفِيًّا تَفِيًّا. الظل سایہ کا پلٹنا الشجرة و في الشجرة درخت کا سایہ لینا۔ سایہ ڈھونڈنا الاختار خبر کی سن گن لینا۔ کہا جاتا ہے تَفِيًّا بَقِينِه سايه ميں پناہ لینا۔

استفَاء استفانہ بولنا المال بال غنيمت لینا الاختار خبر کی سن گن لینا۔

الفیء بن۔ سایہ۔ غنیمت۔ خراج الفیاء و فبوء الفیء پرندوں کی ایک کھڑی۔

الفینة فاء کا اسم مرۃ۔ لونا۔ وقت۔

الفینة فاء کا اسم نوع۔ کہا جاتا ہے "انہ حسن الفینة" بہتر واپسی والا ہے۔ کہا جاتا ہے ذحل علیہ (تفینة) فلان یعنی فلان کے نشان قدم پر داخل ہوا۔

المضاء افاء کا اسم مفعول۔

المضائة والمضوية جگہ جہاں دھوپ نہ ہو۔ سایہ دار جگہ۔

أفاح. فی عدوہ دوڑنے میں دیر کرنا القوم فی الارض ملک میں پھیل جانا۔

الفتح یک۔ ایٹھا۔ ہر کارہ۔ خادم۔ لوگوں کی جماعت۔ پست زمین۔ ج فبوج۔

الفانحة دو پہیازوں کے درمیان واوی۔ ج فوانح۔

فاح فیح فیحا و فیحانا الحور گری کا تیز ہونا۔ فاحت القدر ہانڈی کا جوش مارنا

(فیحا و فبوحا) الربیع ہر سبز ہونا الدم بخون کرنا الشجة بزم کا بہت خون بہانا۔

فاح فیح و فاح فیح فاح فیحا بشادہ ہونا۔ فاحت الغارة و سح ہونا۔ منتشر ہونا۔

فیح الشیء بکھیرنا۔ متفرق کرنا اور اسی سے ہے "لو ملکنا الدنیا بقحتھا فی یوم واحد، اگر تم دنیا کے مالک ہو جاؤ گے تو ایک ہی دن میں بکھیر دو گے۔"

أفاح. القدر جوش دینا الدماء بخون بہانا۔

أفاح. القدر جوش دینا الدماء بخون بہانا۔

أفاح. القدر جوش دینا الدماء بخون بہانا۔

یخاف فوہة الناس، ملاں لوگوں کی گفتگو سے خائف ہے۔ انہ لذر فوہہ بڑا تیز

زبان زبان زور ہے "وان رد الفوہة لشدینذ" بگلی ہوئی بات کو لوثانا ڈشوار بات ہے۔

الافوة چوڑے منہ والا۔ مونث فوہاج فوة طغنة فوہاء چوڑا خم کرنے والی تیزہ کی ضرب۔

الافواہ مسالے۔ خوشبو کی ذیلیاں۔ تسمیں۔ ج آفاویہ واحد فوہ۔

المفوه بڑا بولنے والا۔ بیخ۔ کہا جاتا ہے خطیب مفوه شراب مفوه خوشبو ملی ہوئی شراب (والمفوی) فوہ سے رنگا ہوا۔ دیکھئے الفوہ۔

الفوہ ایک قسم کی نباتات ہے جس سے وجع الجبب اور داء السلب کا علاج کرتے ہیں ارض (مفواة زمین جس میں فوة بہت ہو۔) دیکھئے الفوہ۔

فی جرف جر۔ معانی ذیل پر دلالت کرتا ہے

(۱) ظرفیت جیسے الحمز فی الزرق

(۲) مصاحبت جیسے جاء فی القوم فمئت

فی شروق الشمس (۳) تعلیل جیسے قبل فی ذنبہ (۴) مقابلہ جیسے ما علمنی فی

بخرہ الافطرة (۵) استثناء جیسے لا صلنکم فی جزوع النخل (۶) یعنی با

جیسے أنت بصیر فی عملک یعنی ای جیسے ردیندہ فی حبیبہ یعنی من جیسے مضت

علی ثلاثة أشهر فی ثلاث سنین

فاء یقیء فینا بولنا الظل سایہ کا پٹ جانا الغنیمة غنیمت حاصل کرنا (فینا و فبوءا) الامر لوت آنا۔

قیًا تفینة الشجر درخت کا سایہ دار ہونا۔ قیات الرياح العصون ہوا کا ٹہنیوں کو ہلانا۔

أفاح. افانہ الظل سایہ کا لوثا ہوا کی سخا لوثانا۔ افاء اللہ علیہ مال القوم بال غنیمت حاصل کر دینا علی القوم فینا۔

وتفوه المكان وہانہ میں داخل ہونا۔ فوہاس) فوہا فرخ دہن ہونا۔

فوهہ فرخ دہن بنانا۔ فواہه مفاویہ و فاهی مفاہاة فلانا۔ گفتگو کرنا۔ مفاخرت کرنا۔

تفاوه القوم بکذا آپس میں گفتگو کرنا۔ استفاء استفاء واستفاهة کی کے بعد بہت کھانا پینا۔

الفوه و الفاه و الفیہ بئرج الفواہ فواسے ستہ مکمرہ میں سے ایک ہے اس کا اعراب جالصر فعی میں واو اور جالصر نفسی میں الف اور جالصر جری میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ بشرطیکہ مفرد ہو اور یاہ متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو۔ تم کہو گے

سقط لینی وہ اپنے منہ کے بل گرا۔ و "کلمتہ فاه الی فی" یعنی میں نے اس سے رو در رو گفتگو کی فاہ حالت کی بنا پر منصوب ہے اور ابتدائیت کی بنا پر اس کا مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں جملہ حال واقع ہوگا۔ جیسے کلمتہ فوه الی فی۔

الفویہ فوہ کی تصغیر۔ چھوٹا منہ۔ الفوه منہ کی کشادگی۔ دانتوں کا ہونٹ سے نکلتا۔

الفوه و الفوہہ ایک درخت کی جزیں جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور لٹائی کے کام میں آتی ہیں اور بعض امراض میں دواء اس کا استعمال ہوتا ہے۔

الفوهة فاه کا اسم مرۃ۔ منہ۔ الفوهة من الوادی والطریق و جبل النار وادی یا راستہ یا آتش نشانی پہاڑ کا دہانچہ فوہات۔

الفیہ بہت بولنے والا۔ بیخ۔ بہت کھانے والا۔ مونث فیہہ۔

الفوهة اقل شی من الطريق والوادی و جبل النار راستہ یا وادی یا آتش نشانی پہاڑ کا دہانچہ فوہات۔

الفیہ بہت بولنے والا۔ بیخ۔ بہت کھانے والا۔ مونث فیہہ۔

الفوهة اقل شی من الطريق والوادی و جبل النار راستہ یا وادی یا آتش نشانی پہاڑ کا دہانچہ فوہات۔

الفیہ بہت بولنے والا۔ بیخ۔ بہت کھانے والا۔ مونث فیہہ۔

الفوهة اقل شی من الطريق والوادی و جبل النار راستہ یا وادی یا آتش نشانی پہاڑ کا دہانچہ فوہات۔

الفیہ بہت بولنے والا۔ بیخ۔ بہت کھانے والا۔ مونث فیہہ۔

الفوهة اقل شی من الطريق والوادی و جبل النار راستہ یا وادی یا آتش نشانی پہاڑ کا دہانچہ فوہات۔

الفیہ بہت بولنے والا۔ بیخ۔ بہت کھانے والا۔ مونث فیہہ۔

الفوهة اقل شی من الطريق والوادی و جبل النار راستہ یا وادی یا آتش نشانی پہاڑ کا دہانچہ فوہات۔

الفیہ بہت بولنے والا۔ بیخ۔ بہت کھانے والا۔ مونث فیہہ۔

القوم فی الحدیث: منفقو میں مشغول

القوم علی الرجل: غالب ہونا بالشیء
بجائے دفع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے
"ما افاض" یعنی کچھ نہیں بولا۔

تقیض الجفن: آنسو بہانا۔
استفاض استفاضة العین: پھیلا۔
المسکان: کشادہ ہوا وی شجرًا: وسیع

ہونا اور درخت بہت ہونا
الحدیث: مشغول ہونا بالرجل: پانی بہانے
کو کہنا۔ اللذاح وبالذحاح: تیر سے جوا

کھلنا۔
القیض: من موت۔ کہا جاتا ہے "الذہاب فی
فیض فلان" فلاں کے جنازہ میں گئے۔

القیض من العین: بہت تیز ہو کر گھوڑا
فیوض وأنباض: کہا جاتا ہے "مَاءُ قَيْض"
بہت پانی "وأغطاه غبضاً من القیض" اس

نے بہت میں سے تھوڑا دیا۔ رجل فیض: اس
فیاض وحی آدمی۔

القیاض: بہت پانی والا رجل قیاض:
بہت چودو بخش کرنے والا۔
حدیث (مفاض و مستفیض و

مستفاض) فیہ: پھیلی ہوئی بات۔
دوخ (مفاضة) کشادہ زرد۔
فاط یفیظ لفظاً و فبطاناً و فبوطاً

و فیظوظة۔ مرنا۔
أفاط الله: موت دینا۔ کہا جاتا ہے
صبرنتہ
عنی أفلطت نفسه میں نے اس کو مارا یہاں

تک کہ قتل کر دیا۔
القیظ: من موت۔ کہا جاتا ہے "خان
قیظہ" اس کی موت آن گئی۔

القیف: جنگل جس میں پانی نہ ہو۔ ہموار جگہ
القیاف و قیوف: القیف من الارض:
مختلف ہواؤں والی زمین۔

القیفی و القیفاء و القیفاء: بمثل القیف
قیاف القیفاء: چلتا پتھر۔
فاق یفیق لفظاً: جان دینا۔ مرنا۔

الفیروز و الفیروز و الفیروز

الفیروز: ایک قسم کا قیمتی پتھر۔

فاض یفیض لفظاً: فخر کرنا۔ تکبر کرنا۔

مفت فیض

قیض عن الامر: بزدلی کرنا۔ پیچھے ہٹنا۔
قیاضة فیاضاً و مفاضة: مفاخرت کرنا۔

فیاض الرجل: لڑائی میں ڈیک مارنا اور

فضول و حکمی دینا۔

تقیض الامر: لغو دعویٰ کرنا۔ عاجزی

سے پلٹ جانا۔
تقیاض القوم: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

القیاض: بہت فضیلت والا سردار۔ فخر

کرنے والا۔

القیاض: (پانی پر تیرنے والا) صد القوی

القیوض: فخر کرنے والا۔ بزدل۔ کمزور۔

فاص یفیض لفظاً: فی الارض: جانا

منہ: ہٹ جانا۔ اور کہا جاتا ہے "ما فیضت
العمل" یعنی ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ فاضہ جدا

ہوتا۔
الفاص الکلام: ظاہر کرنا۔

انگلیوں کا کسی چیز کے پکڑنے سے عاجز ہونا۔ کہا

جاتا ہے مالک عنہ (مفیض) سہارے لے

کوئی شے کی جگہ نہیں۔

فاض یفیض قیضا و فیضاناً و فیوضاً

و فیوضاً و فیوضاً و فیوضاً۔

لسبیل: کثرت سے ہونا اور وادی کے کنارہ

سے بہنا۔

حکل مفاصل
"فاضت عنہ" جاری ہونا۔ کہا جاتا ہے

الخرج یعنی آہو بہ بڑے فاض

الخرج پھیل جانا۔ بہت ہونا (فیاضاً

و فیوضاً) فاضت نفسه: زور دیکھنا

(فیضاً) الاناء: برتن کا بھر جانا صدرہ

بالسدر: بھیر کو چھانہ سکانا۔

أفاض الفاضة الذمغ: آنسو بہانا الماء:

پانی کرنا الاناء: برتن کو لبریز کرنا۔
القوم من المسکان: متفرق و منتشر ہو جانا۔

الفتح و الفتح: کشادگی۔

فتح اسم سے غارت کا۔ کہا جاتا ہے

"بفتح فتح" یعنی اسے غارت پھیل جا اور

منتشر ہو جاہ اور غارت لوٹ ڈالنے والے

سہوڑوں کو کہتے ہیں۔

الفتح اسم مبالغہ۔ فاض بفتح فتح

بہت وسیع سمندر و رجل فتح فیاض۔ بڑا

درآمد۔ مؤنث فتح

الألح: کشادہ۔ مؤنث فیضاء فتح

الفتحاء: وسیع مکان۔ پھر۔ دمشق اور

طرابلس شام کا لقب۔

فاخ یفیخ لفظاً: بھلی فاخت

فیوخ وادی۔

فاد یفید لفظاً: مر المال لہ: ثابت ہونا

اور بعضوں نے کہا ہے۔ جاتا رہتا۔

فائدة: حاصل ہونا (فیقہ) الرجل ناز سے

چلنا۔

الأداة: الرجل علماً او مالاً۔ فائدہ

پہنچانا۔

الرجل بار ذوال الجوز: ذبح کرنا۔

و استفاد منه علماً او مالاً۔ حاصل کرنا۔

تفاید القوم بالمال: ہر ایک کا دوسرے

کو فائدہ پہنچانا۔

تقیذ الرجل ناز سے چلنا۔

القیذ: من زعفران کی پتی۔

القائدة: ادھار مال دے کر یا قرض دے کر اپنے

مال کے عوض فیصدی کے حساب سے قرض

خواہ مقروض سے کچھ مال لے۔ القائدة

البسطة: حاصل شدہ نفع جو اصل مال میں ملایا

جائے۔ القائدة المرکبة: ہر سال یا ہر چھ ماہ یا

اس سے کم و بیش مقرر مدت کے بعد حاصل

ہونے والا نفع جو اصل مال میں ملا جائے۔

القائدة: زیادتی جو انسان کو حاصل ہو۔ علم یا

مال وغیرہ سے انسان جو حاصل کرے ن فائدہ۔

القیاد: نزل القیادہ) ناز سے چلنے والا۔


کہا جاتا ہے "هو یشی علی الارض

قیادا میادا" وہ زمین پر ناز سے آگرتا ہوا چلنا

الفیلیریۃ: جنگلی زیتون جیسا ایک درخت جس کے بچے انڈے کی شکل کے ہوتے ہیں اور اس کے پھل انگوری ہوتے ہیں زیب وزینت کے لئے پویا جاتا ہے۔
فان یفین فینا: آنا۔
الفینۃ: وقت۔
الفینان: خوبصورت لمبے بالوں والا عورت
فینانۃ:
تفہق: فی الکلام: بہت پھیلا کر گفتگو کرنا۔
فی مشیتہ: ناز سے چلنا علیہ کذا: بڑا بنا۔
الفیہق: ہر کشادہ جزم فیہق۔
الفیہق: بیوقوف عورت۔

جاتا ہے۔ فیل یا۔
الفیال: مہارت ہاتھی بان۔ ج فیالۃ۔
فایل الراى وفالہ وفیلہ: کمزور رائے والا۔
فیل اللحم: بہت گوشت والا۔ فیل الراى: کمزور رائے والا۔
الفیالۃ: رائے کی کمزوری۔
المفیولاء: ہاتھی کے بچے۔
الفیلحۃ: ریشم کے کیڑے کا کویا۔ ج فیالیح۔
الفیلق: بڑا شکر۔ بڑا آدمی۔ ج فیالق۔
الفیلیم: بڑول۔ کشادہ منہ کا کتوال۔ کنگھا۔
دستر خوان کے نیچے بچانے کا چڑا۔ تلچھٹ کی کثرت۔ ج فیالم (والفیلمانی) بڑے ذیل ڈول کا مرد۔

الفیق الیافا: الشاعر: بمعنی الفلق۔
الفیق: مرغ کی آواز۔
قال یفیل فیلۃ وفیلولۃ وفیلولۃ رائیہ: کمزور اور غلط ہونا۔ صفت فایل الراى وفالہ و فیلہ وفیلہ: وقال الرجل: ہاتھی جیسا ہونا۔
فیل رائیہ: غلط پکڑنا۔ کمزور سمجھنا الرجل فی رائیہ: صواب کو نہ پہنچنا۔
تفیل: رائیہ: کمزور ہونا النبات: نباتات کا بڑھنا الشباب: جوانی ڈھلنا۔
الرجل: موٹا ہونا۔
القال: شگون۔ قال کا محقق۔
الفیل: ہاتھی۔ ج اقبال وفیلۃ وفیلولۃ وفیلولۃ مؤنث فیلۃ۔ الفیل: مرد فرومایہ۔ ذاء الفیل: ایک بیماری ہے جس میں پاؤں سوج



ق: الْقَاف: بنیادی حروف میں سے کیسواں حرف ہے لہویہ حروف میں سے ہے یعنی طلق کے کوا سے نکلنے والا حرف۔

بحساب جمل اس کا عدد (۱۰۰) ہے۔
قَاب (ف) قَابًا الطَّعَامُ: کھانا، المَاءُ: پانی پینا۔

قَمَب (س) قَابًا قَابًا: مِنَ الشَّرَابِ: زیادہ پینا۔
قَابٌ يَفَابُ قَابًا: کھانا پینا۔

القَوَابُ والقَوَابِي: مِنَ الْآيَةِ: بہت پانی کا برتن۔
القَوُوبُ والمَقَاب: بہت پینے والا۔

القَافَاء: کوئے کی کائیں کائیں۔
القِنْفِيُّ: انڈے کی سفیدی۔ انڈے کا باریک چھلکا۔

قَاى (ف) قَايَا: الرَّجُلُ: حق خصم کا اقرار کرنا۔ دشمن کا مطیع ہونا۔
قَب (ن ض) قَبًا: النَّبَاتُ: نباتات کا خشک ہونا الشَّيْءُ: اطراف کو جمع کرنا۔

القَبَّةُ: گنبد بنانا۔
قَب (ن ض) قَبًا: يَدُ فُلَانٍ: ہاتھ کا ٹٹا۔
قَب (ض) قَبُونًا: اللَّحْمُ وَنَحْوَهُ: گوشت وغیرہ خشک ہونا القَوْمُ: جھگڑے میں آواز بلند کرنا۔

قَب (ض) قَبًا وَقَبِيئًا: الاسدُ او الفحلُ: دانت پینا۔ قَب طَى النَّوْبُ: کپڑے کی تہ کو پلینا۔

قَبَّ و قَيْب (س) قَيْبًا: النَّخْضُ او البَطْنُ: کمر کا باریک یا پیٹ کا ڈبلا ہونا۔
قَيْبٌ: الرَّجُلُ: گنبد بنانا النَّبِيْتُ: گھر کو گنبد دار بنانا التَّمْرُ: کھجور کا خشک ہونا۔

الشَّيْءُ: اطراف کو جمع کرنا۔
تَقَيْبٌ: القَيْبَةُ: گنبد میں داخل ہونا۔
اِقْتَبَ: يَدُهُ: ہاتھ کا ٹٹا۔

القَبُّ: سب جوان گھوڑا۔ سردار قوم۔ چرخی کا سوراخ۔ قیص کے گریبان میں لگانے کی دھجی۔ غلہ کا ایک پیانہ۔

القَبُّ والقَبُّ: سردار قوم۔ القَبُّ: دونوں سرینوں کے درمیان پیٹھ کی آہری ہوئی ہڈی۔

القَبَانُ: غلہ کا ایک پیانہ۔
القَبُّ: کمر کا باریک ہونا۔ پیٹ کا پتلا ہونا۔

القَبَّةُ: گنبد۔ ج قَبَابٌ وَقَيْبٌ: قَبَّةُ الاسلام بصرہ۔ قبة الشهادة۔ عند اليهود: ایک خیمہ تھا جس میں یہود تابت عہد کو چھپاتے تھے اور اس کو قبة الزمان بھی کہتے تھے القَبَّةُ الخَضْرَاءُ او الزَّرْقَاءُ: گنبد آسمان۔

القَبَّةُ: اوجھ کا وہ حصہ جس میں پرت پرت ہوتا ہے۔

القَابُ: فا۔ آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے انک لا تنجح العام الحاضر ولا القابل ولا القاب تونہ تو اس سال کامیاب ہوگا نہ

آئندہ سال نہ تیسرے سال۔
القَابَةُ: قَابٌ كَامُونٌ: بادل کی گرج۔ بارش کا قطرہ۔

القَبَابُ: اسم مبالغہ۔ شیر۔
القَبَابُ: مِنَ السُّيُوفِ وَنَحْوِهَا: شمشیر براں۔

مِنَ الْأَنْوُفِ: موٹی ناک۔
الْأَقْبُ: مِنَ الْخَيْلِ: باریک کمر۔ پتلے پیٹ والا گھوڑا۔ مَوْنٌ قَبَاءٌ: ج قَبٌّ۔

القَمِيُّ: لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے ڈبے بیٹ والا۔
القَيْبُ: خشک نباتات۔

الْأَقْبُ وَالْمَقْبُوبُ وَالْمَقْبُوبُ: ڈبلا۔
القَبِجُ: چکور۔ کبک کا معرب ہے۔ واحد (قبجہ) مذکر و مؤنث پر اطلاق ہوتا ہے۔ بخلاف یعقوب کے کہ اس کا استعمال صرف بزرگ ہی کے لئے ہوتا ہے۔

القَبَاجُورُ او الْاَبَاجُورُ: روشنی روکنے کے لئے کھڑکیوں پر ارل (گھومنے والی پتری) قَبِج (س) قَبِجًا وَقَبِجًا وَقَبَاحَةٌ وَقَبَاحَةٌ: قَبِجًا وَقَبُوحًا وَقَبُوحَةٌ: بُرَا ہونا۔

بد صورت ہونا۔
قَبِجَةٌ (ف) قَبِجًا وَقَبُوحًا وَقَبِجَةٌ: اللہ عن الخیر: افعال خیر سے محروم کر دینا۔ صفت مفعول مقبوح اور کہا جاتا ہے "قَبِجَتْ لَهُ وَجْهَهُ" یعنی میں نے اس کے لئے قَبِجَہ اللہ" کہا قَبِجَہ البَيْضَةُ: اثر

توزیناً یفح علیہ یغله: برائی ظاہر کرنا۔
لیح لہ وجمہ: کسی کے عمل کے خلاف

ناراضی کا اظہار کرنا۔

فابحة مقابحة: آپس میں گالی گولج

کرنا۔
اللیح الرجل: برافض کرنا۔

استلیح الشئ: براسمٹنا۔

اللیح: سر قول فعل یا صورت کی برائی۔

اللیح: برک لیح واللیح و
لیحی

(واللیح) ران اور پنڈلیوں کی ہڈیوں کے

لٹنے کی جگہ۔ بازو کی ہڈی کا کنارہ جو کہنی

سے ملتا ہے۔

اللیح: قبیحہ: قبیح کا مؤنث۔ عمل قبیح۔ ج

لیح واللیح:

لمر (ن ض) لمرا و لمرا: المیت:

میت کو دفن کرنا۔

الہرة: قبر بنانا۔ دفن کرنا القوم: متقول

کو دفن کرنے کی اجازت دینا۔ دفن کرنے

کے لئے دینا۔

القبر: س۔ انسان کے دفن کرنے کی جگہ۔

قبر

القبرۃ والقبرۃ والقبرۃ والقبرۃ

والقبرۃ: ایک پرندہ ہے جس کو فارسی

میں چکاوک اور اردو میں چنڈول کہتے ہیں۔

قبر وقبر وقابر:

القبار: شکاری کا چراغ۔ لوگوں کی جماعت

جو شکار کو جال سے کھینچنے کے لئے جمع ہو۔

القبور: بست زمین۔

المقبر والمقبرۃ والمقبرۃ والمقبرۃ

والمقبرۃ: قبرستان۔ مقابر:

المقبرۃ والمقبرۃ: مقبرہ کی طرف

نست۔

القبرۃ والقبرۃ والقبرۃ والقبرۃ

والقبرۃ: قبر وقبر وقابر: چکاوک۔

چنڈول۔ یعنی ہمیشہ بولنے والی مشہور چڑیا۔

البارسة:

القبز: ایک قسم کا باجا۔

القبز: پستہ قد۔ بخیل۔

القبز: لاش قبضا۔ منہ النار: شعلہ لینا۔

النار: آگ جلاتا العلم: علم سیکھنا۔

استفادہ کرنا۔ قبضہ النار: کسی کے لئے

آگ لانا۔

(والقبس) فلانا العلم: سکھانا العلم

فلانا: کسی کو آگ دینا۔

القبس: منہ النار او العلم: بمعنی قبس۔

من العلم: استفادہ کرنا۔ القبسہ ناراً:

کسی سے آگ لینا۔

القابس: آگ طلب کرنے والا۔ ج

القابس:

القبس: اصل۔

القبس والمقباس: آگ کا شعلہ۔

القبسۃ: قبس کا اسم مرۃ۔ قبسۃ:

العجلان: جلد بازی کے لئے مثال ہے۔

اس آگ لینے والے سے تشبیہ دی گئی ہے

جو گھر میں داخل ہو اور صرف اتنی دیر

ٹھہرے کہ آگ لے سکے۔

القابوس: خوب صورت چہرہ اور اچھے

رنگ و روغن کا مرد۔

القوابس: اچھی بات سکھانے والے

لوگ۔

المقبس: کڑی کا وہ حصہ جو جل رہا ہو ج

لقابس:

المقبس: آگ کا شعلہ۔

المقباس والمقبس: وہ چیز جس سے

آگ کا شعلہ لیا جائے المقباس: وہ

عورت جو جلدی سے حاملہ ہو جائے۔

القیشور: وہ عورت جس کو حیض نہ آتا

ہو۔

قص (ض) قصا الفرس: گھوڑے کا

بہت تیز دوڑنا۔ (ض) قبوس الرجل:

سے لینا۔

القبص: بڑے سر والا ہونا۔ درد جگر

میں مبتلا ہونا۔ سک ہونا۔ چست ہونا۔

(والقبص) الجراد علی السجور: مڑیوں

کا درخت پر اکٹھا ہونا۔

القبص: قبصۃ من کذا: چکی سے لینا۔

القبص والقبص: بہت ریت کا ڈھیر۔

القبص: بہت سے آدمی۔

القبص والقبص: جگر کا درد جو پاس منہ

کھجور کے کھانے اور اس پر پانی پینے سے

ہوتا ہے۔

القبصۃ والقبصۃ: چکی من الطعام:

لب بھر خوراک۔ قبص

القبصۃ: بمعنی قبصۃ القبصۃ: مٹی کا

ڈھیر۔ نکری۔

القبوص: ہلکا چھلکا۔ چست۔ جبل قبص:

چھوٹی رستی القبص: ہلکا چھلکا چست۔

القبص: تیز دوڑ۔

القبص: بڑی کھوپڑی واہن الخیل:

چست تیز رفتار گھوڑا۔ القبص: وہ شخص

جو چلنے میں قدم کے اگلے حصے سے غبار

اُڑائے اور غبار اڑی پر پڑے۔ مؤنث

قبص:

القبصاء: بڑی کھوپڑی۔

القبص: مٹی کا ڈھیر۔

القوابص: جماعتیں۔ پارٹیاں۔ واحد

قابصۃ:

المقبص: رستی جو گھوڑ دوڑ کے میدان

میں باندھ دی جاتی ہے تاکہ سارے

گھوڑے ایک قطار میں ہو جائیں۔ ج

لقابص:

جبل مقبص: چھوٹی رستی۔

قبص (ض) قبصا: بیدہ الشئ و علی

الشئ: کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا۔ بچہ سے

پکڑنا۔ عن الشئ: پکڑنے سے باز رہنا۔

قبصۃ عن الامر: ہٹانا۔ دور کرنا۔ قبصۃ

اللہ: وفات دینا۔ قبص الشئ: سیٹنا

الْحَادِي الْإِبِلِ: أَوْثُ كُو تِيز بِاَلْطَّلَاوِ
جَنَاحِهِ: پرنده کا بازو سیئالدار و
نَحْوَهَا: قبضہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ
بِقَبْضِي مَا لِقَبْضِكَ" جس چیز نے تجھے
تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی و
فَلَاؤُ الْخَيْرِ يَسْتَلِهُ وَالشَّرُّ يَقْبِضُهُ"
فلاں کے لئے خیر باعث بظ اور شر باعث
قبض ہے "وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ" یعنی
اللہ کسی پر وسعت کرتا ہے اور کسی پر تنگی
ڈالتا ہے۔
لِقَبْضِ (ض) قَبْضًا وَالْقَبْضُ مِنْهُ الْمَالُ
اپنے لئے لیا قبضہ: مٹھی بھر لینا۔
لِقَبْضِ (ض) قَبْضًا وَالْقَبْضُ فِي
حَاجَتِهِ: جلدی کرنا اور دامن سیئالقوم
چھوڑ دینا بظنہ: قبض ہونا۔ القبض
الشئ: ملنا۔ منقبض ہونا۔ سٹنا۔
لِقَبْضِ الْمَرِيضِ: قریب المرگ ہونا۔
مرنا۔
لِقَبْضِ الشئ: جمع کرنا۔ سیٹنا۔ سکیڑنا۔ کہا
جاتا ہے "لِقَبْضِ وَجْهِهِ لَقَبْضٌ" اس نے
اپنا منہ بگاڑا پس وہ بگڑ گیا۔ و لِقَبْضِ
مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ" اس نے اپنی آنکھوں کے
درمیان یعنی پیشانی پر شکن ڈال لیا قبض
المال فلانا: مال کسی کے قبضہ میں دینا۔
مال پر کسی کا قبضہ کرنا۔
قَابِضَةٌ مَقَابِضَةٌ: ہاتھ میں ہاتھ دینا۔
القَبْضُ السَّيْفُ: تلوار کا قبضہ بنا لانا
المَتَاعُ: سامان پر قبضہ کرنے کے لئے
براہیجہ کرنا۔
تَقْبِضُ: جمع ہونا الجلد فی النار: کھال
سکڑ جانا الرجل عن الأثر: نفرت کرنا۔
اليه: کو پھلی الأثر: توقف کرنا۔
نَقَابِضُ الْمَتَابِعَاءِ: باج اور مشتری کا
بیجہ اور شمن پر قبضہ کرنا۔
القَبْضُ: سر۔ تیز ہانکا۔ کہا جاتا ہے "عَصَا
الْمَالِ فِي قَبْضِهِ" مال اس کی ملکیت میں
ہو گیا۔

الْقَبْضُ: قبضہ کیا ہوا مال۔ جلدی۔ تقسیم
سے پہلے غنیمت کا مال۔
لِقَبْضِ: علم عروض کی اصطلاح میں پانچواں
حرف ساکن کو حذف کرنا جیسے قولن سے
قول۔ حذف شدہ کہ قولن بولتے ہیں۔
الْقَبْضَةُ: قبض کا اسم مرہ۔ موت۔ کہا
جاتا ہے "عَصَا الْمَالِ فِي قَبْضِهِ" مال
اس کی ملکیت میں ہو گیا الْقَبْضَةُ السَّيْفُ:
تلوار کا قبضہ۔
الْقَبْضَةُ وَالْقَبْضَةُ: مقبوضہ شئی میں
لشئ: مٹھی بھر کر۔
الْقَبْضَةُ: منتظم۔ چرواہا۔ کہا جاتا ہے
رَجُلٌ قَبْضَةٌ رَافِعَةٌ" قبضہ کرنے والا اور
جلدی چھوڑ دینے والا مرد۔
القَبْاضُ وَالْمَقَابِضَةُ: سکڑ جانا۔ جلدی۔
القَبْاضُ وَالْمَقَابِضَةُ: بہت سخت قبضہ
کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔
القَبْاضُ: فَا مِنْ الطَّعَامِ: ژبان پکڑنے
والی خوراک من الاذویة: قبض کرنے
والی دوا۔ تیز ہانکنے والا۔ القَبْاضُ الْأَزْوَاجِ:
حضرت عزرائیل۔
القَبْضُ: ہکڑا ہوا۔ تیز۔ عقل مند۔
کارگیر جو اپنے کام پر متوجہ رہے۔
المَقْبِضُ وَالْمَقْبِضُ: والمَقْبِضُ
وَالْمَقْبِضَةُ: والمَقْبِضَةُ: تلوار
کا قبضہ مَقَابِضُ
قَبْطُ (ن) قَبْطًا الشئ: ہاتھ سے جمع
کرنا۔ ملانا۔
قَبْطُ وَخِيَه: تزش روئی کرنا۔ منہ بگاڑنا۔
القَبْطُ: مصر میں نصرانیوں کی ایک جماعت
والمَقْبِطِيُّ: القَبْطِيُّ
القَبْطِيَّةُ وَالْقَبْطِيَّةُ: کتان کا کپڑا جو قبط کی
طرف منسوب ہے۔ ج القَبْطِيُّ
وَالْقَبْطِيُّ
القَبْطِيُّ وَالنَّسِطُ وَالْقَبْطِيُّ وَالْقَبْطِيُّ: ایک
قسم کی مٹھائی۔ ریوڑی۔
قَبْعُ (ب) قَبْعًا الْقَنْفُذُ: سبھی کا اپنی

کھال میں سر چھپانا الرجل فی لِقَبْضِهِ:
گریبان میں سر ڈالنا السب: سر کو پکڑنے
میں داخل کر کے الأرض: چلنا۔ لِقَبْعًا
لِجَوَالِقِ: گون کے کنارے موڑنا لِقَبْعًا
لِقَبْعًا: عَنْ أَصْحَابِهِ: تکلف کرنا
النَّجْمُ: ستارے کا ظاہر ہو کر چھپ جانا
الرجل: عاجز ہونا۔ مغلوب ہونا المرأة:
عورت کا چھپنا لِقَبْعًا وَقَبْعًا وَلِقَبْعًا
لِجَوَالِقِ: سور کا غرانا الفحل: ہاتھی کا
چنگھاڑنا السبع: المَوَادَّةُ: شک کے منہ
کو منہ میں ڈال کر پینا۔
القَبْعُ: بگل۔
القَبْعُ وَالْقَبْعُ: سبھی۔ ایک قسم کا دریائی
جانور۔
القَبْعُ: بیوقوف مرد ایک بڑا پینا۔
القَبْعَةُ: ایک چھوٹا سا پرنہ۔ کہا جاتا ہے
يَا إِبْنِ قَبْعَةَ يَا إِبْنِ قَابِعَاءَ" یعنی اے
بیوقوف۔
"أَمْرًا قَبْعَةً طَلَعَتْ" کبھی چھپنے والی کبھی
ظاہر ہونے والی عورت۔
القَبْعَةُ: بچوں کی ایک قسم کی ٹوپی۔
القَبْعُ: بزدل سور۔
القَبْعَةُ: چھوٹا پرنہ جو چوہوں کی بل کے
پاس ہوتا ہے جب خوفزدہ ہو تو بل میں
داخل ہو جاتا ہے۔
القَبْعَاعِيُّ: بڑے سر کا مرد۔
القَبْعَةُ مِنَ السَّيْفِ: تلوار کے قبضہ پر
چاندی یا لوہے کی گرہ۔
القَبْعَةُ وَالْقَبْعَةُ: سور کی ناک کا
سوراخ۔
القَوَاعِ: گھوڑ دوڑ میں پیچھے رہے ہوئے
گھوڑے۔
القَبْعُورِيُّ وَالْقَبْعُورِيُّ: بڑا بڑا اوث ج
قَبَاعِثُ
القَبْعِيُّ: بڑے قدم کا مرد۔ بڑے کھر کا
اوث۔ مَوْبِطُ خَيْطَاءُ
قَبْعٌ قَبْعَةٌ الْفَحْلُ: بڑبڑانا الرجل

یوقوف ہوتا۔

پہنٹ۔

من گھوڑے کے پیٹ کی آواز۔

نز جانور کے دانت کی آواز۔

دریائی تیزی۔

کھڑاؤں۔ ج قباقیب۔

المصافح والمصافح بہت بولنے والا۔

بک بک کرنے والا۔ جھونٹا۔ سخت آدمی

المصافح: آئندہ تیسرا سال۔ کہا جاتا ہے

"انت لا تفتح العام ولا القابل ولا

المصافح یعنی نہ تو تم اس سال فلاح پاؤ گے

نہ آئندہ۔ ال نہ تیسرے سال۔

قبل (س) قبولا وقبولا الشئ لینا۔

قبول کرنا الکلام: تصدیق کرنا۔

قبلت (ن) قبلا وقبولا: ریح القبول:

پروائی ہوا چلنا۔

قبل (ن) قبلا: عنی الشئ: مشغول ہونا

اور لازم ہونا امکان: متوجہ ہونا۔ کہا جاتا

ہے "قبلت الماشیئة الوادی" جانور

وادی کی جانب متوجہ ہوئے۔

قبل (ف) قبلا: الیوم: دن کا قریب

ہونا۔

قبلت (س) قبالة المرأة: عورت کا وائی

جٹائی ہونا القبالة الولد: واپہ گری کرنا۔

(س) وقبل (ن ض) قبالة بہ لکیل

وضامن ہونا۔

(ن) قبلا وقبل (س) قبلا آکھوں

میں کھی والا ہونا۔ جھنگی نظر والا ہونا۔

قبل القوم: پروائی ہوا لگنا۔

قبل: بوسہ دینا۔ قبل العامل العمل:

ضامن لینا۔ اور ضامن کو (القبالة) کہتے

ہیں۔ قبلتہ الحمی: بخار کی وجہ سے

ہونٹوں پر دانے نکل آنا۔

قبالة: سامنے ہونا قابل الشئ بالشئ:

مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو آنے سامنے

کرنا۔

القبول الیوم: دن کا قریب ہونا۔ قبلت

الأرض بالنبات: زمین میں نباتات کا

بڑھنا۔ بکثرت ہونا۔ قبل علیہ: متوجہ ہونا

الیہ: آتا علی الشئ: شروع کرنا اور لازم

ہونا القوم: پروائی ہوا لگنا فلانا الشئ:

آگے کرنا۔ کہا جاتا ہے "قبلت زیندا مرۃ

و ادبرتہ اخری" یعنی چلنے میں زید کو

کبھی آگے کبھی پیچھے کیا۔ "اذہب فا قبلہ

الطریق" اس کو لے جاؤ اور راستہ بتلاؤ اور

سامنے کرو۔

تقبلتہ: لینا۔ تقبل العمل: کام کو لازم

کرنا۔

اللہمہ دعاء: دُعا قبول کرنا اباہ: باپ

کے مشابہ ہونا۔ تقبلتہ السعادة: نیک

بختی ظاہر ہونا۔

تقابل الرجلان: ایک دوسرے کے

مقابل ہونا۔

اقبل الکلام: فی البدیہہ کہنا الامر: کام

از سر نو کرنا الرجل: یوقوفی کے بعد عقل

مند ہونا۔

اقبلت واقبالت عنہ اقبلا

واقبلا لا: نگاہ کا جھینکا ہونا۔

استقبل الشئ: سامنے ہونا الرجل:

توجہ کرنا۔ سامنا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

قبل: پہلے۔ آگے۔ اور یہ طرف زمان ہے

کبھی معرب ہوتا ہے۔ جیسے مات الخلیفة

و مات الوزیر قبلہ و من قبلہ: کبھی

مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے۔ اگر نیت میں

ہو تو مبنی علی الضم جیسے مات الخلیفة و

مات الوزیر قبل و من قبل: اور اگر

مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہو نہ نیت میں تو

معرب جیسے مات الخلیفة و مات

الوزیر قبلا و من قبل:

قبیل: قبل کی تصریح۔ کہا جاتا ہے "جاء

فلان قبیل العصر" یعنی فلاں عصر سے

کچھ پہلے آیا۔

القبیل والقبیل: اگلا حصہ من الزمان:

ابتدائی زمانہ من الجبل: دامن کوہ ج۔

اقبال کہا جاتا ہے اقبل قبلہ یعنی اس نے

اس کا قصد کیا "زایتہ قبلا وقبلا وقبلا

وقبلا وقبلا وقبلا" میں نے اس کو

ظاہر طور پر سامنے دیکھا۔

القبیل: بس۔ سامنے کی مرتفع زمین۔ واضح

راستہ۔ بکری کے سینگوں کا چہرے پر ہونا۔

کہا جاتا ہے "حیا اللہ قبلہ" اللہ بانی رکھے

اس چیز کو جو اس سے پہلے نظر آئے۔

القبیل: دایہ کی بچہ جتانے کی لطف تدبیر۔

ہر چیز جو پہلے نظر آئے۔ کلام کی برجستگی۔

ہاتھی دانت وغیرہ کا گول تعویذ جو عورت

اور گھوڑے کے سینہ پر لٹکایا جاتا ہے

والقبیل فی العین: آنکھ کی سیاہی کا ناک

کی طرف جھلکانا فی العینین: ہر آنکھ کی نگاہ

کا ایک دوسرے کی طرف جھلکانا۔

القبیل: طاقت۔ قدرت جیسے "مالی بہ

قبل" مجھے اس کی طاقت نہیں۔ کہا جاتا ہے

"لی قبیل فلان ذین" میرا فلاں کے پاس

قرض ہے "وانانی من قبلہ" اس کے

پاس سے میرے پاس آیا۔ اس کی طرف

سے میرے پاس آیا۔

القبيلة: قبل کا اسم نوع۔ جہت۔ اور اسی

سے ہے قبيلة المصلی اس جہت کیلئے

جدھر نماز پڑھتا ہے کہہ۔ جس چیز کا سامنا

کیا جائے کہا جاتا ہے "مالہ فی هذا الامر

قبلة ولا دبرۃ" اس کے لئے اس معاملہ

میں آگا پیچھا نہیں یعنی نہیں جانتا کہ کیا

کرے "واجعلوا بیوتکم قبلة" اپنے

مکانوں کو آنے سامنے کرو۔

القبلة: بوسہ۔ کفالت۔ ضامن۔ ج قبل:

القبلة: ایک قسم کا مہرہ جس کو چادر گرنی

استعمال کرتی ہے اور اسی سے جاود کرتی ہے

ج قبل: القبلة: سکون الباہ اور القبلة

بضم القاف و سکون الباہ بھی اسی معنی میں

ہے۔

القبال من النعل: ترمہ: کہا جاتا ہے

رجل منقطع القبال مرد بدرائے۔

القِبَالَةُ: من ضمانت۔ کفالت۔ کہا جاتا ہے جلس (قِبَالَتُهُ) یعنی وہ اس کے سامنے بیٹھا۔

القَبُولُ: من اچھی بیعت۔ باد صبا۔ دائی جنائی۔ عافیت اور نعمت وغیرہ کا آنا۔

القَبِيلُ: ضامن۔ کفیل۔ شوہر۔ تین یا زائد کی جماعت۔ ج قَبِيلٌ و قِبَالَاءُ۔

القَبِيلُ: حُدَا کی اطاعت ذبیہ: حُدَا کی نافرمانی القَبِيلُ مِنَ السَّاءِ: دائی جنائی۔ کہا جاتا ہے ”مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ ذَبِيْرٍ“ وہ

آنے جانے والے کو پہچانتا نہیں ”وَمَنْ قَبِيلٌ ذَلِكَ“ اس کی جہت سے اور کہا جاتا ہے ”رَأَيْتَهُ قَبِيلًا“ میں نے اس کو سامنے

سے ظاہر طور پر دیکھا۔

القَبِيْلَةُ: ایک باپ کے بیٹے۔ کنوئیں کے من کا پتھر۔ چڑے کا ہر ایک ٹکڑا۔ ج قَبَائِلُ: قبائل الراس: سر کی ہڈی کے ٹکڑے بعض بعض سے ملے ہوئے۔ قبائل الطير: پرندوں کی قسمیں۔ قبائل الثوب:

کپڑے کے ٹکڑے۔

الاسْتِقْبَالُ: من الزمان: حال کے بعد آنے والا زمانہ۔

الاقْبَلُ: وہ شخص جس کی آنکھوں میں بھیگا پن ہو۔ ”رَجُلٌ اِقْبَلُ“ ناک کی جانب دیکھنے والا مرد۔ مؤنث قِبَالَاءُ۔ ج قَبْلُ

القَابِلُ: فَا آئندہ سال۔ آمادہ قبول۔ متاثر۔ ج قَبْلَةٌ۔

القَابِلِيَّةُ: قبول اور تاثر کی آمادگی کی حالت۔

القَابِلَةُ: قابل کا مؤنث۔ آنے والی رات۔ دائی جنائی۔ ج قَوَائِلُ و قَابِلَاتُ: قَوَائِلُ

الأمور: اوائل امر۔

المُقَابِلُ: من الرَجُلِ الْمُقَابِلِ: ماں باپ کی طرف سے شریف۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ مُقَابِلٌ مُدَابِرٌ“ نجیب الطرفین مرد۔

المُقْتَلُ: من مقبول من الثياب پیوندگ ہوا کپڑا۔ رَجُلٌ مُقْتَلٌ: الثياب: مرد

نوجوان جس میں بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ ہوں۔

المُسْتَقْبِلُ: فَا (المُسْتَقْبِلُ) والمُسْتَقْبِلُ مِنَ الزمان: آئندہ زمانہ۔

قَبْنٌ (ض) قَبُونًا: الرَّجُلُ: نلک میں جاتا۔

قَبْنٌ الشَّيْءِ: قَبَانٌ سے تولنا (دیکھئے قَبَانٌ) اَقْبَنَ: دُخْنٌ سے نلکت کھانا۔ بے خوف تیز دوڑنا۔

القَبْنَةُ: ضروریات میں پہنناگ دوڑ۔ القَبَانُ: بھاری اشیاء کے تولنے کا ایک آلہ (دو خیل)

القَبِينُ: اپنے کاموں میں بھلاگ دوڑ کرنے والا۔ تیز رو۔

قَبَا يَقْبُو قَبْوًا: البناء: عمارت کو بلند کرنا یا گنبد نما بنانا الزعفران: زعفران توڑنا اور

جمع کرنا الشَّيْءِ: کسی چیز کو انگلیوں سے جمع کرنا (قَبَا) الشَّيْءِ: کسی چیز کو کمان جیسا

کرنا۔ الحرف: ملانا۔

القَبِيُّ تَقْبِيَةُ: المتاع: سامان مہیا کرنا۔ الثوب: کپڑے کو قبا بنانا علی فُلَانٍ: ظلم

کرنا۔ تَقْبِيَةُ الشَّيْءِ: گنبد جیسا ہونا القَبَاءُ: قبا پہننا الرَّجُلِ: پیچھے سے آنا۔

القَبِيُّ: عنہ: پوشیدہ ہونا۔ اَقْبَسِي: المتاع: سامان مہیا کرنا۔ آراستہ

کرنا۔ القَبْوُ: چمچی ہوئی عمارت۔ گنبد۔ قَبْدٌ: گول

گنبد دار کمرہ۔ القَبْوَةُ: قبا کا اسم مرۃ۔ دونوں ہونٹوں کا

ملانا۔ القَبَاءُ: ایک کپڑا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہننا جاتا ہے۔ ج اَقْبِيَّةُ۔

القَبَاءُ: مقدار۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمَا قَبَاءٌ قَوْسَيْنِ وَقَابٌ قَوْسَيْنِ“ یعنی دو کمان کے

مقدار۔ کنایہ قریب سے۔ القِبَةُ: اوجھ کا وہ حصہ جس میں پرت پرت

ہوتا ہے۔ تاواؤ محذوفہ کے بدلہ میں ہے۔ المقْبِيُّ: من جمع کیا ہوا۔ ملا ہوا۔

المَقْبِيُّ: بہت چربی والا۔ القَبِيُّ: مقدار۔

القَبَايَةُ: بیابان۔ قَبْتُ (ن) قَبْنَا: جھوٹ بولنا الثوب:

کپڑے کو لبائی میں کاٹنا الشَّيْءِ: کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔ کم کرنا۔ مہیا کرنا۔

قَبْتُ إِلَى فُلَانٍ وَقَبْتُ أُنْزُ فُلَانٍ: ارادہ معلوم کرنے کیلئے کسی کے پیچھے پوشیدہ طور

پر جانا۔ قَبْتُ وَقَبْتُ: الاحادیث: سخن چینی کرنا۔

وقبَّت الافادِيَّةُ: ہانڈی میں دالنا اور پکارنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَقْتُ الْحَدِيثَ“ وہ

باتوں میں زبردور اور تحسین کرتا ہے۔ تَقَبَّتْ: الْحَدِيثُ: بات کے پیچھے پڑنا۔

کان لگانا۔ اِقْبَشُ الشَّيْءِ: کسی چیز کو جڑے اٹھیزنا۔

القَبْتُ: من جھوٹ۔ اسپت یا اسپت خشک۔ ایک قسم کا جنگلی دانہ ہے جس کو

دیہاتی کوٹنے اور پکانے کے بعد کھاتے ہیں۔ واحد (قَبْتَةٌ) القَبَاتُ: ایک قسم کی نباتات۔

القَبَاتُ وَالقَبْوَاتُ: چغل خور۔ امراءُ قَبَاتَةٌ و قَبْوَاتُ: چغل خورن۔

القَبِيْنِيُّ: چغلی۔ رَجُلٌ قَبِيْنِيُّ: چغل خور مرد۔ قول (مَقْبُوتٌ و مَقْبُوتٌ) جھوٹا قول۔

قَبْنَةُ (ن) قَبْنًا: بھنی ہوئی آنت کھلانا۔ اَقْبَنُ: العجز: اونٹ پر پالان باندھنا۔

ه يَمِينًا: سخت قسم دینا۔ الدين: گرانبار و بوجھل کر دینا۔

القَبْتُ: آنتیں (مذکر اور بھی مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے) جو بیٹ کے ارد گرد ہو۔ پالان۔ ج اَقْبَابُ۔

القَبْتَةُ: آنتیں۔ ج اَقْبَابُ۔ القَبْتُ: کجاوہ۔ آنتیں۔ ج اَقْبَابُ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ قَبْتُ يَعْصُ بِالغَارِبِ“ یعنی

الصفات سامان۔ کہا جاتا ہے جناء القوم
بفنائهم و قنائهم) قوم مع اپنے ساز و
سامان کے آگئی۔

القنات جمل خور۔

القنات: والقنينة والمقننة لوگوں کی
جماعت۔

أقننا: المكان أو القوم بہت کٹڑی والی
ہوتا۔

القنناء والقنناء کٹڑی۔ واحد (قنائة قنناء
الحمار)۔ کربلا۔

المقنناة والمقننونة کٹڑی کی جگہ۔ ج
مقنناتی کہا جاتا ہے "أرض مقنناتہ و
مقننونة کٹڑی والی سرزمین۔

القنن الشی: گھر کے لیے قمامان بنانا۔
تقدر بدل ہوتا۔ ڈنبا۔ خوف زدہ ہونا۔
القننہ: گھر کا سامان۔

القنن والقنن والقنن والغنن گھر کا سامان۔
القنن والقنن والقنن والغنن گھر کے بہت
سامان والا۔ بہت بڑیوں والا۔

القنن: انور کی جز میں خشک کوڑا
کرکٹ۔ لوگوں کی جماعت۔

القننار: قمیص کے دامن۔

قننت قننہ: الوتد بھونٹی کو اکھینے
کے لئے حرکت دینا المکیال باپ پورا
کرنا۔

قنم (ض) قنمنا: الشی شیر کے پاخانہ
سے تھمرنا (واقنم) المال بہت لینا۔
اقنم الرجل: ذیل کرنا الشی جز سے
اکھیننا۔

قنم (ن) قنمنا: له من المال بیکارگی
دینا فی مہینہ بست چلانا۔

قنم (س) وقنم (ک) قنمہ وقنمنا
کے پانچانہ سے تھیرنا۔

قنم (س) قنمنا وقنمنا: گرد آلود ہونا۔
القنم والقنوم: نیر یا شتر کا جمع کرنے
والا۔ القنم: بہت دینے والا (قنم سے
معدول ہے)

القنم: وجهہ چہرے کا سفیر ہونا۔

القنم: الیوم بہت غبار والا دن۔

القنم القنمنا: الیوم کلا ہونا۔ سیاہی
ماکل ہونا۔

القنم: غبار۔

القنم والقنمہ: کالا غبار۔ لڑائی کا غبار۔
تاریکی۔ سیاہی۔

القنم: کالا۔ کہا جاتا ہے اسود قاتم
بہت کالا۔ ج قنم

القنم: سیاہی مائل۔ بھورا۔

حیاض قنم: موت کا گڑھا۔

قنن (ن) قنننا: السماں بجھلی کا خشک
ہونا۔ اس کی تری کا زائل ہونا۔

قنن (ک) قنننا: وائس کم خوراک ہونا۔
ڈبلا ہونا۔

القنن والقنن: گرد و غبار۔

القنن: سیاہی مائل۔ کہا جاتا ہے
اسود قاتم بہت سیاہ۔

القنن: کم خوراک (مذکر و مؤنث) خوار و
ذلیل۔ ڈبلا پتلا۔ باریک نیرہ۔ بچڑی۔

القنن: ایک قسم کی چوڑی جھلی۔

قنا یقنن قننا وقنا وقنی وقنی ومقنی
المملوک: اچھی خدمت کرنا۔ صفت
(قات)۔

اقنوی: الرجل خدمت لینا (اور یہ شاذ
ہے اس لیے کہ افعال لازم ہے)
القننہ: قنا کا اسم مرہ۔ جمل۔

المقنی: جو خوراک پر خدمت کرے۔
اور اکثر بادشاہ کے ہدام کیلئے استعمال کیا

جاتا ہے۔ ج مقننوں و مقنناتہ و
مقنناتہ۔

المقنوی: بمعنی مقنی
قنن (ن) قننا الشی: صیغۃ الیاب اؤنٹ
کو پانی پلانا (واقنن) الشجر درخت کو

جز سے اکھیننا۔ قنن
(ن) قننا وقننی: المال بکثرت جمع
کرنا۔

القنن: امر اس سے مدح ہے نہ کہ قتل
کی بدوہا۔

القنن: قتل کے لئے پیش کرنا۔

تقتل: چلنے میں چکنا لایمرو بہت دینا
لفلان: جھکنا۔ فرمانبردار ہونا (تقتل)

وتقاتل و اقتتل: القوم: باہم ایک
دوسرے سے جنگ کرنا۔

استقتل: قتل ہونے کیلئے سر جھکانا (جیسا
استمات قتل کیلئے اپنے آپ کو پیش

کرنا۔ فی الامر: کوشش کرنا۔ جان
جو کھوں میں ڈالنا۔

القتل: من القتل العمد: قتل جو مقصود ہو
القتل السخط: قتل جو غیر مقصود ہو۔

القتل: دشمن۔ دوست۔ ہمسرہ۔ نظیر۔
جنگجو۔ بہادر ج افان اور کہا جاتا ہے ان

القتل شہر: وہ شہر کا جانے والا ہے۔
القتلہ: قتل کا اسم نوع۔ کہا جاتا ہے

"قتلہ قتلہ سوء" اس نے اس کو برے
طریقہ سے قتل کیا۔

القتال: نفس۔ قوت۔ کہا جاتا ہے "ناقأ
ذات قتال" مضبوط اونٹنی۔

القتول: بہت قتل کرنے والا (مذکر و
مؤنث) ن قتل و قتل۔

القتیل: مقتول۔ (مذکر و مؤنث) ج قتلی
و قتلاء و قتالی۔

المقتل: جسم کا وہ عضو مٹا سکیں کہ جس
پر ضرب پہنچے سے آدمی نہ بچے۔ قتل کی

جگہ۔ قتل ج مقاتل۔
المقاتلہ: لڑنے والی جماعت۔ تاتانیف

کیلئے جماعت کی تاویل کی وجہ سے ہے واحد
(مقاتل)۔

المقتل میدان جنگ۔
المقتل: تجربہ کار۔ باخبر۔ دل جس کو

عشق نے ہلاک کر دیا ہو۔
قتم (ن) قنوما و قتم (س) قنما

القنار: غبار کا بلند ہونا۔
قتم (ض) قنمہ و قنوما: سیاہی مائل ہونا

القائم فا۔ دینے والا۔

لنشم نخی لوگ۔

الشدنة خاکستری رنگ۔

قدم مٹی بر کسر۔ مادہ بجز۔ بہت مال

غیرت فتما بقنؤ قنؤا و قنئى يقنئى قنئيا

واقنئى لعمال جمع کرنا۔

القنئا ایسی چیزوں کا کھانا جس سے کھانے

میں آواز نکلے جیسے کڑی وغیرہ۔

فتح (ن) فُحُوحة و فُحاحَة۔ خالص

ہوتا۔

الفتح خالص۔ کہا جاتا ہے "فَلانٌ كَرِيمٌ"

فُحٌ و اعرابی فُحٌ" فلاں خالص کریم اور

خالص اعرابی ہے ج افُحاح۔ الفُحُ: سخت

اور بدخو۔ مؤنث فُحَة۔ کہا جاتا ہے

اعرابیة فُحَة۔

الفُحاح خالص۔

فحب (ن) فُحبا و فُحابا و فُحِب

کھانسا۔ فحبت المرأة: عورت کا بدکار

ہوتا۔

الفحب سن رسیدہ کھانسی والا۔

الفتحبة حب کا مؤنث۔ بدکار۔ زانیہ۔

برھید ج فحباب۔

فحبش (ف) فُحشا۔ الشی: کل لے لینا۔

فحل (ف) فُحدا و افُحدا۔ البعیر: بڑے

کوبان والا ہوتا۔

استفحذت الناقة: اونٹنی کا بڑے کوبان

والی ہونا۔

رافة فحدة و مقحاذ۔ بڑے کوبان والی

اونٹنی ج مقحاید۔

الفحدة۔ کوبان یا کوبان کی جڑ۔ ج فحاذ

واقفحذ۔

المقحاذ وہ شخص جس کے نہ بھائی ہو نہ

لڑکا۔

المفحذة کوبان کی جڑ۔

فحز (ف) فُحزا۔ کودنا۔ رنجیدہ ہونا۔

مضطرب ہونا (فُحوزا) مردہ کی طرح گرنا

(فُحزا و فُحوزا و فُحز) نہ پچھاڑنا۔

فحزة فُحزا و فُحزة بالعضا: لاشی سے۔

بارنا (فُحز فُحزا و فُحوزا و فُحزانا)

الرجل بھلاک کرنا۔

فُحز و فُحز۔ لهُ الکلام: سخت کلامی

کرنا۔

الفاحزات سختیاں۔

الفُحازة پرندوں کے چنسانے کا جال۔

التفحيز ہر دھکی۔ وعید۔ بُرائی۔

جُوع مُفحز: سخت جھوک۔

فُحط (ف) فُحطا: سخت مارنا۔

فُحط (ب) فُحطا و فُحط (س) فُحطاً

المطر: بارش رکنا۔

فُحط (م) و فُحط (س) فُحطاً

و فُحطاً و فُحوطاً و فُحط و افُحط العام

بارش رکنا۔ اور خشک سالی ہونا۔ صفت

فأحطج قواحط و افُحط اللہ الارض

تھوڑا بنا۔ افُحط الناس: قح میں مبتلا ہونا۔

فُحط و فُحط و افُحط البلد: بارش

رکنا۔ خشک سالی والا ہونا۔

فُحط: النحلة: درخت خرما میں گا بھا

دینا۔

عام فُحط و فُحیط و مقُحوط: خشک

سال۔

سنة فُحیط: خشک سال۔

المُفحطة: آل قحط

المفُحط: نہ تھکنے والا گھوڑا۔

فُحف (ف) فُحفا کھوپڑی کا نیا یا توڑنا۔

الشی: بہا لے جانا ما فی الاناء: ڈگڈگا

کے سب پی جانا الحب: دانے کو کھینرنا۔

الروانة: اتار پھلینا چھلکا اُتارنا فُحفا

کھانسا۔

افُحف: ما فی الاناء: ڈگڈگا کے سب

پی جانا السبل کل شی بہا لے جانا۔

الفحف کھوپڑی۔ کھوپڑی کا جو حصہ ٹوٹ

کر جدا ہو جائے۔ لکڑی کا پیالہ۔ ج

افُحاف و فُحوف و قحفة: کہا جاتا ہے

"رماہ بالفُحاف راسہ" اس نے اس پر

بڑے بڑے کام ڈال دیئے۔ اس نے اس کو

جہاں میں مبتلا کر دیا۔ "فَلانٌ مالهٌ قَدْ ولا

فُحف" فلاں نہ تو اس کے پاس چمڑے کا

پیالہ ہے نہ لکڑی کا۔ یعنی اس کے پاس کچھ

نہیں قد چمڑے کے پیالہ کو کہتے ہیں۔

الفحاف: ڈگڈگا کے پیالہ۔

الفحاف: بہا لے جانے والا سیلاب۔

الفُحافة: ہر وہ چیز جس کو لے کر تم

چست ہو جاؤ۔

الفاحف فا۔ ج فُحُف۔

عجاجة فُحُفا۔ آندھی جو سب چیز کو

اُڑا لے جائے۔

المفُحفة: وہ لکڑی جس سے دانے کو

کھیرا جائے۔ ج مقُحُف۔

فحل (ب) فُحولا و فُحل (س) فُحلا

و فُحلا و فُحل: الشی: خشک ہونا۔ صفت

فاحل و فُحل و فُحل و انفُحل اور اسی

سے ہے فحل الشیخ یعنی بڑیوں پر کھال

خشک ہوگئی اور بہت بوڑھا ہو گیا "کیف

نرذ شیخکم وقد فُحل" یعنی ہم

تمہارے شیخ کو کیسے واہس کر سکتے ہیں اور

حال یہ ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی کھال

خشک ہوگئی۔

افُحل الشی: خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے

افُحله الصوم: روزہ نے اس کی کھال کو

خشک کر دیا۔

فاحله مفاحلة: لازم ہونا۔

تفُحل: الشیخ: بڑھاپے کی وجہ سے

خشک کھال والا ہونا۔ تفُحل فی لبوسہ

و حالہ بڑے لباس اور حال والا ہونا۔

الفاحل: فامن الجلود: خشک کھال۔

الفحال: بکریوں کی ایک بیماری جس سے

کھال خشک ہو جاتی ہے۔

الفُحولة: خشکی۔

المنفُحل: من الرجال: خشک کھال

والا۔ بدحال۔

فحم (ن) فُحما و فُحوما فی الامر:

کسی معاملہ میں بلا سوچے سمجھے گھس پڑنا
الغیہ: قریب ہونا۔

فَحْمٌ (ف) فَحْمًا. المَفَاوِزُ: بیابان طے
کرنا۔

فَحْمُهُ وَأَفْحَمَهُ. فِی الْأَمْرِ: معاملہ میں
بلا سوچے سمجھے داخل کرنا۔ "فَحْمُ الْفَرَسِ

رَاكِبُهُ" گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل
گرائنا۔ أَفْحَمَ فَرَسَهُ النَّهْرُ: گھوڑے کو نہر

میں زبردستی داخل کرنا الْكَلِمَةُ: کسی کلمہ
کو دو متلازم کلمے مثلاً مضاف مضاف الیہ

کے درمیان داخل کرنا جیسے رَجُلٌ كَالْقَطْعِ
اور ید من کے درمیان اس قول میں قَطْعٌ

اللَّهِ يَدٌ وَ رَجُلٌ مِّنْ قَالِهَا اس لیے کہ
اصل ترکیب یوں ہے۔

قَطْعُ اللَّهِ يَدٌ مِّنْ قَالِهَا وَ رَجُلُهُ
أَفْحَمَ. الْقَوْمُ: قُطُ سالی کی وجہ سے اپنے

ملک کو چھوڑ کر کسی سرسبز و شاداب جگہ
میں چلا جانا۔

تَفْحَمَ. الْفَرَسُ النَّهْرُ: گھوڑے کا نہر میں
داخل ہونا۔ گھنا الْفَرَسُ رَاكِبُهُ: گھوڑے کا

سوار کو چہرے کے بل گرائنا۔ الْأَمْرُ: کسی
معاملہ میں اپنے کو مشقت کے ساتھ ڈال

دینا۔
إِفْحَمَ الْأَمْرُ: کسی معاملہ میں اپنے کو
مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔

فَلَانًا: حقارت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"إِفْحَمْتُهُ عَيْنِي" میری آنکھوں نے اس

کو ذلیل سمجھا۔ أَفْحَمَ الْمَنْزِلُ: نجوم کرنا
النَّجْمُ: ستارے کا غائب ہونا۔ غروب ہونا

(و انقحہ) بے سوچے سمجھے گھس پڑنا۔
الْفَحْمُ: س۔ بہت بوڑھا۔ عُمر رسیدہ۔

ذُلًّا: مؤنث فحمة ج فحام۔
الفحمة. دشوار کام۔ ہلاکت۔ قُطُ ج

فَحْمٌ
الفحمة. بے سوچے کام میں مشغول
ہونا۔ بے سوچے سمجھے سفر کو چل پڑنا۔

فَحْمٌ الطَّرِيقِ: راستہ کی دشواریاں۔ الفحمة

مِنَ الْخُصُومَاتِ: وہ جو انسان کو کمزور بات
پر برا بھلا کہیں۔ کہا جاتا ہے "الْخُصُومَةُ

فَحْمٌ" الفحمة من الشَّهْرِ: مہینے کی آخری
تین راتیں۔

الْفَحَامَةُ وَالْفَحُومَةُ: بہت بوڑھا۔
الْفَحُومُ: بہت بوڑھا۔

المفحام. فاحم کا اسم مبالغہ۔ وہ شخص
جو سخت مصیبتوں میں گھس پڑے۔ ج

مَفْحِمٌ
المفحام. ہلاکتیں۔ اور مفرد فَحْمَةٌ یہ

جمع خلاف قیاس ہے جیسے ملامح جمع
لمحہ کی۔

المفحمة. مفع۔ کمزور وہ اعرابی جس کی
پرورش جنگل میں ہوئی ہو۔

فَحَا يَفْحُو فَحْوًا. الدَّوَاءُ: دوا میں گل
بابونہ ڈالنا و افصحى المال: کل مال لے

لینا۔
أَفْحَتِ. الْأَرْضُ: گل بابونہ والی ہونا۔

المفحاة. پھاوڑا۔
الْفَحْوَانُ وَالْأَفْحْوَانُ: گل بابونہ۔ واحد

فَحْوَانٌ وَ أَفْحْوَانَةٌ. ج أَفْحَاوٍ وَ أَفْحَا
اور اس کی تصغیر أَفْحِيَانٌ ہے اور اس کا

واحد أَفْحِيَانَةٌ أَفْحْوَانَةٌ سے دانٹوں کو
تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ أَفْحَى الْأَمْرُ: کام

کے اوائل۔
قَدْ: معانی ذیل میں مستعمل ہے۔

(۱) بمعنی حسب جیسے قَدْ زَيْدٌ دِرْهَمٌ اور
کبھی معرب ہوتا ہے جیسے قَدْ زَيْدٌ دِرْهَمٌ

یعنی زید کے لئے ایک درہم کافی ہے اور
قَدْ نِي دِرْهَمٌ بغير نون و قیابہ کے جیسے

حَسْبِي دِرْهَمٌ.
(۲) اسم فعل بمعنی کفنی یا یگھنی جیسے
قَدْ نِي دِرْهَمٌ بمعنی یگھنی دِرْهَمٌ. ان

سب صورتوں میں قَدْ اسم ہے۔
(۳) مضارع کے ساتھ تَوْفَعٌ کا فائدہ دینا

ہے۔ جیسے قَدْ يُفْعَمُ الْغَائِبُ الْيَوْمَ: توفع
ہے کہ غائب آج آجائے اور کبھی تَقْلِيلٌ

کا جیسے قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ: جھوٹا آدمی
کبھی سچ بولتا ہے۔

اور ماضی کے ساتھ تحقیق کا فائدہ دینا
ہے۔ جیسے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ: جو اللہ

سے ڈرا۔ اس نے یقیناً فلاح پائی۔ قرآن
میں ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاكَ فَاقْدُرْ لَهُ

الْمُؤْمِنُونَ.
اور حال سے قریب کرنے کیلئے جیسے قَدْ

تَامَ فَلَانٌ: جبکہ قیام زمانہ قریب میں ہی
ہو چکا ہو اور کبھی مضارع کے ساتھ تکثیر

کا فائدہ دینا ہے جیسے قَدْ أَشْهَدُ الْعَرَبُ
الشُّعْرَاءَ تَحْمَلُنِي. مراد یہ ہے کہ میں

لوٹ میں بہت حاضر ہوا کرتا ہوں۔
قَدْ (ن) قَدْ أَقْدَدْتُ الشَّيْءَ جُرْسَ كَاثِلٍ:

لسانی میں پھاڑنا یا کاٹنا۔ تم کہتے ہو۔ قَدْ أَقْدَدْتُ
الشَّيْءَ نِصْفَيْنِ: اور کبھی مفعول ثانی پر یا

کی زیادتی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے
قَدْ أَقْدَدْتُ الشَّيْءَ بِنِصْفَيْنِ قَدْ السُّبْحَانَ

الْفَلَاحَةَ: بیابان طے کرنا۔ قَدْ الْكَلَامَ بَاتِ
كَاثِلًا: قَدْ الدَّخْمَ: کٹوے کرنا اور خشک

کرنا۔
قَدْ: درو شکر والا ہونا۔

تَقَدَّدَ: پھٹنا الْقَوْمُ: قوم کا متفرق ہونا
الشَّيْءُ: خشک ہونا الثَّوْبُ: کٹ جانا اور پرانا

ہونا الْقَوْمُ: مختلف الرائے فرتے ہونا
الثَّوْبُ عَلَيْهِ: کپڑے کا اندازہ اور طول کے

مطابق ہونا۔
انْقَدَّ: پھٹنا۔

إِفْتَدَّ: الشَّيْءُ: بمعنی قَدْ الشَّيْءُ: پھٹنا۔
الْأُمُورُ: تدبیر کرنا۔ تمیز کرنا۔

اسْتَقَدَّ: الْأَمْرُ: برابر ہونا۔ ہمیشہ ہونا۔
الْقَدْرُ: س۔ مقدار۔ کہا جاتا ہے "هَذَا غَلِي"
قَدْ ذَلِكَ" یعنی اس کے مقدار ہے۔

تَامَتِ: چابک۔ بکری کے بچے کی کھال۔
ج أَقْدَدُ وَقَدْ دُوْدُ وَقَدْ دَارُ الْاَفْدَةُ

الْقَدْرُ: چمڑے کا برتن۔ تسمہ۔ کاٹی ہوئی
چیز۔ چابک۔ کہا جاتا ہے "مَا لَهُ قَدْ وَلَا

الفقداح سگریٹ جلانے کے لئے لیٹر۔
التدیح شور بایا وہ جو ہانڈی کی تلی میں رہ
جائے اور مشکل سے چھو سے نکلے۔
الافذح والقذوح ہمیں۔ رکھی فذوخ
وہ کنواں جس میں سے ہاتھ سے پانی لیا جا
سکے۔

المفدح والمفداح۔ چھماق۔ آگ
نکلنے کا پتھر یا لوہا۔

المفدح والمفدحة۔ چھچھ۔

المذح المذحرا۔ الرجل ہدی یا گالی
گلوچ یا لڑائی جھگڑے کیلئے تیار ہونا۔

قدرا (ض) و قدرا (س) قدرا و قدرة
ومقدرة ومقدرة ومقدرة ومقدرا
وقدرة و قدرة و قدرة و قدرة و قدرة
وقدرا و قدرا۔ علی السنی تولتا ہونا
قوی ہونا۔

قدرا (ض) قدرا۔ الامر تدیر کرنا۔
السنی بالسنی اندازہ کرنا۔ مقدار کے
مطابق کرنا (قدرة) السنی تیار کرنا۔
وقت معین کرنا۔

قدرا (ض) قدرا۔ الامر كذا غور و
فکر کرنا۔

قدرا (ض) قدرا و قدرا۔ الله تعظیم
کرنا (وقدر) الله عليه الامر و قدر له
الامر فیصلہ کرنا۔ حکم لگانا۔ قدر الرزق:
تقسیم کرنا۔ قدر و قدر علی عیالہ اہل و
عیال پر نان و نفقہ میں تنگی کرنا۔ قدر
علی السنی۔ قادر ہونا اور جمع کرنا۔
وقدر الرجل معاملة کی درستی میں غور و
فکر کرنا۔ و قدر السنی بالسنی اندازہ
کرنا۔ مقدار کے مطابق بنانا۔

قدرا (س) قدرا چھوٹی گردن والا ہونا۔
علی السنی قدرت رکھنا۔

قدر و قدر الله فلانا علی كذا۔ قادر
بنانا۔ و قدر الانسان ہانڈی میں پکانا۔

قادره مقدرة۔ توانائی میں مقابلہ کرنا۔
اندازہ کرنا۔ دوسرے کے کام کے مانند کام

میں تمہارے لیے ہو جاؤں گا۔ قدح
و القذح المرقق شورا نکالنا القذح
سے نکالنا والقذح الامومعالمہ کی تدبیر
کرنا۔

قدح۔ الفرس ہموڑے کو ڈبلا کرنا۔
قدح العین آنکھ کا دھنا۔

قدحہ و قفادح ایک دوسرے پر طعن
و تشبیح کرنا۔

القدح۔ زناذہ۔ چھماق سے آگ
نکلنے کی کوشش کرنا۔

القدح۔ دانت یا لکڑی کا کیزرا۔
القدح تیر بغیر پر اور نصل کے۔ جوئے

کا تیر۔ ج قدح و افذح و الفذح و
قدحان و ج افذح۔ کہا جاتا ہے
"صدقہم وسم قدح" یعنی ان سے ج
کہا۔

القدح پینے کا برتن۔ چھوٹے اور بڑے
دونوں کیلئے بولا جاتا ہے اور قدح خالی
برتن کو کہتے ہیں۔ اور جب اس میں پینے
کی کوئی چیز ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں۔ کہا
جاتا ہے "لا تجعلونی قذح الراکب"
یعنی مجھ کو آخری مت تاؤ۔ اس لیے کہ

سوار سارے سامان کے رکھنے کے بعد پیالہ
کو آخر میں لگاتا ہے اور القذح الفرد:
کتاب ہے لے پالک سے۔ ج افذح۔
القدح سم ہے۔ افذح النار۔
القدح قدح کا اسم نوع۔
القدح۔ من المرقق چھچھ بھر۔
القدح پیالہ بنانے کا پیشہ۔
القادح۔ فادانت یا درخت کی سیاہی یا
کیزرا لکڑی میں شگاف۔

القادح۔ قادر کا مؤنث۔ درخت یا دانت
کا کیزرا۔ ج قوادح۔ کہا جاتا ہے "حمی
قادحة" بہت تیز بخار۔

القدح۔ کاسہ گر۔ تروتازہ پودے کے
اطراف۔ نباتات کے شگوفے پھلنے سے
پہلے (القدح) چھماق کا لوہا۔

قدح اس کے پاس نہ تو چمڑے کا برتن
ہے اور نہ لکڑی کا۔ جو کتابہ ہے اس بات
سے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ ج افذح۔
القدح سمندری مچھلی جس کی ایک قسم
سے تیل نکالا جاتا ہے۔

القدح۔ تیر۔ چیز کا کوزا۔ مختلف البراء
فرق۔ ج قدح و اقدح قرآن مجید میں
ہے "کنا طوائف قدحاً" یعنی ہم مختلف
الراء فرقے تھے۔

القدح۔ جنگلی چوہا۔ سنی۔
القدح۔ پیٹ کا درو۔

القدح۔ کانا ہوا اور خشک کیا ہوا گوشت۔
پرانا کیزرا۔

القدح۔ چھوٹا ناٹ۔
القدح۔ بیون فوج کے توابع۔ جیسے درزی

نالی وغیرہ۔
القدح۔ راستہ۔ ہموار جگہ۔

القدح۔ المقدہ و المقدہ۔ کائنات کی
چھری۔

القدح۔ ضعیف کمزور
القدح۔ بچی کی اوتھی۔ ج قیادح۔
قدح (ف) قدحاً۔ فی عرضہ۔ یعنی

مارنا۔ عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "قدح فی
ساق اخیه" اس نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا
"قدح السنی فی صدری" اس چیز نے
میرے دل میں اثر کیا "قدح ختام
الخبابہ" منکے کی مہر کو توڑ دیا۔

القدح فی الأسنان او الشجر زانت یا
درخت میں کیزرا لگانا۔ قدح العین آنکھ
کا دھس جانا۔

السنی۔ چلو لینا الطیب العین آنکھ کے
اندرونی حصے سے پانی نکالنا۔

فی القذح۔ تیر کے پھل میں سورخ
کرنا۔

قدح و افذح۔ بالزند چھماق سے آگ
نکالنا۔ عرب کے امثال سے ہے "احسب
لی افذح لك" یعنی تم میرے لیے ہو جاؤ

صفت بیان کرنا **الکاهن عند النصارى** عشاء ربانی ادا کرنا **الرجل بیت المقدس** میں آنا۔ **قَدَسَ لِلَّهِ** پانی بیان کرنا۔ اسی سے ہے **"نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ"**

تَقَدَّسَ پاک ہونا۔ **القداسة** پائی۔ **القدس** والقدس۔ **مصادر** والقدس:

بیت المقدس۔ و **روح القدس**۔ حضرت **جبرئیل**۔ و **حطيرة القدس**۔ **جنت القدس**۔ وہ پتھر جو پانی کی قلت و کثرت معلوم کرنے کے لیے کنوئیں میں ڈالا جائے۔

القدس والقدس۔ چھوٹا پیالہ۔

القادس۔ بڑی کشتی۔ پتھر جو اونٹ کے پانی پینے کی جگہ میں تقسیم کے لیے ڈالا جائے۔ **ج قوادیس**۔ بیت حرام۔ اندلس کا ایک جزیرہ۔

القادوس۔ چکی میں دانے ڈالنے کا برتن۔ عوام اسے کور کہتے ہیں۔ نہر سے پانی نکالنے کا برتن۔ **ج قوادیس**۔

القداس۔ اونٹوں کے حوض کے پانی کا اندازہ کرنے کا پتھر۔ چاندی کا بنا ہوا موٹی۔ بڑی شرافت۔

القديس۔ موتی۔

القدوس۔ سخت اقدام کرنے والا۔ سخت حملہ کرنے والا۔

القدوس والقدوس۔ باری تعالیٰ کے اسم میں سے ہے یعنی ہر نقص و عیب سے پاک۔

القديس۔ اصطلاح نصاریٰ۔ مقبول عند اللہ۔ **مونت قديسة**۔

المقدس۔ مکان مقدس۔ پاک جگہ۔ **بیت المقدس** و **البیت المقدس**۔

يروحلم۔ نسبت کے لیے **مقدسی** و **مقدسی**۔ **ارض مقدسة**۔ مبارک زمین۔

الارض المقدسة۔ فلسطین۔

المقدس۔ فہرودی عالم۔ راہب۔

اس کے خلاف ہے۔ **القدر**۔ فعل یا ترک فعل کی طاقت۔

القدر۔ چھوٹی شیشی۔ دو درختوں کے درمیان کا فاصلہ۔

القدار و **القدر**۔ قدرت۔

القدار۔ میانہ قدر مرد۔ چست و چالاک لڑکا۔ باورچی۔ ہانڈی میں پکانے والا۔ بڑا اثر دہا۔

القدار۔ پتھر جو پانی کے بہنے کی جگہ پر لگایا جائے۔

القدارة و **القدورة**۔ مصادر۔ اقتدار۔ قوت۔ تو آگرمی۔

التقديس۔ سر عند النحاة: کلمہ کو حذف کرنا اور نیت میں باقی رکھنا عند المتکلمین ہر مخلوق کو اس کے اندازہ کے مطابق کرنا۔ **تقدیر الہی**۔ **ج تقدیر**۔

القديس۔ قدرت والا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ ہانڈی میں پکا ہوا گوشت۔

الاقدر۔ اسم تفضیل۔ پتہ قد۔ اور کہا گیا ہے کہ چھوٹی گردن والا۔

القدراء۔ اقدار کا مؤنث۔ کان نہ بڑا نہ چھوٹا۔ بنو قدراء۔ اغنیاء۔

المقد۔ توانائی۔ اندازہ۔ **بیانہ ج مقدیر**۔ **المقتدر**۔ فہر ہانڈی کا پکانے والا۔ کام کا ساتھی۔ ہر چیز کا وسط۔ کہا جاتا ہے **"رجل مقتدر الطول"**۔ مرد میانہ قامت۔

المقادرة۔ تنگ مکان۔ **المقدورة**۔ فیصل شدہ معاملہ۔ کہا جاتا ہے **"امر مقدور علیہ"** یعنی ایسا امر جس کے کرنے پر انسان قادر ہو۔

المقدرة و **المقدرة** و **المقدرة**۔ قوت و توگرمی **المقدرة**۔ قضاء و قدر۔ **تقدیر الہی**۔

قدس (ن)۔ قدسا۔ زقدسا۔ پاک ہونا۔ باہرکت ہونا۔

قدس۔ اللہ فلانا پاک کرنا۔ باہرکت کرنا **الرجل اللہ**۔ تزیہ کرنا۔ قدوس ہونے کی

کرتا۔ **بین الشیئین** ایک کا دوسرے سے مقدار معلوم کرنے کیلئے اندازہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے **"فلاق یقادری"** یعنی فلاں میرے ساتھ مساوات کا طالب ہے۔

تقدّر۔ الثوب علیہ کپڑے کا مقدار کے مطابق ہونا۔ **لہ کذا**۔ آمادہ ہونا۔

تقادر الرجلان۔ ہر ایک کا دوسرے کی مساوات کا طالب ہونا۔

انقدر۔ اندازہ کے موافق ہونا۔ کہا جاتا ہے **قدّرت الثوب فانقدر** یعنی میں نے کپڑے کا اندازہ کیا اور وہ اندازے کے موافق ہو گیا۔

افتدر۔ علیہ: قوی ہونا۔ قدرت پانا **الرجل**۔ ہانڈی میں پکانا **الشیء بالشیء**۔ اندازہ کرنا۔

استقدر۔ اللہ خیر ائداسے نیکی کا حصہ مانگنا۔

القدر۔ چیز کی انتہا۔ بغیر کمی زیادتی کے برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے **"هذا قدر ذاک"** یہ اس کے مماثل اور مساوی ہے۔ طاقت و قوت۔ عزت و وقار۔ تو آگرمی۔ کندھے کا سر۔ **ج اقدار**۔

(کیلئے القدر)۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں کوئی طاق رات۔

القدر۔ ہانڈی (مونت) **ج قدر** اور اس کی تصویر **قدیور** و **قدیر**۔

القدر۔ جس چیز کی انتہا۔ طاقت و قوت۔ **تقدیر الہی** ارادہ کا تعلق اشیاء کے ساتھ ان کے اوقات میں۔ **ج اقدار**۔

القادر۔ فہر ہانڈی میں پکانے والا۔ ہانڈی کا پکا ہوا۔ کہا جاتا ہے **"بیننا کیلئے قادر"** ہمارے درمیان ایسی رات ہے جس میں چلنا آسان ہے۔

القدریة۔ ایک جماعت ہے جو تقدیر الہی کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے اپنے افعال اختیار یہ کے خود خالق ہیں اور جبریہ

قدح (ف) قدحاً الفوس: گھوڑے کا دوڑنا۔
 الأمر: کر گزرتا فرسہ باللحاجم: گھوڑے کو لگام سے روکنا السفینة: کشتی کھینا الخمسین من عمره: تجاوز کرنا من الشراب: گھونٹ گھونٹ پینا الذباب عند بكذا: کسی چیز سے کبھی کو دفع کرنا۔ قدعه وأقده عن كذا: روکنا۔ اقدح الرجل: گالی دینا۔
 قدح (س) قدحاً: رکنا۔ باز رہنا۔ قدحت عينه: زیادہ دیکھنے سے کمزور ہونا اور کہا جاتا ہے "قدحت لى خمسون" میں تقریباً پچاس کی عمر کو پہنچ گیا۔
 قاده بغيره: کلیں کرنا۔
 تقد له بالشر: آمادہ بردی ہونا۔
 تقادح القوم: ایک دوسرے کو دفع کرنا اور کھینچنے بالرماح: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا تقادح على الشئ وفيه جوق جوق گرنے کہا جاتا ہے "تقادح الذباب فى الموق" شوربے میں کھیاں پے بہ پے گریں القوم: پے بہ پے مرنا۔
 انقدح: رکننا عن الشئ: شرم کرنا۔
 القدح: بہت رونے والا۔ ماء قدح: پانی جو کھاری ہونے کی وجہ سے پیانا جا سکے۔
 امرأة قدحة وقذوع: شرمیلی کم بولنے والی عورت۔
 القدح: بزدلی۔ کثرت گریہ سے نگاہ کی کمزوری۔
 القدحة: چھوٹا سینہ بند۔ انگلیا۔
 القذوع: کسی چیز پر گرنے والا۔ ذلیل۔
 المقدح: جھری دار۔
 المقدحة: مور جھل۔ کبھی ہانکنے کی چوری۔ لامحی جس سے ہانکا جائے۔
 قذف (ن) قذفاً: الماء: چلو لینا۔ گرانے۔
 القذاف: مٹی کا گھڑا بڑا پیالہ۔
 التقذيف: بحری کے نزدیک تقذيف سے تحریف ہوا ہے۔ یعنی کشتی کھینا۔ کشتی کے

مقابلہ میں جیت جاتا۔ المقذاف: تپو۔ یہ لفظ مقذاف سے تحریف شدہ ہے۔
 قدم (ن) قدماً وقدوماً: القوم: قوم سے سابق ہونا۔
 قدم (س) قدوماً ومقدماً: قدمانا المدینة: شہر میں آنا من سفره: سفر سے واپس ہونا الی الامر: تصد کرنا۔
 قدم (ن) وقدم: قدماً وقدماً وقدوماً واقدمه علی قرند: جرأت کرنا۔ دلیری کرنا۔ قدم واقدمه علی الامر: بہادری کرنا۔ قدم واقدمه علی العیب: عیب پر راضی ہونا۔ اقدام بيميننا: قسم کھانا۔ اقدام فلانا: آگے بڑھانا۔ اقدامه البلد: شہر کے آنے پر برا بھلا کہتے کرنا۔
 قدم (ک) قدماً وقدماً: پرانا ہونا۔ حدث کا ضد ہے۔ صفت قدیمہ وقدام۔
 قدم القوم: قوم سے سابق ہونا۔ قدمه: آگے کرنا۔ قدم بيميننا: قسم کھانا بیدہ۔ آگے بڑھنا الیہ بكذا: حکم دینا قدمه الی الحائط: قریب کرنا۔
 تقادم: بمعنی قدم پرانا ہونا۔
 تقدم: آگے بڑھنا۔ بہت پیش قدمی کرنے والا ہونا۔ مقدم ہونا القوم: قوم سے سابق ہونا الیہ بكذا: حکم دینا۔ کہا جاتا ہے "فلان يتقدم بين يدي ابيه" فلاں اپنے باپ کے سامنے پیش قدمی کرتا ہے۔
 اقتدم: بمعنی تقدم آگے بڑھنا۔
 استقدم: بہت پیش قدمی کرنے والا ہونا الرجل: آنے کو کہا القوم آگے کو بڑھ جانا۔
 التقدم: خاندانی شرافت۔ سرخ کپڑا۔
 التقدم: پرانا زمانہ۔ کہا جاتا ہے کان کذا قدماً" یعنی ایسا پرانے زمانہ میں تھا۔
 القدم: حدوث کا ضد۔ اولیت۔ کہا جاتا ہے "له قدم فى هذا الامر" اس کو اس معاملہ میں اولیت ہے۔

القدم: پاؤں (مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی مستعمل ہے) ج اقدام و قدما اور تصغیر قدیمہ۔
 القدم آگے بڑھنا۔ اولیت چاہے خیر میں ہو یا شر میں۔ کہا جاتا ہے "فلان فى كذا قدم صدق او قدم سوء" یعنی فلاں کیلئے اس معاملہ میں اچھی اولیت یا بری اولیت ہے۔ و "فلان عند فلان قدم" یعنی فلاں کا فلاں پر احسان ہے۔ و وضع قدمه فى العمل" یعنی شروع کر دیا "جعل دماهم تحت قدميه" ان کے خون کو اپنے قدم کے نیچے کر دیا یعنی معاف کر دیا "واجعل ذلك تحت قدمك" اس کو اپنے قدم کے نیچے کر دو۔ یعنی معاف کر دو۔ والقدم فى القياس: پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے سے ایزی کے کنارے تک۔ القدم: بہادر (مذکر و مؤنث مفرد جمع) کہا جاتا ہے رجل قدم امرأة قدم و رجال قدم و نساء قدم اور کہا جاتا ہے "هو ذو قدم" یعنی وہ بہادر ہے۔
 القدم: بہت اقدام کرنے والا سخت سکتان۔
 القدم والقدم: دلیر۔ القدم: آگے گزرنے والا کہا جاتا ہے "مضى قدماً" وہ سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں مڑا مذکر و مؤنث دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
 القدمية: دلیری۔ معاملہ میں اولیت۔
 القدمية: مغرورانہ چال۔
 القذوم: دلیر بہت پیش قدمی کرنے والا۔ ج قدّم القذوم: کھلاڑ۔ مؤنث ہے ج قدّم وقدمه (اور قدوم ضعیف لغت ہے)۔
 التقدمية: سر قدم کا: بدیہ۔ ج تقدم المقادم: ج قدوم و قدما وقادمون۔
 قدم الإنسان: انسان کا سر۔ ج قوادم قدم الرجل: کجاہ کا اگلا حصہ۔ العام القادم: آئندہ سال القادم من الاطباء

وَالصُّرُوعُ: أُوْتِنِي وَأُورِغَانِي كَمَا تَحْتَمِي كِي
اگلی باکھ۔

القَادِمَةُ: مُؤْتٌ قَادِمٌ - لَشْكِرِ القَادِمَةَ:

پازو کے اگلے پر جو بڑے ہوتے ہیں ج
قوادم و قدامی اور چھوٹے پروں کو خروانی

کہتے ہیں جو قوادم کے نیچے ہوتے ہیں۔

وقَادِمَةُ الرَّجُلِ: كَمَاوَهُ كَا اَگلا حصہ۔ ج

قوادم وقادِمَةُ العسْكَرِ: فُوجٌ كَا اَگلا حصہ۔

القَدِيمُ والقَدَامُ: پُرَانٌ۔ ج قَدَمَاءُ

وقَدَامِي وقَدَائِمٌ مُؤْتٌ قَدِيمَةٌ ج

قَدِيمَاتٌ وقَدَانِمٌ. القَدَامِي: فُوجٌ كَا اَگلا

دستہ۔

قَدَامٌ: آگے۔ مُؤْتٌ ہے اور اس کی تصغیر

قَدِيدِيْمَةٌ اور کبھی مذکر مستعمل ہوتا ہے

اس کی تصغیر قد دیدیم آتی ہے۔ کہا جاتا

ہے لِقَيْتَهُ قَدَامٌ ذَاكٌ او قَدِيدِيْمَةٌ ذَاكٌ

یعنی میں نے اس سے اس کے پہلے یا کچھ

پہلے ملاقات کی۔

القَدَامُ والقَدَامُ والقَدِيمُ: شَرَاةٌ كِي

وَجِءَ سَ لَوَاكُوں مِيں آگے رہنے والا۔

سِرْدَارٌ - بَادِشَاهُ القَدَامُ: قَصَائِي

القَدِيمَةُ مِّنَ العَنَمِ: چرنے میں جو بکری

سب سے آگے ہو۔ سخت سکتان۔

القَدِيمُ والقَدِيمُ اَگلا حصہ۔

قَدِيمُ الجِبَلِ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا

حصہ۔

الاقْدَامُ: اسم تفضيل - شير۔

المَقْدَمُ: آنے کا وقت۔

المُقَدِّمُ والمُقَدَّمُ: مِّنَ العَيْنِ: نَاكٌ سَ

ملا ہوا آنکھ کا گوشہ مِّنَ الوجْهِ: چہرہ کا وہ

حصہ جو سامنے ہو مِّنَ الرَّجْلِ: كَمَاوَهُ كَا اَگلا

حصہ ج مقادیم۔

المُقَدَّمُ: لبناں والوں کی اصطلاح میں۔

خاندان کے اکابرین میں تیسرا درجہ اول

درجہ الامیر پھر الخوند پھر المقدم پھر

الشَّيْخُ۔

اہل منطق کی اصطلاح میں۔

قَضِيَّةٌ: شَرْطِيَّةٌ كَا اَوَّلُ جِزْ جِزْ پَر دوسرا جز
مرتب ہو جیسے ان كانت الشمس طالعة

فالنهار موجود دوسرے جز کا نام التالي

ہے۔

المَقْدَمَةُ والمَقْدَمَةُ مِّنَ الحَيْشِ: فُوجٌ كَا

اگلا دستہ۔ ہر اَوَّلُ مِّنَ الكِتَابِ: دِیَاچہ

والمَقْدَمَةُ مِّنَ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا شروع۔

پیشانی، پیشانی کے بال۔ موقوف علیہ چاہے

عقلی ہو یا عادی یا وضعی۔

القُدُومُ والقُدُومُ: كَلْبُیٌّ حَیْلِيٌّ اور صاف

کرنے کے لئے آہ جس کو "رندا" نام دیتے

ہیں۔

المَقْدَمُ والمَقْدَمَةُ: بہت پیش قدمی

کرنے والا۔ تا مبالغہ کے لیے ہے ج

مَقَادِيمٌ. کہا جاتا ہے هُوَ بِمَشْيِ (القَدِيمَةِ

وَالقَدِيمَةِ وَالقَدِيمَةِ: جبکہ میدان جنگ

میں چلے اور دشمن پر حملہ کرنے میں پیش

قدمی کرنے والا ہو یا جب کہ مکارم و

فضائل میں سبقت کرے اور اس کی تقدیر

یوں ہے کہ "مَشْيِ المَشْيَةِ المَنْسُوبَةِ

الَّتِي قَوْلُ النَّاسِ بِقَدَمٍ وَقَدَمٌ."

القَدَمُوسُ والقَدَمُوسُ: پُرَانٌ۔ کہا جاتا

ہے "عِزٌّ او حَسَبٌ قَدَمُوسٌ وَقَدَمُوسٌ"

خاندانی عزت۔

القَدَمُوسُ والقَدَمُوسَةُ: بڑی چٹان۔

القَدَمُوسُ والقَدَمُوسُ: سخت۔

القَدَمُوسُ: ہر اَوَّلُ - لَشْكِرِ كَا اَگلا حصہ ج

قَدَامِيَسٌ. حَيْشِ قَدَمُوسٌ بَرَا۔

القَدَمُوسَةُ: بڑے ذیل ڈول کی عورت۔

القَدْنُ: کانی۔ کہا جاتا ہے "قَدْنٌ زَيْدٌ

دِرْهَمٌ" زید کیلئے ایک درہم کانی ہے۔

قَدٌ اَيْقَدُ وَقَدُوا: قَرِيْبٌ ہونا۔ سفر سے

واپس ہوئیہ فرسند: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

قَدٌ اَيْقَدُ وَقَدُوا وَقَدِي يَقْدِي قَدِي

وقْدَاةٌ وَقْدَاةٌ الطَّعَامِ: کھانے کا مزیدار

و خوشبودار ہونا۔ صفت قد و قَدِي تم کہتے

ہو "شَمِمَتْ قَدَاةُ القَدْرِ" ہانڈی کی

خوشبو کو میں نے سونگھا۔

اقْدَى اَقْدَاءٌ: خَيْرٌ اور اُمُورٌ دِينِيَّةٌ مِيں

استقامت اختیار کرنا بُوْزْخَا ہونا اور موت

کے قَرِيْبٌ پَیْجَانَا مِّنَ السَّفَرِ: سَفَرٌ سَ

واپس آنا۔

المَسْلُكُ: مَسْکٌ كِي خوشبو کا بھڑکانا۔

تَقْدَى تَقْدِيًا: عَلِيٌّ دَانِيَةً چھپانے پر سوار

ہو کر وسط راستہ میں چلنا تَقْدَتِ الدَّابَّةُ

بُرْکَا چھپانے پر سوار ہو کر وسط راستہ پر

لے جانا۔

اَقْتَدَى اَقْتَدَاءً بِفُلَانٍ فِی كَذَا: بِيْرُوِي

کرنا۔

القَدَاءُ: سَخْوَشِيْبُو۔

القُدُو: جِزْ جِزْ سَ شَاخِيصٌ تَكْلِيصٌ۔

القُدُوِي: اسْتِقَامَةٌ - پَانِيَارِي۔

القِدَّةُ والقِدْوَةُ والقِدْوَةُ والقِدْوَةُ

وَالقِدِيَّةُ: پِيْشُوْرٌ اَسُوْرٌ جِيسَ "الَّتِي بَلَكَ

قِدْوَةٌ" مِيْرَے لِيے تہمارے اندر اسوہ

ہے۔ کہا جاتا ہے "مَّا اَقْدَى طَعَامُ فُلَانٍ"

یعنی فلاں کا کھانا کس قدر مزیدار و خوشبو

دار ہے۔

قَدِي يَقْدِي قَدِيًا الطَّعَامُ: بِمَعْنَى قَدَا

يَقْدُو" مزیدار و خوشبودار ہونا۔ اور کہا جاتا

ہے "قَدَّتْ قَادِيَةً" قَطْرٌ زَوْدٌ قَوْمٌ كَا دِيْهَاتٌ

سے آنا (قَدِيَانَا) الفَرَسُ: گھوڑے کا تیز

دوڑنا۔

قَادِيٌ مَقَادَاةٌ الرَّجُلُ: مَقَابِلَةٌ كَرْنَا۔

تَقْدَى: نَازَے سَ چَلْنَا۔

القِدَّةُ: اَيْكٌ قِسْمٌ كَا سَايِبٌ جِ قَدَاتٌ۔

القِدَّةُ: پِيْشُوْرٌ

القَدِي والقَدِي: مَقْدَارٌ - اِنْدَاوَةٌ - كَمَا جَا تَا

ہے "بَيْنَهُمَا قَدِي رَمْحٌ" ان دونوں کے

درمیان ایک نیزہ کی مقدار ہے۔

القَدِيَّةُ: قَدَايِ كَا اِسْمٌ نَوْعٌ - رَوْشٌ - طَرِيْقَةٌ۔

سیرت۔ کہا جاتا ہے "خُذْ فِي هَدْيِيكَ و

قَدِيَّتِكَ" اپنی روش و طریقتہ پر لو۔

القَادِيَّةُ: دِيْهَاتٌ سَے آنے والی قَطْرٌ زَوْدٌ

قوم ج قواد۔

الْمُقَدَّمَى فَا- شير۔

الْقَدِيَّةُ بِهِيءِ-

قَدْر (ن) قَدْرًا الرِّيشُ: تير کے پر کے اطراف کا کاٹنا اور ہموار کرنا الرَّجُلُ: گدی پر مارنا۔

الْحَجْرُ: وُكُلٌ غَلِيظٌ: پتھر اور ہر قسم کی سخت چیز پھینکا (وَقَدَّرَ) الشَّعْرُ: بال کاٹنا اور برابر کرنا۔ قَدٌّ وَقَدُّ السَّهْمِ: تیر میں پر لگانا۔

تَقَدَّرَ الْقَوْمُ: قوم کا متفرق ہونا۔

الْقَدَّةُ: تَعْيِيرٌ كَمَا يَرَى الْقَدَّةُ: گھوڑے اور انسان کا کان۔ ج قُدُّو قِدَادًا: پسو۔ ج قِدَانٌ وَقُدُّو:

الْقُدَادَةُ: پر کا تراش۔ سونے وغیرہ کا ریزہ ج قُدَادَاتٍ: کہا جاتا ہے "إِنَّ لِي قُدَادَاتٍ وَجُدَادَاتٍ" قُدَادَاتٍ سونے کے ٹکڑے۔ اور جُدَادَاتٍ چاندی کے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ لَا يَدْعُ شَادَّةً وَلَا قَادَّةً" یعنی وہ دلاور جس کو دیکھتا ہے مار ڈالتا ہے۔

سَهْمٌ أَقْدَرُ: پر دار تیر۔ بے پر کا تیر ج قُدُّو ج قِدَادًا: کہا جاتا ہے "مَالُهُ أَقْدُّ وَلَا مَرِيئٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

الْقُدَانُ: بڑھاپے کی وجہ سے دونوں کتبی کی سفیدی۔ پر نہ کے بازوؤں کی سفیدی۔ الْمُقَدَّمَةُ: گدی۔ سر کے بالوں کے نکلنے کی انتہائی جگہ پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف۔ سر کے بالوں کے کاٹنے کی جگہ آگے یا پیچھے کی طرف۔

الْمُقَدَّمَةُ وَالْمُقَدَّمَةُ: تراشنے کا آلہ۔ الْمُقَدَّدُ وَالْمُقَدَّدُ: بال تراش کر ہموار کیا ہوا۔ ہر چیز ہموار اور لطیف۔ آراستہ و پیراستہ۔

الْمُقَدَّدَةُ وَالْمُقَدَّدَةُ: گول کان۔ تَقَدَّرَ قَدٌّ فِي الْحَبْلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔ فِي الرُّكْبَةِ: کوس میں گرنا اور مرنا الرَّجُلُ:

خود رائے ہونا۔

قَادَحَهُ مُقَادَحَةً: گالی گلوچ کرنا۔

تَقَدَّرَ لِفُلَانٍ بِالشَّرِّ: شرارت کرنا۔

قَدْر (ن) وَقَدْر (ك) وَقَدْر (س) قَدْرًا وَقَدْرًا: گندا ہونا۔ میلا ہونا۔ صفت قَدْرٌ وَقَدِرٌ وَقَدْرٌ وَقَدْرٌ:

قَدْر (ن) قَدْرًا وَقَدْر (س) قَدْرًا وَقَدْرٌ الشَّيْءُ: گندا کرنا۔ قَدِرٌ الشَّيْءُ: مکروہ جانا۔ پرہیز کرنا۔ گندا سمجھنا۔

أَقْدَرُهُ: گندا پانا أَقْدَرُ فُلَانًا: تنگ دل کرنا۔ بہت بولنا۔

تَقَدَّرَ الشَّيْءُ وَمَنْهُ: میل کچیل کی وجہ سے مکروہ سمجھنا۔

الْقَدْرُ: س۔ میل کچیل اور کبھی پانچخانہ کے لئے بولا جاتا ہے ج اَقْدَاءٌ اور مَقَادِرٌ خلاف قیاس۔

الْقَادُورَةُ: بدی۔ فاحشہ ج قَادُورَاتٍ الْقَادُورَةُ وَالْقَادُورُ وَالْقَادُورُ وَذُو قَادُورَةٍ: جو بد خلقی کی وجہ سے لوگوں سے نہ لے جو کسی چیز کو بوجہ نفرت کے نہ کھائے۔ الْقَادُورُ مِنَ النِّسَاءِ: مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی۔ تنگ و شبہ سے ڈور۔

رَجُلٌ قَدْرَةٌ: ملامت سے ڈور مرد۔ رَجُلٌ مَقْدَرٌ: مرد جس سے لوگ پرہیز کریں۔

الْمَقَادِرُ: گندگیاں۔ الْمُقَدَّرُ: فواحش کا ارتکاب کرنے والا۔ ج مَقْدَرُونَ:

الْقُدْرُوفُ: عیب۔ ج قَدَارِيْفٌ قَدْعَلَاْفٌ: قَدْعًا: گالی دینا۔ لِفُلَانٍ: سخت سست کہنا الْقَوْلُ: بُرَاكِبًا:

الرَّجُلُ: فواحش کا ارتکاب کرنا۔ قَادَعُهُ: گالی گلوچ کرنا۔

قَدَّعَ: ثَوْبُهُ: کپڑے کو گندا کرنا۔ میلا پھیلا کرنا۔

تَقَدَّرَ: لَدَّ بِالشَّرِّ: تیار کرنا الرَّجُلُ: ناپسند کرنا۔

الْقَدْحُ: گندا۔ بے حیائی و فحش۔ الْقَدْحُ: گندگی والا۔ بے حیاء فحش کا ارتکاب کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ بِالْمُقَدَّعَاتِ" او الْمُقَدَّعَاتِ" اس نے اس پر فواحش کی تہمت لگائی۔

الْقَدْحُ: مَوْتًا أَوْثَمَ: الْقَدْحُ: مَعْمِلٌ: بہت بوڑھا۔

الْقَدْحُ: عَمَلَةٌ: پست قامت۔ خیس عورت اور کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَهُ قَدْحُ عَمَلَةٍ" اس کے پاس کچھ نہیں "وَمَا فِي السَّمَاءِ قَدْحُ عَمَلَةٍ" آسمان میں کچھ بھی بادل نہیں۔

قَدْفٌ (ض) قَدْفًا: تے کرنا الْمَلَاخُ: چپو سے کشتی چلانا۔ قَدْفٌ بِقَوْلِهِ: بغیر سمجھے بوجھ بک دینا الْحَجْرُ وَبِالْحَجْرِ: پتھر پھینکانا۔ قَدْفُهُ: بگڈا تہمت لگانا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ بَيْنَ حَادِفٍ وَقَادِفٍ" وہ لوگ ڈھیلا پھینکنے والے اور لاشعی مارنے والے کے درمیان ہیں (وَأَسْتَقْدَفُ) قَادًا بِالْحَجْرِ: پتھر مارنا الرَّجُلُ: تہمت لگانا۔ قَادَفَهُ: ایک دوسرے کو تہمت لگانا اور گالی دینا۔

تَقَادَفَ الْمَاءُ: پانی کا تیز بہنا الْقَرَسُ: گھوڑے کا تیز دوڑانا الْقَوْمُ: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ تَقَادَفُوا بِالْحِجَارَةِ: ایک دوسرے پر پتھر پھینکانا۔ تَقَادَفَتْ بِالْأَمْوَاجِ: پھیرے مارنا۔ اور کہا جاتا ہے "تَقَادَفَتْ بِهِ الْأَنْبَاءُ" دروازوں نے دھکا دیا۔ یعنی کوئی شخص کسی دروازے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ مالک مکان نے دروازہ بند کر دیا اور وہ شخص دوسرے دروازہ پر جانے کے لیے مجبور ہوا اور وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا۔

أَنْقَدَفَ: پھینکا جانا۔ الْقَدْفُ وَالْقَدْفُ وَالْقَدْفُ: جانب۔ گوشہ۔

الطائر فی عشده پرنده کو گھونسلے میں باقی رکھنا اللہ عینہ وعلینہ انھیں ٹھنڈی کرنا یعنی خواہش کے مطابق دینا اور کامیاب کرنا۔

الرجل ٹھہرنا۔ تابعدار ہونا۔ ٹھنڈک میں داخل ہونا اللہ الرجل سردی پہنچانا۔ سردی زدہ کو خلاف قیاس مفزور کہتے ہیں اور مفزور نہیں کہا جاتا القدر ہانڈی سے چٹی ہوئی چیز کو اُتارنا۔ اقرت النافذہ اونٹنی کا حمل ٹھہرنا۔ صفت مفزور۔

تقرّر۔ ثابت ہونا۔ تقرّر القدر ہانڈی کی چٹی ہوئی چیز کو لینا اور سالن بنانا۔

تقار۔ فی المکان ٹھہرنا اور ثابت رہنا۔ اقر فلانا فی العمل وعلینہ باقی رکھنا۔ الرجل ہانڈی کی چٹی ہوئی چیز کو سالن بنانا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا۔

اقرت وتقررت الابل آسودہ ہونا۔ بہت موٹا ہونا۔

استقر بالمکان ٹھہرنا۔ ثابت رہنا۔

القر۔ س۔ مردوں کی سواری جو کچھ اور زین کے درمیان ہوتی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہودج کو کہتے ہیں۔ قر الثوب پکڑے کی تہ۔ یوم القر ماہ ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ کہ اس روز حاجی منیٰ میں ٹھہرتے ہیں۔ یوم قر ٹھنڈا دن لیلۃ قر وقرۃ۔

ٹھنڈی رات۔ القر تان صبح شام۔

القر۔ ٹھنڈک۔ کسی جگہ میں قرار۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ اور اسی سے ہے "وقعت بقرک" یعنی جس چیز کے تم خواہش مند اور امیدوار تھے اس کو تم نے پالیا۔ مثلاً طالب قصاص سے جبکہ وہ قصاص لے لے تو کہا جاتا ہے۔

القر۔ ایک لہسا کیڑا جو پانی کی سطح پر چلتا رہتا ہے اور اس سے قرقر کی آواز نکلتی ہے اسی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔

القراری۔ درزی۔ قصائی۔ شہری جو کسی کا احسان نہ لے اور ہر پیشہ ور۔

القرار والقرارة ٹھہرنے کی جگہ۔

سکون وطمینان حاصل ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "صار الافرالی قرارہ" یعنی اتنا کو پہنچ گیا۔ القرار کسی مسئلہ میں جس پر رائے ٹھہرے۔ اهل القرار شہری لوگ

کہ وہ اپنے مکالوں میں قیام کرتے ہیں۔ بخلاف اهل بدو کہ وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں دارالقرار دار آخرۃ القرار پستہ قدگول گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔

القرۃ۔ قر کا اسم نوع۔ ٹھنڈک۔ عرب کے امثال میں سے ہے "حرة علی قرۃ" اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ضمیر کے خلاف ظاہر کرے۔

القرۃ۔ او قرۃ العین۔ ایک قسم کی گھاس جو پانی کے بننے کی جگہ میں ہوتی ہے اور یہ جر جیر کے علاوہ ہے اس لیے کہ جر جیر کڑوی اور یہ میٹھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "ہو قرۃ عینی" وہ میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ "ابو قرۃ" گرگ کی

کیت۔ اس لیے کہ سردی کا غلبہ اس پر بہت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ آفتاب کے سامنے رہتا ہے۔

القرۃ والقرۃ والقرۃ مینڈک۔

القرۃ والقرۃ والقرۃ ہانڈی کی تلی میں جو لوگ جائے۔ ہانڈی کی کھرچن۔

القرۃ۔ سختی جو پرہیز کرنے کے باوجود واقع ہوئے۔

القرۃ والقرۃ والقرۃ والقرۃ والقرۃ ہانڈی کی تلی میں جو لوگ جائے تاکہ جلنے نہ پائے۔

القرور۔ ٹھنڈاپانی۔

القارورۃ۔ آنکھ کا ڈھیلا۔ تریا خشک کھجوروں کا برتن۔ شراب کا برتن ج

قواریر۔

التفرار والتفرۃ۔ ثبوت۔ سکون۔

القار۔ فا یوم قار۔ ٹھنڈا دن۔

القارۃ۔ مؤنث۔ قار۔ عین قارۃ۔ ٹھنڈی

آنکھ۔ کنایہ سے سرور ہونے سے۔ القارۃ۔ برا عظیم جیسے برا عظیم الشیاء۔

الاستفراء۔ منطقیوں کے نزدیک ایک حکم سب پر لگانا ایک کلی کے اکثر افراد پر ہونے کی وجہ سے جیسے حیوان کھاتے

وقت اپنا نیچے والا جزا حرکت دیتا ہے۔ اس واسطے کہ انسان مویشی اور درندے ایسے کرتے ہیں لہذا یہ حکم کلی (حیوان) کے سب افراد پر لگا دیا گیا۔

الاقراء اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "ای ایۃ الایاد اقر کون سادن ٹھنڈا ہے۔

المنقر۔ ٹھہرنے کی جگہ ج مقار۔ مقار البئر کو کسی کی تلی میں گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔

المقرۃ۔ پانی کا حوض۔ گڑھا۔

المقرور۔ ٹھنڈک سردی زدہ۔

قرأ (ف ن) قرأ وقرانہ وقرانا وقرأ کتابہ پڑھنا۔ قرأ (ف ن) قرانہ علیہ السلام۔ سلام پہنچانا۔ اور امر کی صورت میں "أقرأ علیہ السلام" کہا جاتا ہے۔ اور اس کا تعدیہ بنفسہ غلط ہے اس لیے اقرأہ السلام نہیں کہنا چاہیے (قرأ و قرأنا) الشی جمع کرنا اٹھا کرنا النافذہ اونٹنی کا حاملہ ہونا الحامل حاملہ کا جننا۔

قارۃ قراءہ ومقارۃ۔ شریک درس ہونا۔

اقراء اقراء الرجل پڑھانا۔ السلام سلام پہنچانا۔ اقرأ من السفر سفر سے واپس ہونا الامر قریب ہونا عند پھرنا۔

النجم۔ ستارہ کا غروب ہونا الرجل عبادت کرنا الحاجۃ۔ ضرورت کو موخر کرنا۔ اقرأت الرياح ہوا کا وقت پر چلنا زیادہ پیچھے ہٹنا الحاجۃ حاجت کا موخر ہونا۔

تقرأ۔ عبادت کرنا فقیر ہونا عالم ہونا۔ استفاء استفاء۔ فلانا پڑھنے کے لیے کہنا الامور معرفت احوال کے لیے تیغ و

تلاش کرنا۔
 القراءۃ۔ من پڑھنے کی کیفیت ج
 قرانات۔
 القراءۃ وقت۔ قافیر۔ ج افراء و ففروؤ
 و افراء افراء الشعر شعر کے انواع اور
 بحریں اور شعر کے مقاصد۔
 القراءۃ و۔
 القرآن کلام اللہ۔
 القاری۔ ف۔ عبادت گزار ج فراء و
 قارون و قراءۃ۔
 الاقراء عمدہ طریقہ سے پڑھنے والا۔ زیادہ
 پڑھنے والا۔
 القراء لہذا پڑھنے والا۔ ج قراؤون۔
 القراء عبادت گزار ج قراؤون
 و قوراری۔
 المقروء و المقروی و المقروء جو چیز
 پڑھی جائے۔
 المقرا پڑھنے کے وقت جس پر کتاب
 رکھی جائے جیسے ڈسک۔ رحل وغیرہ۔
 المقتروی عبادت گزار۔
 القراء و القراء حیض۔ طہر۔ وقت حیض۔
 وقت طہر۔ ج افراء و ففروء و افروء بافراء
 بمعنی طہر کی جمع ففروء اور فراء بمعنی حیض
 کی جمع افراء۔
 قرب (س) و قرب (ک) قربا و قربانا
 و قربانا قریب ہونا قریبہ و قرب منہ
 و الیہ قریب ہونا۔
 قرب (س) قربا کوکھ کے درد والا ہونا۔
 قرب (ن) قربا السیف تلوار کو میان
 میں داخل کرنا۔ میان بنانا۔ صفت قارب
 اور صفت مفعولی مقروء۔
 اقرب الاناء برتن کا بھرنے کے قریب
 کرنا۔ اقرب الحامل حاملہ کا جننے کے
 قریب ہونا۔
 قربا۔ میان بنانا الراعی الابل گھاٹ پر
 پہنچنے کے لیے رات کو لے کے چلانا۔
 راعی کو قارب کہتے ہیں۔ مقرب نہیں۔

اور اونٹوں کو قوارب کہتے ہیں مقربۃ
 نہیں۔
 قریبہ قریب کرنا ذالامیر خاص لوگوں
 میں سے بنا لینا۔ قرب القربان للہ قربانی
 کرنا۔ قرب فلانا حیث اللہ و قرب
 دارک کہنا لغرس و لگی چلنا الرجلی
 کوکھ کے درد والا ہونا۔
 قاریہ مقاربتہ قریب ہونا خوش کلامی
 کرنا۔ قارب فی الامر غلو کو چھوڑ دینا اور
 میانہ روی اختیار کرنا۔
 تقرب تقربا و تقربا الی اللہ بالقربان
 قربت ڈھونڈنا الرجلی کوکھ پر ہاتھ رکھنا
 اور کہا جاتا ہے "تقرب یا رجل" یعنی
 جلدی کر اور کہا گیا ہے کہ یہ امر ہی کے
 ساتھ خاص ہے۔
 تقاربا ایک دوسرے کے قریب ہونا۔
 تقارب الزرع کھیتی کا پکنے کے قریب
 ہونا۔ تقاربتہ قریب ہونا۔
 اقرب الوعد قریب ہونا الشینان
 ایک دوسرے کے قریب ہونا۔
 استقرب الشی قریب سمجھنا۔
 القرب و القربا نزدیکی۔
 القرب و القربا کوکھ۔ ج اقربا
 القرب کنواں جس کا پانی قریب ہو ج
 اقربا (و القربا) گھاٹ پر پہنچنے کیلئے
 رات میں چلنا۔
 القربۃ و القربۃ نیک افعال۔ جن سے
 اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ ج قرب و
 قریبات القربۃ جگہ اور مرتبہ کی نزدیکی۔
 القربۃ منک ج قرب و قریبات و
 قریبات و قریبات اور مثل ہے لقیث منہ
 عربی القربۃ یعنی مجھے اس سے بہت زیادہ
 تکلیف ہوئی۔
 القربا میان ج قرب و اقربۃ۔
 قربا الشی و قریبہ اندازے میں
 برابر۔ القربا و القربا قریب۔ کہا جاتا
 ہے "ما هو بسہلک ولا بقربا منک"

نہ تو وہ تمہارے مشابہ ہے اور نہ تم سے
 قریب ہے۔
 القربی و القربۃ و القربۃ رشتہ داری۔
 اور کہا جاتا ہے "فی الاناء قریبۃ جب کہ
 بھرنے کے قریب ہو۔
 القربان ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا
 تقرب حاصل کیا جائے۔ چاہے ذبیحہ ہو یا
 کچھ اور۔ بادشاہ کا خاص ہم نشین۔ ج
 قریبین۔
 القربان من الانیۃ برتن جو بھرنے کے
 قریب ہو۔ مؤنث قریبۃ ج قارب
 القربان بادشاہ کا خاص ہم نشین۔
 القارب ڈونگی۔ چھوٹی کشتی ج قوارب۔
 القارب رات کو پانی ڈھونڈنے والا۔
 القربۃ نزدیک۔ رشتہ دار ج اقرباء
 و قریبۃ مؤنث۔ قریبۃ ج قارب
 القربۃ اشعار کی ایک بحر کا نام ہے جو
 عجمیوں کے استعمال میں ہے۔ کہا جاتا ہے
 "حاء و اقربا" وہ سب قریب قریب
 آئے اور یہ قریب کی جمع خلاف قیاس
 ہے۔
 الاقرب اسم تفضیل۔
 اقرباء الرجل و اقربا و اقربوہ قریبی
 رشتہ دار۔
 القربی لمی ناگوں کا کیزا جو گہریلا کے
 مشابہ ہوتا ہے۔
 القربۃ من ایک قسم کی دوڑ۔
 المقربۃ من الخیل عمدہ گھوڑا جس
 کی خوبی کی وجہ سے تھان قریب بنایا
 جائے۔ مؤنث۔ مقربۃ۔
 المقرب و المقربۃ مختصر راستہ۔
 المقرب رات میں چلنا۔
 المقرب فا من الحوامل جس کے
 جننے کا زمانہ قریب ہو۔ ج مقارب و
 مقاریب۔
 المقربۃ و المقربۃ و المقربۃ رشتہ
 داری۔

المقارب۔ فا۔ جید اور رومی کا درمیان۔ متوسط الحال۔

المقارب۔ منمن المتاع: سستا سامان۔
المقارب۔ فا۔ ایک بحر کا نام ہے جس کا وزن فعولن آٹھ مرتبہ ہے۔ پستہ قدر۔
القرنوبت والقرنوبس۔ زین کا آگے پیچھے بلند حصہ۔ نقرابیس۔

قَرَتْ (ن) قَرْنَا وَقُرُونًا وَقِرَتْ (س) قَرْنَا الدَّمَّ تہ بتہ خون خشک ہونا۔ زخم میں خون کا بگڑ جانا۔ مار کی وجہ سے بدھی پڑنا۔ قِرَتْ الظَّفُرُ: خون کا ناخن میں بگڑ جانا (الرَّجُلُ) غم یا غصہ کی وجہ سے چہرہ کا متغیر ہونا۔

قَرَتْ (ن) قَرُونًا الرَّجُلُ: خاموش ہونا۔ القَارَتْ والمُقَرَّتْ: جو چیز لے اس کو کھانے والا۔ دَمَّ قَارَتْ: کھال اور گوشت کے درمیان خشک ہونے والا خون۔ القَارَتْ والقَرَات: عمدہ مشک۔ القَرَتْ: سہ۔ برف۔

قَرَتْ (س) قَرْنَا الرَّجُلُ: محنت کرنا اور کمانا۔

قَرْنَةٌ (ض) قَرْنَا الأَمْرُ: دشوار ہونا۔ مشکل ہونا۔ سخت ہونا۔

القَرِيْبُ: مچھلی کی ایک قسم۔ القَرْتُ: چھوٹا کوزہ۔

قَرْحَةٌ (ف) قَرْحًا وَقَرْحَةٌ: زخمی کرنا۔ قَرَحَ وَقَرَّحَ البُنْرُ: جہاں پانی نہ لگتا ہو کنواں کھودنا۔ قَرْحَةٌ بالحق: حق سے پیش آنا۔ قَرْحَ النَّبَاتِ: کونیل لگانا الارض: سبزہ لگانا شروع ہونا۔

قَرَحَ (ف) قَرُوْحًا وَقَرَاْحًا وَقَرَحَ (س) قَرَحًا الفَرَسُ: گھوڑے کا پانچ سال کا ہونا۔ قَرَحَتْ (ف) قَرُوْحًا وَقَرَاْحًا: النافقة: اونٹنی کا حمل ظاہر ہونا۔ صفت قَارِحٍ:

قَرِحَ (س) قَرَحًا: پھوڑوں والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَرِحَ قَلْبُهُ مِنَ الحُزْنِ" اس کا دل غم سے زخمی ہو گیا "قَرِحَتْ سِنُّ

الصبي" لڑکے کے دانت نکلنے کے قریب ہوتے۔

قَارِحَةٌ مُقَارِحَةٌ: رور رو ہونا۔
أَقْرَحَ الفَرَسُ: گھوڑے کا پانچ سال ہونا۔
أَقْرَحَ اللّٰهُ: آبلے ڈالنا۔ پھوڑے لگانا۔
تَفَرَّحَ بِالأَمْرِ: تیاری کرنا الجسد: پھوڑے والا ہونا۔

إفْتَرَحَ الخُطْبَةَ: فی البدیہہ خطبہ دینا □
الأَمْرُ: بغیر کسی نمونہ کے ایجاد کرنا الشئ: بغیر سننے کے اپنی طرف سے استنباط کرنا۔
چنانچہ اختیار کرنا البعیر: جس اونٹ پر کوئی سوار نہ ہوا ہو سوار ہونا علیہ كَذَا و بكَذَا: سختی سے اور بغیر سمجھے ہوئے سوال کرنا علیہ كَذَا: بنوانے کی خواہش کرنا۔
کہا جاتا ہے "إفْتَرَحَ عَلَیْهِ صَوْتٌ كَذَا" اس سے اس نے فلاں آواز کی خواہش کی البئر: جہاں پانی نہ ہو کنواں کھودنا۔

القَرْحُ: سہ۔ زخم۔ پھوڑا۔ سخت مچھلی جو اونٹ کے پنجوں کو ہلاک کر دے۔ ج قُرُوْحُ:

القَرْحُ: ہر چیز کا اول۔ نئے کنوئیں کا پہلا پانی۔ مینے کی ابتداء کی تین راتیں۔

القَرْحُ: سہ۔ اونٹ کو خارش اور انسان کو چپک نہ ہونے کی حالت۔

القَرْحَةُ والقَرْحَةُ: پرانا پھوڑا جس میں پیپ جمع ہو۔ قَرْحَةُ الشَّتَاءِ او الرَّبِيعِ: جائزے یا بہار کی ابتداء۔ القَرْحَةُ فی وجْهِ الفَرَسِ: گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی۔ کہا جاتا ہے "قَرْحَةُ اصْحَابِهِ" وہ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہے۔

القَرْحُ: پھوڑوں والا۔ القَرَاْحُ: خالص پانی۔ بے پانی اور درخت کی زمین۔ ج أَقْرَحَةٌ:

القَرْحَانُ: شیر۔ القَرْحَانُ: مِنَ الإِبِلِ: اونٹ جس کو کبھی خارش نہ ہوئی ہو مِنَ النَّاسِ: وہ شخص جس کو چپک نہ ہوئی ہو۔

القَرْحَانُ والقَرَاْحِيُّ: جو جنگ میں کبھی شریک نہ ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ قَرْحَانٌ وَقَرَاْحِيٌّ مِنَ الأَمْرِ" تم معاملہ سے علیحدہ ہو۔ صفت مؤنث۔ قَرَاْحِيَّةٌ القَرَاْحِيُّ: جو ہمیشہ ہستی میں رہے اور جنگ کی طرف نہ جائے۔ القَرَاْحِيَّتَانُ: دونوں کوکھ۔

القَارِحُ: فاسمن ذی الحافر: جس کے پورے دانت نکل آئے ہوں۔ نقوَارِحُ و قُرُوْحُ و مُقَارِبِحُ مؤنث۔ سِقَارِحُ و قَارِحَةٌ نقوَارِحَاتُ و قوَارِحُ:

القَارِحُ: شیر۔ کمان جو تانت سے ڈور ہو۔ قَارِحُ الفَرَسِ: وہ دانت جس کے نکلنے کے بعد اس کو قارِح کہا جائے۔

القَرِيْحُ: زخمی۔ ج قَرُوْحِيٌّ وَقَرَاْحِيٌّ: خالص پانی وغیرہ۔ پہلا بادل جو ظاہر ہو۔ قَرِيْحُ السَّحَابَةِ: بارش بوقت نزول۔

القَرِيْحَةُ: ہر چیز کا اول۔ کنوئیں کا پہلا پانی مِنَ الإِنْسَانِ: طبیعت۔ قَرِيْحَةُ الشَّاعِرِ او الكَاتِبِ: ملکہء راسخہ۔ ج قرائح:

الأَفْرُوْحُ: اسم تفضیل۔ صِحَّ فَرَسٌ أَفْرُوْحٌ: وہ گھوڑا جس کی پیشانی میں درہم کے برابر یا اس سے کم سفیدی ہو مؤنث۔ قَرْحَاءُ ج قُرُوْحُ: رَوْضَةٌ قَرْحَاءُ: سبزہ زار۔ سفید پھولوں والا باغ۔

المَقْرُوْحُ: منمن الطُّرُقِ: واضح راستہ۔ (والمَقْرُوْحُ) پھوڑوں والا۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ مُقَارِحَةً" یعنی میں اس سے رو در رو ملا۔

القَرْحِيَاءُ: زمین جو زراعت یا پودہ لگانے کے لئے خاص ہو۔

القَرُوْرَاْحُ: لمبے پاؤں کی اونٹنی۔ ج قَرَاوِنِحُ القَرُوْرَاْحُ: زمین مقابل آفتاب۔ زمین جو زراعت یا پودہ لگانے کے لئے خاص ہو۔

قَرْدٌ (س) قَرْدًا: الاذینم: ادھوڑی کا کریم

خوردہ ہونا الکحل فی العین: سرمد کا پرانگندہ ہونا آستانہ: چھوٹا ہونا اور سوڑھے سے ملنا العلق: بد مزہ ہونا اور تَقَرَّد (الشعر): بالوں کا ٹھکھرایا ہونا۔ ایک پر ایک جم کر نمدہ جیسا ہو جانا۔ قَرْد و اقْرَد و قَرْد: درمانگی سے خاموش رہنا۔ زمین سے چٹنا۔ قَرْدُہ: دھوکا دینا۔ قَرْد البعیر: اونٹ سے چھڑی نکالنا۔ قَرْد و اقْرَد الیہ: تابعدار ہونا۔ قَرْد المتحرک: ساکن ہونا۔ قَرْد البعیر: چھڑی والا ہونا۔ ایسی نرم چال چلنا جس سے سوار کو حرکت نہ ہو۔

قَرْد (ض) قَرْدًا: المال: جمع کرنا۔ کماٹی کرنا فی السقاء: منگیزہ میں دودھ یا گھی جمع کرنا۔

القَرْد: س۔ پستہ۔ قد۔ گردن۔ القَرْد و القَرَاد: چھڑی واحد۔ قَرْدُة و قَرَادُة و قَرَادان: القَرَاد: پستان کا سرا۔ کہا جاتا ہے "نَزَعْتُ قَرَادًا فُلَانًا" یعنی میں نے اس کو فریب دیا۔

القَرْد: بندر۔ لنگور۔ اقْرَاد و اقْرُد و قَرُوْد و قَرْد و قَرْدُة: مونث۔ القَرْدُة: بقرد۔

القَرْد: س۔ اون یا کتان کا ردی حصہ۔ پتی اُتاری ہوئی کھجور کی شاخ۔ واحد۔ القَرْد: زبان کا ہلکا پن۔ بادل کے متفرق چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔

القَرْد واحد (قَرْدُة): کھجور کی شاخ جس کے پتے صاف کر دیئے گئے ہوں۔

القَرْد: من الابل: بہت چھڑی والا اونٹ۔ گھنگھور گھٹا۔ رجل قَرْد الفم: ایسا شخص جس کے دانت پیدائشی چھوٹے ہوں۔

رجل قَرُوْد: ساکن مرد۔ القَرَاد: بندر والا۔

القَرْدِيس: کڑی کے برابر اس جیسی چھلی۔ (یونانی لفظ)

قَرُوْد ح قَرُوْد حة: اقرار کر لینا۔ تابع و فرمانبردار ہونا اور باستعمال عوام ہتھیار بنانا اور درست کرنا۔

القَرْد اِحی و الازحیحی: ہتھیار بنانے اور درست کرنے والا۔

اقْرند ح لہ: جب توئے گناہ کرنا۔

القَرْد ح و القَرْد ح: لنگور۔ بڑا بندر۔

القَرْد حة و القَرْد حة: نوجوان کے گلے کا ٹیٹا۔

المُقْرند ح: فاء۔ آمادہ شرارت۔

القَرْد ح: سخت اور بلند زمین۔ قَرَاد ح۔

کہا جاتا ہے "جاء الحدیث علی قَرْدِہ" اس نے بات کو اپنے موقع پر کہا۔

القَرْد ح: سخت اور بلند زمین۔ قَرَاد ح۔

القَرْد ح: انسان کی پیٹھ کا وسط۔

القَرْد حة: سخت اور بلند زمین۔

قَرُوْد حة النساء: جائے کی شدت۔

قَرُوْد حة الظہر: پیٹھ کا اعلیٰ حصہ۔

القَرْد حة: کلام کی سختی۔ پیٹھ کے درمیان کا خط۔ مرد کا سر۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ج قَرَاد ح۔

قَرَاد ح۔

قَرْد حة قَرْد حة: مضبوط باندھنا۔ قَرْد حة جزو الکلب کتے کے پلے کو بلانا۔

القَرْد حة: س۔ سختی۔ شدت۔

القَرْد حة: خوری۔ ذلت۔

القَرْد حة: گردن۔ کہا جاتا ہے "أخذ بقَرْدِہ" اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔

القَرْد حة: چھوٹی جوں۔

القَرْد حة: پہاڑ کی دھاڑ کا گوشہ۔

القَرْد ح: نادان عورت۔

قَرْد ح (ان) قَرْد ح: کھرچنا۔ قَرْد ح التراب و نحوہ: اُگھیلوں سے لینا۔

القَرْد ح: سر۔ ٹیلہ۔ سخت زمین۔

القَرْد ح: تیل کی شیش۔

القَرْد ح: ہر چیز کی ایک مٹھی۔

القَرْد حة: دودھ سے بنایا گیا پیڑ۔

قَرْد ح الشاعر و شاعر: ردی شعر کہنا۔

القَرْد ح: کھلیا ہوا۔

المقْرَد ح: حقیر۔ لہیم۔ فرومایہ۔ رجل مقْرَد ح: ٹھٹھے ہوئے بدن کا پستہ قدمرد۔

القَرْد ح: موچی یا موزہ بنانے والا بن کا فرم۔

قَرْس (ض) قَرْسًا: الماء: پانی کا نمند و سرد ہونا۔ البَرْد ح: تیز جاڑا ہونا۔ المقْرُوْر ح: سخت سردی کی وجہ سے کام نہ کر سکتا۔

قَرْس (س) قَرْسًا: البَرْد ح: تیز جاڑا ہونا۔

الرجل: ٹھٹھرا۔

اقْرَس ح: کڑی کی تری کا اس کے اندر جم جانا۔ اقْرَس البَرْد ح: اصابعہ: سردی کا اُگھیلوں کو سن کر دینا۔

اقْرَس و قَرَس ح: البَرْد ح: فلاناً: ٹھٹھرا دینا۔

اقْرَس و قَرَس ح: الماء: جمادینا۔

القَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

قَرَس ح: القَرَس ح: سخت سردی۔ القَرَس ح: القَرَس ح: جمادینا۔

اقرشنتہ الشجعة: بغیر چورہ ہونے کے ہڈی ٹوٹنا۔

تقرش: المال جمع کرنا عن السينات: نمازیوں سے پرہیز کرنا۔ بچنا الشی اول اول لینا الشی چمننا: تقرش القوم: قوم کا جمع ہونا۔ تقرشت و تقارشت الرماح: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گھمتنا۔ تقارش القوم: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا اور اس سے جھکنا پیدا ہونا۔

اقرش: لعیانہ کمانی کرنا۔ اقرشت الرماح: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گھمتنا۔

بہ چٹلی کھانا۔ نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرنا۔

القرش: جو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے۔ ج قروش قرش الشی چیز کی آواز۔

القرش: پیاسٹر۔ ایک ترکی سک مسادی 02/ (دخیل)

القرش و القریش: ایک قسم کی مچھلی جس کو کلب البحر بھی کہتے ہیں جو پانی کے اندر جانوروں کو اپنے دانت سے تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے۔

قریش: عرب کا مشہور قبیلہ اور نسبت کے لئے قرشی و قریشی۔

رماح قوارش: لڑائی میں گھمتے ہوئے نیزے جن میں قریش سخت خشک پتیر۔

المقرشة من السنين: سخت قحط کا سال۔ قرص (ن) قرصا لحمه: چنگ لینا ذہ

بلسانہ: تکلیف دہ کلمات کہنا الثوب بالماء: انگلیوں کے پوروں سے دھونا

البرغوث: بچو کا کاٹنا قرصته الحية: سانپ کا ڈسنا قرص و قرص الشی: کاٹنا العجین گندھے ہوئے آٹے کے پیڑے

بنانا۔ قرصه و مقارصه: ایک دوسرے کو چنگلی لینا۔

قرص (س) قرصا ہمیشہ غیبت کرنا اور

تکلیف دہ کلمات ہونا۔

القرص روٹی کی تکیا۔ فرض الشمس: آفتاب کا گروہ۔ کہا جاتا ہے "غاب قرص الشمس" آفتاب کی تکیا غائب ہو گئی۔ ج

أقراص و قرصه و قراص: القرصه روٹی کی تکیا۔ ج قرص القرص: کشتی کا لنگر۔

القراص: ایک زونیں دار گھاس جس کے چھوٹے سے چلن ہوتی ہے۔ واحد قراصة القراص: بابونہ اور کہا جاتا ہے "احمر قراص" یعنی بہت سرخ۔

لجام قراص و قراص: وہ لگام جو جانور کو تکلیف دے۔

القراص: فہ: چھم کی مانند ایک جانور۔ القارصه: قارص کا مؤنث۔ کلمة قارصه: تکلیف دہ کلمہ۔ ج قوارص: القارصه: چرپاہٹ۔

المقراص: بڑھے سر کی چھری۔ المقرص: من الخلی و غیرہا: تکیا کے مانند گول زیور۔

القراص: ایک کانٹے دار سبزی جو کہ کھائی جاتی ہے۔

القرصان: بحری ڈاکو (دخیل) القراصیا: بمعنی قراسیا۔

قرصه قرصه کاٹنا۔ القراصیا: کلاب کی اقسام سے ایک پودا جس کے پھل سیاہ ہوتے ہیں۔

قرصع قرصعة: سکڑنا۔ پوشیدہ ہونا۔ بخل کی وجہ سے تنہا کھانا۔ باریک لکھنا۔ اور

سطروں کو قریب قریب کرنا۔ فی بیتہ: بیٹھنا اور سٹنا زیداً فی ثیابہ: پیٹھنا۔

تقرصعت المرأة: بری چال چلانا۔ اقرنصع الرجل: کپڑوں میں لپٹنا۔ سکڑنا اور چھپنا۔

القرصعة: ایک خار دار درخت جس کو شوکتہ ابراہیم بھی کہتے ہیں اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم سفید ہے جس

میں بچے زیادہ اور کانٹے تیز ہوتے ہیں۔ القرصعة: ایک قسم کی ترکاری جس میں سرکہ اور زیتون کا تیل ملا کر کھاتے ہیں۔

تقرصف و اقرصف: جلدی کرنا۔ قرصمة کاٹنا۔ توڑنا۔

قرصه (ض) قرصا: بدلہ دینا۔ قرص دینا۔ فرض الشی: شعر کہنا الوادی: وادی کو طے کرنا۔ مقابله کرنا فرض فی سیرہ: چلنے میں دائیں بائیں ہونا۔

المکان: علیحدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "قرص رباطہ" یعنی مر گیا (وقرص) الشی: کاٹنا قرص الغار الثوب: چوہے کا کپڑے کو کترنا۔

قرص فلانا: بدح کرنا۔ مذمت کرنا۔ قرص (س) قرصا: مرنا۔ قارصه: قراضا و مقارصه: بدلہ دینا۔ برائی کا برائی سے مقابلہ کرنا ذی الماں: مضاربت کرنا۔

اقرصه: قرص دینا۔ اقرص منه: قرص لینا۔ تقارص الرجلان: ایک دوسرے کو برائی یا بھلائی کا بدلہ دینا۔ تقارصا: الشی: اپنے اشعار کا پڑھنا۔ تقارصا النساء: ہر ایک کا دوسرے کی تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے "تقارص القران النظر" یعنی ہر ایک نے دوسرے کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔ انقرص: ختم ہونا۔ کٹنا القوم: سب کا ہلاک ہو جانا اور کسی کا باقی نہ رہنا۔ اقرص منه: قرص لینا عرصه: غیبت کرنا۔ استقرص منه: قرص مانگنا۔

القرص و القراض: لہجھا یا برا عمل جو پیش کیا جائے جو مال تم کسی کو اس شرط پر دو کہ وہ وقت معینہ پر تم کو واپس کر دے۔ ج قروض: القراض: کانٹے میں جو گرے جیسے سونے کے ذرات۔ کپڑے کی دھجی وغیرہ۔

القريطط والقريططة. تھوڑی چیز۔ القريططة: بلاد حتی۔ القريطع: جوں جو اونٹ کے بدن میں پیدا ہو جائے۔ القريطف والقريطفة: محل چادر۔ قريطفة قريطفة: کرتا پہنانا۔ تقريطق: کرتا پہنانا۔ القريطق: کرتا۔ قريطلة: فی الماء: پانی میں ڈبونا۔ القريطل: ٹوکر۔ کنڈیا تحراطل۔ القريطلة: گدھے کا ایک جانب کا بوجھ۔ القريطالة: پالان کے نیچے کا خوگیر۔ ج قريطال۔ قريطم قريطمة: الشی کاٹنا الطائر۔ قريطم کے دانے ڈالنا۔ القريطم والقريطم والقريطم والقريطم: عصف کا دانہ۔ القريطمان: ایک قسم کا غلہ جو ماش کے مشابہ ہوتا ہے۔ خفاف قريطمة: کناروں پر مضبوط سلا ہوا چرمی موزہ جو پتھر کو توڑ دے۔ قريط (ض) قريطا: القريط: درخت سلم (جو ٹیکر کے درخت کی مانند ہوتا ہے) کے پتے چھنا۔ الادیم: درخت سلم کے پتوں سے دباغت دینا۔ قريط (س) قريطا: زلت کے بعد سردار ہونا۔ قريطة تقريطا: زندہ کی جھوٹی یا جھج مدح کرنا۔ القريط: درخت سلم کے پتے۔ واحد قريطة۔ القريطا: درخت سلم کی پتیوں کا بیچنے والا۔ قرع (ف) قرعا: الباب: دروازہ کھٹکانا۔ اور اسی سے قرح ہے۔ منقح قرع: بابا ولج ولج: جو شخص دروازہ کھٹکانے	مھوڑے کو گام لگانا السراج: چراغ سے گل گرانا علی الرجل: تھوڑا تھوڑا دینا الیہ رسولاً: جلدی بھیجنا۔ تقريطت المرأة: عورت کا بالی پہنانا۔ القريط: گدنا کی ایک قسم۔ القريط: بالی۔ ایئر رنگ۔ کان کا زیور۔ ج اقريط وقراط وقريط وقريطة: القريط: آگ کا شعلہ۔ ٹھن۔ ایک گھاس ہے جو اسپت کے مشابہ ہے شیا (بنا بر تشبیہ) و القريط من البوز او الیلح عند العامة: کیلے وغیرہ کی پھلیوں کا گچھا۔ القريطة والقريطة: مینڈھے کے کان کا کٹ کر ٹکٹا ہوا حصہ۔ القريطا: چراغ۔ چراغ کا شعلہ (والقريطا): حق کا گل۔ القريط والنقراط: نصف دانق اور بقول بعض دینار کا 4/6 اور بقول بعض دینار کے دسویں حصہ کا آدھا۔ کسی چیز کا چوبیسواں حصہ فی البساحة: انگلی کی چوڑائی کے برابر۔ (دخیل) القیطاط عند اليونان: دانہ خرئوب۔ نصف دانق ج قراطیط۔ القراطیط: دانہ تھرہندی۔ القريطیطی: ایک مرہم جس کا ضاد کیا جاتا ہے (دخیل)۔ قريطہ قريطہ: گدی کے بل پچھانا۔ قريط الحزور: ہڈیوں کا کاٹنا الرجل غضبناک ہونا۔ تیز دوڑنا۔ بھاگانا۔ تقريطب: گدی کے بل گرنا۔ القريطا: بہت کاٹنے والا۔ القريطی: تلوار۔ قريطس: نشانہ لگانا۔ تقريطس الرجل: ہلاک ہونا۔ القريطس والقريطس والقريطاس: کاغذ۔ القريطاس والقريطاس: نشانہ۔ ایک قسم کی مصری چادر۔ حریر جو کچھ بھی ہو۔ سفید کشیدہ قامت لڑکی۔ جوان اونٹنی۔ ج قراطیس۔	قراضته المسال: ردی مال۔ التقريطش: شاعری۔ القريطش: کاٹنا ہوا۔ شعر۔ جگال۔ القريطاضة: لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ کیڑا جو اون کو چاٹ جاتا ہے۔ ابن مقريط: نیولے کے مانند ایک جانور جو اس سے بڑا اور سفید زردی مال ہوتا ہے اور چوہے خرگوش اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ المقريطش: قینچی۔ ایک پھل ہو جب تو "قريطضہ بالمقريطاض" بولتے ہیں اور اگر دونوں پھل ہوں تو "قريطضہ بالمقريطاض" نہیں کہتے بلکہ قريطضہ بالمقريطاض کہتے ہیں۔ ج مقريطش۔ المقريطش: تھوڑی مچھتی۔ بڑے مکے۔ شراب کے برتن۔ قريطب الشی: جدا جدا کرنا الرجل خشک چیز کھانا اللحم فی البرمة: گوشت کو ہانسی میں جج کرنا فلاں: دوڑنا اللحم کل کھا جانا۔ کہا جاتا ہے "قريطب الدنب الشاة" بھیڑیا سالم بکری کھا گیا۔ القريطض: بھوسی جو چھائی میں جج رہے اور پھینک دی جائے۔ القريطاض والقريطضوب: تلوار قاطح۔ چور۔ خشک چیز کو کھانے والا۔ تقیر۔ ج قريطاضة۔ القريطاض: جو کچھ ملے اس کو کھا جانے والا۔ ج قريطاض۔ قريطض الشی: کاٹنا۔ لے کر چل دینا۔ کہا جاتا ہے "هو قريطض کل شی" وہ ہر چیز کو لے کے چل دیتا ہے۔ قريط (ن) قريطا: الکراث ونحوہ۔ باریک باریک کاٹنا۔ قريط (س) قريطا: التیس: کٹے ہوئے کانوں والا ہونا۔ صفت اقريط۔ قريط الشی: کھڑے کھڑے کرنا الجاریة: لڑکی کو بالی پہنانا القريطس:
--	--	---

اور اصرار کرے وہ داخل ہوتا ہے الرَّجُلُ: مارا۔ کہا جاتا ہے "قرع رأسه بالعصا" اس نے اس کے سر پر لاٹھی ماری۔ و "قرع صفاته" اس نے اس کی مقصد کی اور عیب بیان کیا "قرع ساقه للأمر" وہ کام کیلئے فارغ ہوا الشئ: پسند کرنا السهم الغایة: تیر کا نشانہ پر لگانا ہ امر: اچانک پیش آنا سنہ: ندامت سے دانت پینا۔

قرع (ن) قرعاً فلاناً: قرع میں غالب آتا۔ قرع علیہ: تیر اندازی میں مغلوب ہونا۔

قرع (س) قرعاً وقرعاً المكان: خالی ہونا ماء البئر: پانی کا ختم ہونا الرجل: تیر اندازی میں مغلوب ہونا۔ مشورہ قبول کرنا (قرعاً الرجل: گنجی ہونا۔ قرع فلاناً: جھڑکی دینا القوم: رنجیدہ کرنا الفصیل: اُونٹ کے بچے کی پھنسی کا علاج کرنا الشعر: بال کاٹنا۔

قارعه مقارعة وقرواعا: باہم قرع اندازی کرنا۔ قارعه فقرة: اس نے اس سے قرع اندازی کی اور غالب آیا۔ قارع و تقارع القوم: قرع ڈالنا بعض کا بعض کو تلوار مارنا بالمرواح: آپس میں نیزہ بازی کرنا۔

أقرع: باز رہنا۔ مشورہ قبول نہ کرنا عنه: زکنا المسافر: منزل سے قریب ہونا الغائض والمنايح: غوطہ خور کا زمین کی تہ تک پہنچنا الشو: ہمیشہ رہنا نعلہ: جوتے میں موٹا پیوند لگانا الحمير: گدھوں کا ایک دوسرے کو دوتی مارنا الشئ: طاقت رکھنا داره أجراً: ایٹوں کا فرش لگانا۔ فلاناً: روکنا الی الحق: لوٹنا الرجل: عمدہ مال دینا الدابة بلجامها: جانور کو لگام سے کھینچ کر روکنا بین القوم: قرع ڈالنا۔

تقرع وانقرع: اٹلنا پلٹنا انقرع عن

الأمر: رکنا عن الحق باز رہنا۔ تقرع الجلد: سبجے پن کی وجہ سے کھال کا چھل جانا۔

أقرع الشئ: اختیار کرنا۔ پسند کرنا النار: آگ روشن کرنا القوم علی کذا: قرع ڈالنا۔

استقرع الحافر: کھر کا سخت ہونا الکروش: اوجھ کا سخت ہونا۔

القرع: س۔ کدو۔ واحد قرعة۔

القرعة: قرع کا اسم مرۃ۔

القرعون: بادام سخت ہونے سے پہلے۔ (سریانی لفظ)

القرع: س۔ سفید پھنسی جو اُونٹ کے بچوں کو ہوتی ہے۔ گنجی پن۔ سبقت۔ اُونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ۔ وہ جگہیں جن میں صرف گھاس ہو اور دوسری نباتات نہ ہو۔ کھجلی۔

القرعونة: مٹی کا پرانا برتن۔

القرعة: ڈھال۔ سر میں گج کی جگہ۔ پھیلی ہوئی تلی کا توشہ دان۔ اُونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ۔

القرعة: حصہ۔ توشہ دان۔ الإفاء القرعة: قرعہ اندازی (و القویعة) عمدہ مال۔ القریعة: گھر میں سب سے عمدہ جگہ۔

القرع: نہ سونے والا۔ مشورہ قبول کرنے والا۔ تباہ شدہ ناخن۔ أرض قرعة: بجز زمین۔

القارعة: قارع کا مؤنث۔ قیامت۔ قارعة الطريق: راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ مصیبت۔ ہلاک کرنے والی مصیبت۔ ج قوارع۔ قوارع القرآن وہ آیتیں جن کے پڑھنے سے شیاطین و جنات سے انسان محفوظ رہے۔ کہا جاتا ہے "قرعتهم قوارع الدهر" ان پر زمانہ کی سخت مصیبتیں نازل ہوئیں و "نغوذ بالله من قوارع فلان" ہم فلاں کی زبان کی تیزی سے اللہ کی پناہ

مانگتے ہیں۔

المقوارع اسم مبالغہ۔ ڈھال۔ بہت سخت۔ مؤنث۔ قرعة۔

القریوع: قرعہ اندازی کرنے والا۔ قرعہ اندازی میں غالب۔ قرعہ اندازی میں مغلوب۔ سردار جوان اُونٹ۔ کہا جاتا ہے "فلان قریوع دھره" فلاں انتخاب فرمانہ ہے "هو قریوع کینیة" وہ فوج کا سردار و کمانڈر ہے "فصیل قریوع" پھنسی والا اُونٹ کا بچہ۔ ج قورعی۔

القوروع: کم پانی والا کنواں۔ بکری جس پر قرعہ اندازی کریں۔

القریوع مبالغہ۔ سردار۔

الأقرع: گنجی۔ جبل أقرع: بے نباتات کا پہاڑ۔ عود أقرع: چھال اتڑی ہوئی کلزی۔ ترس أقرع: سخت ڈھال۔ فذح أقرع: کلگری سے مانجھا ہوا تیر کہ جس میں نقوش وغیرہ ظاہر ہو جائیں۔ الأقرع: عمدہ لوہے کی تلوار۔

من الحیات: زہریلا سانپ کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال گم گئے ہوں۔

مؤنث۔ قرعاء ج قوروع وقرعان۔

القرعاء: أقرع کا مؤنث۔ مصیبت۔ گھر کا صحن۔ راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ أرض قرعاء: چری ہوئی زمین۔

القریعا: زمین جس کے کناروں پر پیداوار ہو اور درمیان میں خالی ہو۔

المقرع: گھی یا کھجور کھانے کا برتن۔

المقرعة: کوڑا۔ ہر وہ چیز جس سے کھٹکٹایا جائے۔ ج مقراع۔

المقرع: من الخیل: وہ گھوڑا جس کو لگام کھینچ کر روکا جائے اور وہ اپنے سر کو بلند کرے۔

المقرع: پتھر توڑنے کی کدال۔

المقرع: س۔ سردار۔

القراعون: راستہ کا محافظ۔ تاتاری لفظ ہے اور اس کے لیے عربی لفظ خفیر ہے۔

قَرَفٌ (ض) قَرَفًا لِعِيَالِهِ: سمانی کرنا علی القوم: ختم کرنا۔ بغاوت کرنا۔ حد سے گزرتا الرجل: جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بچ ملانا الشی چھیلنا۔ ملانا (و قَرَفٌ) فلاناً بکذا: عیب لگانا۔ تہمت رکھنا القرحۃ: زخم کو چھیلنا۔

قَرَفٌ (س) قَرَفًا فَلَانٌ الْمَرَضُ: مرض کے قریب ہونا۔

قَارَفَهُ مَقَارَفَةً وَقَرَفًا: قَرَفٌ ہونا۔ جماع کرنا۔ قَارَفَ الذَّنْبُ: گناہ میں ملوث ہونا۔

أَقْرَفٌ: لُدٌ قَرِيبٌ ہونا۔ اختلاط کرنا۔

أَقْرَفَةٌ: بُرَائِيٌّ سے یاد کرنا۔ اَقْرَفٌ بہ: تہمت لگوانا الجرب الصحاح: بیماری کا جھوٹ لگانا۔

تَقْرَفُ: الجرحُ: زخم کا چھل جانا۔

اِقْتَرَفَ: سمانی کرنا الذنب: گناہ کر لینا المال: جمع کرنا اور کہا جاتا ہے "قرفقته بالامر فاقترف به" میں نے اسے عیب لگایا اور اسے عیب لگ گیا۔

القرف: ایک قسم کے چڑے کا برتن جس کو اتار کے چھلکوں سے باغت دیتے ہیں۔ گہرا سرخ۔ ج قرف و قروف۔

القرف: درخت کی چھال۔ ہر چھال کو قرف کہتے ہیں اور اسی سے ہے "قرف الرمان" روٹی کا چھلکا جو تور میں رہ جائے۔ زمین سے اٹھیری ہوئی چیز۔ ناک پر خشک ریٹ ج قروف واحد قرفة القرف: لائق۔ مناسب کہا جاتا ہے "هو قرف بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔

القرف: مرض کا دوبارہ ہونا۔ میل جول۔ تہمت۔ بیماری کی چھوٹ۔ کہا جاتا ہے "هو قرف او قرف بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔

القرف: گہرا سرخ والا۔ کہا جاتا ہے "ازاك احمر قرفا" میں تم کو بہت سرخ دیکھ رہا ہوں۔

القرفة: سمانی۔ چھال۔ اتار کے چھلکے۔ دار چینی کی ایک قسم جس کو تج کہتے ہیں۔

تہمت۔ جس کے اوپر تہمت لگاؤ۔ کہا جاتا ہے "فلان قرفی" فلاں وہ شخص ہے جس پر میں نے تہمت لگائی ہے و "بنو فلان قرفی" بنو فلاں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ میرا مطلوب ان کے پاس ہے۔

القروف: بہت ظلم کرنے والا۔ بڑا بے انصاف۔ توشہ دان۔ ج قرف و قروف۔

القرفی والمنرف: وہ شخص جس کے اندر سرخی جھلکتی ہو۔ المنرف: خسیں۔ حقیر۔ جس کی ماں عربیہ ہو اور باپ غیر عرب۔ وجہ منرف: بد صورت چہرہ۔

الاقرف: بہت سرخی والا۔

القرفة: درخت کی چھال۔

المنرف: وہ جگہ جہاں سے چھال اتار دی گئی ہو۔

المنرف: بہت گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔ رجل منرف: تپتی کمر والا۔ سبک مرد۔

قرفصة قرفصة: پاؤں کے نیچے دونوں ہاتھ باندھنا۔

تقرفصت: انعموز۔ بڑھیا کا کپڑوں میں لپٹنا۔

القرفصی: مثلثة الفاء والقرفصاء والقرفصاء: اکڑوں بیٹھا اور ہاتھوں کو ناگوں کے گرد باندھنا۔ کہا جاتا ہے "قعد القرفصی او القرفصاء" وہ اکڑوں بیٹھا۔

القرفاص: مضبوط۔

القرفاصة: ڈاکو۔

قرفط الرجل: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔

اقرنط: سننا۔

المقرفل: من الاطعمة: لوگ سے خوشبودار کیا ہوا۔

قرفق (ن) قرفقا بفلان: دھوکا دینا۔

قرفق الدجاجة: کز کڑانا اور اٹنے یا پھول کو پرادل کے نیچے کرنا۔

قَرَفٌ (س) قَرَفًا: ہموار جگہ میں چلنا۔

القرفق: بُرِيٌّ جز۔ عادت۔ حقیر لوگ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "جاء قرفق من الناس" لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ ج اقراق۔

القرفق: ایک کھیل ہے خط کھینچ کر گولیاں رکھ کر کھیلتے ہیں۔ خط کی صورت یہ ہے:

الْمَقْرُوفُ: قرق زہ

الْقُرْفُ: زیادہ شور سے بولنا۔

الْقُرْفُ: ایک چھوٹا پرندہ۔

(والقرفق والقرفق) ہموار جگہ۔

الْقَرَفْدَانُ وَالْقَرَفْدُونُ: سنجاب۔

قَرَفٌ قَرَفٌ قَرَفَةٌ: البعير: اونٹ کا بیڑا۔

قَرَفٌ الْقَحِيضُ: روٹی خشک ہونا (سر پٹی لفظ)۔

قَرَفَاتُ الْحَمَامَةِ او الدجاجة: کپڑے کا غمر غموں کرنا۔ مرغی کا کز کڑانا البطن: پیٹ گز گزانا۔ الرجل فی ضحکہ: بہت زور سے ٹھٹھا مارنا۔ الشراب فی حلقہ: آواز کرنا۔

القرفرة: سر کپڑے کی آواز۔ بہت زور کی ہنسی۔ چہرہ کی کھال (والقرفق) پست نرم زمین۔ ج قرفاق۔

القرفار: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔

القرفار والقرفاری: اچھی آواز سے حدی بڑھنے والا۔

القرفارة: بہت بک بک کرنے والی عورت (والقرفارة) اونٹ کا جھاگ جو سستی کے وقت لٹکتا ہے۔

القرفارة: لمبی گردن کا شے کا کپ۔

القرفور: بڑی کشتی۔ ج قرفاقیر۔

قرفس: الکلب وبہ: کتے کو قرفوس کہہ کے بلانا۔

القرفس: چمچ کے نیچے۔

قرمض و قمرمض سردی زدہ آدمی کا گرمی حاصل کرنے کیلئے گڑھے میں داخل ہونا۔
 القرمضس گرمی حاصل کرنے کے لیے گڑھے بنا۔
 القرمض و القرمض اندر سے چوڑا اور تنگ منہ کا گڑھا جس میں سردی زدہ گرمی حاصل کرتا ہے۔ بھوبھل میں روٹی پکانے کی جگہ۔ کبوتر کا گھونسل۔ ج قرامیض۔ القرمض: شکاری کا گڑھا۔ زمین میں پرندہ کا گھونسل۔
 قمرط قمرطۃ الكتاب: باریک اور قریب قریب لکھنا فی خطوہ: قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔
 القرموط: ایک قسم کی مچھلی۔ گبریلہ کی گولی۔ ج قرامیط۔
 القرامطۃ: شیعوں کا ایک غالی فرقہ واحد قمرطی۔
 قمرملہ پچھڑانا۔
 القرمیل بے کانٹوں کا ایک کزور درخت واحد قمرملہ۔
 القرمیل دو کوبان والا اونٹ۔ بہت اون والا اونٹ کا بچہ۔ ج قراویل۔
 القرامیل والقراویل من الشعر والوصوف: بالوں یا اون کا بنا ہوا عورت کا موباف۔
 قرن (ض) قرنا الشی و بالشی: باندھنا۔ ملانا الثورین: دو بیلوں کو ایک جوئے میں باندھنا البعیرین: دو اونٹوں کو ایک رتی میں باندھنا۔
 قرن (ن) قرانا الفرس: دوڑنے میں پھیل جانگوں کا اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پڑنا بین الشی و الشی: جمع کرنا۔
 قرن (س) قرنا: ملی ہوئی بھونوں والا ہونا۔ صفت قرن: قرن ذو القرن: بڑے سینگ والا ہونا۔
 قرنة: جمع کرنا۔ باندھنا۔ کہا جاتا ہے

پیلے سا نڈ بننا۔
 القرم: س اونٹ کی ناک پر داغ جوئے کے تیر کی علامت۔ سانڈ جو سواری اور کام سے فارغ رکھا جائے۔ سردار عظیم۔ ج قروم۔
 القرمة والقرمة: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال۔
 القرمذوالقرام: اونٹ کی ناک کاٹنے کا موقع القرام: سرخ پردہ یا باریک کپڑا۔
 القرامۃ: اونٹ کی ناک سے کٹا ہوا چھوٹا ٹکڑا۔ روٹی کا وہ حصہ جو تنور میں لگا ہوا رہ جائے۔ عیب۔ اونٹ کا سینہ۔
 الاقرۃ من الجمال: اونٹ جو باندھنا نہ جائے۔ ناک پر داغ لگا ہوا۔ مونٹ قرماء۔ ج قروم۔
 القرم: ایک گھاس جو سفیدی اور موٹائی میں چنار کے درخت کی مانند ہوتی ہے۔
 قمرذ قمرذۃ الكتاب: باریک لکھنا۔
 قریب قریب لکھنا۔ قمرذ شی المشی۔
 قریب قریب قدم رکھنا الشی: قدم کا طلا کرنا (دیکھئے قمرذ)۔
 القرمذ: ہر وہ چیز جس کو زینت کے لیے کسی پر لگائیں۔ جیسے زعفران اور گچ وغیرہ۔
 پختہ ٹھیکری۔ اینٹ (دخیل)۔
 القرموذ: پہاڑی بکر۔ پہاڑی بکری کا بچہ ج قرامید۔
 القرمید: اینٹ جس سے پلاستر کیا جائے جیسے گچ وغیرہ واحد قمرمیدۃ (دخیل)۔
 القرمیدۃ: پہاڑی بکری ج قرامید۔
 القرمز: سرخ رنگ عند الاساکفہ: وہ کھال جو سرخ رنگ سے رنگی ہوئی ہو۔
 القرمزیۃ: کیڑوں کی ایک قسم۔
 القرمزی: جو سرخ رنگ کا ہو۔
 قمرمشہ: بگاڑنا۔ فاسد کرنا۔ قمرمش الشی: جمع کرنا۔
 القرمش والقمرمش والقرمیش من الناس: طرح طرح کے لوگ۔

القرفوس کشادہ میدان۔
 القرفوز بکری کا چھوٹا بچہ۔
 قرفش سخت چیز کھانا۔
 القرفش نرم آئے کو گوند کر گھی ملا کر چینی یا شکر ملا کر پکایا جائے تو میٹھی ٹکیہ۔
 نرم آنا (میدہ) کو مغز کے ساتھ ملا کر گھی میں تلی ہوئی شے۔ نرم ہڈیاں۔
 قرفص: بالجرذ: سستے کے لیے کو بلانا۔
 القرفوص: سستے کا پلا۔ ج قرفیص۔
 قرفع قرفعة کھانا۔
 قرفف قرففة من البرد: بکری زدہ ہونا قرففہ البرد: بکری والا۔
 الرجل فی الضحك والحمام فی الہدیۃ: آدمی کا ہنسنے میں اور کبوتر کا غمز غمز کرنے میں زیادتی کرنا۔
 القرفف: شراب۔ غنڈا پانی (والقرفف) ایک چھوٹا سا پرندہ۔
 القرفوف: درہم۔ شراب۔
 دینک قراقف: بلند آواز سرخ۔
 القرقل والقرفل: بے آستین کا کرتہ ج قراقیل۔
 قرقم: الصبی: بچہ کو بڑی خوراک دینا۔
 المقرقم: وہ جو جوان نہ ہو اور قوت نہ پڑ سکے۔
 قریبی: ایک چوکنا آبی پرندہ۔
 قرم (ض) قرمًا و قرومًا و مقرومًا و قمرمانا و قمرم: الصبی والبیہم: تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرنا۔
 قرم (ن) قرمًا: الشی: چھیلنا الطعام۔
 کھانا الرجل گالی دینا قید کرنا۔
 قرم (س) قرمًا: الی اللحم: گوشت کا خواہش مند ہونا۔ کہا جاتا ہے "قومت الی لقانہ" اس کی ملاقات کا میں شائق ہوں۔
 قرمۃ: کھانا کھانا۔ قرم و اقرم: الفحل۔
 سانڈ بننے کیلئے کام اور سواری سے فارغ رکھنا۔
 استقرم: البکر قبل آوانہ: وقت سے

قُرْنَتِ الْاَسَارَى فِي الْجِبَالِ قیدی
رسیوں میں باندھے گئے۔

قَارَنَهُ قِرَانًا وَمُقَارَنَةً: ساتھی ہونا۔ ملنا۔
اَقْرَنَ: بین الامورین جمع کرنا۔ اقرن
اسم ہے

الرَّجُلُ: دو تیر چلانا۔ دو قیدیوں کو ایک
رستی میں لانا۔ سیٹگ والے مینڈھے کی
قربانی کرنا۔ ہر رات میں ایک سلائی سرمہ
لگانا الدَّمُ فِي الْعُرُقِ: خون کا رگ میں
زیادہ ہونا اور جوش مارنا اَفَاطِيرٌ رَجَدُ
الغلام: لڑکے کے چہرہ پر پھنسیاں لگانا
السَّمَاءُ: لگاتار برسنا۔ ہمسر ہونا۔ ایک
رستی میں بندھے ہوئے دو اونٹ دینا
الطَّرِيقُ: راستے سے ہٹ جانا۔ پھر جانا۔

عَلَى غَرِيْبِهِ: قرضدار پر تنگی کرنا۔
اَقْرَنَتِ الثَّرِيَا بِلِنْدٍ هُوَ الدَّمَلُ: پھوڑے کا
پکنا اور پھوٹنے کے قریب ہونا لَامَرٌ: توٹنا
هَوَاعِنُهُ: عاجز ہونا۔

تَقَارَنَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کا ساتھی
ہونا۔

اَقْرَنَ الشَّيْءُ بَغِيْرَهُ: متصل ہونا۔ ملنا۔
اَسْتَقْرَنَ الدَّمَلُ: پھوڑے کا پکنا اور
پھوٹنے کا وقت قریب ہونا الدَّمُ فِي
الْعُرُقِ: خون کا رگ میں زیادہ ہونا الرَّجُلُ
لِلْاَمْرِ: توٹنا ہونا لَقَانُ: ہمسر ہونا۔

الْقُرْنُ: سیٹگ۔ والقرن فی
الانسان: انسان کے سر کا وہ حصہ جہاں پر
جانور کے سیٹگ لگتا ہے حُرْنُ الشَّمْسِ:

اَقْرَابُ: کئی شعاں الْقُرْنُ مِنَ الْمَطَرِ:
بارش کا جھلا۔ کہا جاتا ہے "ھُوَ عَلِيٌّ
قُرْنِيٌّ" وہ میری عمر کا ہے۔ الْقُرْنُ: سو
سال ایک زمانے کے لوگ۔ ایک گروہ کے

بعد ایک گروہ۔ زمانہ کا ایک وقت۔ ح
قُرُونٌ: القرن: چھوٹی پہاڑی۔ پہاڑ کی
چوٹی۔ قلعہ۔ عورت کے گیسو القرن من
الجراد: ٹڈی کے سر کے دو بال۔ درخت
کی چھال کی نئی ہوئی رستی۔ مال یا اون کا

ایک گھما۔ حَقْرَانٌ وَقِرَانٌ وَالْقِرْنُ مِنَ
الْقَوْمِ سرور اور من السیف: تلوار کی
دھار۔ قِرَانُ الشَّيْطَانِ وَقِرَانُهُ: شیطان کی
رائے کے پابند۔ حَيْدُ الْقُرْنِ: گینڈا۔
ذُو الْقُرْنَيْنِ: بادشاہ اسکندر مكدوني کا لقب۔
مَنْذَرُ بَنِ مَاءِ السَّمَاءِ كَالْقَبِ:

الْقُرْنُ: کفو۔ ہمسر۔ مقابل۔ شجاعت یا علم
میں نظیر۔ حَقْرَانٌ:
القرن سر دوسرے سے ملا ہوا۔ رستی
جس میں دو اونٹ بندھے ہوئے ہوں۔

تَرَكَّشَ حَقْرَانٌ تَلَوَارٌ تِيرٌ حَقْرَانٌ:
ترکش قیدی کے باندھنے کی رستی ہل
کے بیلوں کی گردن میں باندھنے کی چھال
کی رستی۔ رستی جس کو باندھ کر اونٹ کو
کھینچیں۔ حَقْرَانٌ حَجٌّ كِي اِيك قَسْمِ جَسِ مِيں
عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتے
ہیں۔ حَقْرَانَاتُ:

الْقُرْنَةُ: ہر چیز کا اٹھا ہوا کنارہ۔ تلوار یا
نیزہ کی دھار۔ حَقْرَانٌ:

الْقِرَانُ: فارحاً قِرَانٌ تِيرٌ وَ تَلَوَارٌ سِي
سُحُوقِ الْقِرَانِ: حج قرآن کرنے والا۔

الْقُرَيْنِ: دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔
ساحلی۔ مصاحب۔ شوہر۔ نفس۔ حَقْرَانَةٌ:

الْقُرَيْنِ الْعَيْنِ: سر میں آنکھ۔
الْقِرَانِيَّةُ: نزدیک۔ تانت۔ جو اونٹ کی
کھال کی نئی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے جَاءَ وَ
اَقْرَانِيٌّ: ملے ہوئے آئے۔

الْقُرَيْنَةُ: قرین کا مؤنث۔ بیوی۔ نفس۔
قُرَيْبَةُ الْكَلَامِ: جو کلام کے مراد پر دلالت
کرتے حَقْرَانِ: ذُو قِرَانِ: آنے
سانے کے مکانات۔

الْقِرَانُ: شیش۔

الْقُرُونُ: ایک مرتبہ میں دو دو لقمے
کھانے والا وہ جانور جس کی چھپلی ٹانگیں
اچھی ٹانگوں کی جگہ میں دوڑنے میں پڑیں۔
وہ اونٹنی جس کے بیٹھے میں دونوں گھٹنے مل
جائیں (وَالْقُرُونَةُ): نفس۔

الاقرن: سیٹگوں والا۔ ملی ہوئی جھونڈوں
والا۔ مؤنث قرناء۔ حَيْدَةُ قِرَانَاءُ: سانپ جس
کے سر پر گوشت کے دو ٹکڑے اُبھرے
ہوئے ہوں۔

اَقْرَانٌ اَوْ اِجْتِمَاعُ الْقَمَرِ بِالشَّمْسِ:
سورج اور چاند اپنی اپنی جگہ پر ہوں اور
زمین ان کے درمیان نہ ہو۔ اور سورج کو
گرہن تب ہوتا ہے جس وقت وہ چاند کے
ساتھ مل جائے۔

الْقِرَانِيَا: ایک درخت کا نام جس کے پھول
خیمہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اور اس کے پھل
کھائے جاتے ہیں۔

الْقُرَيْنَا: لوبیا۔
المقرون: جو اہل کا۔

المقرون: بلند کنارے والا جس کے لیے
سیٹگ کے مشابہ بنایا جائے۔

المقرون: مقرون کا مؤنث۔ چھوٹی چھوٹی
پہاڑیاں جو پاس پاس ہوں۔

القرنان: مرد دیوث۔

القرناء: سورة جو ہر رکعت میں پڑھی
جائے۔

القبوران: گھوڑوں کا گلہ۔ تالا۔ فوج کا بڑا
حصہ۔

القرنبي: لمبی ٹانگوں کا ایک کیرا جو گھریلا
کے مشابہ ہوتا ہے اور مثل ہے القرنبيحي
فِي عَيْنِ امِّهَا حَسَنَةٌ: قریبی اپنی ماں کی
نگاہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔

القرنب: جنگلی چوبہ۔ چوبہ۔ چوبے کا پتہ۔

القرنب: کمر۔

القرناس: باز کی آنکھوں

القرناس والقرناس: قرنس البازي۔ باز کی آنکھوں
کو سنا قرنس الديك: مرغ کی لڑائی سے
بھاگ جانا۔

القرناس والقرناس: پہاڑ کا آگے کو نکلا
ہوا حصہ۔ چنے کا نکلا۔ القرناس:
موزے کی نوک۔ حَقْرَانِيصٌ: حَقْرَانِيصٌ
سِقْفُ مَقْرُنَيْسٍ: حَقْرَانِيصٌ حَقْرَانِيصٌ
ہوئی چھت۔

چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ قَرِيَّةٌ
الْأَنْصَارِ: مدینہ طیبہ والقَرِيَّاتُ: مکتہ
مظفرہ اور طائف۔

القَرِيَّةُ: جما ہوا دودھ۔ نیلہ سے باغ کی
طرف بہنے والی نالی۔ نالی۔ ج اَقْرِيَّةٌ وَاَقْرَاءٌ
وَقَرِيَّانَ۔

القَرِيَّةُ: لائچی۔ چیونٹیوں کے رہنے کی
جگہ۔ بادبان کے اوپر کے حصہ کی لکڑی جو
عرض میں لگائی جاتی ہے ج قَرَايَا۔

القَارِيَّةُ: فہ۔ دیہالی۔ کہا جاتا ہے ”جاء
نبي كحل قار وباد“ میرے پاس ہر ایک
دیہالی اور شہری آیا۔

القَارِيَّةُ: قاری کا مؤنس۔ مکان لوگوں سے
بھرا ہوا۔ تلوار کی دھار۔ نیزہ کا نچلا حصہ یا
اوپر کا حصہ۔ ج قَوَارِیْہَا جاتا ہے ”ہم

قَوَارِي اللہ“ وہ اللہ کے شہدا ہیں
(والقَارِيَّةُ) ایک پرندہ □ چھوٹی ٹانگوں اور
لمبی چونچ کا جس کی پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ ج
قَوَارِیْہَا۔

القَارَاةُ: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ ج
قَارِيَّاتُ۔

المَقْرِي والمَقْرَاءُ: ہر وہ جس میں بارش
کا پانی جمع ہو۔

المَقْرِي والمَقْرَاءُ: میزبان۔ بہت مہمانی
کرنے والا۔ مؤنث مَقْرَاءٌ ومَقْرَاءٌ۔

المَقْرِي والمَقْرَاءُ: بڑا پیالہ جس میں
مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ ج
مَقَارِ المَقَارِيہَا۔

قَرَزَن (ض) قَرَزَا: کودنے کے لیے سمنٹا۔
کودنا۔ قَرَزَتْهٖ نَفْسِي وقَرَزَتْ عَنْهٖ نَفْسِي:
نفرت کرنا۔ انکار کرنا۔ (قَرَزَا وقَرَزَن) من
الذَّنْسِ وسُكِّلَ مَا يَسْتَقْدَرُ وَيُسْتَحْبُ:

کروہ جانا۔ پرہیز کرنا۔ چنا۔
القَرَزُ: سر۔ ریشم جس سے نکالا جائے۔
دُوْدُ القَرَزِ ریشم کا کیرا۔ ج قَرَزُوْدُ (دخیل)

القَرُّ والقَرُّ والقَرُّ والقَرُّ والقَرُّ:
گندگی سے بچنے والا۔ کہا جاتا ہے ”ما فی

القَرَوَاءُ: عادت۔ ذہر۔ نافقہ قَرَوَاءُ: لے
کوبان والی اونٹنی (جمل اقزای نہیں کہا جاتا)
القَرَوَانُ: پیٹھ یا پیٹھ کا درمیانی حصہ ج
قَرَوَانَاتُ۔

القَرَوَانِي: خصیتین کی کھال کی
کھچاوت والا۔

القَرَوِي: عادت۔ کہا جاتا ہے ”رجع الی
قَرَوَاهِ“ اپنی عادت پر لوٹ گیا۔

القَرِي: ایک ہی طریقہ کی چیزیں۔ قَرِي
القَصِيْدَةُ: قصیدہ کا ردی۔

المَقْرِي: نیلہ کی چوٹی۔ ج مَقَارِ
المَقْرُوْرِي: لمبی پیٹھ والا۔

شَاةٌ مَقْرُوْرَةٌ: بکری کہ اس کے سر میں
ایک لکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دودھ
کو نہ پی سکے۔

قَرِي يَقْرِي قَرِي وقَرَاءُ الضَّيْفِ: مہمان
کی میزبانی کرنا (قَرِي وقَرِيَا) المَاءُ فِي
الْحَوْضِ يَأْتِي حَوْضًا فِي مَجْعٍ كَرْنَا البَعِيْرَ
وَكُلُّ مَا اجْتَرَّ جَعَالَ كُو جَزْءٍ مِّنْ مَّجْعٍ

كَرْنَا الجُرْحُ زَحْمًا كَا بَهْنَا المِدَّةَ فِي
الجُرْحِ زَحْمًا مِّنْ بَيْبٍ كَا جَمْعُ بَيْبٍ كَا جَمْعُ
ہے ”قَرِيْتُ فِي شِدْقِي حَوْزَةٌ“ میں نے
اپنے جڑے میں اخروٹ کو چھپایا۔ قَرِي

يَقْرِي قَرِي وقَرِيَا وتَقْرِي وَاِسْتَقْرِي
البِلَادِ: تلاش کرنا۔ چکر لگانا۔
اَقْرِي اَقْرَاءًا فِي مِثْلِ رَهْنًا كَمَا شِئْتُمْ كُو
لازم رہتا اور اصرار کرنا (وَاِسْتَقْرِي)

مہمانی طلب کرنا۔
اِقْتَرِي: مہمانی طلب کرنا الضَّيْفِ:
مہمان کی میزبانی کرنا البِلَادِ: تلاش کرنا
اور چکر لگانا وَاِسْتَقْرِي فَلَانَا بِقَوْلِهِ: تلاش

کرنا۔
القَرِي: مہمانی کا کھانا۔ پانی جو حوض میں
جمع کیا جائے۔

القَرِيَّةُ والقَرِيَّةُ: جاغیرا۔ گاؤں۔ لوگوں
کی جماعت۔ ج قَرِي وقَرِيَا اور نِسْبَتِ
کے لیے قَرَوِي وقَرِيَّةٌ قَرِيَّةُ النَّمْلِ:

القَرِنْفُلُ والقَرِنْفُولُ: لوگ۔ واحد
قَرِنْفَلَةٌ وقَرِنْفُولَةٌ۔
المَقْرَفَلُ: مِنَ الاَطْعَمَةِ: لوگ ڈالا ہوا
کھانا۔

قَرَه (س) قَرَهَا وتَقْرَه جِلْدُهُ: کھال کا
چھلنا یا بہت مار سے سیاہ ہونا۔ داد کی کثرت
سے داغ داغ ہونا۔ صفت اَقْرَه: مؤنث
قَرَهَائِقُ قَرَةٌ۔

القَارِفَا مِنَ الجِلْدِ: خشک کھال۔
القَرَهَبُ: بوڑھا بیل۔ مِنَ المَعْرُوبِ: بہت
اُدُوْنِ والی بکری۔ القَرَهَبُ: سردار قوم۔

بوڑھا۔
قَرَا يَقْرُو قَرَوًا: اَلَيْهٖ: تصد کرنا بِالرَّمْحِ
فَلَانَا: نیزہ مارنا۔ صفت مَدْرُ قَارِيَجُ قَرَاءَةٌ
وَقَارُوْنٌ صفت مؤنث قَارِيَّةٌ ج قَوَارِیْہَا و
قَارِيَّاتُ قَرَا وَاِسْتَقْرِي وَاِقْتَرِي: الامر:
تتبع کرنا۔ تلاش کرنا۔ اِسْتَقْرِي الذَّمْلُ:
چھوڑنے کا پیپ والا ہونا۔

اَقْرِي اَقْرَاءً: پیٹھ میں درد ہونا۔
القَرَاءُ: پیٹھ۔ ج اَقْرَاءُ وقَرَوَانُ: کدو۔
القَرُو: سر۔ نہر کی مانند لمبا حوض۔ زمین
جس کو طے نہ کیا جاسکے۔ کولہو کی نالی۔

چھوٹا برتن۔ گھجور کے درخت کا نچلا حصہ
جس کو کھود کر اس میں نیبہ بنایا جائے۔
لکڑی کا پیالہ۔ کھوکھلا پائس۔ ایک ہی
طریقے کی چیزیں۔ کہا جاتا ہے ”تَرَكْنَهُمْ

قَرَوًا وَاِحْدًا“ میں نے ان کو ایک طریقہ
پر چھوڑا۔ و ”قَصِيْدَتَانِ عَلٰی قَرَوٍ وَاِحْدٍ“
دو قصیدے ایک ردی پر ”و تَرَكْتِ
الْاَرْضَ قَرَوًا“ تمام زمین پر بارش چھاگئی
اَصْبَحَتِ الْاَرْضُ قَرَوًا وَاِحْدًا“ میں کی
سُخَّ پانی سے ڈھک گئی۔ ج قَرُوٌ وَاَقْرَاءٌ

وَاَقْرُو وقَرِي۔
القَرُو والقَرُوْدَةُ: خصیتین کی کھال کی
کھچاوت قَرُوْدَةُ الرِّاسِ: سر کا کنارہ۔

القَرُ والقَرُوْدَةُ والقَرُوْدَةُ: کتے کا
تھکیرا۔

القَرُ والقَرُوْدَةُ والقَرُوْدَةُ: کتے کا
تھکیرا۔

القَرُ والقَرُوْدَةُ والقَرُوْدَةُ: کتے کا
تھکیرا۔

القَرُ والقَرُوْدَةُ والقَرُوْدَةُ: کتے کا
تھکیرا۔

القَرُ والقَرُوْدَةُ والقَرُوْدَةُ: کتے کا
تھکیرا۔

طعامہ قرّ ولا قرّ ولا قرّازة اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے پرہیز کیا جائے اور اسے مکروہ سمجھا جائے۔

القرّاز۔ بڑا سانپ۔ اژدھا۔

القرّاز۔ فاء۔ شیطان۔

القرّازورة۔ چھوٹی شیش۔ طشت۔

القرّاز۔ ریشم بیچنے والا عند العاد۔ ریشم کے کیڑے کی تربیت کا ماہر۔

قرّب (ن) قرّبا۔ بہت جماع کرنا۔

قرّب (س) قرّبا۔ سخت ہونا۔

القرّاب۔ سوداگر۔

القرّب۔ لقب۔

قرّب قرّوبہ۔ جماع کرنا۔

قرح (ف) قرحاً القدر۔ ہڈی میں مسالہ ڈالنا۔ الشیء بلند ہونا۔

قرح قرحاً وقرحاناً القدر۔ ابلنا۔

قرح القدر۔ ہانڈی میں مسالہ ڈالنا۔ قرح الحدیث۔ مزین کرنا۔ بغیر جھوٹ بولے ہوئے پورا کرنا۔ قرح الشجر۔ بڑھنے کیلئے جڑ میں پیشاب ڈالنا۔

تقرح النبات او الشجر۔ زیادہ شاخ دار ہونا۔

القرح۔ سرکتے کا پیشاب۔ مسالہ۔

قوس قرح وقوس قرح۔ دھنک۔ وہ شکل جو بادل میں مختلف رنگوں کی کمان کے مانند دکھائی دیتی ہے۔ نزح۔ منصرف ہے اس لیے کہ قرحہ کی جمع ہے اور علم معدول کی تقدیر پر غیر منصرف ہے اور قرح کو قوس سے جدا استعمال نہیں کرتے پس تامل قرح ما بین قوسہ۔ نہیں کہا جائے گا۔

القرح۔ مسالہ۔ پیاز کے بیج۔ سانپ کی بیٹ۔ نج فراح۔

القرحہ۔ قوس قرح کے رنگ کی ایک دھاری۔ تجرّح۔

القرح۔ مسالہ بیچنے والا۔

القرح۔ مسالہ۔ مہنگا بھاد۔ مونث

قارحۃ قوارح الماء۔ پانی کے بلبلے۔

النقازیح۔ مسالے۔

المقرحۃ۔ مسالہ کا برتن۔

القرحۃ۔ کمان۔

قرح (ف)۔ دیر کرنا الطیبی۔

ہرن کا دوڑنا۔ بھاگنے میں چست ہونا۔

قرح الرسول۔ قاصد بھیجنا الفرس۔

گھوڑے کو دوڑانے کیلئے آمادہ کرنا

الشارب۔ مونچھ کاٹنا الفرس۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ اسے سر موٹنا اور کچھ ادھر ادھر چھوڑ دینا۔

قرعہ وافرعہ۔ لالہ۔ فارغ کر دینا اور دوسرے کام میں مشغول نہ کرنا۔ وافرع لہ فی القول۔ سخت سنت کہنا۔

تفرّغ الراس۔ سر متفرق جگہ سے موٹنا جانا۔

الفرس۔ گھوڑے کا دوڑنے کے لیے آمادہ ہونا القوم۔ قوم کا متفرق ہونا السحاب۔ بادل کھل جانا۔

القرح۔ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ چھوٹے اونٹ۔ بالوں کو کچھ موٹنا کچھ چھوڑ دینا۔ وادی کا کوڑا کرکٹ۔ قرح السہم۔ تیر کے پد کا پتلا حصہ۔ ہر چیز جس کے متفرق ٹکڑے ہوں واصفرعہ۔

القرعۃ۔ حرای۔ ولد الزنا۔ بادل کا ٹکڑا۔ سر میں متفرق بال کئے ہوئے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے عاۃ قرعۃ یعنی اس کے پاس کچھ کپڑا نہیں۔

القرعۃ والنزعة۔ بالوں کا گچھا جو بچے کے سر پر چھوڑ دیا جائے۔ سر کے درمیان میں تھوڑے سے بال۔

قوس قرح۔ بمعنی قوس قرح۔

القرح۔ پتھڑے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے ما فی السماء یا آغ۔ یعنی آسمان میں تھوڑا سا بھی بادل نہیں۔

الافرع۔ من الکمان۔ مینڈھا جس کے بال موسم بہار میں کہیں سے گر گئے ہوں

کہیں سے باقی رہ گئے ہوں۔

المقرّح۔ تیز ہلکا چمکنا۔ وہ شخص جس کے سر پر کچھ تھوڑے سے بال ہوں۔ بشارت کے لیے مخصوص کیا ہوا من الخیل۔

پیشانی پر کم بال والا گھوڑا۔ رجل مقرّح۔ وہ شخص جس کا مال برباد ہو جائے اور صرف چھوٹے اونٹ رہ جائیں۔

المقرّح علی۔ تیز رو۔

قرول (ض) قرولا وقرلانا۔ کوندا۔ لنگڑے کی چال چلانا۔

قرول (س) قرولا۔ لنگڑا ہونا۔ صفت افضل (قرول بدترین لنگڑاٹ ہے)

الافزل۔ بھیڑیا۔ باریک پنڈلی والا۔ ایک قسم کا سانپ۔

قرمہ (ض) قرما۔ عیب لگانا۔

قرم (س) قرما۔ کمینہ ہونا۔ لیم ہونا۔

تقرّم۔ کاموں میں زبردستی داخل ہونا۔

القرّم۔ سر کمینگی۔ کھٹی۔ کوتاہی۔ ردی مال۔ حقیر لوگ (واحد جمع مذکر مؤنث)

کہا جاتا ہے "ھو لاء قوم قرّم ما فیہم کرم"۔ یہ لوگ کمینہ ہیں ان میں کرم نہیں اور بھی تشبیہ اور جمع اور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "رجل قرّم ورجلان قرمان وامرأة قرمة ورجال قرّم وافقرام وقراۃ ونساء قرمات"

القرّم والقرّم والقرّم والقرّم لیم اور دلی مرد۔ مؤنث قرمة وقرمة وقرمة وقرمة۔

القرّم والقرّم۔ چھوٹے جسم والا بے خیر۔

تقرّم وافقرام اور کہا جاتا ہے رجل قرمة وامرأة قرمة۔ چھوٹے جسم کا مرد۔ چھوٹے جسم کی عورت۔ مذکر مؤنث دونوں کے لئے۔

القرام۔ لیم لوگ۔

القرام۔ جس پر کوئی غالب نہ آئے۔

جلدی کی موت۔

سودد اقرم۔ سرداری جو خاندانی نہ ہو۔

الْقَرْمَلِ كَوَاتِهِ قَامَتِ بِدُورَتِ-

قَرَا يَفْرُؤُ قَرَوًا: الْأَرْضُ بَعْضَاهُ: زَمِينٌ كَوَالِصِّهِ سَعِيدًا الرَّجُلُ: عَجِبَ سَعِيدٌ رَهَبًا- فَرَّهَ (أَيْ كَمِيلَ هَيْ) كَمِيلًا-

أَفْرَى: بَعِيٌّ كَعَبْدِ عَيْبِ دَارِ هَوَانِ-

الْفَرَّةُ: سَانِبٌ- عَرَبُونَ كَأَيْ كَمِيلِ جِ قُرَاتِ-

قَرَى الرَّجُلُ: مَجَازًا أَوْ قَتَلَ كَرَنَا (يَأَى هَيْ)

الْقَرَى: لَقَبٌ- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ بِبَنِي الْقَرَى هَذَا" يَوْمَ الْقَبْرِ هَيْ-

قَسَّ (ن) قَسًا وَقَسًا وَقَسًا: جَعَلَ خُورِي كَرَنَا الْقَوْمَ: بَرَسَ كَلَامٌ سَعِيدٌ تَكْلِيفِ

يَبْجَانًا (قَسًا) السَّيْرُ: دَوَّرْنَا مَا عَلَى الْعِظْمِ: بَدَى بِرَ كَأَوْشَتِ كَهَانًا أَوْ كَوَدًا كَالنَّارِ

(وَقَسَّ الْإِبِلَ) أَوْشَتُ كَوَالِصِّهِ طَرَحَ سَعِيدٌ جَرَانًا-

قَسَّ وَتَقَسَّ الشَّيْءُ: طَلَبَ كَرَنَا أَوْ ذَهَبْنَا- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ "تَقَسَّ أَصْوَاتَهُمْ

بِاللَّيْلِ" اس نَعْرَاتِ مِثْلِ كَوَالِصِّهِ أَوْشَتُ كَرَنَا

قَسَّ قَهْوَسَةً وَقَهْوَسَةً يَادِرِي هَوَانِ- اِقْتَسَّ الْأَسَدُ: شَرِبَ كَأَوْشَتِ تَلَاثًا كَرَنَا-

النَّاقَةُ: أَوْشَتِي كَأَيْ تَبَاهَا جَرَانًا-

الْقَسَّ يَادِرِي: كَأَيْ جِ قَسُوسٌ- أَوْشَتُ كَرَنَا كَوَالِصِّهِ جَوَانِ سَعِيدَانِ هَوَانِ- پَالَا-

الْقَسُّوسُ: عَقْدَاءُ- مَاهِرٌ- الْقَسَّاسُ: سِلَابٌ كَأَوْشَتِ كَرَنَا- آرمِينَا

مِثْلِ كَأَيْ كَمِيلِ هَيْ جِسْمِ مِثْلِ لُؤْبِ كِي كَانِ هَيْ سَعِيدِ سَعِيدِ السُّيُوفِ

الْقَسَّاسِيَّةُ: جَعَلَ خُورِ-

الْقَسَّاسُ يَادِرِي جِ قَسَّسُونَ وَ قَسَّانٌ وَاقِسَّةٌ وَ قَسَّاسَةٌ-

الْقَسَّى: مِثْلُ الدَّرَاهِمِ: رَدِي دَرَاهِمِ- الْقَسَّةُ: جَمُودًا كَوَالِصِّهِ-

الْقَسْوَسَةُ وَالْقَسِيَّةُ: قَسِيٌّ كَأَوْشَتِ-

قَسَبَ (ض) قَسَبًا الْمَاءُ: يَأَى جَارِي هَوَانِ-

الشَّمْسُ: آفَاقُ غُرُوبِ هَوَانِ لَنَا- قَسَبَ (ك) قَسُوبًا وَقَسُوبَةً الشَّيْءُ: نَحْتُ هَوَانِ-

القَسْبُ: مِثْلُ بَحْتِ- خَشَكٌ كَجُورِ جَوَانِ مِثْلِ كَلُوكِ كَلُوكِ هَوَانِ- وَاحِدٌ قَسْبَةٌ-

الْفَسَابَةُ: رَدِي قَسْمِ كِي كَجُورِ- القَسُوبُ: جَزَعٌ كَأَوْشَتِ- القَسُوبُ: جَزَعٌ كَأَوْشَتِ (اس كَأَوْشَتِ نَمِينِ)

القَسْبُ وَالْقَسِيْبُ: هَرِ كَأَيْ كَمِيلِ أَوْ مَضْبُوطِ جَزَعِ-

قَسِيْبَ الْمَاءِ: يَأَى كَأَيْ كَمِيلِ أَوْشَتِ كَرَنَا-

قَسَبَ (ف) قَسَابَةً وَقَسَابَةً: نَحْتُ هَوَانِ كَمِيلِ: رَعِي بَنَانًا-

قَسَابَةٌ: حَتَّى كَأَيْ مَعَالِمِ كَرَنَا- القَاسِحُ وَالْقَاسِحَةُ: نَحْتُ أَوْ مَوْنًا- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ "نَوْبُ قَاسِحٍ" مَوْنًا كَمِيلًا

"رَمَحَ قَاسِحًا" شُحُوسٌ مَضْبُوطِ نَمِينِ- قَسْرَهُ (ض) قَسْرًا وَقَسْرَةً عَلَى الْأَمْرِ: يَجُورُ كَرَنَا-

قَسْرَ الرَّجُلِ: عَمَرَ رَسِيدَهُ هَوَانِ النَّبْتُ: كَثُرَتْ هَوَانِ-

القَسُورُ وَالْقَسُورَةُ: نَابِلٌ- شِيرٌ- بَهَادِرٌ- قَوِيٌّ لُكَا جِ قَسَاوِرٌ وَقَسَاوِرَةٌ-

القَسُورَةُ: رَاتٌ كَأَوْشَتِ- كَأَيْ مِيدَانِي نَبَاتَاتِ جِ قَسُورٌ-

القَسُورَةُ: تِيرٌ جِلَانِ وَاللَا- شَكَارِيُونَ كِي جَمَاعَتٌ-

قَسَطَ (ض) قَسَطًا وَقَسَطًا: ظَلَمَ كَرَنَا- حَقٌّ سَعِيدَانِ- صَفَتْ قَاسِطًا جِ قَسَاطٌ وَقَاسِطُونَ-

قَسَطَ (ن ض) قَسَطًا وَقَسَطًا: الْوَالِي: مَضْبُوطٌ هَوَانِ- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ "أَقَسَطَ فِي

حُكْمِهِ وَأَقَسَطَ بَيْنَهُمْ وَالْيَهُمَ" فِصْلَةٌ مِثْلُ الصَّافِ كَمِيلِ- ان كَمِيلِ دَرَمِيَانِ الصَّافِ كَمِيلِ-

أَقَسَطَتِ الرَّيْحُ الْعِيدَانِ: هَوَانِ كَأَيْ كَمِيلِ كَمِيلِ كَمِيلِ كَمِيلِ-

قَسِطَ (س) قَسَطًا الْعُنُقُ: كَرَدَانِ خَشَكٌ هَوَانِ الذَّابَّةُ: سِيدِيٌّ كَمِيلِ وَاللَا هَوَانِ (قَسُوطًا) الْعِظَامُ: لِأَعْرَى كِي دَجْرَ سَعِيدِ كَمِيلِ كَمِيلِ هَوَانِ-

قَسَطَ الشَّيْءُ: جَدَا جَدَا كَرَنَا الْأَعْرَاسُ: پُودُونَ كَمِيلِ دَرَمِيَانِ بَرَابَرِ فَاصلِ كَرَنَا الذَّيْنِ: قَرْضِ كِي قَطِ مَقْرَرِ كَمِيلِ- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ

قَسَطَ الْخِرَاجَ عَلَيْهِمُ وَالْمَالِ بَيْنَهُمْ" عِنِي خِرَاجِ كَمِيلِ أَوْ قَطِ مَقْرَرِ كَمِيلِ- أَوْ مَالِ ان كَمِيلِ دَرَمِيَانِ تَقِيمِ كَمِيلِ-

قَسَطَ عَلَى عِيَالِهِ: ائِلٌ وَ عِيَالٌ بِرِ شَكِي كَرَنَا-

اِقْتَسَطُوا الْمَالِ بَيْنَهُمْ: تَقِيمِ كَرَنَا- تَقَسَّطَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: بَرَابَرِ بَرَابَرِ تَقِيمِ كَرَنَا-

القَسِطُ: الصَّافِ- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ "هُوَ قَسِطٌ" وَهُوَ عَادِلٌ هَيْ "هُمُ قَسِطٌ" وَهُوَ لُوكٌ عَادِلٌ هَيْ- حَصَّةٌ- مَقْدَارٌ- مِيزَانٌ- تَرَاوُ-

بِيَانَةٌ نَصْفُ صَاعِ كَمِيلِ- رُوزِي- قَطِ مَقْرَرِ كَمِيلِ هَوَانِ قَرْضِ كَمِيلِ حَصَّةٌ جِ اِقْسَاطُ-

القَسِطُ: عُودٌ هَبْدِي- كَمَا جَاءَتْ سَعِيدٌ "هُوَ قَسِطُ الرَّجُلِ وَقَسِطُهَا" جَمَلٌ كَمِيلِ نَحْتِ أَوْ سِيدِيٌّ هَوَانِ كَمِيلِ جَمَلِ مِثْلِ مَزْتِ نَحْتِ هَوَانِ-

القَسِطُ: مِثْلُ أَعْمَاءِ كِي نَحْتِ يَأَيْ شَكِي- الْأَقْسَطُ: خَشَكٌ شَدِيدٌ كَرَدَانِ وَاللَا- مَوْنَتُ قَسَطًا جِ قَسِطٌ- رَجُلٌ قَسِطَاءٌ- مِيزَانٌ- مِيزَانٌ- عِنَقٌ قَسِطَاءٌ: خَشَكٌ كَرَدَانِ- رُجْبَةٌ قَسِطَاءٌ: خَشَكٌ شَدِيدٌ زَانُو جِ مَزْتِ نَحْتِ جِ قَسِطًا-

القَسِطَانُ: غَبَارٌ-

القَسِطَانُ وَالْقَسِطَانَةُ: وَالْقَسِطَانِي وَالْقَسِطَانِيَّةُ: قَوِيٌّ قَرِيْبٌ- دَهْكٌ-

المُقْسَطُ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور معنی اس کے عادل کے ہیں۔
قَسَطَ الذَّرَاهِمَ دراہم کو پرکھنا۔
القَسَطُ والقَسَطَارُ مرد دانا و دوربیں۔
القَسَطِيُّ دراہم کو پرکھنے والا۔ مرد دانا۔
دوربیں۔ بڑے ڈیل ڈول کا۔ ج قَسَاطِرَةٌ.
القَسَطَاةُ والقَسَطَاةُ ترازو (جدید)
القَسَطَلُ والقَسَطَالُ والقَسَطُولُ
والقَسَطَالَانُ میدان جنگ کا گردوغبار۔
ج قَسَاطِلٌ أُمُّ قَسَطِلٍ مصیبت۔ موت۔
نَهْرٌ قَسَطَالٌ جبے میں شور کرنے والا۔
دریا۔

القَسَطَلَةُ اونٹ کی بوڑھاہٹ۔
قَسَطَلَةُ المَاءِ پانی بننے کی آواز قَسَاطِلُ
الحَيْلِ گھوڑوں کی آوازیں۔
القَسَطَالِيَّةُ شفق کی سرخی۔ غبار کی
کثرت (والقَسَطَالِي) قوس قزح۔
دھنک۔

قَسَقَسَ قَسَقَسَةً چرواہا ہونا۔ قَسَقَسَ
الشَّيْءَ: بلانا۔ قَسَقَسَ بِالْكَلْبِ: کتے کو
قوس قوس کہہ کے بلانا۔
قَسَمَ (ض) قَسَمًا الشَّيْءَ: بانٹنا۔ تجزیہ
کرنا۔

الذَّهْرُ القَوْمُ: متفرق کرنا قُلَانٌ امْرَأَةٌ:
اندازہ کرنا بَيْنَ النِّسَاءِ: بیویوں کی باری کی
حفاظت کرنا۔

قَسَمَ (ك) قَسَامَةً: الغَلَامُ: لڑکے کا
خوبصورت ہونا۔
قَسِيمٌ: فَا: خوبصورت۔

قَسَمَ الشَّيْءَ: جِزءٌ جِزءٌ کرنا۔ تفریق کرنا۔
کہا جاتا ہے "قَسَمَ الذَّهْرُ القَوْمَ" زمانے
نے قوم کو متفرق کر دیا الشَّيْءَ: حسین
بنانا۔

قَاسَمَهُ المَالُ: اپنے اپنے حصہ کو لینا۔
قَاسَمَهُ عَلَيَّ كَذَا: قسم کھلانا۔
أَقْسَمَ بِاللَّهِ: حلف اٹھانا۔ قسم کھانا۔
تَقَسَّمَ الشَّيْءَ: جدا جدا کرنا الشَّيْءَ: جدا

جدا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَقَسَّمَتِ المُمُومُ"
یعنی غموں نے اس کو پریشان خاطر کر دیا۔
وَتَقَسَّمَ فُلَانٌ: فکر کرنا۔ سوچنا۔

تَقَاسَمَ القَدَمُ: آپس میں قسم کھانا
(وَأَقْسَمَ) القَوْمُ المَالُ: آپس میں تقسیم
کرنا۔

انْقَسَمَ: تقسیم ہونا۔
انْتَقَسَمَ: تقسیم کرنے کو کہا۔ فکر کرنا۔
سوچنا۔ انْتَقَسَمَهُ بِاللَّهِ: قسم کھانے کو
کہنا۔

القِسْمُ: عر عطیہ۔ رائے۔ شک۔ عادت۔
بارش۔ پانی۔ ہانڈی۔ گمان پیدا ہونا اور پھر
قوت پا کر یقین ہونا۔ حِصَاةُ القِسْمِ: پانی
تقسیم کرنے کی کنکری۔ اور یہ اس طرح پر
کہ سفر کی حالت میں جب پانی کی کمی ہوتی
تھی تو ایک برتن میں کنکری ڈالتے تھے اور
پھر اس پر پانی ڈالتے تھے اتنا کہ کنکری
چھپ جائے پھر ایک آدمی کو پینے کیلئے
دیتے تھے اور پھر اسی طرح کرتے تھے اور
یہ اس لیے تاکہ سب کو پانی برابر پہنچ
جائے اور کسی کو شکایت نہ رہے۔

القِسْمُ: تقسیم شدہ چیز کا ایک حصہ۔ خیر
کا حصہ۔ ج اقسام ج اقسیم۔
القِسْمُ: اللہ تعالیٰ یا غیر اللہ کی قسم ج
اقسام۔

القِسْمَةُ: اقسام کا اسم۔ حصہ۔ ج قسم۔
القِسْمَةُ التَّوَافِقِيَّةُ: (علم حساب)
چار نقاط جو ایک خط پر جمع ہوں اور اس کے
برابر ہوں تو تقسیم موافقت ہے۔ وگرنہ
تقسیم عدم موافقت ہے۔

قِسْمَةٌ عَدَدٌ غَيْرُ صِفْرٍ عَلَيَّ صِفْرٍ: (علم
حساب)
یہ تقسیم مستحیل ہے۔ یعنی صفر کے علاوہ
عدد کو صفر پر تقسیم کرنا۔ صفر کی تقسیم صفر
پر اس کا حاصل معین نہیں کوئی عدد بھی
ہو سکتی ہے۔

القِسْمَةُ والقِسْمَةُ: خوبصورتی۔ چہرہ

(وَالْقِسْمُ) عطر فروش کا ڈبہ۔ ج
قِسَمَاتٌ وَقِسَمَاتٌ.

القِسَامُ: خوبصورتی۔ گرمی کی شدت۔
القِسَامَةُ: خوبصورتی۔ صلح۔ جماعت جو
کسی چیز کیلئے قسم کھائے اور نلے۔ قسم
جو اولیاءِ مقتول کو دی جائے۔ کہا جاتا ہے
"حَكَمَ القَاضِي بِالْقِسَامَةِ" قاضی نے
قسامت کا فیصلہ کیا اور قسامت اقسام کا اسم
ہے جو مصدر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔

القِسَامَةُ: صدقہ کا مال۔ تقسیم کرنے والا
جس کو اپنے لیے خاص کر لے۔
القِسَامِيُّ: پہلی تہ پر کپڑے کو لینے والا۔
دو چیزوں کے درمیان کی چیز۔

القِسَامُ: قاسم کا مبالغہ۔
القِسِيمُ: حصہ۔ تقسیم شدہ شے کا ایک
حصہ ج اقسیماء۔ تقسیم کرنے والا ج
اقسیماء و قسیماء۔ خوبصورت ج قسیم۔
القِسِيمَةُ: قسم کا نمونہ۔ عطر فروش کا
ڈبہ۔ بازار۔ خوبصورت چہرہ ج قسائم۔

الاقسومة حصہ۔ ج اقسام۔
المقسّم والمقسّم: حصہ۔ ج مقاسم۔
المقسّم: تقسیم۔ تقسیم کرنے کی جگہ ج
مقاسم۔

صاحب المقاسم: نائب امیر اور وہ
اموال غنیمت کا تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔

المقسّم: قسم۔
المقسّم: عزمگین۔ خوبصورت۔ شے
مقسّم: خوبصورت بنائی ہوئی چیز۔
القسمل: شیر کا بچہ۔

اقسن الرجل: سخت ہاتھوں والا ہونا۔
اقسان اقسنانا و قسائنة العود: لکڑی
کا خشک اور سخت ہونا الرجل: مرد کا بوڑھا
ہونا اور خشک ہونا فی العمل: کز گزرتا

الليل: رات سخت تاریک ہونا۔
المقسّمین: جوانی کی انتہا اور بوڑھاپے کی
ابتدائیں ہونے والا۔

قسا قسّموا قسّموا وقسّوا وقساوة

مِنَ الطَّعَامِ: کھانے کا رومی حصہ ج
 أَقْشَابُ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَشْتٌ
 خَشْبٌ" بے خیر آدمی۔ (خَشْبُ تالِخِ
 مَحْمُولٌ ہے)
 القَشْبَةُ بے خیر۔ مرد خبیث۔
 الْقَشْبُ ہونٹ اور ہاتھوں کا پھٹ کر سخت
 ہو جانا۔ شدید ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے۔
 القَشْبُ زہر۔ جِ أَقْشَابُ
 القَشْبُ نیا بڑا لانا سِیْفٌ قَشْبٌ: صیقل
 شدہ یا زنگ خوردہ تلوار۔
 القَشْبُ نیا۔ ستمرا سفید جِ قَشْبُ
 وَقَشْبُ سِیْفٌ قَشْبٌ: صیقل شدہ
 تلوار۔ زنگ خوردہ تلوار۔
 القَشْبَانَةُ پُرانی چادر۔
 المَقْشَبُ غیر خالص۔ حَسْبٌ مَقْشَبٌ
 وَرَجُلٌ مَقْشَبٌ الحَسْبُ: فرد جس کا
 حَسْبٌ خالص نہ ہو۔
 القَشْبُ رُدی قسم کا اون۔ اُون کا وہ حصہ
 جو صاف کرتے وقت گر جائے اور پھینک
 دیا جائے۔
 القَشْبَارُ سخت چھڑی۔ رَجُلٌ قَشْبَارُ
 اللَّحِيحَةُ وَقَشْبَارُهَا: لمبی داڑھی والا۔
 قَشْبِيرٌ باریک بان کو جمع کرنا۔
 قَشْدَةُ (ن) کَشْدَا: برہنہ کرنا۔ کھولنا۔
 القَشْدَةُ پتلا کھن۔ بالائی۔ ایک بہت
 دودھ والا پودہ (القَشَادَةُ) کھجی کا ٹھٹھ۔
 قَشْرَةُ (ن) (ص) قَشْرًا وَقَشْرَةٌ: کھال یا
 چھال اُتَارنا القَوْمُ: بد چھوٹی لانا۔
 قَشْرٌ (س) قَشْرًا: موٹی کھال والا ہونا۔
 تَقَشَّرَ وَانْقَشَرَ: چھل جانا۔
 انْقَشَرَ الرَّجُلُ: ننگا ہونا۔ صفت مَقْشَرٌ
 القَشْرُ: چھلکا۔ لباس جِ قَشْرٌ
 (وَالْقَشْرُ) باشت کے برابر ایک چھلی۔
 القَشْرَانُ: ٹڈی کے دونوں پر۔
 القَشْرُ وَالْقَشِيرُ: بہت چھلکے والا۔ کہا جاتا
 ہے "سَرُّ قَشْرٌ وَقَشِيرٌ" یعنی چھلکے والی
 کھجور۔

گھر وغیرہ کا کوزا کرکٹ۔
 القَشْبَةُ بندریا۔ بندریا کا مادہ بچہ۔ چھوٹے
 جسم کی بچی۔ گھریلا کی مانند ایک کیڑا۔
 کولتار استعمال کرنے میں جو چیتھڑا استعمال
 کیا جائے اور اس کو بعد میں پھینک دیا
 جائے۔
 القَشْبِشُ: سانپ کی کھال کی آواز۔
 القَشْبِشُ وَالْقَشَاشُ وَالْفَشَاشِيُّ پڑی
 ہوئی جو چیز اٹھائی جائے۔
 القَشَاشُ: پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانے والا
 (وَالْقَشَانُ وَالْقَشُوشُ) جو معمولی چیز کو
 اٹھا کر کھالے۔
 المَقْشَةُ جھاڑو۔
 قَشْبٌ (ض) قَشْبًا فَلَانًا لِسَمِّ: زہر
 پلانا۔ قَشْبٌ عَلَيْهِ: بہتان لگانا الرَّجُلُ: عار
 دلانا۔ عیب لگانا۔ بُرَى بَاتٌ كَمَا السِّیْفُ:
 تلوار پر صیقل کرنا۔ الدُّخَانُ دھو میں کا
 نعتھوں کو بھر دینا۔ کہا جاتا ہے قَشْبِي
 رِيحُهُ" اس کی بو نے مجھ کو تکلیف دی ہے
 عَقْلٌ زَاكِلٌ كَرْنَا:
 الشَّيْءُ فَاسِدٌ كَرْنَا: بگاڑ دینا۔ قَشْبٌ لَهُ:
 زہر پلانا۔ قَشْبُهُ بَشَرٌ: بُرَانِي سے یاد کرنا
 قَشْبُ الرَّجُلِ: نیک نامی یا بدنامی اختیار
 کرنا۔ قَشْبٌ وَقَشْبُ الطَّعَامِ بِالسَّمِّ:
 کھانے میں زہر ملانا فَلَانًا بَسُوهُ: لوٹ
 کرنا۔ قَشْبَتِ الرَّيْحُ فَلَانًا: ہوا کا تکلیف
 دینا۔ قَشْبُ الشَّيْءِ: میلا بچھلنا۔
 قَشْبٌ قَشَابَةُ الشَّيْءِ: پاکیزہ ہونا۔ صاف
 ہونا۔
 اقْشَبٌ نیک نامی یا بدنامی حاصل کرنا۔
 تَقَشَّبَ السِّیْفُ: تلوار کا زنگ خوردہ
 ہونا۔
 اسْتَقْشَبَهُ: گندہ سمجھنا۔
 القَاشِبُ: فا۔ درزی۔ کزور نفس والا۔
 واقْشَى عِیُوبَ بِيَانٍ كَرْنَا: والا۔
 القَشْبُ گندہ۔
 القَشْبُ نفس۔ زنگ۔ سخت خشک۔ زہر

وَقَسَانَةٌ: سخت و درشت ہونا۔ صفت قاس
 جِ قَسَاةُ اللَّيْلِ: رات تاریک ہونا
 الدِّرْهَمُ: درہم ہونا ہونا۔ صفت قَسِيٌّ
 قَسِيٌّ نَفْسِيَّةٌ وَأَقْسَى أَقْسَاءُ الشَّيْءِ:
 سخت و درشت کرنا۔
 قَاسِيٌّ مَقَاسَاةُ الْإِلْمِ: تکلیف برداشت
 کرنا۔
 القَسِيٌّ سخت مِنَ الدِّرَاهِمِ: کھوٹے
 درہم جِ قَسِيَانٌ کہا جاتا ہے "عَشِيَّةٌ
 قَسِيَّةٌ" ٹھنڈی شام "يَوْمٌ أَوْعَامٌ قَسِيٌّ"
 سخت دن یا سخت سال۔ گرمی یا سردی یا لُحْظُ
 کی وجہ سے سِرْنَا سِرًّا قَسِيًّا" ہم تیز چال
 چلے۔
 أَرْضٌ قَاسِيَةٌ: ذخیر زمین جس میں کچھ نہ
 اُگے۔ لَيْلَةٌ قَاسِيَةٌ: بہت تاریک رات۔ کہا
 جاتا ہے "هُوَ أَقْسَى مِنَ الصَّخْرِ" وہ پتھر
 سے زیادہ سخت ہے۔
 المَقْصَاةُ: جو سخت بناوے۔ کہا جاتا ہے
 "الذَّنْبُ مَقْصَاةٌ لِلْقَلْبِ" گناہ دل کو سخت
 کرنے کا سبب ہے۔
 قَشٌّ (ن) قَشْرًا: لاغری کے بعد
 تونمند ہونا فَلَانٌ: لاغری کی چال چلنا میں
 مَرَضُهُ: مرض سے صحت یاب ہونا۔
 قَشٌّ (ن) قَشًّا النَّبَاتُ: نباتات کا
 خشک ہونا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ ہاتھ سے رگڑنا
 فَلَانٌ: صدقہ کے ٹکڑے کھانا۔
 قَشٌّ (ن) قَشًّا وَقَشَّشٌ: ادھر ادھر
 سے کھانا۔ قَشَّشَهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے
 تکلیف پہنچانا۔
 قَشٌّ وَقَشٌّ وَانْقَشَّ القَوْمُ: چلا جانا۔
 اقْشٌ مِنَ المَرَضِ: مرض سے صحت یاب
 ہونا واقْشَتِ الأَرْضُ: زمین میں زیادہ
 خشک ہونا۔ انْقَشَّ القَوْمُ قوم کا متفرق
 ہونا۔
 تَقَشَّشَ وَأَفْشَشَ مَا وَجَدَ: سب کچھ کھا
 لینا۔
 القَشُّ: س۔ براؤڈل۔ رُدی قسم کی کھجور۔

القشور: سخت سرخی۔

القشورة والقشرة والقشرة: بارش جو سطح زمین کو صاف کر دے۔ القشورة: منحوس۔

القشورة: چھال۔

القاشير: فا من الخيل: گھوڑ دوڑ میں آخری گھوڑا۔

القاشيرة: قاشير کا موٹ۔ پہلا زخم جو کھال کو پھاڑ دے۔ عورت جو اپنے چہرہ کو مل دل کر صاف کرے۔

القشريات: سخت اور مضبوط جسم والے جانور کچھ خشکی والے اور زیادہ پانی والے جیسے سرطان، مکڑی اور جینگا مچھلی۔

القاشور والقاشورة من الاغوام: سخت قط کا سال۔ سنة قاشورة وقاشور: قط کا سال القاشور: منحوس من الخيل: گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا۔

القشار: سانپ کی کھال۔

القشارة: اتارا ہوا چمچا۔

الاقشور: چمکا اتارا ہوا گرمی کی وجہ سے چھلی ہوئی ناک والا۔ سخت سرخی والا۔ ابرص۔

بہت سوال کرنے والا من الارض: سرخ سفید زمین۔ مؤنث قشراء ج قشور۔ شجرة قشراء: کہیں کہیں سے چھلا ہوا درخت۔ حبة قشراء: کینچلی سے علیحدہ سانپ۔

القشور: چہرہ کو صاف کرنے والی دوا۔

المقشور: منع کہا جاتا ہے "جاء بالحجاب المقشور" واضح جواب دیا "زجل مقشور" نکامرد۔

المقشور: سوال میں اصرار کرنے والا۔

قسطه (ض ن) قسطا: لالچی سے مارنا۔ قسط عنه کذا: نکامرد۔

قسط الرجل: لوٹا صفت مقسط۔

تقسط وانقسط: نکامرد ہوا۔ تقسطت وانقسطت السماء: صاف ہے ابر ہوا۔

القسطة: بالائی۔

القشاط: برنگی۔

القشاط: بہت لوٹنے والا۔

المقسط: چھال یا کھال اتارنے کا آلہ۔

المقسطة: عند العقادين: ریشم کے دھاگوں کو صاف کرنے کا آلہ۔

قشع (ف) فشعا القوم: متفرق کمانا۔

قشعت وأفسعت الريح السحاب: ہوا کا بادلوں کو پراکندہ کرنا۔

أفشع القوم: متفرق ہونا۔

أفشعوا عن الماء او المكان: ہٹ جانا۔ علیحدہ ہو جانا۔

أفشع السحاب: بادل کھل جانا۔

قشع (س) فشعا: الشئ خشک ہونا۔

انقشع الليل رات ختم ہونا۔

انقشع ونشع السحاب: بادل کھل جانا۔

تقشع القوم: متفرق ہونا۔

انقشع القوم عن اما بينهم: دور ہونا۔ علیحدہ ہونا۔

ألهم عن القلب: دل سے غم کا زائل ہونا۔

القشع: سر پرانی پوستیں۔

يقوف شتر مرغ كاري: چڑے کا خیمہ۔

ج قشوع: پرانی مٹک۔

بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والا زنبیل۔

زبجو: خشک شدہ مٹی کا ٹکڑا۔ خشک کھال ج قشع۔

القشع و لقشع کھل جانے والا بادل۔

القشع والنسع والقشع: حمام کا کوڑا کرکٹ۔

القشعة: ج قشاع: القشعة ج قشع: خشک کھال کا ٹکڑا۔ بادل کا ٹکڑا جو کھلنے کے بعد باقی رہ جائے۔

القشعة: قشع کا اسم مرث۔

پرانی پوستیں کا ٹکڑا۔ خشک شدہ مٹی کا ایک ٹکڑا۔ بڑھیا۔ باؤشالی۔

القشع: خشک۔ غیر مستقل مزاج۔ شاة قشعة: ڈبلی پٹی کبری۔

آزاکة قشعة: گنجان بہت تپوں والا پیلو کا درخت۔

القشاع: بوسیدہ ٹکڑا۔ دھجی۔

القشاع: مادہ جو کی آواز۔

القشاعة: ریخت۔

القشيع من الكلاء: متفرق گھاس۔

قشع: جاتا ہے "هو أفشع منه" یعنی وہ اس سے اشر ف ہے۔

أفشع جلدہ: کانپا۔ سٹنا۔ کھردرا ہونا۔

متغير اللون ہونا۔ صفت مقشع ج مقشعرون و قشاعير و افشعرت السنة: قحط ہونا۔ خشک سالی ہونا الارض: زمین کا بارش نہ ہونے سے خشک ہونا۔ کہا جاتا ہے افشع الشعير: خوف یا سردی کی وجہ سے روگٹے کھڑے ہونا۔

المقشعير: بمعنی مقشعير۔

القشعيرة: کچی۔

القشاعير: سخت کھال والا عمر رسیدہ۔

القشعير: کھڑی۔

القشعير: عمر رسیدہ (مرد یا عورت یا گدھ)۔

مونا عمر رسیدہ شیر۔ ج قشاعيم وقشاعيم۔

القشعاع والقشعاعان والقشعاعان: بڑا زگدھ۔ عمر رسیدہ مرد یا گدھ۔

القشعاعمة: جال۔

القشعوم: چھوٹے جسم والا۔ چھڑی۔

قشيف (س) قشفا وقشيف (ك) قشافة۔

وقشيف: بد حال ہونا۔ پٹھے پڑانے حال والا ہونا۔ تنگ گزارا ہونا۔ گندہ جسم ہونا۔ صفت قشيف وقشيف وقشيف وقشيف: تنگ زندگی گزارنا۔ قشيف في لباسه: پیوند لگے ہوئے اور میلے کپڑے پہننا۔

قشيف الله عينه: تنگ زندگی کر دینا۔

عام افشيف: سخت سال۔

قشيفته من الجرب اور الجذري: کھجلی یا چنچک سے صحت یاب کرنا۔

تقشيف: صحت یاب ہونا۔

القشيفية: سر گوشت بھوننے کی آواز۔

قشم (ن) قشما الطعام: زیادہ کھانا۔

مزید راز خوراک کھانا۔

قشم (ض) قشما الرجل في بيته: داخل ہونا۔

افتشمة: ادھر ادھر سے کھانا۔

القشْم والقشْم. زمین میں پانی بننے کی نالی۔ گوشت جبکہ پک کر سرخ ہو جائے۔ القشْم: طبیعت۔ جسم۔ حال۔ بیت۔ چربی۔ جز۔ ج قشوم۔ القشام والقشامة: دستِ خوان پر بچا ہوا بکار حصہ۔ القشیم: خشک سبزی۔ ج قشُم۔

موت۔ المقشَم. قشْم کا اسمِ ظرف۔ اور کہا جاتا ہے مَا صَابَتْ الْإِبِلُ مَقْشَمًا: اونٹ نے چراگاہ کو نہیں پایا۔ القشمر: پستہ قدر۔ مونا گٹھے ہوئے بدن

والا۔ قشا يقشون قشونا وقشنى: القود: کڑی

چھینا الوجہ: چہرہ پونچھنا۔ اور کہا جاتا ہے قشاه عن حاجته یعنی اس کو اس کی حاجت سے باز رکھنا۔

أقش أقشاء: توگری کے بعد محتاج ہونا۔ تقشئ الشئ: چیل جانا۔

القاشئ: فاقوٹا پیسہ۔ القشاء: تھوک۔

القشوة: کھجور کے پتوں کی ٹوکری جس میں عورتیں زوئی یا عطر وغیرہ رکھتی ہیں ج قشَاء وقشوات۔

القشلة: نوح کے اترنے کی جگہ۔ القشوان: کزور۔ مؤنث قشوانة۔

القشئ من الدراهم: کھوٹے دراہم۔ المقشؤ والمقشئ: چھپا ہوا۔

قش (ن) قشًا: الشعر ونحوه: تینچی سے بال وغیرہ کاٹنا السَّاج الثوب: چھور

کاٹنا: کان کے اطراف کو کاٹنا اور کہا جاتا ہے "مَا يَقْضُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ" کوئی چیز اس کے

ہاتھ میں باقی نہیں رہتی (والقش) الموت فلانا: قریب الموت ہونا۔ کہا جاتا ہے

"ضربه حتى قضه على الموت أو أقضه من الموت" اس کو مارا یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچا دیا۔ قضت واقضت

الشاة حمل ظاہر ہونا۔ صفت مقصص ج مقاص أقص الامير فلانا من فلان:

بدل لے لینا۔ واقص الرجل من نفسه: اپنے آپ سے بدل لیتے دینا۔

قص (ن) قصصا عليه الخبر: بیان کرنا (قضا و قصصا) اثره: آہستہ آہستہ بیرونی کرنا۔

قصص الشئ: نکلنے نکلنے کرنا۔ قاص قصاصا و مقاصدة الرجل بما كان له قبلة: بدلہ میں روک لینا۔ قاصه:

بدلہ لینا۔ قصاص لینا۔ تقصص اثره: بیرونی کرنا الکلام: یاد کرنا۔

تقاص القوم: ایک دوسرے سے بدلہ لینا۔ انقص: کٹ جانا۔

انقص: اثره: تابعداری کرنا من فلان: قصاص لینا الحدیث: روایت کرنا۔ نقل کرنا۔

استقصه: قصاص یا بدلہ لینے کو کہنا۔ القص: سر (والقصص) سینہ یا اس کی

ہڈی۔ ج قصاص: قصص الشاة: بھیڑ کا کٹا ہوا اون۔

القصة: قص کا اسمِ مرتہ۔ چونان قصاص۔ القصة: قص کا اسمِ نوع۔ بات۔ واقعہ۔

حالت۔ ج قصص واقاصيص۔ القصة: پیشانی کے بال۔ بالوں کا گچھا۔ ج قصص وقصاص۔

القصاص: ایک قسم کا درخت ہے جس کو شہد کی مکھی چاتی ہے۔ واحد قصاصه۔

القصاص: گناہ کی سزا۔ بدلہ۔ القصاص: سر پر تینچی چلنے کی جگہ و

قصاص الشعر: بتثايت الفاف: بال نکلنے کی منہا۔ آگے یا پیچھے کی جگہ۔

القصاص: وہ پودہ جس کو شہد کی مکھی چاٹے۔ القصاصه: بال یا ناخن کا تراش۔

القصاص: سینہ کے بال نکلنے کی جگہ۔ ایک قسم کی نباتات جو سانپ کی چھتری کی جڑوں میں

ہوتی ہے اور اس سے سرد ہوتے ہیں۔ واحد قصيصه۔ ج قصاصيص۔

القصاصيصه: اونٹ کہ جس سے قافلہ کی بیرونی کی جائے۔ قصه: چھوٹا اونٹ کہ جس

پر کھانا اور اثاثہ لادیں۔ جماعت جو ایک جگہ میں جمع ہو۔ کہا جاتا ہے کہ "تروكهم قصيصه واحده" یعنی میں نے ان کو ایک جگہ میں جمع

حالت میں چھوڑا۔ القاص: فاقصه کو۔ خطبہ۔ واعظ۔

القصاص: اجرت لے کر جمع میں قصہ بیان کرنے والا۔ وہ شخص جو اونٹ وغیرہ کے بال

اُٹارنے کا پیشہ کرتا ہو۔ المقصص: سید پیشانی کے بالوں والا۔

رجل مقصص: بڑے سینہ والا۔ المقص: اثر۔ نشان۔

المقص: تینچی۔ ج مقاص: قصب (ض) قصبًا: کاٹنا۔ قصب الشاة:

بکری کے عضو کاٹنا (قصبًا وقصونا) البعير: اونٹ کا پانی پینے سے باز رہنا لانسان

وغیره: پانی پینے سے باز رکھنا اور سیرابی سے سیر روک دینا الرجل: کسی کو گالی دینا۔

قصبه: گالی دینا۔ قصب الشعر: بالوں کو گھٹکھریالے بنانا لزوع: ذنصل والی ہونا فلانا:

ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندھنا۔ أقصب: المکان: زکل والی ہونا۔

الرواعي: چرواہے کے اونٹوں کا پانی پینے سے باز رہنا۔

أقصب الشئ: اپنے لیے کاٹنا۔ القصب: پیچہ۔ آنت۔ ج قصاب۔

القصب: ہر وہ جس میں پورے اور گرہیں ہوں جیسے بانس اور زکل۔ قصب السكر:

گنا۔ القصب: ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں۔ گول اور لمبی جوف دار ہڈی۔ گودے والی ہڈی۔ حلق کی

نالی۔ مستطیل۔ جو پڑ۔ جھٹے سے پانی بننے کی جگہ۔ آنسو بننے کی جگہ۔ مروارید آبدار تازہ۔

زبرد آبدار تازہ۔ جو باقوت سے مرصع ہو۔ کہا جاتا ہے "أخرد قصب السبق" یعنی

غالب رہا۔ اور اس کی اصل یوں ہے کہ میدانِ مسابقت میں ایک ہنس گاڑ دیا کرتے تھے جو شخص آگے بڑھ جاتا تھا وہ اسے اٹھا لیتا تھا تاکہ غالب رہنے کی علامت ہو۔

القصبۃ: واحد ہے قصب کا۔ شہر کا مالک کے شہروں میں بڑا شہرہ گاؤں یا گاؤں کے درمیان نیا کھدا ہوا کٹواں۔ بالوں کا لینا ہوا گچھا۔ قصبۃ الإصبع: انگلی کا سر۔ قصبۃ المری: زخروہ قصبۃ الأنف: ناک کا بانس۔ قصبۃ الریۃ: پھیرے کی نالی۔ القصبی: اسی کا باریک کپڑا قصب۔

القاصب: فا۔ بانسری جانے والا۔ قصابی۔ بادل بہت گرنے والا۔ ج قصاب (و القصب) من الإبل: پانی سے رکنے والا اُونٹ۔ کہا جاتا ہے بعبیر قصب وناقۃ قصب۔

القضاء: بہت سے ہنس۔ زکل یا بانس اگنے کی جگہ۔ واحد قضائۃ۔ اجمۃ قضاء بہت زکل یا بانسوں والی جھاڑی۔ زکل یا بانس کا جگہ۔

القصاب: بانسری جانے والا۔ قصابی۔ القصابۃ: قصاب کا مؤنث۔ لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا۔ ج قصاب

القصابیۃ: ج قصاب (والتقصیۃ و التقصیۃ) ج تقاصب و تقاصیب:

بالوں کا پچیدہ گچھا۔ القصابۃ: بانسری۔ القصبیۃ: زکل کی پوری۔ بانس کی پوری۔ ج قصاب

بالوں کا گچھا۔ ج قصابی۔ قصابیۃ: قصابی کا پچیدہ بالوں کا پچیدہ گچھا۔ القصب من الغنم: بیہر کہ جس کا اُون

اُتار دیا جائے۔ القصبۃ: بانس یا زکل نکلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "أرض قصبۃ و مقصاب و مقصبۃ"

بہت زکل یا بانس والی سرزمین۔ المقصب: فا۔ سبقت لے جانے والا۔ دودھ کہ جس پر گاڑھا جھاگ ہو۔ المقصب: من الثیاب: تہ شدہ کپڑا۔

شعر مقصب: گھٹھریالے بال۔

قَصَبٌ قَصْبَةٌ الطَّعام: سب کھا لینا۔

قَصَدَ (ض) قَصْدًا الرَّجُلُ وَلَهُ وَالْيَهُ: توجہ کرنا الیہ: اعتماد کرنا۔ قَصَدَ قَصْدَهُ:

اکی طرف جانا فی سببہ سیدھی چال چلنا۔

فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ: مجبور کرنا۔ کہا جاتا ہے

"أَقْصَدُ بَدْرَعَكَ" یعنی ٹھہرو اور توقف کرو

(و قَصَدَ الشَّيْءُ) تَوَدَّاهُ قَصْدًا وَ قَصَدَ الشَّاعِرُ: قَصَادًا بَنَانًا۔ قَصَدَ الْقَصَائِدَ:

مہذب کرنا۔ درست کرنا۔

قَصَدَ (ض) قَصْدًا وَاقْتَصَدَ فِي الْأَمْرِ:

درمیان روی کرنا فی النفقۃ: متوسط خرچ

کرنا۔ اِقْتَصَدَ فِي مَرَّةٍ: مستقیم ہونا۔

قَصَدَ (ك) قَصَادَةَ الْبَعِيرِ: اُونٹ کا موٹا

ہونا۔

أَقْصَدَهُ: ٹھیک نشانہ پر نیزہ مارنا الْحَيَّةُ

فَلَانًا: سانپ کا کسی کو ڈس کر مار ڈالنا۔

أَقْصَدَهُ السَّهْمُ: تیر مارنا اور اسی جگہ قتل کر

دینا۔ اَقْصَدَ الشَّاعِرُ: قَصَادًا بَنَانًا۔ کہا جاتا

ہے "أَقْصَدَ نَبِيَّ النَّبِيِّ الْأَمْرُ" یعنی مجھے

تیر سے پاس آنے پر برا بھلا سمجھ گیا۔

تَقَصَّدَ الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ: مرنا۔ تَقَصَّدَهُ:

ارادہ کرنا۔ کسی کو اس کی جگہ پر مار ڈالنا

(و اِنْقَصَدَ) الرَّمْحُ: نیزہ کا ٹوٹنا۔

القصد: من۔ راستہ کی استقامت۔ میانہ

روی۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَصْدٌ" یعنی نہ تو

بڑے ذیل ڈول کا ہے اور نہ ڈبلا "طَرِيقٌ

قَصْدٌ" سیدھا راستہ وَاِنَّهُ عَلَى قَصْدٍ يَعْنِي وَهُ

بدایت پر ہے "وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ"

اللہ کے اوپر ایسے راستہ کا بیان کرنا ہے جو سیدھا

ہو اور حق تک پہنچانے والا ہو "هُوَ قَصْدُكَ

أَوْ قَصْدُكَ" وہ تمہارے مقابل ہے۔

القصد من العوسج ونحوه: نرم ونازک

ٹہنیوں۔ ہر خار و درخت اگے وقت۔ واحد

قَصْدَةٌ القصد: بھوک۔ رَمِجَ قَصْدًا

وَقَصِيدًا وَأَقْصَادًا: ٹوٹا ہوا نیزہ۔

القصيد من الشعر: تین سے لے کر زائد

شعروں کی نظم اور بعض نے کہا ہے کہ سولہ سے لے کر زائد شعروں کی نظم۔ درست اور مہذب کی ہوئی نظم۔ القصيد: موٹا گودا۔ خشک گوشت۔ لاشی۔ موٹی جوان اونٹنی۔ موٹا

کوہاں۔

القصيدۃ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج قَصِد.

القصيد: موٹا گودا۔

القصيدۃ: من الشعر: سات یا دس اشعار

سے زائد نظم۔ لاشی۔ قصید کا واحد۔ ج قَصِيدٌ وَقَصَائِدُ.

القاصد: فا۔ من السفر: آسان اور

قریب کا سفر۔ طَرِيقٌ قَاصِدٌ: سیدھا راستہ۔

ج قَوَاصِدُ.

القاصدۃ: قاصد کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَنَا

وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدَةٌ" ہمارے اور پانی

کے درمیان ایک رات کی مسافت ہے جس

میں نہ تعب ہے اور نہ تاخیر ج قَوَاصِدُ.

المقصد: من۔ جو شخص بیمار ہو اور فوراً مر

جائے۔

المقصد: مکان۔ قصد۔ تم کہتے ہو "بابك

مقصدي" تمہارا دروازہ میرے لیے جائے

قصد ہے۔ ج مقاصد.

رَجُلٌ مَقْصِدٌ وَمَقْتَصِدٌ: درمیانے جسم کا

نہ موٹا نہ لاغر۔

المقصدة: من۔ علامت جو اُونٹوں کے کان

میں ہوتی ہے۔

القصيدير: رانگا۔ ایک معدنی چیز ہے جس

سے جڑائی اور قلبی کا کام لیا جاتا ہے۔ ایک

کوبے کو قَصْدِيرَةٌ کہتے ہیں۔

قَصْر (ن) قَصُورًا الشئ: ناقص ہونا۔

ارزاں ہونا عَنِ الشئ: زکنا اور عاجزی کی وجہ

سے چھوڑ دینا عَنْهُ الْغَضَبُ أَوْ الْوَجَعُ:

غضب یا درد میں سکون ہونا السَّهْمُ عَنِ

الهِدْفِ: تیر کا نشانہ نہ پہنچنا هَذَا النِّفْعَةُ:

مقصود کو نہ پہنچانا الطَّعامُ: بڑھنا اللَحْمُ:

گراں ہونا (قَصْرًا) قَيْدَ الْبَعِيرِ: ٹھک کرنا

الصَّلَاةِ وَ مِنَ الصَّلَاةِ: چار رکعت کے

نصب مصدر یا حال کی بنا پر اور رفع تاکید کی وجہ سے کھم کے قائم مقام ہو کر۔

القَضَّةُ: قَضٌّ کا اسم مرۃ۔ قضا سے قضا کا واحد بمعنی تہ بہ تہ پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ۔ کنکری۔ چیز کا بقیہ۔ دھاگے کی چھوٹی آئی۔ ارضِ قَضَّةٌ۔ کنکری والی زمین۔

القَضَّةُ: جنس۔ چھوٹی کنکریاں۔ ج قَضَاتٍ۔ القَضَّةُ: دو شیزگی۔

القَضَّةُ وَالْقَضَّةُ: عیب۔ قَضِيٌّ يَقْضِي قَضًا الشَّيْءُ: کھانا البقاء۔

مکاب کا خراب ہونا۔ بدبودار ہونا۔ العین: آنکھ کا سرخ ہونا الثوب او الحبل:

کپڑے یا رستی کا بوسیدہ ہونا اور کپڑے کپڑے ہونا (قَضًا و قَضَانَةً) حسبہ: تباہ ہونا اَقْضَاهُ: کھانا کہا جاتا ہے تَقْضًا مِنْ فُلَانٍ اَنْ يُّوْجِهَ یعنی اس کے حسب کو ذلیل سمجھا اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔

القضاة والقضاة: عیب۔ فساد۔ عار۔ القضي: خراب بدبودار۔ کہا جاتا ہے سقاء قَضِيٌّ وَقِرْبَةٌ قَضِيَّةٌ: خراب اور بدبودار

مکاب۔ قَضِبٌ (ض) قَضِبًا الشَّيْءُ: کانٹا۔ الرَّجُلُ:

کسی کو شاخ سے مارنا الناقة: اونٹنی پر سدھانے سے قبل سوار ہونا۔

قَضِبَ الشَّيْءُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا الْكِرَامُ:

موسم بہار میں انھور کی شاخیں تراشنا (و تَقْضِبُ) شعاع الشمس: آفتاب کی

کرن کا پھیلانا تَقْضِبَ الشَّيْءُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

أَقْضِبَ الْأَرْضُ: زمین کا سبزہ زار ہونا۔ ساگ یا تانگا۔

أَقْضِبَ: کن الکوئٹ من مکانہ۔ سبزے کا آئی جگہ سے ہٹانا۔

أَقْضِبَ الشَّيْءُ: کانٹا الْكَلَامُ: فی البدیہہ کہنا الناقة: اونٹنی پر سدھانے سے قبل سوار ہونا

فُلَانًا: اچھی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت سے قبل اس کے کرنے کی تکلیف دینا۔

القضب: لمبی اور لکھی ہوئی شاخوں والا درخت۔ ایک درخت کا نام جس کی کٹائی سے

کمان بنایا کرتے تھے۔ مٹی ہوئی شاخیں۔ واحد قَضْبَةٌ۔

القضبة: شاخ۔ درخت بیج کا بے بنا ہوا تیر۔ ج قَضَبَاتٍ۔ القَضْبَةُ: ساگ تر تازہ جو کھایا

جائے ج قَضْبٌ۔ القَضْبَةُ: اونٹوں یا بکریوں کا گلہ۔ سبک اور

لطف (مرد یا اونٹنی) القَضْبُ: کبھی ہوئی شاخ۔ بغیر سدھائی ہوئی

اونٹنی۔ ج قَضْبَانٌ وَقَضْبَانٌ۔ القَضْبُ: ششیر براں۔ کمان جو درست شاخ سے بنائی

ہوئی ہو۔ سَيْفٌ قَاضِبٌ ج قَوَاضِبٌ وَقَضَابٌ وَ قَضَابَةٌ وَمِقْضَبٌ: بہت تیز کانٹے والی تلوار

رَجُلٌ قَضَابَةٌ: امور کا اچھی طرح طے کرنے والا۔

القاضية: قاضب کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے "صافی فی قاضیة" یعنی میرے منہ میں کوئی

دانت نہیں۔ القضاية: کانٹا ہوئی چیز کے ٹکڑے۔

المقضب: درانتی۔ المقضاب: درانتی۔ بہت کانٹے والا۔

أَرْضٌ مِقْضَابٌ: سبزہ زار زمین۔ ساگ پات اگانے والی زمین۔

المقضبة: ساگ پات اگانے کی جگہ۔ ج مقاضب و مقاضيب۔

المقضب: کام کی صلاحیت نہ ہونے سے پہلے اس کے کرنے کی تکلیف دیا ہوا۔ اوزان

شعر میں ایک بحر کا نام مِنَ الشَّعْرِ وَالْكَلَامِ: فی البدیہہ شعر یا کلام۔

قَضَعَهُ (ف) قَضَعًا: مغلوب کرنا۔ مقهور کرنا۔

أَنْقَضَعَ عَنْهُ: دور ہونا (و تَقْضَعُ) ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

القضوع والقضاع والتقصيع: پیٹ کا

در در اور حرور۔

القضاع والقضاة: آٹے کی گرد۔ دیوار کی جڑ میں جو چمڑ کر گئے۔ القضاة:

تینروا۔ القضاة: چیدہ

القضعم: بڑھا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

قَضَفٌ (س) قَضَفًا وَقَضَفًا وَقَضَافَةٌ

مخيف ولاغر ہونا۔ مفت قَضِيفٌ ج قِصَافٌ وَقِضْفَانٌ وَقِضْفَاءٌ۔

أَنْقَضَفَ: ٹوٹنا القَضَفُ: پتلے پتھر۔ القَضْفَةُ: ٹیلہ جو ایک پتھر کا معلوم ہو۔ زمین

کا ٹکڑا جو اٹھرا ہوا اور کچھ لسا ہو۔ ایک پرندہ کا نام۔ ج قَضَفٌ وَقِصَافٌ وَقِضْفَانٌ

القَضْفَةُ: ریت کا ٹکڑا جو بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا ہو۔

القَضِيفَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: کم گوشت ڈبلی پتل عورت۔

قَضَقَضٌ قَضَقَضَةُ الْعَظْمِ: بڑی کاٹنے کے وقت چٹن الاسد فریستہ: شیر کا اپنے

شکار کو توڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تَقْضَقُضٌ: ٹوٹنا۔ جواحد اہوتا۔

القَضَقَاضُ وَالْقَضَقَاضُ وَالْقَضَاقِضُ: شہر۔

القَضَقَاضُ: ہوا زمین۔ قَضِمٌ (س) وَقَضِمٌ (ض) قَضِمًا الشَّيْءُ:

دانت کے اطراف سے کانٹا اور کھانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَقْضِمُ الدُّنْيَا قَضْمًا" جبکہ بے

رعبتی کرے اور معمولی پر راضی ہو جائے۔ قَضِمْتُ (س) قَضِمًا السِّنُّ: دانت کے

اطراف کا ٹوٹنا۔ قَضِمَ الرَّجُلُ: دانت کے ٹوٹنے ہوئے اطراف والا ہونا۔ قَضِمَ السِّيفُ:

تلوار پرانی ہونے کی وجہ سے دھار خراب ہونا۔

قَاضِمٌ مَقَاضِمَةٌ: تھوڑا تھوڑا بیچنا خریدنا۔ أَقْضِمَ الدَّابَّةُ: جانور کو جو کا چارہ دینا

(وَأَسْقَضِمَ) القَوْمُ: قوط میں تھوڑا اٹلہ لینا۔

القضم من الانسان اطراف گرے ہوئے دانت۔ القضم من الرجال جس کے دانت کے اطراف ٹوٹے ہوئے ہوں۔ القضم من السیوف پُرانی ہونے کی وجہ سے خراب دھار والی تلوار۔ الاقضم جس کے دانت کے اطراف ٹوٹے ہوئے ہوں۔ مؤنث قضا عرج قضم۔ القضم من تلوار۔ القضا می وہ جن کے پلو کو بھگو کر بھونا جائے اور دانتوں سے چپایا جائے۔ القُضْمَةُ والقضام والمقضم۔ جو دانت کے اطراف سے کاٹا جائے۔ کہا جاتا ہے ”ما دُفَّت قُضْمَةٌ وقُضَامًا ومَقْضَمًا“ یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ القضمیم جس کو دانت کے اطراف سے کاٹا جائے۔ ٹوٹی ہوئی دھار کی تلوار۔ گھڑی۔ نامہ (والقضمیة) چڑنے کا فرش جو مجرم کے نیچے بچھا دیتے تھے تاکہ خون سے زمین خراب نہ ہو۔ چڑا۔ سفید چڑا جس پر لکھا کرتے تھے۔ جانوروں کے لیے جو۔ چاندی ج قضم وقضم واقضمہ۔ القضام بھگو کر لہا بردخت کہ اس کے پھل خشک ہو گئے ہوں۔ ج قضا صمیم۔ قضی یقضی قضاء الشئ مضبوطی سے بنانا حاجتہ: پوری کرنا اور فارغ ہونا وطوره: مُراد کو پہنچا غیرتہ تمام آنسو بہا دینا الذین: قرض ادا کرنا الصلاة: نماز ادا کرنا الامر الیہ: پہنچانا العہد: نافذ کرنا علیہ عہد: وصیت کرنا۔ قضی الرجل وقضی نحیہ وقضی اجلہ وقضی علیہ: مرنا۔ اور کہا جاتا ہے ضربہ فقضی علیہ یعنی مار ڈالا۔ وقضی منه العتب بہت زیادہ تعجب کیا۔ ولا اقضی منه العجب یعنی تعجب کا حق ادا کرنا ممکن نہیں کہ معاملہ بہت عظیم الشان ہے۔ قضی یقضی قضاء وقضیا وقضیة بین الخصمین: فیصلہ کرنا الامر لہ او علیہ: موافق یا مخالف فیصلہ کرنا الشئ: جانا۔ بیان

کرنا۔ قضی تفضیہ وقضاء وطوره: حاجت پوری کرنا۔ مراد برلانا الامر: معاملہ کو نافذ کرنا فلانا: قاضی بنانا (تفضیہ) مرنا۔ قاضا مقاضاة فلانا الی الحاکم: فیصلہ کے لئے لے جانا علی مال: صلح کرنا۔ تفضی البازی: باز کا ٹوٹ پڑنا۔ اس کی اصل تفضض ہے ضاد اخیرہ کو تخفیف کے لیے یا سے بدل دیا گیا ہے (واقضی) الشئ: فنا ہونا۔ فتم ہونا۔ تقاضیا الی الحاکم: دونوں کا حاکم کے پاس فیصلہ کیلئے جانا۔ تقاضاه الذین وغیرہ وبالذین: قرض کا تقاضا کرنا۔ اقضی اقتضاء الحان کذا: چاہنا۔ لازم کرنا۔ اقتضاه الذین وغیرہ: تقاضا کرنا۔ طلب کرنا۔ واقضی الامر الوجوب: صیغہ امر کا وجوب پر دلالت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”افعل ما یقتضیہ کرمک“ وہ کرو جو تمہارے کرم کا تقاضا ہو۔ استقضی استقضاء فلانا الذین: قرض ادا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ استقضی السُلطان فلانا علینا: قاضی بنانا۔ فیصلہ کیلئے طلب کرنا واستقضی فلان: قاضی بنانا جانا۔ القضی والقضاء: حکم۔ اور ج افضیة مصباح میں ہے کہ علماء قضا کا استعمال اس عبادت کیلئے کرتے ہیں جو شرعی حیثیت سے معین وقت کے علاوہ میں ادا کی جائے۔ اور ادا وہ ہے جو وقت معین میں کی جائے اور یہ وضع لغوی کے خلاف ہے لیکن دونوں وقتوں میں تمیز کے لیے اصطلاح ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قضا مراد ہے عالم عقل میں تمام موجودات کے وجود سے جو جمعہ بطریق ابداع کے ہو اور قدر مراد ہے وجود خارجی سے جو مفصل ایک کے بعد ایک ہو۔ القضی: موت۔ کہا جاتا ہے ”رجل قضی“ مرد جلد فیصلہ کرنے والا۔ القضیة: سر۔ قضی: کا اسم ہے

عند المنطقین وہ قول جس کے کہنے والے کو چاہتا چھوٹا کہا جاسکے۔ ج قضا یا القصة: ایک ترش قسم کی گھاں ج قضی وقصات وقصون۔ القاضی: فاحک شرعی۔ ج قضاة۔ قاضی القضاة: قاضیوں کا رئیس۔ چیف جسٹس۔ سم قاض زہر قاتل۔ القاضیة: قاضی کا مؤنث۔ موت۔ کہا جاتا ہے ”اتت علیہ القاضیة“ اسے موت آئی۔ القضاء اسم مالغ۔ مضبوط زورہ۔ قَط (ن) قَطًا واقطط۔ القلم ونحوہ: قلم پر قَط لگانا البیطار حافر الدابة: سلوتری کا چوپایہ کے کھر تراشا۔ قَط (نض) قَطًا وقطوطًا وقَط السعیر: بھاؤ گراں ہونا۔ صفت قَطًا وقاطط۔ قَط و قَطَط (س) قَطَطًا وقطاطة الشعر: بال چھوٹے اور گھنگریالے ہونا۔ صفت قَطًا وقطط۔ قَطَط الخراط الخشیة: خراہی کا لکڑی کو تراشا اور ہموار کرنا۔ اقطط واقطط الشئ: منقطع ہونا۔ قَط حسب کے معنی میں آتا ہے جیسے قطعی وقطک وقط زید ذہم بعتی حسنی وحسبک وحسب زید ذہم۔ فرق یہ ہے کہ قَط جی ہے اور حسب معرب۔ اور اسم فعل ہو کر بعتی بعتی بھی مستعمل ہے۔ اس صورت میں نون وقایہ کے ساتھ بنا علی السکون کی حفاظت کیلئے قطنی کہا جاتا ہے۔ اگر تقلیل کا ارادہ ہو تو ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے ما عندی الا هذا قَط اور اگر ہمزہ وصل کے ساتھ لے تو آخر کو سرہ دے دیتے ہیں۔ جیسے ما علمت الا هذا قَط الدھر اور بھی تحسین لفظ کیلئے اس کے شروع میں فاقہ داخل کرتے ہیں۔ جیسے ”زاینہ مرہ فقط“ یعنی میں نے اس کو صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا۔ قَط: ظرف زمان ہے اور استغراق ماضی

کے لیے آتا ہے اور نفی کے ساتھ مختص ہے جیسے مَا فَعَلْتُ هَذَا قَطُّ اور کبھی قَطُّ اور قَطُّ بھی کہا جاتا ہے۔

القَطُّ: لمی۔ ج قِطَاطٌ وَقِطَاطَةٌ. قَطُّ الزَّبَادِ: دیکھئے لفظ الزَّبَادِ. واحِدَةُ القَطِّ: حصّہ۔ رات کا ایک حصّہ۔ حساب کا رجسٹر۔ چکی۔ چٹھی۔ مَقْطُوطٌ.

رَجُلٌ قَطٌّ وَقِطَطٌ. چھوٹے ٹھنڈے پالے پال والا۔ ج قَطُونٌ وَقِطَاطٌ وَقِطَاطٌ وَقِطَاطُونَ وامرأة قَطَّةٌ وَقِطَطٌ. ٹھنڈے پالے پال والی عورت۔

قِطَاطٌ اسم فعل بمعنى حسب۔ القِطَاطِيُّ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والا۔

القِطَاطُ: بالوں کا ٹھنڈے پالے۔ سم کا گھیرا۔ پہلا کا کنارہ۔ نمونہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز قطع کریں ج افطّة (والقِطِيطَةُ) غار کا بالائی کنارہ مَقِطَاطٌ اور کہا جاتا ہے جَاءَتْ بِالْحَيْلِ قِطَاطٌ“ گھوڑے گروہ گروہ آئے۔

القِطَاطُ: اسم مبالغہ۔ خراہ کرنے والا۔ سِعْرٌ قِاطٌ وَقِاطِطٌ وَمَقْطُوطٌ. گرام ہمارے۔

المِقْطُ والمِقْطَةُ: قِطْرٌ۔ المِقْطُ: گھوڑے کے پہلو کی ہڈی کے سرے کا حصّہ۔

قَطْبٌ (ض قَطْبًا الشَّيْءُ): کاٹنا۔ جمع کرنا۔ الشَّرَابُ: ملوٹی کر لانا۔ بَرْتَنٌ بَهْرَانُ الرَّجُلِ: غضبناک کرنا لاجوالق: گون کے دونوں گوشوں کو ملا لاقوم: جمع ہونا۔

قَطْبٌ (ض قَطْبًا وَقَطُوبًا وَقِطَبٌ الرَّجُلِ): ترش روئی کرنا۔ مَقْتَطٌ و قَطْبُ الشَّرَابِ: ملوٹی کرنا۔

أَقْطَبُ الشَّرَابِ: ملوٹی کرنا لاقوم: جمع ہونا۔

القَطْبُ والقِطْبُ والقَطْبُ والقِطْبُ والقِطْبُ والقِطْبُ: چکی کی کیل

جس پر چکی گھومتی ہے۔

القَطْبُ: فرقدین اور جدی کے درمیان ایک ستارہ کا نام جس سے قبیلہ کی تعیین کرتے ہیں۔ مدار کار۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ قَطْبُ ذَلِكَ الْأَمْرِ“ و صَاحِبُ الْجَيْشِ قَطْبُ رُحَى الْحَرْبِ سردار قوم۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ قَطْبُ سِیِّ فُلَانٍ“ ج قِطَابٌ وَقِطُوبٌ وَقِطْبَةٌ عند الجغرافیین: زمین کے محور کا کنارہ اور وہ دو ہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی۔

القَطْبُ: کسی چیز کو لینے کے بعد باقی کو انکل سے بغیر وزن کے لینا۔ کہا جاتا ہے أَخَذَهُ قِطْبًا“ اس نے اسے انکل سے بغیر وزن کے لے لیا۔

القِطْبِيَّةُ: چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔ ایک قسم کی گھاس۔ القِطْبَةُ عند الجغرافیین: زمین کے محور کا کنارہ۔ القِطْبِيُّ: ایک قسم کی گھاس جس سے ریش بنائی جاتی ہے۔

القِطْبَانُ: ایک قسم کی گھاس۔ القِطَابُ: ملوٹی۔ گریبان کے نلنے کی جگہ۔ القِطَابَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔

القِطْبِيُّ والسَّقُوبُ ملایا ہوا۔ القِطْبِيُّ والقِطْبَةُ: اونٹنی اور بکری کا دودھ ملایا ہوا۔ القِطَابُ والقِطُوبُ: ترش رو۔ شیر۔ کہا جاتا ہے ”جاءَ وَا قِاطِبةٌ وبقِطْبِيّهم“ یعنی سب آئے اوقاطیہ حالت کی بنا پر منسوب ہے۔

قِطْرَةٌ (ن قِطْرًا): سخت پھجڑا ناخضر البعیر: اونٹ پر قِطْرَانٌ ملالغوب: کپڑے کو۔ سینا۔ اور کہا جاتا ہے ”ما أذرى من قِطْرَةٍ أو من قِطْرَةٍ“ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کون لے گیا (اور یہ نفی کے ساتھ خاص ہے) قِطْرَانٌ الرَّجُلِ: دائرہ وغیرہ کو وزن سے لینا اور ماہی کو اسی حساب سے

اندازے سے بغیر وزن کے لینا (قِطْرًا) فی الارض: جانا (قِطْرًا وَقِطْرًا) وقِطْرَانًا) الماءُ پانی کا بہنا اور قِطْرَةٌ قِطْرَةٌ بَیْطَانًا۔ الصَّمْغُ مِنَ الشَّجَرَةِ: درخت سے گوند نکالنا۔

قِطْرٌ (ن قِطْرًا وَقِطْرًا) وقِطْرٌ وقِطْرٌ الإبل: اونٹوں کو ایک قِطْرًا میں کرنا۔ کہا جاتا ہے ”قِطْرٌ البعیرُ إِلَى البعیرِ“ ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے قریب کر دیا۔ قِطْرٌ وقِطْرٌ الماءُ: ایک ایک قِطْرًا نکالنا۔ قِطْرٌ الدِّوَانِ: کشید کرنا۔ قِطْرٌ القِوَابِ: کپڑے کو عود کی دھوئی دینا۔ افطْرُ النَّبْتِ: نباتات کی خشکی شروع ہونا۔ الشَّيْءُ: ٹھکنے کا وقت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے ”طَعْنَهُ فَا قِطْرَهُ“ نیزہ مارا اور ایک جانب پر گرا دیا۔

وقِطْرٌ الماءُ: پانی کا بہنا۔ تقِطِرُ: عود کی دھوئی دیا ہوا ہونا۔ الماءُ: پانی کا بہنا اور ایک ایک قِطْرًا گرتا

وقِطْرٌ عود کی دھوئی دیا ہوا ہونا۔ الماءُ: پانی کا بہنا اور ایک ایک قِطْرًا گرتا اوپر سے پھینک دینا۔ کرغغف کذا: پیچھے رہنا۔ ایک جانب گرا دینا۔ تقاطرُ القومِ: گروہ در گروہ پے در پے آنا۔ الماءُ: پانی کا بہنا اور ایک ایک قِطْرًا گرتا

وقِطْرٌ عود کی دھوئی دیا ہوا ہونا۔ الماءُ: پانی کا بہنا اور ایک ایک قِطْرًا گرتا

کر محیط پر ختم ہو۔ و فَطْر المُرْبَعِ
والمَسْتَطِيلِ والمُعَيَّنِ اس خط مستقیم کو
کہتے ہیں جو دو مقابل زوایے کے اندر ہو۔
القَطْر والقَطْر عود۔ اگر۔

القَطْر غلے وغیرہ کو وزن سے لینا اور
جب تھوڑا سا باقی رہ جائے تو بقیہ کو اسی
حساب سے بلا وزن کے اٹکل سے لینا۔

القَطْرَةُ قَطْر کا اسم مرۃ۔ نظ ج
قَطْرَات کہا جاتا ہے ”رَمَاهُ اللّٰهُ بِقَطْرَةٍ“
اللہ اس پر مصیبت نازل کرے۔

القَطْرَةُ والقَطْرِيَّةُ معمولی چیز۔ خیس
چیز۔

القَطْرَان والقَطْرَان كوتار
کی مانند ایک چیز جو بعض درختوں سے بنایا
جاتا ہے۔

القَطْرَان والقَطْرَان المِقْطَارُ بہت
برسنے والا بادل۔ القَطْرَانُ زہر جو کثرت کی
وجہ سے ٹپکے۔

القَطْرَانَةُ قَطْرہ۔ تھوڑا پانی۔
القَطْرَانُ مِنَ الْاِبِلِ اُونٹوں کی قطار ج
قَطْر وقَطْرَات ثرین۔

القَطْرَانَةُ اُونٹوں کو ایک قطار میں ایک
کے پیچھے ایک باندھنا۔ کہا جاتا ہے ”مَرَّتْ
بِه قَطْرَانَةٌ جَمَالٍ“ اس کے اوپر اُونٹوں کی
قطار گزری۔

القَطْرَانِيُّ والقَطْرَانِيَّةُ سانپ۔
القَطْرَانِيُّ فَاكِيكِيَّةٌ والا كوند۔ دم الاخوين۔
القَطْرَانَةُ قاطر کا موٹ۔ انجن۔

المِقْطَرُ والمِقْطَرَةُ دھونی دینے کی
ا □ ج مَقَاتِرُ المِقْطَرَةُ قیدیوں کے
پیر میں ڈالنے کی لکڑی۔

المِقْطَرَةُ غلے وغیرہ کو وزن سے لینا۔
اور جب تھوڑا سا باقی رہ جائے تو بقیہ کو
اسی حساب سے بلا وزن اٹکل سے لینا اور
کہا جاتا ہے ”اَكْرَاهُ مِقْطَرَةً“ یعنی

آمدرفت کے لیے کرایہ کیا۔
المِقْطَرُ مَقَاتِرُ قَطْرَانُ ملا ہوا اَرْضُ

مَقْطَرَةٌ بارش شدہ زمین۔

قَطْرَبْ جلدی کرنا فِجْجَاثَانَا۔

تَقَطْرُبْ ہر کو حرکت دینا۔

القَطْرُبْ چور۔ چوہا بال گرا ہوا بھیڑیا۔

بھوت۔ چھوٹے جن۔ ایک کیزا جو ہر وقت

حرکت کرتا رہتا ہے۔ جاہل۔ بزدل۔

سفید۔ پچھاڑا ہوا۔ مالی خویا کی ایک قسم۔

چھوٹے کتے۔ ایک خار دار پودہ ہے کہ

گزرنے والے سے اُلجھتا ہے۔

قَطْرَانُ البَعِيْرُ اُونٹ پر قَطْرَانُ ملنا۔

قَطْعُ (ب) قَطْعًا وَمَقْطَعًا وَقَطْعَانًا

الشَّيْءُ كَاثَمًا جَدَا كَرْنَا هُ عَنْ حَقِّهِ مَنَحَ كَر

دِينَا۔ قَطْعُ الصَّلَاةِ يَاطُلُ كَرْنَا فِي الْقَوْلِ

يَقِيْنُ كَرْنَا الْبَطْرِيْقُ عَلٰى السَّالِكِيْنَ جُلِيْعٌ

وَالوِيْنَ كُو رَا سْتِے سَے رُو كِنَا اُو رُو خُو فَا كُ بِنَا۔

قَطْعُ (ب) قَطْعًا وَقَطْوَعًا النَّهْرُ نَهْرٌ

عَبُورُ كَرْنَا هُ بِالْقَطِيْعِ اُو السَّوْطِ جَمِيْعٌ يَآ

كُوْرُے سَے مَارْنَا هُ جَالِ خُجَّةٍ خَامُوشُ كَر

دِيْنَا لِاِجَابِ كَر دِيْنَا لِسَانِهِ اِحْسَانُ كَر كَے

رُبَانُ بِنْدِي كَرْنَا۔

قَطْعُ (ب) قَطْعًا وَمَقْطَعَةً رَحِمَةٌ بَرَشْتِ

دَارُوں سَے جَدَايْ اِخْتِيَارُ كَرْنَا (قَطْعَةٌ)

الصَّدِيْقُ دُو سْتِ كُو چُجُوْرُ دِيْنَا۔

قَطْعُ (ب) قَطْعًا الْخَوْضُ حَوْضُ كُو

اُدُو سَے تِكُ بَهْرُ كَر پَانِي رُو كُ دِيْنَا فُلَانٌ

الْحَبْلُ اُو بِالْحَبْلِ اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے

اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے اِنْفِے

جَدَا كَرْنَا (قَطِيْعَةٌ) السَّيْدُ عَلٰى عِبْدِهِ:

مَالِكُ كَا اِنْفِے غَلَامُ پَر تِكِيْسُ مَقْرَرُ كَرْنَا۔ كَمَا

جَاتَا بَے ”قَطْعِنِي النَّوْبُ“ كِزْرَا مِيْرَے قَد

كَلِيْعَ كَانِي بَے۔

قَطْعُ (ب) قَطْوَعًا وَمَقْطَعًا وَقَطْعَانًا

مَاءُ الْبِنْرِ كُنُوْسُ كَا پَانِي خُشْمُ هُو نَا يَا كُمُ هُو نَا۔

قَطْعَتِ الطَّيْرُ يَرِنْدُوں كَا خُشْمُے مَمَالِكُ

سَے گَرْمُ مَمَالِكُ كِي مَطْرَفُ جَانَا۔ مَفْتُ

قَوَاعِجُ

قَطْعُ (ك) قَطَاعَةٌ كَلَامُ پَر قَادِرُ نَهْ هُو نَا۔

لِسَانُهُ رُبَانُ كِي تِيْزِي كَا جَاتَا رَهْنَا۔

قَطَعْتُ (س) قَطْعًا وَقَطْعًا وَقَطْعَةً

وَقَطْعَانًا يَدُهُ بَرَشْتِ كِي وَجْهَے يَا كَانْتِے

سَے جَدَا هُو نَا۔

قَطْعُ النَّفْسِ سَانَسُ كَثُ جَانَا الرَّجُلُ:

عَاجِزُ هُو نَا يَا نَا مِيْدُ هُو نَا بَے: اَرَزُو پُوْرِي

هُو نَے سَے پِہْلَے رُو كَا جَانَا۔ مَفْتُ مَقْطُوْعٌ

بَے۔

قَطْعُ الشَّيْءِ كَلْرَے كَلْرَے كَرْنَا الشَّعْرُ:

شَعْرُ كِي تَقْطِيعُ كَرْنَا الْخَمْرُ بِالْمَاءِ بِشْرَابِ

مِيں پَانِي مَلَانَا الْفَرَسُ الْخَيْلُ كَهُوْرُے كَا

سَبَقْتُ كَرْنَا اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ كُونَا كُوں

عَذَابُ دِيْنَا الْفَرَسُ الْجَرِيُّ نَشَاظُ كِي وَجْهَے

سَے نَمُّ قَسْمُ كِي چَالُ چَلْنَا اُو رُو كَا جَاتَا بَے

”قَطْعِنِي النَّوْبُ“ كِزْرَا مِيْرَے قَد كَلِيْعَ كَانِي

بَے و ”هَذَا النَّوْبُ يَقْطَعُكَ قَمِيْصًا“ يَے

كِزْرَا تَهْمَارَے كَرْتِے كَے لِے كَانِي بَے۔ كَمَا

جَاتَا بَے ”قَطْعُ فِي بَطْنِي“ اس كَے پِيْثِ

مِيں مَرُوْرُ هُو۔

قَاطِعَةٌ مَقَاطِعَةٌ قَطْعُ تَعَلُقُ كَرْنَا۔ قَاطِعُ

الْاِحْبِرْ عَلٰى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْاِحْبِرِ

وَالْعَمَلِ اَجْرَتُ پَر كَامُ طَے كَرْنَا فُلَانٌ

فُلَانًا يَسْفِيْهُمَا: اِيْكُ دُو سَرَے كُو تَلَوَارُ

دَكْهَانَا كَهْ كَسُ كِي تَلَوَارُ عَمَدُ بَے وَقَاطِعُوْنَا

لِحُوْمِهِمُ بِالسَّيْفِ: اِيْكُ دُو سَرَے كَے

كُو شُتُ كُو كَانْنَا۔

اَقْطَعُ الرَّجُلُ لِاِجَابِ هُو نَا عَنِ اَهْلِيْهِ:

اِنْفِے اِلْ سَے جَدَا هُو نَا مَاءُ الْبِنْرِ كُنُوْسُ كَا

پَانِي خُشْمُ هُو نَا فُلَانًا: نَهْرُ عُبُورُ كَرْنَا هُ

الْحَطْبُ: كَلْرِي كَانْتِے كِي اِحَا زَتُ دِيْنَا هُ

بِالْحُجَّةِ بَرِيْلُ سَے خَامُوشُ كَر دِيْنَا الْاِمِيْرُ

الْحِنْدُ الْبِلْدُ جَاغِيْرُ دِيْنَا۔ اَقْطَعْتُ السَّمَاءُ بِنُوعِ

مَنْقَعِ هُو نَا۔ اَقْطَعْتُ السَّمَاءُ بِنُوعِ

كَذَا: بَارَشُ رُكُ جَانَا۔ اَقْطَعُ الْقَوْمُ قَوْمُ

سَے بَارَشُ كَا مَنْقَعِ هُو نَا الدَّجَا حَے بَرَشِي كَا

اِنْفِے دِيْنِے سَے رُكْنَا۔ كُرْكُ هُو نَا اُو رُو كَمَا

جاتا ہے "اقطعني الثوب" کپڑا میرے قامت کے لیے کافی ہے۔

تَقَطَّعَ كُنْثًا كَلَّرَ كَلَّرَ هَوَانًا تَقَطَّعَ الظِّلُّ: سمنہ۔ کم ہونا۔ تَقَطَّعُوا امْرَهُمْ بَيْنَهُمْ: اپنے درمیان معاملہ میں تفریق کر لیا۔ کہا جاتا ہے تَقَطَّعَتْ عَلَيَّ هَذَا الْجَوَادُ اغْنَائِي الْخَيْلِ: یعنی اس گھوڑے سے گھوڑوں کی گردنیں نہیں ملیں۔

انْقَطَعَ كُنْثًا: وقت ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے "انْقَطَعَ الْحَرُّ وَالْبُرْدُ" گرمی یا سردی ختم ہوگی۔ انْقَطَعَ السَّيْفُ: تلوار کا نوٹا مآء البئر: کنوئیں کا پانی ختم ہونا الغيث بارش کا رگنا الكلام: کلام کا رگ جانا النهر: نہر کا خشک ہونا یا روک دیا جانا اللين: دودھ میں پانی کا حصہ خشک ہو جانا لسانه زبان کی تیزی کا جاتا رہنا ابي فلان: خاص تعلق رکھنا۔

انْقَطَعَ بِالسَّافِرِ: سواری کے جانور کا ہلاک ہونا یا زاہ راہ کا ختم ہونا۔ صفت منْقَطَعٌ بِهِ: تقاطعاً: ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا۔ تقاطع الشيء: جدا جدا ہونا۔

اقْطَعْ مَالَ فُلَانٍ: اپنے لیے لینا مِنْ الْمَالِ قِطْعَةً: کچھ لینا مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن کا سب کچھ پی لینا۔

اسْتَفْطَعَهُ بَلَدًا أَوْ نَوْبًا: جاگیر دینے کو کہنا۔ کپڑا قطع کرنے کو کہنا۔

اقْطُوْطَعْتَ الطَّيْرَ: پرندوں کا سرد ممالک سے گرم ممالک کی طرف جانا۔

الْقَطْعُ: من کہا جاتا ہے "الْأَمْرُ وَاقِعٌ قَطْعًا" یعنی امر یقیناً واقع ہے۔ "وَأَيْبِي أَقْطَعُ بِذَلِكَ قَطْعًا" میں اس کا یقین رکھتا ہوں۔

الْقَطْعُ: درخت کا کاٹنا ہوا کلا۔ نیزے کا چوڑا اور چھوٹا پھل جِ أَقْطَاعٍ أَقْطَعُ وَقَطَاعٍ: سوار کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ ایک قسم کا متش کپڑا رات کا ایک کلا۔

جِ قُطُوْعٍ وَأَقْطَاعٍ: کہا جاتا ہے "نُوبٌ قِطْعٌ أَوْ أَقْطَاعٌ" کٹا ہوا کپڑا۔

الْقَطْعُ: پیٹ کا درد اور مروڑ۔ سانس پھولنا (والقُطْعَةُ) گرمی کی وجہ سے کنوئیں کے پانی کا خشک ہونا۔

الْقَطْعُ فِي الْفَرَسِ: گھوڑے کی بعض رگوں کا کٹنا۔

الْقَطْعُ وَالْقِطْعَةُ: رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔

الْقَطْعُ: جس کی آواز بند ہو جائے۔

الْقِطْعَةُ: چیز کا حصہ۔ جِ قِطْعٍ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّعْرِ: دس یا سات یا اس سے کم اشعار کی نظم۔

الْقِطْعَةُ: زمین کا کلا۔ جو کسی کو دینے کے لئے جدا کیا جائے۔ کاٹا ہوا کلا۔ سفید آٹا۔ سفید آٹے کی بھوسی۔ کتاب کی فصل۔ جِ قِطْعٌ وَقِطْعَاتٌ (والقِطْعَةُ) کاٹنے کی

جگہ۔ کٹے ہوئے ہاتھ کا بقیہ۔ جِ قِطْعٍ وَقِطْعَاتٍ قِطْعَاتُ الشَّجَرِ وَقِطْعَاتُهَا وَقِطْعَاتُهَا: درخت کی گرہ کے اطراف کہ جن کے کاٹ دینے کے بعد پھر دوبارہ نکلے۔

الْقِطَاعُ: کاٹنے کا آلہ۔ جِ قِطْعَةٌ (والقِطْعُ) رات کی پہلی تہائی۔ القِطَاعُ وَالْقِطْعُ: درانہم۔

الْقِطَاعَةُ: کاٹنے میں جو گرے۔ کاٹا ہوا کلا لقمہ جس میں سے آدھا کھا لیا جائے اور آدھا رہنے دیا جائے۔

الْقِطَاعَةُ: فی اصطلاح عامة النصارى: گوشت اور بعض کھانے کی چیزوں سے بعض مخصوص دونوں میں پرہیز۔

الْقِطْعُ: بکریوں اور چوپایوں کا گلد۔ جِ قِطْعَانٌ وَقِطَاعٌ وَأَقْطَاعٌ وَجِ أَقْطَاعِيٌّ: چمچ۔ جس سے تیر بنایا جائے۔ درخت یا شئی سے جو کاٹا جائے۔ جِ قِطْعَانٌ وَقِطَاعٌ وَالْقِطْعَةُ وَالْقِطْعُ وَالْقِطَاعُ وَقِطْعٌ وَقِطْعٌ

وَقِطْعَاتٌ نظیر۔ شبیہ۔ جسے "هُوَ قِطْعِيَّةٌ" وہ خلقت اور قد میں اس کے مشابہ ہے جِ قِطْعَاءٌ وَأَقْطَاعٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ قِطْعِيَّةٌ الْقِيَامُ" وہ بوجہ ضعف یا فریبی کے اٹھنے سے عاجز ہے "وَأَمْرًا قِطْعِيَّةً الْكَلَامُ" کم سخن عورت۔ "رَجُلٌ قِطْعِيَّةٌ" سانس پھولا ہوا مرد۔ مؤنث۔ قِطْعِيَّةٌ: امْرَأَةٌ قِطْعِيَّةٌ وَقِطُوْعٌ كَلَّرَ هَوَانًا: ہونے میں سست عورت۔ کہا جاتا ہے اتَّقُوا الْقِطْعِيَّةَاءَ: قطع تعلقات سے بچو۔

الْقِطْعِيَّةُ: جدائی۔ وظیفہ۔ قطع تعلقات۔ ٹکیں۔ جاگیر۔ جِ قِطَاعِيٌّ: الاقْطَاعَةُ: جاگیر۔ جِ أَقْطَاعَاتٍ: التَّقْطِيعُ: سہ پیٹ میں مروڑ۔ تَقْطِيعُ الرَّجُلِ: قد و قامت۔ جِ تَقْطِيعُ الْأَقْطُوْعَةِ: قطع تعلقات کی علامت جو ایک دوسرے کو بھیجے۔

القِطَاعُ: فاد روکنے والا۔ کاٹنے کا آلہ۔ نمونہ جس پر کپڑا وغیرہ قطع کیا جائے۔ کہا جاتا ہے قِطْعُ الْأَدِيمِ عَلَى الْقِطَاعِ: کین قِطَاعِيٌّ: کٹا دودھ بُرْهَانَ قِطَاعِيٌّ: ایسی دلیل جو سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے والی ہو۔ سَيْفٌ قِطَاعِيٌّ: شمشیر ہرا۔ قِطَاعِيٌّ الطَّرِيقُ: چور ڈاکو جِ قِطْعٌ وَقِطَاعٌ: القِطَاعَةُ: قاطع کا مؤنث جِ قِطَاعِيٌّ: طَيْرٌ قِطَاعِيٌّ: جالے اور گرمی میں ایک جگہ نہ رہنے والے پرندے۔

القِطَاعُ: اسم بھالغ۔ القِطَاعُ فِي اصطلاح البنائين: پتھر کاٹنے والا۔ القِطُوْعُ: بہت کاٹنے والا مِنَ النَّوْقِ: اونٹنی جس کا دودھ جلدی سے ختم ہو جائے۔

الْأَقْطَعُ: کٹے ہوئے ہاتھ والا۔ بہر۔ مؤنث قِطْعَاءُ جِ قِطْعٌ وَقِطْعَانٌ: رَحْمٌ قِطْعَاءُ: قطع تعلقات۔

الْمَقْطَعُ: کاٹنے یا کٹنے کی جگہ جِ مَقْطَاعِيٌّ: کہا جاتا ہے "شَرَابٌ لَدِيدٌ الْمَقْطَعُ" پینے

محقق دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتے ہیں واحد قَطْلَبَةٌ .
 قَطْمًا (لش) قَطْمًا دانت سے کاٹ کر
 چکنا۔ قَطْمُ الْعُودِ دانت سے کاٹ کر سختی
 نرمی معلوم کرنا۔
 الشَّيْءُ كَأَنَّ اللَّحْمَ وَغَيْرَهُ بَشُوتٍ وَغَيْرِهِ
 کا خواہش مند ہونا الصَّفْرُ إِلَى اللَّحْمِ:
 شکرہ کا گوشت کا خواہش مند ہونا۔
 قَطْمٌ (س) قَطْمًا گوشت وغیرہ کا خواہش
 مند ہونا۔ صفت قَطْمٌ .
 قَطْمُ الشَّارِبِ پینے والے کا چکھنا اور منہ
 بنانا۔
 القَطَامُ شکر۔ گوشت کا خواہش مند
 شکر۔
 القَطَامِيُّ وَالْقَطَامِيُّ تيز نظر کا شکر جو
 شکر کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہو۔
 القَطَامِيُّ وَالْقَطَامِيُّ تيز شراب۔ رَجُلٌ
 قَطَامِيٌّ معاملات میں خود سر مرد۔
 القَطَامَةُ جو منہ سے کاٹا جائے پھر پھینک
 دیا جائے۔
 القَطْمُ غصینا۔
 القَطِيمَةُ دودھ جس کا مزہ متغیر ہو گیا
 ہو۔ کَلَرٌ عَلَّةٌ كَأَنَّ لَبًا۔ کہا جاتا ہے
 شَيْءٌ مُزٌّ الْمُقَطَّمُ زے کے لحاظ سے کھٹ
 مٹی چیز۔
 الْمُقَطَّمُ چنگل ج مقاطم۔
 الْمُقَطَّمُ بصر کے ایک پہاڑ کا نام۔
 القَطْمِيرُ والقَطْمَارُ کھجور کی کھنکھل کے
 شگاف کا باریک چھلکا یا کھجور کی کھنکھل کے
 اوپر باریک چھلکا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَصَبْتُ
 مِنْهُ قَطْمِيرًا" یعنی میں نے اس سے کچھ
 نہیں پایا۔ القَطْمِيرُ صحابہ کھف کے کتے
 کا نام۔ اور امام ابن کثیر مفسر ج کے نزدیک
 قَطْمُورٌ ہے۔
 قَطْنٌ (ن) قَطُونًا فِي الْمَكَانِ وَبِهِ:
 اقامت کرنا۔ وطن بنانا۔ الرَّجُلُ خَدَمْتُ
 کرنا۔
 قَطْنٌ (س) قَطْنَا ظَهْرَهُ بِبَيْتِهِ كَأَنَّهَا

صفت أَقْطَنُ .
 قَطْنُهُ بِالْمَكَانِ اقامت کرنا۔ قَطْنُ
 الْكُرْمِ كُرْمٌ كَيْلٌ كَأَنَّ وَادٍ هُوَ .
 القَطْنُ س۔ اقامت کی جگہ۔ پرندہ کی دم
 کی جز۔ دونوں سرینوں کے درمیان۔ پشت
 انسانی کا پست اور ہموار حصہ۔ ج أَقْطَانُ .
 القَطْنُ والقَطْنُ رُودِيٌّ۔ ایک کٹڑے کو
 قَطْنَةٌ کہتے ہیں اور قَطْنُ اسم جنس ہے اور
 کبھی اس کی جمع أَقْطَانٌ آتی ہے۔
 القِطْنَةُ والقِطْنَةُ اوجھ کا پرت دار حصہ۔
 القِطْنَةُ ہرنیوں کے درمیان کا گوشت۔
 القِطَانُ ہودج کی کٹڑی۔ ج قُطْنٌ .
 القِطَانَةُ ہانڈی۔ دیک۔
 القِطِيَّةُ والقِطِيَّةُ دانے جو پکائے
 جائیں۔ جیسے سورا چنا وغیرہ۔ ج قِطَانِيٌّ .
 رُودِيٌّ کے بنے ہوئے کپڑے۔
 القِطَانُ نَا۔ ج قُطَانٌ وَقِطَانَةٌ وَقِطِينٌ .
 القِطِينُ بمعنی قِطَانٌ۔ جمع قِطَانٌ۔ گھر کے
 لوگ۔ خادم۔ نوکر چاکر (واحد و جمع) یا ج
 قُطْنٌ کہا جاتا ہے "هُوَ لَاءٌ قِطِينٌ فُلَانٌ"
 یعنی یہ لوگ فلاں کے نوکر چاکر ہیں۔
 "قِطِينُ اللَّهِ" اللہ کے حرم کے رہنے
 والے لوگ۔
 القِطِينَةُ گھر کے رہنے والے۔
 القِطَانُ رُودِيٌّ كَأَنَّ يَجِيءُ وَاللَّ .
 قِطَانَاتٌ مَكَّةٌ وَقِطَانِيَّةٌ كَقَبْرَةٍ .
 القِطَانُ رِثْمٌ وَغَيْرُهُ سَ جُورِ رِثْمٍ كَأَنَّ
 بنا جائے۔
 الْمُقِطْنَةُ زمین جس میں رُودِيٌّ بُوِي
 جائے۔
 القِطِينُ بیل والی نباتات جیسے کھیرا
 کٹڑی وغیرہ۔ کدو کیلئے اکثر مستعمل ہے
 واحد يَقِطِينَةٌ .
 القِطُونُ بڑے کرہ میں چھوٹا کرہ۔
 قَطًا يَقْطُو قَطُونًا يُوْجَمَلُ جَالٌ سَ چلنا۔
 القِطَانُ جَا كَأَنَّ الْمَاشِيَّ آهْتَهُ چلنا
 یا نشاط سے چلنا۔

تَقَطَّعَ . دیر کرنا۔ الفُرْسُ بَهِوْرَے کے
 پٹھے پر سوار ہونا لِأَصْحَابِهِ سَاحْتِيوں کو
 فریب دینا بِوَجْهِهِ عَنَهُ رُودِيٌّ كَرْنَا
 اعراض کرنا۔
 أَقْطَوِيٌّ آهْتَهُ چلنا یا نشاط سے چلنا۔
 القِطَاطُ کبوتر کے برابر ایک پرندہ۔ ج
 قَطَاً وَقِطَوَاتٌ وَقِطِيَّاتٌ . القِطَاةُ مِنْ
 الدَّابَّةِ بِوَجْهِهِ رُودِيٌّ كَقَبْرَةٍ كَقَبْرَةٍ
 دونوں سرینوں کے درمیان۔ کہا جاتا ہے
 "ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ يَقْطَا" زمین میں
 متفرق ہوئے۔
 القِطْوَانُ والقِطْوَانُ وَالقِطْوَانِيُّ آهْتَهُ
 چلنے والا۔ القِطْوَانِيُّ بَنِي نَاطِلِوں والا۔
 القِطِيَّةُ تَارِيْلٌ كِي جَمَالٌ كِي رِثْمِيٌّ .
 قَعْلَانٌ قَعَابٌ بَاقِيٌّ سَ كَقَبْرَةٍ كَرْنَا .
 أَقْعُ الْقَوْمِ كَقَبْرَةٍ كَرْنَا قَعَابٌ بَاقِيٌّ
 کرنا۔
 القَعُّ والقَعَابُ مِنَ الْمِيَاهِ بہت زیادہ
 کھاری پانی کہ اس سے زیادہ کھاری پانی نہ
 ملے۔
 قَعْبُ الْحَافِرِ سَمٌ كَأَنَّ دَارَ هُوَ فُلَانٌ
 فِي الْكَلَامِ حَلَقٌ كَقَبْرَةٍ كَرْنَا سَ
 بولنا۔
 القَاعِبُ بَلْبَانَةٌ وَاللَّ بَهْرِيٌّ .
 القَعْبُ بَزَا بِيَالَهُ جَ أَقْعَبٌ وَقَعَابٌ
 وَقَعْبَةٌ قَعْبُ الْكَلَامِ كَلَامٌ كِي كَرْنَا .
 القَعْبَةُ پھاڑ کا گڑھا۔
 القَعْبِيُّ عِدْوٌ كَثِيرٌ .
 القَعْبِيُّ : عِدْوٌ كَثِيرٌ .
 القَعْبِيُّ والقَعْبِيُّ سَابِ كِي چھتری کی
 ایک قسم۔ القَعْبِيُّ دودھ دہنے کا پیالہ۔
 نَرْدُورٌ خَوْ .
 قَعْتَانٌ قَعْنَا وَقَعْتَةٌ لَهُ مِنَ الشَّيْءِ:
 لَبٌ بَحْرٌ دِينَا (وَقَعْتُ) الشَّيْءُ جَزَ سَ
 آکھیرنا۔
 أَقَعْتُ فِي مَالِهِ بَعْضُ خَرْبِي كَرْنَا لَهُ
 العَطِيَّةُ بہت دینا۔

اِقْتَعَتِ الْحَافِرُ: کھودنے والے کا کنوئیں سے بہت مٹی نکالنے کی عقیبتہ: بہت دینا۔ اِنْفَعَتْ: جز سے آگے رہنا الحائط: دیوار کا جز سے گرنے۔ القعیث: آسان۔ موسلا دھار بارش۔ بڑا سیلاب۔

قَعْدٌ (ن) قُعُودًا وَمَقْعَدًا: کھڑے سے بیٹھا (قُعُودًا) کھڑا ہونا۔ قَعْدِيَّةٌ: بھاننا۔ قَعْدٌ عَنِ حَاجَتِهِ: پیچھے رہنا فَلَانٌ بِقَرْنِهِ: ہسر ہونا۔ اور کہا جاتا ہے ”قَعْدِيٌّ بِي عَنكَ شُغْلٌ“ مجھ کو تم سے کام کاج نے روک دیا لِلْحَرْبِ: جنگ آزما۔ لوگوں کو مہیا کرنا۔ قَعْدَتِ التَّخَلُّةُ: دوسرے سال پھیل دینا الفسيلة: پودے کا تنہ والا ہونا۔ المرأة: عورت کے شوہر کا لاپتہ ہونا۔ اور صار اور طفق کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ”قَعْدٌ يَسْتَمْنِي“ وہ مجھے گالی دینے لگا۔

قَعْدَةٌ: خدمت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”قَعْدٌ اَبَاهُ“ اس نے اپنے باپ کو بٹھا دیا۔ یعنی اس کی کمائی اس کے باپ کے لیے بھی کافی ہے۔ قَعْدَةٌ عَنِ كَذَا: روک دینا۔

اَقْعَدَهُ: بھاننا۔ اَقْعَدَهُ عَنِ الْاَمْرِ: روک دینا اَقْعَدَ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا الرَّجُلُ: کھڑا کرنا۔ خدمت کرنا اَبَاهُ: کمائی کی مشقت کے لیے کافی ہونا البئر: کنواں بیٹھنے کے لائق کھودنا اور پانی تک نہ پہنچنا۔ اَقْعَدَ: قُعَاد کی بیماری والا ہونا (قُعَاد ایک بیماری ہے جس میں آدمی چلنے پھرنے سے معذور رہتا ہے)

تَقَعَّدَ: توقف کرنا ہ مال منول کرنا۔ کام کا انتظام کرنا تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب کرنے کو چھوڑنا۔ مَقَاعِدَةٌ مَقَاعِدَةٌ: دوسرے کے ساتھ بیٹھنا۔

تَقَاعَدَ بِهِ فَلَانٌ: حق ادا نہ کرنا۔ اِقْتَعَدَ الدَّابَّةَ: چوپایہ کو سواری بنانا۔

کہا جاتا ہے ”مَا اِقْتَعَدَكَ عَنهُ“ کس چیز نے تم کو اس سے روکا۔ القعد: وہ لوگ جو شریک جنگ نہ ہوں۔ فوجی لوگ جن کی تنخواہ مقرر نہ ہو۔ خوارج۔

القعدة قعد کا اسم مرتہ۔ انسان کے لیے سواری (غالچہ) (القعدة) اتنی جگہ جو بیٹھنے میں گھرے۔ القعدة: بیٹھنے کی ہیئت۔ بنو قعدة: انسان کے بیٹھنے کی مقدار کا گڑھا۔ ذُو القعدة و ذُو القعدة: قمری مہینوں میں سے گیارہواں مہینہ۔

القعدة: بیٹھنے کی چیز۔ گدھا من الابل: چرواہے کے لیے ہر حاجت میں سواری کا اُونٹ ج قعدات۔

القعدة: سواری۔ غالیچہ۔ القعدة: بہت بیٹھنے والا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ قَعْدَةٌ ضَجْعَةٌ“ وہ بہت بیٹھنے والا لینے والا ہے۔ یعنی بہت کمال ہے۔

الاقعاد والقعاد: ایک بیماری ہے جس کو یہ لاحق ہوتی ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے۔ القعاد: بیوی۔

القاعد: ج قعود: نلے سے بھرے ہوئے گون۔ عورت جس کے لڑکا اور شوہر کوئی نہ ہو۔

القاعدة: قاعد کا مؤنث۔ قاعدة التمثال: وہ بلند چوہترہ وغیرہ جس پر مجسمہ نصب کیا جائے والقاعدة من البيت: بنیاد من اليهودج: ہودہ کی ککڑی من البلاد: بڑا شہر ج قواعد والقاعدة فی الاصلاح: اصل کلی جو سارے جزئیات پر منطبق ہو۔

القعدی والقعدیة والقعدیة بہت بیٹھنے والا۔ القعدی: عاجز۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ قَعْدِيٌّ ضَجْعِيٌّ“ بہت بیٹھنے اور لینے والا مرد۔

القعود والقعودة من الابل: چرواہے کا

ہر حاجت میں سواری کا اُونٹ۔ القعود: اُونٹ کا بچہ۔ جوان اُونٹ۔ ج اَقْعَدَةٌ وَقُعْدُو قُعَادًا وَقُعَادًا۔

القعیذ: (واحد جمع مذکر مونث) ہم نشین۔ نگہبان۔ مڈی کہ ابھی اس کے پر اچھی طرح سے نہ نکلے ہوں۔ پرندہ یا ہرن جو تمہارے پیچھے سے آئے اور اس سے بدنالی لی جائے (اور یہ نطیح کے خلاف ہے) قعیذ اکل امرئ: دائیں بائیں کے محافظ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ قَعِيدٌ النَّسَبِ“ فلاں قریب النسب ہے۔

القعیذ: تعویذ کی تصویر۔ اور اسی سے مثل ہے ”اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ“ جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقعد النسب: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔ القعیذہ: عورت۔ بیٹھنے کی چیز۔ بور۔ ج قعاد۔

المقعد: بیٹھنے کی جگہ۔ ج مقاعد۔ المقعدة: بیٹھنے کی جگہ۔ شخص کا نچلا حصہ۔ پانخانہ کرنے کا برتن۔

المقعد: قعاد کی بیماری والا۔ اپانج۔ اجمری ہوئی پستان۔ گدھ کا بچہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مَقْعَدٌ الْاَنْفِ“ یعنی اس کے نچھے کشادہ ہیں و ”فَلَانٌ مَقْعَدٌ الْحَسْبِ“ فلاں شریف نہیں ہے۔

المقعدة: مقعد کا مؤنث۔ کنواں کھودا جائے اور بغیر پانی نکلے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔

المقعدات: مینڈکیں۔ قطا کے بچے اٹھنے سے پہلے۔

القعد والقعد والقعد والقعد مؤنث اعلیٰ سے قریب النسب۔ مورث اعلیٰ سے بعید النسب (ضد) القعد: بزدل۔ کمینہ۔ مکارم اخلاق سے باز رہنے والا۔ گنہگار۔

رَجُلٌ قَعْدُوْدَةٌ. بزدل۔

قَعْرَهُ (ف) قَعْرًا. بچھاڑنا۔ قَعْرَ الشَّجَرَةِ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا الاناء: برتن سے سب کچھ پی لینا البئر: کنوئیں کی گہرائی میں اترنا۔ گہرا کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاءِ: بکری کا ناتمام بچہ گرانہ۔

قَعْر (ك) قَعَارَةُ الْمَاءِ: پانی بہت گہرائی میں ہونا۔

قَعْرَ الْبَيْتِ: کنوئیں کو گہرا کرنا فی كَلَامِهِ: حلق سے بولنا الرَّجُلُ: چچھاڑنا الشَّيْءُ: گہرا بنانا۔ وَقَعْرَتِ الشَّاءَ: بکری کا ناتمام بچہ گرانہ۔

أَقْعَرَ الْبَيْتَ: کنوئیں کو گہرا کرنا النَّجْمُ: ستارے کا برتن کے پیندے میں ظاہر ہونا۔

تَقَعَّرَ: گہرا ہونا۔ بچھاڑنا۔ مقلب ہونا فی كَلَامِهِ: حلق سے بولنا الشَّيْءُ: گہرا ہونا۔

انْقَعَرَ: اکھڑنا۔ مرنا۔

القَعْرُ: س من كُلِّ شَيْءٍ: گہرائی۔ القَعْرُ: پڑا پیالہ۔ پست زمین۔ عقل کال۔ قَعْرُ الفم: منہ کا اندرونی حصہ ج قَعْوَرٌ اور کہا گیا ہے ”مَا فِي هَذَا الْقَعْرِ مِثْلُهُ“ یعنی اس شہر میں اس جیسا کوئی نہیں۔ و جَلَسَ فُلَانٌ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ“ کنایہ ہے ہمیشہ گھر میں رہنے سے۔

القَعْرَةُ وَالْقَعْرَةُ: جو چیز پیالہ کے گڑھے کو چمپالے۔ القَعْرَةُ: پست زمین۔ کہا جاتا ہے اِنَاءٌ قَعْرَانٌ وَمِقْعَارٌ زِيَادَةٌ گہرا پیالہ وَقِصْعَةٌ قَعْرِيٌّ: پیالہ جس میں کوئی چیز ہو جو اس کے گڑھے کو چمپالے۔ وَقَدَحٌ قَعْرَانٌ: گہرا پیالہ۔

القَعْوَرُ وَالْقَعِيرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَيْعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعَبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔

الْمُقْعَرُ: گہرا۔ الْمُقْعَرَمِنَ الْخُطُوْبُ: دھنسی ہوئی کبیریں۔

القَعْوَرُ: گہرا کنواں۔

قَعْرَطٌ قَعْرَطَةٌ: اُجَارْنَا۔ ویران کرنا۔ ڈھانا۔

قَعْرَ (ف) قَعْرًا: الاناء: برتن کو بھرنا مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن سے سب کچھ پی جانا۔

قَعَسَ (س) قَعْسًا وَاقْتَعَسَ: سینہ لگانا اور پیٹھ دھنا۔ صفت قَعَسَ ج قُعْسَانٌ وَأَقْعَسَ مَوْتٌ قَعْسَاءٌ ج قُعْسٌ۔

قَعَسَ (ن) قَعْسًا: سینہ اُبھار کر اور پیٹھ دھنا کر چلنا الشَّيْءُ: موڑنا۔

قَعَسَ (ض) قَعْسًا: بختک سینہ اُبھار کر اور پیٹھ دھنا کر چلنا۔

أَقْعَسَ: تو اُگر ہونا۔

تَقَاعَسَ: سینہ نکالنا عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا فُلَانٌ: سینہ نکالنے والے کے مشابہ ہونا الْفَرَسُ وَغَيْرُهُ: ہانکنے والے کے تابع نہ ہونا الْعُزُّ: عزت کا پائیدار ہونا۔

القُعَاسُ: ایک بیماری جس سے کبیریاں بہت مرتی ہیں۔

الْأَقْعَسُ: بلند۔ عِزٌّ أَقْعَسٌ: عزت ثابت۔ مَوْتٌ قَعْسَاءٌ ج قَعَسٌ وَعِزَّةٌ قَعْسَاءٌ: عزت۔ پائیدار۔ لَيْلٌ أَقْعَسٌ: لمبی رات۔ بَعِيرٌ أَقْعَسٌ: سر پیٹھ گردن جھکا ہوا اُونٹ۔ فَرَسٌ أَقْعَسٌ: پست پیٹھ کا گھوڑا۔

الْمُقْعَسِيسُ: نا۔ سخت۔ ج مِقَاعِيسٌ وَ مِقَاعِيسٌ۔

تَقَعَّوَسَ الشَّيْخُ: بہت بوڑھا ہونا الْبَيْتُ: گہرا الرَّجُلُ: پیچھے ہٹنا اور آگے نہ بڑھنا۔ الْقَعْوَسُ: بہت بوڑھا۔ مَضْبُوطٌ پِیْثٌ وَاللَّاحِقُ قَعْسَبٌ قَعْسَبِيٌّ: خوف کی وجہ سے تیز دوڑنا۔

القَعَايِبُ: بلند قامت۔

قَعَسَرٌ قَعْسَرَةٌ: مضبوطی سے پکڑنا۔ قَعَسَرَ عَلَيْهِ: قوی ہونا الشَّيْءُ: سخت ہونا۔

القَعْسَرِيُّ: مضبوط اُونٹ۔ چکی کا حصا (Handel) عِزٌّ قَعْسَرِيٌّ: عزت قدیم۔ اصلی عزت۔

قَعَشَ (ف) قَعَشًا. الْحَانِطُ: دیوار گرانہ ڈھانا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

انْقَعَشَ: گرانہ الْقَوْمُ: جانا۔

القَعَشُ: س۔ ہودہ کی مانند عورتوں کی سواری ج قَعُوشٌ۔

قَعَصَهُ (ف) قَعَصًا وَاقْتَعَصَهُ: جگہ پر نقل کرنا۔ جگہ پر مار ڈالنا۔

قُعِصَتِ الشَّاءُ: قُعَاصُ کی بیماری ہونا۔ (دیکھو قعاص) دودھ دوہنے میں مارنے والی ہونا۔

انْقَعَصَ: جگہ ہی پر مرنا الشَّيْءُ: مرنا۔

القُعَاصُ: ایک بیماری ہے جو سینہ میں ہوتی ہے اور گردن کو توڑ دیتی ہے۔

القُعُصُ: س۔ فی الفور موت۔ منہدم شدہ مکان۔

القُعَاصُ وَالْمِقْعُصُ وَالْمِقْعَاصُ: شیر جو شکار کو فوراً مار ڈالے۔

القُعُوصُ: بکری جو دوہنے والے کو مارے اور دوہنے نہ دے۔

قَعَصَ (ن) قَعَصًا الْفُصْنَ: شاخ کو موڑنا۔

انْقَعَصَ: جھکانا۔

القُعُصُ: س۔ جھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”عُوْدٌ قَعُصٌ“ جھکی ہوئی کڑی۔ یہ وصف بالصدر ہے۔

قُعُصَبٌ قُعُصَبَةٌ: جڑ سے اکھیڑنا۔

القُعُصَبُ: بہت دلیر۔ قوی۔ القُعُصَبِيَّةُ: تخی۔

قَعَطَ (ف) قَعَطًا: بہت چچھاڑنا۔ بزدل ہونا۔ خشک ہونا فُلَانٌ: دکھا دینا۔ بچھاڑنا۔

الشَّيْءُ: ضبط کرنا عَنِ وَجْهِهِ: چہرہ کھولنا۔ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا (وَاقْتَعَطَ) الْعِمَامَةُ: سر پر پگڑی باندھنا۔ قَعَطَ وَقَعَطَ الدَّابَّةَ: چوپایہ کو تیز ہانکنا۔ صفت قَعَاطٌ وَقَعَطَ وَقَعَطَ عَلَيَّ غَرِيْمُهُ: قرض دار پر سختی کرنا۔ تقاضا کرنے میں سختی کرنا۔ وَقَعَطَ فِي الْقَوْلِ: بیوہہ بکنا۔

قَعَطَ (س) قَعَطًا ذلیل ہونا۔

أَقْعَطَ: سخت چننا فِي الْقَوْلِ: بیہودہ بکنا۔
أَقْعَطَةُ: ہانت کرنا۔ ذلیل کرنا الْقَوْمَ عَنهُ:
علحدہ ہونا۔ جدا ہونا فِي التَّوْبَةِ: پیچھے دوڑنا۔
تَقَعَطَ: وانْقَطَعَ السَّحَابُ: بادل کا کھل جانا۔

القَاعِطُ: فا۔ قرض دار پر سختی کرنے والا۔

القُعَاطُ وَالْمُقْعَطُ: سخت قسم کا گھمنڈی۔
القُعْطُ: بہت بکریاں۔

المُقْعَطُ وَالْمُقْعَطَةُ: عمامہ۔ پگڑی جو سر کے اوپر باندھی جائے۔

قَعَطَبَ: الشَّيْءُ كَالثَّأْنِ: قَعَطْرَةٌ: پھاڑنا۔ مضبوط باندھنا۔ قَعَطَرُ: الإِنَاءُ بَرْتَنُ بَرْتَنٍ: اِفْعَطَرُ سَائِسٌ: منقطع ہونا۔

قَعَطَلَةٌ: پھاڑنا۔ قَعَطَلُ عَلِيٍّ غَرِيْبُهُ: قرض دار سے قرض کے مطالبہ میں سختی کرنا۔

القَعَطَلُ: تیز۔ جلد باز۔

قَعَفَ (ف) قَعْفًا: التُّرَابُ: تیز دوڑنے کی وجہ سے غبار اُڑانا النَّخْلَةَ: درخت خرما کو جڑ سے اکیرنا مَا فِي الإِنَاءِ: برتن سے سب کچھ پی لینا الْمَطَرُ: الحجارة: بارش کا پتھر کو بہالے جانا۔

قَعِفَ (س) قَعْفًا: الحَائِطُ: زیوار کا گرننا۔

تَقَعَفَ: وانْقَعَفَ: وانْقَعَفَ: الحَائِطُ: زیوار کا جڑ سے منہدم ہونا الجُرْفُ: دادی کے لتاروں کا گرننا الشَّيْءُ: اپنی جگہ سے زائل ہونا۔ وانْقَعَفَ الشَّيْءُ: برص سے لینا۔

القَعْفُ: س۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو سلسلہ وار ہوں۔

القَاعِيفُ: فا۔ سخت بارش۔

سَيْلٌ قَعَافٌ: سخت سیلاب جو تمام چیزوں کو بہالے جائے۔

قَعَمَفَ الرَّجُلُ: اَبْرَأُوں بیٹھنے والے کی طرح بیٹھنا فِي الْمَشْيِ: چھوٹے چھوٹے قدم

سے چلنا لَهُ الْكَلَامُ: کسی کو سخت کلامی سے اپنے آپ سے ہٹانا۔

تَقَعَفَ: الرَّجُلُ: بیٹھنا۔

اِفْعَمَفَ: اُس شخص کی بیٹھک بیٹھنا جو کوڑنے کو تیار ہو۔

اَلْقَمْعَزِيُّ: اِس شخص کی بیٹھک جو کوڑنے کو تیار ہو۔

قَعَقَبَ قَعَقِبَةً: زخم کرنا۔

القَعَقِبَةُ: زخم۔

القَعْقَبُ: ایک قسم کا پرندہ جو سانپوں کو کھاتا ہے۔

قَعَقَعَتْ عُمْدُهُمْ: کوچ کرنا الشَّيْءُ اليَاسُ: آواز کے ساتھ حرکت دینا

الْقِدَاحُ: تیروں کو جوئے میں گھماتا فِي الأَرْضِ: جانا۔ کہتے ہیں "فَلَانٌ مَا يَقْعَعُ لَهُ بِالْبَيْتَانِ" اِس شخص کے متعلق جو حوادث زمانہ سے خائف نہ ہو اور پرباک رہے۔

تَقَعَقَعَ: مضطرب ہونا۔ متحرک ہونا۔

حِركت کے وقت آواز دینا۔ تَقَعَقَعَتْ عُمْدُهُمْ: وہ کوچ کر گئے۔

القَعْقَاعُ: ہتھیار کی جھنکار۔ خشک کھجور۔

لِرِزَّةِ کے ساتھ بخار۔ دشوار گزار راستہ (وَالْقَعْقَانِيُّ) وہ شخص جس کے چلنے میں پیر کے جوڑوں سے آواز نکلے۔

القَعْقَاعُ: بادل کے گرج کی لگاتار سخت آواز اور یہ قَعْقَعَةٌ: جمع ہے۔ القَعْقَعَةُ: دانتوں کی کڑکڑاہٹ۔

أَفْعَلٌ وَأَفْعَالٌ: اِفْعِنَالًا: النُّورُ: گھونڈ ٹکنا۔ اِفْعَالٌ الرَّاَكِبُ: سوار کا سیدھا ہونا۔ اِفْعَلٌ: اِفْعَالٌ: گھونڈ کو ڈور کرنا۔

القَعَالَةُ: واحد: اِفْعَالٌ: گھونڈ جو چھڑ جائے۔

أُونْتُ: کا گرا ہوا خون۔

قَعَمَ (ن) قَعَمًا: السُّنُورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

قَعَمَ (س) قَعَمًا: وَأَقْعَمَ الرَّجُلُ: بیمار ہو کر فوراً مرنا۔ أَقْعَمَتِ الْحَيَّةُ: وُسا اور فوراً

مار ڈالنا۔

السُّنْمُ: آفتاب کا بلند ہونا۔

القَعَمُ: س۔ بلی کی آواز۔

القَعَمُ: ناک میں جھکاؤ۔

قُعْمَةُ: المَالِ: عمدہ مال۔

القَيْعَمُ: بلی۔ بوڑھا اونٹ۔

قُعِنَ (س) قُعِنًا: الأَنْفُ: ناک کا چپٹا ہونا۔

بائسہ بلند ہونا۔ صفت أَقْعَنُ: مَوْنْتُ قَعْنَاءُ: ج قُعْنُ اور تَقْيِرُ قُعْنِ:

القُعْنُ: آنا گوندھنے کا بڑا برتن۔

قُعِيٌّ: يَقْعِيٌّ: قَعَابُ: ناک کا بلند ہونا پھر جھکانا۔ صفت أَقْعِيٌّ: مَوْنْتُ قَعْوَاءُ:

أَقْعَى الكَلْبُ: کتے کا چوڑے پر بیٹھنا أَنْفُهُ: ناک بلند بائسہ والی ہونا قُرْسَةٌ: گھوڑے کو پھیلے پاؤں لوٹانا۔

قَعَا يَقْعُو قَعْوًا وَقَعْوًا: الفَحْلُ وَالطَّائِرُ: جفتی کرنا۔

اِفْتَعِي: جفتی کرنا۔

القَعْوُ: س۔ لکڑی یا لوہے کا دھرا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ القَوَانُ: دو لکڑیاں یا لوہے کہ جس میں چرخی کا دھرا ہوتا ہے ج قُعِيٌّ:

القَعْوَةُ: ران کی جڑ۔ ج قُعِيٌّ:

قَفَّتْ (ن) قَفُوفًا: العَشْبُ: او الشَّجَرُ: گھاس یا درخت کا خشک ہونا۔ قَفَّتْ الأَرْضُ: خشک پیداوار والی ہونا الشَّعْرُ:

روٹنے لگنا کھڑا ہونا الشَّيْءُ: سہل۔ سکتا الثَّوْبُ: کپڑے کا دھونے کے بعد خشک ہونا الصَّيْرُ: قی: صرف کا دو انگلیوں کے درمیان دراہم کو چرانا۔

أَقَفَّتْ: خشک چراگاہ پانا۔ أَقَفَّتِ الدَّجَاجَةُ:

مرغ کا انڈے دینے سے زکنا العَيْنُ: آنسو خشک ہونا۔

اِسْتَقَفَّتْ: سہل۔ سکتا۔

القَفُّ: والقَفِيْفُ: خشک سبزی۔

القَفُّ: پتہ قد۔ چیز کا بیرونی حصہ۔

کھلاڑی کا سوراخ۔ کھلاڑی کے مانند ایک

چیز۔ بلند زمین۔ چٹائی زمین سلسلہ وار کہ جس کے درمیان نرم زمین نہ ہو، پہاڑ کے مانند سیاہ بادل۔ قَفُّ الْبِنْرِ: کونوں کے ارد گرد کا چوڑھین الناس: مختلف قسم کے لوگ ج قفاف واقفاف۔ القففة: خشک درخت۔ خشک کدو۔ کھڑائی کی مانند ایک چیز۔ بلند زمین۔ کھجور کی پتیوں کی ٹوکر۔ ج قفف۔ القففة والقففة: من الرجال: پتہ قد۔ کرور۔ القففة: خرگوش۔ القففة والقففة والقففة: بخار کی وجہ سے کچی۔ القففة: اسم نوع۔ نوزائیدہ بچے کا پہلا پانچاند۔ القفاف: صرف جو درہم کو انگلیوں کے درمیان چرے۔ القفان: امانت دار۔ کہا جاتا ہے "آتیتہ علی قفان ذلک" میں اس کے پاس اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ "و هذا قفانہ" یہ اس کا وقت ہے۔ القفان: جماعت۔ قفئی (س) قففاً المكان: بارش یا مٹی پڑ جانے کی وجہ سے تباہ شدہ پودوں والی ہوتا۔ القففاً الخرز: توشہ دان وغیرہ کی سلائی دوبارہ کرنا۔ قفشل الشئی: جلدی سے لے جانا۔ جز سے اکیڑنا۔ قفحه (ف) قفحاً: ناپسند کرنا اور چھوڑ دینا۔ الشئی: دوا کی طرح پھانکنا۔ قفح عن الشئی: باز رہنا۔ القففيحة: مکھن جس پر بکری کا دودھ دوبا جائے۔ قفحہ (ف) قفحاً وقفاحاً: مارنا۔ کھوکھلی یا خشک چیز یا سر پر ہی مارنے کے لئے مستعمل ہے۔ القففيحة: ایک قسم کا کھانا جو چربی اور کھجور سے بنایا جاتا ہے۔ القفححة: گائے جو جنتی کی خواہش مند ہو۔

الففاح: تناسب الاعضاء پر گوشت عورت۔ الففاحوی: نازک بدن پر گوشت۔ قفد (ض) قفداً: کام کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما زلت اقفدك مذ اليوم" میں آج کے دن تمہارے لئے کام کرتا رہا: گدی پر تھپہ مارنا۔ بغیر شملہ لکائے ہوئے گڑی باندھنا۔ قفد (س) قفداً: ڈھیلی یا موٹی گردن والا ہونا۔ الاقفد: ڈھیلی یا موٹی گردن والا۔ بچوں کے بل چلنے والا۔ موٹے ہاتھ پیر چھوٹی انگلیوں والا۔ مؤنث قفداء ج قفد۔ کہا جاتا ہے "اعتم القفداء والقفد" بغیر شملہ لکائے ہوئے گڑی باندھی۔ القفدان والقفدانة: سرمد دانی کا غلاف۔ چرے کی تھیلی جس میں خوشبو رکھتے ہیں (دخیل) قفر (ن) قفراً وتقفراً واقفراً الاثر: پیچھے جانا تلاش کرنا۔ اقفتر العظم: ہڈی چھوڑنا۔ قفر (س) قفراً: مائل: کم ہونا۔ صفت قفیر المال الطعام: کھانا بغیر سالن کے ہونا۔ قفر التراب ونحوہ: مٹی وغیرہ جمع کرنا۔ اقفراً: بیابان بے آب و گیہا کی طرف جانا۔ المكان: گھاس پانی اور آدمی سے خالی ہونا۔ الرجل من اہلہ: اکیلا ہونا رأسہ من الشعر سر کا بال سے خالی ہونا۔ بھوکا ہونا۔ بے کھانا ہونا۔ بے سالن ہونا۔ بے سالن کے روٹی کھانا البلد: شہر کو خالی پانا العظم: ہڈی چھوڑنے کے صاف کر دینا۔ القفر: گھاس پانی آدمی سے خالی زمین۔ کہا جاتا ہے "ارض قفر وارض قفار" بے آب و گیہا چھیل میدان۔ "نزلنا ببني فلان قبتنا القفر" یعنی ہم بنو فلاں میں آئے اور انہوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی "و بات فلان القفر والوخش" یعنی فلاں کی مہمانداری نہیں کی گئی۔ القفر: بیل جو کھیتی

کرنے کے لئے ماں سے جدا کر لیا جائے۔ القفر: س۔ بال۔ القفر: کمال والا۔ بھیریا۔ جز قفراً وقفراً: بے سالن کی روٹی۔ القفیر: شہد کا چھتہ۔ ٹوکر۔ بے سالن کی روٹی ج قفزان۔ القافور والقفور والقفورہ: کھجور کے شگوفہ کا غلاف۔ کہا جاتا ہے "ارخص مقفراً خالی زمین۔ قفراً (ض) قفراً وقفزاناً وذا وقفوراً مرنا الغزال: ہرن کا کودا۔ کچھیل۔ جھلاک مارنا۔ قفراً (س) قفراً: الفرس: گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں گھٹنے تک سفیدی ہونا۔ قفراً: کودنا۔ تقفراً بالجنائ: مہندی سے نقش و نگار کرنا۔ تقافراً القوم: باہم کودنا۔ القفزی: اچھل۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "عذبت الخيل القفزی" یعنی گھوڑے کو کود کر دوڑے۔ القافرة: قافرا مؤنث۔ تیز رفتار گھوڑا۔ مینڈک۔ ج قفرافر۔ القفیز: ایک پیانہ کا نام من الارض: ایک سوچا لیس شرعی گز۔ ج اقفرة وقفزان۔ الاقفز والمقفز من الخيل: اگلی ٹانگ میں گھٹنے تک سفید گھوڑا۔ القفاز: عورتوں کے ہاتھ پیروں کا زبور۔ دستار۔ عوام کفوف کہتے ہیں۔ ج قفافیز۔ القفاز: بہت کودنے والا۔ القفیزی: بچوں کا ایک کھیل کہ کڑی گاڈ کر اس پر کودتے ہیں۔ قفس (ن ض) قفساً وقفساً: مرنا الشئی: غصہ سے زبردستی پکڑنا فلاناً: پال پکڑنا اور نیچے گھسیٹنا (قفسا) الطئی: ہرن کی ٹانگوں کو باندھ دینا (قفاساً) جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ قفس (س) قفساً: بانہ کے کنارے کا بڑا

ہونا۔
تَقَفَّسَ. الطَّبِيُّ: ہرن کا چھلانگ مارنا۔
تَقَفَّسَ الرَّجُلَانِ بِشَعْوَرِهِمَا: ایک
دوسرے کے بال پکڑنا۔
القَافِيسَةُ. قَافِيسُ كَامُونَتٍ: کینے لوگ۔
قَفَّاسٌ. مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ: کینے لوٹری۔
الْأَقْفَسُ. بَانَدِيٌّ حَيٌّ - ہر وہ چیز جو لمبی اور جھکی
ہوئی ہو۔ عَقْدَةُ أَقْفَسٍ: کینے غلام۔
الْقَفَّاسَةُ. الطَّبِيُّ كَامُونَتٍ: کینے لوٹری۔

معدہ یا پیٹ۔
قَفَّشٌ (وِجْضٌ) قَفَّشًا. الطَّعَامُ: بہت
حرص سے کھانا الشئ: لینا اور جمع کرنا۔ ہ
بِالْعَصَاءِ: لاشی سے مارنا الناقاة: اونٹنی کو تیز
دوہنا مَا فِي الضَّرْعِ: دوہ کر جلد ختم کر دینا
المرأة: بہت جماع کرنا (قَفَّشًا وَقَفَّوْشًا)
مرنا۔

انْقَفَشَ وَإِنْقَشَ وَإِقْفَشَشَ
العَنْكَبُوتُ وَنَحْوَهُ: مکڑی وغیرہ کا سٹ کر
بیٹھنا۔

القَفَّشُ. سر نشاط۔ چھوٹا چرمی موزہ۔
القَفَّشُ. چور (القَفَّشِيلُ) کف گیر۔
قَفَّصَ (ض) قَفَّصًا الطَّبِيُّ: ہرن کی ٹانگیں
باندھنا الشئ: قریب قریب رکھنا الرَّجُلُ:
تکلیف دینا اليعسوب: دھاگے سے باندھ کر
چمچے میں رکھنا الطائر: پتھرے میں بند کرنا۔
قَفَّصَ (س) قَفَّصًا. ہلکا ہلکا ہونا۔ سردی
سے سن ہونا الفرس: پورے دوڑ سے نہ
دوڑنا۔ صفت قَفَّصٌ۔

قَفَّصَ. الطَّبِيُّ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔
تَقَفَّصَ. اکٹھا ہونا۔

تَقَفَّصَ. مَخْلُطٌ هَوَانًا. اکٹھا ہونا۔
أَقْفَصَ. الرَّجُلُ: پتھرے والا ہونا۔
القَفَّصُ. پتھر۔ القَفَّصُ. غَلَّةٌ وَغَيْرُهَا رَكْعَةٌ كَمَا
بَرْتَنُ جِ أَقْفَاصِ (القَفَّصِ وَالْقَفَّصِ)
مَخْلُطٌ۔

القَافِيسَةُ. قَافِيسُ كَامُونَتٍ جِ قَوَافِيسُ كِينِ
لوگ۔

القَفَّاصُ. پہاڑی بکرا۔ ایک بیماری ہے جو
جانوروں کو لاحق ہوتی ہے جس سے ان کی
ٹانگیں خشک ہو جاتی ہیں۔

المَقْفُصُ. مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ: پتھرے کی
طرح متشکل کپڑا۔

القَفْصَلُ. شیر۔
بَحْيِيرٌ. بدلہ دینا۔

قَفَّعَهُ (ف) قَفَّعًا بِالْمَجْفُوعَةِ: چچی سے مارنا۔
ه عَنْ كَذَا: منع کرنا۔

قَفَّعَتْ (س) قَفَّعًا وَتَقَفَّعَتْ الْأُذُنُ: کان
کا سکڑنا۔ ایسے کان کو قَفَّعًا اور ایسے کان
والے کو أَقْفَعُ کہتے ہیں الرَّجُلُ: انگلیوں کا
قدم کی جانب مڑا ہوا ہونا الشاة: چھوٹی ذم
والی ہونا۔ تَقَفَّعَ الشئ: سننا۔

قَفَّعَ الشئ: برتن میں رکھنا البردُ أَصَابِعُهُ
سردی کا انگلیوں کو خشک کر دینا۔ سکڑا ہوا کر
دینا۔

انْقَفَعَ. النَّبَاتُ: نباتات کا خشک اور سخت
ہونا عَنَهُ: باز رہنا۔

القَفْعُ. سر ایک جنگلی آلہ ہے جس کو حصار کے
موقع پر استعمال کرتے تھے اور اس کے اندر
داخل ہو کر قلعہ کی دیوار تک پہنچ کر سوراخ
کرتے تھے۔ واحد قَفْعَةٌ۔

القَفْعُ. سر۔ تنگی۔ جھکن۔
القَفْعَةُ. بیچے سے کشادہ اور تنگ منہ کی ٹوکری
جِ قَفَاعٌ وَقَفْعَاتٌ۔
القَفْعَةُ. ٹڑی دل۔

الفُقَاعُ وَالْفُقَاعُ. ایک بیماری جو بکریوں کو
لاحق ہوتی ہے جس سے ان کی ٹانگیں میڑھی ہو
جاتی ہیں۔

الفُقَاعُ. اسم مبالغہ۔
الفُقَاعَةُ. ایک قسم کا پھل جو درخت خرما کی
شاخ سے بناتے ہیں اور اس سے پرندوں کا شکار
کرتے ہیں۔

الْأَقْفَعُ. سکڑے ہوئے کان والا۔ سکڑی
ہوئی انگلیوں والا۔ ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا۔
چھوٹی ذم والا۔

القَفَّعَاءُ. أَقْفَعُ كَامُونَتٍ جِ قَفْعٌ. ایک قسم
کی گھاس جس میں انگوٹھی کے مانند طلقے ہوتے
ہیں مگر دونوں کنارے طے ہوئے نہیں
ہوتے۔ شاة قَفَّعَاءُ: چھوٹی ذم والی بکری۔
المَقْفَعُ. ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا۔ رَجُلٌ
مَقْفَعٌ الیَدَیْنِ: سکڑے ہوئے ہاتھوں والا
مرد۔

المَقْفَعَةُ. ہاتھ یا انگلی بر مارنے کی چھڑی۔
قَفَّقَفَ قَفَّقَةً وَتَقَفَّقَفَ. سردی وغیرہ
سے کانیا النَّبَاتُ: نباتات کا خشک ہونا۔

قَفَّقَفَا الطَّيْرُ: پرندے کے دونوں بازو۔
قَفَّقَفَا البعير: اونٹ کے دونوں جڑے۔

قَفَّلَ (ن ض) قَفَّلًا وَقَفُّوْلًا. سفر سے لوٹنا
فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا الامیرُ الْجَنْدُ:
امیر کا فوج کو لوٹانا الشئ: اندازہ کرنا (قَفَّلًا)
الطَّعَامُ: گرائی میں بیچے کیلئے جمع کرنا۔

قَفَّلَ (ض) قَفُّوْلًا الفرسُ: لاغر ہونا۔
صفت قَافِلِ الفحل: جھتی کیلئے بیجان میں
ہونا۔

قَفَّلَ (ن) قَفُّوْلًا وَقَفِيلَ (س) قَفَّلًا.
الجدلُ: کھال کا خشک ہونا۔
قَفَّلَ الجدلُ: کھال کا خشک ہونا الانواب:
دروازے بند کرنا۔ تالاکھانا۔

أَقْفَلَ البَابَ وَعَلَى البَابِ: دروازہ پر تالا
لگانا۔ البَابُ: دروازہ بند کرنا القومُ: پیچھے سے
دیکھتے رہنا۔ أَقْفَلَهُمْ عَنْ مَبْعَثِهِمْ لَوْثًا
الجدلُ: کھال کو خشک کرنا الصالُ: ایک ہی

مرتبہ میں سب مال دینا۔
القومُ عَلَى الْأَمْرِ: جمع کرنا الجیشُ: فوج
کولوثانا۔

تَقَفَّلَ وَإِنْقَفَلَ وَإِقْفَلَ البَابُ: دروازہ بند
ہونا۔ تَقَفَّلَ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
إِنْقَفَلَ العُرَّةُ: غازیوں کا واپس ہونا لَوْثًا:
الرَّجُلُ: جس کام میں ہوا سے گر کر رہا۔

إِسْتَقْفَلَ البَابُ: دروازہ بند کرنا الرَّجُلُ:
بجل کرنا۔ کہا جاتا ہے: اسْتَقْفَلْتُ يَدَاہُ فَهُوَ
مُسْتَقْفَلٌ، یعنی وہ بجل ہے۔

القفل. سر (والقفلۃ والقفلۃ) سوكھا ہوا درخت۔

القفلۃ۔ سر کا پچھلا حصہ۔ گدی۔ ایک ہی مرتبہ میں دینا۔ کہا جاتا ہے اعطاک الفأ قفلۃ اس نے تم کو ایک ہزار ایک ہی مرتبہ دے دیا۔

القفل۔ تالاج اقفال واقفل وقفل۔ القفل۔ سر۔ اسم جمع بمعنی قافل۔

القفلۃ۔ ہر سی ہونی جو زیادہ کر لینے والا۔ القافل۔ فاقفل کھال یا ہاتھ والا۔ لوٹنے والا۔ ج قافلۃ وقفال۔

القافلۃ۔ قافل کا مؤنث۔ کارواں۔ سفر سے لوٹنے والے رفقاء یا سفر شروع کرنے والے کہ ان پر بھی تقاولا قافلہ کا اطلاق ہوتا ہے ج قوافل خیل قوافل۔ ذیل گھوڑے۔

القفیل۔ خشک درخت۔ کوڑا۔ تنگ گھائی۔ جلد قفیل۔ خشک کھال۔

القفال۔ اسم مبالغہ۔ القفیال۔ ہاتھ میں ایک رگ کا نام جس کی

نصدلی جاتی ہے۔ رَجُلٌ مُقْفَلٌ الْيَدَيْنِ وَمُتَقْفَلُهُمَا وَمُتَقْفَلُهُمَا۔ بخیل کبجوس آدمی کہ جس کے ہاتھوں سے کسی کو کچھ خبر نہ پہنچے ہی نہیں۔ قَفْلَطُهُ قَفْلَطَةٌ۔ من بیدہ۔ اچک لینا۔

قَفْنٌ (ن) قَفْنًا۔ گدی پر مارنا۔ لاشی یا کوڑے سے مارنا الکلب: کتے کا منہ ڈالنا (واقْفَن واقْفَن) الشاة: بکری کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا۔ جھکا کرنا۔ مفت مغوی قَفِينَةٌ۔

قَفْنٌ (ض) قَفُونًا۔ مرنا۔

قَفْنٌ رَأْسُهُ: سر کا ڈبیرا۔

القَفْنُ۔ سر۔ موت۔ مقاتلہ۔

القَفْنُ والقَفْنُ۔ سر کا پچھلا حصہ۔ گدی القَفْنُ۔ مرد سخت بد زبان۔

القَفَانُ۔ امین۔ تولے کا ایک پیمانہ۔ قَفَانٌ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز کی جماعت۔ انجام کار۔ شاة

قَفِينٌ ذبح کردہ بکری۔

قَفَا يَقْفُو قَفْوًا وَقَفْوًا۔ الرَّجُلُ يَغْدِي بِرِ مَارًا۔ صریحا تہمت لگانا اَثْرُهُ: پیروی کرنا۔ اللہ اَثْرُهُ: منابہ۔ محو کرنا (واقْفَى واقْفَى)

الرَّجُلُ بِأَمْرٍ: متعین کرنا۔ مخصوص کرنا۔ اقْفَى كَذَا عَلَيَّ كَذَا: فضیلت دینا۔ اِقْفَاءُ: اِتْرَاعُ كَرْنَا۔ واقْفَى الشئ: اختیار کرنا۔

اقْفَى بِفُلَانٍ: کسی کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کرنا۔

قَفَى تَقْفِيَةً۔ آتَا فُلَانًا زَيْدًا وَبَزَيْدًا: پیروی کرنا۔ پیچھے چلانا۔ کہا جاتا ہے "قَفَيْتُ عَلَيَّ اَثْرَهُ بِفُلَانٍ" میں نے فلاں کو اس کے

نشان قدم پر چلا دیا۔ قَفَى عَلَيْهِ: لے جانا۔ تَقْفَى الرَّجُلُ: پیچھا کرنا الاكْتَمَةَ: لیے پر چڑھنا الشئ: چننا بفلان: اکرام کرنے میں

مبالغہ کرنا (واستقْفَى) فُلَانًا بِالْعَصَا: پیچھے سے آکر سر پر لاشی مارنا۔

تَقْفَى الرَّجُلُ: جھوٹی تہمت لگانا۔ القَوْمُ: ایک دوسرے پر تہمت لگانا۔

القفا والقفاء۔ سر کا پچھلا حصہ۔ گدی۔ مذکر ہے اور کبھی مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے ج اقْفِبْ واقْفِيَةٌ واقْفَاءُ وَقْفِيٌّ وَقْفِيٌّ وَقْفُونٌ

کہا جاتا ہے "لا اَفْعَلُهُ قَفَا الدَّهْرُ" میں اس کو زمانہ بھر نہیں کروں گا۔

القَفْوَةُ۔ غبار جو بارش کی ابتدا میں اُٹھتا ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَفْوَتِي وَقَفْوَتِي" وہ میرا برگزیدہ ہے "وَبِنَسِ الْقَفْوَةَ قَفْوَتُكَ" اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا انتخاب اچھا نہ ہو۔

القَفْوَةُ۔ تہمت۔ بڑی بات کی نسبت کرنا۔ گناہ۔

القَفَاوَةُ۔ مہربانی۔ نوازش۔ مہمانی کا اکرام۔ جس چیز سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ موروثی

عزت۔ القَفِيَّةُ۔ شکاری کا گڑھا جس میں وہ شکاری گھات میں چھپتا ہے۔

القَفِيَّةُ۔ عیب۔

القَفِيَّةُ۔ نہایت مہربان۔ کرم مہمان۔ کھانا جس سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ بہترین مہمانی۔ تمہ مہمانی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَفِيَّهُمْ وَقَفِيَّتُهُمْ" وہ ان کا قائم مقام ہے۔

القَفِيَّةُ۔ فضیلت جو تمہیں غیر پر حاصل ہو۔ گوشہ رکھنا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے

شاة قَفِيَّةٌ: سر کے پیچھے کی طرف سے ذبح کی ہوئی بکری اور کہا جاتا ہے "لا اَفْعَلُهُ قَفِيَّةٌ الدَّهْرُ" یعنی میں زمانہ بھر اس کو نہیں کروں گا۔

القَفِيَّةُ۔ گلے کا پچھلا حصہ۔ شعر کا آخری کلمہ یا آخری حرف قواف۔ قَفِيَّةٌ كُلُّ شَيْءٍ: ہر چیز کا آخری۔ کہا جاتا ہے "اَتَيْتُهُ عَلَيَّ قَفِيَّةٌ الشئ" میں اس کے پاس فلاں چیز کے پیچھے

آیا۔ الكَلَامُ الْمُقْفَى۔ وہ کلام جس میں صحیح و قافیہ ہو۔

التَقْفِيَّةُ۔ سر عند الشعراء: اشعار میں حرف آخر کا موافق ہونا۔

المُقْفَى مِنَ الْعَنَمِ۔ گردن کی طرف سے ذبح کی ہوئی بکری۔

رَجُلٌ مُقْفَىٌ وَمُقْفَىٌ بِهِ: چننا ہوا مرد۔ عزت کہا ہوا مرد۔

قَفَى يَقْفِي قَفِيًّا الرَّجُلُ۔ گدی پر مارنا۔ تہمت بات کا عیب لگانا۔

القَفَالَةُ۔ الاثْمُ۔ القافلی۔ ایک قسم کی نمکین گھاس جو اشنان کے مشابہ ہوتی ہے۔

القَوَقُلُ۔ زچکور۔ القاقم والقاقوم۔ ایک جانور ہے جو نیولے کی شکل کا اور اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کا رنگ گرمی میں سرخ سیاہی مائل اور جلاڑے میں بہت سفید ہوتا ہے۔

قَلٌّ (ض) قَلًّا وَقَلًّا وَقِلَّةٌ كَمَ هَوَا الرَّجُلُ: کم مال والا ہونا الجِسْمِ: بدن کا ڈبلا اور چھوٹا ہونا اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَقِلُّ عَن كَذَا" یعنی وہ چھوٹا ہے۔ وَقَلُّ الشئ: بلند ہونا اور کبھی

قُلُّ کے ساتھ ماکہ لاحق ہوتا ہے جیسے "قَلْمًا جَنَّتِكَ" اس صورت میں فعل نہیں رہتا اور فاعل کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اور قَلْمًا دو معنی کے لئے کبھی محض نفی کے لئے اور کبھی تھوڑی سی چیز ثابت کرنے کے لئے مستعمل ہے (قَلًّا الشَّيْءُ: أَهْأَنَا قَلُّهُ عَنِ الْأَرْضِ: بلند کرنا۔

قَلَّلَ الشَّيْءُ: کم کرنا الشَّيْءُ فِي عَيْنِ فَلَانٍ: سچ دکھانا۔

أَقَلَّ الشَّيْءُ: کم کرنا رَجُلًا: کم لانا۔ کم مال والا ہونا۔ محتاج ہونا الشَّيْءُ: بلند کرنا۔ أَهْأَنَا: أَقَلَّتُهُ الرِّعْدَةُ: کچکی لگنا۔

قَالَ لَهُ الْعَطَاءُ: تَهَوُّرًا دِيَارًا۔ تَقَالَتِ الشَّمْسُ: کم گزنا۔ تَقَالَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا بلند ہونا۔

تَقَلَّلَ الشَّيْءُ: کم سمجھنا۔ اسْتَقَلَّ الشَّيْءُ: اُتْهَانًا اور بلند کرنا۔ کم سمجھنا

الطَّائِرُ فِي طَيْرَانِهِ: پرندہ کا اڑان میں بلند ہونا القَوْمُ: کوچ کرنا۔ اسْتَقَلَّتْهُ الرِّعْدَةُ: کچوا پھرا ہوا۔

رَائِي فِي مَشْرِقِهِ هُوَ كَمَا: اکیلا ہونا اور کسی کو شریک نہ کرنا اَلْأَنْفَالُ: غَضَبًا: ناراضی کی وجہ سے اُٹھ جانا اَلْأَمْرُ: طاقت

رکھنا اَلْأَسْحَابُ: بادوں کا بلند ہونا۔ اَلْإِسْتِفْلَانُ: کسی ملک کا آزاد ہونا۔

الْقَلْبُ: چھوٹی دیوار۔ کچکی۔ الْقَلْبُ وَالْقَلْبُ: کہن الشَّيْءُ: کتر۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَلْبٌ" اکیلا آدمی "هُوَ قَلْبٌ أَيْنُ قَلْبٌ" وہ غیر معروف ہے "قَلْبٌ رَجُلٌ أَوْ قَلْبٌ رَجُلٌ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا زَيْدٌ" یعنی سوائے

زید کے کوئی نہیں کہتا۔ الْقَلَّةُ: مرض سے صحت یا حصول دولت۔ الْقَلَّةُ: سر کا یا پہاڑ کا یا ہر چیز کا بالائی حصہ۔

لوگوں کی جماعت۔ بڑا گھر۔ چھوٹا کوڑھ قَلَّةُ السَّيْفِ: تلوار کے قبضہ کی زیبائش ج قُلِّلَ وَقَالَ:

قِلَالَةُ الْجَبَلِ: پہاڑی کی چوٹی۔ الْقَلَّةُ: کمی۔ مرض سے صحت یا حصول

دولت۔ کچکی۔ قُلِّلَ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ طَوِيلُ الْقَلَّةِ" یعنی لمبے قد کا مرد اَخَذَهُ بِقَلْبَيْهِ وَبِقَلْبَيْهِ وَبِقَلْبَيْهِ اس نے سب لے لیا و "رَحَلُوا بِقَلْبِهِمْ" وہ سب کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا و اَكْمَلَ الصَّبَّ بِقَلْبَيْهِ" یعنی گورہ کو کھال و ہڈی سمیت کھا گیا۔

الْقَلْبِيَّةُ: عمارت۔ مشابہ معدن صغریٰ۔ الْقَلِيلُ: کم۔ لاغر۔ ج قَلِيلُونَ وَأَقْلَاءُ وَقُلِّلَ وَقُلِّلُونَ مَوْتٌ قَلِيلَةٌ ج قَلِيلَاتٍ وَقَالَ لَ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَلِيلُ الْخَيْرِ" مرد کم خیر و "قَلِيلٌ مِنَ الرِّجَالِ يَقُولُ ذَلِكَ" یعنی اس کو کوئی نہیں کہتا۔ "مَا

أَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلَةٌ وَلَا كَثِيرَةٌ" میں نے اس سے کچھ نہیں لیا۔ تاتے تانیث صرف نفی کی صورت میں داخل ہوتی ہے۔

الْقَالَ وَالْقَالَ: کم۔ ج قُلِّلَ الْقَالَ زَمِينٌ سے اگور کی شاخوں کو اٹھانے کیلئے تھوٹی۔ الْقَالَ مِنَ النَّاسِ: متفرق لوگ۔

الْقَالَ: کتر و الْمُقَلَّلُ: فقیر جس کے پاس کچھ ہو۔ الْقَلْبِيُّ: پست قد لڑکی۔

قَوْمٌ أَقَلَّةٌ: خیس درجہ کے لوگ۔ الْمُقَلَّلُ: بِمِثْلِ السَّيْفِ: جس کے قبضہ پر چاندی یا لوہا لگا ہوا ہو۔

الْمُسْتَقَلُّ: فَا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسْتَقَلٌّ بِنَفْسِهِ" وہ خود مختار ہے۔

قَلْبٌ (ض) قَلْبًا الشَّيْءُ: پلٹ دینا۔ اوپر کا نیچے کر دینا۔ اندر کا باہر کر دینا القَوْمُ: پھیر دینا۔

لَوًّا دینا۔ کہا جاتا ہے "قَلْبُ الْمُعَلَّمِ الصَّبِيَانُ" معلم نے بچوں کو ان کے گھر لوٹا دیا

الْمُخْتَوْنَ عَيْنَهُ: غضبناک ہونا۔ قَلْبَتِ الْبُسْرَةُ: کچی کھجور کا سرخ ہونا۔ قَلْبُ الْأَرْضِ لِلزَّرَاعَةِ: زمین کو جو تار اور کہا جاتا ہے "قَلْبُ الْأَمْرِ ظَهْرًا الْبَطْنُ" اس نے

معاہدہ کی آزمائش کی۔ قَلْبَهُ (ن) ض) قَلْبًا: دل پر مارنا۔ قَلْبُ

النَّخْلَةِ: گودا کا بال اللہ فَلَانًا إِلَيْهِ موت دینا۔

قَلْبُ (س) قَلْبًا: اُلے ہونٹوں والا ہونا۔ صفت أَقْلَبُ: قَلْبَتِ الشَّفَقَةُ: اُلنا ہونا۔ صفت قَلْبًا۔

قَلْبُ الْبَعِيرِ: اونٹ کا دل کی بیماری والا ہونا۔ قَلْبُهُ: بمعنی قلبہ اور تشدید مبالغہ یا تکثیر کے لئے ہے۔ کہا جاتا ہے "اصْبَحَ بِقَلْبِ كَفَيْهِ" وہ نادام ہونے لگا۔ "وَقَلْبُ الْأُمُورِ" اس نے انجام پر نظر ڈالنا۔

أَقْلَبَ الشَّيْءُ: اُلٹ دینا اللہ إِلَيْهِ: موت دینا۔ أَقْلَبَ الْعَنْبُ: اگور کے اوپر کا حصہ خشک ہونا اَلْخَبْرُ: روٹی اُلٹنے کے قابل ہونا القَوْمُ: دل کی بیماری میں مبتلا شدہ اونٹوں کا مالک ہونا۔

تَقَلَّبَ: پڑھلی فراشبہ: کروٹیں لینا۔ فِي الْأُمُورِ: اپنی مرضی سے تصرف کرنا اور کہا جاتا ہے "أَنَا أَتَقَلَّبُ فِي نِعْمَانِهِ" میں اس کی نعمتوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہوں۔

انْقَلَبَ: اُلنا جانا۔ اُوندھانا۔ واپس ہونا۔ الْقَلْبُ: س۔ دل۔ عَقْلُ قَلْبُ الْجَيْشِ: فوج کا درمیانی حصہ۔ قَلْبُ كُلِّ شَيْءٍ: گودا۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "جَنَّتِكَ بِهَذَا الْأَمْرِ قَلْبًا" میں تمہارے پاس محض اس کام کے لئے آیا۔ قَلْبُ الْعَقْرِبِ: منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام۔ ج قَلُوبُ أفعال

الْقَلُوبُ: ظن اور اس کے امثال۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَلْبٌ" یعنی خالص المنسب اور اس میں مذکر مؤنث واحد جمع سب برابر ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے "أَمْرًا قَلْبِيَّةً"

الْقَلْبُ وَالْقَلْبُ وَالْقَلْبُ مِنَ الشَّجَرِ: درخت کے اندر کا نرم گودا ج أَقْلَابُ وَقَلُوبٌ وَقَلْبَةٌ: الْقَلْبُ: ککن۔ سفید سائب۔ الْقَلْبِيَّةُ: سرخی۔ الْقَلْبَةُ: وہ بیماری جس سے بیمار چھوٹے پے

تڑے۔

الْقَلْبُ. دل کی بیماری۔

الْقَالِبُ. فاسخ رنگ کی کچی کھجور۔ کہا جاتا

ہے "شَاةُ قَالِبِ اللَّبَنِ" ماں کے مخالف

رنگ کی بکری (الْقَالِبُ) سانچے۔ موزہ۔ جوتا

بنانے کا فرمہ۔ قَوْلِبُ.

الْقَلْبُ. پلٹنے والا۔ بہت اُلٹنے پلٹنے والا۔ کہا

جاتا ہے "رَجُلٌ مَوْلٌ قَلْبٌ" اور "حَوْلِيٌّ

وَقَلْبِيٌّ" یعنی جلد گرد۔ معاملہ کے اُٹ پھیر کا

ماہر۔

الْقَلْبُوبُ. بہت اُلٹنے پلٹنے والا (الْقَلْبُ)

بھیرا۔

الْقَلْبِيُّ. کنواں۔ کنواں بغیر من کا۔ پُرَاتَا

کنواں (مذکر اور کبھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے)

قَلْبٌ وَ قَلْبٌ وَ اَقْلَبِيَّةٌ.

الْقَلْبُوبُ وَ الْقَلْبُوبُ وَ الْقَلْبِيُّ. بھیرا۔

شیر۔

الْمَقْلَبُ. کھیتی کے لئے زمین کو اُلٹنے پلٹنے کا

ایک آہنی اوزار۔

الْمَقْلَبُ. من۔ انقلاب کا اسم ظرف۔ لوٹنے

کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "كُلُّ اَمْرٍ يَبْسُرُ اِلَى

مَقْلَبِهِ"

الْمَقْلُوبَةُ. بیگانہ۔

قَلَبْتُ (س) قَلْبًا. ہلاک ہونا۔

اَقْلَبْتُهُ. ہلاک کرنا اَقْلَبْتُ الْمَرْءَ وَ كُنْتُ

اَنْطَى بے اولاد ہونا۔ اور اسم قَلْتُ ہے۔

الْقَلْتُ: "خُوفٌ اَقْلَبْتُهُ فَقَلَبْتُ: اس نے فاسد

کیا پس وہ فاسد ہو گیا۔

الْقَلْتُ. چٹان کا گڑھا۔ آکھ کا گڑھا۔ ج

قِرَالَتْ۔ کہا جاتا ہے "طَعْنَةٌ فِي قَلْتِ

خَاصِرِيَّةٍ" اس نے اُس کے کوکھ کے گڑھے

میں نیزہ مارا "وَطَعْنَتْهُ فِي قَلْتِي تَرَفُوْتِيَّةٌ"

اس نے اس کی دو ہنسیوں کے بیچ کے گڑھے

میں نیزہ مارا۔ عضو کے ہر گڑھے کو قَلْتُ کہتے

ہیں۔

وَ رَجُلٌ قَلْتُ وَ قَلْتُ. کم گوشت۔ دُیْلَا پتلا

مرد۔

الْقَلْتَةُ. دونوں مونچھوں کے درمیان کا

گڑھا۔ شَاةُ قَلْتَةٍ: بکری جس کا دودھ شیمانہ

ہو۔

الْمَقْلَبَةُ. ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

الْمِقْلَاتُ. وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ

رہے۔ وہ عورت جس کا ایک بچہ ہو اور پھر اس

کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ مَقْلَيْتُ.

قَلِحٌ (س) قَلِحًا. زرد دانوں والا ہونا۔

قَلِحْتُ اَسْنَانُهُ: دانتوں کا زرد ہونا۔ صفت

نر کر قَلِحٌ وَ اَقْلِحٌ صفت مؤنث قَلِحَةٌ وَ

قَلِحَاءٌ. قَلِحٌ.

قَلِحَةٌ. دانتوں کو زردی سے صاف کرنا۔

تَقْلَحُ. میلے پڑے والا ہونا قَلِحُ الْبِلَادِ:

قحط کے زمانہ میں شہروں میں کمانی تلاش کرنا۔

الْقَلْحُ. بڑھا گدھا۔

الْقَلْحُ وَ الْقَلْحُ. زردی جو دانتوں پر آجاتی

ہے۔

الْقَلْحُ. میلا کپڑا۔

الْقَلْحُومُنُ: توت کی تر شاخ۔

الْاَقْلِحُ: زرد دانوں والا۔ گہریلا۔

رَجُلٌ اَقْلِحٌ: تجربہ کیا ہوا۔

الْمَقْلَحُ. تجربہ کیا ہوا۔

الْقَلْحَزَةُ. پستہ قد کی چال الْقَلْحَزُ: موٹا

متکبر۔

الْقَلْحَاسُ. مرد بد صورت۔ بد قوارہ۔

اَقْلَحِمُ الرَّجُلُ: بہت بوڑھا ہونا۔

الْقَلْحِمُ. متکبر۔ بوڑھا۔

شَيْخٌ قَلْحَامَةٌ. بہت بوڑھا۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا وَ قَلِيْحًا الشَّجْرَةُ:

درخت اگھاڑا۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا وَ قَلِيْحًا وَ قَلَاْحًا

لِالْبَعِيْرِ: اونٹ کا بڑبڑانا۔

قَلْحُهُ بِالسُّوْطِ: کوڑا مارنا قَلْحُ النَّبْتِ:

نباتات کا سخت ہونا۔

الْقَلْحُ. س. کھوکھلا۔ نرکل بانس۔ بوڑھا گدھا

(وَ الْقَلَاْحُ) بڑے سرو والا۔

قَلْدٌ (ض) قَلْدًا الْحَيْلُ: رشی بنا

الْحَدِيْدَةُ: لوہے کو باریک کرنا اور کسی چیز پر

موزہ لڑجُلُ السَّيْفِ: تلوار کو حائل کرنا۔

الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ او الشَّرَابِ فِي

الْبَيْطَنِ: جمع کرنا الزَّرَاْعُ: کھیتی سیراب کرنا

الشَّيْ: موزہ اَلْحَمِيُّ قَلَانًا: بخار ہر روز

آنا۔

قَلْدَةُ السَّيْفِ: ہاتھ میں تلوار کا پر تلہ ڈالنا۔

الْقَلَادَةُ: ہار پہننا اَلْعَمَلُ: کام سپرد کرنا

الدَّيْنِ: قرض سوچ دینا قَلْدُ الْبَعِيْرِ:

اونٹ کی گردن میں کھینچنے کیلئے پٹہ ڈالنا۔

قَلَانًا الْقَضَاءُ فِي بَلَدٍ كَذَا: قاضی بنانا۔ کہا

جاتا ہے "قَلْدٌ حَيْلَهُ" وہ آزاد چھوڑ دیا گیا

قَلْدُهُ فِي كَذَا" اس نے اُس کی فلاں ہات

میں بغیر غور و فکر کے پیروی کی۔

اَقْلَدَ الْبَحْرُ عَلَيْهِمُ: غرق کر دینا۔ ڈوبا

دینا۔

تَقَلَّدَتِ الْمَرْءَةَ الْقَلَادَةَ: عورت کا ہار

پہننا تَقَلَّدَ الْاَمْرُ: ذمہ دار ہونا۔ برداشت

کر اَلْحَسِيْفُ: گلے میں تلوار کا پر تلہ ڈالنا۔

تَقَالَدَ الْقَوْمُ الْمَاءَ: پانی پر باری باری آنا۔

اِقْتَلَدَ الْمَاءَ: پانی کا چلونا۔

اَقْلُوْدُ النَّعَاسُ قَلَانًا: نیند کا غاب آنا۔

الْقَلْدُ. س. بیچ دیا ہوا ایٹھا ہوا کنگن۔ کہا جاتا

ہے "سَوَارٌ قَلْدٌ" رشی پر بیٹی ہوئی رشی۔ ج

اَقْلَادٌ وَ قَلْدُودٌ.

الْقَلْدُ. بخار کی باری کادن۔ چوتھا بخار کادن۔

پانی کا حصہ۔ جماعت۔ ہر ہفتہ کی بارش۔ کہا جاتا

ہے "سَقْنَا السَّمَاءَ قَلْدًا فِي كُنْجِ

سُبُوْعٍ" یعنی ہم ہر ہفتہ میں بارش ہوئی۔

بڑے پیالہ کے مشابہ قَلَادُ. کہا جاتا ہے

اَعْطَيْتُهُ قَلْدًا اَمْرِي" میں نے اپنے معاملہ کو

در دست اس کے سپرد کر دیا۔

الْقَلْدَةُ. کچی کا ٹھٹھ۔ کھجور۔

الْقَلْدَةُ. دونوں مونچھوں کے درمیان گڑھا۔

الْقَلَادُ وَ الْاِقْلِيْدُ. انگوٹھی یا پالی کے گرد پلینے

کے لئے بیٹیل یا تانے کا تار۔

الْقَلَادَةُ. ہار۔ مال۔ قَلَانِدٌ وَ قَلَادٌ. چھ

ستارے جن کو قوس بھی کہتے ہیں۔ قَلَائِدُ
الشُّعْر: اشعار جو نفاست کی بنا پر یاد کی جائیں
اور محفوظ رکھے جائیں۔
الْقَلَادَةُ: امر کی علاقوں کا ایک خوبصورت پودہ
جس کو زیب و زینت کے لئے استعمال کیا جاتا
ہے۔

الْقَلْوَد: بہت پانی والا کتواں۔
الْقَلِيدُ وَالْمَقْلُودُ: پٹا ہوا۔
الْقَلِيدُ وَالْمَقْلَادُ: خزانہ۔
التَّقْلِيدُ: سر ج تقالیید و تقالییدات
التَّقَالِيدُ عِنْدَ النَّصَارَى: نصرانیوں کی سینہ
یہ سینہ مذہبی باتیں۔ اور تقلید کا اطلاق اس
فرمان شاہی پر بھی ہوتا ہے جو بیرونی حکم کیلئے
جاری ہوتا ہے۔

الْإِقْلِيدُجِ أَقَالِيدُ الْمَقْلُدِجِ مَقَالِدُ
والمقفلاد ج مقالیید: کہی۔ کہا جاتا ہے
”ضَاعَتْ مَقَالِدُ أَوْ مَقَالِيدُ“ اس کے اوپر
اس کے معاملات تک ہو گئے ”وَأَلْقَى إِلَيْهِ
مَقَالِيدَ الْأُمُور“ اس نے اپنے امور اسے
سونپ دیئے المقفلد: برتن۔ تو ہر۔ پیانہ۔
نیز ہر سر کی چھری۔

المقفلد: سر در قوم۔ آگے بڑھنے والا
گھوڑا ہار پہننے کی جگہ۔ موٹروں پر پر تلہ
ڈالنے کی جگہ۔ مَقْلِدَاتُ الشُّعْر: اشعار جو
نفاست کی بنا پر یاد کئے جائیں اور محفوظ رکھے
جائیں۔

الْقَلْدُ: ایک کیزا ہے چوڑاؤں کو چٹ جاتا ہے
اور ان کی موت تک جدا نہیں ہوتا۔
قَلَزَهُ (ن ض) قَلَزًا: مارنا۔ قَلَزَ الْأَرْضَ
بِعَصَاهُ: کرینا ہسٹھہ: تیر پھیکنا بقیئہ:
اٹنی کرنا الرَّجُلُ: پینا۔ چست ہونا۔ کودنا۔
لَقْرًا وَهِيَ الْمَاءُ بَعْدَ الْغُوثِ كَوْنُهَا بِلَانًا

(قَلَزَ وَأَقْلَزَ) الْجَرَادُ: انڈے دینے کے
لئے دم کو زمین پر مارنا۔

تَقْلَزَ: چست ہونا الوغُلُ: پہاڑی بکری کا
دوڑنا۔
اِقْتَلَزَ الْكَلْبُ: گھونٹ گھونٹ لینا۔

الْقَلَزُ: مِنَ الرِّجَالِ: ہکا بھکا کمزور مرد۔
الْقَلَزُ وَالْقَلَزُ: سخت تانبا کہ جس کو لوہا کات
نہ سکے۔ مضبوط مرد۔ مَوْنُثٌ قَلَزَةٌ وَقَلَزَةٌ:
قَلَزَمَ وَتَقْلَزَمَ الشَّيْءُ: گھنا۔ تَقْلَزَمَ
الرَّجُلُ: کجوسی کی وجہ سے مرنا۔
الْقَلَزُومُ: کمینہ۔

الْقَلَزُومُ: مصر اور مکتہ کے درمیان ایک شہر کا
نام اور اسی کے نام پر بحر قلزم ہے۔
الْقَلَزُومَةُ: سر۔ کمینہ پن۔ شور۔
قَلَسَ (ض) قَلَسًا وَقَلَسَانًا: کھانا پانی کا
پینے سے منہ تک آنا۔ بہت شراب پینا نفسہ:
جی متلانا الکاس بالشراب: چمک پڑنا
الإناء: بہہ پڑنا النحل: العسل: شہد بنانا
السحابة بالندی: جھلا پڑنا الرَّجُلُ: گانے
میں ناچنا۔ عمدہ گانا۔

قَلَسَ: دُف بجانا اور گانا۔ عمدہ کرنا الْقَوْمُ: گا
بھا کر اور کھیل کود سے بادشاہوں کا استقبال کرنا
لَهُ: سینے پر ہاتھ رکھ کر عجز و انکساری ظاہر کرنا
الرَّجُلُ: ٹوٹی پہنانا۔

تَقَلَسَ: ٹوٹی پہنانا۔
القَلَسُ: سر۔ کشتی و جہاز کی موٹی رتھی۔ ج
قَلُوسٌ وَأَقْلَاسٌ: القَلَسُ: بد بھسی کی وچ
سے کھانا پانی جو منہ تک آئے۔ قے۔ قَلَسَ
الْبَحْرُ: بادل۔

القَالِسُ: وہ شخص جس کے منہ تک بد بھسی
کی وچ سے کھانا پانی آجائے۔

القَالَسُ: اسم مبالغہ۔ ٹوٹی بنانے والا۔ بَحْرُ
قَالَسٍ: زیادہ جھاگ پھینکنے والا سمندر۔

القَالِسُ: شہد۔ شہد کی مکھی۔
قَلَسَى الرَّجُلُ: ٹوٹی پہنانا۔

تَقَلَسَى تَقَلَسِيًا: ٹوٹی پہنانا۔
الانْقَالِسُ وَالانْقَالِسُ: ایک قسم کی مچھلی

جو سانپ کے مانند ہوتی ہے۔ بام مچھلی۔
القَالِشُ: چھوٹا سکر ہوا۔

القَالِشَةُ: کوتاہی۔ چھوٹاپن۔
القَالِشُ وَالاقْلِشُ: جلد گر (دخیل)
قَلَصَ (ض) قَلُوصًا: الرَّجُلُ: کودنا

الْقَوْمُ: اکٹھا ہو کر چلنا الْقَوْمُ عَنِ الدَّارِ: ہکا
بھکا ہونا اور اکٹھا ہو کر چلنے کا وقت آنا۔
الماءُ: پانی کا ختم ہونا البئرُ: اوپر تک چڑھنا
الظَّلُّ عَنِ كَذَا: سایہ کا سمٹ آنا۔ صفت
قَالِصُ النَّوْبِ بَعْدَ الْغَسْلِ: کپڑے کا سکرنا
الغلامُ: جوان ہونا الشَّفَقَةُ: ہونٹ کا اوپر کو
سکرنا۔

قَالِصَتْ (ض) قَلُوصًا وَقَلِصَتْ (س)
قَالِصًا نَفْسَهُ: جی متلانا۔

قَالِصٌ قَمِيصُهُ فَقَالِصٌ هُوَ: سہننا۔ سننا۔
لازم و متعدي۔ قَالِصَتْ البِرْعُ: زرہ کا
چست ہونا الناقَةُ بِرَأْسِهَا: اونٹنی کا سوار کو
لے کر تیز دوڑنا۔ دوڑے جانا الْقَوْمُ: اونٹنیوں
پر سوار ہونا۔

أَقْلِصَ البعيرُ: کوہان کا کچھ ظاہر ہونا الناقَةُ:
گرمی میں موٹی ہونا۔

تَقَلِصَ: اکٹھا ہونا۔ سکرنا۔ قریب قریب
ہونا۔

القَلِصَةُ: پانی جو کنوئیں میں بکثرت جمع ہو کر
ختم ہو جائے۔ ج قَلِصَ وَقَلِصَاتٌ: اور کہا
جاتا ہے ”مَا وَجَدْتُ فِي البئرِ إِلَّا قَلِصَةً
مِنَ الْمَاءِ“ کنوئیں میں میں لے صرف تھوڑا
سہا پانی پایا۔

القَلُوصُ مِنَ الْإِبِلِ: لمبی ناگوں والی
اونٹنی۔ جوان اونٹنی یا چلتی ہوئی اونٹنی۔ اونٹنی
جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے۔ ج
قَالِصٌ وَقَالِصٌ وَقَالِصٌ وَقَالِصَانٌ:
القَلُوصُ: مادہ شتر مرغ۔ شتر مرغ کا مادہ بچہ۔

شوات کا بچہ۔ جوان لڑکی۔ جاری نہر جس میں
گندگی وغیرہ بہہ کر جاتی ہو۔

القَالِصُ: بہت مین المیہ: ختم ہونے والا
پانی۔

القَالِصُ مِنَ الميہ: ختم ہونے والا پانی۔
اونٹنی کو روکنے والا۔

المِقْلَاصُ: اونٹنی کو روکنے والا مین التوق:
گرمی کے زمانہ میں موٹی ہونے والی اونٹنی۔

فَرَسٌ مَقْلِصٌ: لمبی ناگوں والا گھوڑا۔

قَلَطُ (ن) قَلَطًا. بد صورت ہونا۔

القَلَطُ. جن کے بچے۔ شیطان کے بچے۔

القَلَطِيُّ والقَلِيطُ. مرد غبیث | سرکش

(والقلاط) بہت پرستہ قد۔ آدمی ہویابی یا کتا۔

القَلِيطُ: میل اور گندگی جمع ہونے کی جگہ۔

القَلِيطَةُ: تیرکی ایک قسم۔

القَلِيطُ. خصیہ میں سوجن۔

القَلِيطُ والقَلِيطُ. خصیہ میں سوجن والا۔

القَلَطْبَانُ. بیوی کے بارے میں غیرت نہ

رکھے والا۔ بھڑوا۔

قَلَعَ (ف) قَلَعًا وَقَلَعَ وَاقْتَلَعَ الشَّيْءُ: جڑ

سے اکھیرنا۔ قَلَعَ الْوَالِدُ الْوَالِدًا: معزول

کرنا۔ اِقْتَلَعَ الشَّيْءُ: چھیننا۔

قَلَعَ (س) قَلَعًا وَقَلَعَةَ الرَّايِبِ: سوار کا

زین پر جم کر نہ بیٹھنا الرَّجُلُ: کند ذہنی کی وجہ

سے کلام کو نہ سمجھنا الْمَصَارِعُ: کشتی کے

وقت قدم ثابت نہ رہنا۔

قَلَعَ قَلَعًا الرَّجُلُ: حملہ میں ثابت نہ رہنا۔

زین پر جم کر نہ بیٹھنا۔

اَقْلَعَ عَنْ كَذَا: ہار رہنا اور چھوڑنا الْمَلَاخُ

السَّفِينَةُ: بادیاں اٹھانا اصْحَابُ السَّفِينَةِ:

رواند ہونا الشَّيْءُ: روشن ہونا الْاَمِينُ: قلعہ

بنانا الْحُمَى عَنْ فُلَانٍ: بخار کا اتر جانا۔ قرآن

مجید میں ہے "يَا سَمَاءُ اقلعي" یعنی اسے

آسمان بارش سے رُک جا۔

قَالَعًا مَقَالَعَةً: ایک دوسرے کو اکھیرنا۔

تَقَلَعَ وَانْقَلَعَ وَاقْتَلَعَ: جڑ سے اکھڑنا۔

تَقَلَعَ فِي مَشِيئَةٍ: آگے کو جھکتے ہوئے چلنا۔

القَلْعُ. سر۔ بسولی۔ چرواہے کا چھیلا۔ ج قَلْعُ

وَقَلْوَعُ. قَلْعُ الْحُمَى: بخار اترنے کا دن۔

کہا جاتا ہے "نَزَحْتَهُ فِي قَلْعٍ وَقَلْعٍ وَقَلْعٍ

مِنْ حُمَاهُ" میں نے اس کو بخار اترتی ہوئی

حالت میں چھوڑا۔ القلع کان جس کی طرف

عمدہ رات کو منسوب کرتے تھے کہتے تھے

"رِصَاصٌ قَلْعِيٌّ وَقَلْعِيٌّ"

الْقَلْعُ. بادبان۔ ج قَلْوَعُ وَقِلَاعُ.

الْقَلْعُ. بخار کے اترنے کا دن۔ مردوں کے

پینٹے کی صدری۔ وہ شخص جو گھوڑے پر بٹھی

طرح نہ بیٹھ سکے۔

القَلْعُ. چلنے میں قوی مرد۔

القَلْعُ. سر۔ خون۔ کھرنڈ جو کھجلی والے کے

جسم پر ہو۔ پتھر جو چٹان کے نیچے ہو من

الْحُمَى: بخار اترنے کا دن۔

القَلْعُ. جو حملہ میں یازین پر قائم نہ رہ سکے۔

کند ذہن جو کلام کو نہ سمجھے۔ کھرنڈ والے۔ و

شَيْخٌ قَلَعَ: کھڑے ہونے کی حالت میں آگے

کو جھکنے والا بڑھا۔

القَلْعَةُ. قلعہ۔ ج قِلَاعُ وَقَلْوَعُ.

القَلْعَةُ: کھجور کا چھوٹا پودہ جو کھجور کی جڑ سے

اکھیرا جائے۔ چرواہے کا تو شردان۔

القَلْعَةُ. قَلْعُ كاسم نوع۔ لہبھاڑا ہوا کھلا۔ ج

قَلْعُ.

القَلْعَةُ. کھرنڈ والا کزور جو کشتی میں جلد

مغلوب ہو جائے ہمیشہ نہ رہنے والا مالِ مَقْبَعِي

کا مال اور دخت سے جو اکھیرا جائے۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ عَلَى قَلْعَةٍ" وہ سفر پر ہے "وَمَنْزِلُنَا

مَنْزِلٌ قَلْعِيٌّ وَقَلْبَعِيٌّ وَقَلْعِيٌّ" یعنی ہم ماگ

نہیں "هَذَا الْمَنْزِلُ مَنْزِلٌ قَلْعِيٌّ" یعنی

جب کوئی صاحب عزت آدمی آجاتا ہے تو بیٹھنے

والے کو ہٹانا یا بار بار اٹھانا پڑتا ہے۔

القَلْعَةُ. بڑا ٹیلہ۔ قلعہ۔ بادل کا پہاڑ جیسا

کھلا۔ ج قَلْعُ. چٹان جو پہاڑ سے جدا ہو گئی ہو

اور دشاوار گزار ہو۔ ج قِلَاعُ وَقَلْعُ.

القَلْعَةُ. کھرنڈ والا۔

القَلْعُ. جو خشک ہونے کے بعد پھٹی ہوئی

مٹی پھنسیاں۔ جو منہ یا زبان پر ہوں۔ واحد

قَلْعَةُ القَلْعُ: مٹی جو خشک ہونے کے بعد

پھٹ جائے اور اس کے نیچے سانپ کی چھتری

ہو۔ قِلَاعُ الْاِذْنِ: کان کی جڑ میں شکاف کہ

جس سے پیپ وغیرہ نکلے۔ القَلْعَةُ: پتھر یا

ڈھیلا جو پھینکنے کے لئے زمین سے اکھیرا جائے۔

کہا جاتا ہے "رَمِي بِقَلْعَةٍ" یعنی لاجواب کر

دیا گیا۔

القَلْعَةُ: کشتی و جہاز کا بادبان۔

القَلْعُ. وہ شخص جو حملہ میں یازین پر قائم نہ

رہ سکے۔ بڑا جھوٹا۔ داڑھ اکھیرنے والا۔

بادشاہوں کے پاس چٹلی کھانے والا۔ سپاہی۔

سپہ سالار۔ کھن چور۔

القَلْوَعُ. بڑی اونٹنی۔ کمان جو کھینچنے میں

اُت جائے۔ ج قَلْعُ.

اِقْلَاعُ الْحُمَى وَمَقْلَعُهَا. بخار کا اترنا۔

المَقْلَعُ. پتھر اکھیرنے کی جگہ۔ ج مَقْلَاعُ.

المَقْلَاعُ. گوچیں۔ ج مَقْلَاعِيعُ.

اِقْلَعَتِ الشَّعْرُ: بال کا سخت ٹھنکھریا لے ہونا

فُلَانٌ: خود سری کے ساتھ جانا۔

اِقْلَعَتِ الشَّعْرُ: بال ٹھنکھریا لے اور سخت

ہونا۔

اِقْلَعَتِ الشَّيْءُ: سمٹنا اَنَا مِلَّ فُلَانًا: سردی یا

بڑھاپے کی وجہ سے جھری وار ہونا۔

قَلْبَعٌ وَقَلْبَعَةٌ: زیادہ میلا کرنا اور میلا ہونا۔

اَلْمَقْلَعُطُ: میلا اور کجس آدمی۔

القَلْعَةُ: بالوں کا سخت ٹھنکھریا لاپن۔

رَقْلَفٌ (ض) قَلْفًا الشَّجْرَةَ: درخت سے

چھال اُتارنا الشَّيْءُ: پلٹنا (واقْتَلَفَ) الظَّفَرُ:

جڑ سے کاٹ لینا۔ قَلْفُ الْعَصِيْبِ: جھاگ

لانہ۔

قَلْفٌ (ن) قَلْفًا. القَلْفَةُ: کانٹا۔

قَلْفٌ (ض) قَلْفًا وَقَلْفَةُ الدَّنِّ: منگے کے

سرے پر کی مٹی چھڑانا (وقَلْفَ) السَّفِينَةَ

کشتی کے تختوں کو درخت خرما کی چھال سے

جوڑنا اور ان کے درمیان تار کول ڈالنا۔ اسم

القَلْفَةِ ہے وَقَلْفُ الْجُرُورِ: کھلے

کھلے کرنا۔

قَلِيفٌ (س) قَلْفًا الصَّبِيءُ: بے خند ہونا یا

عضو تناسل کی کھال کا بڑا ہونا۔ صفت اَقْلَفٌ.

تَقْلَفُ الْقِسْرِ عَنِ الشَّجْرَةِ: درخت سے

چھال کا اترنا۔

اِنْقَلَفَتِ السَّرَّةُ: ناف کا موٹائی کی وجہ سے

لوٹ جانا۔

اَلِقَلْفُ. درخت کی چھال۔ واحد قَلْفَةٌ سخت

جگہ۔

الْقَلْفَةُ: ناخن جڑے کٹا ہوا۔
 الْقَلْفَةُ وَالْقَلْفَةُ: عضو تاسل کی کھال۔ ج
 قَلْفٌ
 الْقَلْفَةُ مِنَ الشَّفَاةِ: ہونٹ جس میں موٹائی
 ہو۔
 الْقَلْفَةُ: درخت وغیرہ کی چھال۔
 الْقَلْفِيُّ ج قَلْفٌ وَالْقَلْفِيَّةُ ج قَلْفِيَّةٌ
 وَالْمَقْلُوفَةُ ج مَقْلُوفَاتٌ: کھجور رکھے کا بڑا
 ٹوکرا۔
 الْقَلْفِيُّ وَالْمَقْلُوفُ: مکھن جس کے سرے
 سے مٹی چھڑادی گئی ہو۔ الْقَلْفِيُّ: خشک میوہ
 دریائی کھجور جس کا چمکا اتر گیا ہو۔ کھجور کا بڑا
 ٹوکرا۔ واحد قَلْفِيَّةٌ
 الْأَقْلَفُ: بے خندہ۔ عضو تاسل کی بڑی
 کھال والا۔ مونت قَلْفَاءُ ج قَلْفٌ: کہا جاتا
 ہے ”هُوَ أَقْلَفُ الْقَلْبِ“ وہ اچھی باتوں کو
 نہیں قبول کرتا ”عَامٌ أَقْلَفٌ“ سرسبز سال
 ”عَيْشٌ أَقْلَفٌ“ خوش حال زندگی۔
 التَّقْلِيْفُ: کھجور سے مشتمل جدا کرنا اور برتن
 میں ذخیرہ کرنا۔
 قَلْفَحٌ الطَّعَامُ: سب کچھ کھالینا۔
 تَقْلَفَعُ عَنْهُ الشَّيْءُ: چھل جانا۔
 الْقَلْفَعُ وَالْقَلْفِعُ: خشک کچھڑ کا پھنا ہوا ٹوکرا۔
 لوہے کے ذرات جو ڈھالتے وقت گریں۔
 الْقَلْفَعَةُ: سانپ کی چھتری۔ زمین کی مٹی جو
 سانپ کی چھتری کے اگنے سے ہٹ جائے۔
 اُونْتُوُتٌ كِهَالٍ پَرِجِهَالٍ كِي مَانْدِرُوغُ
 قَلْقٌ (س) قَلْقًا: مضطرب ہونا۔ بے قرار
 ہونا۔ صفت مذکر قَلِقٌ وَ مِقْلَاقٌ: صفت
 مونت قَلْقَةٌ وَ مِقْلَاقٌ
 قَلِقٌ (ن) قَلِقًا الشَّيْءُ: حرکت دینا۔
 أَقْلَفُهُ: بے قرار کرنا۔ أَقْلَقُ الشَّيْءُ مِنْ
 مَكَانِهِ: حرکت دینا الْقَوْمُ السُّيُوفُ فِي
 الْعَيْدِ: آسانی کیلئے تلوار کو میان ہی میں
 حرکت دینا۔
 الْقَلْقَاسُ: اردو۔
 قَلَقٌ قَلْقَلَةٌ: آواز نکالنا قَلْقَلَةٌ وَقَلْقَالًا

وَقَلْقَالًا) الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ الْحَزْنُ
 وَمَعَهُ: آنسو بہانا فِي الْأَرْضِ سَفَرُكَرْنَا۔
 تَقَلَّقَلُ: متحرک ہونا۔ ہلکا ہونا اور تیز دوڑنا
 فِي الْبِلَادِ: ملک میں پھرنا۔
 الْقَلْقِلُ وَالْقَلْقِلَانُ: ایک درخت ہے جو انار
 کے مشابہ ہوتا ہے اور جس کا پھل کالے رنگ
 کا چمکا گول کالی مریچ کے برابر ہوتا ہے۔
 حُرُوفُ الْقَلْقَلَةِ پانچ حروف ہیں۔
 ب ا ج د ا ط ا ن۔
 الْقَلْقَالُ: ہمیشہ سفر کرنے والا۔
 الْقَلْقَالُ وَالْقَلْقُلُ: پھر تیلادوگا۔ الْقَلْقُلُ:
 سفر میں ہلکا پھلکا۔
 قَلَمٌ (ض) قَلَمًا وَقَلَمٌ الشَّيْءُ: کانا الظَّفَرُ:
 ناخن تراشنا۔ قَلَمٌ: تھوڑا تھوڑا کانا
 الْقَلَمُ: قلم۔ قلم کا اطلاق بن جانے کے بعد
 سے بننے سے پہلے قَبْضَةٌ اور بَرَاءَةٌ کہتے ہیں۔
 الْقَلَمُ: جوئے کا تیر۔ تیر جو جوار یوں کے
 درمیان گھمایا جاتا ہے۔ ج قَلَامٌ وَ قِلَامٌ
 الْقَالِمُ: فاقہ جس کے بیوی نہ ہوں۔ قَلَمَةٌ:
 الْقَالِمَةُ: تراش۔ قَالِمَةُ الظَّفَرِ: ناخن کا
 تراش۔ اور اس سے گھٹیا اور حقیر چیز کی تشبیہ
 دی جاتی ہے۔
 الْإِقْلِيمُ: ملک۔ صوبہ۔ ریح مسکون کا
 ساتواں حصہ۔ ج أَقْلِيمٌ (دخیل)
 الْإِقْلِيمِيُّ: نظریہ اقلیمیہ کو ماننے والا۔
 علا قاتی سطح پر لوگوں کے اجتماع کا نظریہ۔
 الْإِقْلِيمَةُ: قلم دان۔ ج مَقَالِمٌ
 سَعَالِمُ الرُّومِجِ:
 تیزے کی گرہیں۔
 الْمُقْلِمَةُ: بیوہ عورت اور کہا جاتا ہے
 ”سَارَتْ أَلْفٌ مُقْلِمَةً“ یعنی ہزار سپاہیوں کی
 ہتھیار بند فوج روانہ ہوئی۔ کہاجاتا ہے ”قَلَانٌ
 مَقْلُومٌ الظَّفَرُ وَمَقْلَمٌ الظَّفَرُ“ یعنی ضعیف و
 ذلیل ہے۔
 الْمُقْلَامُ: قینچی۔
 قَلَمٌ زَائِسَةٌ: سر پر بار کر جدا کرنا۔ مونڈنا۔
 الشَّيْءُ: جڑے اٹھیزنا۔

الْقَلْمَةُ: س۔ کہنے لوگ۔

قَلْتَسُهُ: ٹوپی پہننا قَلْتَسَ الشَّيْءُ: چھپانا۔

الرُّجُلُ: سینہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔

تَقَلْتَسُ: ٹوپی پہننا۔

الْقَلْنَسُوتَةُ وَالْقَلْنَسِيَّةُ: ٹوپی ج قَلَانِسُ

وَقَلَانِسُ وَقَلَانِسٌ وَقَلَانِسٌ اور تصغیر

قَلْنَسِيَّةٌ وَقَلْنَسِيَّةٌ اور بادرہ جس ٹوپی کو

استعمال کرتا ہے اس کو عوام قَلْنَسِيَّةٌ کہتے ہیں۔

قَلَا يَقْلُو اللَّحْمَ وَغَيْرَهُ: گوشت

کڑھای میں بھوننا۔ صفت فاعلی۔ قَلَاءٌ اور

صفت مفعولی مَقْلُوءٌ الْإِبِلُ: اونٹوں کو ہانکنا۔

الْقَلَّةُ وَبِالْقَلَّةِ: گلی ڈنڈا کھیلنا (قَلَا وَقَلَاءٌ)

الرُّجُلُ: بغض رکھنا۔

تَقْلَعُ إِلَيْهِ: نفرت کرنا۔ بغض ظاہر کرنا

عَلَى فَرَأَشِهِ: مضطرب ہونا۔ تلملانا۔

تَقَالَى الرُّجُلَانُ: ایک دوسرے سے بغض

رکھنا۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمْ تَقَالٌ“ ان کے

رہیمان بغض ہے۔

أَقْلُوهُ أِقْلِيلًا: کوچ کرنا۔ بے آرام ہونا۔

سُكْرًا: جگہ سے علیحدہ ہو بیٹھی الجبل: پہاڑ کی

چوٹی پر چڑھ کر جھانکنا الطَّائِرُ: پرندہ کا اڑنے

میں بلند ہونا۔ درخت کے اوپر کے حصہ پر اترنا

هُ: پیٹھ پر سوار ہونا۔

الْقَلْوُ: ہلکا پھلکا۔ جوان ہلکا گدھا۔

الْقَلَّةُ ج قَلَاتٌ وَقَلُونٌ وَقَلُونٌ

(المقلى والمقلاء) گلی ڈنڈا۔ الْقَلَّةُ: ہرن

کے چھسانے کے لیے ایک قسم کا پھندا۔

الْقَلْوَةُ: جانور جو اپنے سوار کو لے کر سب

سے آگے بڑھ جائے۔

الْقَلْوِيُّ: بلند پرواز پرندہ۔

قَلَى يَقْلِي قَلِيًا اللَّحْمَ وَغَيْرَهُ: گوشت

بھوننا صفت فاعلی قَلَاءٌ: صفت مفعولی

قَلَانًا: سر پر ہانا (الرُّجُلُ وَ قَلِيَهُ يَقْلَاهُ

قَلَى وَقَلَاءٌ وَمَقْلِيَّةٌ) بغض رکھنا۔ صفت

فاعلی قَالَ اور صفت مفعولی مَقْلَى۔

الْقَلَى وَالْقَلِيَّ: جی۔

الْقَلَى: پہاڑوں کی چوٹیاں۔ مردوں کی

کھوڑیاں۔ واحد قُمَّة۔

القُمَّة کڑھائی بنانے والا۔ کڑھائی میں گوشت بھونے والا۔

القَلَانَةُ وہ جگہ جہاں کڑھائیاں تیار ہوتی ہیں۔

القَلِيَّةُ جو بھونا جائے۔ شور باجو اُوٹ کے گوشت سے بنایا جائے۔ راہب کی کوٹھری۔ ج قَلَايَا۔

المُقَلَّةُ والمُقَلَّةُ کڑھائی۔ فرائی پان۔ ج مقال۔

المُقَلَّةُ وہ مقام جہاں کڑھائی بنائی جائے۔ المَقْلِيُّ جو بھونا جائے۔

قَمْرُنٌ قَمًّا خَمٌّ ہونا شاربہ نمونجہ ج سے موڑنا الشَّبْتِ گھر میں چھاڑ دینا۔ صفت قَامٌ و قِمَامٌ (وَأَقَمُّ) مَا عَلَى الْمَائِدَةِ:

کھانا واقم الشئی سزاوت کرنا۔ اعتماد کرنا۔ خظانہ کرنا۔

قَمَّمَهُ بَحَلَّ كَرْنَا قَمَّمِ النَّخْمِ سَتَارَةَ كَا وَسَطِ آسَمَانٍ مِثْلَ بَهْنِيَا۔

تَقَمَّمِ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ رَسْتَرِ خَوَانٍ پَرَسے سب کچھ کھالینا الشئی کسی چیز پر چڑھنا۔

النَّخْلَةَ بَرِخْتِ خَرَابًا پَرِخْتَانَا رَسْرے تَمَك پھینا الرَّجُلُ قِرْنَهُ نَسْرَ رَعَابِ آتَا۔

القِمَّةُ ہر چیز کی چوٹی۔ لوگوں کی جماعت۔ بدن۔ قد واقمت ج قَمَمِ۔

القِمَّةُ شِرْكَا لَقَمَدِ كُوْزَا گُھَر۔ القَمِيمِ شَمَكِ سَبْرِي سَتَو۔

القُمَّامَةُ كُوْزَا كَرَكْتِ لَوِگُوں كِي جَمَاعَتِ ج قَمَمِ۔

المَقَمِّمِ والمَقَمِّمِ رَسْتَرِ خَوَانٍ پَر كَا سَب كَچھ کھالنے والا۔

المَقَمَّةُ جَمَارُودُ ج مَقَامٌ (وَالْمَقَمَّةُ) مِثْلُ بَهْنِيَا۔

مِثْلُ بَهْنِيَا۔ كَھَرُ وَا لے جَانُورُوں كے ہونے۔ قَمَّا(ن) و قَمُو(ن) قُمَّامَةٌ و قُمَّامَةٌ و قُمَّامَةٌ و قُمَّامَةٌ ذِيلٌ و خَوَازٌ ہونا۔ صفت قَمِيحٌ قُمَّاءٌ و قُمَّاءٌ۔

قَمَّا(ن) قُمَّا الْمَكَانِ و بَهْرَاغَلِ ہونا

اور اقامت کرنا ہیکھ کرنا۔

قَمَّا(ن) قَمًّا و قَمُو(ن) قَمُوًّا و قَمُوَّةٌ و قُمَّا و قُمَّاءٌ و قُمَّامَةٌ. المَاشِيَةُ:

جانور کا موٹا ہونا بِالْمَكَانِ سَر سَبْرِي كِي وَج سے اقامت کرنا اور موٹا ہونا۔

أَقَمَّا الرَّجُلُ ذِيلَ كَرْنَا الشَّيْءِ اَوِ الْمَكَانِ فَلَانَا: تَعَبٌ مِثْلُ ذَالِنَا أَقَمَاتِ الْمَاشِيَةِ: جانور کا موٹا ہونا۔

قَامَامَةٌ مَقَامَامَةٌ. مَوَافَقَتِ كَرْنَا. كَہَا جاتا ہے مَا قَامَامَةٌ الْمَكَانِ جگہ اس کو موافق نہیں آئی۔

تَقَمَّمَا فَلَانُ الْمَكَانِ: مَوَافِقِ ہونا اور اقامت کرنا الشئی تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔ عمدہ لیتا۔

أَقَمَّمَا الشَّيْءِ جَمْعِ كَرْنَا. القَمُّ: وہ جگہ جہاں اقامت کریں اور موٹے ہو جائیں۔

القُمَّامَةُ ج قُمَّاءٌ و المَقَمَّامَةُ و المَقَمُّوَّةُ وہ جگہ جہاں دھوب نہ پینچے۔

القُمَّامَةُ و القُمَّامَةُ سَر سَبْرِي۔ آرام۔ القَمِيُّ ذِيلٌ و خَوَابِ:

قَمَحٌ (ن) قَمُوْحًا و قَامِحٌ و تَقَمَّحٌ و انقَمَّحَ البَعِيْرُ سِرَابِي كِي وَج سے پینے سے باز رہنا اور سر اٹھانا صفت قَامِحِجِ قَمَاحِ و قَمَّحٌ و تَقَمَّحَ الشَّرَابِ و مِثْنِ الشَّرَابِ:

ناپسند کرنا۔ قَمَّحِجِ (س) قَمَّحًا و انقَمَّحَ و تَقَمَّحَ السَّوِيْقِ تَو پھانکا الشَّرَابِ: تھمیلی پر لینا اور چاٹنا۔

قَمَّحٌ فَلَانَا جَمْعِ سے کہہ کر ہٹانا۔ اَقَمَّحَ السَّنْبُلُ خَوْشِہ مِثْلُ وَا نَہ بِيْشْمَا البِرِّ:

تیار گیہوں ہونا الرَّجُلُ سَر اُٹھانا اور اُٹھ کر بندر کرنا بِانْفِہ: بڑائی جانا۔ مَغْرُورٌ ہونا العَلُّ الِابْسِيْرُ جَمْعِي كِي وَج سے سر کو نکالنا چھوڑ دینا فَلَانُ شَرَابِ پِیَا۔

القَمَّحُ گِہوں۔ واحد قَمَّحَةٌ. القَمَّحَةُ بَحَلَّ يَابَانِي سے مُنہ بھرا ہوا۔

(وَالْقُمَّحَانُ وَالْقُمَّحَانُ كِرَعْفَرَانِ۔

القُمَّحَانَةُ سَر كے پچھلے حصہ میں اُٹھی ہوئی جگہ اور گدی کے کڑھے کے درمیان کی جگہ۔

القَمِيْحَةُ پچھلی (دو لپا ستون وغیرہ کی) رَجُلٌ قَمُوْحٌ لِلْبَيْدِ بَہت پینے والا۔

القَمَّحُوَّةُ سَر كے پچھلے حصہ میں اُٹھی ہوئی جگہ۔ اَقَمَّحُ اَقَمَّحًا بِانْفِہ: بڑائی جانا۔ مَكْبِرِیْنِ كِي طَرَحِ بِيْشْمَا۔

قَمَلِ(س) قَمَدًا و قَمُوْدًا: اِنكَار كَرْنَا۔ باز رہنا۔ تَمَكِي يَابَدِي مِثْلِ نَكَا رَہنا۔

قَمَلِ(س) قَمَدًا لَبِي اور موٹی گردن والا ہونا۔ صفت اَقَمَلُوْنُوْتِ قَمَدًا۔

اَقَمَدَ الرَّجُلُ مَدْرُنَ بَلَدِ كَرْنَا. القَمْدُ و القَمْدُ و القَمَادُ مَضْرُوبٌ۔ موٹا۔

القَمْدُ و القَمْدَةُ و القَمْدَانِيَّةُ لَبِي مَدْرُنِ وَا لِي اور بقول بعض موٹی اور لَبِي مَدْرُنِ وَا لِي۔ القَمْدَرُ لَبِي قَدِ وَا لِي۔

قَمَرِ(س) قَمَرًا جَوَا كِهِيَا الرَّجُلِ جَوَّے مِثْلِ غَالِبِ آتَا۔

قَمَرِ(س) قَمَرًا الرَّجُلِ مَالَةٌ: مَالِ قَمَرِ(س) قَمَرًا جَوَا كِهِيَا الرَّجُلِ مَالَةٌ: مَالِ قَمَرِ(س) قَمَرًا الرَّجُلِ مَالَةٌ: مَالِ

چھین لینا۔ قَمَرِ(س) قَمَرًا الشَّيْءِ بَہت سَفِيْدٌ ہونا۔

الرَّجُلُ نَزَفِ كِي وَج سے چدھانا۔ چاندنی رات میں بے خواب ہونا الكَلَا و المَاءُ و غَيْرُ هَمَا كَہَا سِ پَانِي وَغَيْرِہ بَہت ہونا الِابِلِ:

اُوٹ کا سیراب ہونا۔ قَامِرَةٌ مَقَامِرَةٌ و قَمَارًا: باہم جَوَا كِهِيَا۔ اَقَمَرُ اللَّيْلِ: چاندنی کا کھیت کرنا الِهَلَالِ:

پورا چاندنی القوم چاندنی میں ہونا۔ چاند کے نکلنے کا انتظار کرنا الشَّمْرُ: پھل کے پینے میں تاخیر ہونا یہاں تک کہ سردی جائے پینے سے پہلے سردی کا آجانا اور مٹھاس کا چاتا رہنا الِابِلِ:

اُوٹ کا سیراب ہونا۔ بہت گھاس میں چرنا۔ تَقَمَّرَ چاندنی رات میں شكار كِیْلے نَكَلْنَا۔

الرَّجُلُ جَوَّے مِثْلِ غَالِبِ آتَا۔ چاندنی رات میں آنا الطَّيْرُ و الطَّبَّاءُ: پَرندوں یا ہر نیوں کا

چاندنی روشنی میں شکار کرنا الطیْر: پرندہ کو
شکار کیلئے رات میں آگ سے چندھا کر دینا۔
تَقَامِرُ الْقَوْمِ: باہم جو اکیلا۔

إِقْمَارُ الْقَمِيرَاتِ: سفید ہونا۔ چاند کے رنگ
کا ہونا۔

القَمَر: چاند۔ تین رات کے بعد آخر ماہ تک
تقریباً پین اور اس سے پہلے ہلال جِ اَقْمَارُ
القمران: آفتاب و ماہتاب۔ اَقْمَارُ الْعِلْمِ
و شَمُوسُه: علماء اور کہا گیا ہے "اِسْتَرَعَيْتُه
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ" یعنی میں نے اس کو
مہلت دی۔

القَمْرَةُ: سبزی مائل۔ سفید رنگ۔
الماء القَمِر: بہت پانی۔ لَيْلَةُ قَمْرَةَ:

چاندنی رات۔
الحُرُوفُ الْقَمْرِيَّةُ: چودہ حروف ہیں جن
کے ساتھ تلفظ میں لام پڑھا جاتا ہے جیسے
القَمَرُ۔

القَمْرِي: فاخذہ کی مانند ایک مشہور پرندہ
مؤنث قَمْرِيَّةُ جِ قَمْرٌ و قَمَارِي۔

القَمْرِيَّةُ: زمین پر پھیلنے والی بوٹی جس کے
پھلوں کے بیج چاند کی طرح ہوتے ہیں ذریعہ
زینت کے لئے لگائی جاتی ہے۔ امریکہ کے
علاقہ میں پائی جاتی ہے۔

القَمَار: س۔ جوا۔
القَمِير: جواہری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
قَمِيرٌ" وہ جو بے میں تمہارا ساتھی ہے ج
اَقْمَار: جیسے نصیر و انصار۔

قَمْرَةُ الْمَرْكَبِ: (عِنْدَ الْمَلَاحِيْنِ) بحری
جہاز کا کمرہ

الاقَمَر: سبزی مائل سفید رنگ والا۔ سفید
وَجْهَ اَقْمَر: چاند کے مشابہ چہرہ۔ سَحَابٌ
اَقْمَر: پانی سے بھر ہوا ہادل۔

القَمْرَاءُ: الاقمر کا مؤنث۔ چاندنی۔
لَيْلَةُ مَقْمَرٍ و مَقْمَرَةٌ: چاندنی رات۔ عرب
کے امثال میں سے ہے "اَنْطَقَ مِنْ ظَنِي
مَقْمَرٍ" بیان کیا گیا ہے کہ چاندنی میں ہرن کو
نشاط حاصل ہوتا ہے اور وہ کھیل کودتا ہے اور

کبھی دھوکے میں آجاتا ہے اور رندہ شکار کر لیتا
ہے۔ اسی وجہ سے دوسری مثال میں کہا گیا ہے
"اَعْرَمِنْ ظَنِي مَقْمَرٍ"۔

المَقْمُور: س۔ بُرَائِي۔ ناپسندیدہ بات اور اسی
سے مثال ہے "وَضَعْتُ يَدِي بَيْنَ اِخْدَائِي
مَقْمُورَتَيْنِ" دو بُرَائِيوں میں سے ایک بُرَائِي
میں میں نے ہاتھ ڈالا۔

قَمَزَ (ن ض) الشَّيْءُ: جمع کرنا الشَّيْءُ:
انگلیوں کے کناروں سے پکڑنا۔

اَقْمَزَ الرَّجُلُ: بیکار چیروں کا ذخیرہ کرنا۔
القَمَرُ: بے کار مال۔

القَمْرَةُ كَجُورِ كِي اِيكِ مِثْلِي۔ نباتات کا ٹھونڈ
جس میں دانہ نہ ہو۔ جِ قَمُورُ:

قَمْسَةٌ (ن ض) قَمْسًا و اَقْمَسَهُ فِي
الماءِ: پانی میں غوطہ دینا۔ اَقْمَسَ
الْكُوكِبُ: ستارے کا غروب ہونا قَمَسَتْ
الدَّلْوُ فِي الْمَاءِ: ڈول کا ڈوب جانا۔ قَمَسَ
بِهِ فِي الْبَيْتِ: کونوں میں پھینکانا۔
الْوَلَةُ فِي الْبَطْنِ: بچے کا پیٹ میں حرکت
کرنا۔

قَمَسَ (ن ض) قَمَسًا و قَمُوسًا
و اِنْقَمَسَ فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔
اِنْقَمَسَ الْكُوكِبُ: ستارہ کا غروب ہونا۔
اِنْقَمَسَ فِي الرَّيْثَةِ: کونوں میں کود پڑنا۔

قَمَسَ الرَّجُلُ: اُونٹوں کو سیراب کرنا۔
قَامَسَهُ قِمَامًا و مَقَامَسَةً: غوطہ لگانے
میں مقابلہ کرنا۔ مناظرہ کرنا۔ مباحثہ کرنا۔ کہا
گیا ہے "هُوَ يَقَامِسُ حُوتًا" وہ پھل سے
قوطہ لگانے میں مقابلہ کرتا ہے یعنی اپنے سے
زیادہ علم والے سے مباحثہ کرتا ہے۔

قَامَسُوا فِي الْمَاءِ: باہم غوطہ زنی کرنا۔
القَمَّاسُ: غوطہ خور۔

القَامُوسُ: سمندر۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ ج
قَوَامِيسُ:

القَامُوسُ: علامہ محمد الدین فیروز آبادی کی
علم لغت میں ایک مشہور کتاب زمانہ موجودہ
میں ہر لغت کی کتاب کو قَامُوسُ کہتے ہیں۔

القَمَّاسُ: کونوں میں پانی کی زیادتی۔

القَمَّاسُ جِ قَمَامِيسُ القَمِيسُ: سمندر۔

القَمُوسُ: کتوں جس میں پانی زیادہ ہونے کی
وجہ سے ڈول ڈوب جائے۔

القَمَّاسُ: مرد شریف جِ قَمَامِيسُ و
قَمَامِيسَةٌ:

القَمُوسُ: امیر۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ ج
قَوَامِيسُ: القَوَامِيسُ: مصیبتیں۔

قَمَّشَ (ن ض) قَمَّشًا و قَمَّشَ الْقَمَّاشُ:
ادھر ادھر سے جمع کرنا۔

تَقَمَّشَ: جو کچھ ملے اس کو کھا جانا اگرچہ
معمولی ہو۔

اِقْتَمَّشَ: القَمَّاشُ: ادھر ادھر سے کھانا۔
القَمَّاشُ: رومی اور گھنیا چیزیں۔ قَمَّاشُ:

النَّاسُ رُزُلٌ لَوْ كَ: قَمَّاشُ النَّبِيِّ: گھر کا
سامان۔ جِ اَقْمَشَهُ:

القَمَّشُ: س۔ رومی چیز۔
القَمَّاشُ: سامان بیچنے والا۔

قَمَّصَ (ن ض) قَمَّاصًا و قَمَّاصًا
و قَمَّصَا الْفَرَسَ و غَيْرُهُ: گھوڑے کا اگلی
دونوں ناگوں کو اکٹھا اور اٹھانا اور اکٹھا رکھنا

الْعَبِيرُ: گدھے کا کودنا اور بھاگنا (قَمَّصًا مِنْهُ:
نفرت کرنا۔ اعراض کرنا الناقَةُ بِالرَّذِيفِ:

اُونٹنی کا اچھلتے ہوئے لے جانا (و قَمَّصَ)
الْبَحْرُ بِالسَّفِينَةِ: موج سے حرکت دینا۔
و قَمَّصَةُ: قیص پہنانا۔ قَمَّصَ الثَّوْبَ: کرنا
قطع کرنا۔

تَقَمَّصَ: کرنا پہنانا اور استعارہ کی بنا پر کہا جاتا
ہے "تَقَمَّصَ الْوَلَايَةَ و الْاِمَارَةَ و تَقَمَّصَ
لِبَاسِ الْعِزِّ" تَقَمَّصَتِ الرُّوحُ: ایک جسم
سے دوسرے جسم میں نقل ہونا۔

القَمَّصُ: اٹلے سے نکلے ہوئے ٹڈی کے
تازہ بچے۔ کھیاں یا پھم جو پانی کے اوپر اُڑتے
ہیں۔ واحد قَمَّصَةٌ:

القَمَّاصُ: س۔ قَلْبُ:

القَمِيسُ: کرنا (بزرگ مؤنث) جِ اَقْمِيسَةٌ
و قَمِيسٌ و قَمَّاصَانُ: القَمِيسُ: بھڑائی

بچے کے اور بکری چھلی۔ دل کا غلاف۔ کہا جاتا ہے
”هَتَكَ الخَوْفَ قَمِيصَ قَلْبِهِ“ خوف نے
اس کے دل کے غلاف کو پھاڑ دیا۔

القَمِيصُ والقَمُوصُ۔ وہ جانور جو اپنے
سوار کو لے کر اچھلے۔ القَمُوصُ: شیر۔ بے
آرام جس کو قرار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے ”فلانٌ
قَمُوصُ الحَنْجَرَةِ“ فلاں بڑا جھوٹا ہے۔

قَمَطَةٌ (نض) قَمَطًا وقَمَطَةً۔ گہوارہ میں
چھوٹے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا لابل۔
اُونٹوں کو قنار میں کرنا طعم الشئی: چکنا
الشئی: لینا قَمَطَ الدَيْكُ: مرغ کا جفتی کرنا
المَرْأَةُ: عورت سے جماع کرنا۔

القِمَاطُ: رسی جس سے ہاتھ پاؤں
باندھیں۔ چوڑا کپڑا جس سے گہوارہ میں بچے کو
لیٹ دیں۔ ج قَمَطُ (واقمط) رسی جس
سے بکری کی ٹانگوں کو ذبح کرنے کے لیے
باندھیں۔

عَامٌ قَمِيصٌ۔ پورا سال۔ کہا جاتا ہے ”اقممت
عندہ حَوْلًا قَمِيصًا او شهرًا قَمِيصًا“ میں
اس کے پاس ایک سال کا ل یا ایک مہینہ کا ل
ٹھہرا۔

القَمَاطُ۔ چور۔ بچوں کو گہوارہ میں باندھنے
کے لیے پٹی بنانے والا۔

القَمَاطُ۔ بہت سے چور۔
قَمَطْرٌ قَمَطْرَةٌ الشئی: جمع ہونا الشئی: جمع
کرنا القَرَبِيَّةُ: منک کو بندھن سے باندھنا۔
منک کو بھرنا العَدُوُّ: دشمن کا بھاگنا۔ قَمَطْرٌ
الجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔

اقمطرٌ۔ منتشر ہونا۔ سكر بلشر: آمادہ ہونا
اليَوْمُ: دن کا سخت ہونا عَلَيْهِ الشئی: بھیڑ
ہونا۔

القَمَطْرُ والقَمَطْرُ۔ بستہ۔ جزو دان۔
حجر میں کے پاؤں چھسانے کی کلڑی۔ پستہ قد
موٹا مرد نہ کرومٹ اور کبھی امرأة قَمَطْرَةٌ
کہتے ہیں۔ قَمَاطِرُ القَمَطْرِ: شکر دانی۔

القَمَاطِرُ والقَمَطَرِيُّو: سخت دن یا سخت
بُرائی۔

القَمَطْرِيُّ۔ پستہ قد موٹا مرد۔ اکٹھی چال۔
قَمَعَةٌ (ف) قَمَعًا آکس سے مارنا۔ ارادہ
سے ہٹا دینا۔ خوار و ذلیل کرنا۔ قَمَعُ القَرَبِيَّةِ:
باہر کی طرف منک کے مُنہ کو موڑنا قَمَعُ فِی
الشئی: داخل ہونا۔

الکُتْبُ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا۔ قَمَعَتِ
المَرْأَةُ بناتھا بالحِشَاءِ: عورت کا پوروں کو
مہندی سے رنگنا: سر کے بالائی حصہ پر مارنا
لَبْرَدُ النَّبَاتِ: سردی کا نباتات کو جلادینا
فِی السَّقَاءِ: ڈگڈگ کے پینا الشراب:
آسانی سے حلق سے اُترنا سَمِعَهُ لِفَلَانِ:
خاموش ہونا لوطب: قیف لگانا۔

قَمَعَتِ (س) قَمَعًا عَيْنَهُ: گوشہ چشم میں
درم والی ہونا۔ صفت قَمَعَةُ الفَرَسِ: ایک
مونے گھنے والا ہونا عَرَفُوبُ الفَرَسِ: اڑتی
کے سرے کا موٹا ہونا الظَّبْيَةُ: ہرن کی ناک
میں کھنی داخل ہونا اور اس کی وجہ سے اس کا سر
بلا غلظان الذَّوَاءِ: دوا پھلنا۔

قَمَعُ البُسْرَةِ ونحوها: کھجور وغیرہ کی
پنڈی کو ڈور کرنا۔ قَمَعَتِ البُسْرَةَ و
نحوها: کھجور وغیرہ کی پنڈی کا ڈور ہونا۔

اقمعةً۔ ذلیل و خوار کرنا۔ رد کرنا۔ دفع کرنا۔
ہٹانا۔ تم کہو گے ”اقمعتہ“ یعنی فلاں میرے
پاس آیا میں نے اس کو ہٹا دیا۔

تَقَمَعٌ۔ متحیر ہونا۔ مدہوش ہونا۔ تہا۔ بیٹھنا۔
ذلیل ہونا الذَّبَابُ: کھکی مارنا۔ تم کہو گے
تَرَكَتُهُ يَتَقَمَعُ میں نے اس کو کھکی تھارتا ہوا
چھوڑا (واقمعت) الشئی: چٹنا اور کہا گیا ہے
”اقمعت ما فی الاناء“ یعنی برتن میں جو کچھ
تھما سب پی گیا۔

اقمعت۔ خوار و ذلیل ہونا۔ پوشیدہ مکان میں
داخل ہونا لرجلٌ: تہا بیٹھنا۔

القَمَعُ والقَمَعُ والقَمَعُ۔ قیف۔ ج
اقمعاً۔ کھجور وغیرہ کے نیچے کی پنڈی۔ اور
تعمیر کی بنا پر اکتھان کو بھی قَمَعُ کہتے ہیں۔ ج
قَمُوعٌ۔

القَمَعُ۔ آکھ کے گوشوں میں درم یا سرخی۔

گھوڑے کے گھنے میں یا بڑی میں موٹاپا۔ حلق کا
کنارہ۔ سانس کی نالی کا کنارہ۔ زرخہ کی انجری
ہوئی ہڈی۔

الاقمعة۔ مؤنث قَمَعَاءُ ج قَمَعٌ
والقَمُوعُ: وہ شخص جس کی آنکھ کے گوشے
میں درم یا سرخی ہو الاقمعة من الخيل:
گھوڑا جس کے ایک گھنے میں موٹاپا ہو۔

القَمِيعَةُ۔ کوہان کی چوٹی۔ آکھ کا زخم۔ حلق کا
کنارہ۔ قَمِيعَةُ الذَّنْبِ: ذم کا کنارہ۔ قَمِيعَةُ
الشئی: عمدہ چیز۔ قَمِيعُ القَمِيعَةِ: کھکی جو
سخت گرمی میں اُونٹوں اور ہرنوں کو لگ جاتی
ہے۔ ج مقامع۔

القَمِيعُ من الخيل: گھوڑا جس کے ایک
گھنے میں موٹاپا ہو۔ سَنَامٌ قَمِيعٌ: بڑا کوہان۔
طَرَفٌ قَمِيعٌ: پھنسیوں والی آنکھ۔

القَمِيعَةُ۔ توشہ دان وغیرہ کا سر بند۔ بہترین
مال ج قَمِيعٌ۔

الْقَمِيعُ والقَمِيعُ والقَمِيعُ: قیف (برتن کے
منہ پر رکھ کر مائع چیز بھرنے کا آلہ)

القَمِيعَةُ: یورپ برازیل اور ایشیا کے ممالک
میں پایا جانے والا ایک پھول جو کہ خوبصورت
ہوتا ہے اور اس میں زہریلا مواد ہوتا ہے۔ اس
سے پیٹاب آور اور مسکن دوا دجتالین حاصل
کی جاتی ہے۔ ایسے ہی دل کے مریضوں کو دی
جاتی ہے۔

القَمِيعَةُ من الذَّوَابِ: دونوں کانوں کے
درمیان ابھرنا ہوا حصہ۔ ذم کا سر ج قَمَاعِيعُ
المقَمِيعَةُ۔ آکس۔ کلڑی یا لوہا جس سے
انسان کو مارا جائے۔ ج مقامع۔

المَقْمُوعُ۔ سب مغلوب۔ تخرہ زدہ من
الصَّالِ: چٹا ہونا مال۔

قَمَعَلٌ قَمَعَلَةٌ النَّبْتُ: نباتات کا غلاف نکلتا یا
شگوفہ نکلتا الرَّجُلُ: سردار قوم ہونا۔

القَمِيعَالُ۔ سردار قوم: چرواہوں کا سردار۔
القَمِيعَلُ۔ تنگ مُنہ کی ہانڈی (والقَمِيعُولُ)
بڑا یا لرج قَمَاعِيعُ و قَمَاعِيعِلُ۔

القَمِيعُولَةُ۔ نباتات کا غلاف یا پھول کی کلی۔

کو ٹیل۔ سر کے اندر گملاج قما عجل۔
قَمَمٌ قَمَمَةٌ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ سُرْ
خوان کے نیچے ہوئے کو جمع کرنا۔

تَقَمَمٌ بہت پانی میں گھسا یہاں تک کہ
ذوب جانا الشیء یرحنا۔
القَمَمُ جِلِّیُّ كِی نالی۔ گھڑا پانی گرم کرنے
کے لیے تانبے کا برتن۔ عطر فروش کا برتن۔
گلاب پاش۔

القَمَمُ القَمَمُ والقَمَمُ والقَمَمُ
والقَمَمُ ای زیادہ تعداد سمندر یا سمندر کا گہرا
حصہ۔ چھوٹی چھڑیاں۔ ایک قسم کی جوئیں۔ اس
کا واحد قَمَمَةٌ القَمَمُ والقَمَمُ
والقَمَمُ یز فیاض سردار ج قَمَمٌ
وقَمَمَةٌ القَمَمُ عظیم۔ بڑا معاملہ۔

رَجُلٌ قَمَمٌ کینہ جو ردی اور گھٹیا قسم کے
کھانے پر راضی ہو جائے۔ القَمَمُ قہر
کے آخری پارہ دن جن سے آنے والے سال
کے ہر مہینے کا ہوا پتہ لگایا جائے۔

القَمَمُ پرتشنگ مکی جمور۔
القَمَمُ بکری کا پیالہ۔ لوٹا۔
قَمَلٌ (قَمَلٌ) قَمَلًا القَوْمُ زیادہ تعداد ہونا۔
سر سبزی و شادابی والا ہونا قَمَلًا غری کے
بعد موٹا ہونا راسخ میں جوں ہونا یا بہت

جوں ہونا۔ صفت قَمَلٌ بَطْنٌ لَوْنٌ لَوْنٌ
قَمَلٌ والقَمَلُ المَرَعِیُّ چاگاہ کا آگنا اور سیاہ
ہونا۔
تَقَمَّلَ الرَّجُلُ کچھ موٹائی شروع ہونا۔
القَمَلُ جو واحد قَمَلٌ کہا جاتا ہے "ذَبْ
قَمَلٌ یعنی موٹا ہوا۔ تل قریش دانہ

صنوبر۔
القَمَلُ جوں۔
القَمَلُ چھڑی۔ چھوٹی چوٹی۔ واحد قَمَلَةٌ
المَقَمَلُ قہری کے بعد تو انگر۔
تَقَمَّنَ الامْرُؤُ تصد کرنا الشیء بکرنے کے
قریب ہونا۔

القَمَنُ لائق۔ قریب۔ مناسب۔ یہی لفظ
واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ہے اور

کہا جاتا ہے "هَذَا الْمَنْوَلُ لَكَ مَنْوَلٌ
قَمَنٌ یعنی یہ مکان اس لائق ہے کہ تم اس
میں رہو۔" وجنت بالحَدِیثِ عَلٰی
قَمَنِیْنِ میں نے اس کی روش پر بیان کیا۔

القَمَنُ لائق۔ سزاوار۔ حمام کی جھٹی۔ قَمَنٌ
اور قَمِیْنِ کے ساتھ یا یامن یا لام کا استعمال کیا
جاتا ہے۔ جیسے "هُوَ قَمِیْنٌ وَقَمِیْنٌ بَكْدًا
وَقَمِیْنٌ وَقَمِیْنٌ مِنْ كَدًّا وَلَكْدًا" ج
قَمِنَاءٌ وَقَمِیْنُونَ بَوْنُثٌ قَمِیْنَةٌ
قَمِیْنَاتٌ وَقَمَانٌ کہا جاتا ہے : اَقَمِنُ
بِهَذَا الامْرُؤِ وہ اس کے لیے سزاوار تر

ہے۔ وَهَذَا الامْرُؤُ مَقْمَسَةٌ لِذَلِكَ لَیْزِیْدَةُ
مناسب ہے۔
المَقْمَسُ بکرا ہوا۔
قَامِیٌ مَقَامَةٌ مَوَافِقٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے : مَا
یُقَامِیْنِیْ هَذِیْنِ سِرِّیْنِ مَوَافِقٌ نِیْسٌ۔
قَمِیْسٌ قَمِیْسٌ العَبْرُ حَوْضٌ سے سر

اُتْخَالِیْنَا اور پانی نہ پینا الشیء فی المَآءِ یُتْخَالِیْنَا
اور اُجْمَلْنَا۔
تَقَمَّةٌ فی الارض آوارہ پھرنا۔ کہا جاتا ہے
"خَرَجَ فُلَانٌ یَتَقَمَّلُ کُلَّ اَسْوَءِ حَالٍ مِیْنِ
کہ نہیں جانتا کہ کہاں جائے۔
القَمَلُ کھانے کی کم خواہش۔
القَامِیْمُ ج قَمَمَةٌ
اِقْمَمْتُمْ رَا الرَّجُلُ او البَعِیْرُ مَرَّ اُتْخَالِیْنَا
بِالْمَكَانِ بَیْشَ اقامت کرنا۔ تیز دوڑنا۔
القَمَمُ کینہ۔ بد صورت۔
قَامَاهُ مَقَامًا قَائِلٌ موافقت کرنا۔ تم کہو
گے مَا یُقَامِیْنِیْ هَذَا الشیءُ یعنی یہ چیز مجھے
موافق نہیں۔

قَوْنٌ قَنَّاہُ ذال کر ڈھونڈنا۔ خبروں کو
تلاش کرنا۔ لاشی سے مارنا۔ قَنٌّ فی الجَبَلِ
پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔
اِقْتَنَ نَعْلًا بنانا۔ خاموش ہونا (واقفان)
اِقْتَنْنَا نَاکِرًا ہونا۔

اسْتَقَنَّ بِالْامْرِ مَسْتَقِنٌ ہونا۔ بکریوں میں رہ
کرائیں کے دودھ پر گزارہ کرنا۔

القَمَنُ جھوٹی پہلائی (والقَمَنُ کرتے کی
آستین۔
القَمَنُ غلام۔ خود مملوک ہوا ہو یا اس کے ماں
باپ۔ اور یہ لفظ مذکر مؤنث مفرد جمع سب کے
لیے ہے اور بھی جمع اقنان واقفان ہے۔
القَمَانَةُ والقَمُونَةُ غلامی۔ بندگی۔
القَمَنَةُ جھوٹی پہلائی۔ پہلائی چوٹی۔ وَقَمَنَةٌ
كُلُّ شَیْءٍ یَزُجُّ بِرَجُلٍ کَالْبَالِیِّ حَصَّةٌ ج قَمْنٌ و
قِنَانٌ وَقَمُونٌ وَقِنَاتٌ

القَمَنُ سستی کی لڑیوں میں ایک لڑی۔ ایک دوا
کانام۔ ج قِنٌ۔
القَمَنُ طریقہ۔ روش۔
القَمِنَةُ پیشہ کی بوتل۔ ج قِنَانِیٌّ وَقِنَانٌ
القَانُونُ قاعدہ۔ اصل۔ ہر چیز کا پیمانہ۔ ایک
قسم کا باجر۔ ج قَوَانِیْنِ (خیل)
قَنْفٌ قَنْوَةٌ الشیءُ گہرا سرخ رنگ والا
ہونا اللَحِیَّةُ مِنَ الحَضَابِ ذالھی کا
خضاب سے سیاہ ہونا (قَنًا) اللبْنُ دودھ میں
پانی ملانا۔
قَنْفٌ قَنْفًا وَقَنْفًا وَقَنْفِیَّةٌ وَقَنْفِیًّا
لیختنوا ذالھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ قَنْفًا
الشیءُ گہرا سرخ رنگنا۔
قَنْفٌ قَنْفًا واقفان الرجل قتل کرنا یا
کسی دوسرے کو قتل کرنے پر برا بھلا کہنا۔ اَقْنًا
الادِیْمُ چمڑے کو خراب کرنا الشیءُ لَانًا :
ممکن ہونا اور قریب ہونا۔
قَمِیْسٌ قَمِیْسٌ قَمِیْسٌ قَمِیْسٌ قَمِیْسٌ قَمِیْسٌ
خراب ہونا۔ کہا جاتا ہے "اَحْمَرُ قَانِیُّ"
بہت گہرا سرخ۔
المَثْنَاءُ والمَقْنُوْقَةُ جگہ جہاں دھوپ نہ
پڑے۔
القَمِنَةُ تھکی کی گردن۔ پستہ قد عورت۔
قَمِیْلَانٌ (ض) قَمِیْلَانٌ فی الشیءِ دَاخِلٌ
ہونا۔ الشَّمْسُ اَقْتَابٌ کا خراب ہونا
الکَرَمُ بگور کی تکلیف دہ ٹہنیوں کو کاٹ دینا۔
قَبَّ الرُّزْعُ خُوشِہ کے سنے ظاہر ہونا
الرُّزْعُ کُلِّیٌّ سے لگانا الکَرَمُ بگور کی شاخ

قنح (ف) قنحًا العود: کڑی کاسرا موڑنا الشارِب: پینے والے کا سیراب ہو کر سر اٹھانا۔ سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا (واقنح) البَاب: دروازہ کو کڑی سے اٹھانا۔ قنح البَاب: دروازے کے لیے لمبی نیزھی کئی بنانا۔

تقنح: سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا۔ القنح: دروازے کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔ القنّاج: لمبی نیزھی کئی۔ کڑی جس کو دوسری کڑی کے نیچے ڈال کر حرکت دیں۔ القنّاجح: قنح قنّاجح والے قنّاجح۔ بڑے جسم والا انقب قنّاجح: موٹی ناک۔ القنّاجح: کشادہ تھنوں اور سخت آواز ائمہ والا۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔ القنّاجح: بڑی چھان۔

القنّیبط: گو بھی۔ اور عوام قنّیبط بھی کہتے ہیں۔

قنّیع فی بیتہ: چھینا روپوش ہونا۔ قنّیعت الشجرۃ: غلاف کے اندر پھول یا پھل والا ہونا۔

الرجل: غصّہ کی وجہ سے پھولنا۔ القنّیع: درخت کی کلی کا غلاف۔ خوش میں گیہوں کا غلاف۔ پستہ قد خسیس مرد۔

القنّیعة: بمعنی القنّیع۔ ایک قسم کا بچوں کیلئے کپڑا۔ پستہ قد عورت۔ قنّیعة الجنّویر: سور کی خرخرہٹ۔

القنّیل والقنّیلة: لوگوں کی یا گھٹیوں کی جماعت۔ القنّیل: بڑے سرد والا (والقنّیل) موناقوی مرد۔

قنّیل العذوّ: دشمن پر ہم کے ساتھ حملہ کرنا۔ القنّیلة: ہم اس ہم کی کئی اقسام ہیں۔

(۱) القنّیلة الحارفة: آگ لگانے والا ہم۔ (۲) القنّیلة الحرثیة: جراثیمی ہم۔ (۳) القنّیلة السامة: زہریلا ہم۔ (۴) القنّیلة الذرّیة: اہم ہم۔

قنّت (ن) قنّونا: اطاعت کرنا۔ نماز میں کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ کہا جاتا ہے "قنّت اللہ وقنّت لہ"۔

قنّت (ک) قنّاتہ: کم خوراک ہونا۔ قنّت: نماز میں قیام طویل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ دشمن پر بددعا کرنا۔

بیشجج کرنا۔ دیر تک جگ کرنا۔ اقنّنت: فرمانبردار ہونا۔ القانّیت: فاء۔ ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا۔ نماز پڑھنے والا۔ ج قنّت۔

القنّییت: کم خوراک۔ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "سقّاء قنّیت" پانی کو روکنے والی منکب جو لپکے نہیں۔

امرأة قنّوت: شوہر کی تابعدار عورت۔ القنّیل: غلام۔

القنّیبط: گو بھی۔ اور عوام قنّیبط بھی کہتے ہیں۔

قنّیع فی بیتہ: چھینا روپوش ہونا۔ قنّیعت الشجرۃ: غلاف کے اندر پھول یا پھل والا ہونا۔

الرجل: غصّہ کی وجہ سے پھولنا۔ القنّیع: درخت کی کلی کا غلاف۔ خوش میں گیہوں کا غلاف۔ پستہ قد خسیس مرد۔

القنّیعة: بمعنی القنّیع۔ ایک قسم کا بچوں کیلئے کپڑا۔ پستہ قد عورت۔ قنّیعة الجنّویر: سور کی خرخرہٹ۔

تراشی کرنا الاسد بمخلبہ: شیر کا چنگل کو سمٹ لینا۔ قنبت واقنبت وقنبت الخیل: چالیس کی جماعت کا دستہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "قنّبوا وقنّبوا نحو العذوّ" جب کہ اکٹھے ہوں اور چالیس کے عدد کو پہنچ جائیں۔ وقنّب الرجل فی بیتہ: داخل ہونا۔

اقنّب: سفر میں دور جانا۔ قرض خواہ سے یا طاقتور سے چھینا۔ قنّب الزهر: پھول کا غلاف۔ قنّب القناب: فاء۔ بلبلانے والا بھیڑیا۔ تیز رفتار قاصد۔ واد قنّب: وادی جس کا سیلاب دور سے جاری ہو۔

القنّب: بڑا بادبان۔ شیر کا چنگل۔ من کف الاسد: شیر کی پھیلی کا وہ حصہ جس میں چنگل سمٹا رہے۔

القناب والقناب والقناب: پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے۔ القناب: شیر کا بچہ۔ کمان کی تانت۔

القنّب والقنّب: جوٹ۔ سن جس سے تلی بناتے ہیں۔ القنّیب: لوگوں کا گروہ۔ گنابادل۔

القنّاب: تیز رفتار قاصد۔ تیز رفتار چھٹی رساں۔

المقنّب: تمیں سے لے کر چالیس تک گھوڑوں کی جماعت جو لوٹ ڈالنے کیلئے جمع ہوں ج مقنّب (والمقنّب) شیر کا چنگل۔

المقنّب: شیر کی پھیلی۔ کہا جاتا ہے "مخلّب الاسد فی مقنّبہ" شیر کا چنگل اس کی پھیلی میں ہے۔ شکاری کا تھیلہ۔

القنّیرة والقنّیرة: چنڈول نامی ایک قسم کی چڑیا جسے فارسی میں چکادک کہتے ہیں۔ ج قنّاب: القنّیرة: سر پر کچھ زائد پر۔ کفّی۔

دجاجة قنّیریة: چوٹی والی مرغی۔ کفّی دار مرغی۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القنّیض: سانپ۔ پستہ قد۔ مؤنث قنّیضة۔ القنّیضة: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

(دخیل)

الفندُول. ایک خار دار درخت۔ واحد
فندُولَةٌ.

القنْدُع. مرد دیوث۔

أَقْنَز. چھوٹے سگے بچہ۔

القِنز والاقْفِيز. چھوٹا مڈکا۔

القَانِيز والقَنَاز. شکاری۔

القِنز. قص میں ایک لغت ہے۔

القَنْزَعَة والقَنْزَعَة والقَنْزَعَة والقَنْزَعَة

والقَنْزَع. بالوں کا گچھا جو سر پر چھوڑ دیا

جائے۔ سر کے گرد گردن بال۔ پردوں کا لقیہ۔

مرغ کی کٹنی۔ القَنْزَعَة: بہت پستہ قد

عورت۔ ج قَنْزَعَات وقَنْزَاع. القَنْزَاع:

بلائیں۔ سخت دلخ بات۔ چھوٹے لوگ۔

أَقْنَس الرَّجُلُ: کمینہ ہوتے ہوئے شریف

کی طرف اپنی نسبت کرنا۔

القنْس والقنْس. اصل۔

القِنْس ج قُنُوس والقونْس ج قَوَانِس

والقونُوس. سر کا بالائی حصہ۔ خود کی چوٹی۔

راستہ کا درمیان۔ گھوڑے کے دونوں کانوں

کے درمیان ابھری ہوئی ہڈی۔

القِنْس بیل۔ ج قِيَانِس.

قُنْسَرْتَه. الشَّدَائِد والسِّنُّ بوزھا کرنا۔

تَقْنَسِر. بوزھا ہونا اور جھری پڑنا۔

القنْسِر والقنْسِرِي والقنْسِر. بہت

بوزھا عمر رسیدہ۔

القنَابِسِر. سخت۔

قَنْشَه تَقْنِيشًا. کم کرنا۔ اہل وعیال پر نکتہ

میں تنگی کرنا۔ قَنْش فِي الشَّيْءِ: کی کیا جانا۔

القنْشُورَة. عورت جس کو حیض نہ آئے۔

قَنْص (ض) قَنْصَا الطَّيْر: پرندہ کا شکار

کرنا۔

تَقْنَص وَاقْتَنْص الطَّيْر او الطَّبِي: پرندہ یا

ہرن کا شکار کرنا۔

القنْص. اصل۔

القنْص. شکار۔

القنْص. شکاری۔

القنْص. شکاری لوگ۔

القنْص والقنْص. شکاری۔

القنْص. شکار۔ مؤنث قنْصَة.

القنْصَة. پرندے کا پونا ج قَوَانِص شکار

کرنے والے۔

القنْصَعِر. چھوٹی گردن والا۔ چھوٹی پیٹھ

والا۔ گھٹے بدن کا۔

القنْصَل. پستہ قد۔ ایک حکومت کا معتدلیہ

جو دوسری حکومت میں رہے۔ سفیر۔ ج

قنْصَل (دخیل)

القنْصَلِيَة. قنْصَل کے رہنے کی جگہ۔

قنْط (س) قنْطَا وقنْط (ض) قنْطُونَا

وقنْط (ك) قنْطَا. مایوس ہونا۔ صفت

قنْط و قَانِط وقنْط.

قنْطَه (ض) قنْطَا. منع کرنا۔ باز رکھنا۔

قنْطَه واقنْطَه. مایوس کرنا۔

قنْطَك قنْطَة. خوف سے دوڑنا۔

قنْطَر قنْطَرَة. بہت مال کا مالک ہونا۔ دیہات

چھوڑ کر شہر میں اقامت کرنا عَلَيْنَا: دیر تک

ٹھہرنا الشَّيْءُ: مضبوط بندھنا۔ المَرَاة:

عورت سے جماع کرنا۔

القنْطِر. ایک قسم کا پرندہ (والقنْطِير)

مصیبت۔

القنْطَرَة. س۔ پل۔ بلند عمارت ج قنْاطِر.

القنْطَار. ایک وزن جس کی مقدار مختلف

زمانوں میں مختلف رہی۔ سو (۱۰۰) رطل۔ مال

کثیر۔ ج قنْاطِير.

القنْطَارِيُون. ایک کڑوی گھاس جو مقوی

معدہ ہے۔ کہا جاتا ہے قنْاطِير مَقْنَطَرَة:

بہت زیادہ۔

قنْعَت وقنْعَت (ف س) قنْعَا. اِلْبِل:

اُونٹوں کا تھان پر آنا۔

قنْعَت (ف) قنْعَا واقنْعَت وَاقنْعَت

الشَّاةُ بلند تھان والی ہونا۔

قنْعَة. راضی کرنا۔ قنْع السَّرَاة: عورت کو

دو پیٹھ اوڑھانا رَاسَه بِالسَّيْفِ او بِالْعَصَا:

سر پر تلوار یا لٹھی سے بارنا ہ خَزِيَّةٌ وَعَارَا:

رُسُوَانِي اور عار میں مبتلا کر دینا۔ قنْع الدِّبْك:

مرغ کا لڑنے کے وقت گردن کے پردوں کو

کھڑا کرنا اور کہا جاتا ہے "قنْعَة الشَّيْب

حَمَارَة" یعنی اس پر بڑھاپا چھایا گیا۔

أَقْنَع رَاسَه او صَوْتَه: سر یا آواز بلند کرنا۔

بِيَدَيْهِ فِي الصَّلَاة: ہاتھ پھیلا نا اور اللہ تعالیٰ

سے رحم طلب کرنا اِلْبَانَاء: برتن سے اُنڈیلنا۔

بھرنے کے لیے پانی کے بہاؤ کی طرف کر

دینا۔ کہا جاتا ہے "أَقْنَع اِلْبَانَاء فِي النُّهْر"

یعنی بھرنے کے لیے برتن کو نہر میں پانی کے بہاؤ

کی طرف کر دیا۔ أَقْنَع اِلْبِل: اُونٹوں کو

چراگہ کی طرف لوٹانا۔

تَقْنَع: بتکلف قناعت کرنا۔ کپڑے میں پلٹنا۔

فِي السَّلَاح: ہتھیار بند ہونا۔ تَقْنَعَت

المَرَاة بِالْقنْعَان: دو پیٹھ اوڑھنا۔

اِقْتنَع بالشَّيْءِ: راضی ہونا اِلْبِل: اُونٹوں کا

تھان پر واپس آنا الرَّجُل اِلْبِل او الغنم لَمَّا

وَأَهَا: اُونٹوں کو تھان پر واپس لانا۔

القنْع. ج أَقْنَاع والقنْعَان ج قنْع.

ہتھیار۔

القنْع والقنْع. کھجور کی لکڑی کی تھالی جس

میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ القنْع: پہاڑ کے قرب

میں بقیہ پانی اِز رِيْت کا گول ٹیلہ۔ ج قنْعَة

واقنْعَان. القنْع بگل۔

القنْعَة. دو ٹیلوں کے درمیان ہموار جگہ۔ ج

قنْع و ج قنْعَان.

القنْعَة. سوال۔ دو پار میں روشن دان۔

القنْعَة. مِنَ الْجَبَلِ والسَّمَام: پہاڑیا کوہان

کی چوٹی۔ انسانی سر کا ابھرا ہوا حصہ۔ باریک

ریت۔

القنْعَان. دو پیٹھ۔ کھانا رکھنے کی تھالی ج أَقْنَاع

واقنْعَة. دِل كَاغْلَاف- كَشْف القنْعَان عَنِ

الشَّيْءِ: کتاب پر تھریج کرنے سے۔

القنْع جو تقسیم میں مل جائے اس پر راضی

ہونے والا۔

القنُوع ج قنْع والقنِيع ج قنْعَاء: بمعنی

قنْع.

وغيرها: خراب ہونا اور بدبودار ہونا۔ صفت
قنم واقنم اور اسی سے ہے جو کہا جاتا ہے
”یدی قنمۃ من الزيت“۔

القنمۃ: تیل وغیرہ کی بدبو۔
الاقنوم: شخص۔ اصل۔ ح اقانیم (دخیل)
قنا یقنوا قنوا وقنونا وقنوا واقنتی
المال جمع کرنا۔ اپنے لیے حاصل کرنا۔

قنا یقنوا قنوا اللہ الشئ: پیدا کرنا لوگوں
الشئ: گہرا سرخ رنگ ہونا۔

قنا یقنی وقنی یقنی قنوا وقنی واقنتی
واستقنی الحیاة: لازم پکڑنا۔ قنی القناتہ:
نالی کھودنا۔ اقیانہ اللہ: غنی کرنا؛ مالدار بنانا
أقنت السماء: بارش رک جانا

قنی یقنی قنا الانف: نتھنوں کا ٹک ہونا
اور درمیان سے اونچا ہونا۔ صفت اقنی۔

تقنی: نفع سے بچے ہوئے کا ذخیرہ کرنا۔
القنا والہنی والقنو والقنو: گھجور کا گچھا
ح اقیانہ وقیان وقیان وقنوا وقنوا۔

القنا: بیڑہ قناتہ: مخلوق۔
القنوة والقنوة: کماٹی۔ کہا جاتا ہے ”لہ
عتم قنوة وقنوة“ خالص اسی کی کبریاں

ہیں۔
القنا پھولوں کی ایک قسم جس سے سرخ گوند
نکالی جاتی ہے۔ زیب وزینت کے لئے زراعت
کی جاتی ہے۔

القنوة بدلہ۔
القناتہ: بیڑہ یا بیڑہ کی لکڑی۔ ح قنا وقنی
وقنوات وقیات: کہا جاتا ہے ”فلان
صلب القناتہ“ فلاں سخت تروالا ہے ڈنڈا۔

جنگلی گائے۔ مادہ تیل گائے۔ درخت خرما لگانے
کا تھا۔ نالی۔ ح قنی وقناتہ وقنوات۔
القانی: فا۔ کہا جاتا ہے ”احمرقان“ بہت
گہرا سرخ۔

القنواں: موٹا۔
القنی والقنیۃ: بکری یا اونٹنی جس کو ذخیرہ
بنایا جائے۔

القناتہ والقنیۃ: بیڑہ والا۔ القناتہ: نالی

القنۃ: موٹا۔
القنۃ والقنۃ: بکری یا اونٹنی جس کو ذخیرہ
بنایا جائے۔

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ: بیڑہ والا۔
القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

القنۃ والقنۃ: بیڑہ والا۔ القنۃ: نالی

کھودنے والا۔
 الْأَفْنَى مِنَ الْأَنْفِ: نتھنے تک اور درمیان سے بلند ناک۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ أَفْنَى الْأَنْفِ" وہ نتھنے اور درمیان سے بلند ناک والا ہے۔ مَوْثِقُنَاوَاءِ.
 الْقَنَاءُ وَالْأَفْنَاءَةُ مِنَ الْحَائِطِ: دیواری وہ جانب جس پر سایہ رجوع کرے۔
 الْقَنُو: سیانی۔
 الْمَقْنَاءَةُ وَالْمَقْنُوءَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔
 قَنَى يَقْنِي قَنِيًا وَقَنِيَانًا وَقَنِيَانًا الْمَالَ: حاصل کرنا۔ کمائی کرنا الحیاء: حیا کو لازم ہونا۔
 قَنَى اللَّهُ فَلَانًا: خوش کرنا۔ راضی کر دینا۔
 قَانِي مَقَانَاةَ الشَّيْءِ فَلَانًا: موافق ہونا۔
 الشَّيْءِ: ملائشی بالشَّيْءِ: خلط ملط کرنا۔
 الشَّيْءِ: ہمیشہ رہنا۔
 أَفْنَى أَقْنَاءَ اللَّهِ: غنی کرنا۔ خوش کرنا۔ راضی کر دینا۔
 قَرِيْبًا فَلَانًا وَفَلَانًا: شکار کا زور میں آجانا۔ قریب آجانا۔
 الْقَنِيَّةُ وَالْقَنِيَّةُ: کمائی۔ ج قَنِي۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَنَمٌ قَنِيَّةٌ وَقَنِيَّةٌ" خالص اسی کی تبریایں ہیں۔
 أَرْضٌ مَقْنَاءَةٌ: ہر شخص کے موافق آب و ہوا والی زمین۔
 قَهَبٌ (س) قَهَبًا: بھورے رنگ کا ہونا۔
 صَفْتَقَهَبٌ وَأَقَهَبٌ: صفت قہب اور قہب۔
 أَقَهَبٌ عَنِ الطَّعَامِ: ہاتھ کھینچ لینا اور خواہش نہ کرنا۔
 الْقَهَبُ: بڑا اونٹ۔
 الْقَهْبَةُ: بھورا رنگ۔
 الْقَهْبُ وَالْقَهْبَانِيُّ: سفید۔
 الْأَقَهْبَانُ: ہامی اور بھینس۔
 قَهْدٌ (ف) نَهْدًا فِي مَسْبِيَةٍ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا۔
 الْقَهْدُ: سفید۔ تیرہ گون۔ صاف رنگ والا۔
 أَيْكُ حَمْسٍ كَبْرَى: نیل گائے کا بچہ۔ بچھیا۔

زگرس کی کلی جب کہ کھلی نہ ہو۔ ج قہاد۔
 قَهْرَةٌ (ف) قَهْرًا: غالب ہونا۔
 قَهْرُ اللَّحْمِ: گوشت میں آگ کی وجہ سے پانی نکلنا۔
 قَاهِرَةٌ: غالب آنا۔
 أَقَهْرَةٌ: مغلوب پانا۔ أَقَهْرُ الرَّجُلِ: ذلت اور تہرکی طرف معاملہ والا ہونا۔ یاران مقہور کا ساتھی ہونا۔
 الْقَهْرَةُ: مجبوری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَهْرَةٌ لِلنَّاسِ" وہ ہر ایک کا مقہور ہے۔
 الْقَهْرَةُ مِنَ النِّسَاءِ: بہت شریر عورت ج قہرات۔
 الْقَاهِرُ: فا۔ بلند۔ ج قواہر۔
 الْقَاهِرُ: الْقَاهِرُ كَأَمْنُوتِ مَمْلَكَتِ مِصْرَ كَأَيِّ تَحْتِ: ہر چیز کا سابق۔ سینہ۔ سر سینہ۔
 مَوْنٌ: اور گردن کے درمیان کا گوشت۔
 الْقَهَارُ: اسم مبالغہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
 الْقَهْرَمَانُ: وکیل۔ آمد و خرچ کا منتظم۔ ج قہارمہ۔
 الْقَهْرَمَةُ: تہرمان کا فریضہ۔
 الْقَهْرَمُ: پستہ قد۔ الْقَهْرَبُ: عمر رسیدہ۔ لہجہ قد والا۔ بیکن۔
 قَهْمَرٌ قَهْمَرَةٌ وَتَقَهْمَرُ: بچھلے پاؤں لوٹنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَقَهْمَرُ فِي مَسْبِيَةٍ" جبکہ بچھلے پاؤں چلے۔
 الْقَهْمُورُ: عمارت جس کو سچے پتھروں سے بناتے ہیں اور عوام اسے "قَهْمُورٌ" کہتے ہیں۔
 الْقَهْمُورِيُّ: بچھلے پاؤں لوٹنا۔ کہا جاتا ہے "رَجَعَ الْقَهْمُورِيُّ" وہ بچھلے پاؤں لوٹا۔
 الْقَهْمُورَةُ: سر۔ بڑی چٹان۔ گیہوں جو سبزی کے بعد سیاہ ہو جائے۔
 قَهْمَزٌ (ف) قَهْمَزًا: کودنا۔
 الْقَهْمِيزُ: ریشم۔
 قَهْلٌ (ف) قَهْلًا وَفَهْلًا وَفَهْلًا: قہل (س) قہلا و تقہل۔ جلدہ۔ کھال خشک ہونا۔
 قَهْلُ الرَّجُلِ: ناشکری کرنا۔ کفرانِ نعمت کرنا

فَلَانًا: بڑی تعریف کرنا۔ قَهْلٌ (س) قَهْلًا وَتَقَهْلًا الرَّجُلُ: جسم کو آلودہ رکھنا۔ پاک صاف نہ رکھنا۔ تَقَهْلٌ: آہستہ چال چلنا۔ اپنی حاجت کا گلہ کرنا۔ بد حال ہونا۔ تَقَهْلٌ صَوْتُهُ: آواز کا نرم و ضعیف ہونا۔
 أَقَهْلُ الرَّجُلِ: اپنے آپ کو میلا پھیلا رکھنا۔ یعنی امور میں مشغول ہونا۔
 انْقَهَلُ: کمزور ہونا اور گر پڑنا۔
 الْقَهْبِيلُ وَالْقَهْبِيلَةُ: چہرہ۔ بیکر۔ کہا جاتا ہے "حَيَّا اللَّهُ هَذِهِ الْقَهْبِيلَةُ" اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو باقی رکھے۔
 قَهْمٌ (س) قَهْمًا الرَّجُلُ: قلیل الاشتہاء ہونا۔ صفت قہم۔
 أَقَهْمٌ عَنِ الطَّعَامِ: کھانے کی خواہش نہ رکھنا۔
 عَنِ الشَّيْءِ: ناپسند کرنا۔ عَنِ الشَّرَابِ وَالْمَاءِ: چھوڑنا لایبِلٌ عَنِ الْمَاءِ: اونٹوں کا پانی پر نہ جانا لایبِلُ: خواہش کرنا۔ أَقَهْمَتِ السَّمَاءُ: آسمان کا بادل سے صاف ہونا۔
 قَهْمَرٌ قَهْمَرَةٌ: کودنا۔
 الْقَهْمِيزِيُّ: گھوڑے کا پویہ دوڑنا۔ جلد بازی۔ نشاط۔
 الْقَهْمِيزُ: پستہ قد۔
 الْقَهْمِيزَةُ: سر میں النساء: بہت پستہ قد عورت۔
 أَقَهْبِيٌّ: قہوہ پینے کی مداومت کرنا۔
 الْقَهْوَةُ: خالص دودھ۔ پوری شکم سیری۔ شراب۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شراب کو قہوہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے پینے والے کی اشہبا کم ہو جاتی ہے۔ بو۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ فَلَانًا طَيَّبَ قَهْوَةَ الْفَمِ" یعنی فلاں کے منہ کی بو اچھی ہے۔ اور مولدین درخت بن کو بھی کہتے ہیں اور اس درخت سے پینے کی جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو بھی قہوہ کہتے ہیں۔ نیز جس جگہ کثرت سے پی جائے اس کو بھی مجازاً قہوہ کہتے ہیں۔
 الْقَهْمِيَّةُ: قہوہ خانہ۔ ہوٹل قہوہ۔

الْقَهْوَانِ عَمْرٍ سِيدَهُ مَوْنٌ سِيْغَلُوْنَ وَالْاَكْبَرُ
 قَهْوَسٌ وَتَقَهْوَسٌ وَوَرْنَا قَهْوَسٌ الرَّجُلُ
 خَوْفٌ سَعْدٌ وَوَرْنَا وَتَقَهْوَسٌ جَمْعُ كَر
 مَضْرُوبَانِ جَلْنَا كَبْرًا هَوَانًا
 قَهْوَسًا (قَهْوَسٌ) قَهْوِيٌّ وَقَهْوِيٌّ اِفْتِئَاءٌ عَنِ
 الطَّعَامِ زَهْتِهَامٌ هَوَانًا قَهْوِيٌّ عَنِ الشَّرَابِ
 جَهْوَرًا
 اِقْتَهَى عَنِ الطَّعَامِ بَعِيْرُ مَرَضٍ كَالْمَا
 كِيْ خَوَاشِشٌ هَوَانًا
 الْقَاهِي بِيْرُ خَاطِرٍ عَيْشٌ قَاهٍ جَوْشٌ سَيْشٌ
 قَابٌ يَقُوْبٌ قُوْبًا الْاَرْضُ زَمِيْنٌ كُوْغُلَاوِيٌّ
 مِيْنُ كُوْهُرَا الطَّائِرُ يَزِيْرُهُ كَالسَّيْرِ اَنْدُءٌ كُوْزُوْرَا
 الرَّجُلُ قَرِيْبٌ هَوَانًا بَهَاگَانًا
 قُوْبٌ الْاَرْضُ زَمِيْنٌ كُوْغُلَاوِيٌّ مِيْنُ كُوْهُرَا
 رَوْدٌ كَرْنَشَانٌ جَهْوَرًا الشَّيْءُ كَيْفِيْرًا
 تَقُوْبٌ جَزْءٌ اَكْبَرُ اَنْدُءٌ كَبِهَا جَاتَا هُوَ "تَقُوْبٌ
 مِيْنُ رَايَسِهِ مَوَاضِعٌ يَمِيْنِيْ اِسْ كَسْرٌ مِيْنُ جِنْدٍ
 جَمْعٌ جَمِيْلٌ كَمِيْنٌ (وَاِنْقَابٌ) الْمَكَانُ
 وَرِخْتُ اَوْرُ كَمَا سَعَا صَافٌ كَمَا جَانَا تَقُوْبَتْ
 وَانْقَابَتْ الْبَيْضَةُ اَنْدُءٌ كَالسَّيْرِ
 وَانْقَابَتْ الْاَرْضُ زَمِيْنٌ كَاهْطَانًا
 اِقْتَابٌ الشَّيْءُ يَنْدُءُ كَرْنَا اِنْخِيَارٌ كَرْنَا
 الْقَابُ مَقْدَارٌ كَمَا نَ كَقَبْءٍ اَوْرُ كُوْشِ
 كَمَا نَ كَقَبْءٍ اَوْرُ كُوْشِ كَمَا نَ كَقَبْءٍ اَوْرُ كُوْشِ
 عَلِيٌّ قَابٌ قَوْسِيْنٌ كَمَا نَ هُوَ بَعْدُ قَرِيْبٌ
 هُوْنَ سَعْدٌ
 الْقُوْبُ جَوْزُهُ جِ اَقْوَابٌ اَمْ قُوْبٌ
 مَصِيْبَةٌ
 الْقَيْبُ مَقْدَارٌ كَمَا جَاتَا هُوَ "بَيْنَهُمَا قَيْبٌ
 قَوْسٌ"
 الْقَابَةُ وَالْقَابِيَةُ جَوْزُهُ اِنْدَا اَوْرُ مِثَالٌ مِيْنُ
 هُوَ "تَخَلَّصْتُ قَابِيَةً اَوْ قَابَةً مِيْنُ قُوْبٍ"
 يَمِيْنِيْ اِنْدَا جَوْزُهُ سَعْدٌ اَوْرُ كُوْشِ اِسْ مَوْجِدٌ كَمَا
 جَاتَا هُوَ جَمْعٌ كُوْنِيٌّ اِسْمٌ سَاخِيٌّ سَعْدٌ اَوْرُ كُوْشِ
 جَاءَ
 الْقُوْبُ اَنْدُءٌ كَالسَّيْرِ
 الْقُوْبَاءُ وَالْقُوْبَاءُ جِ قُوْبٌ وَالْقُوْبِيَّةُ

وَالْقُوْبِيَّةُ زَادٌ كِيْ بِيَارِيٍّ عَوَامٌ اِسْمٌ حَزَاوِيٌّ
 كَقَبْءٍ هُوَ الْقُوْبِيَّةُ كَهْرٌ مَقِيْمٌ خَانَةٌ نَشِيْنٌ
 الْقُوْبِيَّةُ جَوْزُهُ كَمَا نَ كَرِيْسٌ
 الْمُسْتَقُوْبُ جَمْعٌ اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ كِيْ وَجْهٍ سَعْدٌ
 كَمَا نَ جَمْعٌ اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ مِيْنُ الْحَيَاةِ كِيْ جَمْعٌ اَسْمٌ اَوْرُ
 هُوَ اَسْمٌ
 قَاتٌ يَقُوْتُ قُوْتًا وَقِيَاةُ الرَّجُلِ زَوْزِيٌّ
 دِيْنَا كَرَاوَهُ دِيْنَا خَوْرَاكٌ دِيْنَا
 اَقَاتٌ اِقَاتَةٌ فُلَانًا وَعَلِيٌّ فُلَانًا كَرَاوَهُ
 دِيْنَا حَفَاظَتٌ كَرْنَا قَاوِيْنَا قَدْرَتٌ رَكْنَا
 اِقْنَاتٌ اِقْنِيْنَا وَتَقُوْتُ بِالشَّيْءِ كَمَا نَ
 اِقْنَاتٌ الشَّيْءُ خَوْرَاكٌ بِنَانًا كَمَا جَاتَا هُوَ
 "فُلَانٌ يَقْنَاتُ الْكَلَامَ فُلَانٌ كَمْ كَفَقُوْكَ كَرْنَا
 هُوَ سَعْدٌ
 اِسْتَقَاتٌ اِسْتَقَاتَةٌ فُلَانًا كَرَاوَهُ طَلَبٌ
 كَرْنَا
 الْقَاتُ اِيْكٌ وَرِخْتُ كَمَا نَ
 الْقُوْتُ خَوْرَاكٌ كَرَاوَهُ كَالسَّيْرِ كَمَا نَ جِ
 اَقْوَاتٌ
 الْقَائِتُ وَالْقَيْتُ وَالْقَيْتَةُ وَالْقُوَاتُ
 خَوْرَاكٌ كَرَاوَهُ كَالسَّيْرِ اَلْقَائِبُ مِيْنُ
 الْعَيْشِ كَمَا نَ كَمَا جَاتَا هُوَ "هُوَ فِي قَائِبَتٍ
 مِيْنُ الْعَيْشِ" الْفَائِسْتِيْرُ
 الْمَقِيْبَتُ فَا قَدْرَتٌ رَكْنَا وَاللَّهْمَانُ
 كَرَاوَهُ
 قَاخٌ يَقُوْخُ قُوْخًا وَتَقُوْخٌ تَقُوْخًا
 الْجُرُوْخُ زَرْعٌ سُوْجَانٌ كَمَا نَ اَوْرُ كُوْشِ قَاخٌ
 وَقُوْخٌ الْبَيْتُ جَمْعٌ اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ
 اَقَاخٌ اِقَاخَةٌ الرَّجُلُ سَوَالٌ كَقَبْءٍ مَعْدُ
 كَرْنَا كَرَاوَهُ
 الْقَاخَةُ كَمَا نَ كَمَا جَاتَا هُوَ "دَخَلْتُ قَاخَةً
 الْمَدَارِ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ
 قَاخٌ يَقُوْخُ قِيْحَا جَوْفُهُ بِيَارِيٌّ كِيْ وَجْهٍ سَعْدٌ
 خَرَابٌ هُوَانًا
 لَيْلَةٌ قَاخٌ كَالسَّيْرِ
 قَادٌ يَقُوْدُ قُوْدًا وَقِيَاةٌ وَقِيَاةٌ وَمَقَادَةٌ
 وَقِيْدُوْدَةٌ وَقُوْدٌ تَقُوْدِيْنَا وَتَقُوْدَا

الذَّابِقَةُ جَوْزُهُ كُوْشِ سَعْدٌ كَمَا نَ
 قَادٌ يَقُوْدُ قِيَاةً الْجَيْشُ سَالَا رَمِيْشٌ
 هُوَانًا
 الْقَاتِلُ اِلَى مَوْضِعِ الْقَتْلِ قَاتِلٌ كُوْشِ
 كَلِمَةٌ اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ
 قَيْدٌ الذَّقِيْقُ اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 قُوْدٌ يَقُوْدُ قُوْدًا الْفَرَسُ وَغَيْرُهُ لَيْسَ
 يَبِيْرُهُ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 قُوْدَا جِ قُوْدٌ
 اَقَادٌ اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 خِيْلًا اَسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 الْقَاتِلُ بِالْقَيْلِ مَقْتُوْلٌ كَقَبْءٍ اَوْرُ كُوْشِ
 قَاتِلٌ كُوْشِ كَرْنَا
 قَاوِدَةٌ مَقَاوِدَةٌ كَمَا نَ كَمَا نَ
 اِنْقَادٌ اِنْقِيَادًا لِفُلَانٍ تَابِعْدَارٌ هُوَانًا
 فَرَوْتِيٌّ كَرْنَا الطَّرِيْقُ اِلَى كَذَا وَاصِحٌ هُوَانًا
 نَمَايَا هُوَانًا (وَاِقْنَادٌ اِقْنِيَادًا) كَمَا نَ
 الذَّابِقَةُ كَمَا نَ كَمَا جَاتَا هُوَ "اِقْنَادُ الذَّابِقَةِ
 فَاِقْنَادَاتٌ اِسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 (لَا زَمَّ وَتَعْدِيٌّ)
 تَقَاوُدٌ الْمَكَانُ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ
 دُوْمَرُوْسٌ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ
 اِيْكٌ دُوْمَرُوْسٌ كَمَا نَ كَمَا نَ
 اِسْتِقَادٌ زَمِيْلٌ هُوَانًا فَرَوْتِيٌّ كَرْنَا لَهْمَانُ
 بَرْدَارٌ هُوَانًا تَابِعْدَارٌ هُوَانًا الْاَمِيْرُ مَقْتُوْلٌ كَمَا
 تَقَاوُدٌ اِسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 اِسْتِقَادٌ اِسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 نَعْمَانُ اِسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 نَعْمَانُ اِسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 الْقَادُ وَالْقَيْدُ اِنْدَاوَهُ وَمَسَاوِدٌ كَمَا جَاتَا هُوَ
 "بَيْنَهُمَا قَادٌ قَوْسٌ اَوْ قَيْدٌ قَوْسٌ اَنْ"
 دُوْمَرُوْسٌ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ كَمَا نَ
 هُوَانًا
 الْقُوْدُ اِسْمٌ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ اَوْرُ كُوْشِ
 قُوْدٌ
 الْقُوْدُ قُوْدًا مَقْدَارٌ تَقَاوُدٌ مَقْتُوْلٌ كَمَا
 بَدَلٌ مِيْنُ قَاتِلٍ كُوْشِ كَرْنَا

القیاد۔ س۔ جانور کو کھینچنے کی رسی۔ کہا جاتا ہے "فلان سلس القیاد" فلاں تمہاری خواہشات کا فرمانبردار ہے "واعطی فلان القیاد" فلاں خوشی سے فرمانبردار ہو گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ مجبوراً۔
فَرَسٌ قَيْدٌ وَقَيْدٌ وَقُوْدٌ وَقُوْدٌ۔ سدھا ہوا تا بعدار گھوڑا۔

القواد۔ اسم مبالغہ۔
الاقود۔ سدھا ہوا تا بعدار گھوڑا۔ مضبوط گردن والا۔ بخیل۔ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے والا اور باز نہ رہنے والا (والمقود) لمبا پہاڑ۔

القائد۔ فاج قواد وقود وقادة حج قادات۔ مستطیل زمین یا پہاڑ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
القائدة۔ قائد کا مؤنث۔ زمین پر پھیلا ہوا ٹیلہ۔ کہا جاتا ہے "اغطاه مقادته" یعنی وہ اس کا فرمانبردار ہو گیا۔
المقود۔ جانور کو کھینچنے کی رسی۔ حج مقواد۔ المقود۔ س۔ اور مقوود بھی اصل کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔

طریق مققاد۔ سیدھا راستہ۔
قار يقور قورا۔ بچوں کے بل چلنا الصید:
فریب دے کر شکار کرنا فلانا: آگے بھڑونا (وقور تقویراً واقناراً اقبیاراً واقنوراً اقبواراً) الشیء: گول کائن۔ اقنار الرجل: محتاج ہونا۔ اقنار حدیثہم: کھود کرید کرنا۔
قور يقور قورا۔ الرجل: کاٹا ہونا۔

تقور السحاب: بادلوں کا علیحدہ علیحدہ گول ٹکڑے ہونا اللیل: اکثر رات گزر جانا الحیة:
سانب کا کنڈلی مارنا۔

انقار انقیاراً۔ واقع ہونا انقارت البئر:
کنوئیں کا منہم ہونا۔ ویران ہونا۔ انقار بہ:
باکل ہونا۔
اقور اقوراً۔ الفرس: گھوڑے کا زبلا ہونا الجلد: زبے پن کی وجہ سے جھری پڑنا۔
اقورب الارض: روئیدگی کا جاتا رہنا فلان:
موتا ہونا۔

القار: تارکول۔ سیاہ رنگ کا ایک روغن جس کو کشتی وغیرہ پر ملتے ہیں۔ ایک کڑوا درخت۔
واحد قارة۔ اونٹوں کا بڑا گلہ۔

القور۔ س۔ نئی زوئی۔ زوئی کی رسی۔
القارة۔ پہاڑوں سے علیحدہ چھوٹا پہاڑ۔ مادہ ریجیح قار وقارات وقور وقیران۔

الاقور۔ کشادہ۔ مؤنث قوراء۔
الاقوریات والاقورون۔ بڑی بڑی مصیبتیں۔

المقور۔ س۔ تار ملا ہوا۔ زبلا گھوڑا۔
قور تقویراً التبت: نباتات کا کثیرت ہونا۔
تقور التبت: گھر کا منہم ہونا الوعل:

پہاڑی بکرے کا دوڑنا۔
انقازة النمر: جیتے کا بھڑکانا۔
قاس يقوس قوساً القوم: سابق ہونا۔

آگے بڑھنا الشیء علی غیرہ وبہ: نمونہ پر اندازہ کرنا۔ قوس (س) قوساً وتقوس
واستقوس الرجل: خیدہ پشت ہونا۔ و
قوسیت السحاب: بارش ہونا۔

قاوسنی فقسنته اقوسه س نے کمان کے عمدہ ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔
تقوس: مڑا ہوا ہونا۔ کمان کی مانند ہونا۔

قوسه: کمان اٹھانا الشیب: بڑھاپے کا ہالوں کا کھجڑی کرنا۔
اقناس الشیء: اندازہ کرنا بفلان: اقتداء کرنا۔

القوس۔ س۔ کمان۔ مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی تصغیر قویسة وقویس اور قوسی وقوسی واقواس
وقیاس واقوس واقیاس اور نسبت کیلئے قسوسی۔ اور قوس کی اضافت مخصص کی طرف
ہوا کرتی ہے۔ جیسے قوس نذیب وقوس نیل
وغیرہ۔ القوس: ہر منحنی چیز جو کمان کی
طرح ہو۔ قوس قزح: دھبک۔ ذراع۔
قوس الرجل: جھکی ہوئی پیٹھ۔

القوس۔ راہب کا صومعہ۔ شکاری کا

جموئیرا۔

الاقوس۔ خیدہ پشت۔ بلند ریت کا ڈھیر۔
لیل اقوس: بہت تاریک رات۔ نلذ
اقوس: زور کا شہر (والقوس والقوسی)
من الایام: سخت اور لمبا دن۔

القواس۔ کمان والا۔ کمان گر۔ کمان چلانے والا۔
والقواس: پادری یا سفیر کا خادم۔ جن کی خاص وردی ہوتی ہے۔

القویسة: ایک خوشبودار پودا جو کہ پتھروں کے قریب پڑھتا ہے سفید تے والا ہوتا ہے اس کے پھول گاٹی ہوتے ہیں اس کے کچھ طبی فوائد ہوتے ہیں۔

القیاس۔ کمان کا درست کرنے والا۔
(والمقاس) گھوڑوں کو چلانے والا۔
القویس والقویسة۔ قوس کی تصغیر۔ ایک قسم کی نباتات۔

المقوس۔ کمان رکھنے کا تحصیل۔ میدان۔
رستی کہ جس سے گھوڑوں میں گھوڑوں کی صف بندی کی جاتی ہے۔ وہ مقام جہاں سے گھوڑوں میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ حج مقاس۔

تقوس۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔
القوصرة۔ کھجور وغیرہ رکھنے کا بانس کا بنا ہوا ٹوکرا۔

قاص يقوض قوضاً وقوض البناء:
عمارت ڈھانا۔ قوض الصقوف
والمجالس: تتریت کرنا۔ منتشر کرنا۔ بولتے ہیں "بنی فلان ثم قوض" جبکہ کوئی بھلائی کے بعد برائی کرے۔

تقوض۔ آنا جاننا الحلق او الصقوف:
حلق یا صفت کا پرانہ ہونا (وانقاض)
البناء: عمارت کا گر جانا۔ منہم ہونا۔
القوط۔ بکریوں کا ریوڑ۔ حج اقواط۔
القوطة۔ بڑا ٹوکرا۔

القواط۔ بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا۔
قاع يقوع قوعاً۔ پیچھے رہنا۔ پچھلے پاؤں
لویلا تقوع) کاٹنے دار جگہ میں چلنے والے

گناہ یعنی ایسا کرنے لگا۔ قَامَتِ الصَّلَاةُ: نماز شروع ہوگئی۔ اور کہا جاتا ہے ”قَامَ بِي وَقَعْد“ یعنی میرے متعلق بُری خبریں پھیل گئیں۔

قَوْمُ الشَّيْءِ: سیدھا کرنا اور اسی سے تَقْوِيمُ الْبِلْدَانِ ہے جس کے معنی ہیں شہروں کا طول و عرض بیان کرنا۔ قَوْمٌ ذَرَأً: کچی کو ڈور کرنا۔ المتاعِ قیمت لگانا۔ قَاوِمَةٌ قِوَامًا وَمُقَاوِمَةٌ سَاهِمَةٌ كَهْرًا هَوِيًا۔

مخالفت کرنا۔ قائم مقام ہونا۔

أَقَامَهُ أَقَامَةً وَقَامَهُ كَهْرًا كَرِيًا۔ أَقَامَ الْمَائِلَ او المَعْوَجَ سِيدھا کرنا اور تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے ”مَا أَقْوَمَهُ“ اور یہ مزید سے آنے کی وجہ سے شاذ ہے۔ أَقَامَ الشَّيْءَ بِمِشْرَافٍ رَكْنًا بِالْمَكَانِ: وطن بنا لینا۔ اقامت کرنا الحق حق ظاہر کرنا الصَّلَاةَ كَامِلًا طَرِيقَةً سے اور کرنا لِلصَّلَاةِ: اقامت کہنا السُّوقِ رَاجِحًا رَكْنًا۔ بازار لگانا۔

تَقَاوَمَ: سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”قَوْمَتُهُ فَتَقْوَمُ“ میں نے اسے سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا۔

تَقَاوَمَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: قیمت کا اندازہ لگانا۔ تَقَاوَمُوا فِي الْحَزْبِ: بعض کا بعض کیلئے کھڑا ہونا۔

أَقْتَامَ أَقْيَامًا انْفَعَهُ نَاكًا كَانًا۔

اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً: سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”اِسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ“ معاملہ اس کیلئے ٹھیک و درست ہو گیا المتاعِ: سامان کی قیمت لگانا الشَّعْرُ بِشَعْرٍ موزوں ہونا۔

ر الْقَوْمِ: لوگوں کی جماعت۔ رِجْ أَقْوَامٍ وَأَقْوَامٍ وَأَقْيَامٍ وَأَقْوَامٍ قَوْمِ الرَّجُلِ: قریبی رشتہ دار جو ایک دادا میں شریک ہوں۔ الْقَوْمِ: رِجْمَانِ قِيَمَانِ (والقَوْمِ) کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ الْقَوْمِ: ارادہ۔

الْقَوْمَانِدُسُ: وہ فوجی جماعت جس کو تربیت دی جائے تاکہ وہ کشتیوں کے ذریعے اندھیرے میں دشمن کے خشکی پر مرکز کو تباہ و برباد کریں۔

الْقَوْمَةُ: قاضی کا اسم مراد۔ قامت انسان۔ رُكُوعٌ اور سجدہ کے درمیان قیام۔

الْقَوْمِ: اعتدال۔ قَوْمِ الْإِنْسَانِ: قد و قامت۔

الْقَوْمِيُّ: قومیت کا نظریہ رکھنے والا۔ الْقَوْمِيَّةُ: اصل اجتماعی سیاسی نظریہ جس کے تحت اس نظریہ کو ماننے والا امت کے متعلق کاموں کو اس کے غیر کے کاموں پر ترجیح دیتا ہے۔

الْقَوْمِ وَالْقَوْمِ: گزارہ۔ زندگی۔ قِيَامُ الْأَمْرِ وَ قِيَامُهُ: باقیہ رہنے کی۔ جس سے کسی چیز کا قیام ہو اور کہا جاتا ہے ”هُوَ قِيَامُ أَهْلِهِ وَقِيَامُهُمْ“ وہ اپنے اہل و عیال کیلئے سہارا ہے۔ الْقَوْمِ: سیدھا۔ کہا جاتا ہے ”رَمَحَ قَوْمًا“: سیدھا تیرہ۔

الْقَوْمِ: ایک بیماری جو جانوروں کی ٹانگ میں ہوتی ہے۔

الْقَامَةُ: لوگوں کی جماعت میں الْإِنْسَانِ: قد۔ رِجْمَانِ قِيَمَانِ: چرٹی مع سامان کہا جاتا ہے ”اِسْتَقْوُوا عَلَى الْقَامَةِ“ انہوں نے چرٹی پر پائی کھینچنا۔ قِيَمِ: الْقِيَامَةُ: موت کے بعد اٹھنا۔ یومِ قِيَامَتِ: قبروں سے اُٹھنے کا دن۔

الْقِيَمَةُ: قیام کا اسم نوع۔ قِيَمَتِ: رِجْمَانِ قِيَمَتِ الْإِنْسَانِ: انسانی قدر۔

الْقِيَمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ الْإِقَامَةُ: اقامت الخندقی: فوجی کی ڈیوٹی۔ رِجْمَانِ اِقَامَاتِ: اور کہا جاتا ہے ”طَلُوْا بِسَاطِ الْإِقَامَةِ“ یعنی کوچ کیا۔

الْقِيَمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ الْإِقَامَةُ: اقامت الخندقی: فوجی کی ڈیوٹی۔ رِجْمَانِ اِقَامَاتِ: اور کہا جاتا ہے ”طَلُوْا بِسَاطِ الْإِقَامَةِ“ یعنی کوچ کیا۔

الْقِيَمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ الْإِقَامَةُ: اقامت الخندقی: فوجی کی ڈیوٹی۔ رِجْمَانِ اِقَامَاتِ: اور کہا جاتا ہے ”طَلُوْا بِسَاطِ الْإِقَامَةِ“ یعنی کوچ کیا۔

الْقِيَمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ الْإِقَامَةُ: اقامت الخندقی: فوجی کی ڈیوٹی۔ رِجْمَانِ اِقَامَاتِ: اور کہا جاتا ہے ”طَلُوْا بِسَاطِ الْإِقَامَةِ“ یعنی کوچ کیا۔

الْقِيَمِيُّ: قیمت کی طرف منسوب۔ الْإِقَامَةُ: اقامت الخندقی: فوجی کی ڈیوٹی۔ رِجْمَانِ اِقَامَاتِ: اور کہا جاتا ہے ”طَلُوْا بِسَاطِ الْإِقَامَةِ“ یعنی کوچ کیا۔

ہوتا ہے۔ شش سال کے لحاظ سے ۳۵۳ دنوں کا ہوتا ہے۔ لیپ سالوں میں ۳۵۵ دنوں کا ہوتا ہے۔

التَّقْوِيمُ: تَقْوِيمُ الْبِلْدَانِ: ممالک کے طول و عرض اور زمین کے خراج کا بیان۔ التَّقْوِيمُ: جنتری۔ رِجْمَانِ تَقَاوِمِ: الْقِيَمِ عَلَى الْأَمْرِ: متولی۔ منتظم۔ مَوْثِقِ قِيَمَةِ قِيَمِ الْمَرْأَةِ: شوہر۔ اَمْرُ قِيَمِ سِيدھا

معاملہ الدَيَانَةُ الْقِيَمَةُ: راست بازی۔ کہا جاتا ہے ”ذَلِكَ دَيْنُ الْقِيَمَةِ“ صفت مؤنث اس وجہ سے کہ دین سے مراد ملت حنبلی ہے۔ الْقَائِمُ فَاجِ قَوْمٍ وَقِيَمِ وَقَوْمٍ وَقِيَمِ وَقِيَمِ: قائم۔ قائم السیف: تلوار کا قبضہ۔ قائم الماء: پانی کے لیے بلند عمارت جہاں سے پانی تقسیم ہو۔ واٹر ورکس۔ الْقَائِمُ مَقَامِ عِنْدَ أَرْبَابِ السِّيَاسَةِ: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا پٹی جگہ پر قائم ہو۔ قَوْمِيَّةُ: الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّةُ: قامت انسان۔ الْقَوْمِ: اچھے قد و قامت والا۔ اُمُورِ كَانَتْ تَنْتَظِمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَوْمِ: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: قیام۔ الْقِيَامُ وَالْقِيَوْمُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مثل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذات ہو۔ الْقِيَوْمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

القائم مقام عند ارباب السياسة: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا پٹی جگہ پر قائم ہو۔ قَوْمِيَّةُ: الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّةُ: قامت انسان۔ الْقَوْمِ: اچھے قد و قامت والا۔ اُمُورِ كَانَتْ تَنْتَظِمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَوْمِ: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: قیام۔ الْقِيَامُ وَالْقِيَوْمُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مثل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذات ہو۔ الْقِيَوْمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

القائم مقام عند ارباب السياسة: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا پٹی جگہ پر قائم ہو۔ قَوْمِيَّةُ: الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّةُ: قامت انسان۔ الْقَوْمِ: اچھے قد و قامت والا۔ اُمُورِ كَانَتْ تَنْتَظِمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَوْمِ: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: قیام۔ الْقِيَامُ وَالْقِيَوْمُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مثل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذات ہو۔ الْقِيَوْمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

القائم مقام عند ارباب السياسة: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا پٹی جگہ پر قائم ہو۔ قَوْمِيَّةُ: الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّةُ: قامت انسان۔ الْقَوْمِ: اچھے قد و قامت والا۔ اُمُورِ كَانَتْ تَنْتَظِمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَوْمِ: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: قیام۔ الْقِيَامُ وَالْقِيَوْمُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مثل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذات ہو۔ الْقِيَوْمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

القائم مقام عند ارباب السياسة: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا پٹی جگہ پر قائم ہو۔ قَوْمِيَّةُ: الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّةُ: قامت انسان۔ الْقَوْمِ: اچھے قد و قامت والا۔ اُمُورِ كَانَتْ تَنْتَظِمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَوْمِ: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: قیام۔ الْقِيَامُ وَالْقِيَوْمُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مثل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذات ہو۔ الْقِيَوْمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

القائم مقام عند ارباب السياسة: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا پٹی جگہ پر قائم ہو۔ قَوْمِيَّةُ: الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّةُ: قامت انسان۔ الْقَوْمِ: اچھے قد و قامت والا۔ اُمُورِ كَانَتْ تَنْتَظِمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَوْمِ: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: قیام۔ الْقِيَامُ وَالْقِيَوْمُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مثل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذات ہو۔ الْقِيَوْمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

القائم مقام عند ارباب السياسة: نائب۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: قائم کاموں سے قائمات و قوائمِ قَائِمَةُ السِّنْفِ: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدِّيَانَةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الْخِوَانِ او السَّرِيْرِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ رِجْمَانِ قِيَمَاتِ: الْقَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت

المقام کھڑے ہونے کی جگہ۔ مرتبہ ج مقامات (والمقام) کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے کی جگہ۔ کھڑے ہونے کا زمانہ۔ المقامة۔ مجلس۔ سرداری۔ لوگوں کی جماعت۔ خطبہ یا عطا روایت جو لوگوں کے مجمع میں بیان کی جائے۔ ج مقامات اور اسی سے ہے۔ مقامات بدیعاً مقامات حریری وغیرہ۔

المقوم۔ بل کا دستہ۔ المقامة۔ کھڑا ہونا۔ لوگوں کی جماعت۔

وطن اقامت۔ المقیم۔ نا۔ اور کہا جاتا ہے "هذا امر مقیم ومقعد" یہ معاملہ اضطراب انگیز ہے۔

تقون۔ الرجل۔ ظلم کرنا۔ زبان درازی کرنا۔ حد سے گزرنا تقون الرجل۔ اچھی تعریف کرنا۔

القونة۔ لوہے یا تانبے کا ٹکڑا جس سے برتن کو جوڑتے ہیں۔ ج قون۔ القان۔ ایک درخت ہے جس سے کمائیں بناتے ہیں۔

القاون۔ ککڑی کی ایک قسم۔ قوہ تقویہا۔ الرجل۔ چلانا الصيد۔ گھیرا ڈالنا۔

تقاؤة۔ الرجلان۔ صرخا فنعارفا۔ نشان مقررہ سے ایک دوسرے کو چلا کر پہچانا۔

استقوهہ۔ عکار کا گھیرا ڈالنے کیلئے کہنا۔ ايقہ۔ اطاعت کرنا۔ سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "ایقہ لہذا" یعنی اس کو سمجھو۔ ايقہ واستقہ۔

اطاعت کرنا۔ اور یہ دونوں اوقہ واستوقہ کے مقلوب صیغے ہیں۔ القاہ۔ طاعت۔ عزت۔ مرتبہ۔ خوش حال زندگی۔ اور کہا جاتا ہے "مائلک علی قاہ" تم کو میرے اوپر کوئی قدرت نہیں۔

القاہی۔ خوش حال زندگی والا۔ قوی بقوی قوہ۔ توانا ہونا۔ مضبوط ہونا۔ علی الامر۔ طاقت رکھنا (قوی) بہت بھوکا ہونا المظن۔ بارش بند ہونا۔ قویت قیاً

وقوایة۔ الذر گھر کا خالی ہونا۔

قوی الرجل او الشی۔ مضبوط کرنا۔

قاوی مقاراة الرجل۔ طاقت میں غالب ہونا۔ تم کہتے ہو "قاوانی فقویتہ" اس نے

مجھ سے قوت میں مقابلہ کیا میں غالب ہو گیا

وقاواہ۔ دینا۔

أقوی أقواء۔ محتاج ہونا۔ چھیل میدان میں

أزنا۔ مادر ہونا۔ مضبوط و جانور والا ہونا۔

أقوت الذر۔ رہنے والوں سے خالی ہونا۔

أقوی القوم۔ قوم کا توشہ ختم ہونا الرجل۔

بھوکا ہونا اور کھانے کو کچھ نہ ہونا۔ اقوی البعثة۔ خالی کرنا۔ اقوی الشعر۔ اشعار کے

قوانی کو اعراب میں مختلف کرنا الحیل۔ رستی کو جا بجا موٹا بنانا۔

تقوی۔ قوی ہونا۔ مضبوط ہونا۔

تقاوی تقاویا۔ بھوکے رات بسر کرنا۔

القوم المناع بینہم۔ قیمت بڑھانا یہاں تک کہ انتہائی قیمت پر پہنچنا القوم الدولو۔

سب کا ڈول کے منہ پر منہ لگا کر پہننا۔

اقنوی اشتواء۔ المناع۔ قیمت بڑھانے کے بعد خریدنا شینا شنی۔ تبدیل کرنا علی

فلان۔ عتاب کرنا الرجل۔ مضبوط اور قوی ہونا الشی اپنے لیے خاص کرنا۔

استقوی استقواء۔ قوی ہونا۔

القواء والقواء ج اقواء۔ القی والقوایة والقوی۔ خالی اور چھیل میدان۔ القواء

والقوایة بے بارش کی زمین۔ منزل قواء۔ منزل جس میں کوئی انیس نہ ہو۔

القواء والقوی۔ بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات القواء او القوی" بھوکے رات بسر

کی۔ القوہ۔ زور۔ طاقت۔ توانائی۔ ج قووات وقوی وقوی۔ رستی کی لڑی۔ ج قوی۔

القوی۔ عقل۔

القادی۔ نا۔ پکڑنے والا۔ لینے والا۔ بلد قاو۔ خالی شہر۔

القواویة۔ مؤنث قادی۔ انڈا۔ کم بارش کا

سال۔ ایل قارویات۔ بھوکے اونٹ۔

التقاوی۔ س۔ تقاوی الامطار۔ بارش کی

قلت۔

القوی۔ مضبوط۔ زور دار ج اقویاء۔

المقوی۔ نا۔ الفرس المقوی۔ مضبوط

گھوڑا بلد مقو۔ شہر جو بارش سے خالی ہو۔

قاء بقی قیاً۔ ما اكله۔ تے کرنا۔ صفت

قانی قانت الطعنة الدم۔ نیزہ کا خون بہانا۔

قانت الارض الکماة۔ سانپ

کی چھتری کو اگانا۔ وقاء الرجل نفسه۔

مرنا۔

قیاً قیسینہ واقاء افاة فلانا ما اكله۔ تے

کرنا۔

تقیاً تقیوا واستقواء استقفاء۔ تکلف تے

کرنا۔

القیاء۔ تے تے آورداء۔

القیوۃ والقیوۃ بہت تے کرنے والا۔

المقیمی تے آورداء۔

القیثار والقیثارۃ۔ ج قیائیر والقیثار

والقیثارۃ۔ ج قیائیر۔ سارنگی۔

قاح یقیح قیحا وقیح وافاح وتقیح

الجرح۔ زخم کا پیپ والا ہونا یا پیپ بہنا۔

القیح۔ پیپ۔ پیپ جس میں خون کی

آہریش نہ ہو۔

قید الرجل۔ بیڑی ڈالا جانا۔

قیدہ تقیداً۔ بیڑی ڈالنا۔ روکنا۔

بالاحسان۔ احسان مند بنانا۔ قید الكتاب۔

اعراب لگانا الكتاب والمتکلم۔ کلام کو کسی

قید سے مقید کرنا الحساب۔ حساب لکھنا

الحط۔ نطق اور اعراب لگانا۔

تقید۔ بیڑی میں ہونا۔ زکنا۔

القید۔ جانور کے پاؤں باندھنے کی رستی

وغیرہ۔ ج قیود واقیاد۔ وقید الاسنان۔

سوزھا۔ کہا جاتا ہے "فرس قید الاواید"

تیز رفتار گھوڑا۔ یعنی اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے

وحشی جانوروں کے لیے قید کی مانند ہے کہ وہ

ان کو بھانگنے سے روک دیتا ہے۔

القید والقید والقید والقید۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے ”مُقَيِّضًا
تَقْيِزُ رُجْحٍ أَوْ قَادِرُ رُجْحٍ“ ان دونوں کے درمیان ایک
نیزہ کی مقدار ہے۔

القياض رتبی۔ جس سے جانور کو کھینچا جائے۔
القيد من الخيل أو الإبل سداها هو۔

تا بعد از گھوڑا لیا اونٹ۔

المقيض۔ جانور کے پاؤں میں رتبی ہانڈے
کی جگہ۔ ج مقایض۔ یازیب پینے کی جگہ۔
کتاب مقیض۔ اعراب لگی ہوئی کتاب اور کہا
جاتا ہے ”امرأة مقيد الحمارة“ یعنی آزاد

عورت۔ وبنو مقيد بہت سے بچھو۔
و أرض مقيدة الحمارة زمین سنگلاخ۔

قير الشئ کسی چیز پر قار ملنا۔
إقتار الحديث بحث کرنا۔ کھود کرید کرنا۔
القير والقار سیاہ رنگ کی ایک چیز جس کو
کشتی پر ملتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ آئے۔

القير بخرم نام۔ غیر معروف النسب۔ کہا جاتا
ہے ”هذا قير من ذاك“ یہ اس سے زیادہ
کڑوا ہے۔

القير بوس امریکہ میں ایک پودا جس کا تنا
سٹون کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔

القير اطریکھوادق رط۔

القير وان گھوڑوں کا گلہ۔ فوج کا بڑا حصہ۔

قافلہ ج قير و انات (دو ٹیل)

قاس يقين قيسا و قيسا۔ تازے چنایا۔

بھوکا ہونا۔ سابق ہونا (قیسا) الطيب

فقر الجراحة زخم کی گہرائی ناپنا۔ مفت

قائس الشئ بغيره او على غيره۔ نمونہ

پر اندازہ کرنا۔

اقاس الشئ بغيره و عليه و اليه۔ نمونہ پر

اندازہ کرنا۔

قائس قياسا و مقايسة بين الامرين:

اندازہ کرنا الشئ بكذا و الی كذا۔ اندازہ

کرنا الرجل۔ اندازہ کرنے میں مقابلہ کرنا

الی كذا سابق ہونا۔

تقيس۔ قبیلہ قیس غیلان سے مشابہ ہونا۔

قبیلہ قیس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا۔

یا قبیلہ قیس کے حلیف ہونے یا پڑوسی ہونے یا
ان سے ولاء کا تعلق ظاہر کرنا۔

انقاس اندازہ ہونا۔

اقتاس الشئ۔ اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
”هو يقتاس بابيه“ وہ اپنے باپ کی پیروی

کرتا ہے۔

القاس والقيس۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے
”بينهما قاس رمح او قيس رمح“ ان

دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی مقدار فاصلہ
ہے۔

القياس۔ کہا جاتا ہے ”هذا قياس

ذاك“ یہ اس کے مشابہ ہے القياس في

المنطق: وہ قول ہے جو کم از کم دو قضا سے

مرکب ہو کہ جن کے تسلیم کر لینے سے ایک

دوسرا قول لازم ہو۔

القياسی۔ مطابق قیاس۔

القياس بہت قیاس کرنے والا۔

المقياس۔ مقدار جس سے اندازہ کیا جاسکے۔

ج مقاييس۔

القياسی۔ بواج قیاس و قیاسرة۔

قياسرية۔ قیصریہ کی تحریف ہے۔ اور یہ چند

شہروں کا نام ہے۔ جو قیصرہ روم کے ناموں پر

رکے گئے تھے۔ جیسے قیصریہ فلسطین قیصریہ

قیس۔ قیصریہ کہاؤ کیا۔

قاصت تقيض قيسا۔ السن۔ دانت کا جڑ

سے گرنا۔ قاص البطن۔ پیٹ کا حرکت کرنا۔

انقاص و تقيض الحانط۔ دیوار کا جھکنا اور

گرنا الفرس۔ داڑھ کا گرنا یا لمبائی میں پھٹ

جانا۔ تقيضت البئر۔ کنوئیں کا گرنا

انقاصت البئر۔ پانی بہت ہونا۔ یہاں تک کہ

گرنے کے قریب ہوتا۔

قاص يقين قيسا الشئ۔ پیرا ہونا۔

الشئ۔ پھٹنا السن۔ دانت لپٹا الشئ

بالشئ۔ مانند بنانا الشئ من الشئ۔ بدل

میں لینا۔

قيضت البئر۔ کنوئیں کا بہت پانی والا ہونا۔

قيض الله له كذا۔ مقدر کرنا الله فلانا

لفلان۔ لانا۔

قايض قياضا و مقايضة فلانا بكذا:

مبادلہ کرنا۔

تقيضت البيضة۔ انڈے کا ٹوٹنا۔ تقيض

له كذا۔ مقدر ہونا سب ہونا ابابہ۔ باپ کے

مشابہ ہونا (انقاص) الحانط۔ دیوار گرنا۔

انقاصت الركبة او السن۔ گھٹنے یا دانت کا

لمبائی میں پھٹنا۔

تقايض تقايضا۔ الرجلان۔ ایک

دوسرے سے تبادلہ کرنا۔

انقاص الشئ۔ جڑ سے اکھیرنا۔

القيض۔ سن۔ انڈے کا خشک چھکا

(والقياض) برابر۔ کہا جاتا ہے ”هذا قيض

او قياض لكذا“ یہ اس کے برابر ہے و

”هما قياض“ وہ دونوں ہم مثل ہیں۔

المقايضة۔ ایک مال کو دوسرے مال کے ساتھ

برابر قیمت پر خرید و فروخت کرنا۔

القيسة۔ ہڈی کا چھوٹا ٹکڑا۔ ج قیض

القيض والقيسة۔ پتھر کہ جس کو گرم کر

کے بکری وغیرہ کے نقرہ گردن پر داغ لگائیں۔

المقيض۔ انڈے کی جگہ۔ بنو مقیضة:

بہت پانی والا کواں۔ بيضة مقیضة۔ توڑا ہوا

انڈا۔

قايض يقيط قيطا۔ اليوم۔ سخت گرم ہونا

(وقيط و تقيط و انقاص) القوم

بالمكان۔ گرمی کا زمانہ گزارنا۔ قيطوا:

لوگوں پر گرمی کی بارش ہونا۔ قيطه الشئ:

گرمی کے زمانہ کے لیے کافی ہونا۔

قايظه قياظ و مقايظة۔ گرمی کا زمانہ ساتھ

گزارنا۔ موسم گرما بھر کا معاملہ کرنا۔

القيط۔ گرمی کی شدت۔ گرمی کا موسم۔ ج

اقياظ و قيوظ۔

القايظ و القيوظ۔ سخت گرمی والا۔ يوم

قايظ: سخت گرمی کا دن۔ قايظ قايظ: سخت

گرمی۔

القسطی۔ جو گرمی میں پیدا ہوا ہو۔

المقايظ و المقيط و المقيط۔ گرمی کا زمانہ

المقیل: من قیلوہ کرنے کی جگہ۔ دوپہر میں سونا لینا۔	قَائِلَةٌ: معاوضہ میں دینا۔ تبادلہ کرنا۔
المقیل: دودھ دوہنے کا بڑا برتن جس میں دوپہر کے وقت دوہا جائے۔	أَقَالَ إِقَالَ الْبَيْعُ: بیع توڑنا۔
ذَوْحَةٌ مَقِيَالٌ: بڑا درخت جس کے نیچے بہت زیادہ لینا جائے۔	اللَّهُ عَشْرَتِكَ: کرنے سے اٹھانا۔ درگزر کرنا۔ اِقَالَ الْإِبِلَ: دوپہر میں پلانا۔
قَانَ يَقِينُ قَيْنًا الْحَدِيدَ: لوہے کو برابر کرنا	تَقِيلُ: دوپہر میں سونا ہا: باپ کے مشابہ ہولہمَاءُ: پانی کا جمع ہونا۔ تَقِيلْتُ الْإِبِلَ: اونٹوں کا دوپہر میں پینا۔
الإناء: برتن کو درست کر لہنشی جمع کرنا	تَقَالِي الرُّجُلَانِ الْبَيْعُ: بیع کو فسخ کرنا۔
اللَّهُ فَلَانًا عَلَى كَذَا: پیدا کرنا المرأۃ	إِقْتَالَ شَيْئًا بَشِيًّا: تبدیل کرنا۔
المرأۃ: بناؤ سنگار کرنا۔	اسْتَقَالَ اسْتَقَالَ الْبَيْعُ: بیع فسخ کرنے کو کہنا۔ اسْتَقَالَ عَشْرَتَهُ: لغزش معاف کرنے کو کہنا۔
قَانَ يَقِينُ قَيْنًا وَقِيَانَةً: لوہا ہونا۔	مَزِينٌ: مزین کرنا۔
قَيْنَةٌ: مزین کرنا۔	تَقِينُ: مزین ہولہنْبِتٌ: لہتا ہونا۔
قَيْنَانٌ أَقْيَانَانَا النَّبْتُ: لہتا ہونا الرؤضۃ:	أَقْتَانَ أَقْيَانَانَا النَّبْتُ: لہتا ہونا الرؤضۃ:
بَانٌ كَأَسْرَسِرٍ وَشَادَابٌ هُونَا:	بَانٌ كَأَسْرَسِرٍ وَشَادَابٌ هُونَا:
الرجل: مزین ہونا۔	الرجل: مزین ہونا۔
القَانُ: ایک درخت ہے جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ واحد قَانَةٌ:	القَانُ: ایک درخت ہے جس سے کمانیں بنائی جاتی ہیں۔ واحد قَانَةٌ:
القَيْنُ: غلام۔ قِيَانٌ: لوہا اور ہر کار گیر ج	القَيْنُ: غلام۔ قِيَانٌ: لوہا اور ہر کار گیر ج
قِيُونٌ وَأَقْيَانٌ:	قِيُونٌ وَأَقْيَانٌ:
القَيْنَةُ: باندی۔ لونڈی۔ گانے والی۔ سنگھی	القَيْنَةُ: باندی۔ لونڈی۔ گانے والی۔ سنگھی
چوٹی کرنے والی۔ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ۔ قِيَانٌ:	چوٹی کرنے والی۔ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ۔ قِيَانٌ:
المُقَيِّنَةُ: مُقَيِّنٌ كَامُونَتٌ۔ سنگھی چوٹی کرنے والی عورت۔	المُقَيِّنَةُ: مُقَيِّنٌ كَامُونَتٌ۔ سنگھی چوٹی کرنے والی عورت۔
	القَائِلَةُ: قائل کامونٹ۔ دوپہر۔
	القَائِلَةُ وَالْقَيْلُولَةُ: دوپہر میں سونا۔ دوپہر میں لینا۔
	رَجُلٌ قَيْالٌ: ہمیشہ دوپہر میں سونے والا۔
	الإِقَالَةُ: س عقد کا فسخ کرنا۔
	برس کرنے کی جگہ۔
	المَقِيظَةُ: گرمی تک سہزرنے والی سبزی۔
	قَاعٌ يَقِيعُ قَيْعًا: الخنزيرُ: سور کا آواز نکالنا۔
	قَيْفٌ وَتَقَيْفٌ أَنْرَةٌ: تلاش کرنا۔ کھوج لگانا۔
	القِيَافَةُ: کھوج۔ تلاش۔
	قَافَتْ تَقِيْقٌ قَيْقًا الدَّجَاجَةُ: مرغی کا کرکڑانا۔
	القِيْقُ: بیوقوف۔ کوتاہی کے برابر ایک پرندہ جس کے بازو خط اور دم کالی ہوتی ہے اور بہت بولتا رہتا ہے اور جس کو ابوزریق بھی کہتے ہیں۔
	قَيْقِيَةُ الْبَيْضَةِ: انڈے کے سخت چھلکے کے نیچے کا باریک چمکا۔
	القَيْقَاةُ وَالْقَيْقَانَةُ: سخت زمین۔ عَوَاقِقٌ وَقِيَاقٌ وَقِيْقٌ:
	القَيْقَبُ: ایک درخت کا نام۔ زین کا تسمہ۔ وہ لوہا جس کے وسط میں وہ حصہ ہوتا ہے جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے (القَيْقَبَانُ) زین۔ ایک لکڑی جس سے زین بنائے جاتے ہیں۔
	القَيْقَابُ: کپڑے کو چکنا کرنے کا مہرہ۔
	قَالَ يَقِيْلُ قَيْلًا وَقَائِلَةٌ وَقَيْلُولَةٌ وَمَقَالًا وَمَقِيْلًا: دوپہر میں سونا (قَيْلًا) دوپہر میں دودھ دوہنا اور پینا۔
	قَيْلَةٌ: دوپہر میں پلانا۔

معنوں میں مستعمل ہے۔ جیسے کئی من رُجُل اور کئی رُجُلًا زَانِتٌ میں نے بہت سے آدمی دیکھے۔ اور قلت کے ساتھ استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے حضرت ابی بن کعب کا قول حضرت ابن مسعود کے لیے کائی تَقْرَأُ سُورَةَ الْاِحْزَابِ یعنی تم نے کئی مرتبہ سورہ احزاب کی تلاوت کی تو انہوں نے جواب دیا۔ تہتر مرتبہ۔

کب (ن) کَبَا الْاِنَاءُ: برتن کو اوندھا کر دینا۔

الرُّجُلُ عَلِيٌّ وَجِهَةٌ وَلَوْجُهُ: پچھڑانا الغزل: کاتے ہوئے سوت کا گولہ بناالشی: بھاری ہونا۔ بوجھل ہونا۔

كَبَبٌ: کباب بنانا۔

اَكْبُ: فَلَانًا: پچھڑانا الرَّجُلُ: پچھڑانا سرگلوں ہونا عَلِيُّ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ: بہتر مشغول ہونا۔ اَكْبُ عَلَيْهِ: کسی کو بچانے کے لیے اس پر چھاجانا۔

تَكَبَّبَ: کپڑے میں لپٹا لپٹا کر اوٹنوں کا بیماری وغیرہ کو دچ سے گرانہ۔

تَكَابَّ الْقَوْمُ عَلَيَّ الشَّيْءِ: بھیڑ کرنا۔

اِنْكَبَّ عَلَيَّ الْاَمْرُ: لازم ہونا۔

اَلْكُبُّ: ایک قسم کی کڑوی گھاس۔

اَلْكُبَّةُ: گھوڑوں یا آدمیوں کی جماعت۔ بڑا اُونٹ۔ بوجھ۔ كُبَّةُ الْغَزَلِ او الْخَيْطُ: کاتے ہوئے سوت یا دھاگے کا گولہ۔ كَبَبٌ الْكُبَّةُ وَالْكَبَّةُ: حملہ۔ اور کہا جاتا ہے "سَمَانَتْ لَهُمْ كُبَّةٌ فِي الْحَوْبِ" یعنی انہوں نے لڑائی میں شور کیا۔ بھیڑ۔ دو گھوڑوں کے درمیان ٹکرائی۔ کب کے لوگوں کی جماعت۔

كِبَّةُ النَّارِ: آگ کا بڑا حصہ۔ كِبَّةُ الشَّيْءِ: سردی کا بیماری آنا۔ سردی کی شدت۔

اَلكِيَابُ: کباب۔

اَلكِيَابُ: بہت اُونٹ بکری۔ چپکے والی مٹی۔

تَدْبِرُ رِيْتًا: تھکنے کی مٹی۔

اَلْمَكْبُ: دھاگا لپیٹنے کی ریل۔ ج چمکیات

وَمَكَابٌ: زمین کی طرف نظر

اَلْمَكْبُ وَالْمَكْيَابُ: زمین کی طرف نظر رکھنے والا۔

كَبْتَهُ (ض) كَبْتًا: پچھڑانا۔ رُسُوًا: کرنا۔ پھیرنا۔ توڑنا۔ ذلیل کرنا۔ غصہ سے رد کرنا۔ کہا جاتا ہے "كَبْتَهُ لَوَجْهِهِ" یعنی اس نے اس کو منہ کے بل پچھا دیا۔ "كَبْتُ فُلَانٌ غَيْظَهُ" یعنی فلاں نے غصہ کو چھپایا۔ و "كَبْتُ اللّٰهُ الْعَدُوَّ" یعنی اللہ دشمن کو رُسُوًا ذلیل کرے۔

اِنْكَبْتُ: پچھاڑا جانا۔ رُسُوًا: ہونا۔ پھرتا۔ ٹوٹنا۔

اَلْكَبُوْتُ: اون کی کھلی گرم چادر۔ کھل

اَلْمَكْبِيْتُ: غم سے بھرا ہوا۔

كَبَيْتُ (س) كَبَيْتًا اَللَّحْمَ: گوشت کا خراب اور بدبودار ہونا۔ صفت كَبِيْتُ وَمَكْبُوْتُ.

كَبَيْتُ السَّقِيْنَةِ: کشتی کو زمین کی طرف کھینچ کر لانا۔ ایک کشتی کا سامان دوسری کشتی میں رکھنا۔

كَبِحَ (ف) كَبِحًا اَلدَّابَّةَ بِاللَّحْمِ: چوپائے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ كَبِحَهُ عَنِ الْحَاجَةِ: باز رکھنا۔ كَبِحَهُ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔ كَبِحَ الْحَانِطُ السَّهْمَ: دیوار کا تیر کو اہل کرنا اور گھٹنے نہ دینا۔

اَلكَبْحُ اَلدَّابَّةَ بِاللَّحْمِ: چوپایہ کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔

كَبِحَهُ مَكْبِحَةً: گالی گلوچ کرنا۔ بُرَا بَهْلًا: کہنا۔

اَلْحَبْحُ الْمَكَانُ: بلند ہونا۔ صفت مَكْبَحٌ وَمَكْبَحٌ.

اَلكَبِيْحُ: فادہ شگونی کی چیز۔ ج کوابح۔ بعبیر اَلْحَبْحُ: مضبوط اُونٹ۔

كَبِدَةٌ (ن ض) كَبِدًا: جگر پرانا۔

كَبِدَةُ الْاَمْرِ: ارادہ کرنا لبرد القوم: سردی کا تکلیف دہ ہونا۔

كَبِدٌ (س) كَبِدًا وَكَبِدًا: درو جگر والا ہونا۔ صفت مَكْبُوْدٌ.

كَبَادٌ كَبَادًا وَمَكَابِدَةُ الْاَمْرِ: مشقتیں

برداشت کرنا الْمَسَافِرُ اللَّيْلُ: رات کے خوف اور صعوبت کے باوجود سفر کرنا۔

كَبِدَتِ الشَّمْسُ السَّمَاءَ: آفتاب کا وسط آسمان میں پہنچنا۔

تَكَبَّدَ الْاَمْرُ: ارادہ کرنا۔ مشقت برداشت کرنا الْمَكَانُ: وسط میں پہنچنا الشَّمْسُ السَّمَاءَ: آفتاب کا وسط آسمان میں پہنچنا۔

اَللَّبْنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔

اَلكَبْدُ وَالْكَبْدُ وَالْكَبْدُ مِنَ الْاَنْعَاءِ: جگر۔ کلیجہ (مذکر و مؤنث) ج اکبار کَبُوْدٌ.

اَلكَبْدُ: اندرون۔ پہلو۔ وسط شی۔ معظم شی۔

كَبْدُ الْقَوْمِ: علاقہ۔ کمان کے دونوں طرف کا درمیان۔ كَبْدُ الْاَرْضِ: معدنی چیزیں جیسے چاندی، سونا وغیرہ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ نَضْرَبُ اِلَيْهِ اَكْبَادَ الْاِبِلِ" یعنی فلاں کی طرف لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔

اَلكَبْدُ وَالْكَبْدُ وَالْكَبْدَاءُ وَالْكَبِيْدَاءُ وَالْكَبِيْدَاءُ مِنَ السَّمَاءِ: وسط آسمان۔

اَلكَبْدَاءُ: ہتھ چکی۔ ریت کا تودہ کہ جس کا درمیان حصہ بڑا ہو۔ کمان کی جس کا قبضہ تھیلی کو بھردے۔ اَلكَبْدُ: پیٹ کی بڑائی۔ مشقت۔

فَضَاءُ آسْمَانِيٍّ: سختی۔ ریت کا درمیان حصہ۔

اَلكَبْدَةُ: کبند کا اسم مرثہ۔ دوستی و محبت کا مہرہ۔

اَلكَبَادُ: درو جگر۔

اَلكَبَادُ: چکو ترہ۔

اَلاَكْبِدُ: ایک قسم کا پرندہ۔ درمیان سے موٹا آہستہ سے چلنے والا۔ بڑے جگر والا۔ وہ شخص جس کے جگر کی جگہ بلند ہو۔ مؤنث كَبْدَاءُ ج كَبِدٌ.

اَلكَبِيْدِيَّةُ: چھپے ہوئی پھولوں والا کائی جیسا پودا تر مقامات پر زندہ رہتا ہے سبز پتوں والا اس کے پتے سورج کے ظاہر ہونے پر جگر کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اَلكَبَادُ: لیوں۔

اَلكَبَادُ: فادہ مشقت کی برداشت۔

كَبُوْرٌ (س) كَبُوْرًا وَمَكْبُوْرًا فِي السَّنِّ: محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسیدہ ہوتا۔

کَبْرًا (ن) کَبْرًا فَلَانًا بِالسِّنِّ مَعِيَ سَ بَرَا
ہونا (مخبر میں)

کَبْرًا (کَبْرًا) کَبْرًا وَکَبْرًا وَکَبْرًا فِي
الْقَدْرِ: مرتبہ میں بڑا ہونا۔ کَبْرًا عَلَيْهِ
الْأَمْرُ وَشَوَارَ هُوَا: سخت ہونا۔ بھاری ہونا۔
كُوْبِرَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ: ظلم سے لیا جانا۔
صفت مُكَابِرٌ عَلَيْهِ.

كَبْرٌ تَكْبِيرًا وَكَبْرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبْرًا الشَّيْءُ
بِزَانَتَا:

کَابِرَةٌ وَشَيْءٌ كَرْنَا: مخالفت کرنا۔ غلبہ کرنا
عَلَى حَقِّهِ: جن کا انکار کرنا۔

أَكْبَرُ الْأَمْرُ بِرَأْسِهِمَا الرَّجُلُ بِرَأْسِهِمَا كَرْنَا:
تقسیم کرنا۔

تَكْبِيرٌ وَتَكَابِيرٌ: تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔
تَكَابِيرُ الرَّجُلِ: اپنے آپ کو بزرگ ظاہر

کرنا۔
إِسْتِكْبَارٌ: تکبر ہونا۔ الْأَمْرُ بِرَأْسِهِمَا: بڑا

شمار کرنا۔
الْكَبِيرُ: غرور۔ بڑا گناہ۔

الْكَبِيرُ وَالْكَبِيرُ: چیز کا بڑا حصہ۔ شرف۔
رَفَعَتِ الْكَبِيرُ كَفْرًا وَشَرَفَ:

الْكَبِيرُ وَالْكَبِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ: بڑھاپا۔
وَالْكَبِيرَةُ بِرَأْسِهِمَا: کہا جاتا ہے "هُوَ كَبِيرُهُمْ
وَكَبِيرَتُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَكَبِيرَتُهُمْ
وَإِكْبَرْتُهُمْ وَإِكْبَرْتُهُمْ": وہ ان کا بڑا بوزھا

ہے وَفَلَانٌ كَبِيرَةٌ وَلِدَانِيهِ فَلَانٌ: اپنے باپ
کی اولاد میں سب سے بڑا ہے۔ اس میں واحد جمع

نِدْرَمُونْتِ سَبِّ بَرَابَرِهِمْ:

الْكَبِيرُ: حَمُولٌ: ج کَبَارٌ وَكَبَارٌ (دخیل)
ایک درخت کا نام۔

الْكَبِيرِيَاءُ: بزرگی۔ عظمت۔ غرور۔
الْكَبَارُ وَالْكَبَارُ وَالْكَبَارُ: بڑا۔ الْكَبِيرُ:

بَلَدٌ مَرْتَبَةٌ سَرْدَارٌ: مورث اعلیٰ۔
الْكَبِيرُ: بڑا۔ ج کَبَارٌ وَكَبَارٌ: معلم۔

رَبِّئِمْ وَأَكْبَرُ اللهُ تَعَالَى كَيْ سَمَاءُ حَسْبِي فِي
سے ہے۔

الْكَبِيرَةُ: کَبِيرٌ كَامُونْتٌ - بڑا گناہ۔ ج
كَبِيرَاتٌ وَكَبَائِرٌ.

الْأَكْبَرُ اسْمُ تَفْصِيلٍ - اور کہا جاتا ہے الْأَكْبَرُ
وَالْأَصْغَرُ مَعْنَى كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ أَكْبَرُ
وَإِكْبَرُونَ. أَكْبَرُ الْقَوْمِ شَرَفًا: قوم۔ کہا
جاتا ہے "أَتَانِي فَلَانٌ أَكْبَرُ النَّهَارِ فَلَانٌ
مِيرے پاس دن چڑھنے کے وقت آیا۔

الْإِكْبَرُ وَالْأَكْبَرُ: ایک میٹھی چیز ہے خشک
حلوے کی مانند۔ جس کو شہد کی مکھی جمع کرتی

ہے اور یہ شہد اور موم کے علاوہ ہے۔
الْكَبِيرِيُّ أَكْبَرُ كَامُونْتِ: ج كَبِيرٌ وَكَبِيرِيَاتٌ

اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ الْحَارِيَةُ مِنْ كَبِيرِي
بِنَاتِ فَلَانٍ" یہ لڑکی فلاں کی لڑکیوں میں

سے بڑی ہے۔
الْمَكْبِيرُ وَالْمَكْبِيرَةُ: عُزْرِي بَرَاءِي:

الْمَكْبُورَاءُ: اسم جمع معنی كَبِيرَاءُ.
كَبِيرَتُ الشَّيْءِ: کسی چیز پر گندھک ملنا۔

الْكَبِيرِيَتُ: گندھک۔ سرخ سونا۔ سرخ
یا قوت۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبٌ كَبِيرِيَتٌ وَفِطَّةٌ
كَبِيرِيَتٌ": خالص سونا چاندی۔

الْكَبِيرِيَا الْأَصْفَاءُ: ایک چھوٹا درخت جس
کے پھول سفید خوبصورت ہوتے ہیں ہانسرہ

والے ہوتے ہیں۔
كَبِيرٌ (ض) كَبِيرًا عَلَى النَّسَبِ: حملہ کرنا

اور كَبِيرًا الْبَشَرُ: کنوئیں کو مٹی سے پائنا رَأْسَهُ
فِي النَّوْبِ: ہر کو کپڑے میں داخل کرنا۔

الْقَوْمُ ذَاهِرًا: اچانک حملہ کرنا السَّنَةُ: بِيَوْمِ:
سال میں ایک دن زائد کرنا النَّاصِيَةُ: جَبْهَتُهُ:

پیشانی کو چھپا لینا۔
كَبِيرٌ (س) كَبِيرًا: بڑے سرد والا ہونا۔

صفت أَكْبَسُ مَوْنَتُ كَبِيرًا: ج كَبِيرٌ.
كَبِيرٌ الْجَسَدِ: جسم کو ہاتھوں سے مل کر

نرم کرنا۔
عَلَى الشَّيْءِ: گھس پڑنا۔

تَكَبَسَ وَتَكَبَسَ النَّهْرُ أَوْ الْبَشَرُ: نہریا
کنوئیں کو مٹی سے بھر جانا۔ تَكَبَسَ الرَّجُلُ:

سر کو گریبان میں داخل کرنا۔ كَبِيرٌ عَلَى

الشَّيْءِ: گھس پڑنا۔

الْكَبِيرُ: کنوئیں پائے کی مٹی۔ بڑا سر۔ پہاڑ کی
جڑیں غار۔ خزانہ۔ اصل۔ مٹی کا گھر۔

الْكَبِيرَةُ: گھجوروں کا گچھا۔ ج كَبِيرٌ.
جِبَالٌ كَبِيرٌ وَكَبِيرٌ: سخت پہاڑ۔

الْكَبِيرُ: ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو
نیند کی حالت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی

چیز اس کو دبائے ہوئے ہے اور وہ حرکت پر
قادر نہیں ہوتا اور یہ مرگی کا مقدمہ ہے۔

الْكَبِيرُ: سر کو کپڑے میں لپیٹ کر سونے
والا۔ بڑے سر والا۔ پُرْ كَوَشْتٌ - هَامَةٌ

كَبِيرٌ: مٹی گول کھوپڑی۔
الْكَبِيرَةُ: اچانک حملہ۔

الْكَبِيرَةُ: کَبِيرٌ كَامُونْتِ - أَرْبَعَةٌ كَبِيرَةٌ
اوپر کے ہونٹ پر جھکا ہونا ک کابنہ۔ نَاصِيَةُ

كَبِيرَةٌ: پیشانی پر لٹکے ہوئے بال۔
الْكَبِيرُ: ایک قسم کی گھجور۔ ایک قسم کا زیور

جس کے خول میں خوشبو بھری ہوتی ہے۔
السَّنَةُ: الْكَبِيرَةُ: وہ سال جس میں فروری کا

مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور یہ ہر اس سال میں
ہوتا ہے جو چار پر برابر برابر تقسیم ہو جائے

جیسے 1940ء و 1944ء
الْمَكْبِيرُ: ج مَكْبِيرٌ وَالْمَكْبِيرُ: ج

مَكْبِيرٌ: اون یا اوراق وغیرہ دبانے کا آلہ۔
الْمَكْبِيرُ: وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں

میں اکثر گھس آتے ہوں۔
الْمَكْبِيرُ: فا۔ سر نیچے رکھنے والا۔ اچانک

آنے والا اور دبانے والا۔
الْكَبِيرُ: ہندوق کی گولی۔ اس کی دوسری

لغت کہتے ہیں۔
كَبِيرٌ (ن) كَبِيرًا الشَّيْءُ: مٹی بھر کر

لینا۔
الْكَبِيرُ: مینڈھا جب کہ دو سال کا ہو۔ اور

بقول بعض چار سال کا۔ ج كَبِيرٌ وَكَبِيرٌ
وَإِكْبَرٌ وَكَبِيرَةٌ: الْكَبِيرُ: سردار قوم۔

بڑا پتھر جو دیوار پر نشانہ کرنے کیلئے لگایا جائے۔
ایک جنگی آلہ جو حصار کے موقع پر قلعوں پر

السُّهْمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا ماءً فی الوعاء: پانی کو برتن میں گرانا۔ بکھیرنا الْكُوْزُ: کوزہ سے گرا دینا الشی: صاف کرنا البیت: جھاڑو

دینا۔
تکبی: تحمییۃ النار: آگ کو راکھ میں چھپانا۔
ثوبۃ بالکبایہ: کپڑے کو کتہہ سے دھونی دینا (رکبے کبایہ)

آکھی اُجَبَاءُ: الزند: چھتاق کا بے آگ ہونا۔ دھوئیں والا ہونا۔ آکھی وجہہ: متغیر کرنا۔

کابی مَکَابَاةُ السَّبْفِ: تلوار کو میان میں رکھنا۔

تکبی علی المجرمة: عودان پر کپڑے کو ڈالنا۔

آکھی بِالْعُوْدِ: دھونی دینا۔
آکھی: منہ کے بل کرنا۔

الکبایہ والکبی ج اُجَبَاءُ والکبۃ: ج اُجَبَاءُ: کبواں کوڑا کرکٹ۔

الکبایہ: زمین پر بڑی ہوئی متفرق چیزیں۔ پانی کے ادھر ادھر غلیظ جھاگ۔

الکبایہ: دھونی کی ٹکڑی۔ ج کبی۔
الکبۃ: کبیا کا اسم مرہ۔ تیرگی۔

الکبۃ: دھونی دینے کی □۔
الکابی: فا۔ بلند۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ کَابِی الرَّمَادِ" فلاں بہت راکھ والا ہے۔ کنا یہ ہے

الکابی: بجا ہوا کوئلہ۔ رَجُلٌ کَابٍ: باوجود دعوت کے خیر کی طرف متوجہ نہ ہونے والا

مرد۔ غبارِ کاب: بلند غبار۔
الکابیۃ: کابی کا مؤنث جھاگ۔ نَارٌ کَابِیۃ:

راکھ میں جھپی ہوئی آگ۔
کَنۃ (ن) کَنۃ: شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے "اَنَا نَا بَجِیش مَابِکَت" وہ ہمارے اوپر غیر محصور

فوج لے کر آیا۔
کَتَّ وَاکَتَّ وَاکَتَّتْ الْکَلَامُ فِی اذُنہ: چپکے چپکے کہنا۔

پوشین۔
الکبلی والکابلی: بچہ کپڑا یا پوشین "فَرَدَ کَبَلٌ اَوْ کَابِلِی"

وغیرہ۔ کہا جاتا ہے
الکابول: شکارن کا جاں۔
المکبول: سیر قیدی۔

الکابلی: پستہ قد۔
الکبولا: ایک قسم کا کھانا۔

کبن (ن ض) کبنا: الثوب: کپڑے کو اندر کھ موڑ کر سینا الشی: غائب کرنا عن الشی: بدول ہونا۔ باز رہنا عَنْہُ لِسَانۃ: زبان روکنا ہدایتہ: روک لینا۔

کبن (ض) کبنا و کبونا الظنی: ہرن کا زمین سے چمٹا الرجل: سامنے والے اوپر یا نیچے کے اندر گھسے ہوئے دانتوں والا ہونا۔

پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے سے سلوک کرنا۔
آہستہ آہستہ دوڑنا۔ موٹا ہونا۔ مطمئن ہونا۔

آکبن: لسانہ عنہ: زبان روکنا۔
اُجَبَاءُ اُجَبَانَا: ستمنا۔ سکرنا۔

الظنی: ہرن کا زمین سے چمٹا الرجل: شکستہ دل ہونا۔

الکبن: س ڈول کا کنارہ۔ ڈول کا موڑ کر سلا ہوا کنارہ۔

الکبن والکبنۃ: بخیل۔ سبوس۔ الکبنۃ خنک روئی۔

الکبان: اونٹوں کی ایک بیماری۔
المکبون: کبیا کی بیماری والا اونٹ۔

من الخیل: چھوٹی ٹانگوں والا گھوڑا۔ ج مگابین: رخیل مکبون الأصابع: سخت اور موٹی انگلیوں والا مرد۔ مؤنث مکبونۃ۔

المکبونۃ: جلد باز عورت۔
کبیا کبیبو کبیا و کبیا لوجہہ: منہ کے بل گرنا الزند: چھتاق کا بے آگ ہونا۔

کبت النار: آگ کا راکھ میں چھپنا النور: روشنی کم ہونا۔

النبت: نباتات کا پرمردہ ہونا الغبار: غبار کا اور کو پڑھنا الجسم: بلند ہونا۔

لَوْنُ الصُّبْحِ اَوْ الشَّمْسِ: تاریک ہونا

پتھر پھینکنے کے کام آتا ہے۔
الکباش: جواں مرد لوگ۔

الکباش: مینڈھوں والا۔
الکباش والکباشۃ: مضبوط و قوی اونٹ یا گدھا۔

کعب (ف) کعبا الشی: کنا ہ غن کذا: مع کرنا اور کنا الدراہم: دراہم پر کھنا اور وزن کرنا۔

کعب (ف) کعبو غا: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔

کعب الشی: کلوے کلوے کرنا۔
الکعب: ایک قسم کی بڑی پھلی جس کو "جمل البحر" سمندر کا اونٹ بھی کہتے ہیں۔

کعب کعبۃ و کعبۃ الشی: النساء پچھڑا۔ المواشی الشارڈۃ: بھاگے ہوئے جانوروں کو جمع کرنا الشی: گڑھے میں پھینکانا۔

تکعب فی ثیابہ: لینا القوم: جمع ہونا۔
الکعب والکعبۃ: ایک قسم کا کھیل۔

الکعبۃ بتثلیث الکافین والکعبوب والکعبونۃ: لوگوں یا گھوڑوں کی بھیڑ۔
الکعب والکعبۃ: مٹھے بدن والا۔

الکعبۃ والکعبۃ: کاتے ہوئے دھاگے کا گولہ۔

کبلا (ض) کبلا و کبلا: بیڑی ڈالنا۔ قید کرنا۔

کبلا و کبابلا مَکَابِلۃُ الدین: قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا۔ اوائے قرض میں تاخیر کرنا کابیل الدار: مکان کے خریدنے میں تاخیر کرنا تاکہ دوسرا شخص خرید لے اور پھر

شعبے لے لینا۔
تکبل: بیڑی ڈالنا۔ قید ہونا۔

اکتبل الاسیر: بیڑی ڈالنا کیس: تھیلی کو باندھنا: خیرہ: روک رکھنا۔

الکبل والکبل: بیڑی۔ بڑی بیڑی۔ ج کبول و اکبل: کبل: ڈول کا کنارہ۔ ڈول کا کنارہ جہاں چڑا مڑا ہو۔ بہت بالوں والی

در میان کا حصہ۔ ج کتصاد و کتفہ اور کہا جاتا ہے "خروجوا علینا کتصادا و اکتصادا" وہ ہمارے خلاف گروہ گروہ ہو کر نکلے۔

الاکتد کدھوں کے در میان سے بلند حصہ والا۔

الکتور و الکتور و الکتور و الکتور۔ بلند کوبان الکتور۔ بلند عمارت۔ اندازہ۔ چھوٹا ہودہ۔ ہر چیز کا درمیان۔

الکتور و الکتور۔ لاکھڑا ہٹ کی چال۔

الکتورۃ۔ تیر۔ گنبد۔ کوبان کا ایک ٹکڑا۔

کتش (ن) کتشا لاہلہ کتائی کرنا۔

کتع (س) کتعا۔ سکرنا۔ لچا ہونا فی العمل مستعد ہونا۔ کوشش کرنا۔

کتع (ف) کتعا بہ۔ لے جانا (کتوعا)

فی الارض۔ دور ہونا اور بھاگنا۔

کتع اللحم۔ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

کتاعة۔ اللہ۔ چاہو برباد کرنا۔

کتاع الرجلان۔ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا۔

کرنا۔

الکتع ج کتعان و الکتیع۔ لیم و ذلیل

الکتع۔ مرد ہلکا پھلکا۔ چست۔ لچا۔ راستہ کا

واقف۔ لومڑی کا بچہ۔ بھڑیل۔ الکتع۔ اکیلا

منفرد۔ کہا جاتا ہے "ما بالدار کتیع او

کتع" یعنی گھر میں ایک بھی نہیں۔ حوت

کتیع۔ پورا سال۔

الکتع ج کتاع و الکتع ج کتع

و الکتع ج کتع۔ ڈوٹی۔

کتع۔ کتعا کی جمع ہے۔ مؤنث کی تاکید میں

مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "اشتریت هذه

الدار جمعا کتعا" میں نے اس سارے

گھر کو خرید لیا۔ "زایت اخواتک جمع

کتع" میں نے تیری ساری بہنوں کو دیکھا۔

اور کتع وصف اور عدل کی باہر غیر منصرف

ہے اور کتع کو جمع پر مقدم نہیں کرتے اور

بغیر جمع کے استعمال بھی نہیں کرتے۔

اسلئے کہ یہ اس کے توابع میں ہے۔

کو دوہرے تمہ سے سینا بطنہ بند ہونا الرجل رجسٹر میں اپنا نام لکھنا۔ اور اسی سے ہے "اکتتب بمال او اعانة"

استکتبه الشی۔ لکھنے کو کہنا۔ القصيدة: قصیدہ الما کرانے کو کہنا العلامہ کتاب بنانا۔

الکتبة۔ س۔ کتاب کی نقل۔ حالت۔ حصہ یا رزق میں رجسٹر ہونا۔

الکتبة۔ سینے کا تمہ۔ مشک وغیرہ کی درز۔

الکتاب۔ س۔ جس میں لکھا جائے۔ خط۔

محفیز۔ فرض۔ حکم۔ اندازہ۔ ج کتیب

و کتب و الکتاب علی الاخلاق۔ ہر وہ

کتاب جو منزل من اللہ ہو۔ اہل الکتاب

وہ لوگ جن کے پاس آسانی کتاب ہو۔ ام

الکتاب اصل کتاب۔ سورۃ فاتحہ۔

الکتبی۔ کتابوں کا محافظ۔ کتب فروش۔

الکتابة۔ س۔ لکھا ہوا مال معین کی ادائیگی پر

غلام کو آزاد کرنا۔

الکتیب۔ بندھن سے بندھی ہوئی مشک۔

الکتیبة۔ فکر کا ایک حصہ۔ گھوڑوں کا ریوڑ۔

سواروں کا دستہ۔ ج کتاب

الکاتب۔ ف۔ عالم۔ محرر۔ ج کتابیون

و کتبه و کتاب۔

الکتاب۔ جمع کاتب۔ کتب۔ تعلیم گاہ ج

کتاتب۔

المکتب۔ تعلیم گاہ۔ لکھنے کی جگہ۔ ج

مکاتب۔

المکتبة۔ لائبریری۔ کتب خانہ ج

مکاتب۔

المکتب۔ ف۔ رجل مکتب۔ کتاب میں نقل

کرانے والا۔

المکتب۔ ف۔ کتابت کی تعلیم دینے والا۔

المکتوب۔ س۔ خط۔ ج مکاتب۔

کتع (ف) کتعا الطعام۔ حکم سیر ہو کر

کھانا۔ کتحة الريح۔ ہوا کا غبار اڑانا۔

الدبی الارض۔ کیڑے کوڑوں کا نباتات

اور درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔

الکتد و الکتد۔ دونوں کدھوں کے

کتش (ن) کتشا آہستہ چلنا۔

کت (ض) کتا البعیر۔ اونٹ کا آہستہ

آہستہ بڑھانا۔ کت القدر۔ ہانڈی کا جوش

مارنا۔ ابلنا۔ کت الرجل۔ ذلیل کرنا۔ تمکین

کرنا۔

اکت الحدیث۔ بات سننا۔

تکات الناس۔ شور کے ساتھ بھیڑ کرنا۔

الکت۔ س۔ ڈبلا (ف۔ کراؤنٹ)

الکتبة۔ س۔ ہاں مروتہ زمین کی ہیزی۔

الکتبة۔ روی مال۔

الکتبت۔ س۔ ہانڈی اٹلنے کی آواز۔ جوش

شراب کی آواز۔ جوبان اونٹ کی آواز۔ بخیل۔

کہا جاتا ہے "رجل کتبت الیدین" یعنی

بخیل مرد۔

الکتیبة۔ ایک قسم کا کھانا۔

کتب (ن) کتبا و کتبا و کتبه و کتابة

الکتاب۔ لکھنا۔ کتب علیہ کذا۔ واجب

کرنا۔ کہا جاتا ہے "کتب اللہ علی عباده

الطاعة و علی نفسه الرحمة" یعنی اللہ

تعالیٰ نے بندوں پر اپنی اطاعت فرض کی ہے اور

اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے۔ کتب

القریبة کتبا۔ مشک کو دوہرے تمہ سے سینا۔

کتب الکتاب۔ لکھا الولد۔ لکھا سکھانا

الجنود۔ فوج کے دستے بنانا اور تیار کرنا۔

کاتبہ مکانیة۔ خط و کتابت کرنا۔ ساتھ مل

کر لکھنا۔ کاتب العبد۔ مال معین کی ادائیگی

کی شرط پر آزاد کرنا۔

اکتبه۔ لکھنا۔ سکھانا۔ لکھنے والا۔

اکتبه القصيدة۔ لکھوانا۔ اکتب القریبة:

مشک کا نمہ باندھنا۔

تکتب الرجل۔ کیڑے سمیٹ کر ہوشیار

ہونا۔ تکتبت الکتاب۔ فوج کے دستوں کا

جمع ہونا۔

تکتب القوم۔ ایک دوسرے سے خط و

کتابت کرنا۔

اکتبت الکتاب۔ لکھنا۔ الما کرانا۔ لکھوانا۔

لکھنے کو کہنا الغلام۔ لکھا سکھانا القریبة۔ مشک

الاکْتَفَعُ لِحْجًا: جس کی اٹھلیاں پھیلی کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ لفظ اَجْمَعُ کے توابع میں سے ہے۔ اور بغیر اَجْمَعُ کے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے ”رَأَيْتُهُمْ اَجْمَعِينَ اَكْتَفَعِينَ“ یعنی سب کو دیکھا۔ مونث كَتَفَعَاءُ۔
الْكُتْفَاءُ بَانِدِي۔ لونڈی۔ تاکید مؤنث کیلئے جَمْعًا کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”اِشْتَرَيْتَ الدَّارَ جَمْعَاءَ كُتْفَاءً“ میں نے سارا مکان خرید لیا۔

رَأَى مُكْتَفِعًا: قوی رائے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ مُكْتَفِعًا وَمُكْوِنًا“ یعنی تیز رفتاری سے آیا۔
كُتْفَلًا (ض) كُتْفًا وَكُتْفِيًّا: آہستہ چلانا کنہا ہلاتے ہوئے چلنا۔ کچاہ کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنا۔
فِي الْأُمُورِ: نرمی برتنا كُتْفًا وَكُتْفًا الرَّجُلِ: بگلیں کنا: کنہے کے پیچھے ہاتھوں کو باندھنا۔ شانہ پر مارنا السَّرْحُ الدَّابَّةُ: زین کا کنہے کو زخمی کرنا الإِنَاءُ: برتن کو لولہ وغیرہ کے پترے سے جوڑنا الْأُمُورُ: تاپسند کرنا (كُتْفًا وَكُتْفَانًا) الطَّائِرُ: پرندہ بازوؤں کو پیچھے کی جانب ملا کر اُڑنا۔

كُتِفَ (س) كُتْفًا: چوڑے یا بڑے کندھوں والا ہونا۔ درد مند موٹھے والا ہونا۔
كُتِفَ الرَّجُلُ: آہستہ چلنا۔
كُتِفَ الرَّجُلُ: بگلیں کنا۔ موٹھوں کے پیچھے ہاتھوں کو باندھنا الإِنَاءُ: برتن لولہ وغیرہ کے پترے سے جوڑنا اللَّحْمُ وَنَحْوُهُ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا کنا الفَرْسُ: گھوڑے کا چلنے میں موٹھوں کو ہلانا۔

تَكْتَفَفَ: سینے پر ہاتھ باندھنا۔ تَكْتَفَفَ الْخَيْلُ: گھوڑوں کا چلنے میں کندھوں کو اُٹھانا۔
الْكُتْفُ وَالْكُتْفُ وَالْكُتْفُ: شانہ۔ کنہا۔ مؤنث۔ ج كِتْفَةٌ وَاِكْتَفَافٌ اور عرب کے امثال میں سے ہے ”إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَوَكَّلُ الْكُتْفُ“ اس چالاک شخص کے حق میں بولتے ہیں جو امور کے گھات پچ سے خوب

واقف ہو۔
الْكُتْفُ: سر درو شانہ کی وجہ سے جانوروں کی ننگڑا ہٹ۔ شانہ کی کوتاہی۔
الْكُتْفُ: درو شانہ۔
الْكُتْفُ: بگلیں کے کنے کی رسی۔ ج اَكْتَفَيْتَ وَكُتِفَ وَكُتِفَ۔
الْكَاثِفُ: فانا پسند کرنے والا۔

الْاِكْتَفُ مِنَ الْحَيْلِ وَالْجَمَالِ: درو شانہ والا۔ مؤنث كُتْفَاعٌ كُتْفٌ۔ الْاِكْتَفُ مِنَ الرَّجَالِ: مرد جس کے شانہ میں درد ہو۔
مِنَ الْخَيْلِ: گھوڑا جس کا شانہ کے اوپر کاحصہ چوڑا ہو۔
الْكَيْفُ: لولہ وغیرہ کا چوڑا پتر۔ چوڑی تلوار۔ ج كُتِفٌ۔

الْكَيْفَةُ: دروازے کی ٹلی۔ دروازے کی چنجی۔ جماعت۔ کینہ۔ ج كُتَافٌ۔
الْكُتْفَانُ وَالْكُتْفَانُ: نڈی جو پہلی مرتبہ اُڑے۔ واحد كُتْفَانَةٌ۔
الْمِكْتَفِافُ: جانور جس کا شانہ زین سے زخمی ہو گیا ہو۔

كُنْكَتَ الرَّجُلُ: بغیر قبہہ کے ہنسا۔ (وَتَكُنْكَتَ) آہستہ چلنا۔ چھوٹے چھوٹے قدم سے دوڑنا۔
الْكُنْكَاتُ: جلدی جلدی بولنے والا۔
كُنْكَلًا (ن) كُنْكَلًا: قید کرنا۔ باز رکھنا۔
كُنْكَيلٌ (س) كُنْكَلًا: چننا۔ صفت كُنْكَيلٌ الْجَمَانُ: گدھے کا زین پر لٹونے سے گرد آلود ہونا۔

كَاتَلَهُ اللَّهُ: تباہ و برباد کرنا۔ ملعون کرنا۔
كَتَلُ الشَّيْءُ: جمع کرنا اور گول بنانا۔
تَكْتَلُ الْقَصِيرُ: پستہ قد کا چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا الشَّيْءُ: جمع ہونا۔ تہ بہ تہ ہونا اور گول ہونا۔

انْكُتِلَ: گزرنا۔ جانا۔
الْكُتْلَةُ مِنَ الطَّيْنِ وَنَحْوِهِ: مٹی وغیرہ کا جمع شدہ ٹکڑا۔ گوشت کا ٹکڑا۔ گھجروں کا گچھاج كُتْلٌ۔

الْكُنَالُ: نفس۔ حاجت جس کو تم پورا کرو۔ مشقت۔ تنگ زندگی۔ درست: کیا ہوا لباس یا کھانا۔ گوشت۔ قوت (والْكُنَالُ) مونث پاپا اور کہا جاتا ہے ”الْقِي عَلَيْهِ كِتَالَةٌ“ اس نے اس پر اپنا ہجو ڈالا۔
الْكُنَيْلَةُ: شمالی امریکہ میں ایک خوبصورت درخت جس کے پتے چوڑے اور پھول بڑے اور سفید ہوتے ہیں۔

الْكُنَيْلَةُ: درخت خرما جس پر ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ ج كُنَائِلٌ۔
الْاِكْتَلُ: سخت۔ مصیبت۔
الْمِكْتَلُ وَالْمِكْتَلَةُ: گھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا جس میں پندرہ صاع آسکے۔ ج مِكَاتِلُ الْمِكْتَلُ: زمانہ کے مصائب میں سے ایک مصیبت۔

الْكَاتُولِيكُ: رومن کیتھولک۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ۔ کاتولیکی ج كَاتُولِيكِيُونٌ (ذخیل)

كُتِمَ (ن) كُتْمًا وَكُتْمَانًا وَكُتْمًا وَاِكْتَمَ الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ اور کبھی کتم کا تعدیہ دو مفعول کی طرف ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے كُتِمْتُ زَيْدًا الْحَدِيثُ (میں نے زید سے بات چھپائی) اور مفعول اول میں من کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے ”كُتِمْتُ مِنْ زَيْدِ الْحَدِيثِ كُتْمَ الشَّيْءِ“ چھپانے میں مبالغہ کرنا۔ وَاِكْتَمَ الشَّيْءُ: زبرد ہونا۔

كُتِمَ (ن) كُتْمًا وَكُتْمَانًا: بے سے روک رکھنا۔
كَاتَمَهُ مُكَاتِمَةُ السَّبْرِ: چھپانا۔ کہا جاتا ہے كَاتَمَهُ الْعَدَاوَةُ: یعنی دشمنی کو چھپایا۔
تَكَاتَمَ الرَّجُلَانِ الْحَدِيثُ: ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھنا۔
اِنْكَمَ: چھپنا۔

اِسْتَكْتَمَ السَّبْرُ فَلَانًا: مجید چھپانے کو کہنا۔
الْكَيْتَمَةُ: پوشیدگی۔
الْكُتْمُ وَالْكُتْمَانُ: رسمہ جس سے خضاب

بناتے ہیں اور اس کی جڑ کو جوش دے کر دشتائی تیار کرتے ہیں۔

الکاتبم۔ فال۔ کہا جاتا ہے سب کاتبم بمعنی مکتوبم یعنی چھاپا ہوا ہیرو فوس کاتبم کمان ثابت و درست جس میں پتھن وغیرہ نہ ہو۔

الکثمة۔ کسم کا اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے ”ما راجعته کثمة“ میں نے اس سے ایک کلمہ جواب میں نہیں کہا۔

الکثمة والکتابم والکثامة عبید کو بہت چھپانے والا۔

الکثوم۔ عبید کو چھپانے والا (و الکثیم) من القسی۔ ثابت و درست کمان۔ یادہ کمان جس سے آواز نہ نکلے۔ خوز کثیم۔ درز جو کشادہ نہ ہو اور پانی نہ ٹپکے۔

الاکثیم۔ بڑے پیٹ والا۔ حکم پیر۔ المکتبیم۔ فال۔ سحاب مکتبیم۔ بادل جس میں گرج نہ ہو۔

کتین (س) کثنا۔ الوسخ علی الشیء: میل کا چسپا ہونا الشیء: میل پھل لگنا دھوئیں سے سیاہ ہونا النخلۃ: درخت خرما کی جڑوں پر مٹی چڑھ جانا فلان: سیاہ لب ہونا۔

کثن واکثن الشیء: چپکانا۔ تکثبت المرأة: برقع دستانے اور موزے پہنانا۔

الکثن۔ ہونٹ کی سیاہی۔ دیوار کی دھوئیں کی وجہ سے سیاہی۔ میل پھیل۔ جس پیدگی۔ گھور کی جڑ کی مٹی۔

الکثن والکثن۔ پیالہ۔ سقاء کثن: میلی کھلی مٹک۔

الکثان۔ الی کا پودہ۔ الکثان: سبز کائی۔ کہا جاتا ہے ”لبس الماء کثانہ“ یعنی پانی کائی والا ہو گیا۔

الکثانیات: ایک فصل جو کہ الی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اس کی ایک قسم بڑے پھولوں والی زرد رنگ شے کی طرح اکٹھے۔ زریب وزینت کے لئے لگایا جاتا ہے۔

الکثونة۔ کاہن کی قمیص جس کو ڈیوٹی کے

وقت پٹروں کے نیچے پہنتا ہے۔ (دخیل) الکثان۔ کھٹل۔

کثنا یکنو کثوا۔ چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔

اکثنی اکثنا۔ دشمن پر غالب آنا۔ اکثوتی اکثینا۔ غصہ سے بھر جانا۔ بغیر عمل کے اپنی آپ تعریف کرنا۔

کث (ض) کثانۃ وکثوفۃ وکث (س) کثنا۔ گاڑھا ہونا الشیء: بالوں کا گھنا ہونا اللحیۃ: داڑھی گھنی اور گھگریالی ہونا

بسلیحہ: پاخانہ کرنا۔ اکث الرجل: گھنی داڑھی والا ہونا۔

صفت کث۔ ج کثات واکث مؤنث کثاء۔ ج کثت۔

الکث والکثیث۔ گھنی۔ کہا جاتا ہے ”هو کث اللحیۃ وکثیثها“ وہ گھنی داڑھی والا ہے۔ ”وامرأة کثۃ وکثاء“ گھنے بال والی عورت۔ الکث: میلا کھیلا۔

الکثیث۔ سن وغیرہ کا باریک دھاگا جو بکھر جائے۔

الگاٹ۔ کئی ہوئی کھیتی کے دانوں سے جو دوبارہ اگ آئے۔

کثنا (ف) کثنا وکثنا تکثیۃ اللین و نخوة دودھ کا پانی کے اوپر اور پانی کا نیچے آنا القدر: ہانڈی کا جھاگ دینا اللحیۃ: داڑھی لمبی اور گھنی ہونا لزرع: کھیتی کا سخت اور گنجان ہونا القدر: ہانڈی سے جھاگ علیحدہ کرنا

الرجل: بالائی کھانا و باز الابل اونٹ کے بال کا کٹنا۔ اکثات اللحیۃ: داڑھی گھنی اور لمبی ہونا۔ الکثاۃ وکثاۃ من اللین: بالائی۔

من الماء: پانی کی رٹ پر جو آجائے۔ کہا جاتا ہے ”خذ کثاۃ قدرک“ اپنی ہانڈی کے جھاگ علیحدہ کرو۔

الصید فلانا: شکار کا قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”کفبتک الصید فارمہ“ شکار تمہارے قریب آچکا ہے تیر چلاؤ۔ جاء یکتبہ وہ اس

کے پیچھے پیچھے آیا۔ کتب لب الناقۃ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔ کتب الشیء کم ہونا۔ کاتب القوم: قوم سے قریب ہونا۔ اکثب الرجل والیہ ومنہ ولۃ: قریب ہونا۔

فلانا: تھوڑا دودھ بیلانی پلانا۔

انکثب الرمل: ریت کا ڈھیر ہونا۔

الکثب: قریب۔ کہا جاتا ہے ”زمانہ من کثب او عن کثب“ یعنی اس نے اس کو نزدیک سے مارا۔

الکثیۃ: تھوڑا پانی یا دودھ۔ ہر تھوڑی اکثی چیز۔ پہاڑوں کے درمیان کی پست زمین۔ ج کثب۔

الکاثیۃ: کاتب کا مؤنث من الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا بالائی حصہ۔ ج کواثب۔ الکثاب: بہت۔

الکتاب والکثاب: بے پیکان و بے برد کا تیر۔

الکثیب: ریت کا ٹیلہ۔ ج کثب و کثبان واکثیۃ۔

الکثباء: مٹی۔ کثج (ض) کثجا۔ من الطعام: بقدر کفایت کھانا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ غلہ بہت لے جانا۔

کثج (ف) کثجا الشیء: جمع کرنا۔ بکھیرنا۔ کثجت الریح التراب علیہ: غبار ڈالنا۔ کثج من المال: خواہش کے موافق لینا (وکثج) عن کذا: ننگ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”کثجتہ الریح“ یعنی اس کو ہوانے ننگ کر دیا۔

کثاج القوم بالسویف: تلوار بازی کرنا۔ تکثج بالحصی: شکست کھنکریوں سے مارنا۔

الکثحۃ من الناس: چھوٹی جماعت۔ رجل کثحم اللحیۃ: گھنی اور چھوٹی اور گھگریالی داڑھی والا مرد۔ کثحمة من

ذَرِين : خشک چارے کا چورہ۔ لَغِيئَةً
كُثْمَةً: گھنی چھوٹی اور گھٹھریالی داڑھی۔
كُثْر (ك) كَثْرَةٌ وَكَثَارَةٌ: بہت ہونا۔
صفت كُثْرٌ وَكَثِيْرٌ وَكَثَارٌ وَكَثِيْرٌ
وَكَثِيْرٌ۔
كُثْرٌ (ن) كَثْرًا: الرَّجُلُ: کثرت میں
غالب ہونا۔
كُثْرَةٌ زِيَادَةٌ كَرْنَا۔
أَكْثَرَ الرَّجُلُ: بہت مالدار ہونا۔ بہت لانا۔
الشَّيْءُ: بہت کرنا۔ بہت شمار کرنا۔ بہت پانا
النَّخْلُ: درخت خرما کا ٹھونڈا دار ہونا۔ کہا جاتا
ہے ”أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَكَ“ اللہ تعالیٰ
تمہارے جیسے کو ہمارے اندر زیادہ کرے۔
كَثَاوَةٌ: کثرت میں غالب آنا۔ کثرت مال یا
کثرت عدد پر فخر کرنا۔ كَثَاوَةُ الْمَاءِ: پینے کے
لئے پانی زیادہ چاہنا۔
تَكْثَرُ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے
غنی ہونا من الشَّيْءِ: بہت لے لینا بالكلام:
بہت گفتگو کرنا فُلَانٌ: کثرت کا دکھلاوا کرنا۔
تَكَثَّرَ الْقَوْمُ: کثیر ہونا۔ کثرت میں ایک
دوسرے پر غلبہ کرنا الشَّيْءِ: بہت سمجھنا۔
اسْتَكْثَرَ الشَّيْءُ: بہت سمجھنا بہت شمار کرنا
مِنَ الشَّيْءِ: بہت کرنا۔ بہت کی رحمت کرنا۔
الْكُثْرُ وَالْكَثْرُ: بہت۔ كُثْرُ الشَّيْءِ: چیز کی
بہت۔ کہا جاتا ہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْقَلْلِ
وَالْكَثْرِ“ قلت و کثرت پر اللہ ہی کا شکر ہے۔
الْكُثْرَةُ: بہت۔ زیادتی۔
الْكُثْرَةُ: کثرت بفتح کاف میں ایک لغت رو سے
ہے۔ مگر بعضوں نے کہا ہے کہ اگر لفظ قلت
کے ساتھ مستعمل ہو تو صحیح ہے جیسے کہ کہا
جائے الْقِلَّةُ وَالْكُثْرَةُ۔
الْكُثْرَى مِنَ الْبَيْدِ وَنَحْوِهِ: نبیذ وغیرہ کی
زیادتی۔
الْكَثِيْرُ: بہت۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ كَثِيْرٌ
وَكَثِيْرَةٌ وَكَثِيْرُونَ. وَنِسَاءٌ كَثِيْرٌ
وَكَثِيْرَةٌ وَكَثِيْرَاتٌ اور کہا جاتا ہے ”كَثِيْرًا
مَا يَعْمَلُونَ كَذَا“ بہت سے اس طرح نہیں

کرتے) ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے اس لیے
کہ احیان کی صفت ہے اور ماتا کید کے لیے ہے
اور بعضوں نے مفعول مطلق ہونے کی وجہ
سے منصوب کہا ہے اور ما کو مبالغہ فی الکثرت
کیلئے مانتے ہیں۔
الْكُثَارُ بہت (و الكُثَار) جماعتیں۔ کہا جاتا
ہے ”فِي الدَّارِ كُثَارٌ أَوْ كِنَارٌ مِّنَ
النَّاسِ“ یعنی گھر میں لوگوں کی جماعتیں ہیں
اور صرف جانداروں ہی کے لیے مستعمل ہیں۔
الْكُثِيْرُ: بہت فیاض مرد۔
المُكْثِرُ: المادار۔
المُكْثِرُ وَالْمُكْثِيْرُ: بہت بولنے والا (مذکر
و مؤنث)
المُكْثُوْرُ: مغلوب۔ وہ شخص جس پر بہت
سے آدمی اکٹھے ہو جائیں اور دہالیں۔ وہ شخص
جس کا سرمایہ ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق
و مطالبات بہت زیادہ ہو جائیں۔
كُثْعٌ (ف) كُثْعًا اللَّبَنُ: دودھ کا گاڑھا اور
بالائی والا ہونا۔
كُثَعْتُ (ف) كُثْعًا الْغَنَمُ: بکری کا نرم
پیٹ والی ہونا۔ پیٹ چلنے والی ہونا۔
كُثَعْتُ (ف) كُثْعًا وَكُثْعًا وَكُثَعْتُ
(س) كُثْعًا الشَّقْفَةُ: ہونٹ کا بہت خون والا
ہونا یہاں تک کہ اُلْتَنَ کے قریب ہو جائے
۔ ایسے ہونٹ کو كَائِعَةٌ اور ایسے ہونٹ والے
کو اُكْثَعٌ کہتے ہیں۔
كُثَعْتُ اللَّبَنُ اَوْ الْغَنَمُ: بمعنی كُثْعٌ. كُثَعْتُ
الْأَرْضُ: روئیدگی کا ظاہر ہونا لِقْدَرُ: ہانڈی کا
جھاگ بھینکنا الجُرْحُ: زخم کا اوپر کا حصہ لِحْمًا
ہونا لِحْمَةُ فُلَانٍ: داڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔
فُلَانٌ السِّقَاءُ: مکیبزہ کی اوپر کی چکنائٹ کو
کہا نا۔
الْكُثْعَةُ وَالْكُثْعَةُ: بالائی۔ ہانڈی کے
جھاگ۔ الكُثْعَةُ: اوپر کے ہونٹ کے درمیان
کا گڑھا۔
الْكُثْعَةُ: گارا۔ کچھڑ۔
المُكْثَعُ: فَا امْرَأَةٌ مُكْثَعَةٌ: ہونٹوں یا

سوزوں میں بہت خون والی عورت۔
الْكُثْمُ: چیتا۔ اور بقول بعض تیندوا۔
كُثْفٌ (ك) كُثْفًا وَتَكَثَّفَ: موٹا ہونا۔
بہت ہونا۔ گنجان ہونا۔ صفت كُثِيْفٌ.
كُثْفُهُ: موٹا کرنا۔
اِكْثَفَ مِنْهُ: قریب ہونا۔ قدرت دینا۔
اسْتَكْثَفَ الشَّيْءُ: گاڑھا ہونا الشَّيْءُ: گاڑھا
پانا۔ گاڑھا شمار کرنا الأَمْرُ: بلند ہونا۔
اَلْمُكْثِفُ: بیڑی جو کہ ساکن بجلی کے ساتھ
چارچ ہوتی ہے ریڈیو اور ٹیلیفون وغیرہ کے
آلات کے لئے ہے۔
اَلْكُثْفُ: جماعت۔
الْكُثِيْفُ: گاڑھا۔ موٹا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ
كُثِيْفٌ یعنی سخت اور بد حال کی زندگی بسر
کرنے والا مرد (و الكُثْفُ) بہت۔
كُثِلَ (ن) كُثْلًا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
الْكُثْلُ: گروہ۔ گہوں کا تبار۔
الْكُوْثِلُ وَالْكُوْثِلُ: دنبلہ شئی۔
الْكَاثُوْلِيْكُ: دیکھے كَاثُوْلِيْكُ.
كُثِمَ (ض) كُثْمًا الشَّيْءُ: جمع کرنا الاَثْرُ:
تاجدار کی کرنا۔ بیڑی کرنا الشَّيْءِ: منہ میں
رکھ کر توڑنا عَنْ الأَمْرِ: بازار کھنا۔
كُثِمَ (س) كُثْمًا: شتم سیر ہونا۔ بڑے پیٹ
والا ہونا۔ صفت اَكْثَمُ.
كَأَثَمَهُ: قریب آنا۔ میل ملاپ کرنا۔
اَكْثَمَ الْقَرْبَةَ: منگ بھرنافہ بِيْتِهِ: روپوش
ہونا. اَكْثَمَهُ الصَّيْدُ: شکار کا قریب ہونا اور
موقعہ دینا۔
تَكْثَمَ: حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھپنا۔
اِنْكَثَمَ: غمگین ہونا عَن وَجْهِ كَذَا: پھر
جانا۔
الْكَيْمُ وَالْكَاثِمُ مِنَ الطَّيْنِ وَنَحْوِهِ:
گاڑھا کچھڑ وغیرہ۔
كُثِمَ الطَّرِيقُ: راستہ کا ظاہری حصہ۔ کہا جاتا
ہے ”زَمَاهُ عَنِ كُثْمٍ“ اس نے اس پر نزدیک
سے تیر مارا۔
الْاَكْثَمُ: كَشَادَةٌ رَاسَتَهُ ”وَطَبَ اَكْثَمُ“ بھرا

ہو اور وہ کا برتن۔

الْكُفَّةُ: مغلستہ۔ پھولوں کی ٹوکری۔

الْكُحُّ: خالص۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ عَرَبِيٌّ كُحٌّ“ وہ خالص عربی ہے۔

كُحَّابُ الْكُزْمِ: کچا گور طاہر ہونا۔

الْكُحْبُ: کچا گور واحد۔ كُحْبَةٌ: ذُور۔

الْكَاجِبُ: بہت۔ کہا جاتا ہے ”عِنْدَهُ ذَرَاهِمٌ كَاجِبَةٌ“ اس کے پاس بہت دراہم ہیں۔

الْكَاجِبِيَّةُ: آگ جس کا شعلہ بلند ہو۔

كُحَّحٌ (ف) كُحَّحًا لَهُ مِنَ الْمَالِ:

دونوں ہاتھوں میں بھر کر مال دینا۔

كُحَّصٌ (ف) كُحَّوْصًا الْأَثَرُ: نشان مٹنا۔

الظِّلْمُ: شتر مرغ کا زمین میں اس طرح جانا

کہ دکھلائی نہ دے الرجلُ: پشت دے کر بھاگنا

(كُحَّصًا) الْبَلْبِيُّ فَلَانًا: مٹانا۔ محو کرنا۔

بِرَجْلِهِ: پاؤں سے کریدنا الْأَرْضُ: زمین

سے غبار اڑانا الشَّيْءُ: کوٹنا (كُحَّصًا

و كُحَّصٌ) الْأَثَرُ: نشان مٹانا۔

الْكَاجِصُ: فا۔ پیر سے کریدنے والا۔ مَوْنُثٌ

ج كَاجِصَةٌ: گوا اجص۔ أَطْلَالٌ

گوا اجص: مکان کے مٹے ہوئے نشانات۔

كُحَّطٌ (ف) كُحَّطًا الْعَامُ: خشک سالی ہونا

۔ صفت كَاحِطٌ

الْمُحَوِّفُ: جسم کے اعضاء۔

كُحَّحٌ عَاجِزٌ كَرَانًا:

كُحَّلٌ (ف ن) كُحَّالًا وَكُحَّلَ الْعَيْنَ:

آنکھ میں سرمہ لگانا فَلَانًا: دوسرے کی آنکھ

میں سرمہ لگانا۔ صفت كَاحِلٌ وَكُحَّالٌ اور

کہا جاتا ہے كُحَّلَ السُّهَادَ عَيْنَهُ كَنَائِيَةٌ

بے خوابی سے۔

كُحَّلٌ (ف) كُحَّالًا وَاسْتَحَلَّ الْعَامُ:

سخت خشک سالی ہونا۔ كُحَّلَتِ السِّنُونُ

الْقَوْمُ: قوم قحلا حق ہونا۔

كُحَّلٌ وَاسْتَحَلَّ وَكُحَّلَ وَاسْتَحَلَّ

وَاسْتَحَلَّ الْمَكَانَ بِالْحَضْرَةِ: ابتدائی

سبزی والا ہونا۔ كُحَّلَتْ (س) كُحَّالًا وَاسْتَحَالَتْ الْعَيْنُ

آنکھ کا سرمہ لگنا ہونا۔ وَكُحَّلَ الرَّجُلُ:

سرمہ لگنا آنکھ والا ہونا۔

تَكُحَّلُ وَاسْتَحَلَّ: آنکھوں میں سرمہ لگانا۔

اسْتَحَلَّ فَلَانٌ: نرمی کے بعد سختی میں پڑنا۔

اسْتَحَلَّ السُّهَادَ: بیدار رہنا اور نیند کا چوٹ

جانا وَجْهَهُ بِالْهَمِّ: چہرہ پر غم کا اثر ظاہر ہونا اور

کہا جاتا ہے ”مَا اسْتَحَلَّتْ عَيْنِي بَلَك“ یعنی

میں نے تم کو نہیں دیکھا۔

الْكُحْلُ: سر۔ سخت قحط کا سال (کلمہ غیر

منصرف ہے)

كُحْلٌ وَكُحْلٌ وَكُحْلَةٌ: تینوں کلمات

غیر منصرف ہیں۔ آسمان کے اسماء ہیں۔ کہا جاتا

ہے ”صُرِّحَتْ كُحْلٌ“ جبکہ بالکل بادل نہ

ہو۔

الْكُحْلُ: سنگ سرمہ۔ سرمہ۔ مال کثیر۔

الْكُحْلُ: خلقتا آنکھوں کا سرمہ لگنا ہونا۔

الْكُحَالُ: سنگ سرمہ دوسرے (وَالْكُحْلُ

وَالْكُحْلَةُ) مہرہ تعویذ اور بقول بعض مہرہ

نظر برد۔

عَيْنٌ كُحْلٌ وَكُحْلٌ وَكُحْلَةٌ: سرمہ لگنا

آنکھ ج کُحْلِي وَكُحْلِي: کحائل

أَعْيُنٌ كُحْلَاءُ: سرمہ لگنے والی آنکھیں۔

الْمُكْحِلُ: نطفہ۔ قطرہ۔

الْأَكْحَلُ: مرد سرمہ لگا ہوا۔ بازو کی ایک

رگ کا نام۔

الْكُحْلَاءُ: الْاَسْحَلُ كَامُوثٌ۔ وہ عورت

جس کی آنکھیں بہت سیاہ ہوں۔ سفید جسم اور

سیاہ آنکھوں والا مینڈھا۔ ج كُحَّلُ

الْكُحْلَاءُ وَالْكُحْلِيَاءُ: گاؤں بان۔

الْمُكْحَلِي: سرمہ بنانے والا۔

الْمُكْحَلُ وَالْمُكْحَالُ: سرمہ کی سلائی۔

الْمُكْحَلَةُ: سرمہ دانی۔

الْمُكْحَلَةُ: پھول کی ایک قسم جس کا رنگ نیلا

اور عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ لبنان اور ہالینڈ میں پیدا

ہوتا ہے۔

الْكُحْمَةُ: آنکھ۔

كُحِي يَكْحِي كُحْيًا الشَّيْءُ: خراب ہونا۔

تباہ ہونا۔

كُحَّحٌ (ض) كُحَّحًا وَكُحَّحِيًّا فِي نَوْمِهِ:

خراستے لینا۔

كُحْمَةٌ (ف) كُحْمًا: ہٹانا۔ دفع کرنا۔

الْكَيْحِمُ: بڑا۔

كُحْدٌ (ن) كُحْدًا: کام میں محنت کرنا۔ روزی

طلب کرنا۔ اُنْگَلِي سے اشارہ کرنا۔ مانگنے میں

اصرار کرنا الرَّجُلُ: تھکانا الرَّاسُ: سر میں

کٹھنی کرنا یا خوب کھجولانا الشَّيْءُ: ہاتھ سے چھین

لینا۔

كُحْدَةٌ: سختی سے ہٹانا۔

تَكْدُدٌ: مشقت برداشت کرنا۔

اَكْدٌ وَاسْتَكْدٌ: کجوسی کرنا۔ بخل کرنا۔ وَاكْتَدَ

الشَّيْءُ: ہاتھ سے چھین لینا۔

اسْتَكْدَهُ وَاسْتَكْدَهُ: کام میں محنت کرنا۔

الْكُدُّ: سر۔ جس میں کوئی چیز کوئی جائے جیسے

ہاون۔ کہا جاتا ہے ”لَيْسَ هَذَا مِنْ كُدِّكَ

وَلَا كُدُّ أَبِيكَ“ یعنی یہ تمہاری محنت و

کوشش سے حاصل نہیں ہوئی۔

الْبَكْدَةُ وَالْكَيْدُ: سخت زمین۔ الْكَيْدُ:

مونا مونا پسا ہوا نمک۔ زمین۔ عِلْمٌ فَرَاخٌ

الْكُدَادَةُ وَالْكُدْدَةُ وَالْكُدْدَةُ بَانْدِي كَابَاتِي

ماندہ کھانا۔ ہانڈی کی کھرچن۔

كُدَاوَةٌ السَّمْنِ: گھی کا تھپت۔ كُدَاوَةٌ

الْغَلَا: تھوڑی گھاس۔

الْكُدُوْدُ: بہت محنتی۔ بَجِيلٌ: بِنْرٌ دُوْدٌ:

کنواں جس کا پانی مشکل سے نکلا جائے۔

الْاَكْدَةُ: چری ہوئی چراگاہ کا لقبہ۔

قَوْمٌ اَكْدَادٌ وَاَكْدَائِدُ: ٹھکت خوردہ قوم

(ان کیلئے واحد نہیں) اور کہا جاتا ہے ”رَأَيْتَهُمْ

اَكْدَادًا وَاَكْدَائِدًا“ میں نے ان کو گروہوں

میں دیکھا ”وَابِلٌ اَكْدَادٌ“ تیز چلنے والا

اُونٹ۔

الْمُكْدُ: سنگھی۔

الْمُكْدُوْدُ: مٹے مغلوب۔ اَرْضٌ مُكْدُوْدَةٌ:

کھروں سے روندی ہوئی زمین۔

تَكْدُوْدٌ كُدِي (ف س) كُدًّا وَكُدُوًّا

النَّبْتُ: نباتات کا سردی کی وجہ سے مرجھانا یا پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے نہ بڑھنا۔

کدیدی (س) کدوا الغراب: کوئے کا نئے کرنے جیسی آواز نکالنا البقل: چھوٹا ہونا اور تباہ ہونا الابل: اونٹ کا کم بال والا ہونا۔

کدوا و کدوا البرد النبات: زمین پر بٹھا دینا اور اُگنے نہ دینا۔

أرض كاذبة: دیر سے اُگنے والی یا اُگنے والی زمین۔ ابل كاذبة الأذبار: کم بال والے اونٹ۔

الكذب والكذب والكذب والكذب: جو انوں کے ناخن کی سپیدی واحد کذبہ۔ دم کذب: تباہ خون۔

كذبج (س) كذبج الرجل: بقدر کفایت پینا۔

كذح (ف) كذح في العمل: محنت کرنا۔ مشقت اٹھانا۔ كذح لعياله: کمائی کرنا۔

راسه بالمشط: کنگھی سے سر کے بالوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا (و كذح) الوجه: چہرہ پر خراش لگانا۔ چہرہ کو نوچنا۔

اكتذح لعياله: کوشش کرنا۔ کمائی کرنا۔

تكذح الجلد: خراش لگنا۔ کہا جاتا ہے "وقع من السطح فتكذح" چھت سے گر پڑا پس خراش لگ گئی۔

الكذح: سر خراش۔ ج كذوح

كذر (ن) و كذر (ك) و كدر (س) كذرا و كذارة و كذورا و كذورة و كذرة: تیرہ گون ہونا۔ مثلاً ہونا۔ گدلا ہونا۔

كذرت علي فلان: كذرت علي فلان: غضبناك ہوا۔ كذرت العيش: زندگی تلخ ہوئی۔

كذرت الشيء: تیرہ گون کرنا۔ کہا جاتا ہے "كذرت عيش فلان" فلان کی زندگی تلخ کر دی۔

تكذرت و اكذرت الشيء: تیرہ گون ہونا۔

انكذرت في السيرة: تیرہ ڈونٹا علیہ القوم: قوم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ انكذرت النجوم: بکھر جانا۔

الكذرة: سر من الألوان: مثلاً۔

الكذرة من الخوض: کچھ یا کائی۔ کئی ہوئی کھیتی کا ایک مہاج کدور (والكذري والکذري) بتلا بادل۔

الكندر والكندر والكندر من العيش او الالوان وغير ذلك: غير صاف۔ تکلیف دہ۔

الكندر: مونا قوی گٹھے بدن کا جوان۔ حماز كندر: مونا گدھا۔ مونت كندر: مونا گدھا۔ مونت كندر: مونا گدھا۔

الكذارة: ہانڈی میں گھی کا تھمت۔ الاكندر: مثلاً مونت كذراء: ج كندر۔

مخت سيلاب: عيش اكدر: تلخ زندگی۔ كذسة (ض) كذسا و كذاسا: دفع کرنا۔

بھانا۔ كذس به الارض: بچھاڑنا۔ كذست الدابة چوپائے کا چھینکنا المنقل في سيرة: گراہر آدمی کا دوڑنا الخيل: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا (كذسا) بدفالی لینا (و كذس) الحصيد: کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔

تكذس: ڈھیر کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا۔

تكذست الخيل: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے پر چڑھنا۔ تكذس الرجل: کندھے ہلاتے ہوئے دوڑنا۔ سينه اُبھار کر چلنا القرس: گھوڑے کا گراہر کی مانند چلنا۔

الكذسة و الكذاس: جانوروں کی چھینک اور کبھی انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے و الكذاس من الثلج او الحصيد و ما أشبهه: برف یا کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر اور جوان کی طرح ہو۔

الكذس ج الكذاس و الكذاس ج كذا ديس کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر۔ الكذاس

الرميل: ریت کا تہہ ڈھیر۔

الكذاسة: ایک دوسرے پر جمع کیا ہوا ڈھیر۔

الكادس: فاجس سے بدفالی لی جائے۔ ج كوادس۔

المكذاس: فامین الشجر: گھنچاں درخت۔

كذسه (ض) كذسا: خراش لگانا۔ تلوار یا نیزہ سے مارنا۔ سختی سے بھانا۔ کائنا۔ ہانکنا۔ بھانا۔

كذش لعياله: جلد کرنا اور محنت مشقت سے کمائی کرنا (و كذش و كذش) من فلان عطاء: حاصل کرنا و كذش بخير:

تھوڑی سی خبر دینا۔

تكذش الرجل: پیچھے سے دھکائیے جانے کی وجہ سے گرنا۔

الكذش: زخم۔ کہا جاتا ہے "جلد كذش" خراش زدہ کھال۔

الكذاش: بہت کمائی کرنے والا۔ باصرار مانگنے والا۔

كذعا (ف) كذعا: بھانا۔ دفع کرنا۔ الكذعة: ذلیل و رسوا۔

اكذف القرس: گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دینا۔

الكذفة: ٹاپ باچاپ کی آواز۔ كذكد الرجل: زور سے بھنا۔ چلنے میں گراہر ہونا۔ حملہ کرنا۔ كذكد كذد و تكذكد: سختی سے بھانا۔

كذم (ض ن) كذما: اگلے دانٹوں سے کاٹنا الصيد: عکار کو بھگانا۔ کہا جاتا ہے "كذم في غير مكذم" بے موقع طلب کیا۔

كاذمت الذابة الحشيش: چوپائے کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر نہ ہونا۔

اكذم الاسبير: قیدی کو مضبوط باندھا جانا۔ تكاذموا: بالافواہ: ایک دوسرے کو دانت کاٹنا۔

الكذم: سر اڑا۔ انسان۔ ج كذوم۔

الكذم: دانت کاٹنے کا نشان۔

الكذم: دانٹوں سے بہت کاٹنے والا۔ بہت لڑاکا۔ سبز سر والی کڑی۔ واحد كذمة

الكذمة: كذم کا اسم مرؤۃ داغ نشان۔ الكذمة: حرکت۔

الكذوم و الكذام: دانت کاٹنے والا۔

الْمُكْذِبُ: گھاس کی جڑیں جو پانی پڑنے کے بعد پھر آگ آئیں۔ بوڑھا سرد۔

الْمُكْذَمَةُ: کھائی ہوئی چیز کا بقیہ۔ دانت سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔

الْمُكْذَمَةُ وَالْمُكْذَمُ: کھائی ہوئی چیز کا بقیہ۔

الْمُكْذَمُ: دانت کا نئے کی جگہ۔

الْمُكْذَمُ: مِنَ الْجِبَالِ وَالْأَخْشَبَةِ: مضبوط بنی ہوئی۔ فَذَخَ مُكْذَمٌ: موٹے دل کا ششے کا پیالہ اسیبیر مُكْذَمٌ: رسی سے بندھا ہوا تیری۔

الْمُكْذَمُ: دانت سے کاٹا ہوا۔ رَجُلٌ مُكْذَمٌ: جنگ کا زخمی شدہ۔

كُذِّنَ (ن) كُذِّنَا بِالْقُرْبِ: پکا باندھنا۔

الْكُذْنُ وَالْكُذْنُ: کپڑا جس کو عورت پردہ میں رہتے ہوئے پہنے۔ پاگلی۔ کپادہ۔ جانور کی

ٹانگ کی کھال جس کو باغٹ دینے کے بعد دو دو وغیرہ کوٹنے کے استعمال میں لاتے ہیں ج

كُذُونٌ كُذِيَ يَكْذِنُ الْغَدَانُ: زراعت کے لئے دو تیل اکٹھے چلانا۔

الْكُذْنَةُ وَالْكُذْنَةُ: کوبان۔

الْكُذْنَةُ وَالْكُذْنَةُ: چربی اور گوشت کی کثرت۔

الْكُذَانَةُ: نابل۔ فرومانگی۔

الْكُذْنُ: بہت چربی اور گوشت والا۔ مؤنث

كُذِنَتْ كُذِنَاتٌ: کڈینے ج کڈینات۔

الْكُذْنُ: مِثَالًا۔

الْكُذَانُ: نرم پتھر (اور یہ کڈان کی تحریف ہے)

الْكُذَانَةُ: نرم پتھر کا کٹوا۔

كُذِّدَ (ف) كُذِّدَهَا وَكُذِّدَ الشَّيْءُ تَوَزَّادَ بِالْحَجَرِ: پتھر سے سخت رکنا عَلَيْهِ غَالِبٌ هُوَ مِنَ الْهَمِّ: مشقت میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُكْذَوَةٌ مِنَ الْهَمِّ" وہ غم کی وجہ سے غمگین ہے۔

لِأَهْلِهِ: مشقت سے کماٹی کرنا شَعْرَةٌ بِالْمَسْطِ: بالوں میں رکھی سے بانگ نکالنا۔

تَكْذَبُهُ: ٹوٹنا۔

الْكَاذِبُ: فَاتَوَزَّعَ وَاللَّحْجُ كُذِّدَ الْكَاذِبُ: سر۔ خراش۔ پتھر کی رگڑ کا اثر۔ ج

كُذِّدَهُ: كُذِّدَ يَكْذِبُ كُذْوًا وَكُذْوًا الزَّرْعُ: خراب فصل ہونا الْأَرْضُ: دیر سے آگنا

(كُذَاءٌ الشَّيْءُ: کاٹنا۔ منع کرنا۔

كُذِيَ يَكْذِي كُذِي بِالْعَظْمِ: بڑی کا گلے میں آگنا الْمَسْكُ: بے خوشبو ہونا۔ صفت کد

وَكُذِي: كُذِيَتْ أَصَابِعُهُ: انگلیوں کا کھودنے کی وجہ سے تھکنا۔

تَكْذَى تَكْذِيًا: مشقت برداشت کرنا۔

كُذِيَ يَكْذِي كُذِيًا الرَّجُلُ: روکنا مشغول کرنا الْوَجْهَ: چہرے میں خراش لگانا

الرَّجُلُ: دینے میں بخل کرنا۔

أَكْذَى الْأَكْذَاءُ الرَّجُلُ: حاجت میں ناکام رہنا۔ دینے میں بخل کرنا۔ أَخْذَاهُ عَنْ كُذَاءٍ: باز رکھنا۔ منع کرنا۔ أَكْذَى الْمَعْدُنُ: جو ہر نہ

بنانا۔

الْحَاظِيُّ: کھودتے کھودتے سخت زمین پر پہنچنا اور آگے کو نہ کھود سکتا۔ کہا جاتا ہے "سَأَلَهُ

فَأَكْذَى" یعنی اس نے اس سے سوال کیا تو اس کو سخت زمین کی مانند یَايَا النَّبْتِ: سردی کی وجہ سے چھوٹا ہونا الْعَامُ: خشک سالی ہونا الْمَطَرُ: بارش کم ہونا الرَّجُلُ: غنا کے بعد محتاج ہونا۔

كُذِيَ تَكْذِيَةً: سوال کرنا۔ خیرات مانگنا۔

تَكْذَى تَكْذِيًا: عطیہ طلب کرنا۔

الْكُذِيَّةُ: سخت ٹھوس زمین۔ بڑی سخت چٹان۔ ج كُذِيَ: الْكُذِيَّةُ: عطیہ

باصرار مانگنے کا پیشہ۔ زمانہ کی سختی (وَالْكُذَاةُ وَالْكُذَايَةُ) مٹی یا گنے کا ڈھیر۔

الْكَاذِيَّةُ: زمانہ کی سختی۔ كُذِّدَ (ن) كُذِّدًا: کھردرا ہونا۔

أَكْذَى: نرم پتھر پر چلنا۔

الْكُذَانُ: نرم پتھر۔ واحد كُذَانَةٌ: كُذِبَ (ض) كُذِبًا وَكُذِبًا وَكُذِيَةً وَكُذِيَةً وَكُذِبًا وَكُذِبًا: جموں بولنا۔ جان بوجھ

كُرْغَلٌ خَبِرَ دِينًا: كُذِبَتْ الْعَيْنُ: دھوکا دینا۔

كُذِبَ الرَّأْيُ: غلط ہونا۔ کہا جاتا ہے "كُذِبَتْكَ عَيْنُكَ" یعنی تیری نظر نے تجھ کو

دھوکا دیا۔ وَكُذِبَ السَّبْرُ: چلنے میں کوشش نہ کرنا۔ وَكُذِبَ الْقَوْمُ السَّرِي: لوگ

رات کو چلنے پر قادر نہیں ہوئے اور بھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے

"كُذِبَهُ الْحَدِيثُ" جبکہ غلط خبر دے اور خلاف واقعہ بیان کرے اور مشدد ہونے کی صورت میں صرف ایک ہی مفعول آتا ہے۔

كُذِبَ الرَّجُلُ: جموں خبر دیا جانا۔

كُذِبَهُ: جموں بنا۔ جموں کی طرف نسبت کرنا۔ كُذِبَ عَنْ أَمْرِ آزَادَهُ: رُك جانا

الْحَزْرُ: گرمی کا کم ہونا عَنْ فُلَانٍ: فلاں کی طرف سے جواب دینا۔ کہا جاتا ہے "مَا كُذِبَ

أَنْ فَعَلَ كَذَا" یعنی اس نے کرنے میں دیر نہیں کی كُذِبَ نَفْسُهُ: جموں بولنے کا اقرار

کرنا (تَكْذِيًا وَكُذَائًا) انکار کرنا۔ کہا جاتا ہے "كُذِبَ بَيِّنَاتٍ رَبَّهٖ" اس نے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔

أَكْذِبَهُ: جموں پر آمادہ کرنا۔ جموں پانا۔

جموں ظاہر کرنا۔ أَكْذَبَ نَفْسَهُ: جموں بولنے کا اقرار کرنا اور کہا جاتا ہے "أَكْذَبَ

فُلَانٌ" جب کہ آواز دی جائے اور وہ خاموش پڑا ہے یہ ظاہر کرے گویا سویا ہوا ہے اس سے

اسم الإكذاب ہے۔

كَأَذِيَّةٍ كُذَابًا وَمُكَذِبَةً: کسی کو یہ کہنا کہ تو نے جموں کہا۔

تَكْذَبُ: شكفت جموں بولنا فُلَانًا وَعَلَيْهِ: جموں بولنا۔

تَكَاذَبَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو جموں کہا۔

الْكُذَابُ: بتکلیف الکاف وَالْكُذِبِيُّ وَالْكُذِبَانُ: جموں۔

الْأَكْذُوبَةُ: جموں۔ جَاكَذِبُ وَالْكُذِبُ: الْكَذِبَةُ: کاذب کا مؤنث جَاكَذِبَاتُ وَ

کُوْا ذِبْ جھوٹ۔

الْكَذُوبُ ج كُذِبَ وَالْكَذِبَانِ
وَالْكَيْدِيَانِ وَالْكَيْدِيَانُ : بڑا جھوٹا۔
الْكَذُوبُ : نفس۔

الْكَذَابُ وَالْكَذِبَةُ وَالْكُذُوبَةُ
وَالْيَكْذَابُ وَالْمَكْذِبَانِ وَالْمَكْذِبَانَةُ بڑا
جھوٹا۔ الْكَذُوبَةُ : نفس۔

الْمَكْذِبَةُ وَالْمَكْذِبَةُ ج مَكَاذِبُ
وَالْمَكْذُوبُ وَالْمَكْذُوبَةُ ج مَكَاذِبُ :
جھوٹ۔

النَّكَاذِبُ جھوٹی باتیں۔ لغو باطل باتیں۔
كُذَا : دو طریقے سے مستعمل ہے۔

(۱) یہ کہ دونوں کلمے کاف حرف تشبیہ اور ذاء
اسم اشارہ اپنی اصلی حالت پر ہیں جیسے رَأَيْتُ
زَيْدًا فَاصْطَلَا وَرَأَيْتُ عَمْرُوًا كُذَا : اور
اس صورت میں باطلہ تشبیہ بھی داخل ہوتا ہے
اور کہا جاتا ہے ہنگذا۔

(۲) یہ کہ کلمہ انہیں دونوں کلموں سے مرکب
ہو اور کئی بے عدد سے جیسے قَبِضْتُ كُذَا و
كُذَا دِرْهَمًا يَافِئِرُ عَدَدٍ سِجِّئَةٍ جِيسِي بَمَكَانٍ
كُذَا وَنَحْدًا۔

الْكَاذِي : كُوْذُو۔

كُورُ (ن) كُورُورَا : لوثنا۔ مڑنا۔ کہا جاتا ہے
"أَنْهَزَمَ عَنْهُ نَمَّ كُورٌ عَلَيْهِ" یعنی اس نے
فلاس سے شکست کھائی اور پھر لوث پڑا۔ پینترا
بدلنے کے لیے بھاگنا پھر دوبارہ حملہ کرنا
۔ صفت كُورَا : اور اسی سے کہا جاتا ہے
"الْجَوَادُ يَصْلَحُوا لِلْكُورِ وَالْقُرُ" گھوڑا
گھومتے اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ : رات دن کا پارہ باری آنا
(كُورًا) الرَّجُلُ : لوثنا (كُورًا) كُورُورَا
وَتَكُورَا (الْفَارِسُ عَلَى الْعَدُوِّ : شہسوار کا
دشمن پر حملہ کرنا اور ٹوٹ پڑنا۔

كُورُ (ن) كُورِيْرَا : المرنیض : جان دینا۔
كُورُ (ن) كُورَا صُدْرُهُ : گلا گھونسنے ہوئے
کی طرح آواز لگانا۔

كُورُ تَكُورَا وَتَكُورِيْرَا وَتَكُورَةُ : الشئ :

بار بار کرنا۔

تَكُورُ : بار بار ہونا۔

الْكُورُ : س۔ کھجور کے پتوں کی رستی
۔ درخت خرما پر چڑھنے کی رسی۔ جہاز کا رسیا۔ ج

كُورُورُ (وَالْكُورُ كُورَا) : ج كُورَا :
الْكُورُ : نماز پڑھنے کے لیے مصلیٰ۔ ج اَكُورَا
و كُورُورُ۔

الْكُورُ : ایک بیانیہ کا نام۔ چادریں اَكُورَا :
الْكُورَةُ : لڑائی میں حملہ عند المولدين من
المحاسبين : ایک لاکھ حج كُورَات : الْكُورَةُ :
سڑی ہوئی بیگنیاں جس سے زرہ کو صاف
کرتے ہیں۔ صُح اور شام اور ان دونوں کو
كُورَاتَانِ اور قُورَاتَانِ کہتے ہیں۔

الْكُورِي : لڑائی میں حملہ۔

الْكُورِيُو : س۔ گلا گھونسنے والے کی طرح
سینے کی آواز۔ غبار وغیرہ کی وجہ سے گلوگر ٹنگی۔

الْكُورَا وَالْمَكُورُ لڑائی میں بہت زیادہ حملہ
کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ مَكُورٌ مِقْرٌ"
یعنی گھوڑا ایسا سدھا ہوا کہ حملہ کے وقت حملہ
کرے اور جب بھاگنے کا ارادہ کریں تو لے کر
بھاگ جائے۔ نَاقَةُ مَكُورَةٍ : اونٹنی جس کو ایک
دن میں دو مرتبہ دو با جائے۔

الْمَكُورُ : حملہ کی جگہ۔

كُورَبُ (ن) كُورِبَا الْحَبْلُ : رستی بنا القيد
عَلَى الْمُقَيَّدِ : قیدی پر بیڑی کو تنگ کرنا۔

ه الْأَمْرُ : دشوار ہونا ه الْعَمُ : سخت غم ہونا۔

كُورَبُ الدَّلْوُ : ڈول کے دستے میں چھوٹی رستی
باندھنا فَلَانٌ : درخت خرما کے تنہ سے ملحق
ٹہنی کی جڑ لینا (كُورُوبَا) قریب ہونا۔

النَّارُ : آگ بجھنے لگانا۔ كُورِبُ الشَّمْسِ :
آفتاب ڈوبنے کے قریب ہونا فَلَانٌ : کھجور
کے تنہ کے نزدیک کی چٹی ہوئی کھجوریں کھانا
بے درخت اور بے پانی والی زمین میں کھیتی کرنا۔

كُورَبُ النَّاقَةِ : بوجھل کرنا۔ اور کہا جاتا ہے
"كُورَبُ يَفْعَلُ" یعنی وہ لگا اور اس
صورت میں یہ افعال مقاربہ میں سے ہے

(كُورِبَا وَكُورَابَا) الْأَرْضُ لِلزَّرْعِ : کھیتی

کے لیے زمین جو تبا۔

كُورَبُ (س) كُورِبَا الرَّجُلُ : ڈول کے دستے
کی ٹوٹی ہوئی رستی والا ہونا۔

كُورَبُ : غم لاحق ہونا۔

كُورَبُ الدَّلْوُ : ڈول کے دستے پر چھوٹی سی
رستی باندھنا الرَّجُلُ : بے درخت اور بے پانی
والی زمین میں کھیتی کرنا۔ تنہ کے نزدیک کی چٹی
ہوئی کھجوریں کھانا۔

اَكُورَبُ قَرِيبٌ هَوْنَا الْأَمْرُ : قریب الوقوع
ہونا الْإِنَاءُ : برتن بھرنے کے قریب ہونا۔

فِي السَّبْوِ : دوڑنا الْقَرِيْبَةُ : منگ بھرننا۔

كَارِبُهُ مُكَارِبَةٌ وَكُورَابَا : قریب ہونا۔

تَكُورَبُ : تنہ کے نزدیک کی کھجوریں چننا۔

اِكُورِبُ اِكُورِبَا وَاِكُورَابُ اِكُورِبَا
سخت غمگین ہونا۔

الْكُورَبُ ج كُورُوبُ وَالْكُورِبَةُ ج
كُورَبُ : غم اور مشقت۔

الْكُورَبُ : ڈول کے دستے پر کی چھوٹی رستی
کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑ۔ واحد كُورِبَةٌ۔

الْكُورِبَةُ : گول لکڑی جس میں خیمہ کے
ڈنڈے کا سر رکھا جاتا ہے جس کو فارسی میں

کمان اور بادریس کہا جاتا ہے۔ ج كُورَبُ۔

الْكُورَابَةُ : سخت مصیبت۔ ج كُورَابُ۔

الْكُورَابَةُ وَالْكُورَابَةُ : کھجور جو ٹہنی کی جڑ سے
کٹنے کے بعد چنی جائے۔ ج اَكُورِبَةُ

الْكُورَابُ : وادی میں پانی بہنے کی جگہیں
۔ واحد كُورِبَةُ۔

الْكُورُوبِيُونُ وَالْكُورُوبِيَةُ : اشرف ملائکہ
۔ مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان میں كُورِيْمِ

کہتے ہیں۔ ج كُورُوبُ : اور کبھی عبرانی لفظ ہی
کو استعمال کرتے ہیں واحد كُورُوبُ۔

الْكُورِيْبُ : نے کی گرہ۔ رولی پکانے والے کا
بیلن۔ الْكُورِيْبُ مِنَ الْأَرْضِ : بے پانی اور

بے درخت والی زمین (وَالْمَكُورُوبُ)
غمگین۔

الْكُورِيْبَةُ : كُورِيْبُ كَامُوْنُثُ : سخت مصیبت۔

ج كُورَابُ : کہا جاتا ہے "مَا فِي الدَّارِ

کُرباً، یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

الْمُكْرَبُ: بزرگوار

یعنی پائی خون اور ہوا میں باریک جانور جو بغیر دور بین کے نظر نہ آئے۔

الاکْرَاب: سب جلد بازی۔ تم کہتے ہو "خُدْرٌ جَلِيكٌ بِاِكْرَابٍ" یعنی جانے میں جلدی کرو۔

الْمُكْرَبُ مِنَ الْمَفَاصِلِ: پشوں سے بھرا ہوا۔ مضبوط رستی یا عمارت یا جوڑو وغیرہ۔ حَافِرٌ مُكْرَبٌ: مضبوط گھڑ۔

الْكُرْبُونُ أَوْ الْفَحِيمُ: (کیما) کیمائی عناصر میں سے ایک ہے جس کا رمز (علامت) ایٹمی نمبر اور کیمت نمبر درج ذیل ہیں۔ ۱۲.۱ کاربن - C-6

کوئلہ کے استعمال کے لئے ایک جسم بیٹھ ہے۔ زندگی والی کائنات اور ملائم میں کاربن داخل ہوتا ہے۔

الْكُرْبُونَاتُ: کاربونات

سفید باریک پیسا ہوا اٹھانا ہے جو کہ دوسرے جسم کے ساتھ ہو۔ (سوزا ابی کاربونیٹ)

الْكُرْبُجُ: دُكَّانٌ يَأْذَنُ كَانِ كَاسَامَانَ۔ ج کُرْبُجِج (دخیل)

كُرْبِدٌ فِي عَذْوِهِ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ تیز دوڑنا۔

كُرْبَسٌ: بیزی بڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ تَكْرِبَسٌ مِنْ ظَهْرٍ فَرَسِهِ: گھوڑے کی پیٹھ

سے گر پڑنا۔

الْكُرْبَانِسُ: گھردرا کپڑا۔ شراب چھانے کی چیز۔ ج کُرْبَانِس (دخیل)

رَجُلٌ مُكْرَبَسٌ الرَّاسِ: گول سرو والا مرد۔ كُرْبَشٌ: چھلانگ لگانے کے لیے ناگوں کو

اٹھا کرنا۔ بیزی پڑے ہوئے کی طرح چلنا الشئى: لینا اور باندھنا۔

تَكْرِبَشُ الْجِلْدُ: کھال کا سکرنا۔ كُرْبَعَةٌ: بچھاڑنا الشئى بالسيف: تلوار سے

کانٹا فوائضہ: ناٹکیں جدا کرنا۔ تَكْرِبِعُ: چوڑوں کے بل کرنا۔

كُرْبَلٌ: کچھڑ میں چلنا۔ پائی میں گھسا الشئى

بالشئى: ملانا الجنطة: گیسوں میں چھاننا

صاف کرنا۔

الْكُرْبَالُ: گیسوں صاف کرنے کی چھلنی۔ رُوئِي وَهْنِي كِي كَانِ۔ ج كُرْبِيلُ

الْكُرْبَلَةُ: سب۔ پاؤں کی سستی۔ کہا جاتا ہے "جاء يَمْشِي مُكْرَبِلًا" یعنی وہ اس طرح آیا

گویا کچھڑ میں چل رہا ہے۔

قَرَأْتُهُ الْكُرْبُ: أَوْ ذُرْدَةُ الْمَلْفُوفِ:

کرم کلا کو تباہ کرنے والا سفید کیڑا۔

الْكُرْدُ رَيْنَا: درختوں کی ایک قسم جو کہ سڑکوں کے کنارے زہیہ و زینت کے لگائے جاتے ہیں

ان درختوں کا سٹر پلایا ہے۔

كُرْتٌ (ض ن) كُرْتَا وَكُرْتُ الْعَمِّ

فَلَانًا: سخت غمگین کرنا۔

انْكُرْتُ الْحَبْلَ: رستی کا ٹوٹنا۔

انْكُرْتُ لِلْأَمْرِ: پروا کرنا کہا جاتا ہے "هُوَ

لَا يَكْتُرُ لِهَذَا الْأَمْرِ" وہ اس معاملہ کی پروا

نہیں کرتا۔

الْكُرَاتُ وَالْكُرَاتُ: گندنا۔ ایک بدبودار

قسم کی ترکاری۔ جس کی بعض قسمیں پیاز اور

بعض لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں۔ واحد كُرَاتَةٌ.

الْكَارِثُ: غم انگیز معاملہ۔ ج كُوَارِثُ.

الْكُرَيْثُ: غم انگیز معاملہ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ

لِكُرَيْثٍ الْأَمْرِ" جبکہ بزدلی کرے اور پیچھے

ہٹے۔

كُرْنَا وَتَكْرْنَا الشَّعْرُ وَنَحْوَهُ: بال وغیرہ

کا گھمان ہونا۔

الْكُرْنَى: تہ تہ بادل۔ انڈے کا اوپر کا چھلکا۔

الْكُرْنَفَةُ وَالْكُرْنَفَةُ: گھمان بھری۔

الْكُرْنِشَاءُ: کچی کھجور۔

كُرْجٌ (س) كُرْجَا وَكُرْجٌ وَكُرْجٌ وَتَكْرُجُ الْخُبْزُ: خراب ہونا۔ پھپھوندی لگنا

۔ عوام "عَقْنُ" سے تعبیر کرتے ہیں۔

الْكُرْجُ: ایک قوم کا نام۔ واحد كُرْجِي (والكُرْجُ) ایک چیز ہے پھیرے کی شکل کا

جس سے کھیلتے ہیں۔

الْكُرْسِيُّ: منبت

الْكُرْحُ: راہب کی کوٹھری۔ ج كُرْحٌ

كُرْحٌ (ف) كُرْحَا الْمَاءِ إِلَى مَوَاضِعِهِ:

چلانا۔

كُرْدٌ (ن) كُرْدًا: ہانکا عذوؤ: دشمن کو

ہٹانا الشئى: کانٹا۔

كَارْدَةٌ مُكَارِدَةٌ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

الْكُرْدُ: گردن کی جز۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ

بِكُرْدِهِ أَوْ بِكُرْدِيهِ" اس نے اس کی گردن

کی جز کو پھڑپھڑایا۔

الْكُرْدِيَّةُ: گھجور کی بڑی ڈھیری۔

كُرْدُحٌ: پستہ قد کی طرح دوڑنا۔ فَلَانًا:

بچھاڑنا۔

تَكْرُدُحٌ فِي عَذْوِهِ: پستہ قد کی طرح

دوڑنا۔

الْكُرْدُحُ: بڑھیا۔ مضبوط مرد۔

الْكُرْدَاحُ: پستہ قد۔

الْكُرْدَاحُ: دوڑنے میں قریب قریب قدم

رکھنے والا۔

الْكُرْدَحَةُ: سب تیز دوڑ۔

الْمُكْرَدُحُ: فادیل و خوار۔

كُرْدَسٌ الْخَيْلِ: گھوڑوں کو جمع کرنا اور دستہ

دستہ بنانا الشئى: باندھنا۔ بیزی ڈالنا۔ بیزی

پڑے ہوئے کی طرح چلنا الجمار: گدھے کو

تیز باندھنا: بچھاڑنا۔

كُرْدَسٌ الرَّجُلِ: ہاتھ پاؤں اٹھا باندھا جانا۔

تَكْرُدَسُ: سکرنا اور بعض کا بعض پر جمع ہونا۔

الْكُرْدُوسُ: کندھے کی ہڈی۔

الْكُرْدُوسَةُ: گھوڑوں کا بڑا گلہ۔ ہر ہڈی جس

پر گوشت ہو۔ ہر جوڑ کی دونوں ہڈیاں۔ ج

كُرَادِسٌ وَكُرَادِسٌ: كُرَادِسٌ

الْفَرَسِ: گھوڑے کے جوڑ۔

الْمُكْرَدَسُ: گھٹھے بدن کا۔

الْكُرْدِيَالُ: ج كُرْدَالَةٌ: گرجا میں ایک بڑا

عہدہ

كُرْدِمٌ: موٹے پستہ قد کی طرح دوڑنا۔

القَوْمُ: جمع کرنا۔

تَكَرُّدَمٌ: گھبرا کر دوڑنا۔

الْكُرْدَمُ وَالْكُرْدُومُ مِنَ الرِّجَالِ: موٹا پستہ قد۔ بچہ اور آدم و کتر آدم۔ الكُرْدَمُ: بہادر۔

كُرْرُوزٌ (ض) كُرْرُوزًا: داخل ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔

إِلَى فُلَانٍ: پناہ لیا (كُرْرُوزًا) انجیل کا وعظ کہنا۔

كُرْرُوزُ الْبَابِ: بازو کو سدھانے کے لیے آنکھوں کو سینا اور کھلانا۔

كُرْرُوزُ الْبَابِ: بازو کے پردوں کا گرتا۔

كَارَرٌ مَكَارَرَةٌ إِلَى الْمَكَانِ: دوڑ کر چھپنا۔

عَنَّةٌ: بھاگنا، بھاگنا اور عاجزی ظاہر کرنا

الْقَوْمِ: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو لینا۔

الْكُرْزُ: چرواہے کا تھیلا۔ چھوٹی بوری کُرْرُوزُ

الْبُجْعَلِ: گہریلا کی گولی۔ بچہ کُرْرُوزٌ و کُرْرُوزَةٌ

الْكُرْزُ: ایک درخت کا نام جس کا پھل شفتالو

کی مانند مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ واحد۔

كُرْرُوزَةٌ

الْكُرْزُ: حاذق۔ نجیب۔ گفتگو میں عاجز و

درماندہ۔ باز۔ ایک سال کا پرندہ بچہ کُرْرُوزَةٌ

(والمكروز والبكرزي) لیم۔ غیث۔

الكارز والكاروز: انجیل کا واعظ۔

الْكُرَّازُ: بچہ کُرْرُوزَانِ وَالْكُرَّازُ: شیشی

۔ تنگ سر کا کوزہ۔

الْكُرَّازُ: چرواہے کا تھیلا اٹھانے والا۔ بے

سینگ کا مینڈھا مین المغر: کھٹی دار بکری

۔ بچہ کُرْرُوزَانِ۔

الْكُرْرُوزُ: بچہ۔

الْكِرَّازَةُ: انجیل کا وعظ۔

كُرْرُومٌ كُرْرُومَةٌ الرَّجُلِ: دوپہر میں کھانا۔

الْكُرْرُومُ: بہت کھانے والا۔ چھوٹی ٹاک والا

۔ کھاڑا۔

الْكِرْرُومُ وَالْكِرْرُومُ: کھاڑا۔ سخت

مصیبت۔ بچہ کُرْرُوزِمٌ و کُرْرُوزِيمٌ۔

كُرْرُوسٌ لِبْنَاءٍ: عمارت کی بنیاد رکھنا۔

الْأَسْفُفُ الْبَيْعَةُ أَوِ الْأَوَانِي الْكَيْبِيسَةُ

وغيرها: وقف کرنا۔ خدمت اللہ کے لیے

مخصوص کرنا۔

الْكُرْسُ: السَّكَّانُ: بول و براز سے تھڑنا

۶: بول و براز والی جگہ میں داخل کرنا۔

تَكْرَسُ: بنیاد رکھنا۔ وقف ہونا۔ خدمت

اللہ کے لیے مخصوص ہو لینا۔ تہ بہ تہ ہونا

اور سخت ہو لینا لِبْنَاءٍ: عمارت کی بنیاد کا

مضبوط ہونا۔ تھڑنا لِحَبِّ وَنَحْوَهُ: دانہ

وغیرہ جمع کرنا۔

اِنْكْرَسَ خَلْبُهُ: اوندھا ہو پھٹی الشئی:

اوندھا ہو کر داخل ہونا۔

الْكِرْسُ: ہر چیز کا انبوہ۔ بول و براز سے تھڑنا

ہوا۔ بکریوں کے بچوں کا باڑہ۔ جز۔ بچ

الْكِرْسُ و بچ آکاریس۔ کِرْسُ

الْحَوْضُ: حوض کے ارد گرد بول و براز سے

تھڑی ہوئی زمین۔

الْكِرْسَةُ وَالْكِرْسُ: کتاب کا

جزء۔ پمفلٹ۔ بچہ کُرْرُوسِ:

الْكِرْسِيُّ: کرسی۔ کرسی۔ بچہ کُرْرُوسِ

و کُرْرُوسِ كُرْسِيَّ الْأَسْفُفِ: پادری کی

اقامت گاہ۔ کُرْسِيَّ الْمَلِكِ: تخت شاہی۔

وَالْكُرْسِيُّ عِلْمٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ

أَهْلِ الْكُرْسِيِّ": یعنی وہ اہل علم میں سے ہے

اور کہا جاتا ہے "أَجْعَلْ لِهَذَا الْحَائِطِ

كُرْسِيًّا": اس دیوار کے لیے پشتہ بنا دو۔

كُرْسِيَّ الْحَوْزِ: چند ستاروں کا مجموعہ۔

الْكِرْسِيُّ عِلْمَاءُ:

الْكِرْسِيَّاسُ: چھت کے اوپر کا پائخانہ۔ بچہ

كُرْرُوسِ

الْكُرْرُوسُ: بڑے سر والا۔ ہر خنیم چیز۔ سیاہ۔

الْمُكْرَسُ وَالْمُكْرَسُ: مفہن القلائد:

دودھا گوں میں علیحدہ علیحدہ موتی اور مہرے کو

گونڈھ کر بڑے مہروں سے جوڑا ہوا ہار۔

الْمُكْرَسُ: جوان پستہ قدر گوشت۔

الْكُرْسَةُ: موچیوں کی اصطلاح میں وہ چیز جس

سے جوتیاں تیار کی جاتی ہیں۔

کے چنگلیا والے حصے پرمانہ۔

الْكُرْسُوعُ: گئے کا چنگلیا کی طرف کا حصہ۔

بِحْرَابِيعٍ: كُرْسُوعُ الْقَدَمِ: نغز کا جوڑ۔

الْكُرْسُوعَةُ وَالْكُرْسُوعَةُ: لوگوں کی

جماعت۔

الْمُكْرَسُوعُ: گئے کے چنگلیا کی طرف ابھرا

ہوا حصہ والا۔ مَوْنِعٌ مُكْرَسُوعَةٌ

كُرْسُفٌ الذَّابِيَةُ: چوپایہ کی کوچ گائنا۔

الْبَعِيرُ: اونٹ کے پاؤں باندھنا۔

لِدَوَاةٍ: دوات میں صوف ڈالنا۔

تَكْرَسُفٌ: کوچ کتنا۔ پاؤں بندھنا۔ دوات

میں صوف پڑنا الشئی: بعض کا بعض میں

داخل ہونا۔

الْكِرْسَافَةُ: آنکھ کی کدورت۔

الْكُرْسُفُ وَالْكُرْسُوفُ: زوئی۔

الْكُرْسُفَةُ وَالْكُرْسُوفَةُ: زوئی کا ٹکڑا

۔ دوات کا صوف۔

الْكِرْسِيَّةُ وَالْكِرْسِيَّةُ: ایک چھوٹے سے

پودے کا نام جس کے بیج کو گاؤ دانہ کہتے ہیں جو

پنے کے برابر گول سیاہ سرفی مائل ہوتا ہے اور

دوائی میں کام آتا ہے۔

كُرْشُ (س) كُرْشًا الْجِلْدُ: کھال سکرنا۔

الرَّجُلُ: تنہائی کے بعد جماعت والا ہونا۔

كُرْشُ: ترش زوئی کرنا مَكْرُوشَةٌ (ایک قسم

کا کھانا) بنانا۔

تَكْرُشٌ وَجْهَهُ: ترش زو ہونا۔ تیوری چڑھنا

الْقَوْمِ: اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔

اِسْتَكْرَشَ الْجَدِيَّ: بکری کے بچے کا بڑے

پیٹ والا ہونا۔ اِسْتَكْرَشْتُ اِنْفَحَةَ

الجدلي: بکری کے بچے کے اِنْفَحَةَ کا کرش

ہوتا (بکری کا بچہ جب تک کچھ نہ کھائے اور

صرف دودھ پیتا رہے تو اس کی آنت کو اِنْفَحَةَ

کہتے ہیں اور جب وہ کچھ کھانے لگے تو پھر کرش

کہتے ہیں) الرَّجُلُ: تیوری چڑھانا۔ ترش زوئی

کرنا۔

الْكِرْشُ وَالْكِرْشُ: چگالی کرنے والے

جانور کی اوجھ (مؤنث) بچہ كُرْرُوشُ. الكِرْشُ

اس کا برعکس۔ اَلْكَرُوفِيُّ عربی الفاظ جو کہ سریانی میں لکھے جاتے ہیں۔ (سریانی لفظ) الْكَرُوفُ ایک ہی چمڑے کا ڈول۔ كُرُوفَاتُ الْقُدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔ كُرُوفًا الْقَوْمُ: غلط ملط ہونا۔ تَكَرُوفًا السَّحَابُ: بادل کا تہ بہ تہ ہونا۔ الْكَرُوفِيُّ: بلند بادل۔ اور ایک ٹکڑے کو كِرْفَانَةٌ کہتے ہیں۔ الْكَرُوفِيُّ: اٹلے کا اوپر کا چھلکا۔ الْمَكْرُوفُ: بد صورت چہرہ والا۔ الْكَرْفَانَةُ شِيشَة کی بوتل۔ كُرْفَسٌ كِرْفَسَةٌ: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا الْعَبِيرُ: تھک باندھنا۔ تَكَرْفَسٌ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الْكُرْفُسُ: زوئی۔ الْكُرْفُسُ: اجوائن۔ الْكُرْفُوحِيُّ: سارس۔ جِ كُرَاغِي الْكُرْكَدَنُ گینڈا۔ اس کو مر میں بھی کہتے ہیں اور عوام كِرْكَدَنُ کہتے ہیں۔ كُرْ كُرْ كِرْ كِرْ كِرْ الشَّيْءُ: بار بار اعادہ کرنا الرُحَى: جگی گھمانا الْحَبُّ: دانہ پینا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا الرَّجُلُ: قید کرنا فی الصَّحْكُ: بہت ہنسا الرَّجُلُ: ہنسا۔ بگست کھانا الرِّيَاخُ السَّحَابُ: ہوا کا بادل کو اڑا دینا۔ متفرق ہونے کے بعد اکٹھا کر دینا الامرُ غنه: دفع کرنا؛ ہٹانا۔ رد کرنا بِالذَّجَاجَةِ: مرفی کو ہلانا۔ تَكَرَّرَ كُرٌّ فِي الْأَمْرِ: مضطرب ہونا الْمَاءُ: اپنے بے کی جگہ میں لوٹ جانا الطَّائِرُ: پرندہ کا فضائیں منڈلانا۔ الْكُرْ كُرْ: ایک آبی پرندہ۔ الْكُرْ كِرْ: سر گاڑھا دودھ۔ پیٹ کی گڑ گڑاہٹ۔ الْكِرْ كِرْ: سم والے جانور کا سینہ۔ لوگوں کی جماعت۔ جِ كُرَاكِرْ: الْكِرَاكِرْ: گھوڑے کے جوڑے۔ الْكِرْ كِرْ كِرْ: گہری وادی۔

الْكَرُوعُ: سر۔ منہ لگا کر پینے کے قابل پانی۔ جانور کی ٹانگیں۔ کینے و فرومایہ لوگ۔ دنی طبیعت کا۔ واحد جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ كُرُوعٌ وَرَجُلٌ كُرُوعٌ“ الْكَرُوعُ مِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ: گائے بکری کے پائے (نڈ کر موٹ) اور بقول بعض کراغ ٹخنوں کے نیچے کو کہتے ہیں۔ وَالْكَرُوعُ مِنَ الْإِنْسَانِ: گھٹنے سے نیچے۔ پندلی۔ جِ الْكُرُوعُ وَ الْكَارِعُ الْكُرَاعُ: گھوڑے۔ خچر۔ گدھے۔ ہر شے کا کنارہ۔ كُرَاعُ الْأَرْضِ: زمین کے گوشے۔ کہا جاتا ہے ”أَمْسِ فِي كُرَاعِ الطَّرِيقِ“ یعنی راستے کے کنارے میں چلو۔ الْكَارِعُ الْأَرْضِ: زمین کی آخری حدیں۔ الْكُرَاعِيُّ: پائے کا بیچنے والا۔ الْكَارِعُ: فاپانی میں گھسنے والا پائے باندھنے۔ الْكَارِعَةُ: کارع کا موٹ۔ جِ كَارِعَاتُ الْكَارِعَاتُ پانی کے اوپر کھجور کے درخت۔ الْكِرْفُوعُ: برتن نہ ہونے کی وجہ سے اوک سے پانی پینے والا۔ الْكُرُوعُ: پتلی پندلیوں والا۔ الْكُرُوعُ: اسم مبالغہ۔ فرومایہ لوگوں سے دوستی کرنے والا۔ بارش کے پانی سے سیراب کرنے والا۔ الْمَكْرُوعُ: جانوروں کے پانی پینے کی جگہ۔ جِ مَكَارِعُ قُرْسٌ مُكْرُوعٌ الْقَوَائِمُ: مضبوط ٹانگوں والا گھوڑا۔ الْمَكْرُوعَةُ مِنَ النَّخِيلِ وَغَيْرِهَا: پانی لگائی ہوئی کھجور۔ كُرُوفُ (ن ض): كُرُوفًا وَ كِرْفَا وَ كُرُوفُ الْجَمَارِ وَغَيْرِهَا: گدھے کا پیشاب کو سوگٹھ کر سر اٹھانا اور ہونٹوں کو پینا۔ كُرُوفُ الشَّيْءِ: سوگٹھنا۔ كُرُوفَتِ الْبَيْضَةِ: اٹلے کا گندا ہونا۔ الْكُرُوشَةُ: عربی حروف غیر عربی زبان میں یا

و الْكِرْشُ: لوگوں کی جماعت۔ مرد کے بال و عیال۔ چھوٹی اولاد۔ ایک بہترین قسم کی گھاس۔ خوشبو کا ڈبہ۔ کپڑے کی گھمڑی۔ جِ الْكَرَاشُ وَ كِرْوَشُ: كُرُوشُ الْقَوْمُ: قوم کا بواحصہ۔ كُرُوشٌ كُرْشٌ: ہر ایک چیز کا اجتماع۔ التَّكْرِيشُ: اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔ الْاَكْرُوشُ مِنَ الرِّجَالِ: بڑے پیٹ والا اور بقول بعض زیادہ مال والا۔ مَوْنُ كُرْشَاءِ جِ كُرْشٌ: قَدَمٌ كُرْشَاءُ: پُرْ گوشت بھرے ہوئے تلے اور چھوٹی اٹھکیوں والا قَدَمٌ۔ ذَلْوُ كُرْشَاءُ: بڑا ڈول۔ اَتَانُ كُرْشَاءُ: بھرنے ہوئے کوکھ کی گدھی۔ الْمَكْرُوشَةُ: کھانا جو گوشت اچر پی اور اوجھ ملا کر پکاتے ہیں۔ كُرْصٌ (ض) كُرْصَا الشَّيْءِ: کوشا۔ ہاتھ سے نچوڑنا۔ كُرْصٌ: پتیر کھانا۔ اِكْتُرْصُ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الْكِرْصُ: پتیر۔ پتیر بنانے کی جگہ۔ الْمَكْرُصُ: دودھ دھونے کا برتن۔ كُرْصٌ (ن) كُرْصَا الشَّيْءِ: تہ بہتہ رکھنا۔ كُرْطٌ (ن) كُرْطًا فِي عِرْضِ فَلَانٍ: طعنہ دینا۔ عزت میں عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مَكْرُوطٌ الْحَسَبِ“ اس کے حسب میں عیب لگایا گیا ہے۔ كُرُوعٌ (ف) وَ كُرُوعٌ (س) كُرُوعًا وَ كُرُوعًا فِي الْمَاءِ او الْإِنَاءِ: پانی یا برتن میں منہ لگا کر پانی پینا۔ كِرْعَةٌ (ف) كِرْعًا: پندلی پر تیر مارنا۔ كِرْعٌ (س) كِرْعًا: درد مند پندلی والا ہونا۔ پائے کھانے کا مشتاق ہونا۔ باریک پندلی والا ہونا السَّاقُ: پندلی کے اگلے حصہ کا باریک ہونا۔ كُرِعَتِ السَّمَاءُ: برسنا۔ اَكْرَعَةُ الصَّيْدِ: شکار کا قریب ہونا۔ اَكْرَعُ الْقَوْمُ: منہ سے پانی پینے کے قابل پانا۔ تَكَرَّعَ الرَّجُلُ: وضو کرنا۔ اطراف پر پائی بہانا۔

تَكَوَّمَسَ الشَّيْءُ: رد کرنا۔ ہانا الذابۃ
چوپائے کو باندھنا و تَكَوَّمَسَ (الانسان):
اور سے نیچے لاھلنا۔

الْكُرْمُ: زعفران۔ مصطلک۔ ایک نباتات کی
جزکہ وہ دوسرے پاس کے مشابہ۔

الْكُرْمُ كُنْدٌ: سرخ رنگ کا گوند۔ گینڈا۔
كُرْمٌ (ك) كُرْمًا وَكُرْمَةً وَكُرْمَةً:
عزیز و نفیس ہونا آسانی سے دینا اور بخشش کرنا۔
فِيَاضٌ هُوَ السَّحَابُ: بارش لانا۔

كُرْمَهُ (ن) كُرْمًا: کرم میں غالب ہونا۔
کہا جاتا ہے "كِرَامَةٌ فَكِرْمَةٌ" اس نے اس
سے کرم میں مغفرت کی اور غالب ہو گیا۔

كِرْمَةٌ تَكْرِيْمًا وَتَكْرِيْمَةً: تعظیم کرنا۔
تذریعہ کرنا۔ كُرْمٌ اللّٰهُ وَجْهَهُ: اللہ تعالیٰ ان کو
باعزت کرے (و كُرْمٌ) السَّحَابُ: بادل کا
بہت پانی والا ہونا۔

كِرَامَةٌ كَرَمٌ فِي مَغْفِرَتِ كَرَامَةٍ وَكِرَامَةٌ
فَلَانًا: میں نے اس کے پاس بدیہ بھیجا تاکہ وہ
بدلہ دے۔

اَكْرَمُ: کریم اولاد والا ہونا فلَانًا: تعظیم کرنا
نَفْسَهُ عَنِ الْمَعَاصِي: بچانا، محفوظ رکھنا اور
نجب کے متوجہ نہ ہونا جاتا ہے "مَا اَكْرَمُهُ
لِي" یعنی وہ میری تعظیم کس قدر کرتا ہے اور
فعل زبانی سے ہونے کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔

تَكْرَمٌ: جھٹک کر کرنا (و تَكَرَّمَ) عَنِ
كَذَا: بچنا۔ دُور رہنا۔

اِسْتَكْرَمَ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا الشَّيْءُ: اچھی
چیز طلب کرنا۔ اچھی چیز پانا۔

الْكُرْمُ: سر۔ درگزر۔ بخشش۔ فیاضی۔ ہار میں
ایک قسم کی کارگیری۔

الْكُرْمُ: صفت۔ یعنی کریم و طیب۔ اور یہی لفظ
واحد جمع مذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے جیسے

رَجُلٌ كَرِيمٌ وَنِسَاءٌ كَرِيمٌ وَارْضٌ كَرِيمٌ
الْكُرْمُ: انگور کی تیل۔ نصیل والا مہجان باغ

(عامیہ) ج كُرْمٌ: بنتُ الكُرْمِ
او الكُرْمَةُ او الكُرْمُ شُرَابُ الكُرْمِ:
ہار۔

الْكُرْمَةُ: انگور کی تیل۔ یہ کرم سے خاص ہے
الْكُرْمَةُ: سرین کی بڑی کا گول سر۔ کہا جاتا
ہے "رَجُلٌ كَرِيمٌ" مرد کریم۔

الْكِرَامَةُ: سر کہا جاتا ہے "أَفْعَلُ ذَلِكَ حَبًا
وَكَرَامَةً لَّكَ" میں اس کو تمہاری محبت و
تعظیم کے خیال سے کرتا ہوں "وَلَهُ عَلَيَّ

كِرَامَةٌ" فلاں کے لئے میرے اوپر بزرگی
ہے۔ الكِرَامَةُ: امر خارق عادت جو اولیاء اللہ
سے ظاہر ہو۔ کہا جاتا ہے كُرْمًا وَكُرْمَةً
وَكَرْمَةً وَكُرْمِيًّا وَكُرْمَانًا وَكُرْمَةً عَيْنِ
لَكَ: یعنی تمہاری تعظیم کے لئے۔

الْاِكْرَامَةُ: کرم کا فعل۔
السُّكْرَمَةُ: سر۔ تکیہ۔ تکیہ جس پر انسان کو
عزت و تعظیم کے خیال سے بٹھایا جائے۔

الْكِرْمِيْمُ: صاحب کرم۔ درگزر کرنے والا
۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے رَجُلٌ

كِرِيْمٌ مرد سخی۔ دیا۔ ج کِرَامٌ وَكِرْمَاءُ:
اور لفظ "کِرْمِيْمٌ" کا اطلاق ہر اچھی اور پسندیدہ
اور قابل تعریف چیز پر ہوتا ہے۔ رَزَقٌ

كِرِيْمٌ: بہت روزی۔ قَوْلٌ كِرِيْمٌ: نرم و
پسندیدہ قول۔ كِتَابٌ كِرِيْمٌ: معنی الفاظ اور
فوائد کے لحاظ سے پسندیدہ کتاب و جُزْءٌ
كِرِيْمٌ: جمال و محاسن کے لحاظ سے پسندیدہ
چہرہ ملل کِرِيْمَانٌ: حج اور جہاد۔

الْكِرِيْمَةُ: کریم کا مؤنث ج کِرِيْمَاتٌ
وَکِرَامِيْمٌ وَکِرَامٌ: الكِرِيْمَةُ: ہر عضو

شریف۔ جیسے ہاتھ کان الكِرِيْمَتَانِ: دونوں
آنکھیں۔ کِرِيْمَةُ الرَّجُلِ: نبی الكِرِيْمَةُ:

صاحب کریم و حسب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
كِرِيْمَةٌ قَوْمِيَّةٌ" فلاں اپنی قوم میں شریف ہو۔

كِرِيْمَةٌ: میں تا مبالغہ کے لیے ہے۔ كِرَامِيْمٌ
المَالُ: عمدہ اور بہترین مال۔

الْكِرَامُ: کریم۔ ج كِرَامُوْنَ:
الْكِرَامُ: انگور کی تیل والا اور اس کی گہبائی
کرنے والا۔

الْكِرَامُ وَالْكِرَامَةُ: بہت زیادہ کرم کرنے
والا۔ كِرَامُوْنَ:

الْمَكْرُمَانُ: کریم بہت و سخی اخلاق والا۔ اور
یہ ندا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے يَا
مَكْرُمَانُ:

الْمَكْرُمُ وَالْمَكْرُمَةُ: شریف۔ فیاض۔ ج
مَكْرَامٌ: اَرْضٌ مَكْرَمَةٌ لِلنَّبَاتِ: عمدہ
زرخیز زمین۔

الْمَكْرُمُ وَالْمَكْرُمَةُ: کرم کا فعل۔ کریم
کہا جاتا ہے "فَعْلُ الْخَيْرِ مَكْرُمَةٌ" یعنی
فعل خیر کرم یا تعظیم کا سبب ہے۔

الْمَكْرَامُ: لوگوں کا اکرام کرنے والا۔ بہت
فیاض۔

الْمَكْرَمُ: سر۔ ہر ایک کے نزدیک باعزت
فہمض۔

كَرَبَ الرَّجُلُ: چھوڑنے کو دودھ کے
ساتھ کھانا صَنِيفَةٌ: مہمان کو کرم کھانا۔

الْكُرْبُ وَالْكُرْبُ: کرم کلا۔
الْكُرْبِيَّةُ: ایک قسم کا کھانا جو کرم کلا سے بنایا
جاتا ہے۔

فَرَأْسَةُ الْكُرْبِ: أَوْ دُوْدَةٌ الْمَلْفُوفِ:
کرم کلا کو تہا کرنے والا سفید کپڑا۔

الْكُرْوَرِيْنَةُ: درختوں کی ایک قسم جو کہ سڑکوں
کے کنارے زیب و زینت کے لگائے جاتے ہیں
ان درختوں کا اثر یلیا ہے۔

كَرَنْفَ الْكُرَانِيْفِ: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ
لینے کے بعد تہ میں جو حصہ باقی رہ جائے اس کو

كَائِنًا كُرَنْفَهُ بِالْعَصَا: لاشی سے مارنا۔
كَرَنْفَ الشَّيْءِ بِالسَّيْفِ: تلوار سے کاٹنا

النَّخْلَةَ: تہہ کو کھجور کی ٹہنی کے باقی ماندہ حصہ
سے صاف کرنا۔

الْكِرْنَاْفُ وَالْكِرْنَاْفُ: کھجور کی ٹہنی کو
کاٹ لینے کے بعد تہ میں باقی ماندہ حصہ۔ واحد

كِرْنَاْفَةٌ كِرْنَاْفِيْفٌ:
اَنْفٌ مَكْرِنْفٌ: موٹی ناک۔

كِرْمَةٌ (س) كِرْمًا وَكِرْمَةً وَكِرْمَةً
وَكَرَاهِيَةً وَكَرْمَةً وَكَرْمَةً الشَّيْءُ:
ناپسند کرنا۔ صفت فاعلی كِرَامَةٌ: صفت مفعولی
مَكْرُوَةٌ:

اَكْزَمَ سَكْرًا غَنِ الطَّعَامِ: بہت کھانا یہاں تک کہ خواہش باقی نہ رہے۔
تَكْزَمُ الْفَاحِشَةَ: میوہ بغیر چھیلے ہوئے کھانا۔
الْكُزْمُ: جھگڑیل۔ چھوٹی انگلیوں والا۔
الْكُزْمُ: جھل۔ بہت کھانا۔ ناک یا انگلیوں کی کوتاہی۔ گھوڑے وغیرہ کے ہونٹ کی چھوٹائی اور موٹائی۔ کہا جاتا ہے ”فی یدہ كُزْمٌ“ جبکہ افعال خیر کے لیے ہاتھ نہ کھلے۔
الْكُزْمُ مِنَ الرِّجَالِ: بزدل خائف مرد۔
الْكُزْمَانُ مِنَ الرِّجَالِ: اتنا کھانے والا کہ ناپسند کرنے لگے۔
الْمُتَكْزِمُ: چھوٹی پھیل اور قدم والا۔
كُزِي يَكْزِي كُزِيًا: اپنے آزاد کردہ سے احسان کرنا۔
كَسَّ (ن) كَسَّ الشَّيْءُ: باریک کوٹنا۔
كَسَّ (س) كَسَّسًا: چھوٹے چھوٹے دانٹوں والا ہونا۔ چھوٹے تالو والا ہونا۔ صفت
اَكْسَ مَوْنَتَ كَسَاءِ جِ كَسَّسَ: اندام نہانی۔
الْكَسْبِيسُ: ٹوٹی ہوئی روٹی، شکر اور بقول بعض جو اور چینا سے بنی ہوئی شراب۔ بھجور کی نیبڑ۔ خشک شدہ گوشت کہ اس کو کوٹ کر باریک کر لیتے ہیں اور بطور توشہ کے سفر میں لے جاتے ہیں۔
الْمَكْسُوسُ: ٹوٹی ہوئی روٹی۔
كَسَاءَ (ف) كَسَاءً: پچھا کرنا۔ كَسَاءَ الدَّابَّةِ: چوپایہ کو ہانکنا القَوْمُ: خصوصیت میں غالب آنا بالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔
الْكَسْ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک ٹکڑا۔
الْكَسُ وَالْكُسُو: مِنْ كَلَّ شَيْءٍ: پچھلاصہ جِ اَكْسَاءَ: کہا جاتا ہے ”رَكِبَ كَسَاءً“ یعنی وہ گدی کے بل گرا ”وَأَتَيْنَا فِي اَكْسَاءِ الشَّهْرِ“ یعنی ہم مہینہ کے آخر میں آئے ”وَمَرُّوا فِي اَكْسَاءِ الْمُنْهَازِ مِينَ او عَلِي اَكْسَاءِ هِمَّ“ یعنی وہ لوگ ٹھکت خوردہ جماعت کے نشان قدم پر اور ان کے پیچھے گئے۔
كَسَبَ (ض) كَسَبًا وَكَسَبًا وَتَكَسَّبَ:

وَاِكْتَسَبَ مَا لًا او عَلِمًا: مال یا علم حاصل کرنا۔ طلب کرنا۔ کمائی کرنا۔ كَسَبَ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ كَسَبَ الْاَثَمَ: گناہ اُثْمَانًا لِأَهْلِهِ: کمائی کرنا۔
كَسَبَ وَكَسَّبَ وَاِكْتَسَبَ فَلَانًا مَا لًا او عَلِمًا مال یا علم حاصل کرنا۔
اِكْتَسَبَ وَتَكَسَّبَ فَلَانًا: کمائی کرنا۔
تَكَسَّبَ الرَّجُلُ كَمَا نَى كَى كُوشِشِ كَرْنَا: الكَسْبِ: س۔ کمائی۔
الْكِسْبِيَّةُ وَالْكِسْبِيَّةُ: کمائی۔
الْكَايِبُ: فَا۔ ابوکاسب: بھیڑیا۔
الْكَايِبِيَّةُ: كَايِبُ كَا مَوْنَتِ جِ كَوَايِبِ الكَوَايِبِ: انسان یا پرندہ کے جسم کے جوڑ۔
شکاری جانور۔
اَلْكُسُوبُ وَالْكَسَابُ: بہت کمائی کرنے والا۔
الْمَكْسَبُ: الْمَكْسَبُ وَالْمَكْسَبِيَّةُ: کمائی۔
اَلْكَسْبَانُ: ایک معروف درخت شاہ بلوط۔ ابو فرود۔ اس کے پھلوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے۔ كَسْبَتَةُ الْحِصَانِ او قَسْبَلَةٌ الْحِصَانِ: سفید پھولوں والا کڑوے پھلوں والا درخت۔
الْكَسَابُ: بھیڑیا۔
الْكَسْبُ: کھل۔
الْكُسْبِجُ: کھل۔
الْكُسْبِيرُ: ہاتھی دانت کا ٹکڑن کی مانند ایک زیور۔ جِ كَسَابَرُ: الكُسْبِيرَةُ وَضِيًا۔
كَسَحَ (ف) كَسَحًا الْبَيْتَ: گھر میں جھاڑو دینا۔ كَسَحَتِ الرِّيحُ الْأَرْضَ: ہو اكا مٹی کو اڑالے جانا۔ الشَّيْءُ: کاٹنا۔ کہا جاتا ہے ”أَتَيْنَا بَنِي فَلَانَ فَكَسَحْنَاهُمْ“ یعنی ہم بنی فلاں پر پہنچے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔
كَسَحَ (س) كَسَحًا: ہاتھ پاؤں میں بے حسی والا ہونا۔ ایک پاؤں کے پوجھل ہونے کی وجہ سے چلنے میں ٹھٹھ کر چلنا۔ صفت

اَكْسَحَ جِ كَسْحَانِ كَمَا جَاتَا ہے ”مَا اَكْسَحَ“ کس قدر پوجھل ہے۔
كَاَسَحَهُ مَكَاَسَحَةً: بہت سخت جھڑا کرنا۔
اِكْتَسَحَ الشَّيْءُ: لے جانا۔ کہا جاتا ہے ”أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَانْكَسَحُواهُمْ“ یعنی انہوں نے ان کو لوٹا اور ان کا سارا مال لے گئے۔
الْكَسْحُ: س۔ عاجزی۔
الْكَسَاةُ: كَوْزَا كَرَكْتُ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی اور اکثر پاؤں کی بے حسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
الْكِسْحُ: وہ شخص کہ جس سے تم مدد طلب کرو اور وہ تمہاری مدد نہ کرے۔
الْاَكْسَحُ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔ لنگڑا لنگڑا۔
الْكُسْبِجُ وَالْكُسْبِجُ وَالْكَسْحَانُ: ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔
الْكَسَاةُ: اُوْمُنُونَ كَايِكِ مَرَضٍ۔
الْمِكْسَحَةُ: جھاڑو۔
الْمَكْسَحُ: چھیل کر ہموار کیا ہوا۔ جیسے غُوْدَةٌ مَكْسَحٌ۔
الْمَكْسُوحُ: س۔ جَمَلٌ مَكْسُوحٌ: سخت لنگڑا اُوْمُنٌ۔
كَسْحَبَ كَسْحَبَةً ذُرٌّ كَى وَجِنَةَ مَجْمَبٍ مَجْمَبٍ كَرِجَانًا۔
كَسَدَ وَكَسَدَ (ن) كَسَادًا وَكُسُودًا الشَّيْءُ: خواہش مندوں کی کمی کی وجہ سے رائج نہ ہونا۔ كَسَدَتِ السُّوقُ: بازار کا مندا ہونا۔ شى كى صفت كَسَابِدٌ وَكَسْبِيدٌ اور سوق كى صفت كَسَابِدَةٌ وَكَسَابِيدَةٌ وَاَكْسَدَ۔
اَكْسَدَتِ الْقَوْمُ: مندے بازار والا ہونا۔
اَكْسَدَتِ السُّوقُ: بازار کا مندا ہونا۔
اَكْسَدَتِ الشَّيْءُ: غير رائج بنانا۔
اِنْكَسَدَتِ الْغَنَمُ اِلَى الْغَنَمِ: واپس ہونا۔
الْكُسْدُ: قَطُّ (ایک دو کا نام)۔
الْكُسْبِيدُ: مندا۔ مٹھلیا۔
كَسَرَ (ض) كَسْرًا الْغُوْدَ وَكَلَّ صُلْبًا:

توزنا۔

العنسكر: لکھ کر کھلت دینا الوصیة: صیت بنسوخ کرنا الشغفر: شعر کا وزن رست نہ کرنا الطائر جناحیہ: پرندہ کا ترنے کے لیے پروں کو سمیٹنا الحزف: رف کو زبردینا الرسادة: تکیہ کو موڑنا اور بل لگانا المتاع: سامان ایک ایک کر کے پنا۔ کسر من طرفہ وعلی طرفہ: نگاہ ت کرنا فلانا عن مرادہ: پھیرنا۔ کسر (ض) کسورًا الطائر: پرندہ کا زنے کیلئے پروں کو سمیٹنا۔ کسر (س) کسرا کا بل ہونا۔ کسر بمعنی کسر تشدید مبالغہ اور کثیر

پلے ہے وکسرت المرأة ونحوها النور علی کذا فنکسر آئینہ نے فلاں چیز پر روشنی ڈالی اور اس پر روشنی پر گئی۔ کسر الکلیمة: جمع مکر بنانا۔ اور کہا جاتا ہے "کسر الکتاب علی عذہ ابواب" کتاب کو چند ابواب پر منقسم کیا۔

تکسر: ٹوٹنا الشیء: توڑنا۔

انکسر: ٹوٹنا العنسكر: لکھ کر کھلت کھانا اور پر آئندہ ہونا۔ صفت دونوں معنی کے لحاظ سے کمور ہے اور منکر نہیں کہا جاتا الحزف: گرمی کم ہونا العجین: گندھے ہوئے آٹے کا نرم ہونا اور خمیر ہونا عن الشیء: عاجز ہونا۔

انکسر الشیء: توڑنا۔

الکسر: سر زریکی حرکت۔ بہت کم فی الحسب: ایک سے کم جیسے تہائی چوتھائی اور اس کے مقابلہ میں صحیح ہے کسور ورج کسورات۔

الکسر والکسر: عضو کا جزو۔ بڑی کا جزع گوشت کے۔ کہا جاتا ہے "آئینتہ وهو یطعم الناس من کسور الابل" میں اس کے پاس آیا اور وہ لوگوں کو اونٹ کے اعضاء کھلا رہا تھا۔ کسوری کا ایک گوشہ۔ خیمہ کا وہ کنارہ جو زمین پر لگا ہوا ہو۔ گوشہ ج کسار وکسور۔ کسور الاودیة: وادی کے موڑ

(اور اس آخری معنی میں اس لفظ کا واحد نہیں) "هذه أرض ذات کسور" یہ زمین اونچی نیچی ہے۔

الکسرة کسر کا اسم مرہ زریکی حرکت۔ کھلت۔ کہا جاتا ہے "رقت علیہم الکسرة" یعنی کھلت کھا گئے "و بعینہ کسرة من السهر" یعنی اس کی آنکھ میں نیند کا غلبہ ہے۔ بیداری کی وجہ سے۔ ج کسرات اور کہا جاتا ہے "هو ذو کسرات و هزرات" وہ ایسا شخص ہے جس کو ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے۔

الکسرة ٹوٹی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج کسز وکسرات وکسرات۔

کسری وکسری: شاہان فارس کا نام۔ ج اکابرة واکاسر وکسابرة وکسورا اور نسبت کے لیے کسروی اگر کسری کی طرف نسبت ہو اور اگر کسری کی طرف ہو۔ کسروی اکسری۔

الکسار والکسارة من الحطب ونحوه: کھور۔ چھیل۔

الکسیر: ٹوٹا ہوا۔ ج کسری وکساری۔

الاکسیر: وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو سونا بنا دے۔

التکسیر: س۔ والتکسیر عند المہندسین: پیمائش۔

الکاسیر: ف۔ ج کسر عقاب۔ کہا جاتا ہے عقاب کاسیر: ٹوٹ پڑنے والا یا شکار کیے ہوئے جانور کو توڑنے والا عقاب۔

کاسیر الحجر أو القلب پہاڑی علاقے کا پھول۔

الکاسیرة کاسر کا مؤنث ج کاسرات وکسر وکواسر الکواسر: شکاری پرندے۔

التکسر (فی الطب): وہ حالت جو جسم میں کمزوری والی ٹھنڈک اور چمڑے اور پھٹوں میں بدحالی پیدا کر دے۔

الانکسار (فعلیات): ایسی شعاع کی جہت میں تبدیلی جو شفاف مادے سے گزر کر دوسرے مادے کے وسط تک چلی جاتی ہے۔

الکسار: اسم مبالغہ۔

المکسیر: توڑنے کی جگہ۔ مکسیر الشجرة: درخت کی جڑ یا درخت کا تنہ جہاں سے ٹہنیاں توڑی جائیں۔ آزمائش۔ کہا جاتا ہے "فلائن طیب المکسیر" فلاں آزمائش کے وقت لھتا ہے۔

المکاسیر من العجوزان: پڑوسی جس کے مکان کا گوشہ تمہارے مکان کے گوشہ سے ملا ہو اور۔ کہا جاتا ہے "هو جاری مکاسیری" وہ میرا پڑوسی ہے کہ اس کے مکان کا گوشہ میرے مکان کے گوشہ سے ملا ہوا ہے۔

المکسر: س۔ المکسر من الاودیة: وادی جس کے موڑ بہہ رہے ہوں۔ الجمع المکسر: جمع سالم کی ضد۔ جس میں واحد وزن باقی نہ رہے۔ جیسے رجل سے رجال۔ مسجدة سے مساجد۔

المکسور: س۔ صوت مکسور: نرم و کمزور آواز۔

المکسور: ف۔ کہا جاتا ہے "زایتہ مکسرا" میں نے اس کو سست دیکھا۔

کسع (ف) کسعاً: دھکارنا۔ دھکارتے ہوئے پیچھا کرنا۔ چوتروں پر ہاتھ پالیاں مارنا۔

کسع السفینة فی البحر: کشتی کو سمندر میں اُتارنا اور چلانا۔ کسعہ بگذا: تابع بنانا۔

کہا جاتا ہے "وردت الخیل یکسع بعضها بعضاً" موٹھے آئے اس حال میں کہ بعض بعض کے پیچھے تھے "و اتبع فلان

اذبارهم یکسعهم بالسيف" فلاں ان کے پیچھے گیا اور تلوار سے ان کو دھکارا رہا تھا

"کسع الرجل بما ساءه" جبکہ گفتگو کرے اور آخر میں ایسی بات کہے جو تکلیف دہ ہو۔

کسعت وانکسعت الخیل باذناہما: کھوڑوں کا ناگھوں میں ڈوم دبانہ۔

تکسّع فی ضلاله: گمراہی کی انتہا کو پہنچنا۔
 الکسّع فی الخیل: گھوڑے کے کمر کے پاس جوڑے ارد گرد سفیدی۔
 الکسّع: روٹی کے ٹکڑے۔
 الکسّعة پیشانی پر سفید داغ۔ پرندہ کی دم کے نیچے سفید پر۔ ج کسّع: کام کرنے والے تیل۔ گدھے۔ غلام۔
 الاکسّع: من الخیل: کمر کے پاس جوڑے کے ارد گرد سفیدی والا گھوڑا من الطیر: دم کے نیچے سفید والا پرندہ۔
 رَجُلٌ مُکسّعٌ: بے بیابا مرد۔
 الکُسْعُومُ: گدھا۔
 کسّف (ض) کسّفًا النّوْبَ: کپڑا کاٹنا اللّٰهُ الشَّمْسُ او القَمَرُ: گہن لگانا بصرہ: نگاہ پت کرنا الشَّمْسُ النُّجُومُ: آفتاب کی روشنی کا ستاروں پر غالب آنا۔
 الشّیْءُ ذھابکنا: کسّفہ الحُزْنَ و غیرہ: غمگین کر دینا۔
 کسّفَت (ض) کُسُوفًا الشَّمْسُ: آفتاب میں گہن لگنا وجہہ: تیوری چڑھنا۔
 ضعیف ہونا حالہ: بُرا ہونا کسّف اُمَّلَهُ: امید منقطع ہونا کسّف بالہ: جی میں برا خیال آنا یا امید کا ٹھوٹا ہونا۔
 تَكسّفَت الشَّمْسُ: آفتاب میں گہن لگنا۔
 اِنکسّفَت الشَّمْسُ والقَمَرُ: آفتاب اور ماہتاب میں گہن لگنا۔
 کسّف الشّیْءُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 الکسّف: م عرب کے امثال سے ہے "اکسّفًا وامساکًا" یعنی کپڑا ترش روٹی اور بخل بھی (یہ امثال ترش رو رو بخل کیلئے استعمال ہوتی ہے)
 الکاسیف: فاد کہا جاتا ہے "فلان کاسیف البال" یعنی فلاں بُرے حال والا ہے "وکاسیف الوجہ" ترش رو "ویوم کاسیف" سخت و خوفناک دن "و رَجُلٌ کاسیف" غمگین مرد جو غم کی وجہ سے بُر حال ہو گیا ہو۔

الکسّفة کلّوا ج کسّف و کسّف و اکسّف و کسّف۔
 الکسّیفة کلّوا۔
 الکسّکسّہ: س وقت کی حالت میں ک ضمیر مؤنث کے ساتھ سین ملانا جیسے بکس واکر مُتکسّس بک واکر متک میں (یہ لغت بنو تمیم کی ہے)
 الکسّکسّس: ایک کھانا ہے جو آنے سے بنایا جاتا ہے۔
 کسّیل (س) کسّلا و تکاسیل کامل ہونا۔ جس کام سے سستی نہ کرنا چاہئے اس میں سستی کرنا۔ صفت کسّیل و کسّیلان ج کسّالی و کسّالی مؤنث کسّیلة و کسّیلانہ و کسّیلی۔
 کسّیل (س) کسّلا و اکسّیل: بے انزال کے جماع کرنا یا منی کو باہر گرانا۔
 اکسّیل الامر فلانا: کابلی میں ڈالنا۔
 الکسّالۃ بیکاری۔
 الکسّول: کابل۔ ناز پروردہ لڑکی کے لیے وصف ہے جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔
 الکسّل و المکسّل: ڈھنیا کے کمان کی تانت جبکہ آتاردی جائے۔ نَسَبٌ مِکسّلٌ: وہ نسب جسے سرداری اور افعال خیر میں خودداری نہ ہو۔
 المکسّال: کابل (ذکر و مؤنث) ناز پروردہ لڑکی جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ یہ اس کے لیے باعث مدح ہے۔
 المکسّلة سبب کابلی۔ کہا جاتا ہے "الشّیخ مکسّلة" آسودگی باعث کابلی ہے "فلان لا تکسّله المسکابیل" اسباب کابلی فلاں کو کابل نہیں بناتے۔
 کسّم (ض) کسّمًا الیابس: خشک چیز کو ہاتھ سے چورا کرنا علی عیالہ: کمائی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ناز الحزب: لڑائی بھڑکانا۔
 الکسّم: س۔ خشک چیز کا چورہ جو تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔

الکسّوم: گمراہی والہ۔
 الکسّوم: بہت گھاس۔ کہا جاتا ہے "ہذہ روضة کسّوم و اکسّوم و بکسّوم" یہ سرسبز و شاداب اور نمجان باغ ہے۔
 خیل اکاسیم: بہت سے گھوڑے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔
 کسّا یگسّو کسّوا و کسّی الثّوب فلانا: کپڑے پہنانا۔ کسّاه شِعْرًا: اشعار سے مدح کرنا۔
 کسّی یگسّی و کسّی کسّا الثّوب: کپڑا پہننا کسّی یگسّی کسّاه: بزرگ ہونا۔
 تکسّی تکسّیا بالکسّاء: اوڑھنا۔ پہننا۔ کسّی ماکسّاة فلانا: فخر کرنا۔
 اکسّی: لباس پہننا۔ اکسّیت الارض بالنبات: نباتات سے چھپ جانا۔ اکسّیتہ ثوبًا: کپڑے پہنانا۔
 استکسّی فلانا: کسی سے لباس مانگنا۔
 الکاسی: فاد لباس پہننے والا۔ ج کسّاء الکسّاء: بزرگی و شرف۔
 الکسّاء: کپڑا۔ کسّل: ج کسّیق۔
 الحسّوة و الجسّوة لباس۔ ج کسّی و کسّی۔
 الاکسّی: بہت پہننے والا۔ بہت لباس دینے والا۔ عرب کے امثال میں سے ہے "هُوَ اکسّی من بصلّہ" اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو بہت زیادہ کپڑے پہنتے۔
 الکسّی چوڑکا پچھلا حصہ۔ ہر چیز کا پچھلا حصہ ج اکسّاء: کہا جاتا ہے "زکب اکسّاء ہ" وہ گدھی کے بل گرا۔
 کسّ (ض) کسًّا و کسّیشا الزنّد: آگ لگتے وقت سائیں سائیں کی آواز لگانا الجوّہ: شراب کے ٹکڑے میں جوش آنا۔
 کسّنت کسّیشا الحیّۃ: سانپ کی کھال سے آواز لگانا کسّ الجمل: اونٹ کا بیل مرتبہ بڑھانا البقرۃ: گائے کا آواز لگانا (کسًّا) الرجل و غیرہ: دھکانا۔ ڈھکانا

تکاشت الافاعی: سانپوں کا آپس میں آواز نکالنا۔

الکش: وہ چیز جس سے درخت خرما کو کامیابیا جائے۔

الکشنة: پیشانی یا سر کے اگلے حصے کے بالوں کا پگھا۔

الکشيش: سر شراب کے جوش کی آواز۔

كشًا (ف) كَشًا الشئ: چیلنا۔ اگلے دانتوں سے کاٹ کر کھانا فُلَانًا بِالسِّنِّ

تلوار سے مارنا (وَآكَشَا) اللّٰحْمَ: گوشت بھون کر خشک کرنا۔ صفت مفعولی كَشِيٌّ

وَكَشَا الرَّجُلُ: بھونے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔ كَشَا الْمَرْأَةَ: جماع کرنا۔

كَشَيْتَ (س) كَشًا وَكَشَانًا يَدُهُ: ہاتھ پھٹانا۔ جھری دار ہونا۔

كَشًا وَكَشِيٌّ كَشًا وَكَشَاءً وَتَكَشًا الرَّجُلُ مِنَ الطَّعَامِ: غم سیر ہو کر کھانا۔

صفت كَشِيٌّ وَكَشِيٌّ: تَكَشًا الشئ: چیل جانا اللّٰحْمَ: خشک بننا ہو کر گوشت کھانا۔

كَشًا تَكَشِيَّةً اللّٰحْمَ: خشک بننا ہو کر گوشت کھانا۔

الْكُشَاءُ عِيبٌ: کہا جاتا ہے "مَا فِي حَسَدِهِ كُشَاءٌ" اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔

كَشَبَ (ض) كَشَبًا وَكَشَبَ اللّٰحْمَ: گوشت بہت کھانا۔

الْكُشْبَانُ الْكُشْبَانُ ج كُشْبَاتِينَ وَرُزْهُرُ الْكُشْبَانِ: ایک قسم کی نباتات۔

الْكُشُوْتُ وَالْكُشُوْتِيُّ وَالْكُشُوْتِيُّ وَالْكُشُوْتِيُّ: ایک قسم کی کھاس ہے جو

درخت وغیرہ پر پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی جڑ نہیں ہوتی اور اس کے پتے بھی نہیں ہوتے۔

كَشَحَ (ف) كَشَحًا الْبَيْتَ: گھر میں جھاڑو دینا القَوْمَ: پرانہ کرنا دھکارتا عَنِ الْمَاءِ يَأْتِي بِرَسِّهِ وَهِيَ هِيَ لَهَا بِالْعَدَاوَةِ:

دشمنی کرنا الدَّابَّةُ جُجَابِيَةٌ كَانَتْ تَلْعَقُ فِي رَمِيَانِ دُمُ دِبَانِ الطَّائِرِ بِرَنَدِهِ كَانِيَةً وَهِيَ تَلْعَقُ

او الصَّوَاءُ تَارِيكِيٌّ يَارُوشِيٌّ كَارَاكِلٌ هُوَ (و كَشَحَ) الْغُودُ: کڑی چیلنا۔ چھال اُتَارَا

الْبَيْعِرُ: اُونٹ کے پہلو میں داغ لگانا: پہلو پر داغ دینا۔

كَشَحَ الرَّجُلُ: پہلو پر داغ دیا جانا۔ صفت مَكْشُوحٌ: كَشَحَ الْقَوْمَ عَنِ الْمَاءِ: متفرق ہونا۔ پرانہ ہونا۔

كَشَحَ (س) كَشَحًا: در پہلو والا ہونا۔

كَاشَحَ كَشَاخًا وَمُكَاشِحَةً فُلَانًا بِالْعَدَاوَةِ: دشمنی رکھنا۔

اِنْكَشَحَ الْقَوْمَ عَنِ الْمَاءِ: متفرق ہونا۔ بھرتا۔

تَكَشَّحَ الْجَارِيَةُ: جماع کرنا۔

الْكَشْحُ: س۔ پہلو۔ ج كَشُوحٌ: کہا جاتا ہے "طَوَى كَشْحَهُ عَنِ فُلَانٍ أَوْ طَوَى كَشْحًا عَنْهُ"، یعنی اس نے پہلو تہی کی اور

اعراض کیا "وَطَوَى كَشْحَهُ عَلَى الْأَمْرِ" اس نے کام پر مداومت کی۔

الْكَشْحُ: پہلو کی بیماری جس کا علاج داغ لگانا ہے اور بقول بعض ذات الجنب کو کہتے ہیں۔

الْكَاشِحُ: ف۔ پوشیدہ دشمنی رکھنے والا۔ اور بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی بنا پر پہلو تہی کرے یا وہ جو تم سے دوری اختیار کرے اور

اعراض کرے۔

الْكَشَاخُ: پہلو کا داغ۔

الْكَشَاخِيَّةُ: مٹنی عداوت۔

الْمِكْشَحُ وَالْمِكْشَاخُ: تلوار کی دھار۔

الْمِكْشَاخُ: کھارا۔

كَشَدَ (ض) كَشَدًا الشئ: دانتوں سے کاٹنا النَّاقَةُ: اونٹنی کو تین انگلیوں سے دوہنا۔

اَلْكَشْدُ: خالص مکھن بنانا۔

الْكَشْدَةُ: مکھن۔

الْكَاشِدُ وَالْكَاشِدُ وَالْكَاشِدُ: دانتوں کے لیے بہت محنت سے کمانے والا۔ ج كَشَدَ كَشْرًا (ض) كَشْرًا: عَنِ اسْنَانِهِ: ہنسی وغیرہ میں دانت نکالنا اور اسم الكشيرة السبع عن نايه: درندے کا مقابلے میں دانت

دکھانا فُلَانٌ لَهُ: بچنے جیسا ہونا۔

كَشِرَ (س) كَشْرًا: بھانٹنا۔

كَشْرٌ عَنِ اسْنَانِهِ: بمعنی كَشْرٌ تشدید مبالغہ کے لیے ہے۔

كَاشِرَةٌ مُكَاشِرَةٌ: باہم ہنسا۔ باہم دانت نکالنا۔

اَكْشَرُ لَهُ عَنِ اسْنَانِهِ: دھمکی دینا۔

تَكَشَّرَ دانت نکالنا۔

الْكَشْرُ: س۔ سوکھی روٹی۔

الْكَشْرُ: انگور کا خوشہ جس کے انگور کھائے جا چکے ہوں۔

المُكَاشِرُ: ف۔ العَجَارُ المُكَاشِرُ: قرمبی پڑوسی۔

كَشَطَ (ض) كَشَطًا: اسْتَكْشَطَ الشئُ: ڈھکی ہوئی چیز کو کچھ کھولنا۔ كَشَطَ الرَّجُلُ عَنِ الْفَرَسِ وَالْغِطَاءَ عَنِ الشئِ: جھول کر ٹھوڑے سے یا ڈھکنے کو کسی چیز سے

اُتَارَا۔ ننگ کرنا الحَرْفُ: موقع سے ہٹا دینا۔

وَكَشَطَ الْبَيْعِرُ: اُونٹ کی کھال اُتَارَا

وَاسْتَكْشَطَ الْبَيْعِرُ: کھال اُتارنے کا وقت قریب ہونا۔

تَكَشَّطَ السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ: آسمان میں بادل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ پرانہ ہونا۔

اِنْكَشَطَ: اُتَارَا جانا۔ ننگ ہونا الرُّوْحُ: خوف زائل ہونا۔

الْكِشَاطُ: قصابی۔

الْكِشَاطُ: انکشاف۔ اُتری ہوئی کھال۔

الْكِشَطَةُ: کھال اُتری ہوئی اُونٹوں کے مالکین۔

كَشَعَ (ف) كَشَعًا الْقَوْمَ عَنِ قَبِيلِ: قوم کا مقتول سے متفرق و پرانہ ہونا۔

كَشَعَ (س) كَشَعًا: بدل ہونا۔ زنج ہونا۔

كَشَفَ (ض) كَشَفًا وَكَاشَفَةَ الشئُ: عَنِ الشئِ: ظاہر کرنا۔ کھولنا۔ کہا جاتا ہے "كَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ" اللہ اس کے غم کو زائل کرے "وَكَشَفَتَهُ الْكُؤُوشُفُ": یعنی زسوا کر دیا۔

کَصْ (ض) كَصًا القَوْمُ: اکھا ہونا
(كَصِيصًا) المَاءُ بِالنَّاسِ يَأْتِي بِرُؤُوسِهِمْ
بہت بھیڑ ہونا (كَصًا وَكَصِيصًا)
الصَّوْتُ آواز باریک ہونا۔
اَكَصَ بَهَاگنا اور نکلست کھانا۔
تَكَاصَرًا وَانْتَصَرَ القَوْمُ: اکھا ہونا۔ بھیڑ
کرنا۔

الكِصِيصُ بر شدت مشقت کی وجہ سے پیچ
و تاب۔ خوف۔ اضطراب۔ ٹڈی کی آواز۔ موٹا
پستہ قدمرد۔ کرودہ۔
الكِصِيصَةُ تجماعت۔ ہرن کے پھسانے کا
پھندا۔ ج کصا ناص
كَصَصَ تیز چلنا۔

كَصَمَ (ض) كَصُومًا: پست پھیرنا۔ پیٹھ
دکھانا (كَصَمًا) انٹوں سے کاٹنا۔
الرَّجُلُ: سختی سے ہٹانا۔
كَصَى يَكْصِي كَصِيًا: رفعت کے بعد
خسب ہونا۔

كَصَلَّ (ن) كَطَّلًا: ہٹانا اور پھینکنا۔
كَطَّلَ (ن) كَطَّلًا الطَّعَامُ فَلَانًا: زیادہ
بھرنے سے سانس نہ لینے دینا الغَيْظُ صَدْرُهُ:
سخت غضبناک ہونا الخَبْلُ رَتْسِي باندھنا۔
خَصَمَهُ: چاروں طرف سے گھیر دینا
(كَطَّظًا وَكَطَّظَةً الاَمْرُ فَلَانًا) تمکین
کرنا۔ جتلانے کرب کرنا۔ بوجھل کرنا
المَسِيْلُ بالمَاءِ يَأْتِي كِي زِيَادَتِي سِ بَهَاؤِكِي
جگہ کا ٹک ہونا۔

كَطَّظَهُ كَطَّظًا وَمُكَاطَّةً: جنگ میں سخت
اور جرم کر مقابلہ کرنا۔
تَكَاطَطَ القَوْمُ: میدان جنگ کو تنگ کرنا
۔ دشمنی میں حد سے گزرتا۔

اَكْظَمَ مِنَ الطَّعَامِ سَأْسًا: نہ لے سکنے کی حد
تک بھر لینا المَسِيْلُ بالمَاءِ يَأْتِي كِي زِيَادَتِي
سِ بَهَاؤِكِي جگہ کا ٹک ہونا المحلُّ لُؤُكُوں
سے بھر جانا اَكْظَمَهُ الغَيْظُ: سینہ کا غصہ سے
بھر جانا۔

الكِظَّةُ بد بھمی۔ زیادہ پیٹ بھر جانے کی

الاکشف: جس کے سر کے اگلے حصہ کے
بال گر گئے ہوں۔ گھوڑا جس کی دم کے بالوں
میں پیچیدگی ہو۔ وہ شخص جس کے پاس لڑائی
میں نہ ڈھال ہونہ خود ہو۔ لڑائی میں شکست
خوردہ۔

الکشفاء: اکشف کامونٹ۔
الکشیف: بمعنی مَكْشُوفٌ کھلا ہوا۔
ظاہر۔

الکَشْكُ جو کاپانی۔ آش جو۔
الكَشْكُ: عند غامتنا ایک قسم کا کھانا جو
موٹے ستو کو دودھ میں بھگو کر خیر اٹھنے کے
بعد پکایا جاتا ہے الكَشْكُ: گنبد دار محل
(دخیل)

كَشْكَشُ كَشْكَشَةٌ بَهَاگنا۔ كَشْكَشَتِ
الحَيَّةُ بِنَابِ كَالْحَالِ سِ آواز نکالنا۔
الكَشْكَشَةُ: بر ضمیر خطاب مونٹ کو شین
سے بدل لینا۔ جیسے اَكْرَمْتَشْ وَعَلِيَشْ
اَكْرَمْتَكْ وَعَلِيَكْ میں۔

الكَشْكُولُ وَالكَشْكُولَةُ: بھکاریوں کا
چنیل (دخیل) بہاء الدین عاملی کی ایک کتاب کا
نام کسکول ہے اس لیے کہ اس میں مختلف
موضوع پر مضامین ہیں۔

كَشْمَ (ن) كَشْمًا وَكَشْمًا: واكشتم۔
الانف تاك جز سے کاٹنا۔
كَشْمَ (س) كَشْمًا: پیدائشی یا خاندانی
عیب دار ہونا۔ صفت اَكْشَمَ۔

كَشْمَ (ض) كَشْمًا القَنَاءُ او الجُزْرُ:
گلری یا گز بہت حرص سے کھانا۔
اَنْفٌ كَشْمٌ رَاكشَمٌ: جز سے کٹی ہوئی
ناک۔

الكَشْمُ وَالاكشَمُ: تیدوا۔ كَشْمَرٌ
رونے کے لیے آہا ہونا اَنْفُهُ نَاك تُوْر دینا۔
الكَشْمِشُ: شش واحد كَشْمِشَةٌ
كَشَاةٌ يَكْشُرُهُ كَشْوَارًا: انٹوں سے کاٹ
کھانا۔

الكَشْمِيَّةُ: گوہ کے پیٹ کی چربی۔ یا اس کی دم کی
جز۔ ج كَشْمِي

كَشْفَ (ف) كَشْفًا: نکلست کھانا الرَّجُلُ
او الفَرَسُ کھلی ہوئی پیشانی والا ہونا۔
كَشَفَ الشَّيْءَ كَهولنا۔ ظاہر کرنا فَلَانًا عَنِ
الْاَمْرِ ظاہر کرنے پر مجبور کرنا۔
كَاشَفَهُ بِكَذَا جَرَدَار كَرْنَا هُ بِالْعَدَا وَكَهْلِي
کھلی دشمنی کرنا۔

اَكْشَفَ شَيْءًا فِي سَوْرَهوں كُو ظَاهِر كَرْنَا۔
اِنْكَشَفَ الشَّيْءَ ظَاهِر هَوْنَا۔
تَكَشَّفَ الشَّيْءُ ظَاهِر هَوْنَا البُرْفُ: بجلی کا
آسان پر پھیلنا الرَّجُلُ رُؤُوسًا هَوْنَا۔
تَكَاشَفَ القَوْمُ: ایک دوسرے کے عیوب
کو ظاہر کرنا۔

اَكْشَفَ الشَّيْءَ ظَاهِر كَرْنَا۔ كَهولنا۔ اور اسی
سے ہے "الاکشافات" ان نئی تحقیقات
کیلے جو امور طبعیہ و صناعیہ میں ظاہر ہوں۔
اِسْتَكْشَفَ عَنِ الشَّيْءِ ظَاهِر كَرْنَا كُو كَهْنَا۔
اَلْكَشْفُ: بر عند العروصین۔ ساتویں
محرک کا گرا دینا۔

اَلْكَشْفُ: وہ کاغذ جس میں سامان تجارت کی
مقدار اور اس پر معاوضہ اور ایگی تحریر کیا جاتا
ہے۔

اَلْكَشْفُ الالهي: عند الصوفيين جب
صوفی ولی اللہ مخصوص طرق عبادت اختیار
کرے تو اس پر حقائق الہیہ منکشف ہو جاتے
ہیں۔ اصحاب الکشف ان ہی حضرات کو کہا جاتا
ہے جن پر کشف ہوتا ہے۔

اَلْكَشْفُ: بر کے اگلے حصہ کے بال گر جانا۔
والكشْفُ فِي الخَبْلِ: دم کے بالوں کی
پیچیدگی۔

الكشفة: بر کے اگلے حصہ میں بال گرنے
کی جگہ۔

الكاشف: فاج كَشْفَةٌ
الكاشفة: بر۔ کاشف کامونٹ۔ رسوائی ج
کواشف۔

الكشاف: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
كَشَافُ الغنمِ" وہ غنوں کا زائل کرنے والا
ہے۔

کی گرہ۔ ہر بلند مرتفع چیز۔ بزرگی و شرف ج کعبہ۔ کہا جاتا ہے ”اعلیٰ اللہ کعبہم“ اللہ ان کی شان کو بلند کرے۔ و ”ذہب کعبہم“ ان کی عزت تباہ ہوگئی و ”زجل عالی الکعب“ مرد بڑی بزرگی والا۔ الکعب: پانسہ۔ گھی کا گولہ۔ برتن کا باقی ماندہ دودھ ج کعب و کعبہ۔ الکعب فی علم الهندسة: مربع جسم۔ الکعب: پٹیوں کا جوڑ۔ قدم کے اوپر ابھری ہوئی بڑی تختی۔ ج کعب و کعبہ و کعبہ و کعبہ۔ الکعب: نرد کا مہرے۔ واحد کعب و کعبۃ۔

تکعب عذد ما: تین برابر اعداد کا حاصل ضرب جیسے ۶ کا کعب ۶×۶×۶ = ۲۱۶

الکعب: ابھری ہوئی پستان۔ الکعبۃ: نرد کا مہرہ۔ ہر چوکور مکان۔ جبرو کہ۔ بیت اللہ الحرام۔ ج کعب و کعبات۔ الکعبۃ: دو تیزگی۔ جاریۃ کعب و مکعب۔ ابھری ہوئی پستان والی لڑکی۔ کہا جاتا ہے ”وجه مکعب“۔ الکعب: من الجوارى والتدی: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی یا ابھری ہوئی پستان ج کوعب۔ المکعب: مربع جسم۔ وہ جسم جس کی چھ سطحیں ہوں اور لمبائی چوڑائی موٹائی سب برابر ہو۔ وفى الحساب مکعب العدد: چوگنے کا حاصل ضرب۔ جیسے آٹھ دو کا کعب ہے۔ ثدی: مکعب: ابھری ہوئی پستان (یہ نادر ہے) مکعبۃ: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی کھجور کے لیے زنبیل۔ کعبۃ کعبۃ بالسیف: تلوار سے کاٹا۔ کعبۃ: کعبہ۔ الکعبۃ: عجمی اکھڑ عورت۔ الکعبۃ من العسل: شہد کے پھتے میں جو

ترازو کی رسیوں کا حلقہ۔ کہا جاتا ہے ”عقد الخیوط فی کظامتی المیزان“ یعنی اس نے ترازو کی ڈنڈی کے دونوں حلقوں میں دھاگے باندھ دیئے الکظامۃ: زمین کے اندر پانی کی نالی۔ کظامۃ الباب: دروازہ بند کرنے کی چیز (والکظیمۃ) دو قریب قریب کوڑوں کے درمیان نالی۔ الکظیمۃ: توشہ دان۔ ج کظامم۔ الکظام: فَا۔ خاموش۔ ج کظم۔ بعبیر کاطم پیاسا اونت۔ ابل کظوم۔ اونت جو چگال نہ کرے۔ الکظیم والکظوم: صیت زدہ۔ الکظیم: دروازہ بند کرنے کی چیز۔ کظا یکظو کظوا لحمہ: گوشت سخت ہوتا۔ تکظی لحمہ سمنا: موٹائی کی وجہ سے گوشت کا بلند ہونا۔ أرض کاظیۃ خشک زمین۔ کع (ن ض) کعًا و کعوعًا و کعاعۃ و کیعوعۃ۔ کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔ کع فلانًا: خوف دلانا۔ بزدل بنانا فی کلامہ: کلام میں رکنا الخوف فلانًا: ارادہ سے باز رکھنا۔ الکع والکاع: کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے ”فلان کع الوجہ“ فلاں سب رخسار ہے۔ کعبت (ن ض) کعبونًا و کعبونۃ و کعبانۃ: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔ صفت کعب و کعب۔ کعب (ف) کعبونًا التدی: پستان ابھرتا۔ (کعبانۃ) الإناء: برتن بھرنا فلانًا: خشک چیز کعب الإناء: برتن بھرنا الشی: چوکور بنانا۔ کعبت الجاریۃ: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔ کعب: دوڑنا۔ الکعب: دوپوروں کے درمیان کی گرہ۔ نیزہ

تکلف۔ الکظاظ۔ سن۔ حتم۔ سختی۔ غم جو دل کو بھر دے۔ عداوت۔ الکظ۔ سن کہا جاتا ہے ”زجل کظ“ سخت کیر مرد (والکظیظ والکظوظ والکظوظ) وہ شخص جس کو امور گرانبار کر دس اور وہ عاجز ہو جائے۔ بہت زیادہ غضبناک۔ الکظیظ والکظوظ: کھانے سے بھرا ہوا شکم۔ الکظیظ: بھیڑ۔ انبوہ۔ کہا جاتا ہے ”علی باب فلان کظیظ“ فلاں کے دروازہ پر بھیڑ ہے۔ طعام مکظۃ: بد قسمی والا کھانا۔ کظب (ن) کظوبًا: بہت موٹا ہونا۔ کظر (ن) کظرًا: القوس: کمان کے کنارے پر تانت لگانے کے لیے دندانہ بنانا الزندۃ: چترقاس سے دندانہ بنانا۔ الکظر: کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی (والکظرة) رود کی جگہ جب کہ گردے نکال لیے جائیں۔ الکظر ہنسی کی بڑی کے درمیان کی جگہ۔ کظم (ض) کظمًا الباب: دروازہ بند کرنا النهر: نہر کو روکنا القریۃ: مکان بھرنا اور منہ باندھنا البعبیر بالکظامۃ: اونت کو تکمیل لگانا الشی و علی الشی: روکنا کظومًا البعبیر: اونت کا چگالی کرنے سے باز رہنا۔ کہا جاتا ہے ”ما کظم فلان علی جریۃ“ یعنی فلاں کے پیٹ میں بات بچتی نہیں (کظمًا و کظومًا) غیظہ: غصہ نکل جانا۔ کظم کظومًا: خاموش رہنا۔ الکظم: سانس کی نالی۔ ج کظام و کظام کہا جاتا ہے ”آخذ بکظمہ“ یعنی اس کو غم میں مبتلا کر دیا۔ الکظام: بند کرنے کی چیز۔ کہا جاتا ہے ”آخذ بکظام الامر“ یعنی اس نے بھروسہ کے لائق چیز کو اختیار کیا۔ الکظامۃ: وادی کا دہانہ۔ اونت کی تکمیل۔

کرنے کے بعد دوبارہ سینا (کفًا) الإناء:
برتن کو بہت بھرنا الشئ جمع کرنا رجلة:
پیر میں چیترا لپینا القبيلة: قبیلہ کے ایک
گوشہ کو اختیار کرنا ماء وجهہ: آبرو پچانا اور
سوال کرنے سے رکنا عن الأمر: باز رہنا
عن الأمر: باز رکھنا (كفوفًا) الناقة:
بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت والی
ہونا۔

كف و كفٌ بصره: اندھا ہونا۔
تكفف الناس: لوگوں سے مانگنے کی لیے
ہاتھ پھیلانا الرجل: ہاتھ میں لینا مٹی بھر
کھانا مانگنا یا بھوک روکنے کے لائق مانگنا عن
الأمر: چھوڑنا ذمعة: آسوکا رکنا۔
تكاف عن الأمر: باز رہنا القوم: ایک
دوسرے کو روکنا۔

انكف باز رہنا عن المكان: چھوڑنا۔
استكف الشئ: ہاتھ میں لینا الناس:
مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا عن الشئ:
رکنے کی لیے کہنا الناس حوله: دیکھنے کے
لیے احاطہ کرنا استكفت الحية: کڑی مارنا
الناظر: دھوپ سے بچنے والے کی طرح
بھولوں پر ہاتھ رکھنا عينه: دیکھنے کے لیے آنکھ
پر ہاتھ کا سایہ کرنا استكفت عينه: ہاتھ
کے نیچے سے دیکھنا فلان بالصدق: صدقہ
مانگنے کی لیے ہاتھ پھیلانا به الناس: احاطہ
کرنا الشعر: بال بکثرت ہونا الشئ: گول
ہونا۔

المكف: س۔ ہاتھ یا ہتھیلی مع انگلیوں کے
(مونت) ج اكف و كفوف و كفٌ
كف السبع و كف الكلب و كف
الذئب و كف مريم و كف آدم و كف
الأسد و كف الصبع و كف القرد و
كف الأجدم و كف الجذماء و كف
عائشة: گھاس کی قسمیں۔ الكف: نعمت
عند العروصين: ساتویں حرف ساکن کا
سابقہ کر دینا جیسے فاعلانن کانون۔
الكفه كف کا اسم مرة: كفة الميزان۔

الكعسم گور خرین کعاسیم
كعطل كعطلة تیز دوڑنا بیدہ انگڑائی
لینے میں ہاتھ پھیلانا۔
الكعيط و المكعظ پستہ قدم موٹا مرد۔
كعطل كعطلة تیز دوڑنا آہستہ دوڑنا۔
بیدہ انگڑائی لینے میں ہاتھ پھیلانا۔
الكعك: ایک۔ واحد كعكة: ج
كعكات (دو ذیل)
تكعل التمر و نحوه: ایک دوسرے کے
ساتھ گتھا ہوا ہونا۔

الكعل: بجیل المذار۔ پانخانہ گوہر (د)
الكعل الكلاب پستہ قدم مرد۔
المكعل غصه سے پھولا ہوا۔ چوتروں کو
حرکت دینے والا۔

كعم (ف) كعمنا الوعاء: برتن کا منہ
باندھنا البعير: اونٹ کو تھو تھنی لگانا
الخوف فلانا: ہٹانا المرأة: عورت کا
بوسہ لینا۔
الكعم: ہتھیار کا گیس۔ نیام۔ ج كعام
الكعام: كعم و الكعامه: تھو تھنی جس
سے اونٹ کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ کھا
اور کاٹ نہ سکے۔

كعموم الطريق: راستہ کے دہانے۔
بعير مكعوم: تھو تھنی چڑھایا ہوا اونٹ۔
اكعن الرجل: ست ہونا۔ نشاط میں کمی
ہونا۔
تيس مكعب القرن: پیچیدہ سیگ والا
برک۔

تكعش الطائر: پرندہ کا چال میں پھنسنا۔
فلان في الشئ: مستغرق ہونا۔
كعا يكعو كعوا: بزدل ہونا۔
الكاغی: نا۔ ٹکست خوردہ۔
الاکعاء: بزدل لوگ۔
الکعوة: وہ جو کفایت کرے۔
الكاغد و الكاغذ: کاغذ۔
الكاغدی: کاغذ بیچنے والا۔
كف (ن) كفا و كفافه: الثوب: لنگر

جمع ہونے
الکعبرة: سخت گرہ دار بڑی۔ بند دست۔
گوشت کا ٹکڑا۔ ہر جمع شدہ چیز۔ سر کی جڑ۔ موٹا
سرین۔ گیہوں کا کوڑا کرکٹ جو صاف کرتے
وقت چھینک دیا جائے۔ پانخانہ جو اونٹ کی دم پر
خشک ہو جائے۔ کعبرة الکفیف: موٹے ہا کے
گول حصہ۔ کعبرة الوظيف: بیڑی کے نیچے
حصہ کے ملنے کی جگہ۔ ج کعابیر۔ الکعابیر:
بڑوں کے سرے۔
الکعبورة: گرہ۔ جمع شدہ۔ غلہ میں سے جو
چھینک دیا جائے۔ ج کعابیر۔
أكعت الرجل: تیز چلنا۔ بیٹھنا۔ غصہ سے
پھولنا۔

الكعت پستہ قدم مرد۔ مونث كعنته۔
الکعنة: شیشی کا سر بند۔
كعتر: تیز چلنا۔ تیز دوڑنا فی منسبه: مستانہ
چال چلنا۔ چلنے میں لڑکھانا۔
الکعتر: چڑیا کی مانند ایک پرندہ۔
الکعد: گول۔
الکعدہ: شیشی کا سر بند۔
الکعذب: فرومایہ۔ بے مروت مرد۔
الکعدبة: پانی کا بلبلہ۔

كعور (س) كعورا الصبي: پر شکم ہونا۔
موٹا ہونا۔ صفت كعور: كعور البطن: پیٹ
بھرنا۔ موٹا ہونا۔ (و كعور و كعور) البعير:
اونٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔
كعور يكعور كعورا: نلامت کرنا۔
الکعور: کوہان۔

الکعورة: عدد دو کے مانند گوشت میں گرہ دار
چربی۔
الکعورة: بڑی ناک والا۔
كعور (ف) كعورا: انگلیوں سے چننا۔
الکعس: ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی بڑی۔
گائے اور بکری کے پائے کی بڑی۔ ج کعاس۔
كعسب كعسبة الرجل: دوڑنا۔ بھاگنا۔
تیز چلنا۔ مستانہ چال چلنا۔ چلنے میں لڑکھانا۔
كعسم كعسمة: پیٹھ دے کر بھاگنا۔

کے آخر کو روی کے بدلنے سے یا کسی اور طریقہ سے خراب کر دینا۔

كُفًّا فِي مَشِيئِهِ لِزُكْرَانًا۔

انکفأ الإناء: برتن کو جھکانا پلٹ دینا۔

الابلُ أوتونونٌ كواثمٌ ذالٌ کرلے بھگانا۔

تَكَافَأَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے برابر ہونا۔

انكفأ القوم: متفرق ہونا واپس ہونا۔

فكست كھانا الی كذا: جھلکانا اللیل: متغیر ہونا زنگ بدلنا۔

استكفأ فلاناً ابلاً: ایک سال کی اونٹوں کی

پیدائش کسی سے مانگنا کہا جاتا ہے "استكفأته

ابلاً فاكفأنيها" یعنی میں نے اس سے اس

کے اونٹ کی ایک سال کی پیدائش کو مانگا تو اس

نے مجھے دودھ "أون" بچے سب دیدیے

"استكفأت فلاناً" برتن کی چیز کو اپنے

برتن میں اتر پینے کو میں نے کہا۔

الكفأ والكفأة: برابری۔ مساوات۔

الكفأ: مصدر كافأ کہا جاتا ہے "الحمذ

لله كفأ الواجب" جتنی حمد واجب ہے اس

کے برابر اللہ کے لیے حمد ثابت ہے۔ "وهذا

كفأ" یہ اس کے مثل ہے "ولا كفأ

له" اس کی کوئی نظیر نہیں۔ كفأ البيت:

خیمہ کے اوپر سے نیچے تک کا پردہ جو آخر میں

لگایا جاتا ہے۔ ج كفأة۔

الكف والكف والكف: مثل ونظير۔ ج

انكفاء وكفأة۔

الكفور والكفوء والكفئ والكفينة:

مماثل۔

الكفأة والكفأة من النخل: درخت خرما

کی ایک سال کی پیدوار فی الابل: ایک سال

کی پیدائش یا ایک سال یا اس سے زائد کے نافع

کے بعد کی سالانہ پیدائش فی الأرض: سال

بھر کی کھیتی۔ تم کہتے ہو "منحتہ كفأة

غنمی" جبکہ تم ایک سال کے لیے دودھ

صوف بچے سب دے دو اور اختتام سال پر

بکریوں کو وہ چھہیں واپس کر دے۔

الكفئ: مماثل۔ بطن وادی۔ کہا جاتا ہے

طار الرزق في كفاف السحاب، یعنی

بارش کے کناروں میں بجلی کو ندی "و جنته في

كفاف الليل" میں اس کے پاس رات کے

ابتدائی حصہ میں آیا۔

الكفاف: من الشئ: گھیرا من الثوب:

کپڑے کی گوث۔ كفاف السيف: تلوار کی

دھار كفاف السحاب: بارش کا کنارہ۔

بادل کا نچلا حصہ۔ ہر وہ جو کسی چیز کے ملنے کی

جگہ ہوتی ہے۔ وہ کفاف ہے مثلاً كفاف

الأذن: ج اكففة

الكاف: فـ ج كففة۔ و واقفة كفاف:

بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی

اوتنی۔ زجل كفاف: اپنے نفس کو روکنے

والامر۔

الكافئة: كاف كأمث۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے

"جاء الناس ككافئة" یعنی سب آئے۔

(اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کی

اضافہ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ حالت کی بنا پر

منصوب رہتا ہے) الكافئة: بوڑھی اوتنی۔

الكفوف من النوق: بوڑھی ہونے کی وجہ

ہے گھسے ہوئے دانت والی اوتنی۔

المكافئة: ایک دوسرے کو روانا۔

المكفوف ج مكافيف والكفيف:

اندھا۔

المستكف: گول۔

المستكفات: جشمے۔ اکٹھے اونٹ۔

كفأ (ف) كفأ بھرتا۔ فكست كھانا عن

القصد: میانہ روی سے تجاوز کرنا۔

الرجل: کسی کو دھکانا (و كفأ وانكفأ)

الإناء: برتن کو اٹھ دینا۔ اوندھا کر دینا۔

كافأ الرجل على ما كان منه: بدلادینا

فلاناً: انتظار کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ نظیر ہونا۔

برابری کرنا۔ مدافعت کرنا۔ بين القرابين

بر منجہ: ایک کے بعد دوسرے کو تیز ہمارنا۔

انكفأ: جھلکانا الإناء: برتن کو اٹھ دینا۔ جھکا

دینا۔ انكفأت الابل: اونٹ کا بہت بچے دینا۔

انكفأ البيت: گھر پر پردہ لگانا الشاعر: بیت

تراو کا پلڑا کہا جاتا ہے "زأنيته كففة كففة"

بنی برفتم و كففة كففة و كففة عن كففة

یعنی میں نے اس کو دور دور دیکھا۔

الكففة: ہر گول چیز۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو

من الميزان: تراو کا پلڑا من الدف:

ڈھول کا ڈھانچہ۔ كففة الصائد: شکاری کا

جال۔ ج كفف و كفاف: الكففة

الجنوبية والكففة الشمالية: دو ستاروں

کے نام۔ اور کہا جاتا ہے "الذهب بالذهب

والكففة بالكففة" یعنی برابر سر برابر جنتہ

ففي كففة الليل: میں رات کی ابتدا میں اس

کے پاس آیا۔

الكففة: چیز کا کنارہ۔ حاشیہ۔ گوٹ۔ الكففة

من الشجر: درختوں کی انتہا من الناس:

لوگوں کی جماعت۔ نزدیک جگہ والے من

الغيم: بادل کا کنارہ من الليل: دن رات

ملنے کی جگہ یا مشرق میں یا مغرب میں من

البدع: زرہ کا دامن من الرمل: ریت کا

ٹیلا جو لہا اور گول ہو من الثوب: کپڑے

کے اوپر کی دھاری جس میں چھوڑ نہ ہو من

اللينة: سوڑھے کا لٹکا ہوا حصہ۔ كففة

القميص: دامن کے ارد گرد کی گوٹ۔ ج

كفف و كفاف:

الكفف: سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا من

الرزق: گزارہ کے لائق روزی فی الوشم:

گونڈنے کے حلقے۔

الكفف في الوشم: گونڈنے کے حلقے۔

گڑھے جس میں جشمے ہوں۔

الكفاف من الرزق: گزارہ کے لائق اور

لوگوں سے مستثنیٰ کرنے والی روزی۔ کہا جاتا

ہے "فؤتہ كفاف حاجتہ" یعنی اس کا

گزارہ بغیر کی زیادتی کے اس کی حاجت کے

مطابق ہے "و فلان لحمه كفاف

لا دينه" یعنی فلاں کے بدن کے گوشت سے

اس کا چھڑا بھرا ہوا ہے۔ كفاف الشئ: چیز

کے مانند۔ کہا جاتا ہے "وعني كفاف" یعنی

تو مجھے چھوڑ دے میں تجھ کو چھوڑ دوں گا "و

”هُوَ كَفَى الْوَلُونَ“ یعنی اس کا رنگ بدلا ہوا

ہے۔

كَفَى الْوَالِدَى: اندرون واوی۔

الإكفاء: مصدر أكفأ عند الشعراء:

حرف روى کو بدل بدل کر لانا۔ مثلاً کہیں میم

کہیں وال کہیں نون۔ اور یہ ممنوع ہے۔ کہا جاتا

ہے ”رأيتُه مكفَى اللبن و مكفَى النون“

میں نے اس کو شیرِ اللؤلؤ پیلا۔

كفته (ض) كفتا: پھیر دینا، اللہ: وفات

دینا۔ کہا جاتا ہے ”اللهم اكفنه اليك“ اے

اللہ اس کو وفات دے۔ كفت الشيء: الٹ

جانا (كفت الشيء الى نفسه: اپنے

ساتھ ملانا الشيء: قبض کرنا فلان ذيلہ:

دامن سینا۔

كفت (ض) كفتا و كفتا و كفتنا و

كفتانا تكفت الطائر وغيره: پرندہ کا تیز

اڑنا دوڑنا اور سٹنا: تكفت في مسيره:

دوڑنا تكفت النوب: کپڑے کا سٹنا۔

كافت مكافتة و كفتا الرجل: دوڑنے

میں سبقت کرنا الرجل: اچانک مرنا۔

انكفت: پھرنا۔ سكر بالفوس: گھوڑے کا

لاغر ہونا۔

انكفت المال: سب لے لینا۔

انكفت: من موت۔ الٹ پلٹ ہونا۔ کہا جاتا

ہے ”خبر كفت“ بے سالن کی روٹی۔

”رجل كفت“ دبلا پتلا ہلکا پھلکا مرد (و

انكفت) چھوٹی ہانڈی۔

انكفت و الكفتة من الخيل: بہت اچھلنے

کو دینے والا گھوڑا جو سوار نہ ہونے دے۔

انكفات: من چیز جمع کرنے کی جگہ۔ جمع کی

ہوئی چیز۔

انكفيت: من توشہ دان من الرجال: ہلکا

پھلکا تیز مرد۔ وہ شخص جو تم سے آگے بڑھ

جائے عدو كفتيت: تیز دوڑ۔ کہا جاتا ہے

مات كفتا و مكافتة: اچانک مر گیا۔

انكفات: اسم مبالغہ۔ شیر۔

المكفت: دو زرہوں کا پینے والا جن کے

درمیان میں کپڑا ہوا۔

كفح (ف) كفتا العدو: دشمن کے رو

در رو ہونا۔ آنے سامنے ہونا بالعصا: لاشی

سے مارنا لجاج الدابة: چوپایہ کو ٹھہرانے کے

لیے لگام کھینچنا الشيء: سرپوش اتارنا۔

المرأة: عورت کا اچانک بوسہ لینا۔

كفح (س) كفتا عنه: شرمندہ ہونا۔

بزدل ہونا۔

كافح القود اغذاء هم بغير ذوال وغيره

کے دشمن کے مقابلہ پر آنا۔ کہا جاتا ہے ”هو

يكافح الأمور“ وہ امور کو خود انجام دیتا

ہے۔ كافح عنه: مدافعت کرنا۔ كافح

المرأة: عورت کا اچانک بوسہ لینا۔

اكفح الدابة: چوپایہ کو ٹھہرانے کی لیے لگام

کھینچنا فلان عن نفسه: ہٹانا۔ دفع کرنا۔

تكافح القوم: آنے سامنے مقابلہ کرنا۔

تكافحت الامواج: موجوں کا ٹکرانا

الکباش: مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ

مارنا۔

الكفاح: من کہا جاتا ہے ”لقيته كفاحا“

میں نے اس سے آنے سامنے ملاقات کی۔

الكفحيح: نظیر۔ کفو۔ شوہر۔ اچانک آنے والا

مہمان۔

الاكفح: کالا۔

الكفحة: چھوٹی سی جماعت۔

كفتحه (ف) كفتا: طمانچہ مارنا

بالعصا: لاشی سے مارنا۔

الكفحة: جمع شدہ سفید کھن۔

رجل مكفح و عمود مكفح: مضبوط۔

كفر (ن) كفرا و كفرا: الشيء: چھپانا۔

کہا جاتا ہے ”كفر ذرعه بنو به“ اس نے اپنی

زرہ کو اپنے کپڑے سے چھپانا الليل الشيء و

على الشيء: ڈھانکنا الجهل على علم

فلان: علم پر جہل کا غالب آنا كفرا و

كفرا و كفورا و كفورا: ایمان کی ضد

بالحالقي: نفی کرنا كفرا و كفورا و

كفورا: نعمہ اللہ و بنعم اللہ: ناشکری

کرنا۔ كذا: بیزار ہونا۔

كفّر الشيء: چھپانا الرجل: کفر پر براہمت

کرنا۔ کفر کی طرف نسبت کرنا۔ کافر کہنا۔ كفّر

لذ: تعظمتا کسی کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھنا اور

سر جھکانا اللہ له الذنب: معاف کرنا۔ گناہ

ملائعن يمينه او ايمه: کفارہ ادا کرنا۔

كفّر للملك: تاج پہنایا جانا کہ جس کے

دیکھنے سے تعظیم کرنا لازم ہو۔

كافر مكافرة: فلانا حقه: انکار کرنا۔

اكفّر: طاعت اور ایمان کے بعد گناہ اور کفر

اختیار کرنا الرجل: کافر کہنا۔ کفر کی طرف

منسوب کرنا۔ کافر بنانا۔ کفر کرنے پر مجبور کرنا۔

اكفّر الرجل: دیہات میں رہنا۔

اكثفر: دیہات میں رہنا۔

الكفّر: من دور کی زمین۔ قبر۔ چھوٹی لاشی

مٹی۔ الكفّر: دیہات۔ رج کفور (والکفّر

والكفرة) رات کی تاریکی۔

الكفّر والكفوران: ضد ایمان۔ الكفوران:

ناشکری۔ الكفّر: فارسیوں کا اپنے بادشاہ کی

تعظیم کرنا۔

الكفّر والكفوى والكفوى والكفوى

کھجور کے ٹھونے کا غلاف۔ الكفّر: پہاڑ کی

گھائیاں واحد كفورة۔

الكفّر من الجبال: بڑا پہاڑ۔

الكافر: فاللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے

والا۔ رج كافرؤن و كفرة و كفتار۔ و

كفتار (كفتار اس کافر کی جمع میں اکثر استعمال

ہوتا ہے جو ضد مومن ہے اور كفرة کا استعمال

اکثر اس کافر کی جمع میں ہے جو بمعنی ناشکر

گزار ہے۔ الكافر: تاریک رات۔ سمندر۔

بڑی واوی۔ کالا بادل۔ تاریکی۔ کھجور کے ٹھونے

کا غلاف۔ بڑا دریا۔ زرہ۔ وہ شخص جس نے زرہ

کو اپنے کپڑوں سے چھپا رکھا۔ دور کی زمین۔

ہموار زمین۔ نباتات۔ کاشکار۔ پھیلا ہوا۔ چھا

ہوا میٹھل کافر من الخيل: کالا گھوڑا۔

الكافرة: کافر کا مؤنث۔ رج كافرات و

كوافر: الكوافر: شراب کے مٹکے۔

چنگاری کو رکھ میں دبا دینا لُصُوف: اون کا تاتا الخُبْزَةُ فِي الْمَلَةِ: مہو بھل میں روٹی چھپانا۔ (و كَفَّنَ الْمَيِّتَ: کفن دینا۔

تَكْفَنُ بَكْدًا: چھپانا۔ الكفن: سن اور کہا جاتا ہے طَعَامُ كَفْنٍ“ بے نمک کھانا۔

الكفن: کفن۔ كَفْنٌ: کفن۔ الكفنة: ایک درخت کا نام ہے۔ اور بقول بعض ایک گھاس ہے جو زمین پر بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔

الكفنة: عمدہ زمین جو ہر چیز کو اگائے۔ کہا جاتا ہے قَوْمٌ مُكْفَنُونَ یعنی ایسے لوگ جن کے پاس نمک نہ ہو۔

الكافه: فوج کا سردار۔ اِكْفَهْرُ اِكْفَهْرًا اللَّيْلُ: رات کا سخت تاریک ہوا لِسَحَابٍ: بادل گھٹا نوپ ہونا الرَّجُلُ: تیوری چڑھا لِنَجْمٍ: ستارہ کا سخت تاریکی میں چمکانا۔

المكفهر: فاقہ ہر تہہ چیز۔ سخت اور بلند پہاڑ۔ کم گوشت۔ سخت اور بے حیا چہرہ۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ مُكْفَهْرُ اللَّوْنِ“ یعنی فلاں کا رنگ تیرگی کی طرف مائل ہے ”و فَلَانٌ مُكْفَهْرٌ“ یعنی فلاں متعجب و ترش رو ہے۔ خوشی کے آثار اس کے اندر نہیں۔

الكفو والكففة: مش اور نظیر۔ كَفَى يَكْفِي كِفَايَةَ الشَّيْءِ: کافی ہونا۔ صفت كَافٍ: كَفَى الشَّيْءُ فَلَانًا: قناعت کرنا اور دوسرے سے مستغنی ہونا تو كَفَى فَلَانًا مُؤَدِّتَهُ: کارگزاری کر دینا۔ اور کارگزاری سے مستغنی کر دینا۔ کہا جاتا ہے ”كَفَيْتَهُ شَرَّ عَدُوِّهِ“ یعنی اس کو دشمن کے شر سے بچا دیا۔ اور کفلی کے قائل پر باکی زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا“ یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت غیر سے مستغنی کر دیتی ہے۔ لفظ اللہ محلا مرفوع ہے اور شہیداً تمجید ہے۔

كافى كفاءً و مكافاة الرجل: بدلہ دینا۔

القاضي الخصم: ضامن لینا كَفَلَ زَيْدٌ عَمْرًا: مال کا ضامن ہونا۔

كفأله مكافلة: معاہدہ کرنا۔ تكفل له بكذا: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تكفل بالمال“ یعنی اپنے ذمہ کر لیا و اِكْتَفَلَ البعير: اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار کرنا كَتَفَلَ بفلان: اپنے پیچھے سوار کرنا كَتَفَلَ الشئ: پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے اِكْتَفَلُوا بِالْجَبَلِ: یعنی پہاڑ سے گزر گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔

تكافل القوم: بعض بعض کا ضامن ہونا۔ الكفل: دو چند ثواب یا گناہ پیچھے سوار ہونے والا۔ حصہ۔ نظیر۔ ضمانت۔ تیل کی گردن پر ایل کی لکڑی کے نیچے کا چھینڑا۔ اون جو پہلے اون کے گرنے کے بعد نکل آوے شخص جو گھوڑے پر بیٹھ نہ سکے اُوہ شخص جو میدان جنگ میں آخر میں رہے اور بھاگنے کے لیے مستعد رہے اُوہ شخص جو اپنے جان و مال کو دوسرے کے ذمہ ڈال دے اُوہ چھینڑے وغیرہ سے ایک گول سی چیز بناتے ہیں اور اس کو اونٹ کے کوہان پر رکھتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں آسانی رہے اُوہ چیز جو سواری اس کے پیچھے سے حفاظت کرے۔ كَتَفَلَ الكفل من الذابية: چوپایہ کا چوڑیا سرین کا بچھلا حصہ۔ كَتَفَلَ الكافل: فاقہ۔ ضامن۔ تیمم کا متولی۔ پے در پے روزے رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے نَبَاتٌ فَلَانٌ كَافِلًا“ فلاں نے اس حالت میں رات گزار لی کہ نہ تو دن کو کھانا کھایا اور نہ رات میں۔

كَفَلَ (ن) كَفَلًا و كَفَالَةً فَلَانًا: نان و نفقہ کا ذمہ دار ہونے صِيَامِهِ: لگا تار روزے رکھنا كَتَفَلَ الشئ اليه: ملانا۔

كَفَلَ (ن) كَفَلَ (س) كَفَلٌ (ك) كَفَلًا و كَفُولًا الرَّجُلُ و بِالرَّجُلِ و الْمَالُ و بِالْمَالِ: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”كَفَلَ عَنْهُ بِالْمَالِ لِعَرِيضِهِ“ اس نے قرض خواہ کی لیے مال کی ذمہ داری کی۔

كَهْلُهُ: نان و نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ كَفَلَهُ و أَكْفَلَهُ آيَاهُ: ضامن بنانا۔ كَفَلَ

كَفَلَ (ن) كَفَلَ (س) كَفَلٌ (ك) كَفَلًا و كَفُولًا الرَّجُلُ و بِالرَّجُلِ و الْمَالُ و بِالْمَالِ: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”كَفَلَ عَنْهُ بِالْمَالِ لِعَرِيضِهِ“ اس نے قرض خواہ کی لیے مال کی ذمہ داری کی۔

كَهْلُهُ: نان و نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ كَفَلَهُ و أَكْفَلَهُ آيَاهُ: ضامن بنانا۔ كَفَلَ

كَفَلَ (ن) كَفَلَ (س) كَفَلٌ (ك) كَفَلًا و كَفُولًا الرَّجُلُ و بِالرَّجُلِ و الْمَالُ و بِالْمَالِ: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”كَفَلَ عَنْهُ بِالْمَالِ لِعَرِيضِهِ“ اس نے قرض خواہ کی لیے مال کی ذمہ داری کی۔

كَهْلُهُ: نان و نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ كَفَلَهُ و أَكْفَلَهُ آيَاهُ: ضامن بنانا۔ كَفَلَ

كَفَلَ (ن) كَفَلَ (س) كَفَلٌ (ك) كَفَلًا و كَفُولًا الرَّجُلُ و بِالرَّجُلِ و الْمَالُ و بِالْمَالِ: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”كَفَلَ عَنْهُ بِالْمَالِ لِعَرِيضِهِ“ اس نے قرض خواہ کی لیے مال کی ذمہ داری کی۔

كَهْلُهُ: نان و نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔ كَفَلَهُ و أَكْفَلَهُ آيَاهُ: ضامن بنانا۔ كَفَلَ

كَفَلَ (ن) كَفَلَ (س) كَفَلٌ (ك) كَفَلًا و كَفُولًا الرَّجُلُ و بِالرَّجُلِ و الْمَالُ و بِالْمَالِ: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”كَفَلَ عَنْهُ بِالْمَالِ لِعَرِيضِهِ“ اس نے قرض خواہ کی لیے مال کی ذمہ داری کی۔

كَلْبَةُ امْرَأَةٍ جَيْسٌ كَلْبٌ امْرُؤِي.

الكَلْبَةُ: باریک پردہ۔ مجھردانی۔ ہودج کے سرے پر سرخ اون۔ ج کلب و کلابت (و) الكَلْبُ حالت۔ کہا جاتا ہے ”بَاتٌ بِكَلْبِي سُوءٌ“ یعنی بری حالت میں رات گزاری۔

الكَلْبَةُ: تھکن۔ جس کے والد اور ولد نہ ہو۔ وہ شخص جس کے لیے نسبی رشتہ دار نہ ہوں۔ کہتے ہیں ”هُوَ ابْنُ عَمِّ الْكَلْبَةِ وَابْنُ عَمِّ كَلْبَةٍ“ جبکہ قبیلہ کا تو ہو مگر قرہی نسبی رشتہ دار نہ ہو۔

الكَلْبِيُّ: کل کی طرف منسوب۔ العِلْمُ الكَلْبِيُّ: عِلْمُ النَّبِيِّ.

كَلْبِيَّةُ الشَّيْءِ: بتامہ۔ کہا جاتا ہے ”اِخَذَهُ بِكَلْبِيَّتِهِ“ یعنی تہمہ لے لیا۔

الْكَلْبِيَّةُ: ہائی تعلیمی مدرسہ جس میں مختلف علوم پڑھائے جائیں جس کو کالج کہتے ہیں۔

الْكَلْبِيَّاتُ فِي عُرْفِ الْمُنْطَلِقِينَ: وہ مفہوم ہے جو بہت افراد پر صادق ہو اور اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) جنس: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ جیسے حیوان۔

(۲) نوع: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں متحد ہوں۔ جیسے انسان۔

(۳) فصل: وہ کلی جو اعداد سے ممتاز کر دے جیسے ناسق۔

(۴) خاصہ: وہ کلی عرضی جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جیسے صاحبك.

(۵) عرض عام: وہ کلی عرضی جو ایک سے زائد حقیقت کے ساتھ ہو جیسے ماشی۔

الْاِكْتِلَابُ: عیسائی مرد حضرات کے سر پر شادی کا تاج۔ کہا جاتا ہے۔ كَلْبٌ الْكَاهِنُ العُرُوسِينَ مُتَكَلِّمًا كَاهِنٌ (پادری) نے

شادی والوں کو تاج پہنایا پس تاج والے ہوئے۔ الْاِكْتِلَابُ الذَّائِرِيُّ اَوْ الْحَلْفَةُ الذَّائِرِيَّةُ: وہ صلح جو متحدہ مزدوروں کو گھیرتی ہو۔

الْاِكْتِلَابُ: تاج۔ جو اہر سے مزین پنکاج۔ ج اَكْلَةُ وَاكْتَابِيلُ: ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔

اِكْتِلَابُ الْمَلِكِ: ناخن۔ وَاِكْتِلَابُ الْجَبَلِ: ایک قسم کی نباتات۔

اِكْتِلَابٌ: تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”بَصُرٌ كَلْبِيٌّ“ کمزور نگاہ ”سَيْفٌ كَلْبِيٌّ“ کند تلوار۔ ج کلاب۔

كَلْبًا (ف) كَلْبًا و كَلْبًا و كَلْبًا اللّٰهُ فَلَانًا: حفاظت کرنا۔ كَلْبًا بِالسُّوْطِ: کوڑے مارنا۔ كَلْبًا بَصْرًا فِي الشَّيْءِ: بار بار دیکھنا النَّجْمُ مَنَى يَطْلُعُ سِتَارَةَ كَلْبًا: طلع ہونے کا انتظار کرنا (كَلْبًا و تَلْوَنَةُ الدِّينِ: اور جنگی میں دیر ہونا۔ صفت كَالِي و كَالٌ عُمْرًا: عمر کا ختم ہونا۔

كَلْبًا و كَلْبِيٌّ (س) كَلْبًا الْمَكَانُ: سبزہ زار ہونا (وَاِكْتِلَابُ) النّاقَةُ: اُونٹنی کا سبزی کھانا۔

كَلْبًا تَكْلِيْنَا و تَكْلِيْنَا السَّفِيْنَةُ: کشتی کو کنارے سے قریب کرنا الرَّجُلُ: باز رکھنی الْأَمْرُ: غور سے دیکھنا اِلَى فُلَانٍ فِي الْأَمْرِ: آگے بڑھنا (تَكْلِيْنَا) بیعانہ لینا۔ (تَكْلِيْنَا) ہوا سے پناہ کی جگہ میں آنا فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ: بیع سلم کرنا۔

كَلْبًا مَكْلَابًا و كَلْبًا: انتظار کرنا۔ تَكْلَابًا و اسْتَكْلَابًا: الكَلْبَةُ: بیعانہ لینا۔

اسْتَكْلَابُ الْمَكَانِ: سبزہ زار ہونا۔ اِكْتِلَابًا كَلْبًا: بیعانہ لینا۔ اِكْتِلَابًا مَنَى: بے خوابی میں مبتلا ہونا اور نہ سونا۔ اِكْتِلَابًا مَنَى فُلَانٍ: پچنا۔

اِكْتِلَابًا: بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔ الْكَالِبِيُّ وَالْكَالِي: بیعانہ۔ ادھار ج کوالی و کوال۔

مَكَانٌ كَلْبِيٌّ و مَكْلَبِيٌّ: بہت سبزہ زار۔ مَوْزٌ كَلْبِيٌّ و مَكْلَبِيٌّ: مرد بیدار چشم جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ عَيْنٌ كَلْبِيٌّ: بے نیند کی آنکھ۔

اِكْتِلَابًا: بیعانہ۔ ادھار۔ الْاِكْتِلَابُ: اسم تفضیل۔ اور کہا جاتا ہے ”بَلَّغَ

اللّٰهُ بِكَ اِكْتِلَابَ الْعُمْرِ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری انتہائی عمر کرے۔

أَرْضٌ مَكْلَابَةٌ: بہت سبزہ زار زمین۔ الْمَكْلَابُ: بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔ ہر وہ جگہ جہاں ہوا سے پناہ لے سکیں۔

كَلْبُ (ن) كَلْبًا الْفِرْسُ: گھوڑے کو ممیز مارنا المزاذا: توشہ دان میں تسمہ لگانا۔

كَلْبُ (ض) كَلْبًا الرَّجُلُ: کتوں کے بھونکنے کے لیے انہیں کی طرح آواز نکالنا۔ الْكَلْبُ: کتے کا لالہ ہونا۔

كَلْبُ (س) كَلْبًا: پیاسا ہونا الْكَلْبُ: دیوانہ ہونا الرَّجُلُ: پاگل کتے کے کاٹنے سے دیوانگی والا ہونا عَلِيُّ الْأَمْرِ: حریص ہونا فِي كَذَا: امید رکھنا عَلِيُّ الرَّجُلِ: اصرار کرنا الرَّجُلُ: بغیر آسودگی کے بہت کھانا۔ دیوانہ کتے کا کاٹنا۔ دیوانہ کتے کے کاٹنے سے چمٹنا۔

غضبناک ہونا۔ فروماگی کرنا۔ الْكَلْبُ: کتے کا لالہ ہونا الْقَدُّ عَلَيَّ الْاَسِيرِ: خشک ہونا الشَّجَرُ: درخت کی سیرابی نہ ہونے کی وجہ سے پتوں کا خشک ہونا اور گزرنے والے کے کپڑوں سے الجھنا الشَّيْءُ وَالزَّمَانُ: سخت ہونا۔

تَكْلِبُ كَلْبًا الرَّجُلُ: کتے کے کاٹنے کی وجہ سے دیوانہ ہونا۔

كَلْبُ الْكَلْبِ: کتے کو سدھانا۔ كَلْبُ كَلْبًا و مُكَلِبَةُ الرَّجُلِ: کھلم کھلا دشمنی کرنا اور عینکی ڈالنا۔ كَالِبُ الْاِبْلِ: اُونٹوں کا کاٹنے اور درخت چرنا۔

اَكْتَلِبُ الْقَوْمَ: چاہے اُونٹوں والا ہوں۔ تَكَلِبُ الْقَوْمَ: کھلم کھلا آپس میں دشمنی کرنا عَلِيُّ كَذَا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَكَلَبَ النَّاسُ عَلَيَّ الدُّنْيَا“ یعنی لوگ دنیا کے بہت حریص ہو گئے۔

اسْتَكْلَبُ الرَّجُلُ: کتوں کی طرح بھونکنا۔ الْكَلْبُ: کتے کا لالہ ہونا۔ انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔

اَكْتَلِبُ: ہر ایک کاٹنے والا درندہ۔ كِتَابُ

کلاب و اکلب و حج اکالاب و کلابات الکلب: چلی کے دھرے کے سرے کا لوہا کجاوہ کے کنارہ کی میخ جس پر مسافر اپنے توشہ وغیرہ کو لٹکائے۔ دیوار میں یک لگانے کی تھوٹی۔ ٹیلہ کا کنارہ۔ تلوار کے قبضہ کی میخ۔ الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری۔ کہا جاتا ہے "الستوی علی کلب فرسہ" وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ گیا اور کہا جاتا ہے "کف عنہ کلابہ" یعنی اس نے گالی دینی اور تکلیف پہنچانی چھوڑی۔ اور فلاں بوا دی الکلب: جبکہ گھرانہ ہو جہاں وہ ٹھکانا لے سکے۔ الکلب: واوی کے پانی کی پہلی زیادتی۔ ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ کلب الماء او کلب البحر: ایک قسم کی مچھلی جو کتے سے کچھ مشابہ ہوتی ہے اور دم کی اور کان اور ناٹکیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ الکلب و کلب الحبار و الکلب الاکبر و الکلب الاصغر و کلب الراعی: ستاروں کے نام۔ کف الکلب: ایک قسم کی پھیلی ہوئی گھاس۔ لسان الکلب: ایک نباتات۔ الکلاب: کتے کے کانٹے کی وجہ سے دیوانگی۔ الکلب: کلب کا مصدر۔ کتے کی دیوانگی۔ سخت پیاس۔ ابتدائی سرما اور کہا جاتا ہے "دفعت عنک کلب فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔ الکلبۃ: کتیا کا نام۔ کلبۃ: بخار۔ الکلبتان: لوہار کا زنبور۔ دانت اٹھانے کا زنبور۔ اور اس کو کلابۃ بھی کہتے ہیں۔ الکلبۃ: سختی۔ سختی۔ قطع۔ شدت۔ سرما۔ بلیا کتے کی تھوٹھنی کے دونوں طرف کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔ الکلاب و الکلبوب: مہیز۔ آگ نکالنے کی لیے مڑے ہوئے سر کی سلاخ۔ آکس ج کلابیب: کلابیب البازی: باز کے بچے۔ کلابیب الشجر: درخت کے کانٹے۔

الکلاب و الکالب: کتے والا۔ الکلاب: کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ کے کنارہ پر کچھ لٹکانے کی لیے میخ۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے لیے لوہے کا کڑا۔ الکلاب و الکلیب: کتوں کا جنس۔ الکلب و الکلبون و الکلیب و کلبی: کتے کے کانٹے سے پوانہ۔ عام کلب: سخت اور قحط کا سال۔ دھڑ کلب: غم میں مبتلا کرنے والا اور۔ سناں کلب: بہت اصرار سے مانگنے والا ساکل۔ اور کہا جاتا ہے "هو کلب علی کذا" وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔ الکلبۃ: کلب کا مؤنث۔ خار دار درخت۔ أرض کلبۃ: أرض کلبۃ الشجر: خشک زمین۔ المشکلب: بی بیڑی پڑا ہوا قیدی۔ کلاب مشکلبۃ: سدھے ہوئے کتے۔ المشکلب: کتوں کو سدھانے والا۔ شکار پکڑنے والے جانور۔ المشکلب: دلیر۔ أرض مکسبۃ: بہت کتوں والی زمین۔ کلت (ض) کلتنا الشی: جمع کرنا کلت بہ: پھینکنا۔ کلتہ فی الإناء: برتن میں انڈیا الفرس: گھوڑے کو چلانا۔ انکلت الماء: ڈالا جانے والا۔ انقبض ہوتا۔ انکلت السماء: پینا۔ الکلبۃ: کھانے کا حصہ۔ الکلبۃ و الکلبۃ: لما پتھر جس سے بجو کے بھٹ کو بند کیا جائے۔ کلب کلبۃ فی امرہ: مدد دہت برتنا۔ سستی کرنا۔ الکلب و الکلب کاموں میں سستی کرنے والا۔ کلبم کلبۃ لحم الوجہ: بلا ترش روئی کے چہرے کا گوشت سٹنا۔ الکلب: بہادر سختی۔

الکلبج: قوی لوگ۔ کلبج (ف) کلبوحا و کلباحا و جہۃ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ صفت کلبج: کہا جاتا ہے کلبج فی وجہ الصبی او المنجنون: یعنی بچے یا مجنون کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ کلبج و جہۃ: ترش رو ہونا۔ تیوری چڑھانا۔ کلبج و جہۃ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ جہۃ: تیوری چڑھانا۔ کلبج فلانا: قوت میں مقابلہ کرنا۔ باہم سختی کرنا۔ کلبج فلانا: چاند کا بدل میں چھینا۔ منزل سے آگے نہ بڑھنا۔ کلبج الوجہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ بجلی کا کارگزار چکلا راجل: مبرکرات۔ کلبج و جہۃ: تیوری چڑھانے میں دانت نکالنا۔ کہا جاتا ہے "دھڑ کلبج" سخت اور سختی کا سال۔ کلبج: مٹی پر کسرہ: قطع زدہ سال۔ الکلبۃ: منہ اور اس کا ارد گرد۔ الکلبج: فا۔ وہ شخص جس کے ہونٹ کھلے ہوئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "دھڑ او شتاء کلبج" سخت زمانہ اور سخت سردی۔ الکلبج: قبیح۔ کلبج (ض) کلبدا و کلبد الشی: تہمت جمع کرنا۔ کلبج الرجل: موٹے گوشت والا ہونا۔ قوی ہونا۔ الکلب: سخت زمینیں۔ واحد کلبۃ۔ الکلبید: کنبی۔ (دخیل) کلبوری او حویرة: ایک گرام پانی کو گرم کرنے کے لئے سو (۱۰۰) درجہ کی حرارت۔ الکلبور: کیت نمبر علامت ایٹمی نمبر کلبورین: ۱۷ - C - L - ۳۵.۳۵۷ جسم بیض زرد سبز مائل گیس جس کی ہوا سانس روکنے والی ہوتی ہے۔ یہ زہریلا گیس ۱۹۱۵ء کی جنگوں میں پہلی دفعہ استعمال کی گئی۔ صفائی کرنے والے اور رنگوں کو مٹانے والے

المكمنة والمكمومة. سانپ کی چھری کی جگہ۔

الكمبيالة: سند یا ورق جو لکھا جائے۔

الكمبيو: نقدی سکوں کا تبادلہ

كُمْتُ (ك) كَمْتُا و كَمَاتَةٌ و كُمْتَةٌ الفرس: کیت ہونا۔

كمت (ن) كَمْنَا العَيْطُ: غصہ کو دبانا۔

كُمْتُ الثوب: کپڑے کو سیاہی مائل سرخ رنگنا۔

كُمْتُت كَمَيْتَا الخمر و الفرس و غيرهما: کیت بنا جانا۔

اَكَمْتُ و اِكْمْتُ و اِكْمَاثُ الفرس:

گھوڑے کا کیت ہونا۔

الكُمْتَةُ: کیت رنگ۔

الكُمَيْتُ مِنَ الخَيْلِ المذکور و

المؤنث (سرخ سیاہ رنگ والا۔ اور یہ خلاف

قیاس آلت کی تغیر ہے۔ ج کُمْتُت۔

الشمب: شراب۔ کہا جاتا ہے خیل

كُمَاتِي: قومہ کیت گھوڑے۔

الكُمَيْتَةُ: جڑ۔ اصل۔ کہا جاتا ہے "أخذهُ

بكميئته" یعنی اس نے اس کو مع جڑ کے لے

لیا۔

كُمْتَر: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنے والی قربتہ

مٹک کو بندھن سے باندھنا۔ السقاء مٹک

بھرنے والی قربتہ۔ پتہ قد کا دوڑنا۔

الکُمْتَر و الکُمَاتِر: موٹا۔ پتہ قد۔ سخت

مضبوط۔

كَمْتَر الشئ: جمع ہونا اور بعض کا بعض میں

داخل ہونا۔

الکُمَاتِر: پتہ قد۔

الکُمْتَرِي: الموط۔ واحد کُمْتَرَةٌ۔ ناسپاتی۔

الکُمَج: بن ران۔

الکُمَاج: اس کا واحد کُمَاجة: گول موٹی

روٹی جو عام روٹی سے بڑی ہوتی ہے۔

كَمَح (ف) كَمَحَا الذابئة: چوپایہ کو کھینچ

رکھنا۔

اَكَمَح الذابئة: چوپایہ کو کھینچ کر رکھنا۔

الکرم: پتے نکالنے کے قریب ہونا اور خوشہ

اگور نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔

اَكَمَح الرجل: بڑا بنانا یا جاننا۔

المُكَمَح: بڑا بنانا ہوا۔

كَمَح (ف) كَمَحَا بانفد: تکبر کرنا

الفرس باللجام: گھوڑے کو گام کھینچ کر رکھنا۔

اَكَمَح الكرم: پتے نکالنے کے وقت خوشہ

اگور نکلنے کی جگہ کا ظاہر ہونا۔

الکَمَاح: غرور۔ بڑا بننا۔

الکامح: سالن۔ اور بعضوں نے سرکہ کی

چٹنی کے لئے خاص کیا ہے۔ ج کوامح

(دخیل)

كَمِد (س) كَمَدَا: بدلے ہوئے رنگ والا

ہونا اور رجل: غم سے بیمار دل والا ہونا۔ صفت

کامد و کمد و کمید و کمد

الثوب: پرانے ہونے کی وجہ سے بدلے

ہوئے رنگ والا ہونا۔

كَمَد (ن) كَمَدَا و كَمَدَا القصار:

الثوب: دھوئی کا کپڑے کو کاٹنا۔ اور اسم

الکمداد ہے۔

اَكَمَد الهم فلانا: غمگین کرنا۔ اور اس کرنا۔

دل کو بیمار کرنا و كَمَد (العضو): گھور کرنا۔

سینکا۔ صفت مفعول مَكْمُود۔

الکمد و الكمد و الكمدة: رنگ کا بدلنا۔

صفا کی جا جاتا رہتا۔ غم۔ سخت اندوہ۔

الکمداد: گھور کرنا۔ سینکا و الكمدادة): گھور

کرنے کی پٹی۔

اَكَمَد اللون: بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔

الکمر: ہر وہ عمارت جس میں محراب جیسا

ہو جیسے پل وغیرہ۔

كَمَز (ض) كَمَزَا العجین و نحوہ:

گندھے ہوئے آلے کو ہاتھ سے گول بنانا۔

الکُمزرة: کھجور وغیرہ کا پچھا۔ ریت یا مٹی کا

ٹیلا۔ ج کُمز۔

كَمَس (ن) كَمَسَا: تیوری چرھانا۔

الاکمَس: جو دیکھ نہ سکتا ہو۔

كَمَش (ن) كَمَشَا النافقة: اونٹنی کے

تھن باندھنا فلانا بالسيف: تلوار سے

اعضاء کو کاٹنا لڑاؤ: توشہ ختم ہونا۔

كَمَش (س) كَمَشَا: پھرتیلا اور کپے ارادہ

والا ہونا۔

كَمَش (س) كَمَاشَةٌ: دلیر ہونا۔

كَمَشَت المِزاة: چھوٹے پستان والی ہونا

(و اَكَمَش) فِي السَّيْرِ و غیرہ: تیز چلنا۔

اَكَمَش بالنافقة: اونٹنی کے پورے تھن کو

باندھ دینا۔

كَمَش الحادی بالسوق: حدی پڑھنے

والے کا کوشش سے ہانکھلانا: جلدی کرنا

ذيلة: دامن سینکا۔

اِنكَمَش و تَكَمَش الرجل: دوڑنا۔

تَكَمَش الجلد و نحوہ: سکرنا۔

اِنكَمَش الثوب بَعْد الغسل: کپڑے کا

دھونے کے بعد سکرنا: سٹنا۔

الکَمَش و الگَمَش و الگَمِيشُ مِنَ

الرجال: پھرتیلا۔ کپے ارادہ والا۔ عرب کے

امثال سے ہے "کَمِيشُ الازار" ازار سیننے

والا۔ یعنی پھرتیلا۔

الکَمَش و الگَمُوش و الگَمِيشة

و الگَمِيشة مِنَ الاناث: چھوٹے تھن یا

پستان والی۔

الاکَمَش: چھوٹے قدم والا جو دیکھ نہ سکتا

ہو۔ مؤنث کَمَشَاء ج کَمَش.

كَمَع (ف) كَمَعَا فِي الاناء: برتن میں

منہ لگا کر پی پھرانے الذابئة: چوپایہ کی ٹانگیں

کاٹنا۔

فِي المَاء: پانی میں اترنا۔ كَمَعَت الذابئة:

آہستہ چلنا۔

كَمَعَا: ملانا۔ ہم بستی کرنا۔

اِكْتَمَع الاناء: برتن میں منہ لگا کر پینا۔

اِكْتَمَع اترنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فلان

فِي كَمَعه" یعنی فلاں اپنے گھور اور اپنی جگہ

میں ہے۔ وادی کا گوشہ۔ قبلہ پست زمین

(و الگَمِيع) ہم خوابہ۔

الگَمَع: ران کی گروہ۔

المُكَمَع: فـا۔ اپنے قریب جس سے کوئی

المستعمل
کتاب (ن) کُنُوْنَا الرَّجُلَ نَحْتًا هُوَا۔
فقہوں کے بعد مال دلا ہوا ہوتا ہے۔
کتاب (ض) کُنِيَ الشَّيْ فِي جِرَابِهِ جَمْعُ
كِرْتٍ ذَخِيرَةٌ كَرْنَا۔ كُنِيَ الْبَيْدُ هَاتِمًا كَامِ كَرْنِ
سے نخت ہونا۔ الشَّيْ وَالْبَيْدُ نَحْتٌ هُوَا
لِسَانُهُ زَبَانُ رِكْنًا عَلَيْهِ بَطْنُهُ نَحْتٌ هُوَا۔
الکتاب فَا۔ حکم میر۔
الکتاب نس۔ کام کرنے سے ہاتھ کی نختی۔
الکتاب خوش خرم۔
الکتاب نکت درخت۔
الکتاب عالم صیغہ
المکتب والمکتب مکتوبہ والہ جس
کے ہاتھ عمل کی وجہ سے نخت ہو گئے ہوں۔
حافر مکتب و مکتب نخت کھر۔
المکتب مرد پتہ قدم نخت بدن والا۔
کُنِيَ وَ تَكْنَيْتُ الرَّجُلَ سَكْرًا۔
رَجُلٌ كُنَيْتُ وَ كُنَيْتُ بِطْنِهِ بَدَنُ كَامِرِدٍ
مضبوط وقوی مرد۔
الکتابات گرنے والی ریت۔
وَجْهٌ كُنَيْتُ بِرُؤُوسِهِ۔
رَجُلٌ كُنَيْتُ بِرُؤُوسِهِ۔
الکتاب ہاک کامو سار۔
تَكْنَيْتُ الْقَوْمَ غُلُوبًا هُوَا۔
الکتابوش و الکتابوش عرق گیر۔ منہ
چھانے کا برقع۔ ج کتابیش (دخیل)
کُنَيْتُ (ن) کُنَيْتُ فِي خَلْفِهِ مَضْبُوطٌ هُوَا۔
قوی ہونا۔
کُنَيْتُ (س) کُنَيْتُ السَّقَاءَ مَكَّكَ كَاهِرًا
اور نخت ہونا۔
اَكْنَيْتُ الرَّجُلَ خَضُوعًا كَرْنَا۔ راضی ہونا۔
سقاء کینت پانی روکنے والی مٹک جس میں
پکے نہیں۔
الکونث غزت داروں کا لقب جس کا معنی
امیر یا عزت دار آدمی (لا تینی لفظ)

الکثیر الوفا
دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا یا بھی
معاہدہ کسی کام یا امر مخصوص شرائط کے ساتھ۔
معاہدہ کو توڑنا۔
الکثی قوی مضبوط۔
كُنَيْتُ كُنَيْتُ اللَّحِيَّةَ
داڑھی طویل اور
کھنی ہونا۔ كُنَيْتُ اللَّحِيَّةَ وَ كُنَيْتُهَا لِبِي
رجل
داڑھی والا مرد۔ كُنُوْنَا النِّعْمَةَ نَعْتٌ كِي
کند (ن)
نا شکر کرنا۔ كُنَيْتُ الشَّيْ كَانًا۔
کند (ن)
الکندہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا۔
الکندہ نا شکر (مذکورہ نمونہ)
الکندود نا شکر۔ بجیل۔ گنہگار۔ خدا کو
ملامت کرنے والا۔ نعمتوں کو بھولنے والا اور
مہربان کو شکر کرنے والا (مذکورہ نمونہ)
ارض کُنُوْنَا شَيْئًا نَهَّ كَانَهُ وَالِي زَمِينِ۔
الکنداد ہاشکر۔ بہت کائے والا۔
الکندر ایک خاردار درخت کا گوند۔ مضبوط
بناوٹ والا۔ اور جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے
"قَفِيانٌ كُنَادِرَةٌ" مضبوط بناوٹ کے جوان۔
الکندرۃ باز کے بیٹھے کی جگہ۔ نخت واوچی
زمین۔
الکندرۃ جوتیوں کی ایک قسم
الکندار پھر (دخیل)
الکنداری ایک خوش الحان پرندہ ہے جس
کے بازو کے اگلے پر لے ہوتے ہیں۔ اور اس کا
رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور جزائر خالدات
میں پایا جاتا ہے۔
الکندارة و الکندارة بربط یا ذھول یا ذفج
کناہیر و کناہرات۔ الکندارة سنان کے
کپڑے کا ٹکڑا۔
کند (ض) کُنَيْتُ الْمَالَ جَمْعُ كَرْنَا۔ ذخیرہ
کرنا۔ زمین میں دفن کرنا الرَّمْحُ نِيْزَةٌ كَوْزَمِينِ
میں گاڑنا الشَّيْ فِي وَعَاءٍ اَوْ اَرْضٍ بَرْتَنِ
یا زمین میں ہاتھ سے دبانا السَّقَاءُ مَكَّكَ بَهْرًا
(کنازا و کنازا) التمر خرما کو سردی کے

زمانہ کے لئے ذخیرہ کر کے رکھنا۔
اَكْنَيْتُ بَهْرًا جَمْعُ هُوَا اللِّحْمُ جَمْعُ هُوَا اَوْ
نَحْتٌ هُوَا الشَّيْ فِي الْوِعَاءِ بَرْتَنِ مِثْلُ هَاتِمًا
سے بنا۔
تَكْنَيْتُ لَحْمًا مِثْلُ كَرْنَا كَانًا هُوَا اَوْ نَحْتٌ
ہونا گوشت کا گٹھا ہونا۔
الکند مص ہر ذخیرہ کی ہوئی قابل رغبت
چیز۔ زمین میں دفن کیا ہوا مال۔ جس میں مال
مخفوظ رکھا جائے جیسے صندوق وغیرہ۔ ج
کنوز اور کہا جاتا ہے
یعنی بھر دیا۔
رَجُلٌ كُنَيْتُ اللَّحْمَ وَ كُنَيْتُهُ وَ مَكْنُوزَةٌ وَ
مَكْنُوزَةٌ فِيمَا اَوْ نَحْتٌ كَرْنَا اَوْ كَرْنَا
ہے "کتاب مکتب بالفوائد" نوآر سے
بھری ہوئی کتاب۔
الکناز بھجور یا گیہوں ذخیرہ کرنے کا وقت۔
الکناز ٹھوس اور مضبوط گوشت والا کہا جاتا
ہے "جَارِيَةٌ اَوْ نَاقَةٌ كُنَازٌ" بہت اور ٹھوس
گوشت والی لونڈی یا اونٹنی۔ ج کُنَزٌ وَ كُنَازٌ
الکناز بھجوریں جو سردی کے زمانہ کیلئے جمع
کی جائیں۔
الکناز مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے
والا۔
المکنز جس میں ذخیرہ کیا جائے ج
مکانز۔
کنس (ن) کُنَسَا وَ كُنَسَ الْبَيْتَ مَهْرًا
میں جھاڑو دینا اور کہا جاتا ہے "کُنَسَ فِي
وَجْهِ فُلَانٍ" اس نے فلاں سے ٹھٹھا کیا
"وَمَرَّ بِهِمْ فَكُنَسُوهُمْ" وہ ان کے اوپر
گزرے اور ان کی جڑ مٹادی۔
کنس (ض) كُنُسًا وَ تَكُنَسُ الطَّنِيَّةُ
ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ تَكُنَسُ
الرَّجُلُ خَيْدًا مِثْلُ دَاخِلٌ هُوَا۔ تَكُنَسَتْ
المرأة عورت کا بوندہ میں داخل ہونا۔
اَكْنَسَتْ الطَّبَّاءَ وَالْبَقْرَ بَهْرِيَّوْنَ كَا يَا
گائے کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔
الکناسة کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ کی جگہ۔

الکینس۔ توہا۔ یہودیوں کی عبادت گاہ۔

الکینسۃ۔ عِنْدَ النَّسَارَى: گرجا۔ اور نصاریٰ اپنے مذہب کے موثین پر بھی بولتے ہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہ۔ ج کنائس۔

الکینسۃ: خوبصورت عورت۔
الکیناس۔ ہرن کے پناہ لینے کی جگہ۔ ج اکنسۃ و کُنس۔

الکس۔ ف۔ ہرن جو اپنی پناہ کی جگہ میں داخل ہو ج کُنس و کُنوس و کُنوانس "و الجوارى الكُنس" ستارے یا نیل گائیں یا ہرنیاں۔

الکُناس۔ بھنگی، جھاڑو دینے والا۔
المکُنسۃ۔ جھاڑو۔ ج مکائس۔

المکائس۔ ہمیشہ پناہ گاہ میں رہنے والا۔
المکُنس۔ وحشی جانوروں کے گرمی کی وجہ سے چھپنے کی جگہ۔

کُنس (ن) کُنسۃ النَّوْب: کپڑے کے کنارے بنا المسوآلک الخشین: مسواک کا سرانزم کرنا۔

اکنسۃ عن الأمر: جلدی کرنا۔
الکُناسۃ: بیاض جس میں مفید اور نادر باتیں لکھی جائیں۔

الکُناسۃ: جزیں جن سے شائیں پھوئیں
واحد کُناسۃ۔

الکُنسۃ من الرجال: چھوٹے چھوٹے گھنگھریالے بال والا بدصورت مرد۔

کُنص۔ گھنٹھالے ناک کو حرکت دینا۔
الکُناص۔ قوی اُونٹ گدھے وغیرہ۔

کُنظ (ن ض) کُنظا و تَكُنظُ الأمرُ فَلَانًا: غمگین کرنا۔
الکُنظۃ: غم۔ بھینچ دیاؤ۔

کُنع (ف) کُنوعًا: سستا عن الأمر: بزدل ہونا اور بھاگنا النجم: ستارے کا غروب ہونے کی طرف مائل ہونا ایہ: فروتنی کرنا اور نرم ہونے کا لالچ کرنا۔ باللہ: اللہ کی قسم کھانا

الأمر: قریب ہونا المسک بالنوب: متدبر کپڑے سے چپ۔ العقاب: عقاب کا

ٹوٹ پڑنے کے لیے بازوؤں کو سیکھا صابغۃ: انگلیوں کو مار کر خشک کرنا۔

کُنع (س) کُنعًا: خشک ہونا۔ سکرنا۔ صفت کُنع و کُنع الرجل: پچھاڑا جانا الشی: لازم ہونا اور ہمیشہ رہنا۔

کُنع الشی: قبضہ کرنا یدہ: ہاتھ خشک کرنا اور مثل کرنا فَلَانًا بالسَّیف: بدمس پر توار مارنا عنہ: علیحدہ ہونا۔

اکنع: فروتنی کرنا نرم ہونا۔ ذلت کے قریب پہنچنا۔ سوال کرنا العقاب: عقاب کا ٹوٹ پڑنے کے لیے بازوؤں کو سیکھا۔ القوم: اکٹھا ہونا لایل: اُونٹوں کو قریب کرنا۔

تکُنع: قلعہ بند ہونا لا یسیر فی قَدہ: تسمہ سے باندھا جانا بہ: چمٹنا۔

اکنع: حاضر ہونا۔ قریب ہونا علیہ: مہربان ہونا القوم: اکٹھا ہونا۔ فَلَان مَنی: قریب ہونا۔

الکناع۔ ف۔ وہ جو قریب ہو۔ جو چھوٹا ہو۔ جو بعض بعض سے قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَنف کناع" چھٹی ناک "السیر کناع" تسمہ سے بندھا ہوا قیدی رجل کناع وہ شخص جو جمع ال و عمال کے تمہارے پاس آئے اور تمہارے فضل و احسان کا طامع ہو۔

الکینع۔ سکرنا۔ راستہ سے ہٹا ہوا۔ لوٹے ہوئے ہاتھ والامن الخوع: سخت بھوک۔

الکناع: مرض کی وجہ سے ہاتھ بیروں کا چھوٹا ہونا گویا کہ کٹا ہوا یا مڑا ہوا ہے۔

الأکنع و المکنع و المکنع مثل شدہ ہاتھ والا۔ و الاکنع من الأمور: ناقص۔ اور سور۔ ج کُنع ید مکنعۃ: مثل ہاتھ۔

المرکونع: سب دونوں ہاتھ کٹا ہوا۔
کُنف (ن) کُنفا الشی: حفاظت کرنا۔ اپنے میں ملانا الإبر: للذلیل: اُونٹوں کے لئے بازو بنانا عنہ: علیحدہ ہونا الذار: گھر میں پانخانہ بنانا ید: پائی وغیرہ لینے کے لئے ہاتھوں کو ملانا فَلَان عن الأمر: روکنا۔

کُنف و کُنف و کُنف الرجل: مرد

کرنا۔ اعانت کرنا۔

کُنف الرجل: احاطہ کرنا۔ گھیرنا۔

اکنفف: اُونٹوں کے لئے بازو بنانا (و تَكُنَّف) القوم فَلَانًا: احاطہ کرنا۔ و اکنفف القوم: پانخانہ بنانا۔

الکُنف: تاجریا چرواہے کے سامان رکھنے کا برتن۔

الکُنف: جانب۔ سایہ۔ پردہ کا بازو۔ ج اکناف: و کُنف الانسان: پہلو۔ یادوتوں بازو اور سینہ۔ کہا جاتا ہے "أنت فی کُنف اللہ" تم اللہ کے حفظ و امان میں ہو (و الکنفۃ) گوشہ۔

الکینف: پردہ۔ پردہ کرنے والا۔ ڈھال۔ جانوروں کا بازو۔ پانخانہ۔ دروازہ کا چھجھ۔ ج کُنف و کُنف۔

الکنافۃ: روکنے والا۔ کہا جاتا ہے رجل مکنف اللخية: بڑی داڑھی والا مرد۔ دراز ریش مرد۔

الکنفرة: ناک کا بانہ۔
الکنفروا: ٹھٹھے پانی میں تیزی سے پھینکنے والی بوٹی جو کہ بزرگ میں تہ بہ تہ ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔

رجل کنفیل اللخية: بڑی داڑھی والا مرد۔ لخية کنفیلۃ: بڑی داڑھی۔

اکنۃ و اکننۃ الشی: حقیقت کو پہنچانا۔ اکنۃ اصل شنی: حقیقت شے۔ جو ہر شے غایت۔ اکنۃ: وقت۔

کنا یکنو و کنی یکنی کنایۃ بالشی عن کذا: کنایہ کرنا۔ لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا ارادہ کرنا۔ مثلاً تم کہو "زید کثیر الرماذ" اور مراد لو کہ زید کریم ہے۔ تکلم کو کان اور لفظ کو مکنی عنہ کہتے ہیں۔

کنی یکنی کنیۃ و کنیۃ و کنی تکنیۃ و اکنی اکناء: زید انا فَلَان و کناہ و کناہ بابی فَلَان: کنیت رکھنا۔

تکنی تکنیۃ و اکنتی اکنسۃ بکذا: اپنا کنیت رکھنا۔ و تکنی الرجل: مشہور ہونے

کھنٹ (ف) کھنٹا۔ الشدائد فلانا: خوف دلانا۔ آگے بڑھنے سے بڑول بنانا۔ کھم (س) و کھم (ک) کھامۃ و کھومنا کزور ہونا السیف مند ہونا۔ کھم (ک) و کھم (ف) کھامۃ و کھم (ر) لڑائی اور مدد سے سستی کرنا۔ کھم بصرة: نگاہ کمزور ہونا۔ الکھام و الکھم۔ ست۔ عمر رسیدہ جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ اور جمع کی صورت میں بھی "قوم کھام" کہا جاتا ہے۔ کھمس الرجل: چلنے میں دونوں پاؤں کو قریب قریب رکھنا۔ چلنے میں غبار اڑانا۔ کھمس شیر۔ بھیرنا۔ بد صورت پرستہ قد مرد۔ الکھمیل ایسا شخص جس کی صحبت کو لوگ پسند نہ کریں۔ کھن (ف۔ ن) کھانۃ و تکھن تکھنا و تکھنا لفلان: غیب کی باتیں بتلانا۔ کھن (ک) کھانۃ کا بن ہونا یا کہانت طبیعت ثانیہ بن جانا۔ کھن مکھانۃ: عطا کرنا۔ ایک دوسرے کو مدد دینا۔ میل ملاپ کرنا۔ الکھانۃ کا بن کا پیشہ۔ الکھنوت: کا بن کا فریضہ۔ کا بن کی تنخواہ۔ کا بن کا درجہ۔ الکاهن: فا۔ غیب دانی کا داعی عند الیہود و عبدة الأوثان پر وہت عند النصارى: جو کہوت کے درجہ پر ہوج کھنۃ و کھنۃ الکاهن: دوسرے کے کام کا متکفل اور کوشش کرنے والا۔ کھنی یگھنی کھنی: چہرے پر جھامیں والا ہونا۔ گندہ ذہن ہونا۔ بڑول کمزور ہونا۔ کھنی مکھاۃ الرجل باہم فخر کرنا۔ کھنی: اگھنی: اگھنیوں کے اطراف۔ کھنی سانس سے گرمی پہنچانا عن الطعام بازرہنا۔ کھنہاء اکھنہاء: تعظیم و اجلال کرنا۔ الاکھنی: چہرے میں جھامیں والا۔ گندہ

الکھرباء و الکھرباء: ایک درخت کا گوند ہے کہ اس کو رگڑ دیا جاتا ہے تو تنکاو وغیرہ کو کھنچ لیتا ہے (دخیل) اصل میں کاہر ہوتا۔ یعنی گھاس کولے جانے والا۔ الکھرباء: بجلی۔ الکھربانیۃ و الکھربانیۃ: بجلی کی قوت۔ تکھف الجبل غاروں والا ہونا۔ اکھف غار میں داخل ہونا۔ الکھف: کھو۔ غار (غار اور کھف میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کھف وسیع) جائے پناہ۔ ج کھوف۔ الکھفم و الکھکامۃ: بیگن۔ عمر رسیدہ بڑھا۔ خوفناک مرد۔ کھکۃ: المفروز سردی زدہ کا سانس سے ہاتھوں کا گرم کرنا الأسد و العیور: کھکۃ کی آواز کاننا الشی گرم ہونا۔ تکھکۃ: عنۃ ضعیف و کمزور ہونا۔ الکھکھکۃ: سر گرمی۔ شیر یا اونٹ کی آواز کی نقل۔ الکھکھاء و الکھکھاء: کمزور۔ خوفناک۔ کھل (ف) کھولنا و کھل (ک) کھولنا: ادھیڑ عمر کا ہونا۔ کھل مکھالۃ الرجل شادی کرنا۔ ادھیڑ عمر کا ہونا۔ اکھل: ادھیڑ عمر کا ہونا (و تکھل) النبات پوری لمبائی کا ہونا۔ الکھولۃ و الکھولۃ: ادھیڑ بن۔ الکھل: ادھیڑ عمر کا۔ تمیں سے پچاس سال تک کی عمر والا۔ ج کھولون و کھول و کھال و کھلان و کھل۔ الکھلۃ: کھل کا مؤنث ج کھلات و کھلات۔ الکاهل: فا۔ گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ۔ ج کھواہل: کھال القوم: قوم کا معتد۔ کہا جاتا ہے "فلان شایذ الکاهل" فلاں صاحب شوکت و قوت ہے۔ الکھول و الکھول: کمزوری۔ الکھولول: بہت ہنسنے والا۔ مرد فیاض۔

کیلے اپنی کیفیت بیان کرنا۔ چھینا۔ الکئیۃ و الکئیۃ و الکئیۃ و الکئیۃ: وہ نام جو کسی کی تعظیم یا علامت کیلئے بولا جائے وہ نام جو۔ اب۔ ابن۔ ام یا بنت سے شروع کیا جائے۔ ج کئی و کئی۔ الکئیۃ: س۔ اور اصطلاح میں کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ شئی معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے جس کی دلالت اس پر صریح نہ ہو اور ایسا کسی غرض کے لئے کرتے ہیں۔ مثلا سامعین سے بات کو مبہم رکھنا۔ الکئیۃ: فاج کئیۃ و کئیۃ۔ الکئی: ہم کئیۃ۔ کہا جاتا ہے "ہو کئیۃ" یعنی دونوں کیلئے ایک کئیۃ ہے۔ جیسے تم کہتے ہو "ہو سببۃ" یعنی دونوں ہم نام ہیں۔ کھب (س) و کھب (ک) کھبنا و کھوبنا سیاہی مائل بھورا ہونا۔ صفت کھب و اکھب۔ اکھب اکھبنا: لونه بزم متغیر ہونا۔ الکھبۃ سیاہی مائل بھورا رنگ۔ رجل اکھب اللون: متغیر رنگ والا۔ کھذ (ف) کھذا و کھذنا الحمار: گدھے کا دوڑنا الحمار: گدھے کا دوڑنا الرجل: جھکتا فی الطلب: اصرار کرنا۔ اکھذ: تھکنا فلانا: تھکانا۔ الکھذ: س۔ مشقت۔ الکھذاء: باندی۔ لونڈی۔ کہا جاتا ہے آتان کھوذ الیدین تیز رفتار گدھی۔ الکھذل: جوان موٹی عورت۔ بڑھیا۔ کمزوری۔ نوجوان لڑکی۔ کھز (ف) کھزا فلانا: محارت سے ترش روی سے پیش آنا۔ جھڑکنا۔ تھر کرنا۔ قوم سسر داماد کا تعلق کرنا النھار: دن کا بلند ہونا الرجل: ہنسا الحزبگری تیزی ہونا۔ الکھزور و الکھزورۃ: ترش روی جو لوگوں کو جھڑکے۔ ج کھزیر: الکھزورۃ: ترش روی۔ کھزب الشی: قوت کھربانیہ بھرتا۔

ذہن۔ بزدل و کمزور۔ الأکھبی بے شکاف کا پتھر۔

الأکھباء شرفاء۔

کاء یکوء کوءاً و کاءوا عنه خوف کرنا۔ بزدل ہونا۔

اکائہ اکاءً و اکائۃ کسی کام پر اچانک پہنچنا اور پھر خوف سے چھوڑ دینا۔

الکاء و الکائۃ و الکئی و الکئیۃ کمزور دل والا۔ بزدل۔

کتاب یکتوب کتوباً و اکتاب۔ بے دستہ کے کوزہ سے پینا۔

کتوب الشئی بے سے کوٹنا۔

الکتوب۔ بے دستے کا کوزہ۔ ج اکواب۔

الکتوبۃ فوت شدہ پر حسرت و افسوس۔

الکتوبۃ شطرنج۔ نرد۔ ڈگڈگی۔ بربط۔ دوا وغیرہ پینے کا ٹاپا۔

کتوف الرزخ چارپانچ پتوں والی ہوتا۔

الکتوف۔ جوتا۔

الکتوفۃ فرخ سال۔

تکتوفو العبار زیادہ اور تبتہ ہونا۔

الکتوفو بہت اور تبتہ بہت اور تبتہ بہت غبار۔ بہت برفانیض سردار۔ جنت کی ایک نہر۔

الکتوفل و الکتوفل۔ جہاز کا پچھلا حصہ۔

کاحہ یکوحہ کوحاً و کوحہ و کواوحہ مکاوحہ و اکاحہ اکاحۃ لڑائی

میں غالب آنا۔ کاح الشئی پانی میں ڈوبنا۔ مٹی میں دبانا۔ کوحہ غالب بنانا۔ کوح فلاناً ذلیل کرنا۔ رد کرنا۔ کوح الزمام البعیر: مغلوب کرنا۔ کواوحہ: گالی گلوچ کرنا۔ اکاحہ: ہلاک کرنا۔

تکواخ الریحلان باہم جنگ و جدال کرنا۔ الکاخ و الکیخ دامن کوہ۔ ج کئوح و اکئیح۔ کہا جاتا ہے "رُجع الی کوحہ" یعنی پہلے اس نے کچھ بھلائی کی اور پھر باز رہا۔

الکوخ و الکاخ جمہور پڑی۔ اور اسی سے ہے کوخ الصائد: کھیت یا باغ کی جمہور پڑی جس کو کاشت کار کھیت کی حفاظت کے لئے اور

باغیان باغ کی حفاظت کیلئے بنا لیا کرتے ہیں۔ ج اکواخ و کوحان و کئحان و کوحۃ۔ لیئۃ کاخ: تاریک رات۔

الکاحیۃ عند ارباب السیاسۃ: والی کا معتد۔ محافظ اسرار۔ یہ اصل میں کتھا تھا

تحریف ہو کر کادیہ بن گیا۔ ج کواخ (دخیل)

کادۃ یکودہ کوداً و کاد بنفسہ جان دینا۔

کاد یکاد کوداً و مکاداً و مکادۃ۔ فعل کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا۔ جیسے "کاد یضرب" مارنے کے قریب ہوا مگر مارا

نہیں۔ اور یہ افعال مقار بہ میں سے ہے اور اس کے خبر کے ساتھ حرف ان بہت کم آتا ہے اور کبھی ارادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور

اسی سے ہے اکاد اُخفیہا یعنی میں نے اس کو پوشیدہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اور "عزف ما یکاد منه" یعنی جو ارادہ کیا جائے۔ اور کاد کے عوض میں "کئد یفعل کذا" بھی سنا گیا ہے

اور کبھی "کاد" زائدہ ہوتا ہے اور کلام کا صلہ واقع ہوتا ہے جیسے "لم یکد یواھا" معنی میں لم بربھا کے۔

کود الشئی: جمع کرنا اور ایک ڈھیر بنانا۔ اکواداً اکونداذا۔ بوڑھا ہونا اور لرزہ زدہ ہونا۔

الکودۃ: مٹی وغیرہ کا تودہ۔

المکادۃ: س۔ کہا جاتا ہے "لا مہم لنی و لا مکادۃ" نہ تو مجھے اس کا قصد ہے اور نہ اس کے قریب ہوں۔

الکودن و الکودنی: غیر اصل گھوڑا۔ ہاتھی۔ چیر۔ ٹٹو۔ کودن کی جمع کوادین۔

کود الازار: ازار کا گرنا اور ران کے اوپر حصہ تک آجانا۔

الکادۃ: ران کے اوپر کا بھرا ہوا گوشت۔

الکادی: کیوڑہ۔

کار یکور کورا۔ العمام قو نحوھا علی راسہ: سر پر پگڑی باندھنا الارض:

زمین کھودنا۔

فی مشیتہ: تیز چلنا الحمال الکازۃ: گھمڑی اٹھانا (کیارا) الفرس ذنبہ: گھوڑے کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔

کوز العمامۃ: سر پر پگڑی باندھنا ہ

پچھاڑنا۔ نیزہ مار کر گردینا المتناع: تہ بہ تہ رکھنا اللہ اللیل علی النہار: ایک کو دوسرے میں داخل کرنا۔

کوزت الشمس: آفتاب کی روشنی کو تہ کر دینا اور بقول بعض مضمحل کر دینا۔

اکار اکازۃ علیہ: ضعیف و کمزور سمجھنا۔ ذلیل کرنا۔

تکور: گرنا۔ پچھاڑا جانا۔ تیز گزر جانا۔

اکتار اکتیارا: عمامہ باندھنا الفرس: دوڑنے میں دم اٹھانا الشئی: بعض کو بعض پر

تپکنا الرجل: تیز چلنا۔ پچھاڑا جانا۔ گرنا۔ کہا جاتا ہے "کودۃ فاکتار" یعنی اس نے اسے

پچھاڑا وہ گر گیا الرجل للرجل: گالی دینے کے لئے آمادہ ہونا۔

استکار استکارۃ: تیز دوڑنا۔ اپنی پیٹھ پر گھمڑی اٹھانا۔

الکار: ایک قسم کا جہاز۔ غلہ سے بھرا ہوا جہاز ج کازات۔

الکور: س۔ عمامہ کا بیچ۔ بڑی جماعت۔ اونٹوں یا گالیوں کا گلہ۔ زیادتی۔ ج اکوار۔

الکور: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "لہ کوز کوریم" اس کی طبیعت اچھی ہے۔

الکور: مٹی کی ل۔ ج اکوار و اکور و کیزان و کوزان۔ الکور: ہجڑوں کا چھتا۔ لوہار کی بھٹی۔ (والمکور) اونٹ کا

کیاؤ۔ کیاؤ مع سامان۔

الکازۃ من الثیاب: دھوپ کے کپڑوں کی گھمڑی۔ غلہ کی ایک مقدار معلوم۔ ج کازات۔

الکوزۃ: ضلع۔ ج کوز۔

الکوارۃ و الکوارۃ الکوارۃ: شہد کی مکھیوں کیلئے نشئی یا مٹی کا بنا یا ہوا گھر و بندہ۔ شہد

مع موم کے۔ الکوارۃ: عمامہ۔ پگڑی۔
والکوارۃ: تیز روڑ۔
الکوزار: ایک زہریلا پودا جس کو استعمال کیا
جائے تو انسانی پٹھے کمزور سے کمزور ہوتے جاتے
ہیں خاص کر اس وقت خطرناک ہوتی ہے۔ جب
زخمی انسان کے خون میں سرایت کر جائے۔
المکحور والمکحورۃ: عمامہ۔
المکحوری والمکحوری: فرومایہ۔ کمینہ۔
چوڑے بدن کا پستہ قد۔
کناز یکوز کوزا: کوزے سے پینا لشی
جمع کرنا۔
تکوز: القوم: قوم کا اکٹھا ہونا۔
اکناز: کوزے سے پینا لشی: کوزے سے لینا۔
الکوز: کوزہ۔ ج انگواز و کیزان و
کوزۃ: (دخیل)
مکوز الراس: لمبے سرو والا۔
الکاز: النقط: پیرول
کاس یکوس کوسا البعیر: ایک ٹانگ
کے زخمی ہونے کی وجہ سے تین ٹانگوں پر چلنا
فی السیر: آہستہ چلنا۔ کہا جاتا ہے "فلان
یکوس فی السیر" فلاں چلنے میں دیر کرتا
ہے علی راسہ: سر کے بل اٹک پڑنا
البیع: قیمت گھٹانا۔ کہا جاتا ہے "لا تکسبی
یا فلان فی البیع" اے فلاں میرے لئے
قیمت مت گھٹا لیتی: کنڈی مارنا۔
کاسہ واکاسہ اکاسہ: پچھاڑنا۔
کوس الشی علی راسہ: سر گوں کرنا۔
تکوس الرجل: سر گوں ہونا۔
تکواس لحمہ: گوشت کا تہ بہ تہ ہونا
العشب: گھاس کا گنجان اور بہت ہونا۔
اکناسہ عن حاجتہ: روکنا۔
الکاس: کاس کا مخفف۔ بمعنی پیالہ۔
الکوس: سر۔ دریا کا تلام۔ ڈوبنے کے
قریب ہونا۔
الکوس: ڈھول۔ ایک مثلث پیانہ جس کو
بڑھی استعمال کرتے ہیں۔ ج نخوسات
(دخیل) لمبعا کوسا۔ خشک گھاس کا

مٹھا۔ آپس میں ایک دوسرے پر لپٹنا ہوا۔ ج
کوس: رمال کوس: ریت تہ بہتہ ہما ہوا۔
الکوسی من الخیل: چھوٹی ٹانگوں والا
گھوڑا۔ مؤنث کوسیہ۔
المکاس: سانپ کے کنڈی مارنے کی جگہ۔
المکوس: چکی کے پتھر درست کرنے کی
چھینی جھکاوس
کوسج و تکوسج الرجل کوچ ہونا۔
الکوسج: صرف ٹھوڑی پر داڑھی والا۔ کم
دانتوں والا۔ آہستہ چلنے والا گھوڑا۔ ج کواسج
الکوسج: ایک قسم کی پھلی جس کی ٹانگ
آرہ کی طرح ہوتی ہے۔
کاش یکوش کوشا عندہ: بہت گھبرانا۔
الجاریبہ: جماع کرنا۔
کوع (س) کوعا: بڑے بند دست والا
ہونا۔ مڑے ہوئے بند دست والا ہونا۔ صفت۔
انوع مؤنث کوعاء ج کوع
کاع یکوع کوعا الکلب: گرمی کی وجہ
سے بند دست پر چلنا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے
بند دست پر چلنا۔
کوعہ بالسیف: تلوار مارنے سے بند دست
کا ٹیزھا کرنا۔
تکوعت یدہ: بند دست کا ٹیزھا ہونا۔
الکاع والکوع: انگوٹھے کی جانب
بند دست کا کنارہ۔ ج انکوع
الکوع: سر۔ بند دست کی ہڈی میں ٹیزھا پن
۔ پیر کے انگوٹھے کا دوسری انگلیوں کی طرف
بہت جھکاؤ۔
کاف یکوف کوف الاذیم: چڑے کے
کناروں کو ملا کر سینا۔
کوف الاذیم: نکلنے نکلنے کرنا لشی:
تلیحہ کرنا الکاف: حرف کاف لکھنا
الرجل: کوف میں آنا۔
تکوف القوم تکوفا و کوفانا علی
غیر القیاس جمع ہونا الرجل: اہل کوف کے
مشابہ ہونا یا اہل کوف کی طرف منسوب ہونا۔
الکوفۃ: عراق کے ایک شہر کا نام۔ ریت کا

گول سرخ نیلہ۔
الکوفی: کوفہ کی جانب منسوب۔ اور اسی
سے خط کوفی۔
الکوفیون: کوفہ کے نحوی حضرات۔
الکوفیۃ: کوفی کا مؤنث۔ سر پر پینینے کا رومال
اور عوام اے الکفیفہ کہتے ہیں۔
کوفت المرأة البتھا: عورت کا بچے کو گول
کپڑا لینا۔ الکافولیۃ: مربع شکل کا سفید کپڑا جو
کہ بچوں کو لینا جاتا ہے۔
الکوفان والکوفان والکوفان
والکوفان: گول تودہ ریت۔ گول چیز۔
عزت و شوکت و بلندی و مشقت۔ نرکل بانس۔
کلزی کا جھنڈا اور کہا جاتا ہے "ظلوا فی
کوفان من امرہم" ان کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا
"وہم فی کوفان من ذلك" وہ لوگ اس
سے عزت و شوکت میں ہیں۔ یعنی لوگ
گڑبڑی میں ہیں۔ کہا جاتا ہے "الناس فی
کوفی من امرہم"
الکوکۃ: ایک درخت جو دو یا تین میٹر سے زیادہ
لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انڈے کی شکل میں
ہوتے ہیں اس کو کاکین حاصل کیا جاتا ہے۔
الکوکائین: ایک نشہ آور مادہ جو "کوک" سے
نکالا جاتا ہے۔
کوکب الحدید: چمک اٹھنا۔ چم چم
کرنا۔
الکوکب: ستارہ۔ تلوار۔ پانی۔ گرمی کی
تختی۔ لوہے کی چمک دمک۔ لمبی بات۔ سردار
قوم۔ شہسوار قوم۔ بیخ۔ قید خانہ۔ ہتھیار بند۔
قریب البلوغ لڑکا۔ باغ کی کلی۔ فوج۔ پہاڑ۔
آنکھ کا پھولہ۔ چیز کا بڑا حصہ۔ شبنم جو گھاس
وغیرہ پر پڑی ہوئی ہوزمین کا خطہ کہ اس کا رنگ
دوسرے خطہ سے مختلف ہو۔ کوکب البتر:
کوکب کوکب۔ ج کوکاب۔ کہا جاتا ہے
"ذہبنا تحت ککب کوکب" یعنی متفرق
ہو گئے "و یوم ذو کوکاب" تختیوں والا
دن۔
الکوکبۃ: ایک ستارہ۔ ایک کلی۔ جماعت۔